


نظر ثانی و اضافہ شدہ ایڈیشن

دارالعلوم دیوبند کی جامع و مختصر تاریخ

ڈیڑھ سو سالہ حالات، خدمات اور شخصیات کا تاریخی مرقع



— زیر سرپرستی —

حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم
ہتتم دارالعلوم دیوبند

— ترتیب —

ڈاکٹر مولانا محمد اللہ قادری

شیخ الہند اکیڈمی دارالعلوم دیوبند

دارالعلوم دیوبند کی
جامع و مختصر تاریخ

ڈیڑھ سو سالہ حالات، خدمات اور شخصیات کا تاریخی مرقع

نظر ثانی و اضافہ شدہ ایڈیشن

— زیر پرستی —

حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم
ہتم دارالعلوم دیوبند

— ترتیب —

ڈاکٹر مولانا محمد اللہ قاسمی

شیخ الحدیث مولانا محمد الیاس ڈیوبند

© جملہ حقوق محفوظ ہیں

سلسلہ مطبوعات شیخ الہند اکیڈمی، دارالعلوم دیوبند: 59

زیر سرپرستی : حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی، مہتمم دارالعلوم دیوبند
زیر انتظام : حضرت مولانا بدرالدین اجمل قاسمی، ڈائریکٹر شیخ الہند اکیڈمی، دارالعلوم دیوبند

نام کتاب : دارالعلوم دیوبند کی جامع و مختصر تاریخ

مرتب : ڈاکٹر مولانا محمد اللہ قاسمی

صفحات : ۸۱۵

سن اشاعت : صفر ۱۴۴۲ھ / اکتوبر ۲۰۲۰ء

طبع اول : محرم ۱۴۳۸ھ / اکتوبر ۲۰۱۶ء

ٹائپ سیٹنگ : مولانا عبد الہادی قاسمی

ناشر : شیخ الہند اکیڈمی، دارالعلوم دیوبند

Book Title: Darul Uloom Deoband ki Jamey w Mukhtasar Tareekh

Author: Dr Maulana Muhammadullah Qasmi

Pages: 815

Year: 1442/2020

Published by:

Shaikhul Hind Academy

Darul Uloom Deoband, UP, India

www.darululoomdeoband.com

info@darululoomdeoband.com

اجمالی فہرست

پہلا باب: قیام دارالعلوم کاپس منظر اور نصب العین ۴۵-۸۴

- ہندوستان میں مسلمانوں کی علمی و دینی تاریخ _____ ۴۷
- ہندوستان میں مدارس اسلامیہ کی تاریخ _____ ۵۷
- قیام دارالعلوم کاپس منظر _____ ۶۴
- قیام دارالعلوم دیوبند _____ ۷۰
- دارالعلوم کانسب العین اور بنیادی اصول _____ ۷۵
- دارالعلوم دیوبند کیا ہے؟ _____ ۸۱

دوسرا باب: دارالعلوم دیوبند کا ڈیڑھ سو سالہ سفر ۸۵-۱۷۹

- دارالعلوم دیوبند کا پہلا دور (۱۲۸۳ھ تا ۱۳۱۳ھ) _____ ۸۷
- دارالعلوم دیوبند کا دوسرا دور (۱۳۱۳ھ تا ۱۳۲۸ھ) _____ ۹۷
- دارالعلوم دیوبند کا تیسرا دور (۱۳۲۸ھ تا ۱۴۰۱ھ) _____ ۱۰۷
- دارالعلوم دیوبند کا اجلاس صد سالہ _____ ۱۲۱
- دارالعلوم دیوبند کا موجودہ دور (ابتدا: ۱۴۰۱ھ/۱۹۸۱ء) _____ ۱۲۶
- جامعہ طبیہ دارالعلوم دیوبند _____ ۱۵۱
- موجودہ دور کی ترقیات _____ ۱۵۷
- عمارات دارالعلوم اور ان کا تعارف _____ ۱۶۲

تیسرا باب: علمائے دیوبند کا مسلک اور سلسلہ سند ۱۸۱-۲۰۰

- ۱۸۳ علمائے دیوبند کا مسلک و مشرب _____
- ۱۸۹ علمائے دیوبند کا فکری منہج _____
- ۱۹۴ علمائے دیوبند کا سلسلہ سند و استناد _____
- ۱۹۸ دارالعلوم دیوبند کی خصوصیات _____

چوتھا باب: دارالعلوم کا نظم و نسق اور شعبہ جات ۲۰۱-۲۳۵

- ۲۰۳ دارالعلوم کا نظم و نسق _____
- ۲۰۸ دارالعلوم کے تعلیمی شعبہ جات _____
- ۲۱۳ دارالعلوم کے انتظامی شعبہ جات _____
- ۲۲۴ دارالعلوم کے علمی و دعوتی شعبہ جات _____

پانچواں باب: دارالعلوم کا نصاب و نظام تعلیم ۲۳۷-۲۹۳

- ۲۳۹ مدارس اسلامیہ کا نصاب تعلیم _____
- ۲۴۵ دارالعلوم کا نظام تعلیم _____
- ۲۴۹ دارالعلوم کی تعلیمی خصوصیات _____
- ۲۵۵ درجات تعلیم _____
- ۲۵۸ نصاب تعلیم فاضل کورس (آٹھ سالہ) _____
- ۲۶۳ نصاب تعلیم تکمیلات و تخصصات _____
- ۲۷۵ نصاب تعلیم شعبہ تجوید و حفظ قرآن _____
- ۲۷۹ نصاب تعلیم دینیات اردو و فارسی (پرائمری) _____
- ۲۸۳ قواعد داخلہ _____
- ۲۸۸ طلبہ کی دیگر علمی و ثقافتی سرگرمیاں _____

چھٹا باب: خدمات دارالعلوم دیوبند ۲۹۵-۴۳۲

- دارالعلوم دیوبند: تجدید دین کی عالم گیر تحریک _____ ۲۹۷
- دارالعلوم دیوبند: دینی تعلیمی تحریک کا بین الاقوامی مرکز _____ ۳۰۶
- علمائے دیوبند اور تحفظ دین کی خدمات _____ ۳۱۲
- علمائے دیوبند اور عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ _____ ۳۱۹
- علمائے دیوبند اور ردِ شیعیت _____ ۳۲۸
- علمائے دیوبند اور شرک و بدعت کا مقابلہ _____ ۳۲۴
- علمائے دیوبند اور فتنہ عدم تقلید کا تعاقب _____ ۳۲۳
- غیر اسلامی افکار و تحریکات کے خلاف علمائے دیوبند کی خدمات _____ ۳۵۱
- علمائے دیوبند کی اصلاحی اور تبلیغی خدمات _____ ۳۵۸
- علمائے دیوبند کی قرآنی خدمات _____ ۳۶۵
- علمائے دیوبند اور خدمتِ حدیث _____ ۳۷۲
- علمائے دیوبند کی فقہی خدمات _____ ۳۸۵
- علمائے دیوبند اور خدماتِ عربی زبان و ادب _____ ۳۹۷
- علمائے دیوبند اور اردو زبان _____ ۴۰۷
- تحریک آزادی ہند اور علمائے دیوبند _____ ۴۱۶
- علمائے دیوبند کی ملی و سماجی خدمات _____ ۴۲۶

ساتواں باب: دارالعلوم دیوبند مشاہیر کی نظر میں ۴۳۳-۴۶۲

- دارالعلوم دیوبند مشاہیر کی نظر میں _____ ۴۳۵
- مشاہیر ہند نظر میں _____ ۴۳۶
- مشاہیر عرب و عجم کی نظر میں _____ ۴۴۰
- شعراء کے منظوم تاثرات _____ ۴۴۹

آٹھواں باب: علماء و اکابر دارالعلوم کے حالات ۴۶۳-۷۴۳

- دور اول کے علماء و اکابر دارالعلوم _____ ۴۶۵
- دور اول کے کلیدی عہدہ داران _____ ۴۶۷

- ۵۱۶ اراکین تاسیسی
- ۵۲۱ دور اول کے مشاہیر اساتذہ و مشائخ
- ۵۲۶ دور ثانی کے علماء و اکابر دارالعلوم
- ۵۲۸ دور ثانی کے کلیدی عہدہ داران
- ۵۶۴ دور ثانی کے اہم اراکین مجلس شوری
- ۵۶۸ دور ثانی کے مشاہیر اساتذہ
- ۵۷۹ دور ثالث کے علماء و اکابر دارالعلوم
- ۵۸۲ دور ثالث کے کلیدی عہدہ داران
- ۵۹۹ دور ثالث کے مشاہیر اراکین مجلس شوری
- ۶۲۶ دور ثالث کے مشاہیر اساتذہ و مشائخ
- ۶۳۹ موجودہ دور کے علماء و اکابر دارالعلوم
- ۶۴۲ موجودہ دور کے کلیدی عہدہ داران
- ۶۶۵ مشاہیر و موجودہ اراکین مجلس شوری
- ۶۷۹ موجودہ دور کے مشاہیر اساتذہ و مشائخ
- ۶۹۳ مشاہیر علماء و فضلاء دارالعلوم
- ۶۹۶ مشاہیر علماء و فضلاء دارالعلوم کے حالات

نواں باب: شخصیات دارالعلوم ایک نظر میں ۷۴۵-۸۱۵

- ۷۴۵ اہم عہدہ داران دارالعلوم
- ۷۵۳ اراکین مجلس شوری دارالعلوم دیوبند
- ۷۶۰ سابقہ اساتذہ عربی دارالعلوم دیوبند
- ۷۷۲ دیگر اساتذہ و معلمین
- ۷۸۱ نظماء و عہدہ داران دفاتر
- ۷۹۴ نقشہ تطبیق سن ہجری و عیسوی
- ۸۰۱ مآخذ و مراجع
- ۸۰۷ اکابر و علمائے دارالعلوم کا اشاریہ

تفصیلی فہرست

- تفصیلات _____ ۲
- اجمالی فہرست _____ ۳
- تفصیلی فہرست _____ ۷
- مقدمہ: حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی _____ ۳۵
- عرض ناشر: حضرت مولانا بدرالدین اجمل صاحب قاسمی _____ ۳۷
- پیش لفظ: مرتب _____ ۳۹
- پہلا باب: دارالعلوم دیوبند، پس منظر اور نصب العین _____ ۲۴ تا ۶۰
- ہندوستان میں مسلمانوں کی علمی و دینی تاریخ _____ ۴۷
- مسلم حکمرانوں کے تمدنی کارنامے _____ ۴۸
- مسلم حکمرانوں کے عہد میں تعلیمی ترقی _____ ۴۹
- اسلامی علوم و فنون کی ترقی _____ ۵۰
- ہندوستان میں علم تفسیر _____ ۵۱
- ہندوستان میں علم حدیث _____ ۵۲
- ہندوستان میں علم فقہ _____ ۵۳
- عہد اسلامی کی اصلاحی و تجدیدی تحریکات _____ ۵۵
- ہندوستان میں مدارس اسلامیہ کی تاریخ _____ ۵۷
- مدارس کا آغاز _____ ۵۹
- ہندوستان میں مدارس کا آغاز _____ ۵۹
- مدارس عہد مغلیہ میں _____ ۵۹
- مدرسہ نظامیہ فرنگی محل _____ ۶۱
- مدرسہ رحیمیہ دہلی _____ ۶۱

- قیام دارالعلوم کاپس منظر _____ ۶۴
- مسلم حکومت کا زوال _____ ۶۴
- برطانوی تعلیمی پالیسی اور عیسائی مشنریوں کی یلغار _____ ۶۵
- ۱۸۵۷ء میں علماء کا قتل عام اور مدارس کی بربادی _____ ۶۶
- روشنی کی کرن _____ ۶۷
- قیام دارالعلوم دیوبند _____ ۷۰
- تحریک چندہ _____ ۷۱
- افتتاح مدرسہ _____ ۷۱
- اعلان چندہ _____ ۷۱
- اراکین تاسیسی _____ ۷۲
- دیوبند اور اہل دیوبند _____ ۷۳
- دارالعلوم دیوبند کا نصب العین اور بنیادی اصول _____ ۷۵
- نصب العین کی تشریح _____ ۷۶
- حضرت نانوتویؒ کے اصول ہشتگانہ اور اس کی خصوصیات _____ ۷۷
- عوامی تعلق اور عام مسلمانوں میں تعلیم کا فروغ _____ ۷۸
- شورائی اور جمہوری نظام _____ ۷۹
- عوامی چندہ _____ ۷۹
- حکومتی امداد سے احتراز اور توکل علی اللہ _____ ۸۰
- دارالعلوم دیوبند کیا ہے؟ _____ ۸۱

دوسرا باب: دارالعلوم دیوبند کا ڈیڑھ سو سالہ سفر _____ ۸۵-۱۷۹

- دارالعلوم دیوبند کا پہلا دور (۱۲۸۳ھ تا ۱۳۱۳ھ) _____ ۸۷
- دارالعلوم دیوبند کا دوسرا دور (۱۳۱۳ھ تا ۱۳۲۸ھ) _____ ۱۰۱
- دارالعلوم دیوبند کا تیسرا دور (۱۳۲۸ھ تا ۱۴۰۱ھ) _____ ۱۰۷
- دارالعلوم دیوبند کا اجلاس صد سالہ _____ ۱۲۱

- ۱۲۱ _____ شرکائے اجلاس
- ۱۲۲ _____ کارروائی اجلاس
- ۱۲۳ _____ جلسہ گاہ
- ۱۲۵ _____ خلاصہ
- ۱۲۶ _____ ● دارالعلوم دیوبند کا موجودہ دور (ابتدا: ۱۳۰۱ھ/۱۹۸۱ء)
- ۱۵۱ _____ ● جامعہ طبیہ دارالعلوم دیوبند
- ۱۵۱ _____ جامعہ طبیہ کا قیام اور خدمات
- ۱۵۳ _____ جامعہ طبیہ اجلاس صد سالہ کے بعد
- ۱۵۴ _____ جامعہ طبیہ کو کیوں تحلیل کرنا پڑا؟
- ۱۵۷ _____ ● موجودہ دور کی ترقیات
- ۱۵۷ _____ تعلیمی نظام کی ترقیات
- ۱۵۹ _____ نظام داخلہ سے متعلق اصلاحات
- ۱۵۹ _____ دفاع اسلام سے متعلق شعبوں کا قیام
- ۱۶۰ _____ جدید تقاضوں سے ہم آہنگ شعبوں کا قیام
- ۱۶۰ _____ کل ہند رابطہ مدراس عربیہ کا قیام
- ۱۶۱ _____ تعمیراتی ترقیات
- ۱۶۲ _____ ● عمارت دارالعلوم اور ان کا تعارف
- ۱۶۲ _____ عمارت نودرہ (احاطہ مولسری)
- ۱۶۳ _____ دفتر اہتمام
- ۱۶۳ _____ دارالطلبہ (احاطہ باغ)
- ۱۶۳ _____ دفتر محاسبی
- ۱۶۳ _____ کتب خانہ
- ۱۶۵ _____ مسجد دارالعلوم (قدیم)
- ۱۶۶ _____ دارالحدیث
- ۱۶۸ _____ مسجد ریلوے اسٹیشن
- ۱۶۸ _____ دارالاقامہ (دارجدید)

۱۶۹	دارالحدیث فوقانی
۱۷۰	درس گاہ فارسی
۱۷۰	محافظ خانہ
۱۷۰	دارالتفسیر
۱۷۰	باب الظاہر
۱۷۱	دارالطعام (مطبخ)
۱۷۱	دارالافتاء
۱۷۱	دارالقرآن
۱۷۱	مہمان خانہ
۱۷۲	دارالشفاء و جامعہ طبیہ
۱۷۲	مسجد چھترہ کی توسیع
۱۷۳	افریقہ منزل قدیم
۱۷۳	افریقہ منزل جدید
۱۷۳	رواق خالد
۱۷۳	دارالمدرسین
۱۷۳	دارالتربیت
۱۷۴	مسجد رشید
۱۷۵	شیخ الہند منزل (اعظمی منزل)
۱۷۵	جیہ الاسلام منزل (مدرسہ ثانویہ)
۱۷۵	شیخ الاسلام منزل (آسامی منزل)
۱۷۶	حکیم الامت منزل (تحفیظ القرآن)
۱۷۶	دار جدید (تعمیر نو)
۱۷۷	شیخ الہند لائبریری
۱۷۷	جدید درس گاہیں
۱۷۸	جدید مطبخ
۱۷۸	جدید دارالمدرسین
۱۷۸	گذشتہ عشروں کی دیگر تعمیراتی سرگرمیاں

تیسرا باب: علمائے دیوبند کا مسلک اور سلسلہ سند ۱۸۱-۲۰۰

- علمائے دیوبند کا مسلک و مشرب ۱۸۳
- علم شریعت ۱۸۴
- پیروی طریقت ۱۸۴
- اتباع سنت ۱۸۴
- فقہی حقیقت ۱۸۶
- کلامی ماتریدیت ۱۸۶
- دفاع زلیخ و ضلالت ۱۸۶
- ذوق قاسمیت و رشیدیت ۱۸۶
- علمائے دیوبند کا فکری منہج ۱۸۹
- توحید ۱۹۰
- خاتم الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ ۱۹۰
- صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ۱۹۰
- صلحائے امت ۱۹۱
- فقہ اور فقہاء ۱۹۱
- فقہ میں سنت کی راہیں ۱۹۲
- علمائے دیوبند کا فکری اعتدال ۱۹۲
- علمائے دیوبند کا سلسلہ سند و استناد ۱۹۴
- دارالعلوم کا سلسلہ سند ۱۹۵
- اکابر دارالعلوم کا سلسلہ سند حدیث ۱۹۵
- اکابر دارالعلوم کا سلسلہ احسان و سلوک ۱۹۶
- دارالعلوم دیوبند کی خصوصیات ۱۹۸

چوتھا باب: دارالعلوم کا نظم و نسق اور شعبہ جات ۲۰۱-۲۳۵

- دارالعلوم کا نظم و نسق ۲۰۳
- دارالعلوم دیوبند کا دستور اساسی ۲۰۳

۲۰۴	_____	مجلس شوریٰ
۲۰۴	_____	مجلس عاملہ
۲۰۵	_____	مہتمم دارالعلوم
۲۰۵	_____	نائب مہتمم
۲۰۵	_____	صدر مدرس اور مجلس تعلیمی
۲۰۶	_____	ناظم تعلیمات
۲۰۶	_____	دفاتر و شعبہ جات
۲۰۶	_____	دارالعلوم کے تعلیمی شعبہ جات
۲۰۷	_____	دارالعلوم کے انتظامی شعبہ جات
۲۰۷	_____	دارالعلوم کے علمی و دعوتی شعبہ جات
۲۰۸	_____	دارالعلوم کے تعلیمی شعبہ جات ●
۲۰۸	_____	شعبہ عربی و تکمیلات
۲۰۹	_____	شعبہ انگریزی زبان و ادب
۲۱۰	_____	شعبہ کمپیوٹر
۲۱۱	_____	شعبہ جات کے تحت تعلیمی کورسز
۲۱۱	_____	شعبہ خوش خطی
۲۱۱	_____	شعبہ دارالصنائع
۲۱۱	_____	شعبہ تجوید و قرأت
۲۱۲	_____	شعبہ تحفیظ القرآن و ناظرہ
۲۱۲	_____	شعبہ دینیات اردو و فارسی
۲۱۳	_____	دارالعلوم کے انتظامی شعبہ جات ●
۲۱۳	_____	دفتر اہتمام
۲۱۳	_____	دفتر تعلیمات
۲۱۴	_____	شعبہ محاسبی
۲۱۴	_____	محافظ خانہ
۲۱۴	_____	کتب خانہ
۲۱۷	_____	شعبہ تنظیم و ترقی
۲۱۸	_____	دارالاقامہ

۲۱۸	شعبہ مطبخ
۲۱۹	شعبہ تعمیرات
۲۱۹	شعبہ اوقاف
۲۲۰	مکتبہ دارالعلوم
۲۲۰	شعبہ برقیات
۲۲۱	عظمت اسپتال
۲۲۱	مہمان خانہ
۲۲۱	شعبہ خریداری
۲۲۲	اشاک روم
۲۲۲	کمپیوٹر برائے کتابت
۲۲۲	دفتر صفائی و چمن بندی
۲۲۳	شعبہ مکاتب اسلامیہ
۲۲۴	دارالعلوم کے علمی و دعوتی شعبہ جات
۲۲۴	دارالافتاء
۲۲۵	شعبہ انٹرنیٹ و آن لائن فتویٰ
۲۲۷	شعبہ تبلیغ
۲۲۷	شیخ الہند اکیڈمی
۲۲۸	کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت
۲۲۹	شعبہ تحفظ سنت
۲۳۰	شعبہ مطالعہ ٹیکسائیت و دیگر مذاہب
۲۳۰	شعبہ محاضرات علمیہ
۲۳۱	دفتر ماہنامہ دارالعلوم
۲۳۲	دفتر مجلہ الداعی
۲۳۲	رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ
۲۳۲	شعبہ ترتیب فتاویٰ

پانچواں باب: دارالعلوم کا نصاب و نظام تعلیم ۲۳۷-۲۹۳

● مدارس اسلامیہ کا نصاب تعلیم ۲۳۹

- ۲۴۰ ہندوستانی مسلمانوں کا نصابِ تعلیم
- ۲۴۰ پہلا دور
- ۲۴۱ دوسرا دور
- ۲۴۱ تیسرا دور
- ۲۴۱ چوتھا دور
- ۲۴۲ دارالعلوم دیوبند اور اس سے ملحقہ مدارس کا نصاب
- ۲۴۵ دارالعلوم کا نظامِ تعلیم ●
- ۲۴۵ اوقاتِ تعلیم
- ۲۴۵ امتحانات
- ۲۴۶ قوانینِ امتحان
- ۲۴۶ مفتِ تعلیم اور وظائف
- ۲۴۸ تقسیمِ انعام
- ۲۴۸ تصدیقِ نامہ اور سند
- ۲۴۹ دارالعلوم کی تعلیمی خصوصیات ●
- ۲۵۰ مفتِ تعلیم
- ۲۵۱ غیر فاصلاتی تعلیم
- ۲۵۱ تعلیمی آزادی
- ۲۵۲ طلب علم کا اعلیٰ مقصد
- ۲۵۳ اعلیٰ روحانی و اخلاقی قدریں
- ۲۵۵ درجاتِ تعلیم ●
- ۲۵۵ فاضل کورس
- ۲۵۶ تکمیلات و تخصصات
- ۲۵۷ تجوید و حفظِ قرآن
- ۲۵۷ دینیاتِ اردو و فارسی
- ۲۵۸ نصابِ تعلیمِ فاضل کورس ●
- ۲۵۸ سالِ اولِ عربی
- ۲۵۹ سالِ دومِ عربی
- ۲۵۹ سالِ سومِ عربی

۲۶۰	سال چہارم عربی
۲۶۰	سال پنجم عربی
۲۶۱	سال ششم عربی
۲۶۱	سال ہفتم عربی (موقوف علیہ)
۲۶۲	سال ہشتم عربی (دورہ حدیث)
۲۶۳	نصاب تعلیم تکمیلات و تخصصات
۲۶۳	درجات تکمیلات و تخصصات
۲۶۳	تدریب فی التدریس (دو سال)
۲۶۴	محکمیل تفسیر
۲۶۴	تخصص فی الحدیث (سال اول)
۲۶۵	تخصص فی الحدیث (سال دوم)
۲۶۵	محکمیل افتاء (ایک سال)
۲۶۶	تدریب فی الافتاء (دو سال)
۲۶۷	محکمیل علوم (ایک سال)
۲۶۸	محکمیل ادب عربی (ایک سال)
۲۶۸	تخصص فی الادب (ایک سال)
۲۶۹	ڈپلومہ ان انگلش لنگویج اینڈ لٹریچر (دو سال)
۲۷۰	ڈپلومہ ان کمپیوٹر اپلیکیشن (ایک سال)
۲۷۰	ڈپلومہ برائے انشاء و صحافت (ایک سال)
۲۷۱	تحفظ ختم نبوت (ایک سال)
۲۷۱	مطالعہ عیسائیت و دیگر مذاہب (ایک سال)
۲۷۲	تحف سنت (مطالعہ غیر مقلدیت) (ایک سال)
۲۷۲	محاضرات علمیہ (مطالعہ ادیان و فرق)
۲۷۳	خوش خطی (ایک سال)
۲۷۴	خیاطی (ایک سال)
۲۷۵	نصاب تعلیم شعبہ تجوید و حفظ قرآن
۲۷۵	قرأت عشرہ (ایک سال)
۲۷۵	قرأت سبعمہ (ایک سال)

- ۲۷۶ _____ تجوید بروایت حفص عربی (ایک سال)
- ۲۷۶ _____ تجوید بروایت حفص اردو (دو سال)
- ۲۷۷ _____ حفظ قرآن
- ۲۷۸ _____ ناظرہ قرآن
- ۲۷۹ _____ نصابِ تعلیم دینیات اردو و فارسی (پرائمری)
- ۲۷۹ _____ درجہ اطفال
- ۲۷۹ _____ درجہ اول
- ۲۸۰ _____ درجہ دوم
- ۲۸۰ _____ درجہ سوم
- ۲۸۱ _____ درجہ چہارم (فارسی)
- ۲۸۱ _____ درجہ پنجم (فارسی)
- ۲۸۳ _____ قواعد داخلہ
- ۲۸۳ _____ جدید طلبہ کے لیے
- ۲۸۵ _____ عام ضوابط
- ۲۸۵ _____ غیر ملکی جدید طلبہ کے لیے
- ۲۸۶ _____ قدیم طلبہ کے لیے
- ۲۸۸ _____ طلبہ کی دیگر علمی و ثقافتی سرگرمیاں
- ۲۸۹ _____ مدنی دارالمطالعہ
- ۲۸۹ _____ النادی الادبی
- ۲۹۰ _____ انجمن تقویۃ الایمان
- ۲۹۱ _____ بزم سجاد
- ۲۹۱ _____ دیگر انجمنیں
- ۲۹۲ _____ تقریر و خطابت
- ۲۹۲ _____ تحریر و انشاء پر دازی
- ۲۹۳ _____ مطالعہ و تحقیق

چھٹا باب: خدمات دارالعلوم دیوبند _____ ۲۹۵-۲۳۲

- دارالعلوم دیوبند: تجدید دین کی عالم گیر تحریک _____ ۲۹۷
- عالم اسلام کی موثر ترین دینی تحریک _____ ۲۹۷
- برصغیر میں احیائے اسلام کا مرکز _____ ۲۹۸
- عالمی دینی تعلیمی تحریک کا مرکز _____ ۲۹۹
- دفاع اسلام کا مضبوط قلعہ _____ ۳۰۰
- عیسائیت کا مقابلہ _____ ۳۰۱
- ہندو احیاء پرستی کا مقابلہ _____ ۳۰۱
- قادیانیت کا مقابلہ _____ ۳۰۱
- شیعیت کا مقابلہ _____ ۳۰۲
- شُرک و بدعت کا مقابلہ _____ ۳۰۲
- غیر مقلدیت کا مقابلہ _____ ۳۰۳
- نیچریت اور غیر اسلامی افکار و خیالات کا مقابلہ _____ ۳۰۳
- مرکز تجدید و احیائے دین _____ ۳۰۴
- دارالعلوم دیوبند: دینی تعلیمی تحریک کا بین الاقوامی مرکز _____ ۳۰۶
- دارالعلوم کے طرز پر مدارس کا قیام _____ ۳۰۷
- ہندوستان میں اسلامی مدارس کا جال _____ ۳۰۸
- بیرون ممالک میں دارالعلوم کے طرز پر مدارس کا قیام _____ ۳۰۹
- فیضان دارالعلوم دیوبند _____ ۳۱۱
- علمائے دیوبند اور تحفظ دین کی خدمات _____ ۳۱۲
- عیسائیت کی یلغار کے خلاف میدان میں _____ ۳۱۲
- آریہ سماج کا فتنہ اور اس کی سرکوبی _____ ۳۱۲
- فتنہ ارتداد اور ہندو احیاء پرستی کا مقابلہ _____ ۳۱۶
- علمائے دیوبند اور عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ _____ ۳۱۹
- مرزا غلام احمد کی تکفیر اور قادیانیت کی سرکوبی _____ ۳۱۹

- ۳۲۱ پاکستان میں قادیانیت کی بیخ کنی
- ۳۲۲ رابطہ عالم اسلامی کی متفقہ قرارداد
- ۳۲۲ قادیانیت کی ہندوستان واپسی اور دارالعلوم دیوبند کی خدمات
- ۳۲۴ رد قادیانیت پر علمائے دیوبند کی تصنیفی خدمات ایک نظر میں
- ۳۲۸ دارالعلوم دیوبند اور رد شیعیت
- ۳۲۸ ہندوستان سے شیعہ اثرات کا ازالہ
- ۳۳۰ ناموس صحابہ کا دفاع
- ۳۳۱ ایران کا شیعہ انقلاب
- ۳۳۱ رد شیعیت میں علمائے دیوبند کی تصنیفی خدمات
- ۳۳۲ علمائے دیوبند اور شرک و بدعت کا مقابلہ
- ۳۳۲ ہندوستان میں مسلمانوں کی مذہبی و سماجی حالت
- ۳۳۵ علمائے حق میدان کارزار میں
- ۳۳۵ قرآن و حدیث کی تعلیمات کی اشاعت
- ۳۳۶ تزکیہ باطن اور اتباع سنت کی تحریک
- ۳۳۶ وہابیت کا الزام
- ۳۳۷ احمد رضا خان صاحب کی تکفیری مہم
- ۳۳۸ رضا خانیت کا تعاقب
- ۳۳۹ رد بدعت میں علمائے دیوبند کی علمی خدمات
- ۳۳۳ علمائے دیوبند اور فتنہ عدم تقلید کا تعاقب
- ۳۳۴ علمائے دیوبند کا رد عمل
- ۳۳۴ درس حدیث کا نیا طریقہ
- ۳۳۵ مختلف فیہ مسائل پر تحریریں
- ۳۳۶ غیر مقلدیت سلفیت کے پردے میں
- ۳۳۷ فقہ اور فقہاء کے سلسلہ میں علمائے دیوبند کا موقف
- ۳۳۷ رد غیر مقلدیت میں علمائے دیوبند کی علمی خدمات
- ۳۵۱ غیر اسلامی افکار و تحریکات کے خلاف علمائے دیوبند کی خدمات
- ۳۵۱ فتنہ اعتراف ال جدید
- ۳۵۲ تحریک خاکسار

- ۳۵۲ _____ فقہہ انکار حدیث
- ۳۵۳ _____ مودودیت یا جماعت اسلامی
- ۳۵۶ _____ رمدودیت میں علمائے دیوبند کی علمی خدمات
- ۳۵۸ _____ ● علمائے دیوبند کی اصلاحی و تبلیغی خدمات
- ۳۵۸ _____ خانقاہوں کے ذریعہ اصلاحی خدمات
- ۳۶۰ _____ علم تصوف میں تصنیفی خدمات
- ۳۶۲ _____ شعبہ تبلیغ دارالعلوم دیوبند
- ۳۶۳ _____ تبلیغی جماعت
- ۳۶۵ _____ ● علمائے دیوبند کی قرآنی خدمات
- ۳۶۶ _____ ترجمہ قرآن، تفسیر اور علوم قرآنی پر علمائے دیوبند کی تصنیفات
- ۳۶۶ _____ تراجم قرآن
- ۳۶۷ _____ تفاسیر قرآن
- ۳۶۹ _____ متعلقات قرآن
- ۳۷۱ _____ تجوید و قرأت
- ۳۷۲ _____ ● علمائے دیوبند اور خدمت حدیث
- ۳۷۷ _____ صحیح بخاری اور علمائے دیوبند کی خدمات
- ۳۷۹ _____ صحیح مسلم اور علمائے دیوبند کی خدمات
- ۳۷۹ _____ سنن ترمذی کی خدمات
- ۳۸۰ _____ بقیہ کتب ستہ کی خدمات
- ۳۸۱ _____ دیگر کتب حدیث کی خدمات
- ۳۸۲ _____ مجموعہ احادیث و کتب متعلقہ
- ۳۸۵ _____ ● علمائے دیوبند کی فقہی خدمات
- ۳۸۶ _____ دارالافتاء
- ۳۸۷ _____ آن لائن فتویٰ
- ۳۸۷ _____ مدارس اسلامیہ میں قائم دارالافتاء
- ۳۸۸ _____ امارت شرعیہ
- ۳۸۸ _____ ادارۃ المباحث الفقہیہ اور اسلامک فقہ اکیڈمی
- ۳۸۹ _____ مجموعہ فتاویٰ

- ۳۹۱ _____ فقہ القرآن والحديث
- ۳۹۲ _____ تدوین فقہ، اصول فقہ، اسرار شریعت، وغیرہ پر تصنیفات
- ۳۹۳ _____ کتب فقہیہ اور فقہی مسائل پر تصنیفات
- ۳۹۴ _____ جدید مسائل پر تصنیفات
- ۳۹۵ _____ شروح کتب فقہ
- ۳۹۵ _____ مشاہیر مفتیان و فقہائے کرام
- ۳۹۷ _____ ● علمائے دیوبند کی عربی زبان و ادب کی خدمات
- ۳۹۷ _____ علمائے دیوبند کی عربی دانی
- ۳۹۷ _____ علمائے دیوبند کی عربی شاعری
- ۳۹۷ _____ دارالعلوم دیوبند اور عربی صحافت
- ۳۹۹ _____ علم قرآن و تفسیر
- ۴۰۰ _____ علم حدیث
- ۴۰۲ _____ علم فقہ
- ۳۹۹ _____ علم عقائد و کلام
- ۴۰۳ _____ سیرت و تاریخ اور سوانح و ادب
- ۴۰۴ _____ لغات و نصابی کتب
- ۴۰۵ _____ اردو کتابوں کے عربی تراجم
- ۴۰۷ _____ ● علمائے دیوبند اور اردو زبان
- ۴۰۷ _____ اردو کا ارتقاء اور علمائے دیوبند
- ۴۰۸ _____ اردو زبان میں تصنیف و تالیف
- ۴۱۰ _____ دارالمصنفین دہلی
- ۴۱۱ _____ علمائے دیوبند کی اردو شاعری
- ۴۱۲ _____ اردو صحافت اور علمائے دیوبند
- ۴۱۲ _____ اردو اور مدارس اسلامیہ
- ۴۱۳ _____ اردو اور مسلمان
- ۴۱۴ _____ ● تحریک آزادی ہند اور علمائے دیوبند
- ۴۱۷ _____ معرکہ ۱۸۵۷ء میں اکابرین دیوبند کی شرکت
- ۴۱۸ _____ دارالعلوم دیوبند: مجاہدین حریت کی چھاؤنی

- ۲۱۸ _____ تحریک شیخ الہند
- ۲۲۲ _____ جمعیتہ علمائے ہند اور جدوجہد آزادی
- ۲۲۶ _____ ● علمائے دیوبند کی ملی اور سماجی خدمات
- ۲۲۶ _____ جمعیتہ علمائے دیوبند اور اس کی ملی و سماجی خدمات
- ۲۲۹ _____ مسلم پرسنل لائحہ عمل
- ۲۳۰ _____ مسلم پرسنل لا بورڈ کا قیام
- ۲۳۱ _____ دہشت گردی کی مخالفت اور امن پسندی

ساتواں باب: دارالعلوم دیوبند مشاہیر کی نظر میں _____ ۲۳۳-۲۶۲

- ۲۳۵ _____ ● دارالعلوم دیوبند مشاہیر کی نظر میں
- ۲۳۶ _____ ● مشاہیر ہند کی نظر میں
- ۲۳۶ _____ مولانا ابوالکلام آزاد
- ۲۳۶ _____ مولانا شوکت علی
- ۲۳۶ _____ ڈاکٹر راجندر پرشاد
- ۲۳۶ _____ نواب بہادر یار جنگ
- ۲۳۷ _____ شیخ محمد عبداللہ، کشمیر
- ۲۳۷ _____ مولانا عبدالباری فرنگی مٹھی
- ۲۳۷ _____ نواب لطیف یار جنگ بہادر
- ۲۳۸ _____ فخر الدین علی احمد
- ۲۳۸ _____ بی گوپال ریڈی
- ۲۳۸ _____ پروفیسر ہمایوں کبیر
- ۲۳۹ _____ اکبر علی خاں
- ۲۳۹ _____ حکیم عبدالحمید
- ۲۴۰ _____ ● مشاہیر عرب و عجم کی نظر میں
- ۲۴۰ _____ محمد ظاہر شاہ درانی
- ۲۴۰ _____ سردار نجیب اللہ خاں

- ۲۴۰ سید رشید رضا مصری
- ۲۴۱ انور السادات
- ۲۴۱ شیخ عبدالفتاح ابو غده شامی
- ۲۴۲ شیخ الازہر عبدالجلیم محمود
- ۲۴۲ شیخ محمد الحکیم (مفتی حلب، شام)
- ۲۴۳ شیخ محمد الفحام
- ۲۴۳ شیخ یوسف السید ہاشم الرفاعی
- ۲۴۴ شیخ عبداللہ عمر نصیف
- ۲۴۴ شیخ عبداللہ عبدالرحمن التری
- ۲۴۴ شیخ محمد بن عبداللہ السبیل
- ۲۴۵ شیخ عائض ابن عبداللہ القرنی
- ۲۴۶ شیخ محمد عوامہ
- ۲۴۶ شیخ عبدالرحمن السدیس
- ۲۴۷ شیخ سعود بن ابراہیم الشریم
- ۲۴۷ شیخ صالح بن عبدالعزیز بن محمد آل اشخ
- ۲۴۸ شیخ صالح محمد بن ابراہیم آل طالب
- ۲۴۹ شعراء کے منظوم تاثرات
- ۲۴۹ ترانہ دارالعلوم دیوبند — مولانا ریاست علی ظفر بجنوری
- ۲۵۲ قدیم ترانہ دارالعلوم دیوبند — مولانا عبدالرؤف منصف اعظمی
- ۲۵۰ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور دارالعلوم دیوبند — حضرت مولانا نسیم احمد فریدی
- ۲۵۵ دارالعلوم دیوبند — مولانا ظفر علی خان مرحوم
- ۲۵۶ مظہر نور خدا دارالعلوم — جناب عثمان شاگرد دیوبندی
- ۲۵۷ چمنستان دیوبند — جناب صابر مظفر آبادی، کشمیر
- ۲۵۸ وہ پہلا گھر علوم کا ہندوستان میں — مولانا محمد عثمان قاسمی جو پوری
- ۲۵۹ دیوبند! اے مرکز اسلام! تو زندہ رہے — حکیم آزاد شیرازی
- ۲۶۰ دارالعلوم دیوبند — جناب اکرام القادری، پاکستان
- ۲۶۱ دارالعلوم دیوبند — جناب زبیر افضل عثمانی

آٹھواں باب: علماء و اکابر دارالعلوم کے حالات _____ ۴۶۳-۷۴۳

- دور اول کے علماء و اکابر دارالعلوم _____ ۴۶۵
- دور اول کے کلیدی عہدہ داران _____ ۴۶۷
- حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتویؒ _____ ۴۶۷
- حضرت حاجی سید عابد حسین دیوبندیؒ _____ ۴۷۹
- حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ _____ ۴۸۷
- حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتویؒ _____ ۴۹۲
- حضرت مولانا رفیع الدین صاحبؒ _____ ۴۹۸
- حضرت حاجی فضل حق صاحبؒ _____ ۵۰۱
- حضرت مولانا محمد منیر صاحب نانوتویؒ _____ ۵۰۳
- حضرت مولانا سید احمد صاحب دہلویؒ _____ ۵۰۵
- شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندیؒ _____ ۵۰۷
- حضرت مولانا عبدالرحیم رائے پوریؒ _____ ۵۱۳
- اراکین تاسیسی _____ ۵۱۶
- حضرت مولانا مہتاب علی دیوبندیؒ _____ ۵۱۶
- حضرت مولانا ذوالفقار علی دیوبندیؒ _____ ۵۱۷
- حضرت مولانا فضل الرحمن عثمانی _____ ۵۱۸
- حضرت شیخ نہال احمد دیوبندیؒ _____ ۵۱۹
- دور اول کے مشاہیر اساتذہ و مشائخ _____ ۵۲۱
- حضرت مولانا ملا محمد محمود دیوبندیؒ _____ ۵۲۱
- حضرت مولانا میر باز خان تھانویؒ _____ ۵۲۱
- حضرت مولانا فتح محمد تھانویؒ _____ ۵۲۲
- حضرت مولانا صدیق احمد انیسٹھویؒ _____ ۵۲۲
- حضرت مولانا عبدالعلی میرٹھیؒ _____ ۵۲۳
- حضرت مولانا خلیل احمد انیسٹھویؒ _____ ۵۲۳

- ۵۲۵ _____ حضرت مولانا عبدالقدیر دیوبندیؒ
- ۵۲۶ _____ ● دورثانی کے علماء و اکابر دارالعلوم
- ۵۲۸ _____ ● دورثانی کے کلیدی عہدہ داران
- ۵۲۸ _____ حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحبؒ
- ۵۳۲ _____ حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانیؒ
- ۵۳۵ _____ حضرت مولانا شرف علی تھانویؒ
- ۵۴۰ _____ حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیریؒ
- ۵۴۵ _____ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنیؒ
- ۵۵۰ _____ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانیؒ
- ۵۵۴ _____ حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن دیوبندیؒ
- ۵۵۸ _____ حضرت مولانا اعجاز علی امرہویؒ
- ۵۶۱ _____ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندیؒ
- ۵۶۴ _____ ● دورثانی کے اہم اراکین مجلس شوری
- ۵۶۴ _____ حضرت مولانا احمد حسن امرہویؒ
- ۵۶۵ _____ حضرت مولانا عبدالحق پور قاضویؒ
- ۵۶۶ _____ حضرت مولانا قاضی محی الدین مراد آبادیؒ
- ۵۶۶ _____ حضرت مولانا حکیم جمیل الدین ٹیکنویؒ
- ۵۶۷ _____ حضرت مولانا حکیم محمد اسحاق کھوریؒ
- ۵۶۸ _____ ● دورثانی کے مشاہیر اساتذہ
- ۵۶۸ _____ حضرت مولانا حکیم محمد حسن دیوبندیؒ
- ۵۶۸ _____ حضرت مولانا غلام رسول ہزارویؒ
- ۵۶۹ _____ حضرت مولانا مرتضیٰ حسن چاند پوریؒ
- ۵۷۰ _____ حضرت مولانا مفتی محمد سہول بھاگلپوریؒ
- ۵۷۱ _____ حضرت مولانا نبیہ حسن دیوبندیؒ
- ۵۷۲ _____ حضرت مولانا عبدالسیح دیوبندیؒ
- ۵۷۲ _____ حضرت مولانا سید اصغر حسین دیوبندیؒ
- ۵۷۴ _____ حضرت مولانا رسول خان ہزارویؒ
- ۵۷۴ _____ حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ

- ۵۷۶ _____ حضرت مولانا میرک شاہ کشمیریؒ
- ۵۷۷ _____ حضرت مولانا بدر عالم میرٹھیؒ
- ۵۷۹ _____ ● دور ثالث کے علماء و اکابر دارالعلوم
- ۵۸۲ _____ ● دور ثالث کے کلیدی عہدہ داران
- ۵۸۲ _____ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحبؒ
- ۵۸۷ _____ حضرت علامہ محمد ابراہیم صاحب بلیاویؒ
- ۵۹۰ _____ حضرت مولانا سید فخر الدین احمد مراد آبادیؒ
- ۵۹۲ _____ حضرت مفتی سید مہدی حسن شاہ جہانپوریؒ
- ۵۹۷ _____ حضرت مولانا سید فخر الحسن مراد آبادیؒ
- ۵۹۸ _____ حضرت مولانا شریف الحسن دیوبندیؒ
- ۵۹۹ _____ ● دور ثالث کے مشاہیر اراکین مجلس شوری
- ۵۹۹ _____ حضرت مولانا محمد صادق کراچویؒ
- ۶۰۰ _____ حضرت مولانا مناظر احسن گیلانیؒ
- ۶۰۱ _____ حضرت مولانا محمد الیاس کاندھلویؒ
- ۶۰۲ _____ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلویؒ
- ۶۰۲ _____ حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوریؒ
- ۶۰۲ _____ حضرت مولانا حفظ الرحمن سیوہارویؒ
- ۶۰۶ _____ حضرت مولانا خیر محمد جالندھریؒ
- ۶۰۷ _____ حضرت مولانا شبیر علی تھانویؒ
- ۶۰۸ _____ حضرت مولانا محمد منظور نعمانیؒ
- ۶۰۹ _____ حضرت مولانا احمد سعید دہلویؒ
- ۶۱۰ _____ حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمن عثمانیؒ
- ۶۱۱ _____ حضرت مولانا سید سلیمان ندویؒ
- ۶۱۲ _____ حضرت مولانا سید محمد میاں دیوبندیؒ
- ۶۱۳ _____ حضرت مولانا ڈاکٹر مصطفیٰ حسن علویؒ
- ۶۱۴ _____ حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلویؒ
- ۶۱۵ _____ حضرت مولانا حبیب الرحمن محدث اعظمیؒ
- ۶۱۶ _____ حضرت مولانا مفتی محمود احمد نانوتویؒ

- ۶۱۷ _____ حضرت مولانا منت اللہ رحمانی
- ۶۱۹ _____ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالعلی لکھنوی
- ۶۱۹ _____ حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی
- ۶۲۰ _____ حضرت مولانا حامد الانصاری غازی
- ۶۲۱ _____ حضرت مولانا سید جمید الدین فیض آبادی
- ۶۲۲ _____ حضرت مولانا قاضی زین العابدین سجاد میرٹھی
- ۶۲۳ _____ حضرت مولانا سعید احمد اکبر آبادی
- ۶۲۴ _____ حضرت مولانا عبدالحمید جون پوری
- ۶۲۶ _____ دور ثالث کے مشاہیر اساتذہ و مشائخ
- ۶۲۶ _____ حضرت مولانا قاضی مسعود احمد دیوبندی
- ۶۲۶ _____ حضرت مولانا میاں سید اختر حسین دیوبندی
- ۶۲۷ _____ حضرت مولانا مفتی ریاض الدین بجنوری
- ۶۲۷ _____ حضرت مولانا ظہور احمد دیوبندی
- ۶۲۸ _____ حضرت مولانا محمد جلیل علوی کیرانوی
- ۶۲۸ _____ حضرت مولانا عبدالحق نافع گل پشوری
- ۶۲۹ _____ حضرت مولانا شمس الحق افغانی پشوری
- ۶۳۰ _____ حضرت مولانا سید حسن دیوبندی
- ۶۳۰ _____ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ گنگوہی
- ۶۳۱ _____ حضرت مولانا عبدالاحد دیوبندی
- ۶۳۱ _____ حضرت مولانا بشیر احمد بلند شہری
- ۶۳۲ _____ حضرت مولانا عبدالحق اکوڑوی
- ۶۳۲ _____ حضرت مولانا مفتی محمد فاروق انیسٹھوی
- ۶۳۴ _____ حضرت مولانا عبدالشکور دیوبندی
- ۶۳۴ _____ حضرت مولانا محمد نعیم دیوبندی
- ۶۳۵ _____ حضرت مولانا محمد سالم قاسمی
- ۶۳۵ _____ حضرت مولانا سید انظر شاہ کشمیری
- ۶۳۶ _____ حضرت مولانا اسلام الحق اعظمی
- ۶۳۷ _____ حضرت مولانا خورشید عالم دیوبندی

- ۶۳۸ _____ حضرت سید محبوب رضویؒ
- ۶۳۹ _____ ● موجودہ دور کے علماء و اکابر دارالعلوم
- ۶۴۲ _____ ● موجودہ دور کے کلیدی عہدہ داران
- ۶۴۲ _____ حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب بجنوریؒ
- ۶۴۷ _____ حضرت مولانا معراج الحق دیوبندیؒ
- ۶۴۹ _____ حضرت مولانا نصیر احمد خان بلند شہریؒ
- ۶۵۲ _____ حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہیؒ
- ۶۵۵ _____ حضرت مولانا مفتی نظام الدین اعظمیؒ
- ۶۵۷ _____ حضرت مولانا غلام رسول خاموش گجراتیؒ
- ۶۵۹ _____ حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالپوریؒ
- ۶۶۱ _____ حضرت مولانا غلام محمد دستاویؒ
- ۶۶۲ _____ حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانیؒ
- ۶۶۴ _____ حضرت مولانا سید ارشد مدنیؒ
- ۶۶۵ _____ ● مشاہیر و موجودہ اراکین مجلس شوری (تا ۱۳۴۰ء)
- ۶۶۵ _____ حضرت مولانا محمد عثمان دیوبندیؒ
- ۶۶۵ _____ حضرت مولانا قاری صدیق احمد باندویؒ
- ۶۶۶ _____ حضرت مولانا سید اسعد مدنیؒ
- ۶۶۷ _____ حضرت مولانا مفتی منظور احمد مظاہریؒ
- ۶۶۸ _____ حضرت مولانا محمد یعقوب مدراسیؒ
- ۶۶۸ _____ حضرت مولانا نازہر نعمانی رانچویؒ
- ۶۶۹ _____ حضرت مولانا بدر الدین اجمل قاسمی آسامیؒ
- ۶۷۰ _____ حضرت مولانا نظام الدین پٹنویؒ
- ۶۷۰ _____ حضرت مولانا عبد العظیم فاروقیؒ
- ۶۷۱ _____ حضرت مولانا سید خلیل حسین دیوبندیؒ
- ۶۷۱ _____ حضرت مولانا محمد طلحہ کاندھلویؒ
- ۶۷۲ _____ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندویؒ
- ۶۷۲ _____ حضرت مولانا محمد اسماعیل مالکانویؒ
- ۶۷۳ _____ حضرت مولانا محمد اشتیاق مظفر پوریؒ
- ۶۷۳ _____ حضرت مولانا ملک محمد ابراہیم مدراسیؒ

۶۷۴	حضرت حکیم محمد کلیم اللہ علی گڑھی
۶۷۴	حضرت مولانا مفتی احمد خان پوری
۶۷۵	حضرت مولانا محمد رحمت اللہ کشمیری
۶۷۵	حضرت مولانا انوار الرحمن بجنوری
۶۷۶	حضرت مولانا سرار الحق قاسمی
۶۷۶	حضرت مولانا محمود حسن راجستھانی
۶۷۷	حضرت مولانا عبدالصمد کالیکا پوری
۶۷۷	حضرت مولانا نظام الدین خاموش
۶۷۸	حضرت مولانا سید انظر حسین دیوبندی
۶۷۹	● موجودہ دور کے مشاہیر اساتذہ و مشائخ
۶۷۹	حضرت مولانا محمد حسین بہاری
۶۷۹	حضرت مفتی ظفر الدین مفتاحی
۶۸۱	حضرت مولانا وحید الزماں کیرانوی
۶۸۲	حضرت مولانا قمر الدین گورکھپوری
۶۸۲	حضرت مولانا زبیر احمد دیوبندی
۶۸۳	حضرت مولانا ریاست علی بجنوری
۶۸۳	حضرت مولانا عبدالخالق مدراسی
۶۸۳	حضرت مولانا عبدالحق اعظمی
۶۸۵	حضرت مولانا نعمت اللہ اعظمی
۶۸۶	حضرت مولانا قاری محمد عثمان منصور پوری
۶۸۶	حضرت حبیب الرحمن قاسمی اعظمی
۶۸۷	حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی
۶۸۷	حضرت مولانا مجیب اللہ گونڈوی
۶۸۸	حضرت مفتی محمد امین پالن پوری
۶۸۸	حضرت مفتی حبیب الرحمن خیر آبادی
۶۸۹	حضرت مولانا عبدالخالق سنبھلی
۶۸۹	حضرت مولانا مفتی محمد یوسف تاولوی

- ۶۹۰ حضرت مولانا محمد احمد فیض آبادی
- ۶۹۰ حضرت مولانا قاضی اطہر مبارک پوری
- ۶۹۱ حضرت مولانا جمیل احمد سکروڈوی
- ۶۹۳ ● مشاہیر علماء و فضلاء دارالعلوم
- ۶۹۶ ● مشاہیر علماء و فضلاء دارالعلوم کے حالات
- ۶۹۶ حضرت مولانا فخر الحسن گنگوہی
- ۶۹۶ حضرت مولانا محمد مراد فاروقی مظفرنگری
- ۶۹۷ حضرت مولانا منصور علی خاں مراد آبادی
- ۶۹۷ حضرت مولانا امین الدین دہلوی
- ۶۹۸ حضرت مولانا ناظر حسن دیوبندی
- ۶۹۹ حضرت مولانا عبداللہ انصاری ایٹھوی
- ۶۹۹ حضرت مولانا عبدالمومن دیوبندی
- ۷۰۰ حضرت مولانا حکیم رحیم اللہ بجنوری
- ۷۰۱ حضرت مولانا ماجد علی جون پوری
- ۷۰۲ حضرت مولانا شاہ وارث حسن کوڑہ جہان آبادی
- ۷۰۲ حضرت مولانا سید احمد فیض آبادی مدنی
- ۷۰۳ حضرت مولانا مظہر الدین شیرکوٹی
- ۷۰۳ حضرت مولانا عبدالعزیز سہالوی گوجرانوالوی
- ۷۰۴ حضرت مولانا حکیم عبدالوہاب غازی پوری
- ۷۰۵ حضرت مولانا کریم بخش سنبھلی
- ۷۰۶ حضرت مولانا مبارک حسین سنبھلی
- ۷۰۷ حضرت مولانا محمد یسین سرہندی ثم بریلوی
- ۷۰۷ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی
- ۷۰۹ حضرت مولانا محمد میاں منصور انصاری
- ۷۱۰ حضرت مولانا عبدالرحمن امرہوی
- ۷۱۱ حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری
- ۷۱۲ حضرت مولانا سیف الرحمن کابلی
- ۷۱۲ حضرت مولانا احمد بزرگ سوہتی

- ۷۱۳ _____ حضرت مولانا احسان اللہ خان تاجورؒ
- ۷۱۴ _____ حضرت مولانا نجم الدین جہلمیؒ
- ۷۱۴ _____ حضرت مولانا عبدالمجید سنہلیؒ
- ۷۱۵ _____ حضرت مولانا محمد یحییٰ سہرا میؒ
- ۷۱۵ _____ حضرت مولانا عبدالرزاق پشاورمیؒ
- ۷۱۶ _____ حضرت مولانا حبیب الرحمن لدھیانویؒ
- ۷۱۷ _____ حضرت مولانا مفتی اسماعیل بسم اللہ سورتیؒ
- ۷۱۷ _____ حضرت مولانا مفتی محمد حسن امرتسریؒ
- ۷۱۸ _____ حضرت مولانا محمد بن موسیٰ افریقیؒ
- ۷۱۹ _____ حضرت مولانا خواجہ عبدالحی فاروقیؒ
- ۷۲۰ _____ حضرت مولانا عبدالرحمن کیمیل پوریؒ
- ۷۲۱ _____ حضرت مولانا فضل ربی پشاورمیؒ
- ۷۲۱ _____ حضرت مولانا شاہ وصی اللہ فتح پوریؒ ثم الہ آبادی
- ۷۲۳ _____ حضرت مولانا شمس الحق فرید پوریؒ
- ۷۲۳ _____ حضرت مولانا محمد یوسف شاہ کشمیریؒ میر واعظ
- ۷۲۵ _____ حضرت مولانا عبدالحفیظ بلیاویؒ
- ۷۲۵ _____ حضرت مولانا طاہر علی سلہمیؒ
- ۷۲۶ _____ حضرت مولانا محمد یوسف بنوریؒ
- ۷۲۷ _____ حضرت مولانا شائق احمد عثمانیؒ
- ۷۲۸ _____ حضرت مولانا مفتی محمود سرحدیؒ
- ۷۲۹ _____ حضرت مولانا غلام غوث ہزارویؒ
- ۷۳۰ _____ حضرت مولانا محمد چراغ گجرانوالویؒ
- ۷۳۰ _____ حضرت مولانا نسیم احمد فریدی امر وہویؒ
- ۷۳۱ _____ حضرت مولانا عزیز گل پشاورمیؒ
- ۷۳۲ _____ حضرت مولانا قاضی سجاد حسین کراچی پوریؒ
- ۷۳۲ _____ حضرت مولانا مسیح اللہ خان جلال آبادیؒ
- ۷۳۳ _____ حضرت مولانا محمد طاہر کلکتویؒ
- ۷۳۴ _____ حضرت مولانا مفتی ولی حسن ٹوکنیؒ

۷۳۴	حضرت مولانا شرف علی کمر لائی
۷۳۵	حضرت مولانا قاضی محمد زاہد الحسنی
۷۳۵	حضرت مولانا محمد عمر پالن پوری
۷۳۶	حضرت مولانا احمد علی آسامی
۷۳۷	حضرت مولانا عبدالشکور ترمذی
۷۳۷	حضرت مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی
۷۳۸	حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی
۷۳۹	حضرت مولانا قاضی مظہر حسین چکوالی
۷۳۹	حضرت مولانا سرفراز خان صفدر
۷۴۰	حضرت مولانا زین العابدین اعظمی
۷۴۱	حضرت مولانا سلیم اللہ خان کراچی
۷۴۲	حضرت مولانا ڈاکٹر محمد مصطفیٰ اعظمی

نواں باب: شخصیات دارالعلوم ایک نظر میں _____ ۷۴۵-۸۱۵

۷۴۶	● اہم عہدہ داران دارالعلوم
۷۴۶	حضرات اراکین تاسیسی
۷۴۶	سرپرستان دارالعلوم دیوبند
۷۴۷	دارالعلوم کے مہتمم حضرات
۷۴۸	دارالعلوم کے صدر المدرسین اور شیخ الحدیث حضرات
۷۴۹	صدر مفتیان دارالافتاء
۷۵۰	نائب مہتمم حضرات
۷۵۱	معاون مہتمم حضرات
۷۵۱	نظمائے مجلس تعلیمی/نظمائے تعلیمات
۷۵۳	● اراکین مجلس شوری دارالعلوم دیوبند
۷۵۸	موجودہ اراکین مجلس شوری
۷۶۰	● اساتذہ عربی دارالعلوم دیوبند

- موجودہ اساتذہ عربی ۷۶۷
- مفتیان دارالافتاء ۷۶۹
- دیگر اساتذہ و معلمین ۷۷۲
- اساتذہ قراءت و تجوید ۷۷۲
- مدرسین درجہ فارسی ۷۷۳
- مدرسین دینیات ۷۷۴
- مدرسین دینیات اردو و فارسی ۷۷۵
- مدرسین درجہ حفظ و ناظرہ ۷۷۵
- معلمین شعبہ خوش نویسی ۷۷۷
- معلمین شعبہ دارالصنائع ۷۷۸
- معلمین شعبہ کمپیوٹر ۷۷۹
- مدرسین انگریزی ۷۷۹
- نظماء و معلمین شعبہ طب و جامعہ طبیہ ۷۸۰
- نظماء و عہدہ داران دفاتر ۷۸۱
- نظماء و عہدہ داران دفتر اہتمام ۷۸۱
- نظماء و ذمہ داران شعبہ محافظ خانہ ۷۸۱
- نظماء و ذمہ داران دفتر محاسبی ۷۸۲
- نظماء و ذمہ داران شعبہ مطبخ ۷۸۲
- نظماء و ذمہ داران شعبہ اوقاف ۷۸۲
- نظماء و ذمہ داران شعبہ تعمیرات ۷۸۳
- نظماء و ذمہ داران کتب خانہ ۷۸۴
- نظماء و ذمہ داران شعبہ تنظیم و ترقی ۷۸۴
- مدیران اردو رسائل ۷۸۵
- مدیران عربی رسائل ۷۸۶
- نظماء دارالاقامہ ۷۸۶
- نظماء اعلیٰ شعبہ دارالاقامہ ۷۸۸
- نظماء شعبہ تبلیغ و مبلغین ۷۸۸
- ذمہ داران دفتر تعلیمات ۷۹۰

- ۷۹۰ _____ شیخ الہند اکیڈمی
- ۷۹۰ _____ شعبہ تحفظ ختم نبوت
- ۷۹۱ _____ شعبہ رد عیسائیت
- ۷۹۱ _____ شعبہ تحفظ سنت
- ۷۹۱ _____ رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ
- ۷۹۱ _____ شعبہ ترتیب فتاویٰ
- ۷۹۱ _____ معالجین عظمت ہسپتال
- ۷۹۲ _____ نگران دفتر دارالافتاء
- ۷۹۲ _____ شعبہ انٹرنیٹ و آن لائن فتویٰ
- ۷۹۲ _____ شعبہ کمپیوٹر برائے کتابت
- ۷۹۲ _____ شعبہ برقیات
- ۷۹۲ _____ شعبہ مہمان خانہ
- ۷۹۳ _____ شعبہ نشر و اشاعت / مکتبہ دارالعلوم
- ۷۹۳ _____ شعبہ خریداری و اسٹاک روم
- ۷۹۳ _____ شعبہ صفائی و چمن بندی
- ۷۹۴ _____ نقشہ تطبیق سن ہجری و عیسوی ●
- ۸۰۱ _____ مآخذ و مراجع ●
- ۸۰۷ _____ اکابر و علمائے دارالعلوم کا اشاریہ ●

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمہ

دارالعلوم دیوبند نہ صرف دینی تعلیم کی ایک مرکزی درس گاہ ہے بلکہ اسلامی علوم و افکار اور مسلم تہذیب و ثقافت کا ایک بین الاقوامی مرکز بھی ہے۔ اس کے فضلاء تمام دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور اس مکتب فکر کے ماننے والے پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ دارالعلوم کے علمی اور تہذیبی رشتے عالمی شخصیتوں اور اداروں سے قائم ہیں اور اس کے اثرات شعوری اور غیر شعوری طور پر عام قلوب تک پہنچے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ متعلقین دارالعلوم کے علاوہ واردین و صادرین کا ایک سلسلہ ہے جو نہ صرف اطراف ہند سے بلکہ غیر ممالک سے اس کی طرف کھینچا چلا آتا ہے۔ یہ سلسلہ علمی افراد اور ریسرچ اسکالرز تک محدود نہیں بلکہ عام مسلمان اور غیر مسلم افراد، تعلیم یافتہ حضرات، حکومتوں کے نمائندے، میڈیا کے کارندے اور عرب و عجم کے وفود دارالعلوم کی شہرت و عظمت کی داستانیں سن کر کشاں کشاں اس کی زیارت و مشاہدہ کے لیے آتے رہتے ہیں۔ ان زائرین اور دارالعلوم کے عقیدت مندوں کے دلوں میں قدرتا دارالعلوم کی تاریخ اور اس کی خدمات کو جاننے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔

دو ضخیم جلدوں میں جناب سید محبوب رضوی صاحب کی تاریخ دارالعلوم دیوبند ۱۹۷۶ء میں لکھی گئی تھی جو دارالعلوم دیوبند کے تقریباً سو سالہ واقعات و حالات کا بہترین طور پر احاطہ کرتی ہے اور دارالعلوم دیوبند کی تاریخ کے حوالے سے سند کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ کتاب مکتبہ دارالعلوم دیوبند سے مسلسل شائع ہو رہی ہے۔ اس کتاب کا انگریزی ترجمہ دو جلدوں میں ۱۹۸۰ء اور ۱۹۸۱ء میں شائع ہوا۔ اس کتاب پر ۲۵ سال کا وقت گزر جانے کے بعد بھی عربی، ہندی یا کسی اور زبان میں دارالعلوم کا تعارف شائع نہیں ہو سکا، جب کہ اس درمیان ایک بڑا عرصہ گزر جانے کی وجہ سے دارالعلوم دیوبند کے واقعات و حالات، خدمات و شخصیات حوالے سے بہت سے اضافوں کی ضرورت تھی۔ اب سوال یہ تھا کہ پہلے سے موجود تاریخ دارالعلوم دیوبند میں ضروری اضافے کیسے کیے جائیں۔ احوال، خدمات، شخصیات، نظم و نسق، ہر باب اور موضوع میں اضافہ ناگزیر تھا۔ ایسی صورت میں اگر قدیم کتاب میں اضافہ کیا جاتا تو اولاً کتاب کی ضخامت بہت زیادہ بڑھ جاتی اور ثانیاً اصل کتاب کے اندر ترمیم و اضافہ مناسب محسوس نہیں ہوا۔ ایک تیسری جلد لکھ کر ضخیم جات بڑھا دیے جاتے تو بھی ضخامت بڑھنے کے ساتھ ساتھ کتاب اہل الاستفادہ نہ رہ جاتی۔

لہذا یہ طے کیا گیا کہ تاریخ دارالعلوم دیوبند (مرتبہ سید محبوب رضوی) کو اپنی جگہ باقی رکھتے ہوئے، ایک دوسرا مجموعہ نئی اور بہتر ترتیب کے ساتھ تیار کیا جائے جس میں دیگر مواد کے ساتھ اس کتاب سے بھی بھرپور استفادہ کیا جائے اور دارالعلوم دیوبند کے واقعات و حالات، خدمات و شخصیات کو جامع اور مختصر انداز میں بیان کر دیا جائے، تاکہ سابقہ تاریخ کی حیثیت بھی اپنی جگہ باقی رہے اور ایک جلد میں ایسا مجموعہ تیار ہو جائے جس میں جامعیت اور اختصار

کے ساتھ ڈیڑھ سو سالہ احوال کا ذکر آجائے۔ پیش نظریہ بھی تھا کہ اسی مجموعے کو سامنے رکھتے ہوئے عربی، ہندی اور انگریزی زبانوں میں حسب مقتضایہ دارالعلوم کا جامع تعارف کتابی صورت میں پیش کیا جائے تاکہ دنیا دارالعلوم کی تاریخ سے واقف ہو اور مسلمانوں کے سامنے ان کے اسلاف کی اس عظیم الشان علمی یادگار کا ماضی آجائے؛ کیوں کہ تاریخ ہی کسی قوم کا سرمایہ اور بیش قیمت اثاثہ ہوتی ہے جس کے ذریعہ اپنے اکابر و اسلاف کے زندہ کارناموں اور ان کی روشن خدمات کی واقفیت حاصل ہوتی ہے۔ تاریخ ہی قوم کی مردہ رگوں میں خون دوڑانے، مستقبل کے چیلنجوں سے نبرد آزما ہونے اور ترقی کی بلندیوں پر کمندیں ڈالنے کے لیے مہمیز کا کام دیتی ہے۔

مجھے بے حد مسرت ہو رہی ہے کہ ڈاکٹر مفتی محمد اللہ خلیلی قاسمی نے اس اہم کام کا بیڑا اٹھایا اور نہایت کامیابی کے ساتھ اس ذمہ داری کو انجام دیا۔ انھوں نے اولاً ویب سائٹ پر شائع شدہ تعارفی مواد کو ترتیب دے کر دارالعلوم کا ایک جامع تعارف تیار کیا جو دارالعلوم دیوبند کا اتہاس کے نام سے جناب پروفیسر محمد سلیمان صاحب کے ترجمے کے ساتھ ۲۰۱۲ء میں شائع ہوا۔ اس کے بعد انھوں نے اس موضوع پر مزید کام شروع کیا اور دو زبان میں ضرورت کے پیش نظر قدرے تفصیلی مجموعہ ترتیب دیا جو ۲۰۱۶ء میں مجلس شوریٰ کی منظوری کے بعد دارالعلوم دیوبند کی جامع و مختصر تاریخ کے نام سے ساڑھے سات سو صفحات میں شائع ہوا۔ اب اسی کتاب کو نظر ثانی اور اضافوں کے شائع کیا جا رہا ہے۔

اس کتاب میں دارالعلوم دیوبند کے ڈیڑھ سو سالہ تاریخ کو مختصر اور جامع طور پر سمیٹ لیا گیا ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی علمی و دینی تاریخ، مدارس کی تاریخ، دارالعلوم کے قیام اور اس کے پس منظر، دارالعلوم کے ایک سو اٹھاون برسوں کے سال بہ سال اہم واقعات، دارالعلوم کے مکتب فکر، دارالعلوم کے نظم و انتظام، دارالعلوم کے نظام تعلیم و نصاب تعلیم، دارالعلوم کے کارنامے اور خدمات، دارالعلوم کے علماء و مشاہیر وغیرہ عناوین پر مشتمل معلومات شامل ہیں جو ان شاء اللہ عام لوگوں کے لیے دارالعلوم سے واقفیت کا ذریعہ بنیں گی، نیز اہل علم اور ریسرچ اسکالرز کے لیے مفید معلومات کا ذخیرہ ثابت ہوں گی۔

زیر نظر کتاب میں تاریخ دارالعلوم دیوبند کے علاوہ دارالعلوم سے شائع شدہ دیگر بنیادی مآخذ کو بھی سامنے رکھا گیا ہے اور ضروری حوالہ جات بھی دیے گئے ہیں۔ معلومات میں جہاں تبدیلی یا اصلاح کی ضرورت محسوس ہوئی ہے ان کو بھی باحوالہ لکھ دیا گیا ہے۔ اس طرح یہ مجموعہ اب اور زیادہ وسیع اور مستند ہو گیا ہے۔

الحمد للہ اس مجموعے کو سامنے رکھتے ہوئے عربی اور انگریزی زبانوں میں بھی دارالعلوم کا جامع تعارف تیار کیا جا رہا ہے جو ان شاء اللہ مستقبل قریب میں اہل ذوق کے ہاتھوں میں ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شجر طوبیٰ کی تاقیامت آبیاری فرمائیں، ہماری ان حقیر کاوشوں کو قبولیت سے نوازیں اور ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں!

ابوالقاسم نعمانی

مہتمم دارالعلوم دیوبند

۱۳ صفر ۱۴۳۲ھ / ۲ اکتوبر ۲۰۲۰ء

عرض ناشر

الحمد لله كفى و سلام على عباده الذين اصطفى ، أما بعد

دارالعلوم دیوبند کے قیام کو اس وقت ڈیڑھ سو سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے؛ دارالعلوم اس درمیان مختلف مراحل سے گذرا؛ ۱۸۵۷ء کے خونیں انقلاب کے بعد مدرسہ کا قیام، پھر برطانوی دور اور تحریک آزادی کی اٹھل پٹھل اور پھر تقسیم ہند و پاک کا قضیہ؛ اس بیچ دارالعلوم نے بہت سے نشیب و فراز دیکھے اور بحمد اللہ جن مقاصد کے لیے اس کا قیام عمل میں آیا تھا، ان کی تکمیل کے لیے وہ سرگرم عمل رہا۔ اللہ تعالیٰ نے بنیان اور اکابر دارالعلوم کی خلوص کے نتیجے میں اس شجرہ طیبہ کو نہ صرف ہر ابھارا رکھا بلکہ وہ ترقی کرتا ہوا آج بین الاقوامی سطح پر مشہور و معروف ادارہ اور مکتب فکر کا درجہ رکھتا ہے۔ ملکی اور بین الاقوامی حالات و انقلابات کے باوجود اس کی اہمیت و تعارف کا دائرہ بڑھتا ہی گیا۔

تقریباً ایک لاکھ سے زائد افراد نے اس سے استفادہ کیا اور انہوں نے دین خالص کا پیغام ملک کے کونے کونے سے لے کر دنیا کی وسعتوں تک پھیلا دیا۔ علمائے دیوبند کی انھیں علمی و دینی کاوشوں اور مساعی کی بدولت آج دیوبند ایک بین الاقوامی تعلیمی مرکز، ایک معتدل مکتب فکر اور ایک عالمی اسلامی تحریک کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ پچھلی ڈیڑھ صدی میں علمائے دیوبند نے تعلیم و تعلم، اصلاح و تبلیغ، دفاع عن الدین، اشاعتِ علوم دینیہ اور سیاسی و سماجی خدمات کے میدانوں میں لازوال کارنامے رقم کیے ہیں۔ برصغیر کی علمی و دینی تاریخ دیوبند کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔

بلاشبہ خدمات دارالعلوم کے تمام گوشوں کی تفصیلات کے لیے مستقل کتابیں بھی ناکافی ہوں گی۔ دارالعلوم کی ایک شخصیت پر درجنوں کتابیں لکھی گئی ہیں، علماء و مشائخ دیوبند کے سلسلہ میں بلا مبالغہ سیکڑوں کتابیں منظر عام پر آچکی ہیں۔ دارالعلوم کے تعارف میں اس سے قبل چھوٹی بڑی متعدد کتابیں منظر عام پر آچکی ہیں، خاص طور جناب سید محبوب رضوی کی تاریخ دارالعلوم دیوبند (دو جلدوں میں) دارالعلوم کی تقریباً سو سالہ تاریخ کا احاطہ کرتی ہے۔

ادھر ایک عرصہ سے ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ دارالعلوم دیوبند کے حالات و واقعات اور شخصیات و خدمات کو مختصر طور پر جمع کر دیا جائے۔ مجھے بے انتہا خوشی ہو رہی ہے کہ مولانا مفتی محمد اللہ خلیلی قاسمی فیض آبادی نے اس اہم ضرورت کی تکمیل کرتے ہوئے دارالعلوم کی ڈیڑھ سو سالہ تاریخ کو نہایت جامع انداز میں جمع کر دیا ہے جس کو

حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی مہتمم دارالعلوم دیوبند کی نظر ثانی اور دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کی اجازت کے بعد شیخ الہند اکیڈمی سے شائع کیا جا رہا ہے۔ اکیڈمی نے اب تک اردو، عربی اور انگریزی میں پچاس سے زائد اہم علمی و تحقیقی کتابیں شائع کی ہیں۔ شیخ الہند اکیڈمی کے قیام کا بنیادی مقصد علوم اکابر کا احیاء اور دارالعلوم و علمائے دیوبند کے علمی و عملی کارناموں کو عصری اسلوب میں معیاری اور تحقیقی طور پر پیش کرنا ہے۔

اس سے پہلے موصوف نے مرکز المعارف ممبئی میں ریسرچ اسکالر کے طور پر مدرسہ ایجوکیشن نام سے کتاب تصنیف کی جو ۲۰۰۵ء میں شائع ہوئی اور مدارس اسلامیہ کے نصاب و نظام پر انگریزی میں پہلی کتاب تھی۔ موصوف کی مرتب کردہ کتاب 'دارالعلوم دیوبند کا اتہاس' (ہندی زبان) میں شائع ہو کر قبول عام حاصل کر چکی ہے۔ علاوہ ازیں انھوں نے حضرت مولانا محمد میاں دیوبندیؒ کی اہم کتاب 'تحریک شیخ الہند' معروف بہ 'تحریک ریشمی رومال' کا انگریزی ترجمہ بھی کیا جو شیخ الہند اکیڈمی اور مانک پبلیکیشنز دہلی کی طرف سے 'سِلک لیٹر موومنٹ' کے نام سے شائع ہو کر دنیا کی اہم لائبریریوں تک پہنچ چکا ہے۔

زیر نظر کتاب میں دارالعلوم کے حالات، شخصیات اور کارناموں کو حسن ترتیب اور جامعیت و اختصار کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ امید ہے کہ یہ کتاب بھی علماء و عوام کے لیے معلومات افزا اور باہشیں و محققین کے لیے خضر راہ ثابت ہوگی۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو قبول عام عطا کرے اور اکیڈمی نیز دارالعلوم دیوبند کے تعلق سے احقر کو زیادہ سے زیادہ خدمات مقبولہ کی توفیق ارزانی فرمائے۔ آمین!

بدرالدین اجمل قاسمی
رکن مجلس شوریٰ و ڈائریکٹر شیخ الہند اکیڈمی
دارالعلوم دیوبند

پیش لفظ

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله

وصحبه و من تبعهم باحسان إلى يوم الدين، أما بعد!

دارالعلوم دیوبند کے قیام کے سال سے ہی اکابر و مشائخ کا معمول رہا ہے کہ دارالعلوم سے متعلق تفصیلات کو محفوظ رکھا جائے؛ چنانچہ ۱۲۸۳ھ/۱۸۶۶ء کے پہلے سال کی روداد مطبوعہ شکل میں موجود ہے جس میں سالانہ تعلیمی و انتظامی احوال و کوائف کو بڑی وضاحت اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس سے جہاں اکابر و مشائخ دارالعلوم کی ژرف نگاہی و دور بینی کا پتہ چلتا ہے وہیں دارالعلوم کے ریکارڈ کی حفاظت کی ضرورت و اہمیت کا بھی احساس ہوتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی اس روایت سے جہاں دارالعلوم کے تعلیم و انتظام کی شفافیت اور معتبریت کا نقش لوگوں کے دلوں پر قائم ہوتا گیا، وہیں اس کی مستند تاریخ بھی بنتی چلی گئی۔

دارالعلوم کی سالانہ رودادوں کے علاوہ، ماہنامہ القاسم، ماہنامہ الرشید، ماہنامہ دارالعلوم میں احوال و کوائف شائع ہوتے رہے، کچھ مواقع پر تعارفی کتابچے بھی شائع ہوئے؛ خصوصاً ۱۳۵۰ھ میں حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ مہتمم دارالعلوم کی تحریر 'سرسٹھ سالہ روداد دارالعلوم'، اسی طرح ۱۳۸۳ھ میں سو سال مکمل ہونے پر 'دارالعلوم دیوبند کی صد سالہ زندگی' طبع ہوئی۔ اس کتاب کے پیش لفظ میں حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب نے لکھا ہے کہ اردو کے علاوہ عربی، انگریزی، ہندی اور گجراتی زبانوں میں تعارفی لٹریچر کا منصوبہ بھی پیش نظر ہے۔ لیکن نامعلوم وجوہات کی بنیاد پر یہ منصوبہ پورا نہ ہو سکا۔ اسی طرح اجلاس صد سالہ کے موقع پر اردو اور عربی میں متعدد چھوٹے چھوٹے تعارفی رسائل شائع کیے گئے اور الداعی کا خصوصی شمارہ شائع ہوا۔

اس سلسلہ میں سب سے اہم اور قابل قدر کوشش جناب سید محبوب رضوی صاحب کی ہے جنہوں نے دو جلدوں میں دارالعلوم دیوبند کی باقاعدہ تاریخ مرتب کی؛ اس کی جلد اول میں قیام دارالعلوم سے ۱۳۹۶ھ/۱۹۷۶ء تک کے احوال و کوائف کو سن وار تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جب کہ دوسری جلد میں شخصیات اور نظام دارالعلوم کا بیان ہے۔ یہ کتاب دارالعلوم دیوبند کے تقریباً سو سالہ احوال و خدمات کا احاطہ کرتی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی تاریخ کے سلسلہ میں یہ مرجع اول اور مستند حوالہ کا درجہ رکھتی ہے اور مسلسل طبع ہو رہی ہے۔

اجلاس صد سالہ کے بعد دارالعلوم کے احوال و کوائف سے عوام کو مطلع رکھنے کے مقصد سے پندرہ روزہ آئینہ

دارالعلوم کا اجراء کیا گیا۔ اسی طرح مختلف مواقع پر متعدد بار دارالعلوم کے احوال و کوائف شائع کیے جاتے رہے جن میں دارالعلوم کی تعلیمی و انتظامی ترقیات اور منصوبوں کا ذکر کیا گیا۔ ملک میں انٹرنیٹ کی سہولیات مہیا ہونے کے ساتھ ہی ارباب دارالعلوم نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ۲۰۰۳ء میں دارالعلوم دیوبند کے لیے ویب سائٹ تیار کروائی اور متعدد زبانوں میں دارالعلوم کا مختصر تعارف پیش کیا۔

دارالعلوم دیوبند کے قیام کو ڈیڑھ سو سال کا عرصہ گزر جانے پر ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ اردو، ہندی، انگریزی اور عربی زبانوں میں دارالعلوم کا جامع و مختصر تعارف پیش کیا جائے؛ چنانچہ ۱۴۳۳ھ/۲۰۱۲ء میں ہجری تقویم کے اعتبار سے قیام دارالعلوم کے ڈیڑھ سو سال مکمل ہونے پر ہندی زبان میں ۳۲۵ صفحات پر مشتمل کتاب 'دارالعلوم دیوبند کا اتہاس' شائع کی گئی۔ ۲۰۱۶ء میں سن عیسوی کے اعتبار سے قیام دارالعلوم کے ڈیڑھ سو سال مکمل ہونے پر اردو زبان میں زیر نظر کتاب 'دارالعلوم دیوبند کی جامع و مختصر تاریخ' کا پہلا ایڈیشن شائع کیا گیا جسے اب نظر ثانی اور متعدد اضافوں کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔

زیر نظر کتاب نو ابواب پر مشتمل ہے۔ پہلا باب ہندوستان میں مسلمانوں کی علمی و دینی تاریخ، برصغیر میں مدارس کی تاریخ، قیام دارالعلوم کے پس منظر، قیام دارالعلوم اور نصب العین کے ذکر پر مشتمل ہے۔ دوسرے باب کے تحت دارالعلوم دیوبند کی ڈیڑھ سو سالہ تاریخ کو چار ادوار میں تقسیم کر کے ان میں پیش آنے والے احوال و واقعات کو سن وار مختصر طور پر درج کیا گیا ہے۔ پہلا دور بنیان دارالعلوم کے دور اہتمام پر محیط ہے۔ دوسرا دور حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب کے دور اہتمام سے شروع ہو کر حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانی کے دور تک پھیلا ہوا ہے۔ تیسرا دور حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب کے دور اہتمام پر مشتمل ہے۔ سن وار احوال و واقعات کو زیادہ تر تاریخ دارالعلوم دیوبند کی جلد اول سے ملخص کیا گیا ہے۔ تیسرے دور کے سن وار واقعات کے بیان کے بعد تاریخی اجلاس صد سالہ کی کچھ تفصیلات پیش کی گئی ہیں کیوں کہ یہ اجلاس ۱۹۸۰ء میں منعقد ہوا اور تاریخ دارالعلوم دیوبند میں زیادہ سے زیادہ ۱۹۷۶ء تک کے واقعات آسکے ہیں۔ چوتھا اور موجودہ دور اجلاس صد سالہ کے بعد سے اب تک جاری ہے۔ موجودہ دور کے واقعات کو کچھ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ موجودہ دور کی تعلیمی و تعمیری ترقیات کو ایک مستقل عنوان کے تحت ذکر کیا گیا ہے۔ نیز، جامعہ طیبہ اور عمارات دارالعلوم کا تذکرہ بھی مستقل عنوان کے تحت کیا گیا ہے۔

تیسرا باب دارالعلوم کے مسلک و منہج اور سلسلہ سند سے متعلق ہے۔ چوتھے باب میں دارالعلوم کے نظم و نسق، تعلیمی شعبہ جات اور اس وقت موجود علمی و انتظامی شعبہ جات و دفاتر کا قدرے تفصیل سے تعارف پیش کیا گیا ہے۔ پانچویں باب میں نصاب و نظام تعلیم کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے؛ خصوصاً نصاب کے تحت درجات عربیہ کے ساتھ تکمیلیات و تخصصات، حفظ و تجوید اور دینیات اردو و فارسی کے نصاب کو شامل کر لیا گیا ہے، نیز طلبہ کی غیر درسی علمی سرگرمیوں کا تعارف بھی پیش کیا گیا ہے۔

چھٹا باب خدمات دارالعلوم کے بیان پر مشتمل ہے۔ یہ باب سولہ (۱۶) اہم عناوین پر مشتمل ہے جن میں دارالعلوم کی ہمہ جہت خدمات کے مختلف گوشوں پر مختصر روشنی ڈالی گئی ہے۔ خدمات کے ذیل میں متعلقہ موضوع سے متعلق اہم شخصیات اور کتابوں کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس میں سب کا احاطہ اور استقصاء نہیں کیا جاسکا ہے اور نہ ہی اس مختصر کتاب میں اس کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ ساتویں باب میں دارالعلوم دیوبند کے تین زائرین و صادرین کے تاثرات کو شامل کیا گیا ہے، لیکن صرف مشاہیر عرب و عجم کے منتخب تاثرات ہی پیش کیے گئے ہیں۔ نیز دارالعلوم کے سلسلے میں کچھ شعراء کی منتخب نظمیں بھی شامل کی گئی ہیں۔

آٹھویں باب میں دارالعلوم کے چاروں ادوار کی اکابر شخصیات کے قدرے تفصیلی احوال پیش کیے گئے ہیں۔ نظر ثانی کے دوران شخصیات کی ترتیب کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ادوار کو دور اہتمام کے اعتبار سے تقسیم کیا گیا ہے۔ شخصیات کے ذیل میں اولاً بانیان کرام اور سرپرستان کا ذکر ہے۔ ہر دور میں شخصیات کی ترتیب اس طرح رکھی گئی ہے: (۱) کلیدی عہدہ داران (۲) مشاہیر اراکین مجلس شوری (۳) مشاہیر اساتذہ۔ کلیدی عہدہ داران کو عہدہ اور زمانہ خدمت کی ترتیب کے اعتبار سے ذکر کیا گیا ہے، جیسے پہلے مہتمم، پھر سرپرست، صدر المدرسین، شیخ الحدیث، صدر مفتی۔ دارالعلوم سے شائع شدہ سابقہ کتابوں میں عموماً یہی ترتیب نظر آتی ہے، نیز اس ترتیب میں مراتب اور عہدہ کی بہترین رعایت بھی ہے؛ اس لیے اس کو ترجیح دی گئی ہے۔ مشاہیر اراکین شوریٰ میں خاص طور پر وہ سابقہ اراکین شامل ہیں جن کا تذکرہ تاریخ دارالعلوم میں موجود ہے یا جن کی مدت خدمت طویل ہے، البتہ موجودہ اراکین میں سبھی حضرات کا مختصر تذکرہ کیا گیا ہے۔ اراکین مجلس شوریٰ کو ابتدائے مدت کی ترتیب پر ذکر کیا گیا ہے۔ مشاہیر اساتذہ کے ذیل میں درجہ علیا کے مدرسین کا تذکرہ دیا گیا ہے، نیز ان اساتذہ کا ذکر بھی اس میں شامل ہے جو صرف چند برسوں تک دارالعلوم میں مدرس رہے اور بعد میں مشاہیر علماء میں ان کا شمار ہوا۔ مشاہیر اساتذہ کو تاریخ تقرر کی ترتیب پر ذکر کیا گیا ہے۔ چاروں ادوار کی شخصیات کے ذکر کے بعد مشاہیر فضلاء دارالعلوم کا ذکر ہے۔ فضلاء و علماء کے تحت ان مشاہیر کو شامل کیا گیا ہے جن کی نمایاں علمی و تعلیمی خدمات ہیں۔ ان حضرات کو ترتیب وفات پر رکھا گیا ہے۔ شخصیات کی ترتیب کس بنیاد پر ہے، اس کا اندازہ ہر باب سے پہلے دی گئی فہرست سے واضح طور پر معلوم ہو جائے گا۔ کتاب کے اخیر میں تلاش میں آسانی کے پیش نظر تمام صاحب تذکرہ شخصیات کے ناموں کا الف بائی انڈیکس (اشاریہ) بھی سن پیدائش و وفات اور صفحہ کے ساتھ دے دیا گیا ہے۔

نویں باب میں شخصیات دارالعلوم ایک نظر میں کے تحت بانیان و سرپرستان کے علاوہ اب تک کے تمام اہم عہدہ داران، اراکین شوریٰ، اساتذہ، مفتیان، نظمائے شعبہ جات اور ذمہ داران دفاتر کی فہرست دی گئی ہے۔

غرض کہ اس کتاب میں جامعیت اور اختصار کا پورا خیال رکھا گیا ہے۔ تاریخ دارالعلوم میں جن امور کی تفصیل ہے ان کا اختصار کر دیا گیا ہے اور جو امور تذکرہ سے رہ گئے ہیں ان کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں، جہاں ترمیم و

تبدیلی کی ضرورت تھی وہاں حسب ضرورت ترمیم و تبدیلی بھی کی گئی ہے۔ بھرپور کوشش کی گئی ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی طرف سے سابق میں طبع شدہ کتابوں سے ہی بات کہی جائے اور بے جا مبالغہ آرائی اور طول کلامی سے حتی الامکان گریز کیا جائے۔ اس کتاب میں خدمات دارالعلوم کے بیان میں قدرے تفصیل سے کام لیا گیا ہے اور دارالعلوم کی خدمات کا ایک جامع مرقع پیش کیا گیا ہے۔ شخصیات دارالعلوم کے تحت ۲۱۴ شخصیات کے احوال ذکر کیے گئے ہیں۔ واضح رہے کہ سابقہ ایڈیشن میں ہی تاریخ دارالعلوم دیوبند میں مذکور تمام حضرات کے حالات لے لیے گئے تھے اور ان کے حالات میں مزید اضافے بھی کیے گئے تھے۔ نیز یہ کوشش بھی کی گئی تھی کہ تاریخ دارالعلوم دیوبند میں جن حضرات بانیان، درجہ علیا کے اساتذہ و مشاہیر اراکین کا نام کسی وجہ سے نہیں آسکا تھا، اس کتاب میں ان کا احاطہ کر لیا جائے؛ چنانچہ حضرت ملا محمود دیوبندی، حضرت مولانا مہتاب علی دیوبندی، حضرت شیخ نہال احمد دیوبندی اور درجہ علیا کے اساتذہ (جن میں صرف دیوبند کے تقریباً دس حضرات شامل ہیں) کا تذکرہ بطور خاص پہلے ایڈیشن میں ہی شامل کر لیا گیا تھا۔

پہلے ایڈیشن کے مقابلے میں اس ایڈیشن میں کیا ترمیم و اضافے ہوئے ہیں، اس پر بھی ایک نظر ڈال لینا مناسب رہے گا۔ پہلے باب میں ترتیب میں تبدیلی کے ساتھ ہندوستان میں مسلمانوں کی علمی و دینی تاریخ اور مدارس اسلامیہ کی تاریخ کا اضافہ کیا گیا ہے۔ قیام دارالعلوم دیوبند کا پس منظر اور قیام دارالعلوم میں خاصی ترمیم و اضافے کیے گئے ہیں۔ دوسرے باب میں تیسرے دور کے بعد ایک مستقل عنوان کے تحت دارالعلوم کے اجلاس صد سالہ کے احوال بیان کیے گئے ہیں۔ موجودہ دور کے تحت پیش آمدہ بعض واقعات کی مزید تفصیل کر دی گئی ہے اور مستقل عنوان کے تحت 'جامعہ طیبہ دارالعلوم دیوبند' کی مختصر تاریخ اور اس کو بند کرنے کے اسباب پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ چوتھے باب کے تحت دارالعلوم کے نظم و نسق کے ذیل میں دستور اساسی کی مختصر تاریخ بیان کی گئی ہے۔ پانچویں باب کے اخیر میں 'طلبہ کی دیگر علمی و ثقافتی سرگرمیاں' کا اضافہ کیا گیا ہے۔ چھٹے باب میں عربی اور اردو زبان کی خدمات کے ذیل میں کچھ اضافے کیے گئے ہیں۔ آٹھویں باب میں بنیادی تبدیلی ترتیب کی ہے۔ چاروں ادوار کے تحت کسی عہدہ، رکنیت اور تدریس سے وابستہ اہم شخصیات کا تذکرہ کیا گیا ہے اور ہر دور کی ابتدا میں شخصیات کی فہرست بھی دے دی گئی ہے جس سے شخصیات کی ترتیب اور ان کے تقدم و تاخر کی وجہ معلوم ہو سکتی ہے۔ فضلاء دارالعلوم کے حالات و وفات کی ترتیب پر دیے گئے ہیں۔ اس ایڈیشن کے اندر شخصیات میں صرف جناب سید محبوب رضوی، حضرت مولانا سلیم اللہ خان گراچی، حضرت مولانا ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی اور نئے اراکین شوریٰ کے حالات کا اضافہ کیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ تمام مذکورہ حضرات کے احوال سابقہ ایڈیشن میں بھی موجود تھے، اب صرف ان کی ترتیب بدل گئی ہے۔ سابقہ ایڈیشن کل آٹھ ابواب پر مشتمل تھا۔ اس ایڈیشن میں کل نو ابواب بنا دیے گئے ہیں اور شخصیات دارالعلوم ایک نظر میں کو نواں باب بنایا گیا ہے۔ نویں باب میں سابقہ معلمین و مدرسین اور سابقہ نظماً و ذمہ داران دفاتر کا اضافہ کیا گیا ہے۔

پوری کتاب میں حوالہ جات کا التزام کیا گیا ہے اور ساری محولہ کتابوں کو مآخذ و مراجع میں ذکر کر دیا گیا ہے۔ اکابر و علمائے دارالعلوم کا اشاریہ مع سنین و وفات بھی ایک اضافہ ہے۔

اس کتاب کی تیاری میں تاریخ دارالعلوم دیوبند (مرتبہ سید محبوب صاحب رضوی) سے بھرپور استفادہ کیا گیا ہے؛ البتہ بہت سے مواقع پر جہاں تحقیق سے کوئی دوسری بات ثابت ہوئی اس کو بنیادی مآخذ اور یادگیر حوالوں سے لکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دارالعلوم دیوبند کی صد سالہ زندگی (مرتبہ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب) بھی پیش نظر رہی ہے۔ مذکورہ بالا کتابوں میں واقعات اور شخصیات کے ذکر کی جو ترتیب ہے اسی کو اپنایا گیا ہے اور ان کتابوں میں جو تاریخ پیش کی گئی ہے اسی کے امتداد کو بیان کیا گیا ہے، ان سے ہٹ کر کوئی نئی تاریخ نہیں بیان کی گئی ہے۔

دارالعلوم سے متعلق معلومات کے سلسلے میں خود دارالعلوم سے شائع شدہ بنیادی مآخذ پر انحصار کیا گیا ہے؛ چنانچہ اس سلسلے میں دارالعلوم کی سالانہ رودادوں، مجلس شوری کے کاروائی رجسٹروں، محافظ خانہ کے ریکارڈ، ماہنامہ دارالعلوم، ماہنامہ الداعی اور آئینہ دارالعلوم کی فائلوں سے استفادہ کیا گیا ہے۔ بنیادی مآخذ کی فہرست کتاب کے آخر میں مآخذ و مراجع کے ذیل میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔ ہندوستان اور مدارس کی تاریخ کے سلسلے میں معتبر علماء و مصنفین کے حوالوں پر اکتفا کیا گیا ہے۔ خدمات اور شخصیات کے بیان میں دارالعلوم سے باہر طبع ہونے والی کتابوں اور دیگر بہت سی سوانحی اور تاریخی کتابوں سے مدد لی گئی ہے اور ان کا حوالہ متعلقہ مضمون کے اخیر میں دیا گیا ہے۔ کتاب کے آخر میں 'مآخذ و مراجع' کی مکمل فہرست بھی دے دی گئی ہے۔

دارالعلوم میں شروع سے اب تک سن ہجری کا رواج رہا ہے، جب کہ انیسویں صدی سے سن عیسوی کا رواج عام ہو گیا ہے؛ اس لیے سنین کی تطبیق ضروری تھی تاکہ واقعات کے زمانی تعین میں دشواری نہ ہو۔ چنانچہ کوشش کی گئی ہے کہ سن ہجری کے ساتھ سن عیسوی کی تطبیق بھی ذکر کر دی جائے۔ لیکن اس سلسلہ میں یہ یاد رہے کہ پہلے جو سن ذکر کیا گیا ہے وہی اصل ہے جب کہ دوسرے نمبر پر (/) کی علامت بعد لکھا جانے والا سن تطبیقی ہے۔ تطبیقی سنین میں غلطیوں کا امکان ہے، کیوں کہ کوئی واقعہ کس مہینے اور تاریخ میں پیش آیا عموماً اس کا ذکر نہیں ملتا؛ اس طرح اس کی تطبیق بنیادی طور پر تقریبی ہی ہو سکتی ہے۔ بہر حال، قارئین کی سہولت کے پیش نظر کتاب کے آخری صفحات میں دارالعلوم کے سن قیام ۱۲۸۳ھ سے لے کر اب تک کے ہجری سنین کی تطبیق یکم محرم کی عیسوی تاریخ اور دن سے کر کے ان کا نقشہ دے دیا گیا ہے۔

بندہ کتاب کی تیاری کے سلسلہ میں حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم مہتمم دارالعلوم دیوبند کا بے حد ممنون ہے کہ حضرت والا کی سرپرستی و رہنمائی سے کتاب کی تیاری کے ہر مرحلے میں بڑی مدد ملی۔ راقم سطور، حضرت مولانا بدرالدین اجمل صاحب قاسمی مدظلہ رکن مجلس شوری و ڈائریکٹر شیخ الہند اکیڈمی دارالعلوم دیوبند کا بھی نہایت شکر گزار ہے کہ آپ نے ہمیشہ اس عاجز کی ہمت افزائی کی اور اس کتاب کو شیخ الہند اکیڈمی کی طرف سے

شائع کرنے کے لیے قبول فرمایا۔ نیز شعبہ انٹرنیٹ کے رفقاء، کتب خانہ، محافظ خانہ، شیخ الہند اکیڈمی اور مکتبہ دارالعلوم کے احباب بھی شکر یہ کے مستحق ہیں جن کے تعاون سے کتاب کی تیاری و طباعت کے مراحل باسانی طے ہوئے۔

اس نظر ثانی و اضافہ شدہ ایڈیشن کی طباعت کے سلسلہ میں بندہ ان تمام اہل علم کا شکر گزار ہے جنہوں نے سابقہ ایڈیشن کی اغلاط و تسامحات کی نشان دہی فرمائی یا مشوروں سے نوازا۔ موصول ہونے والے ملاحظات کی روشنی میں ضروری حذف و اضافہ کی ایمان دارانہ اور سنجیدہ سعی کی گئی ہے۔ پوری کوشش یہی رہی کہ کتاب ہر لحاظ سے جامع و مکمل ہو، تاہم نقص معلومات یا تقاضائے بشری کے تحت کسی خامی کا موجود رہ جانا مستبعد نہیں ہے؛ لہذا خدا را اس کو دانستہ نا انصافی یا تعصب و جانب داری پر نہ محمول کیا جائے۔

بہر حال، اللہ تعالیٰ ہم سب کو پورے اخلاص اور اخروی جواب دہی کے احساس کے ساتھ ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ام المدارس دارالعلوم دیوبند کو ہر طرح کے شرور و فتن سے محفوظ فرما کر ترقیات سے نوازے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین!

محمد اللہ خلیلی قاسمی
۱۰ محرم ۱۴۴۲ھ / ۳۰ اگست ۲۰۲۰ء

پہلا باب

قیام دارالعلوم کاپس منظر اور نصب العین

- ہندوستان میں مسلمانوں کی علمی و دینی تاریخ _____ ۴۷
- ہندوستان میں مدارس اسلامیہ کی تاریخ _____ ۵۷
- قیام دارالعلوم کاپس منظر _____ ۶۴
- قیام دارالعلوم دیوبند _____ ۷۰
- دارالعلوم کانسب العین اور بنیادی اصول _____ ۷۵
- دارالعلوم دیوبند کیا ہے؟ _____ ۸۱

ہندوستان میں مسلمانوں کی علمی و دینی تاریخ

ہندوستان اور عرب کے درمیان تعلقات زمانہ قدیم سے چلے آ رہے تھے۔ ہندوستان کے ساحلی علاقوں میں عرب تجار کے ذریعہ ہندوستان کے باشندے بالکل پہلی صدی میں ہی اسلام سے آشنا ہو چکے تھے۔ خلافت راشدہ کے عہد میں بھی مسلمانوں کی معمولی فوجی مہمات پیش آئیں، لیکن ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد کا پہلا اہم سلسلہ پہلی صدی ہجری کے اخیر (۱۲ء میں) محمد بن قاسم کے فتح سندھ سے شروع ہوا۔ بعد میں سلطان محمود غزنوی کے دور (۹۹۹-۱۰۳۰ء) تک مسلم حکومت شمالی ہندوستان تک وسیع ہو گئی۔ پھر ۱۲۰۶ء میں سلطان شہاب الدین غوری کے نائب قطب الدین ایبک کے ذریعہ دہلی سلطنت کا زمانہ شروع ہوا جو ۱۵۲۶ء تک جاری رہا اور اس کے بعد مغل حکومت شروع ہوئی جس نے ۱۸۵۷ء میں آخری سانسیں لیں۔ درمیان میں ملک کے مختلف حصوں میں متعدد مضبوط مسلم حکومتیں بھی قائم ہوئیں۔

یہ ایک ناقابل انکار تاریخی حقیقت ہے کہ مسلم فاتحین نے اس ملک کو فتح کر کے یہاں کے باشندوں کا نہ صرف دل جیت لیا بلکہ وہ اسی سرزمین کے ہو کر رہ گئے۔ انھوں نے خود کو اس سرزمین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا اور برصغیر کے مختلف حصوں اور ٹکڑوں کو ملا کر ایک عظیم ہندوستان کا روپ دیا۔ اس خطہ ارضی کو ہند یا ہندوستان کا نام بھی مسلمانوں نے ہی دیا۔ انھوں نے ملک کے تمام باشندوں کے ساتھ یکساں عدل و انصاف، مساوات و برابری اور اخوت و ہمدردی کا معاملہ کیا۔ ان کی انصاف پسندانہ پالیسیوں کی بدولت ملک نے بے پناہ ترقی کی اور اقوام عالم میں اسے نمایاں مقام حاصل ہوا۔ ہندوستانیوں کی خوش حالی اور ترقی کے چرچے عرب، افریقہ اور یورپ میں ہونے لگے۔

دوسری طرف یہ بھی ایک مسلمہ تاریخی حقیقت ہے کہ مسلمانوں کے طرز و سلوک، عادات و اخلاق اور خاص طور سے صوفیائے کرام اور اولیائے عظام کی خاموش تبلیغ کی بدولت عام ہندوستانیوں کی ایک بڑی تعداد نے اسلام کا دامن تھاما اور اس کی حقانیت و صداقت پر ایمان لے آئے۔ اسلام کے ان بے لوث خادموں اور شاہان بوریہ نشین کی زندگیاں ان مخلص مبلغوں کی بہترین مثال ہے جن کے سایہ عاطفت میں ہندوستانی معاشرہ کے ستارے ہوئے ہزاروں مظلوموں کو نہ صرف پناہ ملی بلکہ تنگ و تاریک دنیا میں روشنی و کشادگی کے لیے ترستی ہوئی انسانیت کو خدا کی وسیع زمین میں فطرت کے انمول خزانوں سے بہرہ ور ہونے اور غلامی و محکومی کی آہنی زنجیروں سے جکڑے ہوئے بے بس انسانوں کو خالق کائنات کی بخشی ہوئی آزادی سے مستفید ہونے کا موقع ملا۔ حضرت سید علی ہجویری، خواجہ معین الدین چشتی اور سید علی بن شہاب ہمدانی وغیرہ کا شمار انہی بزرگوں میں ہوتا ہے۔

مسلم حکمرانوں کے تمدنی کارنامے

مسلمان جب ہندوستان میں آئے تو یہاں قدیم علوم اور فلسفہ موجود تھا۔ غلہ، میوہ اور خام اشیاء بہ کثرت پیدا ہوتی تھیں، لیکن تہذیبی لحاظ سے وہ متمدن دنیا سے عرصہ دراز سے بالکل الگ تھلگ تھا۔ اونچے اونچے پہاڑ اور وسیع سمندر اس برصغیر کے لیے بیرونی دنیا سے رابطہ قائم کرنے میں مانع تھے۔ سکندر اعظم (۳۵۶ تا ۳۲۳ قبل مسیح) آخری حکمران تھا جو باہر کی متمدن دنیا سے یہاں آیا تھا۔ اس کے بعد سے مسلمانوں کے آنے تک باہر کی دنیا سے اس کا کوئی رشتہ نہ تھا، نہ تو باہر کے افکار و خیالات، علوم و تمدن اور نظم و نسق کے نئے طریقے یہاں تک پہنچے تھے اور نہ یہاں کے قدیم علوم باہر جاسکے تھے۔ ایسی حالت میں مسلمانوں نے جو اس وقت مشرق کی سب سے ترقی یافتہ قوم تھی اس ملک میں قدم رکھا۔ مسلمانوں کے ساتھ ایک مبنی بر عقل و حکمت مذہبی نظام، ترقی یافتہ تمدن اور شائستہ تہذیب تھی جو متعدد تہذیبوں کے قیمتی تجربات اور دنیا کی بہت سی قوموں کے ذہین انسانوں کے نتائج فکر کا مجموعہ تھی؛ ان میں عربوں کا ذوق سلیم، ایرانیوں کی لطافت اور ترکوں کی سادگی و پرکاری سب کچھ تھی۔

مسلمانوں نے ہندوستان کو سب سے نادر تحفہ اسلام کے خالص عقیدہ توحید کی شکل میں دیا جس کے تحت عبد اور معبود کے درمیان کسی درمیانی ہستی کی ضرورت نہیں۔ نیز اس وقت کے ہندوستان میں راج طبقاتی نظام میں مبتلا معاشرتی زندگی میں دوسری بیش قیمت چیز اسلامی اخوت و مساوات کا تصور تھا جس سے طبقاتی نظام کی بندشیں بڑی حد تک ڈھیلی پڑ گئیں اور ملک میں اس ظالمانہ نظام کے خلاف رد عمل شروع ہوا۔ مسلمانوں نے جدید علوم ہندوستان میں منتقل کیے، انھوں نے اس ملک کو رزمیہ قصائد اور دیومالائی کہانیوں کے دور سے نکال کر تاریخ اور دیگر سماجی و سیاسی علوم کی روشنی سے روشناس کیا۔ انھوں نے اس ملک کے تمدن و ثقافت، صنعت و حرفت، زراعت و تجارت، طرز بود و باش اور لباس و پوشاک پر گہری چھاپ ڈالی۔ انھوں نے اس ملک کی زندگی میں ایک نیا اور خوش گوار انقلاب پیدا کیا۔ مسلمانوں نے اس ملک کو لازوال تعمیری یادگاریں بھی دیں جو آج بھی اس ملک کی عظمت رفتہ کی کہانی بیان کرتی ہیں۔ غرض کہ مسلمانان ہند نے وطن عزیز کے ساتھ ہمیشہ گہری دل چسپی اور مخلصانہ وابستگی کا ثبوت دیا اور اس کی علمی خدمت اور صنعتی و ثقافتی ترقی میں انھوں نے کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا۔

اسوۃ نبوی اور قرآنی وعدے (سورۃ النساء ۱۰۰) کے مطابق ہجرت مسلمانوں کے لیے وسعت و کشادگی کا ذریعہ تھی۔ اسی بنیاد پر وہ ہر ملک ملک ما است کہ ملک خدائے ما است پر یقین رکھتے تھے۔ چنانچہ مسلمان جس حیثیت سے بھی اس ملک میں آئے انھوں نے اسے اپنا وطن، اپنا گھر اور اپنی دائمی قیام گاہ سمجھا؛ چنانچہ اس ملک کی خدمت کے لیے انھوں نے اپنی بہترین صلاحیتیں اور خدا کا قابلیت و ذہانت صرف کر دی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ اس ملک کی دولت میں جو بھی اضافہ کریں گے وہ گویا خود ان کی اپنی ثروت میں اضافہ ہوگا کیوں کہ ان کا مستقبل اسی سرزمین سے وابستہ ہے۔ اس تصور کا قدرتی نتیجہ تھا کہ مسلمانان ہند اس ملک کو جس نظر سے دیکھتے تھے وہ

انگریزوں اور دوسری استعمار پسند طاقتوں سے بالکل مختلف تھی۔ اس ملک کی ترقی و خوش حالی میں مسلمانوں نے جس دل چسپی سے کام لیا، اس کا حقیقی راز یہی ہے۔ دوسری طرف یورپی استعماری طاقتوں نے ملک کو بری طرح لوٹا اور کھسوتا، حتیٰ کہ ان کی اس لوٹ کھسوٹ سے قحط سالی، خشک سالی اور قلت غذا کی بدولت لاکھوں لاکھ انسان لقمہ اجل بن گئے اور سونے کی چڑیا کہا جانے والا ملک ۱۹۴۷ء تک کنگال ہو گیا۔ (۱)

مسلم حکمرانوں کے عہد میں تعلیمی ترقی

ہندوستان کے مسلم حکمرانوں اور اہل ثروت نے علم و فن کی سرپرستی کی اور علماء و اہل فن کی قدر دانی کی۔ سندھ و ملتان کی عرب حکومتیں ہوں، یا دہلی سلطنت اور مغلیہ سلطنت یا ہندوستان کے طول و عرض میں قائم ہونے والی علاقائی مسلم حکومتیں، سبھی کم و بیش علم کی سرپرستی میں پیش پیش رہتی تھیں۔ مسلمانوں کی مذہبی تعلیم عموماً مساجد اور خانقاہوں وغیرہ میں ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ حکومت کی طرف سے مدارس اور اوقاف کا بھی سلسلہ تھا۔ اس زمانے میں عموماً ہر عالم کا گھریا امیر و رئیس کی دیوڑھی عام لوگوں کی تعلیم کے لیے وقف ہوتی تھی۔ کپتان الیگزینڈر ہملٹن اپنے سفر نامے میں شہنشاہ اورنگ زیب کے زمانے کی حالت بتلاتا ہوا لکھتا ہے کہ صرف شہر ٹھٹھہ (سندھ) میں چار سو کالج مختلف علوم و فنون کے تھے۔ اسی طرح المقریزی نے کتاب الخطط میں نقل کیا ہے کہ محمد تعلق کے عہد میں صرف شہر دہلی میں ایک ہزار مدرسے تھے۔ ملک کے بڑے شہروں میں مدارس اور تعلیم گاہیں تھیں۔ اسی طرح ہر ہرقریہ اور دیہات میں ایسے مدارس موجود تھے جس میں لکھنے پڑھنے اور حساب وغیرہ کی تعلیم ہوتی تھی۔ (۲)

مسلم حکمرانوں نے پورے ہندوستان میں اشاعت تعلیم کے لیے مرکزی مقامات پر مدارس قائم کیے جہاں ملک کا ہر طبقہ اور ہر گروہ تعلیم حاصل کر سکے۔ اس زمانے میں سفری سہولیات کی عدم دستیابی کی وجہ سے انھوں نے اشاعت تعلیم کا ایک طریقہ یہ اختیار کیا کہ ملک میں جہاں جہاں علماء اور معلمین رہتے تھے ان کے لیے خزانہ شاہی سے وظائف مقرر کر دیے جن کے عوض وہ اپنے اپنے مقامات پر فارغ البالی کے ساتھ بغیر کسی معاوضہ و اجرت کے مشغول درس و تدریس رہتے تھے۔ نیز طلبہ کے لیے اوقاف کی مددیں عام تھیں جن سے ان کے ذاتی و تعلیمی مصارف پورے کیے جاتے تھے۔ علماء و طلبہ کے ان وظائف کو قدیم تاریخی اصطلاح میں مدد معاش کہا جاتا تھا۔ اس طریقے کے باعث تعلیم مفت اور عام، نیز اس زمانے کی حالت کے لحاظ سے بہت سہل الحصول ہو گئی تھی۔ واضح رہے کہ اس مدد معاش میں ہندو اور مسلمان کی کوئی تفریق نہ تھی، بلکہ دونوں قوموں کے مذہبی اشخاص کے لیے یہ رقمیں مقرر ہوتی تھیں۔ قدیم زمانے میں علماء مسلمانوں کے مذہبی رہ نما اور تعلیمی اشخاص تھے، اسی طرح ہندوؤں میں پنڈت یا گوشائیں ان کے مذہبی رہ نما اور معلم یا گروہوتے تھے۔ اس لیے اس سلسلے میں جتنے وظائف تھے وہ مذہبی خدام و معلمین اور گروہوں کی اعانت اور عوام الناس کی تعلیمی و مذہبی کفالت کی حیثیت رکھتے تھے۔ آج تک ان مدد معاش کے فرامین ہندو اور مسلمانوں کے بہت سے خاندانوں میں موجود ہیں۔ (۳)

مسلمانوں کی آمد سے پہلے ہندو قوم دوسری قوموں کو پیچھے اور ناپاک خیال کرتی تھی، اس وقت کسی کے خیال میں نہیں آسکتا تھا کہ وہ کسی زمانے میں دوسری قوموں کے ساتھ مل جل کر کام کرے گی، اس کی زبان سیکھے گی، اس کے علوم و فنون پڑھے گی اور اس کے ساتھ شاگردی و استادی کا رشتہ قائم کرے گی؛ لیکن مسلمانوں کی آمد کے سو دو سو برس ہی کے اندر ان خیالات میں بڑا تغیر پیدا ہوا اور ہندوؤں کے اخلاق و معاشرت میں بڑی تبدیلی پیدا ہوئی۔ اگر مسلمانوں نے ہندوؤں کو ان کی قدیم تنگ خیالی سے نکالنے اور ان میں دوسری قوموں کے علوم و فنون کو سیکھنے کا شوق نہ پیدا کیا ہوتا تو کیا یہ ممکن تھا کہ انگریزوں کی حکومت کے اول یوم سے وہ انگریزی تعلیم کا آغاز کر دیتے۔ یہ حقیقت ہے کہ مسلم عہد کی تعلیمی ترقی کی بنیاد پر ہی ہندو انگریزی عہد میں ترقی سے ہمکنار ہوئے۔ ہندوؤں پر مسلمانوں کا دوسرا تعلیمی احسان یہ ہے کہ ہندو دھرم کے مطابق تعلیم ہندوؤں کے ایک مخصوص طبقے تک محدود تھی، برہمنوں کے علاوہ دیگر طبقوں میں تعلیم کا یا تو مطلق رواج نہ تھا یا تھا تو بہت ہی کم۔ لیکن مسلمانوں نے ہندوستان آ کر تعلیم کو ہندوؤں کے ہر طبقے میں عام کر دیا اور برہمنوں سے لے کر کھتری، کاہستھ، بنئے اور ان سے بھی نیچے درجوں تک علم اتر آیا۔ مسلمانوں کے عہد میں یہ حال تھا کہ برہمنوں سے زیادہ کاہستھ اور کھتری تعلیم یافتہ تھے۔ مسلمانوں نے ہندوؤں کے تعلیمی علوم اور فنون میں وسعت پیدا کی۔ مسلمانوں کے عہد سے پہلے ہندوستان میں جن علوم کی تعلیم رائج تھی، ان کی فہرست نہایت مختصر تھی، ان کے نصاب تاریخ اور جغرافیہ سے خالی تھے۔ فلسفہ و حکمت، ہیئت و اقلیدس، طب و موسیقی اور شاعری وغیرہ ہندوستان میں پہلے سے موجود تھی، لیکن ان کی تعلیم مخصوص طبقوں تک محدود تھی اور ان علوم سے متعلق دنیا کی دیگر قوموں کی تحقیقات سے ہندو بالکل نابلد تھے۔ مسلمان علماء نے ان کے نصاب تعلیم کی کمی پوری کی اور انھوں نے بے شمار کتابیں عربی سے سنسکرت میں ترجمہ کیں۔ اگرچہ ہندوؤں کی تعلیم سلاطین دہلی کے زمانے سے شروع ہو گئی تھی اور ہر دور میں ان میں ایسے صاحب علم و کمال پیدا ہوتے رہے جو حکومت کے اعلیٰ عہدوں پر ممتاز ہوئے، لیکن ان کی تعلیمی ترقی اور عروج کا دور تیموریوں کے زمانے سے ہوا۔ مغلوں نے تعلیم کا دائرہ وسیع کرنے کے لیے عربی مدارس کے مروجہ مذہبی نصاب کے علاوہ ایک مشترک نصاب بھی بنایا تھا جس کو ہندو اور مسلمان دونوں پڑھ سکیں۔ (۴)

اسلامی علوم و فنون کی ترقی

ہندوستان میں مسلمانوں کے عہد میں دیگر علوم و فنون کی طرح اسلامی علوم و فنون میں خوب ترقی ہوئی۔ سندھ، گجرات اور ملتان و لاہور میں اسلامی علوم و فنون کے مراکز تھے۔ ان علاقوں میں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے اور انھوں نے علوم اسلامیہ کی خوب خدمت کی۔ عام طور پر ان علاقوں میں تفسیر و حدیث اور فقہ کی خدمت زیادہ کی گئی۔ لیکن تیرہویں صدی عیسوی میں جب پورے ملک میں مسلم حکومت قائم ہوئی وہ عالم اسلام میں بنیادی طور پر علمی زوال و انحطاط کا دور تھا۔ مسلم ممالک پر تاتاریوں کی قیامت اور خلافت اسلامیہ کے سقوط کے بعد علمی و تمدنی ترقی

ایک طرح سے رک سی گئی۔ تاہم خراسان و ماوراء النہر اور بغداد کی تباہی و بربادی سے ہندوستان کے لیے خیر کا ایک پہلو یہ نکلا کہ مسلم علماء و اہل فن کی ایک بڑی تعداد نے دہلی کا رخ کیا اور یہاں ان کی قدر دانی کی گئی۔ تاہم یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس زمانے میں ان علاقوں میں عمومی رجحان فقہ کی طرف تھا، حدیث و تفسیر کی طرف توجہ نسبتاً کم تھی؛ اس لیے دہلی سلطنت کے عہد میں فقہ اسلامی کی طرف تمام اسلامی علوم سے زیادہ توجہ کی گئی۔ مغل شہنشاہ اکبر کے عہد میں علمی رجحان میں ایک بڑی تبدیلی یہ آئی کہ علوم عقلیہ کو مرکزی اہمیت حاصل ہو گئی اور منطق و فلسفہ منہجائے علم تصور کیے جانے لگے۔ تاہم علمائے ہند نے تفسیر، حدیث، فقہ و فتاویٰ اور دیگر علوم اسلامیہ میں ایک قابل قدر ذخیرہ چھوڑا ہے جس کا مختصر تذکرہ ذیل میں کیا جا رہا ہے۔

ہندوستان میں علم تفسیر

ہندوستانی علمائے کرام نے تفسیر اور علوم قرآن میں ایک قابل قدر ذخیرہ چھوڑا ہے۔ معلوم تاریخ کے مطابق شیخ محمد ابن احمد شریکی ماریکلی شم دہلوی (۶۸۳ھ مطابق ۱۲۸۵ء) عہد بلبن کے مشہور عالم تھے انھوں نے تفسیر کاشف الحقائق و قاموس الدقائق، لکھی جو خالص عربی زبان میں ایک مکمل تفسیر ہے اور اس کے نسخے مختلف کتب خانوں میں مخطوطے کی شکل میں موجود ہیں۔ اسی طرح شیخ علی بن احمد مہائمی (وفات: ۸۳۵ھ مطابق ۱۴۳۱ء)، جو ماہم (ممبئی) میں مدفون ہیں اور جن کا مزار زیارت گاہ خاص و عام ہے، کی تفسیری تصنیف تعبیر الرحمن و تیسیر المنان بعض مایشیر الی اعجاز القرآن نہایت مشہور ہے اور ریاست بھوپال کے زیر اہتمام بولاق مصر سے ۱۸۷۸ء میں دو جلدوں میں چھپ چکی ہے۔ شیخ مہائمی کی یہ تفسیر بہت سی خوبیوں پر مشتمل ہے اور اس کی سب سے بڑی خوبی ربط آیات ہے۔ انھوں نے ہر سورۃ کے شروع میں اس کا تعارف، نام کی توجیہ اور ہر سورۃ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کو مختلف طریقوں سے سورۃ کے مضمون کے مطابق کیا ہے۔

تفسیر میں قاضی شہاب الدین دولت آبادی شم جون پوری (وفات ۸۲۸ھ/۱۴۲۴ء) کی تفسیر بحر موج (فارسی) غالباً فارسی زبان میں پہلی اور مکمل تفسیر ہے، لیکن صرف بعض اجزا طبع ہوئے ہیں اور اکثر حصے مختلف لائبریریوں میں مخطوطوں کی شکل میں موجود ہیں۔ اسی طرح تفسیر درر ملقط (مصنفہ سید محمد گیسو دراز) (وفات ۸۲۵ھ) صوفیانہ رنگ کی تفسیر ہے اور شیخ حسن محمد بن میانچی احمد آبادی (وفات ۹۸۲ھ) کی تفسیر محمدی، بھی ربط آیات کے نقطہ نظر سے اچھی تفسیر ہے۔ شیخ مبارک ناگوری (وفات ۱۰۰۱ھ/۱۵۹۳ء) کی پانچ ضخیم جلدوں میں ’منج عیون المعانی و مطلع شمس المشانی‘ بڑا نادر تفسیری مخطوطہ ہے۔ شیخ مبارک کے صاحبزادے شیخ ابوالفیض فیضی (وفات ۱۰۰۴ھ) کی سواطع الالہام تو عرب و عجم میں مشہور ہے جو بے نقط الفاظ میں لکھی گئی ہے۔ ہندوستانی علماء کی نایاب تفاسیر میں حاجی عبدالوہاب بخاری (وفات ۹۳۲ھ) کی تفسیر اور شیخ عیسیٰ سندھی (وفات ۱۰۳۱ھ) کی تفسیر انوار الاسرار بھی ہے، جس میں اول الذکر کے اندر قرآن میں درج تمام آیات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت ہونا

بیان کیا گیا ہے۔ احکام کی تفسیر سے متعلق مشہور کتاب شیخ احمد عرف ملا جیون ایٹھوی (وفات ۱۱۳۰ھ مطابق ۱۷۱۸ء) کی تفسیرات الاحمدیہ فی بیان الآیات الشرعیۃ ہے۔ مشہور بزرگ شیخ کلیم اللہ جہان آبادی (وفات ۱۱۴۱ھ مطابق ۱۷۲۸ء) کی قرآن القرآن بالبیان، بھی اہم تفسیری تصنیف ہے جو مختصر ہے اور تفسیر جلالین کے ہم پلہ سمجھی جاتی ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ حنفی نقطہ نظر سے لکھی گئی ہے۔ دور اخیر میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی (وفات ۱۲۲۵ھ) کی تفسیر مظہری اور نواب صدیق حسن خان کی فتح البیان فی مقاصد القرآن، بھی ہندوستان کی اہم تفاسیر میں شمار کی جاتی ہیں۔ ہندوستان میں ان مکمل تفاسیر کے علاوہ عربی و فارسی میں بہت سی نامکمل تفاسیر بھی لکھی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ نسخ و منسوخ، رسم خط، تجوید و قراءت، تخریج آیات، مفردات قرآن، اعجاز القرآن، فضائل قرآن اور احکام قرآن پر بھی بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں جن کی فہرست طویل ہے۔ (۵)

ہندوستان میں قرآن اور علوم قرآن کی اشاعت میں بھی خانوادہ ولی اللہی کا بڑا حصہ ہے۔ شاہ ولی اللہ نے خود قرآن کریم کا فارسی ترجمہ کیا اور اصول تفسیر میں ایک نادر کتاب لکھی۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بھی تفسیر فتح العزیز لکھی جو نامکمل رہ گئی، لیکن جتنی بھی ہے بے نظیر ہے۔ شاہ ولی اللہ کے صاحبزادوں میں شاہ رفیع الدین دہلوی (وفات ۱۲۳۳ھ) اور شاہ عبدالقادر دہلوی (وفات ۱۲۳۰ھ) نے قرآن کریم کے ترجمہ و تفسیر کی اہم خدمات انجام دیں، جن میں مؤخر الذکر کا اردو ترجمہ قرآن دو صدیوں سے اردو زبان کے تمام مترجمین و مفسرین کے لیے ماخذ اول کی حیثیت رکھتا ہے۔

ہندوستان میں علم حدیث

ہندوستان میں علم حدیث کی ابتدا فتح سندھ کے بعد سے ہوئی۔ اس زمانے میں متعدد اہل علم پیدا ہوئے جن میں اسرائیل بن موسیٰ البصری، ابوالعباس احمد بن محمد المنصور، ابو معشر حجاج سندھی وغیرہ تھے۔ اسی طرح دوسری صدی ہجری میں خطہ گجرات کو تاج تابعی ربیع بن صبیح السعدی کے قدم کا شرف حاصل ہوا۔ پھر ۷۷۷ھ مطابق ۱۱۸۱ء میں لاہور کی سرزمین سے امام رضی الدین حسن صفانی (وفات ۱۲۵۲ء) کی پیدائش ہوئی جنہوں نے حدیث کی مشہور کتاب 'مشارق الانوار' ترتیب دی۔ بعد میں کئی صدیوں تک یہ کتاب ہندوستان کے مدارس میں حدیث کی منتہی کتابوں میں تھی۔ حدیث سے اشتغال کا دوسرا دور دسویں صدی ہجری میں آیا جب متعدد علماء نے حریم شریفین جا کر وہاں کے علماء سے فیض حاصل کیا اور واپس آ کر حدیث کی خدمت میں مشغول ہوئے۔ اس عہد میں علم حدیث کے حوالے سے دو مشہور شخصیات پیدا ہوئیں: ایک شیخ علاء الدین علی متقی جون پوری ثم برہانپوری (وفات ۹۷۵ھ مطابق ۱۵۶۷ء) جنہوں نے 'کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال' نام سے مشہور زمانہ کتاب تصنیف کی۔ یہ کتاب اس وقت سولہ سترہ جلدوں میں شائع ہو رہی ہے۔ دوسرے مشہور عالم شیخ محمد بن طاہر پٹنئی گجراتی (وفات ۹۸۶ھ مطابق ۱۵۷۸ء) تھے جنہوں نے علم حدیث میں 'مجمع البحار فی غرائب التزیل و لطائف الاخبار'، 'المغنی فی

اسماء الرجال، اور التذکرۃ فی الموضوعات، جیسی مشہور کتابیں تصنیف کیں۔ مغلیہ دور حکومت میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی (وفات: ۱۰۵۲ھ مطابق ۱۶۴۲ء) جیسا دیدہ ورمحدث و مصنف پیدا ہوا۔ شیخ عبدالحق دہلوی کی نے علم حدیث کی اشاعت میں گراں قدر خدمات انجام دیں اور بے شمار کتابیں تصنیف فرمائیں جن میں اشعۃ اللمعات و لمعات التفتیح وغیرہ زیادہ مشہور و متداول ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور ان کے صاحبزادے شیخ نورالحق نے حدیث کی تعلیم کو ہندوستان میں وسعت دینے کی بھرپور کوشش کی۔ اسی طرح مجدد الف ثانی کے خانوادہ نے بھی حدیث کی خدمت میں حصہ لیا، خصوصاً صاحبزادہ محمد سعید سرہندی نے مشکاۃ کی شرح لکھی اور ان کی اولاد میں خاص طور پر فرخ شاہ ایسے عالم گذرے ہیں کہ جن کو ستر ہزار احادیث یاد تھیں۔ اسی خانوادہ میں شیخ سراج سرہندی ثم رامپوری ہوئے ہیں جنہوں نے ترمذی کی شرح لکھی اور دوسرے عالم شیخ محمد اعظم ابن سیف الدین معصومی سرہندی نے بخاری شریف کی شرح لکھی۔ ان کے علاوہ، دیگر بہت سے علماء ہوئے جنہوں نے ہندوستان میں علم حدیث کی اشاعت میں حصہ لیا۔

دور آخر میں حدیث کی خدمت و اشاعت کا سہرا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (وفات ۱۱۷۶ھ مطابق ۱۷۶۲ء) اور ان کے خانوادے کے حصے میں آیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حجاز جا کر وہاں کے ممتاز علمائے کرام سے استفادہ کیا اور ہندوستان واپس آ کر دیگر تعلیمی و اصلاحی سرگرمیوں اور غیر معمولی علمی و فکری کارناموں کے ساتھ ساتھ علم حدیث کی تعلیم کا ایک عظیم الشان سلسلہ شروع کیا۔ آج برصغیر میں تمام علمائے حدیث کی سند حضرت شاہ ولی اللہ کے واسطے سے ہی گذرتی ہے اور اسی لیے بجا طور پر آپ کو مسند الہند کہا جاتا ہے۔ ہندوستان میں صحاح ستہ کی تعلیم کو جزو نصاب بنانے کا کارنامہ خانوادہ ولی اللہی کے ذریعہ انجام پایا۔ شاہ صاحب کے بعد آپ کے لائق و فائق صاحبزادے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی (وفات ۱۲۳۹ھ مطابق ۱۸۲۳ء) نے نصف صدی سے زائد عرصہ تک ہندوستان کے قلب دہلی میں بیٹھ کر علم حدیث کا وہ دریا رواں کیا کہ اس سے ہندوستان کی مغربی حدود سے لے کر مشرق تک ہر جگہ کے طالبان علم نے علمی پیاس بجھائی۔ حضرت شاہ ولی اللہ کے دیگر صاحبزادے؛ شاہ رفیع الدین، شاہ عبدالقادر، آپ کے پوتے شاہ اسماعیل ابن شاہ عبدالغنی اور شاہ عبدالعزیز کے داماد شاہ مولانا عبدالحی بڈھانوی وغیرہ حضرات بھی اسی سلسلہ عالیہ کی سنہری کڑیاں ہیں۔ اس خانوادے میں علم حدیث کے حوالے سے دوسری نمایاں ترین شخصیت نواسہ شاہ عبدالعزیز شاہ اسحاق بن محمد افضل عمری دہلوی مہاجر کی (وفات: ۱۲۶۲ھ مطابق ۱۸۴۶ء) کی ہے۔ ان کے بعد مولانا عبدالغنی بن ابو سعید مجددی دہلوی مہاجر مدنی (وفات ۱۲۹۶ھ مطابق ۱۸۷۹ء) نے دہلی میں مسند حدیث سنبھالی اور ان سے بے شمار لوگوں نے استفادہ کیا۔ علمائے دیوبند کا سلسلہ سند خانوادہ ولی اللہی کے انہی بزرگوں سے ملتا ہے۔

علمائے ہند نے علم حدیث میں مختلف موضوعات پر سیکڑوں کتابیں تصنیف فرمائیں ہیں، گو ان میں سے بہت سی ناپید ہیں یا منطوطات کی شکل میں موجود ہیں، تاہم ان میں سے کچھ طبع بھی ہو چکی ہیں۔ (۶)

ہندوستان میں علم فقہ

ہندوستانی علماء نے فقہ و اصول فقہ خصوصاً فقہ حنفی میں بے شمار تصنیفی خدمات انجام دی ہیں اور اس باب میں ان کی تصانیف دیگر علوم کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں۔ فتاویٰ، درسی کتابوں کی شروح و حواشی، فقہی کتابیں، فقہی جزئیات پر کتب و رسائل، اصول فقہ، اجتہاد و تقلید اور علم الفرائض وغیرہ پر سیکڑوں کتابیں عربی اور فارسی زبانوں میں لکھی گئیں۔ تاہم ہندوستان میں لکھی جانے والی فقہ و فتاویٰ کی کچھ مشہور اور اہم کتابوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔

عہد سلطنت میں سب سے عظیم الشان فقہی کارنامہ 'فتاویٰ تاتارخانیہ' ہے جسے شیخ عالم بن علاء اندرپتی (وفات ۸۶۷ھ/۱۳۸۹ء) نے انجام دیا۔ یہ فیروز شاہ تغلق کے عہد کے ایک رئیس تاتارخان کی سرپرستی میں انجام پایا؛ اس لیے اس کا نام تاتارخانیہ رکھا گیا۔ فتاویٰ تاتارخانیہ درحقیقت فقہ حنفی کا ایک عظیم انسائیکلو پیڈیا ہے۔ اس کتاب کا مکمل نسخہ مولانا مفتی شبیر احمد قاسمی (مدرسہ شاہی مراد آباد) کی کوششوں سے ۲۳ جلدوں میں طبع ہوا۔ اسی عہد میں شیخ داؤد بن یوسف الخطیب کی 'فتاویٰ الغیاشیہ' معرض وجود میں آئی جو سلطان غیاث الدین بلبن (عہد: ۱۲۶۶-۱۲۸۷ء) کی طرف منسوب ہے، لیکن اس وقت اس کے نامکمل نسخے ہی لائبریریوں میں موجود ہیں۔ اسی طرح فتاویٰ قرآنی بھی فارسی زبان میں ایک فقہی مخطوطہ ہے جو جلال الدین خلجی کے عہد (۱۲۹۰-۱۲۹۶ء) میں شیخ یعقوب مطرف کرمانی نے لکھا اور قبور قرآنی نے اسے جمع کیا۔ 'نوائد فیروز شاہی' اسی عہد کا ایک دوسرا مجموعہ فتاویٰ ہے جسے شیخ محمد عطائی نے سلطان فیروز شاہ تغلق کے عہد (۱۳۵۱-۱۳۸۹ء) میں لکھا۔ اسی طرح مفتی رکن الدین بن حسام الدین ناگوری کی کتاب فتاویٰ حمادیہ اور ابراہیم شاہ شرقی کے عہد (۱۴۰۲-۱۴۳۰ء) میں قاضی نظام الدین کیرکوانی کی دو جلدوں میں فتاویٰ ابراہیم شاہی بھی قابل ذکر کتابیں ہیں۔

فتاویٰ کے علاوہ اس عہد کے اندر اصول فقہ میں 'الفائق فی اصول الدین' (مصنفہ شیخ محمد بن عبدالرحیم)، قضا ء میں 'صنوان القضاء و عنوان الالقاء' (مصنفہ شیخ ابو محمد محمد بن الخطیب)، فقہ حسبہ میں مشہور کتاب 'نصاب الاحساب' (مصنفہ قاضی ضیاء الدین عمر بن عوض السنائی) اور اختلاف مذاہب میں 'زبدۃ الاحکام فی اختلاف ائمة الاعلام' (مصنفہ شیخ سراج الدین حنفی) اور 'الغرۃ المہدیۃ فی ترجیح مذہب ابی حنیفہ' (مصنفہ شیخ ابو حفص سراج الدین) ہندوستان میں ہی لکھی گئیں۔

مغلیہ عہد میں فقہ کا سب اہم کارنامہ فتاویٰ ہندیہ (فتاویٰ عالمگیری) ہے اور پوری دنیا میں معروف و مشہور ہے۔ فتاویٰ کا یہ مجموعہ سلطان اورنگزیب عالمگیر کے ایما پر ہندوستانی علماء کی ایک جماعت نے شیخ نظام الدین برہان پوری کی سرپرستی میں تیار کیا۔ سلطان اورنگزیب کے عہد (۱۶۵۸-۱۷۰۷ء) میں اس کے علاوہ بھی اور کئی فتاویٰ کی کتابیں لکھی گئیں جن میں 'فتاویٰ نقشبندیہ' (مصنفہ شیخ معین الدین محمد خواجہ محمود نقشبندی کشمیری وفات ۱۶۷۴ء)؛ 'فتاویٰ مجمع البرکات' (مصنفہ شیخ ابوالبرکات بن حسام الدین دہلوی) (وفات ۱۷۰۷ء) خاص طور پر قابل

ذکر ہیں۔ ہمایوں کے عہد (۱۵۳۰-۱۵۵۶ء) میں لکھا جانے والا 'فتاویٰ امینیہ' (مصنفہ شیخ امین بن عبید اللہ مومن آبادی) اور ۱۵۸۸ء میں لکھا جانے والا 'فتاویٰ براہنہ' (مصنفہ شیخ ناصر الدین لاہوری) بھی اہم ہے، یہ دونوں فتاویٰ فارسی زبان میں ہیں۔ شاہ عالم ابن اورنگزیب کے عہد (۱۷۰۷-۱۷۱۲ء) میں قاضی گجرات شیخ عبدالحمید ٹھٹھوی کا 'فتاویٰ شانی' اور مفتی لکھنؤ شیخ تاج محمد ابن محمد سعید لکھنوی کی ۱۷۰۸ء میں تصنیف شدہ کتاب 'فتاویٰ السراج المنیر' بھی قابل ذکر ہیں، مؤخر الذکر کتاب کے مخطوطہ نسخے دارالعلوم دیوبند کی لائبریری میں بھی محفوظ ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی کتاب 'فتاویٰ عزیز' بھی اسی آخری دور کی ایک یادگار ہے۔

مغلیہ عہد میں فقہ، اصول فقہ، فرائض اور شروح و حواشی میں بے شمار کتابیں لکھی گئیں، ان میں ملامحبت اللہ اللہ آبادی (وفات ۱۷۰۷ء) کی 'مسلم الثبوت'، ملا جیون (وفات ۱۷۱۸ء) کی 'نور الانوار' اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی 'فتح المنان فی تائید مذہب العثمان' مشہور اور بے مثال کتابیں ہیں۔

مغلیہ عہد ہی میں لکھنؤ کا خاندان فرنگی محل وجود میں آیا جہاں ملا نظام الدین سہالوی (وفات ۱۷۴۷ء) نے ایک عظیم تعلیمی مرکز کی داغ بیل ڈالی۔ چنانچہ فرنگی محل آئندہ دو صدیوں تک علم و علماء کا مرکز بنا رہا اور اس کی خاک سے بے شمار مشاہیر اہل علم پیدا ہوئے۔ فرنگی محل کا خصوصی ذوق فقہ و معقولات کا تھا۔ فرنگی محلی علماء نے فقہی موضوعات پر بہت سی کتابیں لکھیں جن میں سب سے اہم نام مولانا ابوالحسنات عبدالرحمنی لکھنوی (وفات ۱۸۸۶ء) کا ہے۔ (۷)

عہد اسلامی کی اصلاحی و تجدیدی تحریکات

ہندوستان کے طول و عرض میں علمائے کرام اور صوفیائے عظام کی ایک بڑی تعداد ہر زمانے میں رہی ہے جو تعلیم و تعلم اور اصلاح و تبلیغ میں مشغول رہی۔ تاہم مرور زمانہ اور غیر مسلم اقوام سے میل جول کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر فکری و عملی اور اخلاقی و معاشرتی خرابیاں اور کمزوریاں بھی پیدا ہوئیں اور اس کی اصلاح کا کام علمائے وقت نے خیر و خوبی کے ساتھ انجام دیا۔

اس سلسلے کی سب سے نمایاں نام حضرت شیخ احمد سرہندی (وفات ۱۰۳۴ھ/۱۶۲۳ء) ہے جنہیں ان کی عظیم الشان اصلاحی و تجدیدی خدمات کی وجہ سے بجا طور پر مجدد الف ثانی کہا جاتا ہے۔ مجدد الف ثانی نے درحقیقت اسلام کے ساتھ ہندوستانی مسلمانوں کے رشتہ کی از سر نو تجدید و توثیق کی اور شریعت محمدیہ کو تغیر و تحریف، غلط تاویلات اور غالی صوفیوں کے الحاد سے بچایا۔ مغل حکومت کو لادینیت، مختلف مذاہب کے اختلاط و امتزاج اور وحدت ادیان کے فتنہ اور برہمنیت کے دوبارہ فروغ سے بچانے کا سہرا بھی آپ کے سر ہے۔ یہ آپ ہی کی مجددانہ کوششوں کا ثمرہ ہے کہ دین اکبری کے داعی شہنشاہ اکبر کے تخت پر شاہجہاں اور اورنگزیب جیسے حق پرست اور صحیح الفکر سلاطین متمکن ہوئے۔ آپ کو پورے عالم اسلام میں مقبولیت حاصل ہوئی اور آپ کا سلسلہ تصوف عرب و حجاز، کردستان و شام اور ترکی و روم تک پھیلا۔

اصلاح و تجدید کی دوسری تحریک کی بنیاد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے ہاتھوں پڑی۔ انھوں نے جہاں ایک طرف قرآن فہمی کو عام کیا، حدیث کے تعلیم کو رواج دیا، فقہی اختلافات میں میانہ روی اور اعتدال کا عملی نمونہ پیش کیا، تصوف کے مختلف طبقات کے درمیان خلیج کو کم کیا، وہیں دوسری طرف علماء و صوفیاء اور عوام و خواص کی اخلاقی و معاشرتی خرابیوں کا ادراک کیا، مسلم حکمرانوں کی خامیوں پر نکیر کیا اور ان سب کی ہمہ جہت اصلاح اور انقلاب کا منصوبہ تیار کیا۔ آپ کے بعد آپ کے اخلاف کے ذریعہ یہ اصلاحی و تجدیدی سلسلہ جاری رہا اور اس کی وجہ سے ہندوستانی مسلمانوں کی سیاسی و سماجی اور دینی و فکری زندگی میں مثبت انقلاب آیا۔ تفصیلات کے لیے مولانا محمد میاں دیوبندی کی کتاب 'علمائے ہند کا شاندار ماضی' اور مولانا ابوالحسن علی ندوی کی 'تاریخ دعوت و عزیمت' ملاحظہ فرمائیں۔

حوالہ جات:

- (۱) ہندوستانی مسلمان، مولانا سید ابوالحسن علی ندوی، مجلس تحقیقات و نشریات اسلام لکھنؤ ۱۹۹۲ء، ص ۳۵ تا ۶۵
- (۲) نقش حیات، حضرت مولانا حسین احمد مدنی، جلد اول، ۱۸۲
- (۳) ہندوستان کی قدیم اسلامی درس گاہیں، ابوالحسنات ندوی، وکیل پک ڈپو امرتسر ۱۳۳۱ھ، ص ۸۳ تا ۸۵
- (۴) ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں کے عہد کے تمدنی کارنامے، دارالمصنفین اعظم گڑھ، ص ۲۲۵ تا ۲۳۹
- (۵) دیکھیں: ہندوستانی مفسرین اور ان کی تفسیریں، ڈاکٹر محمد سالم قدوائی، ادارہ معارف اسلامی لاہور ۱۹۹۳ء؛ تذکرہ مفسرین ہند، محمد عارف اعظمی عمری، دارالمصنفین اعظم گڑھ ۲۰۰۶ء
- (۶) الثقافة الاسلامیہ فی الہند، شیخ عبدالحی الحسنی، مطبوعہ دمشق ۱۹۸۳ء، ص ۱۳۵ تا ۱۶۱
- (۷) دیکھیں: الثقافة الاسلامیہ فی الہند، شیخ عبدالحی الحسنی، مطبوعہ دمشق ۱۹۸۳ء، ص ۱۰۵ تا ۱۳۱؛ برصغیر میں علم فقہ، محمد اسحاق بھٹی، فضلی بک کراچی ۲۰۰۹ء

ہندوستان میں مدارس اسلامیہ کی تاریخ

معاصر دنیا میں تعلیم کو انتہائی اہمیت اور بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ آج تعلیم کو عصر جدید کا تحفہ و عطیہ سمجھا جاتا ہے، جب کہ حقیقت یہ ہے کہ تعلیم کی بنیاد و ترقی کا سہرا اسلام کے سر جاتا ہے۔ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اسلام نے حصول تعلیم پر انتہائی زور دیا ہے، اسلام کو بجا طور پر دنیا میں تعلیم و تعلم کا پیامبر اور علمی انقلاب کا رہنما کہا جاسکتا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے انسانیت نے اپنے وجود کا سفر علم کی روشنی میں شروع کیا؛ جب کہ ایک طرف عیسائیت کے پیروؤں کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان ازلی گناہ کا داغ لے کر پیدا ہوا ہے اور دوسری طرف آج کے سائنسدانوں کے ذریعہ انسانوں کو جانور کی ترقی یافتہ شکل بتایا جا رہا ہے۔ دنیا میں وقت بوقت پیدا ہونے والے دیگر تمام نظامہائے حیات نے علم کو انسانوں کی ایک ضرورت کے خانے میں رکھا جب کہ اسلام نے علم کو انسانی زندگی کی اولین اور اہم ترین ضرورت قرار دیا ہے۔

دنیا میں کوئی تہذیب یا مذہب ایسا نہیں جس نے حصول علم کو سماج کے ہر فرد کے حق کے طور پر قبول کیا ہو۔ ازمنہ قدیمہ کے یونان اور چین کے بارے میں مشہور ہے کہ انھوں نے علم کے میدان میں غیر معمولی ترقیاں کیں، لیکن انھوں نے بھی معاشرہ کے ہر فرد کے لیے تعلیم کی حمایت کبھی نہیں کی۔ ہمارا ہندوستان جو کبھی علم و فن کا گہوارہ تصور کیا جاتا تھا، یہاں تعلیم صرف معاشرہ کے اعلیٰ طبقات کے لیے مخصوص تھی، نچلے طبقے کے افراد کے لیے حصول علم ایک جرم عظیم تھا اور اس جرم کی پاداش میں ان کو بھیانک سزائیں دی جاتی تھیں۔

ظہور اسلام سے قبل یورپ بھی تاریخ کے تاریک ادوار (Dark Ages) سے گزر رہا تھا۔ وہاں جہالت اور علم دشمنی کا یہ عالم تھا کہ علماء، اہل فن اور سائنس دان مجرم قرار دیے جاتے اور سردار لٹکا دیے جاتے تھے۔ بڑے بڑے سائنس دانوں اور ہنرمندوں کو علم و تحقیق کے جرم میں جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا، جلا کر مار ڈالا گیا، تختہ دار پر چڑھا دیا گیا۔

اسی طرح اسلام کی آمد کے وقت جزیرہ العرب میں جہالت کا بول بالا تھا، وہاں نہ کوئی درس گاہ تھی، نہ کتب خانہ اور نہ پڑھنے لکھنے والے لوگ۔ حد یہ تھی کہ بہت سے قبیلے ایسے تھے جنہیں اپنی جہالت پر ناز تھا۔ علامہ بلاذری نے فتوح البلدان میں لکھا ہے کہ قریش میں جو تمام قبائل میں اشرف و ممتاز شمار ہوتا تھا اس میں کل سترہ (۱۷) لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ کاتبین وحی کی کل تعداد مختلف اوقات میں ملا کر تینتالیس (۴۳) تک پہنچتی ہے جس میں انصار و مہاجرین صحابہ شامل ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس تیرہ و تاریک دور میں اسلام نے جو کچھ کردار ادا کیا وہ کسی انقلاب سے کم نہیں تھا۔

اسلام نے اسی جزیرۃ العرب میں علم کا وہ غلغلہ بلند کیا کہ اس کی گونج یورپ کے کلیساؤں سے لے کر ہندوستان کی مندروں تک میں سنائی دینے لگی۔ علم کے ساتھ مسلمانوں کی زبردست وابستگی کا یہ عالم تھا کہ اُس وقت وہ جہاں بھی گئے علم و ادب، تہذیب و تمدن اور فکرو فن کی ایک کائنات ان کے ساتھ گردش کرتی رہی۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد اور اس ملک میں مسلم حکومت کی ابتدا ہی سے اس ملک میں مسلمان اہل علم، حکمرانوں اور امراء نے تعلیم گاہوں کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔

مدارس کا آغاز

اسلام میں مدارس کا آغاز مساجد سے ہوا اور یہی سلسلہ صدیوں قائم رہا۔ بعد میں مساجد کے ساتھ طلبہ کے قیام کے لیے حجرے وغیرہ بھی بنائے جانے لگے۔ اس سلسلے کی عمدہ مثال جامع قرویین اور جامع ازہر وغیرہ ہیں۔ لیکن مسلم دنیا میں پہلا باقاعدہ مدرسہ کب قائم ہوا؟ اس کے بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے۔ مقریزی نے لکھا ہے کہ اسلامی تاریخ میں مدارس کا قیام چوتھی صدی ہجری (دسویں صدی عیسوی) کے بعد عمل میں آیا۔ لیکن نیشاپور میں مدرسہ بیہقیہ اور قاہرہ میں دارالحکمتہ کے قیام کا سراغ چوتھی صدی سے ہی ملتا ہے۔ ابن خلکان نے ابن فورک (وفات ۴۰۶ھ) کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ اہل نیشاپور کی دعوت پر نیشاپور آئے جہاں اہل نیشاپور نے ان کے لیے مدرسہ اور گھر بنایا۔ مقریزی کے مطابق قاہرہ میں الحاکم بامر اللہ کی قائم کردہ علمی اکیڈمی یا دارالحکمتہ ایک عظیم الشان علمی ادارہ تھا جس میں لوگ مطالعہ کے لیے آتے تھے اور بعض لوگ پڑھنے پڑھانے کے لیے آتے تھے اور ان کے لیے درس و تدریس کی آسانیاں مہیا کی گئی تھیں۔ یہ ادارہ ۳۹۵ھ مطابق ۱۰۰۵ء میں قائم کیا گیا۔ اس ادارہ میں قرآن، فقہ، عربی زبان، فلکیات، طب، ریاضی اور نجوم وغیرہ علوم کے شعبے قائم تھے۔ (۱)

سلطان محمود غزنوی نے ۴۰۹ھ مطابق ۱۰۱۸ء میں اپنے پایہ تخت غزنی میں جامع مسجد تعمیر کی اور اس کے ساتھ ہی ایک مدرسہ تعمیر کیا جس میں ایک کتب خانہ بنوایا جو نادر کتابوں سے معمور تھا۔ مسجد اور مدرسہ کے اخراجات کے لیے سلطان نے بہت سے دیہات وقف کر دیے تھے۔ چنانچہ سلطان کے امراء و ارکان سلطنت نے بھی غزنی کے اطراف و جوانب میں بے شمار مدرسے قائم کیے۔ سلطان محمود غزنوی کے جانشین سلطان مسعود نے بھی اپنی حدود مملکت میں بے شمار مدرسے قائم کیے۔ تاہم تاریخ میں سب سے زیادہ شہرت بغداد میں قائم نظام الملک طوسی (وفات ۴۸۵ھ/۱۰۹۲ء) کے مدرسہ نظامیہ کو ملی جو شاید اپنی مستقل عمارت کے ساتھ ساتھ نظام تعلیم و تربیت میں زیادہ منضبط اور فعال تھا۔ (۲)

ہندوستان میں مدارس کا آغاز

وسط ہندوستان میں مسلمانوں کی مستقل حکومت کا قیام ساتویں صدی ہجری (تیرہویں صدی عیسوی) کے اوائل میں ہوا۔ ۶۰۲ھ مطابق ۱۲۰۵ء میں قطب الدین ایبک کی پہلی حکومت قائم ہوئی۔ ہندوستانی قلمرو میں پہلے باضابطہ مدرسہ کا سراغ اُچھ (ملتان) میں ملتا ہے جو ۶۵۸ھ مطابق ۱۲۵۹ء میں وہاں کے حکمران ناصر الدین قباچہ

نے قائم کیا تھا۔ ناصر الدین قباچہ نے اس کے علاوہ دیگر اور مدرسے بھی قائم کیے۔ محمد بختیار خلجی کے سلسلے میں لکھا ہے کہ اسی زمانے میں اس نے بنگال فتح کرنے کے بعد رنگ پور بسا کر اس کو دارالحکومت بنایا اور مسجدیں، خانقاہیں اور مدرسے تعمیر کیے۔

آٹھویں صدی ہجری تک ہندوستان میں اسلامی مدارس قائم کرنے کا رواج عام ہو گیا تھا۔ چنانچہ علامہ مقریزی کی روایت کے مطابق سلطان محمد تغلق کے عہد حکومت (۷۲۵ھ مطابق ۱۳۲۳ء/۷۵۲ھ مطابق ۱۳۵۱ء) میں صرف دہلی میں ایک ہزار مدرسے تھے۔ مدرسین کے لیے خزانہ شاہی سے تنخواہیں مقرر تھیں۔ مدارس میں علوم دینیہ کے ساتھ معقولات اور ریاضی کی تعلیم دی جاتی تھی۔ تعلیم اس قدر عام تھی کہ کنیریں تک قرآن مجید کی حافظہ اور عالمہ ہوا کرتی تھیں۔ خود محمد تغلق بہت بڑا فاضل اور علم دوست بادشاہ تھا، قرآن مجید کے علاوہ اکثر فنون کی کتابیں اسے زبانی یاد تھیں اور ہدایہ کی تو چاروں جلدیں سلطان کے برنوک زبان تھیں۔ (۳)

سلاطین تغلق میں سلطان فیروز شاہ تغلق بھی اپنی علم دوستی اور مدارس و علماء کی سرپرستی میں مشہور تھا۔ دہلی کا مدرسہ فیروز شاہی اپنی شوکت، خوبی عمارت، محل وقوع اور حسن انتظام و تعلیم کے لحاظ سے اپنی نظیر نہیں رکھتا تھا۔ فیروز شاہ نے جہاں نئے مدارس جاری کیے وہیں پرانے مدارس کی تجدید کی، علماء و طلبہ کے لیے خزانہ شاہی سے وظائف جاری کیے اور بڑی بڑی جائدادیں مدارس کے لیے وقف کیں۔ فیروز شاہ نے غلاموں، باندیوں اور ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ کی۔ اس نے لڑکیوں کے لیے جداگانہ مدارس قائم کیے۔ (۴)

نویں دسویں صدی ہجری میں مغرب میں گجرات کے مسلم حکمران اور مشرق میں جون پور کے سلاطین شرق اپنی علم نوازی میں مشہور تھے۔ یادایام (حکیم سید عبدالحی حسنی) میں گجرات کی علمی ترقی کی جھلک دیکھی جاسکتی ہے۔ جون پور میں سلاطین شرق نے صد ہا مدارس تعمیر کرائے اور علماء و فضلاء کو دور دراز ملکوں سے بلا کر ان کو گراں قدر جاگیریں دیں۔ جون پور کی علمی و تعلیمی برتری مغلیہ سلطنت کے قیام تک جاری رہی۔ جون پور میں اٹالہ مسجد کے ساتھ جو مدرسہ قائم ہوا اس کی عمارت اب تک موجود ہے۔ اسی مدرسے میں شیر شاہ سوری (وفات ۹۵۲ھ مطابق ۱۵۴۵ء) نے تعلیم حاصل کی تھی۔ تاریخ سلاطین شرقی و صوفیائے جون پور (مصنفہ سید اقبال احمد جون پوری) میں تفصیلات دیکھی جاسکتی ہیں۔

مدارس عہد مغلیہ میں

ہندوستان میں مغل حکومت کا آغاز ۹۳۲ھ مطابق ۱۵۲۶ء میں ہوا۔ مغل سلاطین اپنی علم دوستی، علماء نوازی اور طلبہ کی سرپرستی میں شہرت رکھتے ہیں۔ نصیر الدین ہمایوں اور جلال الدین اکبر کے عہد میں مدارس کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اسی زمانے میں دہلی کے مدرسوں میں تعلیم حاصل کی۔ شاہ جہاں کے

عہد میں دہلی، لاہور، سیالکوٹ، احمد آباد اور جون پور علم و فن کے لحاظ سے ایسے مقامات تھے جہاں ہندوستان کے علاوہ ہرات اور بدخشاں تک کے طالبان علم کھینچ کھینچ کر چلے آتے تھے۔ شاہجہاں کے عہد میں مسجد فتح پوری اور مسجد اکبر آبادی تعمیر ہوئیں اور مسجد فتح پوری کا مدرسہ اسی عہد کی یادگار ہے۔ شاہجہاں نے جامع مسجد دہلی کے قریب جنوبی سمت میں عظیم مدرسہ دارالبقاء کے نام سے تعمیر کرایا تھا۔ بعد میں یہ مدرسہ بند ہو گیا تھا، پھر مفتی صدر الدین آزرده (وفات ۱۸۶۸ء) نے اسے دوبارہ زندہ کیا تھا۔ ہمارے بعض اکابر کا اس مدرسہ سے تعلق رہا ہے، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ بھی اپنے ابتدائی عہد میں اس مدرسہ سے متعلق تھے۔ ۱۸۵۷ء کے ہنگامے میں جب مفتی صدر الدین صاحب کی جائیداد انگریزی حکومت نے ضبط کی تو مدرسہ دارالبقاء ہمیشہ کے لیے موت کی آغوش میں سو گیا۔ (۵)

مغلوں کے عہد میں صوبہ اودھ اور صوبہ الہ آباد کا اکثر علاقہ پانچ پانچ دس دس کوس کے فاصلے پر شرفاء کی آبادی پر مشتمل تھا جو سلاطین و حکام کی طرف سے جاگیر رکھتے تھے۔ اس علاقے میں مسجدوں، مدرسوں اور خانقاہوں کی کثرت تھی، ہر جگہ مدرسین و معلمین طالبان علوم کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھتے تھے۔ ہر بستی کے مستطیع لوگ طالب علموں کا پورا پورا خیال کرتے اور ان کی خدمت کو سعادتِ عظمیٰ سمجھتے تھے؛ اس لیے شاہجہاں بادشاہ کہا کرتے تھے: ”پورب شیراز ماست“۔ (۶)

لکھنؤ میں شاہ پیر محمد (وفات ۱۶۷۴ء) نے مدتوں بزمِ تعلیم گرم رکھی، ان کے بعد ان کے شاگرد رشید ملا غلام محمد نقشبند (وفات ۱۷۱۴ء) نے اس مجلس کو اور زیادہ رونق دی جو بانی درس نظامی ملا نظام الدین فرنگی محلی کے استاد تھے۔ شاہ پیر محمد کا مدرسہ اور خانقاہ لکھنؤ میں دریائے گومتی کے کنارے ٹیلہ پیر محمد کے نام سے مشہور ہے۔ اس درسگاہ کی نسبت خیال ہے کہ تین سو سال قبل اس میں سات سو کے قریب طلبہ کے رہنے کا انتظام تھا۔ (۷)

شہنشاہ اورنگ زیب عالمگیر کے عہد حکومت (۱۶۵۷-۱۷۰۶ء) کی علمی و تعلیمی ترقیاں عام شہرت رکھتی ہیں۔ اورنگ زیب نے بڑے شہروں کے علاوہ قصبات و دیہات میں بھی مدارس جاری کیے اور علماء و مدرسین کو جاگیریں دیں، طلبہ کے لیے وظائف مقرر کیے، اس کی کوششوں سے ہر صوبہ اور ہر شہر حتیٰ کہ قصبات و دیہات تک میں علم کی شمعیں روشن ہو گئیں۔ اورنگ زیب کے بعض فرامین سے پتہ چلتا ہے کہ دیوبند میں بھی، جو اس زمانے میں ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، ایک مدرسہ قائم تھا۔ (۸)

نظام الملک آصف جاہ اول کے جد امجد غازی الدین خاں فیروز جنگ اول (وفات ۱۷۱۰ء) نے دہلی میں ایک مدرسہ اجمیری گیٹ کے قریب قائم کیا تھا۔ یہی مدرسہ غازی الدین انگریزوں کے زمانے میں اینگلو عربک کالج کے نام سے مشہور ہوا۔ مولانا رشید الدین خان دہلویؒ (وفات ۱۸۲۷ء) اور مولانا مملوک علی نانوتویؒ (وفات ۱۸۵۰ء) اسی کالج میں صدر المدرسین ہوئے۔ ہمارے بہت سے اکابر نے اسی مدرسہ میں تعلیم حاصل کی ہے۔ ۱۸۵۷ء سے پہلے یہ دہلی کا مشہور دارالعلوم تھا۔ یہ مدرسہ مسلم دور حکومت کے مدارس کی ایک زندہ یادگار ہے۔ اس کی عظیم الشان اور وسیع عمارت سے ہمارے امراء کے علمی ذوق اور عالی ہمتی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ بعد میں یہی

ادارہ دہلی کالج بن گیا اور اس وقت ذاکر حسین کالج کے نام سے موسوم ہے اور دہلی یونیورسٹی کا حصہ ہے۔ اس کالج میں اب بھی عربی اور اردو کے شعبے قائم ہیں۔

عہد عالمگیری ہی میں فرنگی محل لکھنؤ کے مدرسہ نظامیہ اور دہلی کے مدرسہ رحیمیہ کی بنیاد پڑی۔ یہ دو ایسے عظیم الشان ادارے ہیں جنہوں نے برصغیر ہند کی علمی و دینی اور تعلیمی و تدریسی تاریخ پر بڑے گہرے اور دیرپا اثرات ڈالے ہیں۔

مدرسہ نظامیہ فرنگی محل

مدرسہ نظامیہ فرنگی محل لکھنؤ کے بانی ملا نظام الدین سہالوی فرنگی محلیؒ (وفات ۱۷۷۷ء) ہیں۔ انہی کی طرف منسوب نصاب تعلیم درس نظامی تقریباً تین صدیوں سے ہندوستان کے مدارس میں جاری ہے۔ اس نصاب میں فقہ کو امتیازی مقام حاصل تھا، اس کے علاوہ مختلف فنون اور موضوعات کی کتابیں شامل کی گئیں تھیں۔ اس نصاب سے طالب علم کی ذہنی صلاحیتوں میں پختگی اور دقت نظر پیدا ہو جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ آج بھی برصغیر کے اسلامی مدارس میں درس نظامی رائج ہے، گواں نصاب میں بہت ساری تبدیلیاں ہو چکی ہیں، لیکن یہ نصاب درس نظامی کے نام سے ہی معروف ہے۔

فرنگی محل کے اس دارالعلوم سے بڑے بڑے نامور علماء اٹھے جنہوں نے ہندوستان میں علوم کی عظیم الشان خدمات انجام دیں۔ ملا نظام الدین کے بعد ان کے اخلاف میں بحر العلوم ملا عبدالعلیؒ (وفات ۱۸۱۰ء)، مولانا عبد الحلیم فرنگی محلیؒ (وفات ۱۸۶۸ء)، ملا حسنؒ (وفات ۱۷۸۴ء)، مولانا ابوالحسنات عبدالحی لکھنویؒ (وفات ۱۸۸۶ء) اور مولانا عبدالباری فرنگی محلیؒ (وفات ۱۹۲۶ء) مشہور علماء گذرے ہیں۔ فرنگی محل کے علماء کا خصوصی ذوق درس و تدریس، تصنیف و تالیف اور فقہ و قضا کا تھا۔ ان حضرات نے نہ صرف درس و تدریس کی مسندوں کو زینت بخشی بلکہ اپنی تصانیف اور خصوصاً درسی کتابوں کی شروح و حواشی سے بیش بہا علمی خدمات انجام دیں۔ (۹)

مدرسہ رحیمیہ دہلی

مدرسہ رحیمیہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ (وفات ۱۷۶۲ء) کے والد شاہ عبدالرحیمؒ کا (وفات ۱۷۱۸ء) کا جاری کردہ تھا جو ہندیان میں واقع تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ کے زمانے میں طلبہ کی کثرت کی وجہ سے یہ جگہ تنگ پڑنے لگی تو محمد شاہ مشہور بہ رنگیلا (عہد: ۱۷۱۸ء تا ۱۷۳۸ء) نے شہر کے اندر کوچہ چیلان میں ایک بڑی حویلی عطیہ کی۔ کسی زمانے میں یہ نہایت آباد، عالی شان اور خوبصورت مدرسہ تھا اور بڑا دارالعلوم سمجھا جاتا تھا۔ ہندوستان کے علاوہ افغانستان اور وسط ایشیا کے طلبہ حصول علم کے لیے اس درس گاہ کا رخ کرتے تھے۔ غدر کے ہنگامے میں یہ مدرسہ برباد ہو گیا۔ اب بھی اس جگہ کو محلہ شاہ عبدالعزیز کے نام سے جانا جاتا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کو ہندوستان کی علمی و دینی تاریخ میں بلند ترین مقام حاصل ہے۔ ہندوستان میں علوم دینیہ کے تعلیمی سلسلے میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک عظیم مرکزی مقام اور بے نظیر عظمت حاصل

ہے۔ وہ علوم دینیہ کے دیدہ و ور عالم، عظیم مفکر، مصلح اور مجدد تھے۔ انھوں نے اسلامی تعلیمات کے حقائق و معارف کو ایک مستقل فن کی حیثیت دے کر اسلام کی حفاظت اور مدافعت کا بہترین سامان مہیا کر دیا۔ شاہ صاحب نے ہندوستان کے علمی اور سیاسی میدانوں میں جو عظیم الشان خدمات انجام دی ہیں وہ ہماری دینی و ملی تاریخ کا ایک زریں اور روشن باب ہے۔

شاہ صاحب کے بعد ان کے نامور صاحب زادے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی (وفات ۱۸۲۳ء) نے آپ کی مسند کو سنبھالا اور پورے ساٹھ سال تک علوم دینیہ کی خدمات انجام دیں۔ حدیث و قرآن کے علوم کی جو اشاعت ان کے زمانے میں ہوئی، اس سے پہلے اسلامی ہند کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی، ہندوستان کا کوئی ایسا گوشہ نہیں تھا جہاں شاہ عبدالعزیز کے شاگرد پائے نہ جاتے ہوں۔ حضرت شاہ ولی اللہ کے دوسرے صاحبزادگان؛ حضرت شاہ رفیع الدین (وفات ۱۸۱۷ء)، شاہ عبدالقادر (وفات ۱۸۱۲ء) اور شاہ عبدالغنی بھی اپنے وقت کے بڑے علماء میں تھے۔

شاہ عبدالعزیز کے بعد آپ کے نواسے اور ممتاز شاگرد حضرت شاہ محمد اسحاق دہلوی (وفات ۱۸۴۶ء) نے مسند درس کو زینت بخشی۔ ۱۸۴۱ء میں شاہ محمد اسحاق کے مکہ ہجرت کر جانے کے بعد حضرت شاہ عبدالغنی مجددی (وفات ۱۸۷۸ء) نے اس درس گاہ کے فیض کو جاری رکھا۔ ان کے فیض تعلیم سے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی جیسے یگانہ روزگار علماء پیدا ہوئے جنہوں نے علم کی دنیا میں ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔

ان مراکز علم کے علاوہ خیر آباد، رام پور، بدایوں، کان پور، بنارس وغیرہ شہروں میں بھی ایسے کچھ اہل علم تھے جنہوں نے علم کی شمعیں روشن کر رکھی تھیں۔ خیر آباد کی درس گاہ تو معقولات کی تعلیم کے لیے مشہور و معروف تھی۔

غرض کہ تاریخ شاہد ہے کہ جہاں جہاں مسلمانوں کے قدم پہنچے، ان کے ذوق علم نے چپے چپے پر مدرسوں اور تعلیم گاہوں کا جال بچھا دیا۔ اسلامی آبادی کا کوئی قابل ذکر گوشہ ایسا نہ تھا جو ان کی علمی سرگرمیوں سے خالی رہا ہو۔ ہندوستان میں مسلم ادوار میں کوئی دور ایسا نہیں تھا جس کی ممتاز ترین خصوصیت علم و فضل کی اشاعت نہ رہی ہو۔ مسلمانوں کا امیر و رئیس طبقہ ملک کے طول و عرض میں علمی سرپرستی کے لئے جانا جاتا تھا۔ سلاطین و امراء علمی فیاضی، علماء نوازی اور طلبہ پروری میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانا اپنے لیے فخر و مباہات کا باعث اور نجات اخروی کا ذریعہ سمجھتے تھے۔

حوالہ جات و مأخذ:

(۱) برطانوی ہند میں مسلمانوں کا نظام تعلیم: ایک ناقدانہ جائزہ۔ دارالعلوم دیوبند، ڈاکٹر رشید احمد جالندھری، ص

۶۶۵-۶۶۶

(۲) تاریخ دارالعلوم دیوبند، اول، ص ۶۸-۶۹ بحوالہ تاریخ فرشتہ، اول، ص ۳۰، ۳۲، مطبوعہ نول کشور لکھنؤ

- (۳) تاریخ دارالعلوم دیوبند، اول، ص ۷۲ بحوالہ کتاب الخطط، علامہ مقریزی، جلد دوم، ص ۱۳۴
- (۴) تاریخ دارالعلوم اول، بحوالہ تاریخ فیروز شاہی، برنی، ص ۵۵۹؛ تاریخ فرشتہ، اول، ص ۱۵۱؛ تاریخ فیروز شاہی، شمس سراج عقیف، ص ۱۹۱-۱۹۲؛ سفر نامہ بطوطہ، اردو ترجمہ، ص ۷۰۲؛ مطبوعہ نقیص اکیڈمی کراچی
- (۵) تاریخ دارالعلوم دیوبند، اول، ص ۷۷ بحوالہ واقعات دارالحکومت دہلی، دوم، ص ۱۱۳؛ سوانح عمری از حضرت مولانا یعقوب نانوتوی مع سوانح قاسمی، اول، ص ۲۹
- (۶) تاریخ دارالعلوم اول، ص ۷۷-۷۶ بحوالہ آثار الکرام، اول، ص ۲۲۱-۲۲۲
- (۷) تاریخ دارالعلوم اول، ص ۷۶-۷۵ بحوالہ حیات شبلی، ص ۱۵ و ضمیرہ روزنامہ قومی آواز لکھنؤ، ۱۸ مارچ ۱۹۷۳، ص ۲
- (۸) تاریخ دیوبند، ص ۱۰۹
- (۹) تفصیل کے لیے دیکھیں: تذکرہ علمائے فرنگی محل، مولانا محمد عنایت اللہ فرنگی محلی، اشاعت العلوم برقی پریس فرنگی محل لکھنؤ

قیام دارالعلوم کا پس منظر

دارالعلوم دیوبند کا قیام کن حالات اور کس پس منظر میں عمل میں آیا، اس کا علم ایک تاریخ کے طالب علم کے لیے نہ صرف ضروری ہے بلکہ اس کی تفصیلات نہایت ایمان افزا اور بصیرت افروز بھی ہیں۔ قیام دارالعلوم کا واقعہ کسی وقتی جوش اور کسی اتفاقی حادثہ کی بنیاد پر نہیں پیش آیا، بلکہ یہ نہایت سنجیدہ، روحانی قوت کے پروردہ، ایمانی فراست سے بھرپور اور عرفانی بصیرت سے منور اہل دل حضرات کی قوت فکر اور غیرت ایمانی کا مظہر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کوشش کو ظاہری بے سرو سامانی کے باوجود انتہائی کامیابی سے ہمکنار فرمایا اور ڈیڑھ سو سال سے زائد عرصہ گزر جانے کے بعد آج بھی یہ شجر طوبی پھل پھول رہا ہے اور چہار دانگ عالم میں اس کی عطر بیز خوشبو پھیل رہی ہے۔

دارالعلوم دیوبند محض ایک ادارہ نہیں تھا، بلکہ ہندوستان میں مسلم عہد کے زوال اور قدیم تعلیم گاہوں کی بربادی کے بعد قائم ہونے والا ایک نمائندہ مرکز تھا جس کے نازک کندھوں پر ایمان و عقائد حقہ کے دفاع و تبلیغ، علوم دینیہ کی حفاظت و اشاعت، مسلم تہذیب کی بقا و ترقی اور اسلامی غیرت و عزت نفس کی صیانت کی ذمہ داری ڈالی گئی۔ تاریخ شاہد ہے کہ ہندوستان میں تبدیلی اقتدار اور تغیر حالات کے بعد اسلام اور مسلمانوں کی بقا اور ترقی کی بھاری ذمہ داری دارالعلوم دیوبند اور اس کے نچ پر قائم ہونے والے مدارس و معاہدے نے بہ حسن و خوبی ادا کی۔ یہی وجہ ہے جماعت دیوبند برصغیر میں اہل سنت والجماعۃ، تعلیم کتاب و سنت اور مجاہدہ و ریاضت کی علم بردار جماعت تسلیم کی گئی اور دیوبند حق و راستی کا ایک استعارہ بن گیا۔

مسلم حکومت کا زوال

انگریزی عروج سے پہلے ہندوستان نہایت دولت مند اور خوشحال ملک تھا۔ قدرت کی فیاضیوں نے اس سرزمین کو ایسے اسباب و ذرائع مہیا کیے تھے کہ دولت مندی، خوشحالی اور فارغ البالی یہاں چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی اور تمام عالم میں اس کا شہرہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا اور بہت سی قوموں کی لالچی نظریں اس کی طرف اٹھتی تھیں۔ چنانچہ ۱۶۰۰ء میں ہی برطانیہ میں ایسٹ انڈیا کمپنی (East India Company) قائم ہو گئی تھی۔ سترہویں صدی عیسوی میں انگریز سوداگروں کی ہندوستان آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور ان کو ملک میں تجارت کی اجازت مل چکی تھی۔ رفتہ رفتہ کلکتہ، بمبئی، مدراس کی بندرگاہیں ان کے زیر اثر ہو گئیں۔ ہندوستان کے حکمرانوں نے اپنی بے تعصبی اور دریادلی سے انھیں بہت سے مراعات و حقوق سے نوازا اور انگریزوں نے نہایت عیاری و مکاری اور احسان فراموشی کے ساتھ رفتہ رفتہ اپنے خونیں پنجے گاڑنے شروع کر دیے۔ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے بعد مغل حکومت میں ضعف و اضمحلال پیدا ہو چلا تھا؛ اس لیے انگریزوں کو

قدم جانے کا بھرپور موقع مل گیا۔

۱۷۵۷ء تک یعنی تقریباً ڈیڑھ صدیوں تک انھوں نے تجارت کے ذریعہ اپنا تسلط اور رسوخ بڑھایا۔ اس کے بعد کمپنی کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے جس میں انھوں نے جبر و اکراہ اور جنگ کے ذریعہ تسلط حاصل کرنا شروع کیا۔ اس دور کی تفصیلات نہایت درد انگیز اور وحشت ناک ہیں۔ ۱۷۵۷ء میں انھوں نے اپنی مکاریوں سے نواب سراج الدولہ سے جنگ چھیڑ دی اور پلاسی کے میدان میں اپنی عیارانہ چالوں سے چند گھنٹوں میں ہی اسے زیر کر دیا۔ اس جنگ سے کمپنی کے خالص تجارتی دور کا خاتمہ ہو گیا اور ایک نئے استعماری اور استحالی دور کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد ۱۷۶۳ء میں بکسر کی جنگ لڑی گئی، اس میں میر قاسم نواب بنگال کو شکست ہوئی اور اس کے ایک سال بعد ۱۷۶۵ء میں مغل حکمران شاہ عالم ثانی ایک معاہدہ کے ذریعہ بنگال، بہار اور اڑیسہ کی دیوانی انگریزوں کے ہاتھوں میں دینے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد انگریزوں کے قدم بڑھتے ہی گئے۔ ۱۸۰۳ء میں انھوں نے دہلی پر حملہ کر کے مغل حکمران شاہ عالم ثانی کو گرفتار کر لیا اور اسے یہ معاہدہ لکھنے پر مجبور کیا گیا کہ مغل حکومت شہر اور اطراف دہلی تک رہے گی اور بقیہ ملک پر انگریز اور کمپنی کا تسلط رہے گا۔ پھر اس کے بعد ہی سہی کسر ۱۸۵۷ء کے خونین انقلاب میں پوری ہو گئی۔ انگریزوں نے آخری مغل حکمران بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر کے رنگون جلاوطن کر دیا اور مغلیہ حکومت کی جگہ پہلے ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا اور پھر برٹش راج قائم ہو گیا۔

انگریزوں نے ہندوستانیوں کی توہین و تذلیل، سماجی بربادی، اخلاقی تباہی، معاشی تنگ حالی اور علم سے محرومی میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا۔ انھوں نے ہر لحاظ سے ہندوستان کو لوٹا اور اس ملک کو زوال و انحطاط کے آخری کنارے تک پہنچا دیا۔ انھوں نے ہندوستان کی ساری دولت لوٹ کر انگلستان پہنچا دی اور اس ملک کو کنگال کر دیا۔ ان کی انسان دشمنی اور استحالی پالیسیوں کی وجہ سے ملک میں متعدد بار قحط اور بھکمری سے لاکھوں لاکھ انسان لقمہ اجل بن گئے۔

برطانوی تعلیمی پالیسی اور عیسائی مشنریوں کی یلغار

انگریزی عہد میں اولاً کمپنی نے تعلیم کا کوئی نظم نہیں کیا۔ لیکن بعد میں انھوں نے جو تعلیمی پالیسی بنائی وہ اس کمیٹی کے صدر لارڈ میکالے کے مطابق اس کی روح یہ تھی کہ:

”ہمیں ایک ایسی جماعت بنانی چاہیے جو ہم میں اور ہماری کروڑوں رعایا کے درمیان مترجم ہو اور یہ ایسی

جماعت ہونی چاہیے جو خون اور رنگ کے اعتبار سے ہندوستانی ہو، مگر مذاق اور رائے، الفاظ اور سمجھ کے

اعتبار سے انگریز ہو۔“ (۱)

ان پالیسیوں کی وجہ سے یورپ کے پادریوں کے لیے وہ دروازہ کھل گیا جو ابتدائے عملداری سے بند تھا۔ چنانچہ یورپ کے مختلف چرچوں نے اس مشن میں حصہ لیا اور عیسائی مذہب کے دونوں فرقوں کی تھولک اور پروٹسٹنٹ نے بے شمار کمیٹیاں، سوسائٹیز، چھاپہ خانے، تعلیم گاہیں اور دیگر ادارے قائم کیے جن میں کام کرنے والوں کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ انگریزی حکومت ان تبلیغی مساعی کی درپردہ حمایت اور مالی مدد کرتی تھی۔ فوجی

افسران بھی مشنری ورک انجام دیتے تھے اور حکام اس سلسلے میں ذاتی اثر و رسوخ بھی استعمال کرتے تھے۔ فرنگی حکام مشن کے اسکولوں میں تعلیم کے لیے ترغیب دیتے تھے اور عملی طور پر ان مشنری اسکولوں میں انگریزی تعلیم کے نام پر عیسائیت کی تعلیم دی جاتی تھی۔ مشنری اسکولوں اور کالجوں میں بائبل کی تعلیم لازمی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ عیسائی مبلغین کھلے عام مسلمانوں اور ہندوؤں کو چیلنج کرتے تھے اور بہت ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ اسلام اور اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑاتے تھے۔ کھلے عام جامع مسجد دہلی کو گر جا گھر بنانے اور پورے ملک کو عیسائی بنانے کے عزم کا اظہار کیا جاتا تھا۔ مسٹر میننگلسن ممبر پارلیمنٹ نے دارالعوام میں خطاب کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے تھے:

”خدا نے تعالیٰ نے ہمیں یہ دن دکھایا ہے کہ ہندوستان کی حکومت پر انگلستان کا قبضہ ہوا تا کہ عیسیٰ مسیح کی فتح کا جھنڈا ہندوستان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک لہرائے۔ ہر شخص کو اپنی تمام قوت تمام ہندوستان کو عیسائی بنانے کے عظیم الشان کام کی تکمیل میں صرف کرنی چاہیے اور اس میں کسی قسم کا تساہل نہیں کرنا چاہیے۔“ (۲)

غرض کہ ہندوستان پر سیاسی غلبے کے ساتھ انگریزوں نے ہندوستانیوں کے دین و مذہب پر بھی ڈاکہ ڈالنے کا پورا انتظام کیا۔ کمپنی اور برطانوی حکومت کی سرپرستی میں عیسائی مبلغین کی کھیپ کی کھیپ ہندوستان کے طول و عرض میں پہنچ کر ہندوستانیوں کو عیسائی بنانے میں مشغول ہو گئی۔

۱۸۵۷ء میں علماء کا قتل عام اور مدارس کی بربادی

۱۸۵۷ء میں پورے ملک میں آزادی کی جنگ لڑی گئی مگر اس جنگ میں ناکامی ہوئی، اس کے بعد ہندوستانیوں پر ظلم و ستم اور وحشت و بربریت کا دور شروع ہو گیا۔ انگریزی مظالم کی خوں چکاں داستان اور روح فرسوا واقعات سن کر کلیجہ منہ کو آجاتا ہے اور کیوں نہ آئے کہ انسانی اخلاق و اقدار سے عاری انگریزوں کا اصل نشانہ مسلمان ہی تھے کیونکہ حکومت مسلمانوں ہی سے چھینی تھی اور انھیں ان سے ہی انتہا پسندی کا شکوہ تھا۔ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی سے قبل انگلستان کے گورنر جنرل نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہمارے اصل مخالف مسلمان ہیں۔ چنانچہ ۱۸۵۷ء کی جنگ میں ناکامی کے بعد انگریزوں نے جی بھر کر بدلہ لیا اور علماء اور مسلم رہنماؤں کے قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا۔ انگریزوں نے مسلمانوں کو دبانے، کچلنے، تباہ و برباد کرنے اور بطور خاص علماء کو قتل کرنے میں ذرا بھی دریغ نہیں کیا۔ کناڈین پروفیسر آف ہسٹری ڈوگلس ایم پیئرس نے اپنی کتاب انڈیا انڈر کولونیل رول میں لکھا ہے کہ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں پورے ہندوستان میں چھ ہزار برطانوی قتل ہوئے اور تقریباً آٹھ لاکھ ہندوستانی کام آئے۔ (۳)

ہندوستان پر تسلط کے آغاز سے ہی کمپنی نے ملک کی تعلیم گاہوں کو ملیا میٹ کرنے اور تعلیم کو نیست و نابود کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ انھوں نے ۱۸۳۸ء میں موقوفہ زمینوں کو سرکاری قبضے میں لے لیا۔ ۱۸۵۷ء کے خونیں انقلاب کے وقت رہے سبہ مدارس اور تعلیم گاہیں بھی ختم ہو گئیں۔ چنانچہ تھوڑے ہی عرصے میں جب تعلیم گاہیں مٹ گئیں اور ان کی جگہ دوسرے اسکول اور کالج وغیرہ قائم نہیں کیے گئے اور پرانے تعلیم یافتہ لوگ آہستہ

آہستہ وفات پا گئے تو چاروں طرف ہندوستان میں جہالت اور ناخواندگی کا دور دورہ ہو گیا۔ چنانچہ آئریبل ایم افسسٹن اور آئریبل ایف وارڈن گورنمنٹ کو پیش کردہ ایک متفقہ یادداشت میں لکھتے ہیں:

”انصاف یہ ہے کہ ہم نے دیسیوں کی ذہانت کے چشمے خشک کر دیے، ہماری فتوحات کی نوعیت ایسی ہے کہ اس نے نہ صرف ان کی علمی ترقی کی ہمت افزائی کے لیے تمام ذرائع کو ہٹا لیا ہے بلکہ حالت یہ ہے کہ قوم کے اصلی علوم بھی گم ہو جانے کا اور پہلے لوگوں کی ذہانت کی پیداوار فراموش ہو جانے کا اندیشہ ہے۔“ (۴)

مسلمانوں کے مدارس اور علماء انگریزوں کی انتظامی کارروائی کا سب سے زیادہ نشانہ بنے؛ چنانچہ بہت سے علماء قتل کر دیے گئے اور مدارس کے اوقاف بند کر دیے گئے۔ خاص طور پر ہندوستان کے دارالسلطنت دہلی کی سب سے بڑی اسلامی درسگاہ حالات زمانہ اور انقلاب وقت کی زد میں آ گئی۔ شاہ عبدالعزیز اور شاہ محمد اسحاق کے بعد اس مسند کو رونق بخشنے والے شاہ عبدالغنی مجددی مدینہ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ دوسری طرف طریقت و سلوک کے امام وقت حضرت حاجی امداد اللہ بھی انہی حالات کے باعث مکہ مکرمہ ہجرت کر گئے۔

نتیجہ سیاسی زوال، شکست، علماء کی بربادی اور تعلیم سے محرومی کی وجہ سے عام مسلمانوں کی مذہبی حالت نہایت اتر ہو چکی تھی۔ اسلامی شعائر رفتہ رفتہ زوال تھے۔ دینی علم اور تعلیم گاہیں پشت پناہی ختم ہو جانے کی وجہ سے ختم ہو رہی تھیں۔ علمی خانوادوں کو بیخ و بن سے اکھاڑنے کا فیصلہ کیا جا چکا تھا۔ دینی شعور رخصت ہو رہا تھا اور جہل و ضلالت مسلم قلوب پر چھاتا چلا جا رہا تھا۔ مسلمانوں میں پیغمبری سنتوں کے بجائے جاہلانہ رسوم و رواج، شرک و بدعت اور ہوا پرستی زور پکڑ رہی تھی۔ مشرقی روشنی چھپتی جا رہی تھی اور مغربی تہذیب و تمدن کا آفتاب طلوع ہو رہا تھا جس سے دہریت و الجاد، فطرت پرستی اور بے قیدی نفس، آزادی فکر اور اباحت کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں اور اس سے نگاہیں خیرہ ہو چلی تھیں۔ اسلام کی جیتی جاگتی تصویر آنکھوں میں دھندلی نظر آنے لگی تھی اور اتنی دھندلی کہ اسلامی خدو خال کا پہچانا بھی مشکل ہو چکا تھا۔

روشنی کی کرن

ان حالات کی وجہ سے مسلمانوں کے علم و عمل اور فکر و نظر میں جو اختلال اور رخسہ پیدا ہو گیا تھا اس کے انسداد کے لیے ناگزیر تھا کہ آئندہ کے لیے ایسے وسائل اختیار کئے جائیں جن کے ذریعہ سے اسلام، اسلامی علوم اور اسلامی تہذیب و معاشرت کی حفاظت کی جاسکے۔ بہر حال یہ فطری امر تھا کہ اس وقت کے علمائے کرام اور صلحائے عظام اپنے دل میں یہ خلش اور کسک محسوس کرتے رہے کہ علوم نبوت کے تحفظ، دین کی حفاظت اور اس کے راستے سے ستم رسیدہ مسلمانوں کو بچانے کے لیے کیا کیا جائے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اور حضرت حاجی عابد حسین دیوبندی وغیرہ کے حالات میں اس کڑھن کا ذکر ملتا ہے۔ چنانچہ کچھ بزرگوں

کے دل میں یہ بات آئی کہ ایک درس گاہ قائم کی جائے، جس میں علوم نبویہ پڑھائے جائیں اور مسلمانوں کی دینی، معاشرتی اور تمدنی زندگی اسلامی سانچوں میں ڈھالی جائے جس سے ایک طرف تو مسلمانوں کی داخلی رہنمائی ہو اور دوسری طرف خارجی مدافعت، نیز مسلمانوں میں صحیح اسلامی تعلیمات بھی پھیلیں اور ایمان دارانہ سیاسی شعور بھی بیدار ہو۔ چنانچہ اسی پس منظر میں دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا۔

دارالعلوم قائم کرنے والے حضرات اکابر نے دارالعلوم قائم کر کے اپنے عمل سے یہ نعرہ بلند کیا کہ ”ہماری تعلیم کا مقصد ایسے نوجوان تیار کرنا ہے جو رنگ و نسل کے لحاظ سے ہندوستانی ہوں اور دل و دماغ کے لحاظ سے اسلامی ہوں، جن میں اسلامی تہذیب و تمدن کے جذبات بیدار ہوں اور دین و سیاست کے لحاظ سے ان میں اسلامی شعور زندہ ہو۔“ اس کا ایک ثمرہ یہ نکلا کہ مغربیت کے ہمہ گیر اثرات پر بریک لگ گیا اور بات یک طرفہ نہ رہی بلکہ ایک طرف اگر مغربیت شعرا افراد نے جنم لیا تو دوسری طرف مشرقیت نواز اور اسلامیت طراز حلقہ بھی برابر کے درجہ میں سامنے آنا شروع ہو گیا، جس سے یہ خطرہ باقی نہ رہا کہ مغربی سیلاب سارے خشک و تر کو بہا لے جائے گا بلکہ اگر اس کا ریلا بہاؤ پر آئے گا تو ایسے بند بھی باندھ دیئے گئے جو اسے آزادی سے آگے نہ بڑھنے دیں گے۔

تحریک دیوبند میں شامل علماء و بزرگان دین مسند الہند شاہ ولی اللہ دہلویؒ کی درس گاہ کے وارث و امین تھے۔ تحریک شاہ ولی اللہی کا جو سلسلہ حضرت شاہ عبدالعزیز، شاہ محمد اسحاق اور آخر میں شیخ عبدالغنی مجددی رحمہم اللہ سے جاری تھا، ان حضرات کی رگوں میں اسی تحریک کا خون دوڑ رہا تھا۔ تحریک ولی اللہی کے حضرات اکابرین نے مدرسہ رحیمیہ دہلی کو اپنی اصلاحی و انقلابی سرگرمیوں کا مرکز بنایا تھا اور اس میں بیٹھ کر قوم کی علمی و فکری تعمیر و تشکیل کی خدمت انجام دی تھی۔ سلطنت مغلیہ کے سقوط اور ۱۸۵۷ء کے انقلاب کے دوران یہ مدرسہ بھی شکست و ریخت کا شکار ہوا، چنانچہ تحریک ولی اللہی کے وارث علماء و بزرگان نے دیوبند میں مدرسہ عربی اسلامی قائم کر کے اس وراثت کی حفاظت اور اشاعت کی ذمہ داری سنبھالی۔

یہ ہے دارالعلوم دیوبند کی تاسیس کا تاریخی پس منظر جس سے صاف ظاہر ہے کہ دارالعلوم دیوبند دراصل اسی شجر طوبیٰ کی ایک سرسبز و شاداب شاخ ہے جسے امام الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنے بافیض مبارک ہاتھوں سے نصب کیا تھا تاکہ جہل و ضلالت اور شرک و بدعت کے بادِ سموم سے نڈھال و اماندگان راہ اس کے حیات بخش سائے میں آکر زندگی کی تازگی و توانائی حاصل کر سکیں۔

حوالہ جات و ماخذ:

(۱) مسلمانوں کا روشن مستقبل، سید طفیل احمد منگلوری علیگ، عزیز یہ دہلی ۱۹۳۵ء، ص ۱۵۰، بحوالہ تاریخ التعليم از

میجر باصو صفحہ ۱۰۵

(۲) فرنگیوں کا جال، امداد صابری، دہلی ۱۹۷۹ء، ص ۹۹، بحوالہ حکومت خود اختیاری

- (۳) انڈیا انڈر کولونیئل رول، ڈوگلس ایم ہیٹرس ۱۷۰۰ء-۱۸۸۵ء، راولڈنچ برطانیہ ۲۰۰۶ء، ص ۶۴
- (۴) نقش حیات، حضرت مولانا حسین احمد مدنی، جلد اول، ص ۱۸۴ بحوالہ روشن مستقبل، ۱۳۶
- نقش حیات، حضرت مولانا حسین احمد مدنی، جلد اول، ص ۱۵۵ تا ۲۹۷
- علمائے ہند کا شاندار ماضی، حضرت مولانا محمد میاں دیوبندی، جمعیت پبلیکیشنز لاہور ۲۰۱۰ء
- دارالعلوم دیوبند کی صد سالہ زندگی، حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب، ص ۱۳ تا ۱۵، ۲۱

قیام دارالعلوم دیوبند

۱۸۵۷ء کے خونیں انقلاب میں جب دہلی اجڑی اور اس کی سیاسی بساط الٹ گئی تو دہلی کی علمی مرکزیت بھی ختم ہو گئی اور علم و دانش کا کارواں وہاں سے رخت سفر باندھنے پر مجبور ہو گیا۔ اس وقت کے اہل اللہ اور خصوصیت سے ان بزرگوں کو، جو اس خونیں انقلاب سے خود بھی گزر چکے تھے، یہ فکر و اضطراب لاحق ہوا کہ علم و معرفت کے اس کارواں کو کہاں ٹھکانہ دیا جائے اور ہندوستان میں بے سہارا مسلمانوں کے دین و ایمان کو سنبھالنے کے لیے کیا صورت اختیار کی جائے؟ حالات کی نزاکت کا فطری تقاضا بھی تھا کہ دین کا درد رکھنے والے علماء و صلحاء اس امر پر نہایت جاں سوزی اور پورے اخلاص کے ساتھ غور کریں۔ چنانچہ اس وقت ان حضرات کی کوششوں کا بنیادی نقطہ نظریہ قرار پایا کہ مسلمانوں کے دینی شعور کو بیدار رکھنے اور ان کی ملی شیرازہ بندی کے لیے ایک دینی و علمی درس گاہ کا قیام ناگزیر ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے اولین صدر المدرسین حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتویؒ کی تقریر سے اس پس منظر کی خوب وضاحت ہوتی ہے جو انھوں نے ۱۳۰۱ھ/۱۸۸۴ء کے جلسہ انعام میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا تھا:

”اس مدرسہ کی بناء محض علوم دین کے احیاء کے لیے ہوئی، یہ وہ زمانہ تھا جس میں بعد غدر ہندوستان نے تھوڑا وقت گزار لیا تھا اور مجموعہ حال کے دیکھنے سے یوں نظر آتا تھا کہ اب علم دین کا خاتمہ ہے، نہ کوئی پڑھ سکے نہ پڑھا سکے، بڑے بڑے شہر کہ مرکز اس دائرہ کے تھے خراب ہو گئے تھے، علماء پریشان، کتب منفقود، جمعیت نداد، اگر کسی قلب میں شوق علم اور طلب کی ہمت ہوئی تو کہاں جائے اور کس سے سیکھے اور یوں نظر آتا تھا کہ بیس تیس برس میں جو علماء بقید حیات ہیں اپنے وطن اصلی جنت کو سدھار جائیں گے، تب کوئی اتنا بتلانے والا بھی نہ رہے گا کہ وضو کے کتنے فرض اور نماز میں کیا واجب ہے، ایسی پریشانی اور مایوسی اور ناامیدی میں فضل الہی نے جوش مارا اور رحمت خداوندی کا دریا امنڈ آیا اور ابر فیض قدرت کامل موسلا دھار برسا اور اپنے بندگان مقبول کو اس کام کی طرف متوجہ فرمایا، اور اپنا برکرم اس مدرسہ کی بناء میں ظاہر فرما دیا“۔ (۱)

البتہ مدرسہ کہاں قائم ہو، اس سلسلے میں حضرت مولانا محمد یعقوب صاحبؒ کی مکتوبہ سوانح حضرت نانوتویؒ سے معلوم ہوتا ہے کہ دیوبند میں مدرسہ کے قیام کا فیصلہ ہوا، فرماتے ہیں:

”وہی زمانہ تھا کہ مدرسہ دیوبند کی بنیاد ڈالی گئی۔ مولوی فضل الرحمن اور مولوی ذوالفقار علی صاحب اور حاجی محمد عابد صاحب نے یہ تجویز کی کہ ایک مدرسہ دیوبند میں قائم کریں۔ مدرس کے لیے تنخواہ پندرہ روپے تجویز ہوئے اور چندہ شروع ہوا۔ چندہ ہی روز گذرے کہ چندہ کو افزونی ہوئی اور مدرس بڑھائے گئے اور مکتب فارسی و حافظ قرآن مقرر ہوئے، اور کتب خانہ جمع ہوا۔ مولوی محمد قاسم

صاحب شروع مدرسہ میں دیوبند آئے اور پھر ہر طرح اس مدرسہ کے سرپرست ہوئے۔“ (۲)

دارالعلوم کے تاسیسی رکن حضرت مولانا ذوالفقار علی دیوبندی نے اپنے عربی رسالہ الہدیۃ السنیۃ فی ذکر المدرستہ الاسلامیۃ الدیوبندیۃ میں لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس خطے میں خیر برپا کرنے اور دینی علوم و فنون کے احیاء کے ذریعے بندوں کی رشد و ہدایت کا ارادہ کیا، تو الحاج سید محمد عابد صاحب کے دل میں اس مدرسہ کے قیام کا خیال القاء فرمایا۔ پھر کچھ سطور کے بعد لکھتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس مدرسہ کے استحکام اور علوم دینیہ کے احیاء کے لیے شیخ اکبر مولانا محمد قاسم نانوتوی کو منتخب فرمایا۔ (۳)

تحریک چندہ

سوانح قاسمی میں سوانح مخطوطہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ چندہ کی فراہمی کے سلسلے میں سب سے پہلے جس شخصیت نے عملی اقدام کیا وہ حضرت حاجی عابد حسین صاحب تھے۔ ایک دن بوقت اشراق رومال کی جھولی بنا کر آپ نے اس میں تین روپے ڈالے اور چھتہ مسجد سے تنہا مولانا مہتاب علی کے پاس تشریف لائے جنہوں نے چھ روپے عنایت کیے اور دعا کی۔ پھر بارہ روپے مولانا فضل الرحمن صاحب نے اور چھ روپے حاجی فضل حق صاحب نے دیئے۔ پھر وہاں سے اٹھ کر آپ مولانا ذوالفقار علی کے پاس آئے اور انہوں نے فوراً بارہ روپے دیئے اور حسن اتفاق سے اس وقت سید ذوالفقار علی ثانی دیوبندی وہاں موجود تھے، ان کی طرف سے بھی بارہ روپے عنایت کیے۔ وہاں سے اٹھ کر یہ درویش بادشاہ صفت محلہ ابوالبرکات پہنچے، دو سو روپے جمع ہو گئے اور شام تک تین سو روپے۔ یہ قصہ بروز جمعہ دوم ماہ ذوالقعدہ ۱۲۸۲ھ میں پیش آیا۔ (۴)

افتتاح مدرسہ

بالآخر ۱۵ محرم الحرام ۱۲۸۳ھ بروز پنجشنبہ مطابق ۳۱ مئی ۱۸۶۶ء (۵) کو قصبہ دیوبند کی مسجد چھتہ میں نہایت سادگی کے ساتھ مدرسہ عربی کا افتتاح عمل میں آیا۔ تدریس کے لیے سب سے پہلے جس استاذ کو مقرر کیا گیا وہ حضرت مولانا ملا محمد محمود دیوبندی تھے اور اس مدرسہ کے پہلے طالب علم کا نام محمود حسن تھا جو بعد میں شیخ الہند کے نام سے پوری دنیا میں جانا پہچانا گیا۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ اس درس گاہ کے سب سے پہلے استاذ اور شاگرد دونوں کا نام محمود تھا۔ (۶)

اس بے سروسامانی کے ساتھ اس مدرسہ کا افتتاح عمل میں آیا کہ نہ کوئی عمارت موجود تھی اور نہ طلبہ کی جماعت۔ اگرچہ بظاہر یہ ایک مدرسہ کا بہت ہی مختصر اور محدود پیمانے پر افتتاح تھا، مگر درحقیقت یہ ہندوستان میں دینی تعلیم اور اسلامی دعوت کی ایک عظیم تحریک کا آغاز تھا۔

اعلان چندہ

قیام مدرسہ کے چار دن بعد ۱۹ محرم الحرام ۱۲۸۳ء بروز دوشنبہ حاجی سید فضل حق صاحب (سربراہ کار مدرسہ)

کی جانب سے ایک اشتہار شائع کیا گیا جس میں قیام مدرسہ کا اعلان، چندہ کی اپیل اور مدرسہ کے منصوبوں کا اظہار کیا گیا تھا۔ اشتہار کا متن یہ تھا:

اشتہار

الحمد للہ کہ مقام قصبہ دیوبند ضلع سہارنپور میں اکثر اہل ہمت نے جمع ہو کر کسی قدر چندہ جمع کیا اور ایک مدرسہ عربی پندرہ تاریخ محرم الحرام ۱۲۸۳ ہجری سے جاری ہوا اور مولوی محمد محمود صاحب بالفعل بمشاہدہ ۱۵/۱۵ روپے ماہوار مقرر ہوئے، چوں کہ لیاقت مولوی صاحب کی بہت کچھ ہے اور تنخواہ بسبب قلت چندہ کے کم، ارادہ مہتممان مدرسہ کا ہے کہ بشرط وصول زر چندہ قابل اطمینان جس کی امید کر رکھی ہے تنخواہ مولوی صاحب موصوف کی زیادہ کی جاوے اور ایک مدرس فارسی و ریاضی کا مقرر ہو۔ جملہ اہل ہمت و خیر خواہان ہند خصوصاً مسلمانان سکنائے دیوبند و قرب و جوار پر واضح ہو کہ جو لوگ اب تک شریک چندہ نہیں ہوئے بدل شریک ہو کر امداد کافی دیویں اور واضح ہو کہ چندہ مفصلہ فہرست ہذا کے کہ جس کی میزان کل ۴۰۱ روپے ۸ آنے ہے دوسرا چندہ واسطے خوراک و مدد خرچ طلبہ بیرونجات کے جمع ہوا ہے اور سولہ طالب علموں کا صرف جمع ہو گیا ہے اور ان شاء اللہ روز بروز جمع ہوتا جاتا ہے اوس میں سے طلبہ بیرونجات کو کھانا پکا یا اور مکان رہنے کو ملے گا۔ کتابوں کا بندوبست بھی متعاقب ہوگا۔ نام مہتممان کے درج ذیل ہیں، جن صاحبوں کو روپیہ چندہ بھیجنا منظور ہو تو بنام اون کے بذریعہ خط بیرنگ ارسال فرمادیں۔ رسید اوس کی بصیغہ پید بھیجی جائے گی۔ فقط حاجی عابد حسین صاحب، مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی، مولوی مہتاب علی صاحب، مولوی ذوالفقار علی صاحب، مولوی فضل الرحمن صاحب، منشی فضل حق، شیخ نہال احمد صاحب العبد فضل حق، سربراہ کار مدرسہ عربی و فارسی و ریاضی قصبہ دیوبند ضلع سہارنپور

تحریر تاریخ ۱۹ محرم الحرام ۱۲۸۳ھ روز دوشنبہ (۷)

یہ اشتہار جہاں ایک طرف چندہ کی اپیل تھی، وہیں دوسری طرف اس میں مدرسہ عربی دیوبند کے منصوبوں کا اعلان تھا۔ قیام مدرسہ کے محض چار دنوں بعد شائع ہونے والے اس اشتہار میں مدرسین کے اضافہ، اساتذہ کی تنخواہوں میں معقول اضافہ، طلبہ کے لیے پکے پکائے کھانے کا نظم، دارالاقامہ کی سہولت اور کتب خانہ کی ضرورت کا بھی اظہار کیا گیا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ان حضرات کے ذہن میں ایک بڑے مدرسہ کا خاکہ موجود تھا۔ اس تحریر کے بعد اُن ۵۴ حضرات کے اسمائے گرامی کی فہرست ہے جنہوں نے پہلے مرحلے میں قیام مدرسہ کے لیے تعاون میں حصہ لیا تھا۔

اراکین تاسیسی

دستیاب معلومات کے مطابق قیام مدرسہ کے محرک اول حضرت حاجی عابد حسین صاحب تھے اور وہی مدرسہ کے مہتمم اول بھی ہوئے، جب کہ مدرسہ کی ترقی و تعمیر میں سب سے نمایاں خدمات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کی

ہیں اور وہی اپنی علمی عظمت کی بنیاد پر سرپرست مدرسہ قرار پائے، دارالعلوم کے اولین فضلاء خصوصاً حضرت شیخ الہند نے انہی سے حدیث کی تکمیل کی اور بعد میں ان کا سلسلہ سند سب سے زیادہ عام ہوا۔ ان دو حضرات کے علاوہ حضرت مولانا مہتاب علی صاحب، حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب اور حضرت شیخ نہال احمد صاحب مسلسل مدرسہ کے حق میں ساعی اور متحرک رہے، جب کہ حضرت مولانا ذوالفقار علی صاحب اور حضرت حاجی سید فضل حق صاحب نے نظم و انتظام میں عملاً باضابطہ شریک رہے اور آخر الذکر بعد میں مہتمم بھی مقرر ہوئے۔

حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی دارالعلوم کے پہلے صدر مدرس مقرر ہوئے اور دارالعلوم کی تعلیمی ترقی میں اہم خدمات انجام دیں۔ اسی طرح حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نے، حضرت نانوتوی کے بعد، دارالعلوم کی سرپرستی قبول فرمائی اور اس شجر طوبی کی آبیاری کی۔

دیوبند اور اہل دیوبند

دارالعلوم کی یہ نعمت جس سرزمین کو حاصل ہوئی وہ قصبہ دیوبند تھا، جو ضلع سہارن پور کا سب سے بڑا قصبہ اور تحصیل کا صدر مقام تھا۔ دیوبند اگرچہ اپنی آبادی کی وسعت یا صنعت و تجارت کے لحاظ سے کوئی بڑا اور مرکزی شہر نہیں، مگر اپنی علمی اور مذہبی تاریخ کی وجہ سے آج دنیا بھر میں مشہور ہے۔

دہلی سے جانب شمال تقریباً ڈیڑھ سو کلومیٹر کی دوری پر واقع دیوبند ایک قدیم بستی ہے جو دوآبہ (گنگا و جمنا) کے سرسبز و شاداب خطہ کے درمیان آباد ہے۔ بعض مؤرخین نے تخمیناً دو ہزار سال پرانی آبادی ہونا اور بعض نے طوفان نوح کے بعد آباد ہونا بیان کیا ہے۔ تاہم پرانی عمارتوں اور کتبوں سے اس قدر یقینی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے ابتدائی عہد سے پہلے سے آباد ہے۔ دوآبہ کا علاقہ قدیم زمانے سے ہندوستان کی تہذیب و تمدن کا گہوارہ رہا ہے۔ متعدد تاریخی کتابوں میں اس بستی کو دین سے بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں قدیم زمانے سے ہندوؤں کا ایک معروف مندر دیوی کنڈ ہے جو بن یعنی جنگل میں واقع تھا، اسی کی مناسبت سے اس آبادی کو دیوی بن یا دین کہا جاتا تھا جو بعد میں کثرت استعمال سے دیوبند ہو گیا۔

مسلم عہد حکومت کے بہت سے آثار دیوبند میں پائے جاتے ہیں۔ دیوبند کی متعدد مسجدیں مسلم عہد حکومت میں تعمیر ہوئیں جس میں مسجد قلعہ سلطان سکندر لودھی (۱۲۸۸ تا ۱۵۱۷ء)، مسجد خانقاہ شہنشاہ اکبر (۱۵۵۶ تا ۱۶۰۵ء)، مسجد ابوالمعالی شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر (۱۶۵۷ تا ۱۷۰۶ء) کے عہد کی یادگار ہیں۔ ان کے علاوہ آدینی مسجد کے بارے میں اندازہ ہے کہ تیرہویں صدی عیسوی اور مسجد چھتہ چودہویں صدی عیسوی میں عہد تغلق میں تعمیر ہوئی۔ دیوبند میں مغل شہنشاہ اکبر کے عہد حکومت میں پختہ اینٹوں کا بنا ہوا قلعہ بھی تھا، ابوالفضل نے آئین اکبری میں اس کا ذکر کیا ہے۔

دارالعلوم کے قیام اور اس کی ترقی میں اہل دیوبند نے جس فراخ حوصلگی، فیاضی اور علم دوستی کا ثبوت دیا وہ

بے نظیر ہے۔ دیوبند کے اہل خیر نے بیرونی طلبہ کے قیام و طعام اور دوسری ضروریات کی تکمیل میں جس طرح بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور دارالعلوم کے لیے ترقی کے مواقع بہم پہنچائے وہ اہل دیوبند کا زبردست کارنامہ ہے۔ دیوبند کے تمام مسلمان باشندوں نے دارالعلوم کا یکساں گرم جوشی کے ساتھ خیر مقدم کیا اور ہر شخص نے اپنی بساط سے بڑھ کر دارالعلوم اور طلبہ کی امداد میں حصہ لیا۔ حضرت نانوتویؒ نے تقسیم اسناد کے جلسے میں باشندگان دیوبند کے ایثار و قربانی کی تعریف کرتے ہوئے اپنی تقریر میں فرمایا:

”اہل دیوبند نے وہ کام کیا ہے کہ قیامت تک صفحہ روزگار پر ان کی یادگار رہے گی“ اور فرمایا کہ ”جتنا اور سب کو (دیوبند سے باہر والوں کو) اس کار خیر کا ثواب ملے گا اتنا ہی تہا دیوبند والوں کو ملے گا عین مطابق قول نبوی صلی اللہ علیہ وسلم: من سن سۃ حسۃ قلہ اجرہا و اجر من عمل بہا۔“ (۸)

حوالہ جات:

- (۱) کیفیت جلسہ دستار بندی مدرسہ عربی اسلامی دیوبند، بابت ۱۳۰۱ ہجری، ص ۱۰
- (۲) مختصر سوانح حضرت نانوتویؒ، حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی، ص ۳۹ مطبوعہ مع سوانح قاسمی
- (۳) الہدیۃ السنیۃ فی ذکر المدرستہ الاسلامیۃ الدیوبندیۃ، حضرت مولانا ذوالفقار علی دیوبندی، مکتبہ محمودیہ لاہور، عکس طباعت ۱۳۰۷ھ، ص ۳۲ تا ۳۲
- (۴) سوانح قاسمی، مولانا مناظر احسن گیلانی، جلد دوم، ص ۲۵۸ تا ۲۵۹
- (۵) دارالعلوم کے قیام کی قمری تاریخ ۱۵ محرم ۱۲۸۳ھ ہے، کتابوں میں اس کی شمسی تطبیق ۳۰ مئی ۱۸۶۶ء مذکور ہے، لیکن صحیح تاریخ ۳۱ مئی ہے؛ کیوں کہ دارالعلوم کی ۱۲۸۳ھ کی روداد میں قیام دارالعلوم کے چار روز بعد ۱۹ محرم بروز دوشنبہ کو موسسین دارالعلوم کی طرف سے اعلان کی اشاعت کا ذکر ہے اور اس میں یوم دوشنبہ کی تصریح ہے؛ اس لحاظ سے یوم تاسیس یعنی ۱۵ محرم کا دن پنجشنبہ ہوتا ہے اور پرانی تحریروں میں پنجشنبہ کا ذکر بھی ہے۔ لہذا، پنجشنبہ کے دن کے لحاظ سے شمسی تاریخ ۳۱ مئی ہوتی ہے، ۳۰ نہیں۔
- (۶) حضرت مولانا محمد محمود دیوبندیؒ کے حالات کا ذکر زیادہ نہیں ملتا، تاہم کچھ تفصیلات اس کتاب کے آٹھویں باب میں علماء و اکابر دارالعلوم کے حالات کے ذیل میں ملاحظہ فرمائیں۔ قیام دارالعلوم کے سال حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی جو اس وقت اپنے بڑے ابا حضرت مولانا مہتاب علی صاحبؒ کے ذاتی مدرسے میں ابتدائی عربی کے طالب علم تھے، دارالعلوم میں داخل ہوئے۔ آپ کے والد اور تالیف و تدوین دارالعلوم کی بنا میں شریک تھے۔ دارالعلوم کے پہلے استاذ محمود اور پہلے طالب علم محمود کی بات ابتدا سے ہی لوگوں میں مشہور تھی۔ حضرت شیخ الہند کے انتقال کے سال دارالعلوم سے شائع ہونے والی روداد سالانہ مدرسہ اسلامیہ عربیہ دیوبند بابت ۱۳۳۹ھ میں لکھا ہے: ”پانزدہ سالہ عمر میں آپ قدوری و تہذیب تک پہنچ چکے تھے، اسی اثنا میں دارالعلوم دیوبند کی تاسیس ہوئی اور حضرت شیخ الہند سب سے اول اور قدم طالب علم کی حیثیت سے اس میں داخل ہوئے۔ اور یہ عجیب حسن اتفاق ہے کہ دارالعلوم کے سب سے پہلے طالب علم بعد کو اس کے صدر مدرس ہوئے اور بلا اختلاف دنیا میں امام الحدیث تسلیم کیے گئے۔“ (صفحہ ۶)
- (۷) اشتہار قیام مدرسہ و چندہ، مطبوعہ مع روداد ۱۲۸۳ھ ہجری، ص ۳ تا ۴
- (۸) تاریخ دیوبند، سید محبوب رضوی، ص ۳۰ تا ۳۲، ۲۹۰ تا ۲۹۱، ۲۹۵ تا ۲۹۶

دارالعلوم کا نصب العین اور بنیادی اصول

ہندوستان پر انگریزوں کے تسلط کے بعد علماء و امراء کو قتل و تشدد کا نشانہ بنایا گیا، وہیں مدارس بند کر دیے گئے، اوقاف اور جائیدادیں ختم ہو گئیں۔ مسلمانوں کا سیکڑوں سال کا تعلیمی نظام برباد ہو کر رہ گیا تھا۔ دوسری طرف ہندوستان میں انگریزی تہذیب، نصرانیت اور مغربی علوم رائج کیے جانے لگے۔ انیسویں صدی کا یہ زمانہ مسلمانوں کی زندگی کا نہایت پر آشوب دور تھا۔ اس وقت مسلمانوں کی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہ تھا جو تیز و تند باد ہائے مخالف کے تھپیڑوں سے متاثر نہ ہوا ہو۔ مسلم حکومت کے سقوط کے ساتھ مسلمانوں کے عقائد اور فکر و نظر کی بنیادیں بھی ہل گئی تھیں۔ اسلام کے سیدھے سادھے فطری اصولوں کی جگہ شرک و بدعت اور رسوم و رواج نے لے لی تھی۔ عقائد و افکار اور اخلاق و کردار تک ان کی زندگی کا ہر گوشہ متاثر ہو گیا تھا۔

انگریزوں سے قبل ہندوستان میں جو تعلیمی نظام رائج تھا اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ دینی علوم کے ساتھ بڑے سے بڑے ملکی اور فوجی منصب کے لیے بھی طلبہ کو تیار کرتا تھا؛ حتیٰ کہ ان ہی مدارس کے تعلیم یافتہ افراد وزارت و حکم رانی تک کے فرائض نہایت کامیابی اور خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دیتے تھے۔ لیکن انگریز جو نظام تعلیم لائے تھے وہ سابقہ نظام سے یکسر مختلف تھا اور اس میں مذہبی تعلیم کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ انگریزوں کے اس تعلیمی نظام کا مقصد ہندوستانوں کو عیسائی بنانا اور اپنی حکومت کا نظام چلانے کے لیے نوکریاں کرنا تھا۔

انگریزوں کے جدید نظام تعلیم کے جاری ہونے سے مسلمانوں کا علمی اور عملی شیرازہ منتشر اور پراگندہ ہوتا جا رہا تھا۔ ایسے نازک اور پر آشوب دور میں اس وقت کے کچھ علماء و اکابر نے اسلامی عقائد کی حفاظت، دینی تعلیم و تربیت کے فروغ اور باعزت و آزاد سیاسی زندگی کے حصول کے گونا گوں مقاصد کو بروئے کار لانے کے لیے دینی مدارس کے نئے نظام کے قیام کا فیصلہ کیا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے دارالعلوم دیوبند منصوبہ شہود پر جلوہ گر ہوا۔ یہ مدرسہ عوامی چندوں اور شوریٰ کی بنیادوں پر قائم کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے دارالعلوم کی اس تحریک کو شرف قبول عطا فرمایا اور ملک کے طول و عرض میں ہر طرف دینی مدارس قائم ہونے لگے۔

دارالعلوم کا قیام جن مقاصد کے لیے عمل میں لایا گیا، ان کی تفصیل دارالعلوم کے قدیم دستور اساسی میں حسب ذیل بیان کی گئی ہے:

(۱) قرآن مجید، تفسیر، حدیث، عقائد و کلام اور ان کے علوم کے متعلقہ ضروری اور مفید فنون آلیہ کی تعلیم دینا، اور مسلمانوں کو مکمل طور پر اسلامی معلومات بہم پہنچانا۔ رشد و ہدایت اور تبلیغ کے ذریعے اسلام کی خدمت انجام دینا۔

- (۲) اعمال و اخلاق اسلامیہ کی تربیت اور طلبہ کی زندگی میں اسلامی روح پیدا کرنا۔
- (۳) اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور دین کا تحفظ و دفاع، اور اشاعت اسلام کی خدمت بذریعہ تحریر و تقریر بجالانا اور مسلمانوں میں تعلیم و تبلیغ کے ذریعے سے خیر القرون اور سلف صالحین جیسے اخلاق و اعمال اور جذبات پیدا کرنا۔
- (۴) حکومت کے اثرات سے اجتناب و احتراز اور علم و فکر کی آزادی کو برقرار رکھنا۔
- (۵) علوم دینیہ کی اشاعت کے لیے مختلف مقامات پر مدارس عربیہ قائم کرنا اور ان کا دارالعلوم سے الحاق۔

دارالعلوم کے نئے دستور اساسی میں، جو ۱۳۶۵ھ میں منظور ہوا، الفاظ کی معمولی تبدیلی کے ساتھ پہلی شق میں درج ذیل دو نکات کا اضافہ ہے:

ثانوی مرتبہ میں دیگر علوم و فنون کی جو عربی زبان کی تحصیل یا مذہبی اغراض کی تکمیل کے لیے ضروری یا مفید ہوں، اسی طرح فارسی اور اردو دیگر زبانوں کی بقدر ضرورت تعلیم دینا۔
دوسرے فنون و حرفوں کو بقدر ضرورت اسی حد تک اختیار کرنا کہ اصل مقصد تعلیم میں نقصان واقع نہ ہو، اور جنہیں اصل مقصد کے لیے معین و مفید سمجھا گیا ہو۔

یہ وہ مقاصد ہیں جو اگرچہ اسلامی روایات و تاریخ کے دامن سے ہمیشہ وابستہ رہے ہیں مگر اس وقت ان کے احیاء و تجدید کی ضرورت اس لیے درپیش تھی کہ تیرہویں صدی ہجری کے نصفِ آخر میں حکومت کی تبدیلی اور محرومی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے علم و عمل اور فکر و نظر میں جو اختلال اور رخنہ پیدا ہو گیا تھا اس کے اسداد کے لیے ناگزیر تھا کہ آئندہ کے لیے ایسے وسائل اختیار کئے جائیں جن کے ذریعہ سے اسلام، اسلامی علوم اور اسلامی تہذیب و معاشرت کی حفاظت کی جاسکے۔ دارالعلوم کا نصب العین ان ہی مقاصد کا احیاء اور ان کی تجدید ہے۔

نصب العین کی تشریح

حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب سابق مہتمم دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم کے نصب العین کی تشریح ان الفاظ میں فرماتے ہیں:

اول مذہبیت: دارالعلوم مذہبی قوت کا سرچشمہ ہے اور اول سے آخر تک اسلام کے دستور و آئین کا پابند ہے، یہی وجہ ہے کہ یہاں کا ہر فرد اسلام کا نمونہ کامل ہے۔
دوم آزادی: جس کے معنی یہ ہیں کہ یہ دارالعلوم مکمل طور پر بیرونی غلامی کے خلاف ہے، اس کا نظام تعلیم و تربیت، اس کا نظام مالیات اور اس کا نظام اجتماعی سراسر آزاد ہے۔ دنیا میں یہ پہلی جامعہ ہے جس کے سامنے حکومت نے بارہا پیش کش کی مگر اس نے لاکھوں روپے کی پیش کش قبول کرنے سے انکار کر دیا۔

سوم سادگی اور محنت پسندی: جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہاں کے علماء اور فضلاء جہادِ زندگی میں بڑی سے بڑی مصیبت برداشت کرنے کے عادی ہیں۔

چہارم کردار و بلند اخلاقی: جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہاں کے طلبہ اس کردارِ بلند کا نمونہ کامل ہیں جس کو انھوں نے اپنے اکابر سے پایا ہے، یہ کردار سراسر روحانی ہے۔

پنجم علمی اور تعلیمی وابستگی: یہ وہ خصوصیت ہے جسے دارالعلوم کو دیکھنے والا اولین لمحات میں محسوس کرتا ہے، یہ نہ کہنے کی بات ہے نہ سننے سے متعلق ہے، دارالعلوم کی ہر خصوصیت کو اس کی زندگی کے آئینہ میں دیکھا جاسکتا ہے، یہی وجہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں دنیا کے ہر حصے کے طلبہ موجود ہیں، دارالعلوم کے اساتذہ دنیا کے بہترین اساتذہ ہیں اور دارالعلوم کے خدام ایثار و قربانی کا زندہ نمونہ ہیں، مسلمانوں کو ان لوگوں پر اعتماد ہے اور دنیا کے ہر حصے سے اس دارالعلوم کے لیے مالی امدادیں وصول ہوتی ہیں۔

دارالعلوم دیوبند کی داغ بیل ان علمائے ربانیین نے ڈالی تھی جو سراپا خلوص و لٹہریت تھے، ان کا دل و دماغ ملت اسلامیہ کے شاندار مستقبل کے لیے بے چین تھا، انھوں نے خود کو اشاعتِ دین اور ترویجِ علومِ دینیہ کے لیے وقف کر دیا تھا، رب العالمین نے دارالعلوم اور اس کی خدمت کو مقبولیت عطا فرمائی اور اس نے ملک اور بیرون ملک کی دینی، علمی، اخلاقی اور اصلاحی جو خدمات عظیم انجام دی ہیں وہ کبھی بھلائی نہیں جاسکتی ہیں، یہاں سے ہزاروں علماء اور صوفیاء پیدا ہوئے جن میں بہترین محدثین، فقہاء، مصنفین اور مبلغین کا جم غفیر بھی ہے، اور رشد و ہدایت اور تزکیہ باطن کرنے والوں کی ایک لمبی جماعت بھی ہے، بلکہ ان میں وہ لوگ بھی بڑی تعداد میں ہیں جنھوں نے ملک کی آزادی اور یہاں کے باشندوں کی اصلاح کے لیے بے مثال قربانیاں پیش کی ہیں۔ (تاریخ دارالعلوم دیوبند، اول، ص ۱۴۴ تا ۱۴۵)

حضرت نانوتویؒ کے اصول ہشت گانہ اور اس کی خصوصیات

مذکورہ بالا نصب العین کے ساتھ حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی قدس سرہ کے تحریر فرمودہ ان اصولِ ہشت گانہ پر بھی نظر ڈالنا ضروری ہے جو دارالعلوم دیوبند ہی نہیں بلکہ برصغیر کے تمام اسلامی مدارس کے لیے رہنما اصول یا دستورِ اساسی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان اصولوں کی گہرائی تو ان کے عمیق مطالعہ سے واضح ہو سکتی ہے لیکن اس سلسلے میں یہ حقیقت بہر حال قابل ذکر ہے کہ دارالعلوم آج بھی الحمد للہ انھیں اصولوں پر قائم ہے اور ان پر کار بند رہنے کو اپنی کامیابی کی ضمانت سمجھتا ہے۔

(۱) اصل اول یہ ہے کہ تمام مقدور کارکنان مدرسہ کی ہمیشہ تکثیر چندہ پر نظر رہے، آپ کو شش کریں اور اس سے کرائیں خیر اندیشان کو یہ بات ہمیشہ ملحوظ رہے۔

(۲) ابقاء طعام بلکہ افزائش طعام طلبہ میں جس طرح ہو سکے خیر اندیشان مدرسہ ساعی رہیں۔
 (۳) مشیران مدرسہ کو ہمیشہ یہ بات ملحوظ رہے کہ مدرسہ کی خوبی اور اسلوبی ہو، اپنی بات کی بیخ کنی جائے، خدا نخواستہ جب اس کی نوبت آئے گی کہ اہل مدرسہ اہل مشورہ کو اپنی مخالفت رائے اور اوروں کی رائے کے موافق ہونا ناگوار ہو تو پھر اس مدرسہ کی بناء میں تزلزل آجائے گا۔ القصہ تہ دل سے بروقت مشورہ اور نیز اس کے پس و پیش میں اسلوبی مدرسہ ملحوظ رہے، سخن پروری نہ ہو، اور اس لیے ضروری ہے کہ اہل مشورہ اظہار رائے میں کسی وجہ سے متامل نہ ہوں اور سامعین بہ نیت نیک اس کو سنیں، یعنی یہ خیال رہے کہ اگر دوسرے کی بات سمجھ میں آجائے گی تو اگرچہ ہمارے مخالف ہی کیوں نہ ہو بدل و جان قبول کریں گے اور نیز اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ مہتمم امور مشورہ طلب میں اہل مشورہ سے ضرور مشورہ کیا کرے خواہ وہ لوگ ہوں جو ہمیشہ مشیر مدرسہ رہتے ہیں یا کوئی وارد و صادر جو علم و عقل رکھتا ہو اور مدرسوں کا خیر اندیش ہو، اور نیز اسی وجہ سے ضروری ہے کہ اگر اتفاقاً کسی وجہ سے کسی اہل مشورہ سے مشورہ کی نوبت نہ آئے اور بقدر ضرورت اہل مشورہ کی مقدار معتد بہ سے مشورہ کیا گیا ہو تو پھر وہ شخص اس وجہ سے ناخوش نہ ہو کہ مجھ سے کیوں نہ پوچھا، ہاں اگر مہتمم نے کسی سے نہ پوچھا تو پھر اہل مشورہ معترض ہو سکتے ہیں۔

(۴) یہ بات بہت ضروری ہے کہ مدرسین باہم متفق المشرک ہوں اور مثل علماء روزگار خود ہیں اور دوسروں کے درپے تو ہیں نہ ہوں۔ خدا نہ خواستہ جب اس کی نوبت آئے گی تو پھر اس مدرسہ کی خیر نہیں۔

(۵) خواندگی مقررہ اس انداز سے ہو جو پہلے تجویز ہو چکی ہو یا بعد میں کوئی انداز مشورے سے تجویز ہو ورنہ یہ مدرسہ اول تو خوب آباد نہ ہوگا اور اگر آباد ہوگا تو بے فائدہ ہوگا۔

(۶) اس مدرسہ میں جب تک آمدنی کی کوئی سبیل یقینی نہیں جب تک یہ مدرسہ ان شاء اللہ بشرط توجہ الی اللہ اسی طرح چلے گا اور اگر کوئی آمدنی ایسی یقینی حاصل ہوگی جیسی جاگیر یا کارخانہ تجارت یا کسی امیر محکم القول کا وعدہ تو پھر یوں نظر آتا ہے کہ یہ خوف ورجاء جو سرمایہ رجوع الی اللہ ہے ہاتھ سے جاتا رہے گا اور آمد وغیبی موقوف ہو جائے گی اور کارکنوں میں باہم نزاع پیدا ہو جائے گا، القصہ آمدنی اور تعمیر وغیرہ میں ایک نوع کی بے سروسامانی ملحوظ رہے۔

(۷) سرکار کی شرکت اور امراء کی شرکت بھی زیادہ مضر معلوم ہوتی ہے۔

(۸) تا مقدر ایسے لوگوں کا چندہ موجب برکت معلوم ہوتا ہے جن کو اپنے چندہ سے امید ناموری نہ ہو، بالجملة حسن نیت اہل چندہ زیادہ پائیداری کا سامان معلوم ہوتا ہے۔

دارالعلوم دیوبند اور اس کے منہاج پر جاری دیگر مدارس دینیہ کے اصول و مقاصد کو حجۃ الاسلام مولانا نانوتوی قدس سرہ نے اساسی اصول ہشتگانہ کے عنوان سے خود تحریر فرمایا تھا، جو ماہنامہ القاسم، محرم ۱۳۴۷ھ کے دارالعلوم نمبر میں شائع بھی ہو چکا ہے۔

عوامی تعلق اور عام مسلمانوں میں تعلیم کا فروغ

اصول ہشتگانہ سے ہندوستان میں مضبوط و مستحکم دینی تعلیمی نظام کی بنیاد پڑی۔ اس کا بنیادی اصول یہ

تھا کہ مدارس کو حکومت و امراء کی سرپرستی سے نکال کر جمہور اور عوام سے جوڑا گیا۔ عوام کے چندوں سے چلنے والے اس نظام میں استحکام بھی تھا اور سماج کے ہر طبقہ سے بھرپور ربط بھی، جس کی وجہ سے تعلیم سماج کے ہر حلقہ میں پہنچنے لگی۔ دارالعلوم دیوبند اور اس کے نچ پر قائم ہونے والے اداروں کے ذریعہ مسلمانوں کے ہر طبقے میں تعلیم و تعلم کا فروغ ہوا جو اس سے پہلے اتنی وسیع سطح پر کبھی نہ ہوا تھا۔

شورائی اور جمہوری نظام

دوسرا بنیادی اصول یہ تھا کہ مدارس کا نظام شورائی بنیادوں پر قائم ہو، تاکہ اس کی کارکردگی زیادہ بہتر ہو اور اس کے نظام میں شفافیت ہو۔ گویا ہندوستان میں جمہوری سیاسی نظام شروع ہونے سے پون صدی قبل ہی دارالعلوم نے جمہوری اداروں کی بنیاد رکھ دی تھی۔

قابل ذکر بات ہے کہ دارالعلوم کا آغاز جس معمولی حالت اور بے سرو سامانی کے ساتھ ہوا تھا اس کو دیکھتے ہوئے دارالعلوم کے نظم و نسق کا مشاورت کے اصول پر مبنی ہونا تعجب خیز معلوم ہوتا ہے۔ ہندوستان میں اس وقت جمہوری نظام سے لوگ عام طور پر نا آشنا اور نامانوس تھے۔ دارالعلوم نے اس وقت اسلامی طرز پر مجلس شورائی کی بنیاد رکھی اور اس نظام کو کامیابی کے ساتھ چلا کر قوم کے سامنے ایک عمدہ مثال قائم کر دی۔ اسی طرز فکر کا نتیجہ تھا کہ انتظامات میں بڑی وسعت کے ساتھ جمہوری انداز قائم ہو گیا۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ نے اپنے تحریر فرمودہ ہشت نکاتی دستور العمل کی تیسری دفعہ میں اس امر پر زور دیا ہے کہ مشیران ہمیشہ مدرسہ کی خوبی اور خوش اسلوبی کو مد نظر رکھیں اور اپنی رائے کی مخالفت اور تنقید کو ناگوار نہ سمجھیں ورنہ مدرسہ کی بنیاد میں تزلزل آجائے گا۔ اخلاص اور آزادی اظہار رائے، جمہوری نظام کے یہ دو عمدہ اصول ہیں جن سے بہتر کوئی دوسرا طریق کار نہیں ہو سکتا۔ اس تجویز سے تعمیری تنقید کی راہ کھل گئی جو کسی ادارہ کی ترقی کے لیے بڑی ضروری ہے۔

عوامی چندہ

آج سے ڈیڑھ سو سال قبل بلاشبہ ایک عجیب و غریب بات تھی کہ عوامی چندے کی بنیاد پر ایک ایسا تعلیمی ادارہ قائم کیا جائے جو حکومت کے اثرات سے آزاد ہو۔ آنے والے جمہوری دور کے پیش نظر یہ ایک زبردست پیش بینی اور پیش بندی تھی۔ اب جب کہ بڑی بڑی ریاستیں خواب و خیال ہو چکی ہیں اور زمینداریاں ختم ہو گئی ہیں، مگر کشمیر سے آسام تک ہزاروں دینی مدرسے چل رہے ہیں اور ان پر حکومت اور سیاست کی تبدیلیوں کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اس سے عوامی چندہ کی اہمیت و افادیت اور مدارس کی بنیادوں کے استحکام کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ اوقاف کے سابقہ طریقہ کے بجائے عوامی چندے کا یہ طریقہ بہت کامیاب اور بڑا نتیجہ خیز ثابت ہوا۔ دینی مدارس کے قیام اور دینی تعلیم کی نشر و اشاعت کے لیے یہ ایک ایسا مفید اور مستحکم طریقہ تھا جس نے دینی تعلیم کے فروغ کو عوامی چندہ کی تحریک سے مربوط کر دیا۔

حکومتی امداد سے احتراز اور توکل علی اللہ

حضرت نانوتویؒ کے اس دستور العمل میں سرکار اور امراء کی شرکت کو مضر اور نقصان دہ بتایا گیا ہے، بلکہ ایسے افراد کے چندہ کو موجب برکت محسوس کیا گیا ہے جن کو اپنے چندہ سے امید ناموری نہ ہو۔ اس اصول سے مدارس میں در آنے والے بہت سے فنون کا سدباب ہو گیا۔ حکومتی امداد سے سرکاری دخل اندازی کے راستے کھلتے ہیں اور اسی کے ساتھ دیگر مفاسد در آتے ہیں۔ آج سرکاری مدارس کا جو برا حال ہے وہ سب پر عیاں ہے۔ اس طرح اس اصول کی روشنی میں حضرت نانوتویؒ نے جس تعلیمی تحریک کی بنیاد رکھی وہ زمان و مکان کی قیدوں سے آزاد ایک ایسی مستحکم تحریک تھی جو زمانے کی الٹ پھیر، حکومتوں کے کی آمد و رفت اور دیگر پابندیوں سے ماورا و محفوظ تھی۔

حضرت نانوتویؒ نے مدرسہ کے لیے مستقل ذریعہ آمدنی کو بھی نقصان دہ اور باعث اختلاف و انشقاق تصور کیا۔ توکل علی اللہ، خوف ورجا اور توجہ الی اللہ کو اس کی بقا و ترقی کی ضمانت سمجھا۔ دارالعلوم کی تاسیسی جماعت کے ایک دوسرے رکن حضرت مولانا فضل الرحمن عثمانیؒ نے اس کو نظم میں اس طرح ڈھالا ہے:

اس کے بانی کی وصیت ہے کہ جب اس کے لیے
کوئی سرمایہ بھروسہ کا ذرا ہو جائے گا
پھر یہ قندیل معلق اور توکل کا چراغ
یوں سمجھ لینا کہ بے نور و ضیا ہو جائے گا

مآخذ:

- تاریخ دارالعلوم دیوبند، جلد اول، ص ۱۳۶ تا ۱۴۵
- دارالعلوم دیوبند نمبر، ماہنامہ القاسم، محرم ۱۳۳۷ھ، ص ۶۱۵، ۳۳

دارالعلوم دیوبند کیا ہے؟

دارالعلوم دیوبند عالم اسلام کا مشہور دینی و علمی مرکز ہے۔ برصغیر میں اسلام کی نشر و اشاعت کا یہ سب سے بڑا ادارہ اور دینی علوم کی تعلیم کا سب سے بڑا سرچشمہ ہے۔ دارالعلوم دیوبند سے ہر دور میں ایسے باکمال فضلاء تیار ہو کر نکلے جنہوں نے وقت کی دینی ضرورت کے تقاضوں کے مطابق صحیح دینی عقائد اور علوم دینیہ کی نشر و اشاعت کی گراں قدر خدمات انجام دی ہیں۔ یہاں کے فضلاء برصغیر اور برصغیر کے باہر تقریباً پوری دنیا میں علمی و دینی خدمات انجام دے رہے ہیں اور ہر جگہ ان کو ممتاز حیثیت سے مسلمانوں کی دینی رہ نمائی کا مقام حاصل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند تیرہویں صدی ہجری کی ایک عظیم دینی، تعلیمی اور اصلاحی تحریک تھی جس نے احیائے اسلام اور تجدید دین کا عظیم الشان کارنامہ انجام دیا۔ یہ وقت کی ایسی ضرورت تھی کہ جس کی عدم تکمیل کی صورت میں ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے لیے وجود و بقا کا مسئلہ پیش آجاتا اور شاید اسپین کی طرح مسلمان برصغیر کی تاریخ کا ایک قصہ پارینہ بن کر رہ جاتے؛ لیکن دارالعلوم دیوبند کی اس دینی و اصلاحی تحریک نے نہ صرف ہندوستان کو دوسرا اسپین بننے سے بچا لیا، بلکہ اس کی کوششوں سے ہندوستان میں قال اللہ و قال الرسول کے وہ زمزمے چھڑے کہ قدیم اسلامی مراکز کا سماں بندھ گیا اور ہندوستان میں اسلامی علوم و معارف کا ایسا چرچا ہوا کہ پوری مسلم دنیا میں اس کی گونج سنائی دی۔

دارالعلوم دیوبند نے ہندوستان میں نہ صرف دینی علوم اور اسلامی قدروں کی بقا و تحفظ کے زبردست اسباب فراہم کیے ہیں، بلکہ اس نے تیرہویں صدی ہجری کے اواخر سے ملت اسلامیہ ہند کی دینی، معاشرتی اور سیاسی زندگی پر بہت دور رس اور نتیجہ خیز اثرات ڈالے ہیں۔ ۱۸۵۷ء کے ہنگامہ انقلاب میں شکست کھا کر مسلمانوں پر بہت پڑمردگی اور بڑی قنوطیت طاری ہو چکی تھی۔ اس وقت مسلمانوں کی علمی اور تہذیبی فضا میں ہولناک سناٹا چھا گیا تھا۔ اگر اس وقت دارالعلوم قائم ہو کر مشعل راہ نہ بنتا تو نہیں کہا جاسکتا کہ ہندوستانی مسلمانوں کی تاریخ کیا ہوتی۔

تقریباً گزشتہ ڈیڑھ صدی سے دارالعلوم دیوبند نہ صرف برصغیر بلکہ تمام دنیائے اسلام میں مسلمانوں کی دینی تعلیم کے لیے ایک بے نظیر درس گاہ سمجھی جاتی رہی ہے۔ جامع از ہر مصر کے علاوہ اسلامی اور دینی علوم و فنون کا کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو اپنی قدامت، مرجعیت و مرکزیت اور طلبہ کی کثرت کے لحاظ سے اتنی اہمیت رکھتا ہو جتنی دارالعلوم دیوبند کو دنیائے اسلام میں حاصل ہے۔ ہندوستان کے اس چھوٹے سے قصبے میں دارالعلوم کی بنیاد کچھ ایسے بزرگوں کے مقدس ہاتھوں سے رکھی گئی تھی کہ جن کے اخلاص کی برکت سے بہت تھوڑے عرصہ میں اس کی علمی عظمت دنیائے اسلام میں

قائم ہوگئی اور یہ اسلامی دنیا کی نہایت ہر دل عزیز درس گاہ سمجھی جانے لگی اور ممالک اسلامیہ کے طالبان علم دارالعلوم دیوبند میں علوم و فنون کی طلب و تحقیق کے لیے جمع ہونے لگے۔ آج برصغیر کے طول و عرض میں جو دینی و علمی شخصیات نظر آتی ہیں ان کی بڑی تعداد اسی دریائے علم سے سیراب ہوئی ہے اور بڑے بڑے نامور علماء نے اسی درس گاہ میں زانوئے تلمذ تہہ کیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ علمی خدمات کی گراں مائنگی، دینی و اصلاحی تحریک کی وسعت اور احیاء اسلام کی مرکزیت کے اعتبار سے نہ صرف برصغیر بلکہ دوسرے اسلامی ممالک میں بھی کوئی تعلیم گاہ ایسی نہیں جس نے ملت اسلامیہ کی اتنی وقیع اور اہم دینی و علمی، سماجی و سیاسی اور تبلیغی و اصلاحی خدمات انجام دی ہوں۔

علمائے دیوبند کے دینی و علمی تبلیغی و تصنیفی کارناموں کا برصغیر ہی میں نہیں بلکہ دوسرے اسلامی ممالک میں بھی بارہا اعتراف کیا گیا، خصوصاً ارشاد و تربیت اور تدریس و تبلیغ کے میدانوں میں یہ سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ دارالعلوم کے غلغلے سے افغانستان اور بخارا و سمرقند تک کی علمی مجالس گونج اٹھیں۔ یہ ایک مستند تاریخی حقیقت ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا یہ چشمہ فیض اپنی خصوصیات کے ساتھ تشنگان علوم کو سیراب کرنے میں ایک صدی سے زائد مدت سے مصروف ہے، اور پورا ایشیا بلکہ سارا عالم اس چمنستان نبوت کی خوشبو سے مہک رہا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی انہی دینی، علمی اور فکری سرگرمیوں نے اسے دنیائے اسلام کی نگاہوں کا مرکز بنا دیا ہے۔

دارالعلوم دیوبند کے وجود پر برصغیر کے مسلمان جس قدر بھی فخر و مسرت کا اظہار کریں، اس کے درست اور حق بہ جانب ہونے میں کوئی تامل نہیں کیا جاسکتا۔ دارالعلوم کی تاریخ عہد حاضر میں مسلمانوں کی تاریخ کا روشن باب ہے۔ اقامت دین اور حریت فکر کی اس عظیم جدوجہد کو اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ میں نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ دارالعلوم دیوبند کی تاریخ کا اگر بہ نظر غائر مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت صاف نظر آتی ہے کہ یہ قدیم طرز کی صرف ایک درس گاہ نہیں ہے بلکہ درحقیقت احیائے اسلام اور قیام ملت کی ایک عظیم الشان تحریک ہے۔

دیوبند کی سرزمین پر اس دینی درس گاہ کا قیام اور اس کا استحکام برصغیر کے مسلمانوں کی ایک متحدہ سعی و کوشش کا نتیجہ ہے۔ دین کی خدمت، اسلام کی تائید، اسلامی علوم و فنون کا احیاء اور ان کی نشر و اشاعت، علم کے شائق طلبہ کی دست گیری دارالعلوم دیوبند کے مخصوص اور مہتمم بالشان کارنامے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند تقریباً ڈیڑھ سو سال سے سلف صالحین کے مسلک کے مطابق مسلمانوں کی صحیح علمی اور عرفانی تربیت اور رہنمائی کر رہا ہے۔ زوال بغداد کے بعد جس طرح قاہرہ اسلامی علوم و فنون کا مرکز بنا، ٹھیک اسی طرح دہلی کے زوال کے بعد علمی مرکزیت دیوبند کے حصے میں آئی اور بڑی بڑی نامور شخصیتیں اس درس گاہ سے اٹھیں۔ بے شمار علماء و فضلاء نے اس کی آغوش تربیت میں پرورش پائی۔ یہاں سے ہزاروں علماء و مشائخ، محدثین و فقہاء، مصنفین اور دوسرے علم و فن کے ماہرین پیدا ہوئے اور آسمان علم و عمل کے آفتاب و ماہتاب بنے، جنہوں نے مختلف انداز سے دین کی خدمات انجام دی ہیں اور آج بھی اس برصغیر کے

گوشے گوشے میں انجام دے رہے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کی تاریخ، اسلام کی تاریخ میں ایک عہد آفریں دور کا تاریخی باب ہے۔ مختصر یہ کہ علوم و فنون کا یہ بحر زخار تشنگان علم کی بہت بڑی تعداد کو اب تک سیراب کر چکا ہے، جنہوں نے نسیم بہار بن کر اس کی علمی خوشبو کو چہار دانگ عالم میں پھیلا دیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے فیض یافتگان ایک ایسے گھنے درخت کے مشابہ ہیں جس کی سرسبز و شاداب شاخوں اور پتوں کا شمار کرنا آسان نہیں ہے۔

دارالعلوم دیوبند اپنے یوم تاسیس سے شریعت و طریقت دونوں کا مرکز رہا ہے۔ آسمان شریعت و طریقت اور علم و عمل کے جتنے بھی ماہ و انجم اس وقت برصغیر میں چمک رہے ہیں، ان میں سے بیشتر اسی شمس بازغہ کی روشنی سے منور ہیں اور اسی سرچشمہ علم و عرفان سے سیراب ہو کر نکلے ہیں۔ ہر شخص جانتا ہے کہ برصغیر کے اکثر و بیشتر بڑے بڑے علماء نے اسی درس گاہ میں زانوئے تلمذ تہہ کیا ہے اور بہت سے ایشیائی ملکوں میں خوان دارالعلوم کے زلہ ربا موجود ہیں جنہوں نے برصغیر اور اس کے باہر بہت سے ملکوں میں کتاب و سنت کے چراغ روشن کیے ہیں اور بے شمار انسانوں نے ان کے ذریعہ رشد و ہدایت کا فیض پایا ہے۔

دارالعلوم دیوبند صرف ایک تعلیم گاہ ہی نہیں بلکہ درحقیقت ایک تحریک ہے، ایک مکتب فکر اور ایک بحر بیکراں ہے۔ برصغیر کے اطراف میں جس قدر دینی مدارس اس وقت موجود ہیں ان کے اساتذہ تقریباً بلا واسطہ یا بلا واسطہ دارالعلوم ہی کے فیض یافتہ ہیں اور ہر سال سیکڑوں طلبہ یہاں سے فارغ ہو کر درس و تدریس، وعظ و تبلیغ اور تصنیف و تالیف کے ذریعہ سے اشاعت دین کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ اب تو یورپ و امریکہ اور افریقہ وغیرہ تک یہ سلسلہ پھیل چکا ہے۔

دارالعلوم دیوبند نے مسلمانوں کی فکر و نظر کو تازگی و پاکیزگی، قلب کو عزم و حوصلہ اور جسم کو قوت و توانائی بخشنے میں بڑا کام کیا ہے۔ اس کا فیضان عام ہے، اس سے ایسے بے شمار لوگوں نے اپنی علمی تشنگی بجھائی ہے، جن کے علمی شوق کو پورا کرنے کے لیے اسباب مہیا نہ تھے۔ اسی کے ساتھ دارالعلوم کے نقش قدم پر بہت سے علمی اور دینی چشمے جاری ہو گئے جن میں سے ہر چشمہ اپنے افادہ و فیضان کا ایک خاص دائرہ رکھتا ہے۔ یہ سب اسی نظام شمسی کے ستارے ہیں جن کی روشنی سے برصغیر میں مسلمانوں کی علمی و دینی زندگی کا گوشہ گوشہ روشن ہے۔ ان دینی مدارس سے لاکھوں مسلمان گھرانوں کی حالت سدھر گئی، مسلمانوں کا احساس کمتری دور ہوا اور ان کی بدولت ملت کو ایسے بے شمار افراد میسر آ گئے جنہوں نے حالات اور وقت کے مطابق زندگی کے مختلف گوشوں میں مسلمانوں کی رہ نمائی کی۔ جہاں جہاں دارالعلوم کے نقش قدم پر قائم ہونے والے دینی مدارس صحیح خطوط پر سرگرم عمل ہیں، وہاں اسلام کی حیثیت اور مسلمانوں کی ملی خصوصیات بڑی حد تک محفوظ ہیں۔

دارالعلوم دیوبند نے برصغیر کے مسلمانوں کی دینی زندگی میں ان کو ممتاز مقام پر پہنچانے کا بہت بڑا کارنامہ

انجام دیا ہے۔ یہ نہ صرف ایک بین الاقوامی تعلیمی ادارہ ہے بلکہ ذہنی نشوونما، تہذیبی ارتقاء اور ملی حوصلہ مند یوں کا ایسا مرکز بھی ہے جس کے صحیح علم اور بلند کردار پر مسلمانوں کو ہمیشہ بھروسہ اور فخر رہا ہے۔ جس طرح عربوں نے ایک زمانے میں یونانیوں کے علوم و فنون کو ضائع ہونے سے بچایا، اسی طرح دارالعلوم دیوبند نے اس زمانے میں علوم اسلامیہ کی حفاظت و ترقی اور بالخصوص علم حدیث کی جوگراں قدر خدمات انجام دی ہیں وہ اسلام کی علمی تاریخ میں ایک عظیم کارنامے کی حیثیت رکھتی ہیں۔

ماخذ:

● تاریخ دارالعلوم دیوبند (مرتبہ سید محبوب رضوی)، جلد اول، ص ۶۲ تا ۶۴، ۲۰۲۰

دوسرا باب

دارالعلوم دیوبند کا ڈیڑھ سو سالہ سفر

- دارالعلوم دیوبند کا پہلا دور (۱۲۸۳ھ تا ۱۳۱۳ھ) _____ ۸۷
- دارالعلوم دیوبند کا دوسرا دور (۱۳۱۳ھ تا ۱۳۴۸ھ) _____ ۹۷
- دارالعلوم دیوبند کا تیسرا دور (۱۳۴۸ھ تا ۱۴۰۱ھ) _____ ۱۰۷
- دارالعلوم دیوبند کا اجلاس صد سالہ _____ ۱۲۱
- دارالعلوم دیوبند کا موجودہ دور (ابتدا: ۱۴۰۱ھ/۱۹۸۱ء) _____ ۱۲۶
- جامعہ طبییہ دارالعلوم دیوبند _____ ۱۵۱
- موجودہ دور کی ترقیات _____ ۱۵۷
- عمارت دارالعلوم اور ان کا تعارف _____ ۱۶۲

دارالعلوم دیوبند کا پہلا دور

۱۲۸۳ھ تا ۱۳۱۳ھ مطابق ۱۸۶۶ء تا ۱۸۹۵ء

تیس سال

دورِ اہتمام

- (۱) حضرت حاجی عابد حسین صاحب دیوبندیؒ
پہلی بار: محرم ۱۲۸۳ھ تا رجب ۱۲۸۴ھ / ۱۸۶۶ء تا ۱۸۶۷ء
دوسری بار: محرم ۱۲۸۶ھ تا ذوالقعدہ ۱۲۸۸ھ / ۱۸۶۹ء تا ۱۸۷۱ء
تیسری بار: ربیع الاول ۱۳۰۶ھ تا شعبان ۱۳۱۰ھ / ۱۸۸۸ء تا ۱۸۹۳ء
- (۲) حضرت مولانا رفیع الدین صاحب دیوبندیؒ
پہلی بار: شعبان ۱۲۸۴ھ تا ذوالحجہ ۱۲۸۵ھ / ۱۸۶۷ء تا ۱۸۶۹ء
دوسری بار: ذوالقعدہ ۱۲۸۸ھ تا ربیع الاول ۱۳۰۶ھ / ۱۸۷۲ء تا ۱۸۸۸ء
- (۳) حضرت حاجی فضل حق صاحب دیوبندیؒ
شعبان ۱۳۱۰ھ تا ذوالقعدہ ۱۳۱۱ھ / ۱۸۹۳ء تا ۱۸۹۴ء
- (۴) حضرت مولانا محمد منیر صاحب نانوتویؒ
ذوالحجہ ۱۳۱۱ھ تا جمادی الاولیٰ ۱۳۱۳ھ / ۱۸۹۴ء تا ۱۸۹۵ء

دارالعلوم دیوبند کو، جس کا آغاز ۱۵ محرم الحرام ۱۲۸۳ھ کو انجام پایا، اس وقت سے نہایت سادگی سے مدرسہ عربی دیوبند کہا جاتا تھا۔ اس مدرسہ میں تدریس کے لیے دیوبند ہی کے ایک جید عالم دین حضرت مولانا محمد محمود دیوبندیؒ کا تقرر کیا گیا۔ چھتہ مسجد کے صحن میں تعلیم و تدریس کا کام شروع ہو گیا۔ عجیب اتفاق کہ اس مدرسہ میں داخل ہونے والے پہلے طالب علم کا نام بھی محمود تھا جو بعد میں شیخ الہند سے معروف ہوئے اور دارالعلوم کے صف اول کے تمام مشاہیر علماء و فضلاء کے استاذ ہوئے۔ گویا دارالعلوم کی بلند و بالا عمارت کی یہ پہلی اینٹ تھی اور اس شجرہ

طوبی کی اصل ثابت تھی جس کی شاخوں سے بعد میں آسمان علم و فضل کے آفتاب و ماہتاب ظہور میں آئے۔

قیام دارالعلوم کے چار دنوں بعد ذمہ داران کی طرف سے مدرسہ کے قیام کا اعلان ہوا اور عامۃ الناس سے چندہ کی اپیل کی گئی۔ دارالعلوم کے نظم و نسق کے لیے ایک جماعت مجلس شوریٰ کا قیام بھی عمل میں آیا۔ مجلس شوریٰ کی زیر ہدایت آمد و صرف کا حساب رکھنے اور تعلیمی امور کے نظم و نسق کے لیے حضرت حاجی عابد حسین صاحب کو مہتمم مقرر کیا گیا۔ جنہوں نے وقفہ وقفہ سے تین بار اس اہم ذمہ داری کو سرانجام دیا۔ حضرت حاجی صاحب کے سفر حج اور تعمیر جامع مسجد کی مشغولیات کی وجہ سے درمیان میں دوبارہ ذمہ داری حضرت مولانا رفیع الدین صاحب کو سپرد کی گئی جو تقریباً دو دو ہائی دارالعلوم کے مہتمم رہے۔ پھر یہ بارگراں حضرت حاجی سید فضل حق صاحب اور حضرت مولانا منیر احمد نانوتوی کو اٹھانا پڑا۔

قیام دارالعلوم کے ابتدائی چودہ پندرہ سال حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اس مدرسہ کے سرپرست رہے اور اس کی ہمہ جہت ترقی میں کوشاں رہے۔ دارالعلوم کی آفاقیت، علمی بلندی اور تعلیمی و تربیتی ترقیات میں حضرت نانوتوی کی کوششوں کو سب سے زیادہ دخل ہے۔ آپ کی سرپرستی سے مدرسہ کے اعتبار و وقار میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ آپ کے انتقال کے بعد قطب وقت حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی سرپرست مقرر ہوئے اور دارالعلوم کی فکر و مسلک کی تشکیل کے ساتھ اس کی ظاہری ترقی میں بھی نمایاں کردار ادا کیا۔

اس تیس سال کے عرصہ میں تین صدر المدرسین حضرات ہوئے؛ حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی، حضرت مولانا سید احمد دہلوی اور شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی جن کا دور صدارت تدریس ۱۳۳۳ھ/۱۹۱۵ء تک ممتد ہے۔ حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی کا دور صدارت نہایت اہمیت کا حامل رہا ہے۔ اس دوران ایسے علماء و فضلاء فارغ التحصیل ہوئے جن کا اساطین علمائے دیوبند میں شمار ہے۔

اس عرصہ میں دارالعلوم نے کل ۲۷۷ فضلاء تیار کیے جو دارالعلوم کے اساطین علماء اور بزرگوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان ہی حضرات نے عوام الناس میں دارالعلوم کو متعارف کروایا اور ان کی علمی و دینی خدمات سے دارالعلوم کو بہت شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس دور میں طلبہ کی تعداد بڑھ کر اوسطاً تین سو ہو گئی، اساتذہ کی تعداد بھی بڑھ کر بارہ تیرہ ہو گئی۔ دارالعلوم کا بجٹ بھی ۳۹۳ روپے سے بڑھ کر چھ ہزار سے متجاوز ہو گیا۔ اسی دوران دارالعلوم کی اولین اور مرکزی عمارت نودہ اور اس سے ملحقہ کمرے تعمیر ہوئے۔ اسی عرصہ میں دارالعلوم کا اہم شعبہ دارالافتاء قائم ہوا اور حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب کو مفتی مقرر کیا گیا۔ اسی دور میں شعبہ طب، درجات حفظ و ناظرہ اور درجات فارسی و ریاضی بھی قائم ہوئے۔

دارالعلوم کے اس تیس سالہ دور اول کے تفصیلی احوال تاریخ دارالعلوم دیوبند جلد اول میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ بہر حال اہم واقعات مختصراً پیش کیے جا رہے ہیں:

پہلا سال: ۱۲۸۳ھ / ۱۸۶۷ء - ۱۸۶۶ء

- ❖ ابتدا میں طلبہ کی کل تعداد ۲۱ تھی، سال کے اختتام پر یہ تعداد بڑھ کر ۷۸ ہو گئی، جس میں ۵۸ طلبہ بیرون جات کے تھے۔
- ❖ پہلے ہی سال میں قرب و جوار کے علاوہ دور دراز مقامات بنارس، پنجاب اور کابل (افغانستان) تک کے طلبہ آنے شروع ہو گئے۔
- ❖ اس طرح یہ جلد ہی اقامتی مدرسہ بن گیا اور مدرسین میں بھی اضافہ کیا گیا۔
- ❖ حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی بطور صدر مدرس دارالعلوم میں تشریف لائے۔
- ❖ مولانا محمد فاضل پھلتی صاحب، مولانا میر باز خان صاحب، مولانا فتح محمد صاحب اور حافظ احمد حسن نے بھی تدریسی خدمات انجام دیں۔
- ❖ ماہ شعبان میں حضرت نانوتوی، حضرت مولانا مہتاب علی اور حضرت مولانا ذوالفقار علی رحمہم اللہ نے طلبہ کا امتحان لیا اور اطمینان کا اظہار فرمایا۔ طلبہ کو کتابیں انعام میں دی گئیں۔
- ❖ سالانہ کل صرفہ تقریباً ۳۹۴ روپے رہا اور ۲۵۵ روپے باقی بچ گئے۔

دوسرا سال: ۱۲۸۴ھ / ۶۸ - ۱۸۶۷ء

- ❖ سالانہ بجٹ سات سو روپے رکھا گیا۔ اس سال چندہ بھی دو گنا ۱۲۷۵ روپے ہوا۔
- ❖ اس سال دیوبند میں وبائی مرض پھیلنے کی وجہ سے دو ماہ تعلیمی سلسلہ منقطع رہا۔ اکثر اساتذہ و طلبہ اس میں مبتلا ہو گئے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وبائی مرض کی شدت کے باوجود بیرونی طلبہ کی تعداد ۷۸ سے بڑھ کر ۱۲۰ تک پہنچ گئی، جب کہ دارالعلوم کی نہ اپنی عمارت تھی اور نہ مطبخ۔
- ❖ اسی سال حضرت حاجی عابد حسین صاحب کے سفر حج کی بنیاد پر منصب اہتمام حضرت مولانا رفیع الدین دیوبندی کو سپرد کیا گیا۔
- ❖ اسی سال دارالعلوم میں تعلیمی جہتوں کو وسعت دی گئی اور درجہ ناظرہ و حفظ اور درجہ فارسی و ریاضی کا قیام بھی عمل میں آیا اور دو اساتذہ کا تقرر ہوا۔
- ❖ نیز دارالعلوم کی روز افزوں ترقی کے پیش نظر ایک محاسب کا تقرر بھی ہوا۔

تیسرا سال: ۱۲۸۵ھ / ۶۹ - ۱۸۶۸ء

- ❖ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نے دارالعلوم کا دورہ کیا، طلبہ کے امتحانات لیے اور اپنے گراں قدر تاثرات کا اظہار فرمایا۔

❖ امتحان کے بعد میں جلسہ تقسیم انعام منعقد کیا گیا جس میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ نے کامیاب طلبہ کو انعامی کتابیں عطا کیں۔

چوتھا سال: ۱۲۸۶ھ/۷۰-۱۸۶۹ء

❖ وبا اور قحط کی وجہ سے تعلیمی سلسلہ پانچ ماہ تک متاثر رہا۔
 ❖ حضرت مولانا رفیع الدین صاحب دیوبندیؒ سفر حج پر تشریف لے گئے اور ان کی جگہ حضرت حاجی عابد حسین صاحبؒ کو دوبارہ مہتمم مقرر کیا گیا۔
 ❖ حضرت مولانا سید احمد دہلویؒ بطور مدرس دوم بلائے گئے جو بعد میں دارالعلوم کے دوسرے صدر المدرسین بھی ہوئے۔

پانچواں سال: ۱۲۸۷ھ/۷۱-۱۸۷۰ء

❖ پچھلے سال کے وبائی امراض کے اثرات کی وجہ سے مزید داخلہ اور تعلیمی ترقی کے بجائے باقی ماندہ نصاب تعلیم مکمل کیا گیا۔

چھٹا سال: ۱۲۸۸ھ/۷۲-۱۸۷۱ء

❖ طلبہ کی تعداد ۱۰۶ ہو جانے کی وجہ سے مسجد چھتہ تنگ پڑنے لگی، اس لیے دارالعلوم کو قریبی مسجد قاضی میں منتقل کر دیا گیا۔
 ❖ دیوبند کی جامع مسجد کی تعمیر میں حضرت حاجی عابد حسینؒ کی نگرانی کے سبب آپ کے بار کو ہلکا کرنے کے لیے حضرت مولانا رفیع الدین صاحبؒ کو دوبارہ مہتمم بنا دیا گیا۔

ساتواں سال: ۱۲۸۹ھ/۷۳-۱۸۷۲ء

❖ قیام دارالعلوم کے بعد پہلی مرتبہ تقسیم اسناد کا جلسہ ہوا۔
 ❖ ۱۲۸۵ھ سے ۱۲۸۹ھ تک کے فارغ التحصیل طلبہ کی تعداد ۲۵ تھی، مگر جلسہ میں صرف ۹ فارغین موجود تھے جن میں مولانا احمد حسن امر وہی، مولانا خلیل احمد انیسٹھوی، مولانا فخر الحسن گنگوہی، مولانا عبد اللہ انصاری انیسٹھوی، مولانا فتح محمد تھانوی، مولانا احمد حسن دیوبندی، قاضی جمال الدین اور مولانا عبد اللہ جلال آبادی وغیرہ شامل ہیں جن کا شمار بعد میں ہندوستان کے علمائے مشاہیر میں ہوا۔

❖ اس سال شیراز ہند جون پور اور دہلی کے متعدد علماء جو پہلے ہی سے علوم کی تکمیل کر چکے تھے،

دارالعلوم میں علم حدیث کا شہرہ سن کر تکمیل حدیث کے لیے داخل ہوئے۔

- ❖ درسی کتابوں کے عطیات بڑی تعداد میں موصول ہوئے، اہل مطالع حتیٰ کہ بعض ہندو مالکان مطالع (جیسے نولکشور) نے دارالعلوم کو اپنی مطبوعات پیش کیں، ورنہ اس سے پہلے مستعار کتابیں طلبہ کو پڑھنے کے لیے دی جاتی تھیں۔

آٹھواں سال: ۱۲۹۰ھ/۷۴-۱۸۷۳ء

- ❖ جامع مسجد کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد مدرسہ کو مسجد قاضی سے جامع مسجد منتقل کیا گیا کیوں کہ مسجد قاضی طلبہ کی بڑھتی تعداد کی وجہ سے تنگ پڑ گئی تھی۔
- ❖ اس سال پانچ طلبہ نے نصاب کی تکمیل کر کے سند فراغت حاصل کی۔ فارغین کی اس جماعت میں مولانا محمود حسن دیوبندی بھی شامل تھے جو بعد میں دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین و شیخ الحدیث ہوئے اور شیخ الہند کے لقب سے ملقب ہوئے۔
- ❖ سالانہ جلسہ میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا مظہر نانوتوی وغیرہ حضرات نے شرکت کی اور حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے اس جلسہ میں بہت اہم تقریر کی۔
- ❖ اسی سال حضرت مولانا صدیق احمد انیسٹھوی، مولانا عبداللہ گوالیاری، مولانا عبدالحق بریلوی اور مولانا محمد مراد پاک پٹنی کا تقرر بھی عمل میں آیا۔

نواں سال: ۱۲۹۱ھ/۷۵-۱۸۷۴ء

- ❖ مولانا محمود حسن دیوبندی (شیخ الہند) کو اعزازی طور پر بلا تنخواہ معین مدرس مقرر کیا گیا اور دوسرے سال سے مدرس چہارم قرار پائے۔
- ❖ دارالعلوم کے طرز پر مدارس قائم ہونے شروع ہوئے، جیسے سہارن پور میں مظاہر علوم، دارالعلوم کے چھ ماہ بعد قائم ہوا۔ نیز دہلی، میرٹھ، خورجہ، بلند شہر، علی گڑھ اور مراد آباد وغیرہ میں متعدد مدارس قائم ہوئے۔
- ❖ اسی سال تھانہ بھون کے مدرسہ عربی کا باضابطہ الحاق منظور کیا گیا۔
- ❖ اسی سال قسطنطنیہ کے مشہور اخبار الجوائب نے اپنا شمارہ اعزازی طور پر دارالعلوم بھیجنا شروع کیا، جو اس زمانے میں اہم بات تھی۔ اس سے محسوس ہوتا ہے کہ دارالعلوم کا شہرہ دور دراز ملکوں میں بھی پہنچ چکا تھا۔

❖ اسی سال کی مجلس شوری میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ دارالعلوم کی اپنی مستقل اور کشادہ عمارت ہونی چاہیے، چنانچہ چندہ جمع ہونا شروع ہوا اور آبادی کے پاس مسجد چھتہ کے شمال مغرب میں ایک قطعہ زمین خرید لی گئی۔

❖ اسی سال ایک انگریزی جاسوس جان پامر نے دارالعلوم کا خفیہ دورہ کیا، جس کی رپورٹ بعد میں عام ہوئی۔ یہ رپورٹ الفضل ما شہدت بہ الأعداء کی بہترین مثال ہے۔

دسواں سال: ۱۲۹۲ھ/۱۸۷۵ء

❖ دارالعلوم کے قیام کا دس سالہ جلسہ تزک و احتشام سے منعقد ہوا۔

❖ دارالعلوم کی پہلی عمارت ’نودرہ‘ کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ اس موقع پر حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپوری، حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی اور حضرت مولانا مظہر نانوتوی وغیرہ علماء و اکابرین شریک ہوئے۔

❖ یہ تعمیری سلسلہ آٹھ سال کی مدت میں ۲۳۰۰۰ (تیس ہزار) روپے کے صرفے سے مکمل ہوا۔

۱۱واں سال: ۱۲۹۳ھ/۱۸۷۶ء

❖ اسلامی ہند کی حکومت اور عدالتوں کے زوال کے بعد دارالعلوم کو اسلامی مرکز کے طور پر شہرت و مرکزیت حاصل ہونے لگی اور عوام الناس اسلامی امور میں دارالعلوم سے رجوع کرنے لگے۔ اس سال کی روداد سے معلوم ہوتا ہے کہ استفتاءات کی کثرت کی وجہ سے دارالعلوم نے اس کو ایک اہم دینی خدمت سمجھ کر قبول کر لیا۔ اس طرح دارالافتاء کے قیام کی بنیاد پڑی۔

❖ انیسٹھ ضلع سہارن پور، مظفر نگر اور گلاؤنھی ضلع بلند شہر کے مدارس کا دارالعلوم سے الحاق ہوا۔

۱۲واں سال: ۱۲۹۴ھ/۱۸۷۷ء

❖ طلبہ نے کتب انعامی کی کل رقم ستر روپے روس اور ترکی کے مابین جنگ پلیونا میں زخمی ہونے والے ترک فوجیوں اور یتیمی کو قسطنطنیہ میں بطور چندہ بھیجیں۔

❖ اس سال حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی، حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی، حضرت مولانا رفیع الدین اور حضرت شیخ الہند وغیرہ تقریباً ایک سو علماء و اکابرین دیوبند پر مشتمل قافلہ حج بیت اللہ کے مبارک سفر پر روانہ ہوا۔

۱۳ ارواں سال: ۱۲۹۵ھ/۱۸۷۸ء

- ❖ فضلاء دارالعلوم نے اجتماعیت اور دارالعلوم کے تعاون کے مقصد سے ایک جماعت ثمرۃ التریبیت کے نام سے قائم کی۔

۱۴ ارواں سال: ۱۲۹۶ھ/۱۸۷۹ء

- ❖ ادارہ کی بے پناہ ترقی، تعلیم کی وسعت اور مدارس کے الحاق کی وجہ سے حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتویؒ نے اس کو دارالعلوم کا نام دیا۔
- ❖ دارالعلوم میں فن طب کی تعلیم شروع کی گئی۔ طلبہ کو طریقہ مطب، فن جراحی اور دوا سازی سکھانے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔

۱۵ ارواں سال: ۱۲۹۷ھ/۱۸۸۰ء

- ❖ ۴ جمادی الثانیہ کو دارالعلوم دیوبند کے روح رواں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کا سانحہ وفات پیش آیا۔
- ❖ مجلس شوریٰ نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ کو دارالعلوم کا سرپرست منتخب کیا۔

۱۶ ارواں سال: ۱۲۹۸ھ/۸۱-۱۸۸۰ء

- ❖ دو تین سال کے وقفہ کے بعد اس سال بڑے پیمانے پر جلسہ دستار بندی احاطہ دارالعلوم میں منعقد ہوا جس میں بڑی تعداد میں علماء، روساء اور عوام نے شرکت کی۔
- ❖ اس سال داخل طلبہ کی تعداد ڈھائی سو رہی۔

۱۷ ارواں سال: ۱۲۹۹ھ/۸۲-۱۸۸۱ء

- ❖ تعداد اساتذہ: ۱۰، تعداد طلبہ: ۱۸۷، تعداد فضلاء: ۱۲، آمدنی: ۶۷۳۰ روپے۔

۱۸ ارواں سال: ۱۳۰۰ھ/۸۳-۱۸۸۲ء

- ❖ قیام سے اب تک کل ۵۶ فارغ التحصیل ہوئے، پچاس طلبہ نے حفظ کی تکمیل کی۔ متفرق درجات سے استفادہ کرنے والے علیحدہ ہیں۔

۱۹ ارواں سال: ۱۳۰۱ھ/۸۴-۱۸۸۳ء

- ❖ جلسہ دستار بندی ہوا اور دارالعلوم کی اٹھارہ سالہ خدمات کا جائزہ لیا گیا۔

❖ دارالعلوم میں طب کی تعلیم شروع ہو چکی تھی، اس سال شعبہ طب کا قیام بھی عمل میں آیا جہاں طب کی تعلیم کے ساتھ علاج و معالجہ کی خدمات کا بھی نظم تھا۔

۲۰ رواں سال: ۱۳۰۲ھ/۸۵-۱۸۸۴ء

❖ دارالعلوم کے پہلے صدر مدرس حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتویؒ کا انتقال ہوا۔ آپ اٹھارہ سال تک دارالعلوم کے شیخ الحدیث رہے، اس درمیان ۷۷ طلبہ نے تکمیل کی جس میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندیؒ، حضرت مولانا خلیل احمد سہارن پوریؒ، حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ، حضرت مفتی عزیز الرحمن عثمانیؒ، حضرت حافظ محمد احمد نانوتویؒ، حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانیؒ وغیرہ اساطین علمائے دیوبند شامل ہیں۔

❖ حضرت مولانا سید احمد دہلویؒ صدر مدرس ہوئے۔

۲۱ رواں سال: ۱۳۰۳ھ/۸۶-۱۸۸۵ء

❖ اس سال تک ۱۴۱ طلبہ فارغ التحصیل یا قریب بفرارغ ہوئے۔ جو طلبہ درمیان میں کچھ پڑھ کر چلے گئے وہ اس کے علاوہ ہیں۔

❖ ۶۴ طلبہ نے حفظ مکمل کیا۔

❖ ہندوستان کے طول و عرض کے علاوہ طلبہ میں ایک بڑی تعداد قندھار و کابل اور بخارا وغیرہ تک سے شریک ہوئی۔

۲۲ رواں سال: ۱۳۰۴ھ/۸۷-۱۸۸۶ء

❖ دارالعلوم کی امداد کے لیے حیدرآباد دکن میں انجمن معین الاسلام قائم ہوئی جس کے ذریعہ طویل مدت تک دارالعلوم کو امداد کا سلسلہ جاری رہا۔

۲۳ رواں سال: ۱۳۰۵ھ/۸۸-۱۸۸۷ء

❖ ریاست حیدرآباد دکن کے صدر اعظم نواب سر آسمان جاہ نے دولت آصفیہ کی طرف سے دارالعلوم کے لیے سو روپیہ ماہانہ چندہ مقرر کیا۔

۲۴ رواں سال: ۱۳۰۶ھ/۸۹-۱۸۸۸ء

❖ حضرت مولانا رفیع الدینؒ نے بقصد ہجرت سفر حج کیا۔

- ❖ حضرت حاجی عابد حسین صاحبؒ تیسری بار مہتمم منتخب ہوئے۔
- ❖ ۲۵ رواں سال: ۱۳۰۷ھ/۹۰-۱۸۸۹ء
- ❖ مولانا غلام رسول ہزارویؒ کا تقرر عمل میں آیا۔
- ❖ اس سال دس اساتذہ اور ۷۸ طلبہ تھے، دارالعلوم کی آمدنی ۵۹۵۹ روپے ہوئی۔
- ❖ ۲۶ رواں سال: ۱۳۰۸ھ/۹۱-۱۸۹۰ء
- ❖ حضرت مولانا سید احمد دہلویؒ کے مستعفی ہونے کے بعد حضرت شیخ الہندؒ کو صدارت تدریس کے مسند پر فائز کیا گیا۔ فضلاء کی تعداد ۲۶ رہی۔
- ❖ مولانا خلیل احمد انپٹھویؒ (جو بعد میں مظاہر علوم کے شیخ الحدیث ہوئے) کا تدریس کے لیے تقرر عمل میں آیا۔
- ❖ ۲۷ رواں سال: ۱۳۰۹ھ/۹۲-۱۸۹۱ء
- ❖ اس سال طلبہ کی کل تعداد ۲۶۴ تھی اور اکتیس طلبہ فارغ التحصیل ہوئے۔
- ❖ اب تک ستائیس سال کی مدت میں ۲۳۴ عالم اور ۸۱ حافظ تیار ہوئے۔
- ❖ ۲۸ رواں سال: ۱۳۱۰ھ/۹۳-۱۸۹۲ء
- ❖ حضرت حاجی عابد حسین صاحبؒ کی مصروفیات کے باعث مجلس شوریٰ نے حضرت حاجی فضل حق صاحبؒ کو مہتمم مقرر کیا۔
- ❖ استفتاءات کی کثرت کے باعث اسی سال دارالافتاء کا باقاعدہ شعبہ کھلا جس کے ذمہ دار مفتی عزیز الرحمن صاحب عثمانیؒ منتخب ہوئے۔
- ❖ ۲۹ رواں سال: ۱۳۱۱ھ/۹۴-۱۸۹۳ء
- ❖ دارالعلوم کا فیض ہندو بیرون ہند پھیلنے لگا۔
- ❖ سالانہ روداد سے معلوم ہوتا ہے کہ فضلاء دارالعلوم اکثر مدارس اسلامیہ میں تدریس پر مامور ہوئے۔
- ❖ ذوالقعدہ میں حضرت حاجی فضل حق صاحبؒ مستعفی ہوئے۔
- ❖ ذوالحجہ میں حضرت مولانا محمد منیر نانوتویؒ کو مہتمم مقرر کیا گیا۔

۳۰ رواں سال: ۱۳۱۲ھ/۹۵-۱۸۹۴ء

❖ مہتمم مدرسہ حضرت مولانا محمد منیر نانوتویؒ کے برادر محترم حضرت مولانا محمد احسن نانوتویؒ کا انتقال ہوا، بھائی کے انتقال کی وجہ سے وطن میں قیام کی ضرورت کے پیش نظر حضرت مولانا محمد منیر نانوتویؒ نے منصب اہتمام سے استعفاء دے دیا، لیکن تا انتظام ثانی بدستور کام انجام دیتے رہے۔

۳۱ رواں سال: ۱۳۱۳ھ/۹۶-۱۸۹۵ء

❖ حضرت مولانا محمد منیر نانوتویؒ بھی منصب اہتمام سے علیحدہ ہوئے۔
❖ سرپرست دارالعلوم حضرت گنگوہیؒ نے حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحبؒ کو مہتمم منتخب کیا۔ یہ انتخاب دارالعلوم کے لیے بہت ہی مبارک اور مفید ثابت ہوا۔ حضرت حافظ صاحبؒ کے دور میں دارالعلوم نے بے انتہا ترقی کی۔

مآخذ:

- کیفیت مدرسہ عربی دیوبند، بابت ۱۲۸۳ھ ہجری
- تاریخ دارالعلوم دیوبند، جلد اول، ۱۵۷ تا ۲۰۳
- دارالعلوم دیوبند کی صد سالہ زندگی، حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحبؒ

دارالعلوم دیوبند کا دوسرا دور

۱۳۱۳ھ تا ۱۳۲۸ھ مطابق ۱۸۹۵ء-۱۹۳۰ء

چھتیس سال

دورِ اہتمام

(۱) حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحبؒ

جمادی الثانیہ ۱۳۱۳ھ تا ۱۳۲۳ھ / ۱۸۹۵ء تا ۱۹۲۵ء (مہتمم)
۱۳۲۳ھ تا جمادی الاولیٰ ۱۳۳۷ھ / ۱۹۲۵ء تا ۱۹۲۸ء (صدر مہتمم)

(۲) حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب عثمانیؒ

۱۳۲۳ھ تا جمادی الاولیٰ ۱۳۳۷ھ / ۱۹۲۵ء تا ۱۹۲۸ء (مہتمم بہ زمانہ صدر مہتمم)
جمادی الثانیہ ۱۳۳۷ھ تا رجب ۱۳۳۸ھ / ۱۹۲۸ء تا ۱۹۲۹ء (مستقل مہتمم)

یہ دور دارالعلوم کا دور شباب کہلاتا ہے جو حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحبؒ کے دورِ اہتمام سے شروع ہوتا ہے۔ یہ دور تقریباً ۳۶ برسوں پر محیط ہے۔ اس زمانے میں دارالعلوم کے تعلیم و انتظام میں زبردست استحکام آیا، مالی و تعمیری ترقیات ہوئیں، دارالعلوم کے نظام میں وسعت ہوئی اور اسی زمانے میں درحقیقت اس درس گاہ نے مدرسہ سے دارالعلوم کی شکل اختیار کی۔

حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحبؒ کو ان کی لیاقت و تدبیر اور انتظامی صلاحیتوں کی وجہ سے حضرت گنگوہیؒ نے درجہ اہتمام پر فائز فرمایا اور انھوں نے اس منصب پر رہتے ہوئے (۱۳۱۳ھ سے ۱۳۲۳ھ تک بہ طور مہتمم اور ۱۳۲۳ھ سے ۱۳۳۷ھ تک بہ طور صدر مہتمم) چونتیس سال تک دارالعلوم کی خدمت کی۔ ۱۳۲۵ھ میں آپ کی طلب پر حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانیؒ کو معاون و نائب مہتمم مقرر کیا گیا، انھوں نے دارالعلوم کے اہتمام و انتظام میں خوب دل چسپی لی اور نہایت مثالی انداز میں نظم و نسق کا فریضہ انجام دیا۔ ۱۳۲۳ھ میں حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب صدر مہتمم ہو گئے اور بدستور دارالعلوم کے اہم امور انجام دیتے رہے، جب کہ اس دوران حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب مہتمم بنا دیے گئے۔ حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحبؒ کے انتقال کے بعد جمادی الثانیہ

۱۳۲۷ھ میں آپ مستقل مہتمم مقرر ہوئے۔ (تفصیل کے لیے دیکھیں: روداد مدرسہ بابت ۱۳۱۳ھ، ۱۳۲۵ھ، ۱۳۲۳ھ، ۱۳۲۴ھ وغیرہ؛ دارالعلوم دیوبند کی صد سالہ زندگی، ص ۹۶، ۱۰۱؛ دارالعلوم دیوبند کے ۱۱۶ ارسال، ص ۱۲) اس عرصہ میں حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسنؒ کی صدارت تدریس کا بیس سال اور حضرت علامہ انور شاہ کشمیریؒ کی صدارت کا گیارہ سال کا زمانہ گزرا، اور اخیر میں حضرت مولانا حسین احمد مدنیؒ کی صدارت تدریس کا دور شروع ہوا۔ حضرت شیخ الہند اور حضرت علامہ کشمیریؒ کا دور مبارک دارالعلوم کی تاریخ کا عہد زریں تھا جس میں ایسے علماء و رجال کا تیار ہوئے جنہوں نے ہند و بیرون ہند علمی و فکری میدانوں میں دارالعلوم دیوبند کی عظمت و رفعت کا سکہ بٹھا دیا۔

حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب اور حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانیؒ کے اس دور میں دارالعلوم نے ظاہری و باطنی دونوں اعتبار سے خوب ترقی کی۔ مدرسہ عربیہ دیوبند حقیقی معنوں میں دارالعلوم بن گیا۔ تعلیم، نظم و انتظام، شعبہ جات، طلبہ کی تعداد اور عمارات وغیرہ ہر پہلو سے دارالعلوم کی ترقی ہوئی۔ اس عرصہ میں ملک و بیرون ملک کے تقریباً سترہ سو فضلاء تیار ہوئے۔ طلبہ کی تعداد تین سو سے بڑھ کر تقریباً نو سو ہو گئی اور اساتذہ کی تعداد بھی تقریباً تیس ہو گئی۔ دارالعلوم کا سالانہ بجٹ چھ ہزار سے متجاوز ہو کر پانچانوے ہزار سالانہ تک پہنچ گیا۔

اس دور میں دارالعلوم کی مختلف عمارات وجود میں آئیں۔ دارالطلبہ کے علاوہ، گیٹ، دفتر اور مہمان خانہ کے کمرے تعمیر ہوئے۔ دارالحدیث کی پر شکوہ عمارت بھی اسی دور میں تعمیر ہوئی۔ دارالعلوم کی مسجد قدیم، ریلوے اسٹیشن کی مسجد اور کتب خانہ کی عمارتیں بھی اسی زمانے میں تعمیر ہوئیں۔ دار جدید کے وسیع دارالاقامہ کی تعمیر کی ابتدا بھی اسی عہد میں ہوئی۔ اس عرصہ میں شعبہ مطبخ، شعبہ دعوت و تبلیغ، درجہ تکمیل، ماہنامہ القاسم اور ماہنامہ الرشید کا اجراء بھی عمل میں آیا۔

تفصیلی احوال تاریخ دارالعلوم دیوبند جلد اول میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ بہر حال اس دور کے اہم واقعات مختصراً پیش کیے جا رہے ہیں:

۳۲ رواں سال: ۱۳۱۳ھ/۹۶-۱۸۹۵ء

- ❖ حضرت گنگوہیؒ کی دارالعلوم تشریف آوری کے موقع پر نواب محمود علی خان رئیس چھتاری علی گڑھ و دیگر علماء و صلحاء کی دیوبند آمد۔
- ❖ مجلس شوریٰ میں چھ نئے ممبران کا اضافہ ہوا جس میں حضرت مولانا احمد حسن امرہویؒ، حضرت مولانا قاضی محی الدین مراد آبادیؒ، حضرت مولانا عبدالحق پور قاضیؒ وغیرہ حضرات شامل ہیں۔
- ❖ مجلس شوریٰ نے دارالعلوم کے مہتمم اور صدر مدرس کو بھی بہ حیثیت عہدہ مجلس شوریٰ میں شامل کیا۔

۳۳ رواں سال: ۱۳۱۵ھ/۹۸-۱۸۹۷ء

- ❖ اب تک تعلیمی سال محرم سے شروع ہو کر ذوالحجہ پر ختم ہوتا تھا۔ امتحان سالانہ کے سلسلہ میں طے ہوا کہ شعبان میں ہوا کرے گا اور ۲۵ شعبان سے ۳ شوال تک تعطیل رہے گی جب کہ درجات فارسی و قرآن کی تعطیل نہیں ہوگی۔
- ❖ داخل طلبہ کی کل تعداد ۲۳۹ تھی۔

۳۴ رواں سال: ۱۳۱۶ھ/۹۹-۱۸۹۸ء

- ❖ دارالاقامہ کی تعمیر کے لیے اہل حیدرآباد دکن کا سات ہزار کا چندہ۔
- ❖ نواب شاہ جہاں بیگم والی بھوپال کی جانب سے گراں قدر امداد موصول ہوئی۔
- ❖ دارالطلبہ (احاطہ باغ) کی تعمیر اسی سال شروع ہوئی۔
- ❖ باعتبار خواندگی عربی کی ۸ جماعتیں مقرر ہوئیں۔ داخل طلبہ کی تعداد ۲۶۲ تھی۔

۳۵ رواں سال: ۱۳۱۷ھ/۱۹۰۰-۱۸۹۹ء

- ❖ داخل طلبہ کی کل تعداد ۲۴۴ تھی اور درجات عربیہ میں طلبہ کی تعداد ۴۰ تھی۔

۳۶ رواں سال: ۱۳۱۸ھ/۰۱-۱۹۰۰ء

- ❖ دارالطلبہ کی تعمیر مکمل ہوئی۔ دارالطلبہ کے علاوہ، گیٹ، دفتر اور مہمان خانہ کے کمرے کی تعمیرات بھی مکمل ہوئیں۔ اس پوری تعمیر میں بارہ ہزار روپے صرف ہوئے۔
- ❖ مولانا مرتضیٰ حسن چاند پوری کا تقرر ہوا۔

۳۷ رواں سال: ۱۳۱۹ھ/۰۲-۱۹۰۱ء

- ❖ دارالعلوم کے کتب خانہ کا آغاز ۱۲۸۳ھ ہی میں ہو چکا تھا جس میں وقتاً فوقتاً درسیات کے ساتھ شرح اور دیگر علوم و فنون کی کتابوں کا اضافہ ہوتا رہا۔ ۱۳۱۹ھ میں مختلف علوم و فنون کی کتابوں کا معتد بہ ذخیرہ فراہم ہو چکا تھا۔ مولوی عابد حسین صاحب آنریری مجسٹریٹ جون پور نے اپنا پیش قیمت کتب خانہ جو بعض نادر کتابوں پر مشتمل تھا، دارالعلوم کو عنایت کیا۔
- ❖ اسی سال نواب سلطان جہاں بیگم بھوپال نے تین سو روپے سالانہ کا چندہ مقرر کیا۔

۳۸ رواں سال: ۱۳۲۰ھ/۰۳-۱۹۰۲ء

- ❖ حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ اور حضرت مولانا عبدالرحیم رائے پوریؒ کو مجلس شوریٰ کا رکن بنایا گیا۔ یہ حضرات بعد میں دارالعلوم کے سرپرست بھی ہوئے۔

۳۹ رواں سال: ۱۳۲۱ھ/۰۴-۱۹۰۳ء

- ❖ قاضی علیم الدین رئیس شاملی نے اپنی جائیداد دارالعلوم کے لیے وقف کی۔
- ❖ شعبہ تجوید و قرأت کا آغاز ہوا۔ قاری عبدالرحمن مکی کے تلمیذ رشید قاری عبدالوحید خان الہ آبادی کا تقرر ہوا۔
- ❖ اسی سال انگریزی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم حاصل کرنے والوں اور دینی تعلیم کے ساتھ انگریزی پڑھنے والوں کو وظیفہ دینے کی تجویز بھی پاس ہوئی۔

۴۰ رواں سال: ۱۳۲۲ھ/۰۵-۱۹۰۴ء

- ❖ دارالعلوم کے شہرہ کی بنیاد پر صوبہ متحدہ (موجودہ یوپی) کے گورنر سر جیمس ڈگس لپٹوش، مولانا سید احمد شاہی امام جامع مسجد دہلی وغیرہ نے دارالعلوم کا دورہ کیا۔
- ❖ حضرت شیخ الہندؒ کے والد محترم حضرت مولانا ذوالفقار علیؒ کا انتقال ہوا، جو دارالعلوم کے رکن تاسیسی تھے۔

۴۱ رواں سال: ۱۳۲۳ھ/۰۶-۱۹۰۵ء

- ❖ اس سال دارالعلوم کے سرپرست اعلیٰ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ کا سانحہ ارتحال پیش آیا۔
- ❖ متعدد حکام و رؤساء نے دارالعلوم کا دورہ کیا اور تاثرات کا اظہار کیا۔
- ❖ داخل طلبہ کی کل تعداد ۳۲۵ رہی۔

۴۲ رواں سال: ۱۳۲۴ھ/۰۷-۱۹۰۶ء

- ❖ عظیم الشان جلسہ تقسیم انعام منعقد ہوا جس میں قرب و جوار کے علاوہ علی گڑھ، مراد آباد، شاہجہان پور، بریلی، بھوپال اور لاہور وغیرہ سے لوگ شریک ہوئے۔
- ❖ مجلس شوریٰ نے حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانیؒ کو نیابت اہتمام کے لئے نامزد کیا۔ اس عہدہ پر

رہتے ہوئے آپ نے نہایت مثالی انداز میں دارالعلوم کی خدمت کی۔
 ❖ نواب یوسف علی خان رئیس مینڈھونے کتب خانہ کے لیے سات ہزار روپے عنایت کیے اور مسجد
 چھتہ کے قریب کتب خانہ کی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔

۲۳ رواں سال: ۱۳۲۵ھ/۰۸-۱۹۰۷ء

❖ دارالعلوم کے رکن تاسیسی حضرت مولانا فضل الرحمن عثمانی کا انتقال ہوا۔
 ❖ حاجی فصیح الدین میرٹھی کی مالی معاونت سے دارالعلوم کے لیے مسجد کی زمین خریدی گئی۔

۲۴ رواں سال: ۱۳۲۶ھ/۰۹-۱۹۰۸ء

❖ دولت آصفیہ حیدرآباد دکن سے سالانہ چندہ سو روپے سے بڑھا کر ۲۵۰ روپے ہو گیا۔
 ❖ ریاست بھوپال سے بھی چندہ مضاعف ہو کر تین ہزار ہو گیا۔

۲۵ رواں سال: ۱۳۲۷ھ/۰۹-۱۹۰۹ء

❖ راندریکے مخیر تاجر حاجی غلام محمد اعظم نے مسجد کی تعمیر کے لیے انیس ہزار روپے عنایت کیے اور مسجد کا
 سنگ بنیاد رکھ دیا گیا جس کی تکمیل ۱۳۲۸ھ میں ہوئی۔ یہ مسجد اب مسجد قدیم کے نام سے جانی جاتی ہے۔
 ❖ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے اعزازی طور بلا معاوضہ
 تدریس کے لیے اپنی خدمات پیش کیں۔

❖ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی کی تحریک پر دارالعلوم کے اثرات کی اشاعت و ترویج اور مالی امداد
 کے لیے فضلاء دارالعلوم کی جمعیت الانصار قائم کی گئی۔
 ❖ دارالعلوم کے فضلاء کی تعداد ایک ہزار سے متجاوز ہو گئی۔

۲۶ رواں سال: ۱۳۲۸ھ/۱۰-۱۹۱۰ء

❖ ۲۶ سال کے انقطاع کے بعد دستار بندی کا عظیم الشان جلسہ منعقد ہوا۔
 ❖ دارالعلوم میں باقاعدہ مطبخ کا اجراء ہوا۔ ورنہ اب تک اہل شہر حسب مقدرت ایک ایک دو دو
 طالب علموں کے کھانے کی کفالت کرتے تھے یا کچھ طلبہ کو دارالعلوم کی طرف سے خورد و نوش کے
 لیے نقد وظیفہ دیا جاتا تھا۔

❖ آریہ سماج کی جارحانہ سرگرمیوں اور فتنہ ارتداد کے سدباب کے لیے شعبہ دعوت و تبلیغ کا قیام
 عمل میں آیا۔

۴۷ رواں سال: ۱۳۲۹ھ/۱۹۱۱ء

- ❖ جمعیت الانصار نے موتمر الانصار کے نام سے مراد آباد میں عظیم الشان اجلاس منعقد کیا اور ملک میں جا بجا قاسم المعارف کے نام سے شاخیں قائم کیں۔

۴۸ رواں سال: ۱۳۳۰ھ/۱۹۱۲ء

- ❖ دارالحدیث کی عظیم الشان عمارت کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ حضرت شیخ الہند، حضرت تھانوی، حضرت مولانا خلیل احمد سہارن پوری، حضرت مولانا عبدالرحیم راپوری نے سنگ بنیاد رکھا۔
- ❖ مصر کے مشہور عالم علامہ سید رشید رضا ایڈیٹر المنار نے دارالعلوم کا دورہ کیا اور گہرے تاثرات کا اظہار فرمایا۔
- ❖ اسی سال جنگ بلقان میں خلافت عثمانیہ اور انجمن ہلال احمر ترکی کی امداد کے لئے دارالعلوم کے ذریعہ ۶۵ ہزار کا چندہ فراہم کیا گیا۔
- ❖ مولانا اعجاز علی امر دہوی اور مولانا سید اصغر حسین دیوبندی کا تقرر ہوا۔

۴۹ رواں سال: ۱۳۳۱ھ/۱۹۱۳ء

- ❖ ماہنامہ القاسم جسے ابتدا میں حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانی نے ۱۳۲۸ھ/۱۹۱۰ء میں اپنے صرفہ سے جاری کیا تھا، وہ اس سال دارالعلوم سے متعلق کر دیا گیا۔
- ❖ دولت آصفیہ حیدرآباد سے چندہ کی رقم (۲۵۰ روپے) دو گنا کر دی گئی۔
- ❖ حضرت مولانا محمد ابراہیم بلیاوی کا تقرر ہوا۔

۵۰ رواں سال: ۱۳۳۲ھ/۱۲-۱۹۱۳ء

- ❖ شعبہ مطبع کی توسیع عمل میں آئی۔
- ❖ حضرت گنگوہی کی یاد میں ماہنامہ الرشید کا اجراء کیا گیا۔
- ❖ ۱۳۳۰ھ میں جنگ بلقان کے موقع پر دارالعلوم کی طرف سے خلافت عثمانیہ کے مالی تعاون سے متاثر ہو کر سلطان محمد پنجم نے خلافت عثمانیہ کا سب سے بڑا اور متبرک تحفہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جبہ مبارکہ کا غلاف دارالعلوم کو عطا فرمایا جسے دولت عثمانیہ کے سفیر خالد خلیل بک نے ۱۶ ربیع الاول کو دیوبند میں پیش کیا۔
- ❖ نواب سلیم اللہ خان رئیس ڈھا کہ نے دارالحدیث کی تعمیر کے لیے تیرہ ہزار کی رقم پیش کی۔

۵۱ رواں سال: ۱۳۳۳ھ/۱۵-۱۹۱۴ء

- ❖ سرچیمس مسٹن گورنر آف صوبہ متحدہ (یو پی) نے دارالعلوم کا دورہ کیا اور تاثرات کا اظہار کیا۔
- ❖ ریلوے اسٹیشن پر مسجد کی تعمیر ہوئی۔
- ❖ اسی سال حضرت شیخ الہند ریشمی رومال تحریک کے سلسلے میں حجاز تشریف لے گئے۔
- ❖ حضرت مولانا عبدالرحیم رائے پوری دارالعلوم کے سرپرست ہوئے۔

۵۲ رواں سال: ۱۳۳۴ھ/۱۶-۱۹۱۵ء

- ❖ حیدرآباد کا سالانہ عطیہ آٹھ سو ہو گیا جو ۱۳۳۸ھ میں ایک ہزار کر دیا گیا۔
- ❖ داخل طلبہ کی تعداد چار سو سے متجاوز ہو گئی۔
- ❖ اسی وجہ سے اساتذہ، اسٹاف، تعمیرات، کتب خانہ وغیرہ میں بھی کافی توسیع ہوئی۔

۵۳ رواں سال: ۱۳۳۵ھ/۱۷-۱۹۱۶ء

- ❖ دورہ حدیث میں ۹۰ طلبہ شریک ہوئے۔
- ❖ کل طلبہ کی تعداد بھی بڑھ کر ۵۷۷ ہو گئی۔
- ❖ جہاد آزادی کی قیادت کے جرم میں برطانوی حکومت نے حضرت شیخ الہند کو شریف مکہ کے ذریعہ گرفتار کر لیا اور قاہرہ کے راستہ جزیرہ مالٹا میں قید کر دیا جہاں وہ تقریباً سو تین سال زیر حراست رہے۔

۵۴ رواں سال: ۱۳۳۶ھ/۱۸-۱۹۱۷ء

- ❖ تعداد طلبہ: ۶۰۱، تعداد اساتذہ: ۲۳، فضلاء: ۷۳
- ❖ سالانہ آمدنی: ۶۳۰۲۱ اور صرفہ: ۶۴۲۲۷ روپے۔

۵۵ رواں سال: ۱۳۳۷ھ/۱۹-۱۹۱۸ء

- ❖ سرپرست دارالعلوم حضرت مولانا عبدالرحیم رائے پوری کا انتقال ہوا۔
- ❖ دارالعلوم کے قدیم استاذ مولانا غلام رسول ہزاروی کا انتقال ہوا۔

۵۶ رواں سال: ۱۳۳۸ھ/۲۰-۱۹۱۹ء

- ❖ ۲۲ جمادی الثانیہ کو حضرت شیخ الہند نے مع رفقاء کے رہائی پائی۔

- ❖ دارالعلوم میں طلبہ کی تعداد چھ سو سے متجاوز ہو گئی۔
- ❖ اہل خیر حضرات کی خصوصی توجہ اور عطیات سے دارالحدیث کے شمالی، مغربی اور جنوبی اطراف میں وسیع جدید دارالاقامہ کی بنیاد رکھی گئی۔

۵۷ رواں سال: ۱۳۳۹ھ/۲۱-۱۹۲۰ء

- ❖ ۱۸ ربیع الاول کو حضرت شیخ الہندؒ کی وفات کا سانحہ پیش آیا۔
- ❖ فرانس، رنگون اور جنوبی افریقہ کے مسلمانوں کی طرف سے دارالعلوم کو گراں قدر چندہ موصول ہوا۔

۵۸ رواں سال: ۱۳۴۰ھ/۲۲-۱۹۲۱ء

- ❖ دولت آصفیہ حیدرآباد دکن کی عدالت عالیہ کے منصب افتاء کے لئے حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحبؒ کا انتخاب ہوا۔ اس دوران امور اہتمام حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانی صاحبؒ دیکھتے تھے اور اہم امور کے فیصلے حضرت مولانا حافظ احمد صاحب ہی کرتے تھے، اور برابر ضروری معاملات میں تحریر و مشورے کے ذریعے شریک رہتے تھے۔

۵۹ رواں سال: ۱۳۴۱ھ/۲۳-۱۹۲۲ء

- ❖ آریہ سماج کے زبردست فتنہ ارتداد شدھی اور سنگٹھن کی وجہ سے دارالعلوم کی تمام تر توجہ اس منظم تحریک کی طرف مبذول ہو گئی۔ فتنہ کی مدافعت میں دارالعلوم نے بھرپور حصہ لیا، لیکن اصل کام تعلیم میں کوئی نقصان نہیں آیا، البتہ آمدنی کم ہونے کی وجہ سے تعمیرات کا کام متاثر رہا۔ متاثرہ علاقوں میں مکاتب و مدارس قائم کیے گئے۔ دارالعلوم کے اساتذہ و علماء نے میدان عمل میں اتر کر اس فتنہ کی سرکوبی کی اور ہندوستانی مسلمانوں کو اس بڑے فتنے سے نجات دلائی۔

۶۰ رواں سال: ۱۳۴۲ھ/۲۴-۱۹۲۳ء

- ❖ فتنہ ارتداد کے استیصال میں دارالعلوم دیوبند اور جمعیۃ علمائے ہند دہلی کا اتحاد عمل ہوا اور مشترکہ دفتر کھولا گیا۔
- ❖ دارالعلوم کے اہم ممبر مولانا عبدالحق پور قاضیؒ کا انتقال ہوا۔
- ❖ رنگون سے دارالعلوم کے لیے گراں قدر امداد جمع کی گئی۔
- ❖ کتب خانہ میں کتابوں کی تعداد پچاس ہزار تک پہنچ گئی۔
- ❖ کل طلبہ کی تعداد: ۷۹۵، عربی طلبہ: ۵۸۲، سالانہ آمدنی: ۹۴۴۵۹ روپے۔

۶۱ رواں سال: ۱۳۲۳ھ/۲۵-۱۹۲۲ء

- ❖ آمدنی میں کمی رہی، لیکن دارالحدیث اور دارالطلبہ کی تعمیر جاری رہی۔
- ❖ دارالعلوم میں درجہ تکمیل کے افتتاح کا اعلان کیا گیا جس میں فارغ التحصیل طلبہ کو وظائف دے کر علم کلام، فلسفہ، قدیم و جدید، ہیئت، قدیم و جدید اور دیگر قدیم و جدید علوم و فنون کی تعلیم دے کر محافظت اسلام کے لیے تیار کیے جانے کا منصوبہ تھا۔

۶۲ رواں سال: ۱۳۲۴ھ/۲۶-۱۹۲۵ء

- ❖ حضرت حافظ محمد احمد صاحبؒ کی حیدرآباد سے واپسی ہوئی اور آپ کی جگہ حکومت دکن نے حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانی کو منصب افتاء پر فائز کیا۔ لیکن دارالعلوم کی ضروریات کے پیش نظر کچھ دنوں کے بعد مجلس شوریٰ نے انھیں واپس بلا لیا۔
- ❖ حکیم الاسلام حضرت تھانویؒ دارالعلوم کے سرپرست منتخب ہوئے۔
- ❖ اس سال کی روآمدات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب صدر مہتمم مقرر ہوئے اور حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانی مہتمم قرار پائے۔
- ❖ ۱۳۲۱ھ میں حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحبؒ کو نائب مہتمم بنایا گیا تھا، لیکن انتظامی امور سے زیادہ علمی مشاغل کی طرف طبعی رجحان کی وجہ سے اس سے منسلک نہیں ہوئے۔ بالآخر اکابر کے اصرار کی وجہ سے اس سال اس عہدہ کو قبول کیا۔

۶۳ رواں سال: ۱۳۲۵ھ/۲۷-۱۹۲۶ء

- ❖ اہتمام کے اختیارات کو وسعت دینے کے لیے دستور اساسی میں ترمیم ہوئی۔
- ❖ مجلس شوریٰ نے اپنے کاموں میں امداد و اعانت اور تخفیف کار کے پیش نظر مجلس انتظامیہ (مجلس عاملہ) کے نام سے ایک ذیلی مجلس قائم کی۔
- ❖ حضرت مولانا علامہ انور شاہ کشمیریؒ رخصت پر اپنے وطن کشمیر تشریف لے گئے۔

۶۴ رواں سال: ۱۳۲۶ھ/۲۸-۱۹۲۷ء

- ❖ حضرت علامہ انور شاہ کشمیریؒ نے استعفاء دے دیا۔ حضرت کشمیریؒ اور کچھ دیگر علماء ڈابھیل چلے

گئے۔ دارالعلوم میں تعلیمی اسٹرائٹک ہوئی اور بہ مشکل حالات پر قابو پایا گیا۔
 ❖ حضرت علامہ کشمیریؒ کی جگہ حضرت مولانا حسین احمد مدنیؒ بہ طور صدر مدرس و شیخ الحدیث دارالعلوم تشریف لائے۔

۶۵ رواں سال: ۱۳۴۷ھ/۲۹-۱۹۲۸ء

❖ ۳ جمادی الاولیٰ/۱۸ اکتوبر ۱۹۲۸ء کو دارالعلوم کے صدر مہتمم حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحبؒ کا دوران سفر حیدرآباد میں انتقال ہوا اور حیدرآباد کے مخصوص قبرستان نھٹہ صالحین میں مدفون ہوئے۔

❖ حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانی صاحبؒ مستقل مہتمم ہوئے۔

۶۶ رواں سال: ۱۳۴۸ھ/۳۰-۱۹۲۹ء

❖ ۳ رجب/۵ دسمبر ۱۹۲۹ء کو دارالعلوم کے مہتمم حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانیؒ کا روح فرسا سانحہ وفات پیش آیا۔

مآخذ:

- تاریخ دارالعلوم دیوبند، جلد اول، ص ۲۷۸ تا ۲۰۳
- سالانہ روداد دارالعلوم، محفوظ کتب خانہ و محافظ خانہ
- دارالعلوم دیوبند کی صد سالہ زندگی، حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحبؒ

دارالعلوم دیوبند کا تیسرا دور

۱۳۴۸ھ تا ۱۴۰۱ھ / ۱۹۳۰ء تا ۱۹۸۱ء

بلون سال

دور اہتمام

حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحبؒ

۱۳۴۸ھ تا ۱۴۰۱ھ / ۱۹۳۰ء تا ۱۹۸۱ء (کل مدت ۵۲ سال)

دارالعلوم کا تیسرا دور حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیبؒ کے زمانہ اہتمام پر محیط ہے جو نصف صدی سے زائد عرصہ پر پھیلا ہوا ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنیؒ کی صدرات تدریس کا طویل دور اسی زمانے میں گزرا۔ یہ دارالعلوم کا شاندار دور تھا جس میں صرف اس دوران فارغ التحصیل ہونے والے طلبہ کی تعداد ۴۴۸۳ رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت مولانا محمد ابراہیم بلیاویؒ، حضرت مولانا سید فخر الدین احمدؒ، حضرت مولانا فخر الحسن مراد آبادیؒ، حضرت مولانا شریف حسن دیوبندیؒ صدر المدرسین یا شیخ الحدیث ہوئے۔

اس دور میں تعلیمی و انتظامی امور میں استحکام اور وسعت کے ساتھ دارالعلوم کا عالمی سطح پر تعارف ہوا۔ علمائے دیوبند کی کامیاب اور ہمہ جہت دینی، دعوتی، علمی و اصلاحی مساعی و خدمات کی بنیاد پر دارالعلوم کے مکتب فکر کی بنیاد پڑی اور دیوبند پورے عالم اسلام اور خصوصاً برصغیر کے مسلمانوں کا مذہبی مرکز بن گیا۔

دارالعلوم نے اس عرصہ میں نمایاں ترقی حاصل کی اور حقیقی معنوں میں وہ ایک بین الاقوامی ادارہ بن گیا۔ ۱۳۴۸ھ میں جب حضرت قاری صاحبؒ نے اہتمام دارالعلوم کی باگ ڈور سنبھالی تو اس کے انتظامی شعبے آٹھ تھے جن کی تعداد ۱۴۰۰ء تک ۲۳ ہو گئی۔ دارالعلوم کا بجٹ بھی اسی طرح پچاس ہزار سے بڑھ کر ۲۶ لاکھ تک پہنچ گیا۔ دارالعلوم کے عملے کی تعداد بھی ۴۵ سے ترقی کر کے دو سو سے زیادہ ہو گئی اور اساتذہ کی تعداد اٹھارہ سے بڑھ کر ساٹھ ہو گئی۔ اسی طرح طلبہ کی تعداد بھی ۸۴۰ سے ترقی کرتے ہوئے دو ہزار سے زائد ہو گئی۔

اسی طرح دارالعلوم کی ظاہری ترقی میں بھی واضح ترقی ہوئی اور عمارتوں میں کافی اضافہ ہوا۔ دار جدید، دار النفسیر، دار الافتاء، دار القرآن، فوقانی دار الحدیث، باب الظاہر، جامعہ طیبیہ، مہمان خانہ، کتب خانہ، دار الاقامہ افریقی منزل وغیرہ عمارات اسی زمانے میں وجود میں آئیں۔

دوسری طرف حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نے برصغیر سمیت، ایشیا، امریکہ، یورپ اور افریقہ کے کونے کونے اور دیہاتوں کا اتنا سفر کیا کہ کم مشاہیر ہند کو اتنے اسفار کا موقع ملا ہوگا۔ انہوں نے اپنے اسفار، ملاقاتوں اور دوروں سے دارالعلوم کے کام، مقام اور نام کو دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچایا اور دنیا بھر میں کروڑوں افراد تک اسلام کا پیغام پہنچایا اور دارالعلوم کا تعارف کرایا۔

اس دور کے اخیر میں دارالعلوم کا تاریخ ساز اور عہد آفریں صد سالہ اجلاس عام ہوا جس میں ایک اندازے کے مطابق پندرہ سے بیس لاکھ مسلمانوں نے شرکت کی اور ایشیا، افریقہ اور امریکہ و یورپ کے آٹھ ہزار سے زائد سرکاری نمائندے، وفود اور مندوبین شریک ہوئے۔ (اجلاس صد سالہ کی تفصیلات مستقل عنوان کے تحت آئندہ ملاحظہ فرمائیں۔)

اس دور کے تفصیلی احوال (۱۳۹۶ھ تک) تاریخ دارالعلوم دیوبند جلد اول میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ تاہم، اس دور کی کچھ اہم جھلکیاں پیش کی جا رہی ہیں:

۶۶ رواں سال: ۱۳۲۸ھ/۳۰-۱۹۲۹ء

❖ حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانی کے انتقال کے بعد حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب کو قائم مقام مہتمم بنایا گیا اور پھر مجلس شوری نے آپ کو مہتمم کا عہدہ سونپ دیا۔

۶۷ رواں سال: ۱۳۲۹ھ/۳۱-۱۹۳۰ء

❖ دارالعلوم کی مسجد (قدیم) کی توسیع عمل میں آئی۔
❖ دارالحدیث کی پرشکوہ مرکزی عمارت جو عرصہ سے زیر تعمیر تھی اسی سال مکمل ہوئی۔

۶۸ رواں سال: ۱۳۵۰ھ/۳۲-۱۹۳۱ء

❖ طلبہ کے اندر تفسیری لیاقت پیدا کرنے کے لئے دورہ حدیث کی طرح دورہ تفسیر کا اجراء کیا گیا۔
❖ اسی طرح تجوید کی مشق و تعلیم جو اختیاری تھی اس سال اس کو لازمی کر دیا گیا اور یہ ضابطہ بنا دیا گیا کہ جب تک طالب علم کم از کم پارہ عم کی مشق نہ کر لے سند فراغت نہیں دی جائے گی۔

۶۹ رواں سال: ۱۳۵۱ھ/۳۳-۱۹۳۲ء

❖ مجلس شوری کے مقرر رکن حضرت مولانا حکیم مسعود احمد گنگوہی کا انتقال ہوا۔
❖ دارالطلبہ میں مزید کمروں کا اضافہ ہوا اور مسجد کے بالائی حصہ کی تعمیر ہوئی۔
❖ طلبہ کی کل تعداد: ۱۰۹۰، تعداد طلبہ عربی: ۸۲۸

۷۰ رواں سال: ۱۳۵۲ھ/۳۲-۱۹۳۳ء

- ❖ درس حدیث کے لئے دارالحدیث فوقانی کے نام سے ایک ہال کی تعمیر کی ابتدا ہوئی جس میں حضرت مدنیؒ نے تا عمر درس حدیث دیا۔
- ❖ داخلہ کے قواعد میں اصلاح اور آسانی پیدا کی گئی۔
- ❖ نیز مطبخ میں تقسیم طعام کو کھانے کے ٹکٹ کا اجراء کر کے مزید منظم کیا گیا۔
- ❖ اسی سال خاتم الحدیث حضرت علامہ انور شاہ کشمیریؒ کا سانحہ وفات پیش آیا۔

۷۱ رواں سال: ۱۳۵۳ھ/۳۵-۱۹۳۴ء

- ❖ سرزمین بیت اللہ مکہ مکرمہ سے دارالعلوم کے لیے حضرت شاہ نیاز احمدؒ (خلیفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکیؒ) نے چھ ہزار کا عطیہ دیا۔
- ❖ مجلس شوریٰ نے سبکدوش ہونے والے ملازمین کو پنشن دینے کا فیصلہ کیا۔

۷۲ رواں سال: ۱۳۵۴ھ/۳۶-۱۹۳۵ء

- ❖ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحبؒ (جو اس وقت مدرسہ تعلیم الدین ڈابھیل گجرات میں مقیم تھے) جلالت علمی کی بنیاد پر صدر مہتمم منتخب ہوئے اور اس عہدہ پر ۱۳۶۲ھ تک قائم رہے۔
- ❖ سرپرست دارالعلوم کے آئینی مرتبہ کے تعین میں مجلس شوریٰ کے اندر اختلاف کی وجہ سے حضرت تھانویؒ نے مصلحتاً سرپرستی سے استعفا دے دیا۔

۷۳ رواں سال: ۱۳۵۵ھ/۳۷-۱۹۳۶ء

- ❖ تین نئے شعبہ جات کا افتتاح ہوا: آمد و خرچ کے باضابطہ نظام کی ترتیب کے لئے شعبہ تنظیم و ترقی، محفوظات کے ریکارڈ کے لئے شعبہ محافظ خانہ، اور طلبہ کی صحت و قوت کے خیال سے شعبہ ورزش قائم کیا گیا۔ شعبہ ورزش ۱۳۶۷ھ تک قائم رہا۔
- ❖ جامعہ ازہر مصر کے مخصوص اساتذہ کا وفد دارالعلوم آیا اور جامعہ ازہر اور دارالعلوم کے درمیان ارتباط باہمی پر زور دیا گیا۔

۷۴ رواں سال: ۱۳۵۶ھ/۳۸-۱۹۳۷ء

- ❖ دارجدید کے باقی ماندہ کمروں کی تکمیل کے علاوہ متعدد عمارتیں جیسے درجہ فارسی کی درس گاہ، محافظ

خانہ کی دو منزلہ عمارت وغیرہ تعمیر ہوئیں۔

۵۷/۱۳۵۷ھ تا ۳۹-۱۹۳۸ء

- ❖ وزیر اوقاف و انہار حکومت صوبہ اودھ و آگرہ حافظ محمد ابراہیم نے دارالعلوم کا دورہ کیا۔
- ❖ طلبہ کی کل تعداد: ۱۲۹۳، تعداد طلبہ عربی: ۱۱۹۸

۶۷/۱۳۵۸ھ تا ۴۰-۱۹۳۹ء

- ❖ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی (جو ۱۳۳۳ھ میں حضرت شیخ الہند کے حکم سے تحریک ریشمی رومال کے سلسلے میں افغانستان گئے تھے) ہندوستان سے ۲۵ سال کی طویل مفارقت اور جلاوطنی کے بعد دیوبند تشریف لائے۔

- ❖ سلطان بن سعود کی حکومت حجاز کی جانب سے طبع شدہ تمام کتابیں دارالعلوم کو اس کی وسیع علمی خدمات کی بنیاد پر عنایت کی گئیں۔

- ❖ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب کا دورہ افغانستان ہوا۔ صدر افغانستان کی جانب سے ۵۰ ہزار روپے کی خطیر رقم دارالعلوم کو عطا ہوئی۔

- ❖ اسی سال دارالحدیث کی بالائی منزل پر دارالانفسیر کے نام سے ایک درس گاہ تعمیر کی گئی اور اس کے اوپر ایک پرشکوہ اور نہایت خوبصورت گنبد بنایا گیا جو آج دارالعلوم کی علامت کے طور پر جانا جاتا ہے۔

۷۷/۱۳۵۹ھ تا ۴۱-۱۹۴۰ء

- ❖ افغانستان کے عطیہ سے دارالحدیث کے بالمقابل صدر دروازہ کی تعمیر ہوئی اور اس کا نام بادشاہ افغانستان کے نام پر باب الظاہر رکھا گیا تاکہ دارالعلوم اور افغانستان کے مخلصانہ تعلق کی ایک یادگار قائم ہو جائے۔ اس عظیم الشان گیٹ سے دارالعلوم کی شان و شوکت مزید دو بالا ہو گئی۔

- ❖ حضرت مہتمم صاحب کا مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا اہم دورہ ہوا۔

۸۷/۱۳۶۰ھ تا ۴۱-۱۹۴۱ء

- ❖ عالمی جنگ کے تسلسل سے عالمی معاشی حالات خراب ہونے کے باوجود دارالاقامہ کی تعمیر کی تکمیل ہوئی۔

- ❖ ۱۳۲۸ھ میں ماہنامہ القاسم جاری ہوا اور گیارہ سال جاری رہنے کے بعد تقریباً بیس سال تک بند رہا۔ اس سال اس سلسلے کو ماہنامہ رسالہ دارالعلوم کے نام سے دوبارہ شروع کیا گیا۔

۷۹ رواں سال: ۱۳۶۱ھ/۱۹۴۲ء

- ❖ ایک انگریز مخالف سیاسی تقریر کی پاداش میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی کی گرفتاری ہوئی اور مراد آباد میں مقدمہ کا فیصلہ ہوا اور ۱۸ ماہ کی قید کی سزا ہوئی۔
- ❖ حضرت مدنی کی گرفتاری اور ملک کے سیاسی حالات کی وجہ سے امتحان سالانہ ملتوی ہو گیا اور تعطیل عام کر دی گئی۔
- ❖ اس سال چینی اسلامی قومی سالویشن فرنٹ کے نمائندہ عثمان وونے دارالعلوم کا دورہ کیا اور اچھے تاثرات کا اظہار کیا۔

۸۰ رواں سال: ۱۳۶۲ھ/۱۹۴۳ء

- ❖ ۱۹۴۲ء کے ملک کے ابتر سیاسی حالات کا اثر دارالعلوم پر پڑا اور طلبہ کی عام تعداد میں کمی رہی۔
- ❖ صدر مہتمم حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی اور کچھ اساتذہ سیاسی اختلافات کی بنیاد پر دارالعلوم سے مستعفی ہو گئے۔ بعد میں کچھ اساتذہ واپس آ گئے۔
- ❖ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کا انتقال ہوا۔

۸۱ رواں سال: ۱۳۶۳ھ/۱۹۴۴ء

- ❖ حضرت مدنی کی اسارت غیر مشروط طور پر ختم کر دی گئی اور آپ کی رہائی عمل میں آئی۔

۸۲ رواں سال: ۱۳۶۴ھ/۱۹۴۵ء

- ❖ شعبہ خوش خطی کا قیام عمل میں آیا۔

۸۳ رواں سال: ۱۳۶۵ھ/۱۹۴۶ء

- ❖ صنعتی تعلیم کے فروغ کے لئے دارالصنائع کا شعبہ جاری ہوا۔

۸۴ رواں سال: ۱۳۶۶ھ/۱۹۴۶-۴۷ء

- ❖ دارالعلوم دیوبند سے بہار اور گڈھ مکتیشور (یوپی) کے فساد زدہ مسلمانوں کی غم خواری اور امداد کے لئے وفد بھیجے گئے۔
- ❖ دارالعلوم میں ملازمین کے پروڈنٹ فنڈ کا سلسلہ شروع ہوا۔
- ❖ اسی سال رمضان (۱۵ اگست ۱۹۴۷ء) میں ملک کو آزادی ملی۔

۸۵ رواں سال: ۱۳۶۷ھ/۲۸-۱۹۴۷ء

- ❖ مسجد دارالعلوم کی مشرقی جانب کی عمارت کی بالائی منزل پر دارالافتاء کی جدید عمارت تیار کرائی گئی جس کا افتتاح ۱۹ ربیع الاول کو ہوا۔
- ❖ دارالعلوم کی تبلیغی کوششوں کی وجہ سے دہرہ دون کے نواحی علاقہ میں ارتداد کے فتنے کا استیصال کیا گیا۔

۸۶ رواں سال: ۱۳۶۸ھ/۲۹-۱۹۴۸ء

- ❖ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کورٹ کے لیے حضرت مہتمم اور دیگر علمائے دیوبند کا انتخاب عمل میں آیا۔
- ❖ اسی سال حکومت کی جانب سے دارالعلوم میں تلاشی مہم کا افسوسناک سانحہ پیش آیا اور مطبوعہ احکام و مسائل کی ضبطی سے مسلمانوں میں حکومت کے تئیں بددلی اور بد اعتمادی پیدا ہوئی۔

۸۷ رواں سال: ۱۳۶۹ھ/۵۰-۱۹۴۹ء

- ❖ تقسیم ہند کی وجہ سے پاکستانی طلبہ کے داخلہ میں آنے والی رکاوٹوں کا ازالہ کیا گیا۔
- ❖ پاکستانی طلبہ کو ایک سال کا پرمٹ ملنے لگا، مگر دفتری ضوابط کی وجہ سے یہ سلسلہ زیادہ عرصہ تک چل نہیں سکا۔
- ❖ حکومت ہند کی وزارت خارجہ اور آل انڈیا ریڈیو کی طرف سے بیرون ہند بالخصوص مشرق وسطیٰ میں دارالعلوم کا تعارف کرایا گیا۔
- ❖ سفیر افغانستان سردار نجیب اللہ خان (جو بعد میں افغانستان کے حکمراں ہوئے) نے دارالعلوم کا دورہ کیا۔
- ❖ حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کا پاکستان میں انتقال ہوا۔

۸۸ رواں سال: ۱۳۷۰ھ/۵۱-۱۹۵۰ء

- ❖ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد وزیر تعلیم حکومت ہند دارالعلوم تشریف لائے اور دارالعلوم میں جلسہ استقبال ہوا۔

۸۹ رواں سال: ۱۳۷۱ھ/۵۲-۱۹۵۱ء

- ❖ بھومی دان تحریک کے بانی اچاریہ ونوبا بھاوے دیوبند آئے۔ دارالعلوم کی زیارت کی اور اچھے تاثرات کا اظہار کیا۔
- ❖ پہلی جنگ عظیم اور پھر تقسیم ملک کی وجہ سے دارالعلوم کی آمدنی اور طلبہ کی تعداد پر اثر پڑا۔

❖ اسی سال دیوبند کے قرب و جوار کے کاشتکار مسلمانوں سے غلہ کی فراہمی کا سلسلہ شروع ہوا جو تاحال جاری ہے۔

❖ ۹۰ رواں سال: ۱۳۷۲ھ/۵۳-۱۹۵۲ء

❖ شعبہ طب کو توسیع دی گئی اور دارالشفاء (ہسپتال) کا قیام عمل میں آیا جس میں اُس وقت کل سات معالجین کے علاوہ چھ کارکن مقرر ہوئے۔

❖ دار جدید کے وسیع دارالاقامہ اور پارکوں میں پانی کی بہم رسانی کے لیے ٹیوب ویل لگایا گیا۔

❖ ۹۱ رواں سال: ۱۳۷۳ھ/۵۴-۱۹۵۳ء

❖ جلالتہ الملک شاہ سعود نے اپنے ہندوستان کے دورہ پر دارالعلوم کو پچیس ہزار کا عطیہ عنایت فرمایا۔

❖ موتمن اسلامی کے جنرل سکریٹری انور السادات دارالعلوم تشریف لائے جو بعد میں مصر کے صدر بھی ہوئے۔

❖ ۹۲ رواں سال: ۱۳۷۴ھ/۵۵-۱۹۵۴ء

❖ چند اراکین شوری (حضرت حکیم محمد اسحاق صاحب، حضرت مولانا عبدالحق مدنی صاحب، شیخ ضیاء الحق صاحب اور مولانا بشیر احمد صاحب کٹھور رحمہم اللہ) کا انتقال ہوا۔

❖ دارالعلوم کے مفتی اعظم شیخ الادب والفقہ حضرت مولانا اعزاز علی امر و ہویٰ کا سانحہ ارتحال پیش آیا۔

❖ وزیر صحت برما سٹر عبداللطیف، کرنل انور السادات وزیر حکومت مصر و جنرل سکریٹری موتمن اسلامی اور وسط ایشیا و روس سے کچھ اہم مہمانوں کی آمد۔

❖ ۹۳ رواں سال: ۱۳۷۵ھ/۵۶-۱۹۵۵ء

❖ موتمن اسلامی اور جامع ازہر سے دارالعلوم کے علمی روابط بڑھے اور عربی انشاء و ادب کے دو اساتذہ (شیخ عبدالمعتم انمر و شیخ عبدالعال العقباوی) مبعوث ہو کر دارالعلوم تشریف لائے۔

❖ مسجد دارالعلوم میں توسیع ہوئی۔

❖ اسی سال فتاویٰ دارالعلوم کی ترتیب کی ذمہ داری مفتی ظفر الدین مفتاحی کو سپرد کی گئی۔

❖ ۹۴ رواں سال: ۱۳۷۶ھ/۵۷-۱۹۵۶ء

❖ ۱۴ ذی الحجہ کو صدر جمہوریہ ہند ڈاکٹر راجندر پرشاد دارالعلوم تشریف لائے اور عمدہ تاثرات کا اظہار فرمایا۔

❖ حضرت مہتمم صاحب کا سفر برما پیش آیا اور دارالعلوم کے حلقہ اثر میں غیر معمولی توسیع ہوئی۔

۹۵ رواں سال: ۱۳۷۷ھ/۵۸-۱۹۵۷ء

- ❖ ۱۲ جمادی الاولیٰ/۵ دسمبر ۱۹۵۷ء کو شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے انتقال پر ملال کا سانحہ پیش آیا۔
- ❖ حضرت مولانا محمد ابراہیم بلیاویؒ کو دارالعلوم کا صدر المدرسین بنایا گیا اور حضرت مولانا فخر الدین احمد صاحبؒ کو شیخ الحدیث مقرر کیا گیا۔
- ❖ اسی سال ۵ شعبان/۲۵ فروری ۱۹۵۸ء کو شاہ افغانستان ظاہر شاہ نے دارالعلوم کا دورہ فرمایا اور دارالعلوم نے ان کا شاندار استقبال کیا۔

۹۶ رواں سال: ۱۳۷۸ھ/۵۹-۱۹۵۸ء

- ❖ فضلاء دارالعلوم کو منظم کرنے اور عظیم الشان جلسہ دستار بندی کے لیے تنظیم فضلاء دارالعلوم قائم کی گئی۔

۹۷ رواں سال: ۱۳۷۹ھ/۶۰-۱۹۵۹ء

- ❖ حضرت قاری صاحبؒ نے ری یونین (فرانسیسی مقبوضہ)، مشرقی افریقہ اور مصر کا سفر فرمایا۔ اس سفر سے دارالعلوم کی شہرت و مقبولیت میں اضافہ ہوا اور مادی فائدہ بھی پہنچا۔
- ❖ مشہور عالمی اشاعتی ادارہ دائرۃ المعارف حیدرآباد کے سالانہ جشن میں دارالعلوم کی نمائندگی ہوئی۔
- ❖ صدر مصر جمال عبدالناصر کی ہندوستان آمد کے موقع پر دارالعلوم میں تعطیل کی وجہ سے ان کو دیوبند نہیں بلایا جاسکا، لیکن دہلی میں ان کو علمی ہدایا پیش کیے گئے۔

۹۸ رواں سال: ۱۳۸۰ھ/۶۱-۱۹۶۰ء

- ❖ جامعہ طبیبہ کا قیام عمل میں آیا جس کا چار سالہ طبی کورس حکومت کا منظور شدہ تھا اور فارغین کو مجاز مطب قرار دیا جاتا تھا۔ (بعد میں قانونی مجبوریوں کی وجہ سے اسے دارالعلوم سے ختم کر دیا گیا۔)
- ❖ لندن یونیورسٹی کے شعبہ تعلیم اسلامیات کے لیکچرار ڈاکٹر پی ہارڈی نے دارالعلوم کا دورہ کیا۔

۹۹ رواں سال: ۱۳۸۱ھ/۶۲-۱۹۶۱ء

- ❖ مرکزی حکومت کے وزیر ثقافت و سائنسی تحقیقات پروفیسر ہمایوں کبیر نے دارالعلوم کا دورہ کیا۔
- ❖ حکومت مصر کی طرف سے دارالعلوم کو قرآن مجید کی قرأت کی ریکارڈنگ کا تحفہ پیش کیا گیا۔

۱۰۰واں سال: ۱۳۸۲ھ/۶۳-۱۹۶۲ء

- ❖ دارالعلوم نے سو سال کا سفر پورا کیا۔ سو سال کی مدت میں مدرسہ اسلامی عربی دیوبند ایک عظیم الشان بین الاقوامی تعلیمی و تربیتی مرکز میں تبدیل ہو گیا۔ ۱۳۸۳ھ میں طلبہ کی تعداد ۷۸، اساتذہ کی تعداد ۶ اور سالانہ آمدنی ۶۴۹ روپے تھی، جب کہ اس سال طلبہ کی تعداد ۱۳۸۵، اساتذہ کی تعداد ۴۹، سالانہ آمدنی تقریباً سات لاکھ اور عملہ کی تعداد دو سو ہو گئی۔
- ❖ کتب خانہ کی ایک لاکھ سے زیادہ کتابوں کی ترتیب نو اور فہرست سازی کا کام انجام دیا گیا۔
- ❖ جامعہ حلب شام کے استاذ اور مشہور عالم شیخ عبدالفتاح ابو غدہ نے دارالعلوم کی زیارت کی اور یہاں کے اکابرین سے عقیدت و محبت کا اظہار کیا۔

۱۰۱واں سال: ۱۳۸۳ھ/۶۴-۱۹۶۳ء

- ❖ حضرت مہتمم صاحب کا جنوبی افریقہ کا دورہ ہوا اور دارالعلوم کا وسیع پیمانہ پر تعارف ہوا۔
- ❖ عالمی مؤتمر اسلامی قاہرہ کی کانفرنس میں حضرت مہتمم نے نمائندگی کی جس میں ہندو پاک کے سارے نمائندے دیوبند کے فیض یافتہ تھے۔
- ❖ واپسی میں حضرت مہتمم صاحب نے حج کے بعد مدینہ کی جامعہ اسلامیہ (مدینہ یونیورسٹی) میں اساتذہ و طلبہ کے استقبالیہ جلسہ کو خطاب کیا۔
- ❖ ۱۹۶۳ء میں دہلی میں مستشرقین کی بین الاقوامی کانفرنس کے ۲۶ ویں اجلاس میں دارالعلوم کے منتخب مخطوطات کی نمائش کی گئی۔

۱۰۲واں سال: ۱۳۸۴ھ/۶۵-۱۹۶۴ء

- ❖ عالم عرب میں دارالعلوم کے تعارف کے لیے سہ ماہی عربی مجلہ دعوت الحق کا اجراء کیا گیا۔
- ❖ دارالعلوم کو غلہ کی فراہمی میں حکومت اتر پردیش نے تعاون پیش کیا اور ۲۳ مارچ ۱۹۶۵ء کو اتر پردیش کے گورنر شو ناتھ داس کی دارالعلوم آمد ہوئی۔

۱۰۳واں سال: ۱۳۸۵ھ/۶۶-۱۹۶۵ء

- ❖ مرکزی حکومت کے کتابچہ ہندوستانی مسلمانوں کے تعلیمی ادارے میں دارالعلوم دیوبند کا واقع الفاظ میں تعارف لکھا گیا۔

۱۰۴ ارواں سال: ۱۳۸۶ھ/۶۷-۱۹۶۶ء

❖ کتب خانہ کی عمارت کی توسیع ہوئی اور عربی کتب کے جدید ہال کے ساتھ علمائے دیوبند کی تصانیف کا خاص کمرہ بنایا گیا۔

۱۰۵ ارواں سال: ۱۳۸۷ھ/۶۸-۱۹۶۷ء

❖ بیت المقدس پر اسرائیل کے غاصبانہ قبضہ کے موقع پر ملک میں اپیل کی گئی اور ایک خطیر رقم فراہم کر کے فلسطین و مصر اور شام و اردن کے مظلوم عربوں کو ارسال کی گئی۔

❖ مسجد اقصیٰ کی المناک آتش زنی پر دارالعلوم نے اسرائیل کی مذمتی قرارداد حکومت اردن کو ارسال کی اور حکومت اردن نے اس کا شکریہ ادا کیا۔

❖ اسی سال علامہ محمد ابراہیم بلیاویؒ صدر المدرسین دارالعلوم اور مولانا حمید الدین فیض آبادی رکن مجلس شوریٰ کا سانحہ وفات پیش آیا۔

❖ حضرت مولانا فخر الدین احمدؒ کو صدر المدرسین کا منصب بھی سونپ دیا گیا۔

۱۰۶ ارواں سال: ۱۳۸۸ھ/۶۹-۱۹۶۸ء

❖ دارالعلوم کے متعدد اکابر و اساتذہ (حضرت مولانا سید مبارک علیؒ نائب مہتمم، صدر القراء مولانا قاری حفظ الرحمنؒ وغیرہ) کا انتقال ہوا۔

۱۰۷ ارواں سال: ۱۳۸۹ھ/۷۰-۱۹۶۹ء

❖ دارالعلوم میں طلبہ کی اب تک کی سب سے بڑی اسٹرانگ ہوئی اور تخریب کار طلبہ کا اخراج ہوا۔

❖ مغربی ممالک کے متعدد ریسرچ اسکالرز نے دارالعلوم کے کتب خانہ سے استفادہ کیا۔ کیلی

فورنیا امریکہ سے مسز باربرا مکاف بھی اسی سلسلہ میں دیوبند آئیں اور انھوں نے دارالعلوم کی تاریخ پر انگریزی میں جامع اور قابل قدر مواد اکٹھا کیا، جو کتابی شکل میں بھی شائع ہو چکا ہے۔

ان کی کتاب کا عنوان ہے: 'دیوبند: اسلامک ریوایٹول ان برٹش انڈیا' یعنی دیوبند: برطانوی ہند میں اسلام کا احیاء۔

❖ اسی سال متعدد عرب ممالک مراکش، الجزائر، اردن وغیرہ کے عرب مہمان بھی تشریف لائے اور بہت متاثر ہوئے۔

❖ مسجد چھتہ کی توسیع ہوئی۔

۱۰۸/۱۳۹۰ھ/۷۱-۱۹۷۰ء

❖ دارالعلوم کے نصاب تعلیم میں تبدیلیاں کی گئیں اور نصاب تعلیم میں درجہ بندی کا سلسلہ شروع کیا گیا۔

۱۰۹/۱۳۹۱ھ/۷۲-۱۹۷۱ء

❖ جامعہ طبیبہ کی ناقص عمارتوں کی تکمیل، افریقی منزل جدید کی تعمیر وغیرہ۔

❖ حضرت مہتمم کا برطانیہ، فرانس اور مغربی جرمنی کا سفر اور تقاریر و بیانات۔

۱۱۰/۱۳۹۲ھ/۷۳-۱۹۷۲ء

❖ ہندوستانی مسلمانوں کے دینی تشخص کی بقاء و استحکام کے لیے حضرت مہتمم صاحب اور حضرت

مولانا منت اللہ رحمانی و غیرہ کی مساعی سے مسلم پرسنل لاء بورڈ کی تشکیل ہوئی۔

❖ صدر المدرسین اور شیخ الحدیث حضرت مولانا فخر الدین احمد کا انتقال ہوا۔

❖ حضرت مولانا سید فخر الحسن مراد آبادی کو صدر مدرس بنایا گیا اور حضرت مولانا شریف حسن صاحب

شیخ الحدیث کے منصب پر فائز ہوئے۔

❖ مصری ثقافتی وفد اور ٹوکیو یونیورسٹی کے اساتذہ نے دارالعلوم کا دورہ کیا۔

۱۱۱/۱۳۹۳ھ/۷۴-۱۹۷۳ء

❖ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے وفد نے دارالعلوم کا دورہ کیا۔

❖ وزارت معارف سعودی عرب کے ڈائریکٹر اور ادارہ مباحث علمیہ کے نمائندوں نے دارالعلوم

کا دورہ کیا۔

❖ اتر پردیش کے گورنر اکبر علی خان کی دارالعلوم آمد۔

۱۱۲/۱۳۹۴ھ/۷۴-۱۹۷۴ء

❖ مسلم پرسنل لاء اور قوانین شریعت کے تحفظ و بقا کے لیے عملی طور پر دارالعلوم میں محکمہ قضا کا قیام

عمل میں آیا۔

❖ عراق اور حلب (شام) کے کچھ علماء کا دارالعلوم کا دورہ۔

- ❖ آل انڈیا ریڈیو نے انیسویں بیسویں صدی کے علماء کی دینی و علمی، سماجی و ثقافتی اور سیاسی خدمات کی نشر و اشاعت کا سلسلہ شروع کیا، چنانچہ حضرت نانوتویؒ، حضرت شیخ الہندؒ، حضرت علامہ کشمیریؒ، حضرت مدنیؒ، حضرت تھانویؒ اور حضرت مولانا سندھیؒ کے متعلق تقاریر حضرت مہتمم صاحب اور دیگر اہم علم نے ریکارڈ کرائیں جو ریڈیو سے نشر ہوئیں۔
- ❖ کوٹھاری تعلیمی کمیشن کی تجاویز سے مسلمانوں کے تعلیمی نظام پر منفی اثرات مرتب ہونے کے خدشے کے پیش نظر وزیر اعظم ہند اندرا گاندھی کو مکتوب لکھا گیا جس کے جواب میں حکومت کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی کہ حکومت ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائے گی جس سے آئین کی دفعہ ۳۰ کے تحت اقلیتوں کو حاصل تعلیمی حقوق کو نقصان پہنچے۔
- ❖ دارالعلوم نے پاکستان اسمبلی کی جانب سے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیے جانے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا اور دیگر اسلامی ممالک سے مطالبہ کیا کہ وہ اس فیصلے کی تائید کا اعلان کریں۔

۱۱۳ رواں سال: ۱۳۹۵ھ/۱۹۷۵ء

- ❖ حضرت مہتمم صاحبؒ کا سفر ری یونین (افریقہ)، رابطہ عالم اسلامی کے اجلاس میں شرکت۔ فرانس اور انگلینڈ کا دورہ۔
- ❖ شیخ الازہر ڈاکٹر عبدالحلیم محمود، وکیل الازہر شیخ عبدالرحمن بیطار، مفتی اعظم مصر شیخ محمد خاطر اور سابق شیخ الازہر شیخ محمد الفحام نے دارالعلوم کا دورہ کیا۔
- ❖ وزیر حکومت کویت یوسف السید ہاشم رفاعی، مدیر ماہنامہ البلاغ کویت استاذ عبدالرحمن اور قطر کے شیخ عبدالمعز عبدالستار کے ساتھ تاشقند کے نمائندے شرف الدین محدوف وغیرہ پر مشتمل ایک وفد کا بھی دورہ ہوا۔
- ❖ ۱۶ شوال/۲۲ اکتوبر ۱۹۷۵ء کو حضرت مولانا محمد میاں دیوبندیؒ رکن مجلس شوریٰ کا انتقال ہوا۔
- ❖ ہائی کمشنر ملیشیا برائے ہندوستان سری حاجی عبدالحامد نے دارالعلوم کا دورہ کیا۔

۱۱۴ رواں سال: ۱۳۹۶ھ/۱۹۷۶ء

- ❖ ۲۳ اپریل ۱۹۷۶ء کو صدر جمہوریہ ہند جناب فخر الدین علی احمد کی دارالعلوم تشریف آوری ہوئی اور ان کے اعزاز میں شاندار خیر مقدمی اجلاس منعقد ہوا۔
- ❖ فتحی عبدالحمید تنظیم آزادی فلسطین جاپان نے دارالعلوم کا دورہ کیا۔
- ❖ ۱۹۷۶ء میں یہودیوں کی جانب مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی اور فلسطینیوں پر اسرائیلی جارحیت کے

خلاف عالم اسلام میں بے چینی پھیل گئی، اس موقع پر دارالعلوم نے بھی احتجاجی جلسہ منعقد کیا گیا اور رابطہ عالم اسلامی اور عالم عربی کی کوششوں کی حمایت کی گئی۔

۱۱۵/رواں سال: ۱۳۹۷ھ/۱۹۷۷ء

❖ شیخ الحدیث حضرت مولانا شریف حسن دیوبندیؒ کا انتقال ہوا۔ حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب شیخ الحدیث مقرر ہوئے۔

❖ ناظم تعلیمات دارالعلوم، حضرت مولانا سید اختر حسین صاحب کا انتقال ہوا۔

❖ کشمیر کے محکمہ اوقاف اسلامیہ کے زیر اہتمام سری نگر میں ۲۱-۱۹ اکتوبر ۱۹۷۷ء کو نابغہ وقت حضرت علامہ انور شاہ کشمیریؒ کی حیات و خدمات کے موضوع پر سیمینار منعقد کیا گیا جس میں اکابرین دارالعلوم کے علاوہ ہندوستان کے ممتاز علماء و فضلاء اور دانشوران نے شرکت کی۔

❖ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں فکر اسلامی کی تشکیل جدید کے موضوع پر سیمینار منعقد کیا گیا جس کی حضرت مہتمم صاحب صدارت کی اور اس میں متعدد اساتذہ دارالعلوم نے قیمتی مقالات پیش کیے۔ اسی طرح ایک دوسرا سیمینار مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں بھی منعقد ہوا۔

❖ عرب ممالک کے علماء و فضلاء کے ایک وفد نے دارالعلوم کا دورہ کیا۔

۱۱۶/رواں سال: ۱۳۹۸ھ/۱۹۷۸ء

❖ مدینہ یونیورسٹی کے ثقافتی وفد کی دارالعلوم آمد ہوئی۔

❖ سعودی عرب، سوڈان، متحدہ عرب امارات وغیرہ کے علماء و طلبہ کا وفد اور رابطہ عالم اسلامی سے دارالعلوم کے رابطہ کا استحکام۔

❖ مدینہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر شیخ عبدالحسن بن عباد اور کلیۃ الدعوة کے پرنسپل شیخ صالح بن عبد اللہ کا دورہ۔

۱۱۷/رواں سال: ۱۳۹۹ھ/۱۹۷۹ء

❖ دارالعلوم میں صد سالہ اجلاس کے انعقاد کا فیصلہ اور اس کی تیاریاں۔

❖ متعدد عمارتوں کی تکمیل و تزئین عمل میں آئی۔

۱۱۸/رواں سال: ۱۴۰۰ھ/۸۰-۱۹۷۹ء

❖ ۲۲، ۲۳، ۲۴ مارچ ۱۹۸۰ء (جمادی الاولیٰ ۱۴۰۰ھ) میں دارالعلوم کا تاریخ ساز اور عہد آفریں صد سالہ اجلاس عام ہوا جس میں پندرہ سے بیس لاکھ مسلمانوں نے شرکت کی۔ ہندوستان،

پاکستان، بنگلہ دیش کے علاوہ ایشیا، افریقہ اور امریکہ و یورپ کے آٹھ ہزار سے زائد سرکاری نمائندے، وفود اور مندوبین نے شرکت کی۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی تاریخ کا یہ عظیم الشان اجلاس تھا جس کی گونج سارے عالم میں محسوس کی گئی۔ اس سلسلے میں تفصیلی معلومات اگلے عنوان کے تحت ملاحظہ فرمائیں۔

مآخذ:

- تاریخ دارالعلوم دیوبند، جلد اول، ص ۲۷۸ تا ۳۳۳
- سالانہ روادارالعلوم، محفوظ کتب خانہ و محافظ خانہ دارالعلوم دیوبند
- دارالعلوم دیوبند کی صد سالہ زندگی، حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحبؒ

دارالعلوم دیوبند کا اجلاس صد سالہ

اجلاس صد سالہ، دارالعلوم دیوبند کی تاریخ کا ایک عہد آفریں اور عالمی واقعہ ہے جس کی برصغیر کیا دنیا کے مسلمانوں کی علمی و دینی تاریخ میں مثال ملنی مشکل ہے۔ اس سہ روزہ صد سالہ اجلاس میں پندرہ سے بیس لاکھ مسلمانوں نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے علاوہ عالم عرب، ایشیا، افریقہ اور امریکہ و یورپ کے آٹھ ہزار سے زائد سرکاری نمائندے، وفود اور مندوبین نے شرکت کی جس میں بلند پایہ علمائے دین، مشائخ عظام، مفتیان کرام، سیاسی رہنما، اسکالرس، دانشوران، مختلف ممالک کے نمائندگان، وزراء اور سفراء شامل تھے۔

صد سالہ اجلاس ۲۳-۲۱ مارچ ۱۹۸۰ء (۵-۳ جمادی الاولیٰ ۱۴۰۰ھ) کو دیوبند میں پورے جوش و خروش اور شان و شوکت کے ساتھ منعقد ہوا۔ یہ ہندوستان کے مسلمانوں کی تاریخ کا عظیم الشان اجلاس تھا جس کی گونج سارے عالم میں محسوس کی گئی۔ یہ اجلاس بین الاقوامی یک جہتی، ہم آہنگی اور اتحاد و اتفاق کا دل آویز نمونہ تھا۔

دارالعلوم دیوبند میں جلسہ دستار بندی کا رواج شروع سے رہا ہے۔ ۱۲۹۰ھ میں دستار بندی کا سب سے پہلا جلسہ منعقد ہوا جس میں حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کے ہاتھوں حضرت شیخ الہند اور دیگر اولین فضلاء کو دستار فضیلت باندھی گئی۔ ۱۲۹۸ھ اور ۱۳۰۱ھ میں بھی جلسہ دستار بندی منعقد ہوا اور قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ کے دست مبارک سے دستاریں باندھی گئیں۔ ۱۳۲۸ھ مطابق ۱۹۱۰ء میں حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحبؒ کے زمانہ اہتمام میں ایک عظیم الشان اور تاریخی جلسہ دستار بندی منعقد کیا گیا جس میں ایک ہزار سے زائد فضلاء دارالعلوم کی دستار بندی ہوئی اور ایک لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی۔

۱۴۰۰ھ/۱۹۸۰ء کا اجلاس صد سالہ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحبؒ کے دور اہتمام میں منعقد ہوا۔ یہ جلسہ دستار بندی تقریباً ستر (۷۰) سال کے بعد منعقد ہو رہا تھا؛ اس لیے اس دوران فارغ التحصیل ہونے والے علماء کی ایک بڑی تعداد تو دنیا سے رخصت ہو چکی ہوگی، جو فضلاء حضرات شریک ہو سکتے تھے ان کی تعداد دس ہزار سے زائد تھی۔

شرکائے اجلاس

اس اہم اجلاس میں برصغیر (ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش) کے علاوہ ایشیا، افریقہ، یورپ اور امریکہ کے مختلف خطوں سے آئے ہوئے تقریباً آٹھ ہزار مندوبین نے شرکت کی۔ ان مندوبین میں ہر علاقہ اور ملک کے بلند

پایہ محدثین، مقررین، زعمائے ملت، ممتاز علماء و صلحاء، مشائخ طریقت، روحانی شخصیتیں، ماہرین تعلیم، دانشوران، صحافی، اساطین حکومت اور بین الاقوامی شہرت و حیثیت کی حامل شخصیتیں شامل تھیں۔ پوری دنیا اور ہندوستان کے گوشے گوشے کے فضلاء دارالعلوم، جو اپنے ملکوں اور علاقوں کے علماء ربانیین، مشائخ وقت اور رہنمایان قوم ہیں، اس اجلاس میں شریک ہوئے۔

والی حرمین شریفین جلالتہ الملک شاہ خالد بن عبدالعزیز کے نامزد کردہ نمائندہ اور سعودی عرب سے دیگر تنظیموں اور جامعات کے چھ مقرر و فود اجلاس میں شریک ہوئے۔ شاہ خالد کے نمائندہ وفد کی سربراہی ڈاکٹر شیخ عبداللہ عبدالحسن التركي (رئیس جامعہ اسلامیہ امام محمد بن سعود ریاض) فرما رہے تھے۔ دیگر چار و فود میں رابطہ عالم اسلامی، ریاض یونیورسٹی، مدینہ یونیورسٹی اور دیگر اداروں کے مقرر و فود اور کچھ جامعات کے وائس چانسلر شامل تھے۔

حکومت پاکستان نے لاہور سے ایک اسپیشل ٹرین اتاری تک اور حکومت ہند نے اتاری سے دیوبند تک چلائی تھی۔ پاکستان سے آنے والی ٹرین میں تقریباً ساڑھے آٹھ سو افراد کا قافلہ دیوبند آیا جس میں پاکستان کے قومی اتحاد کے رہنما مولانا مفتی محمود صاحب، مولانا غلام اللہ صاحب، مولانا عبدالحق اکوڑہ خٹک وغیرہ ممتاز علماء و مشائخ شامل تھے۔ صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق صاحب کے خاص نمائندے جسٹس افضل چیمہ، چیرمین نظریاتی کونسل آف پاکستان اور صدر پاکستان کے مشیر خاص عالیجناب حکیم محمد سعید دہلوی شریک اجلاس تھے۔ کویت کے وزیر اوقاف شیخ یوسف جاسم الحی نے اپنے ملک کے وفد کی قیادت کی جس میں سابق وزیر یوسف الرفاعی، ڈائریکٹر امور اسلامی شیخ عبداللہ العقیل وغیرہ شامل تھے۔ مصر کے وزیر اوقاف شیخ عندا منعم النمر، شام سے مفتی اعظم شیخ کفتارو، شیخ عبدالفتاح ابوعدہ اور حلب کے ممتاز عالم دین ابوصالح الحارونی، شیخ عبداللہ بن محمد ابن حمید رئیس مجلس القضاء الاعلیٰ سعودی عرب، شیخ احمد عبدالعزیز آل مبارک رئیس محکمۃ القضاء الشرعی ابو ظہبی، شیخ عبداللہ علی المحمود شارحہ، ڈاکٹر یوسف القرضاوی، شیخ قاری عبدالباسط عبدالصمد مصری، مفتی احمد بن محمد خلیلی مفتی اعظم عمان، ڈاکٹر عبداللہ الزاہد وائس چانسلر مدینہ یونیورسٹی، شیخ ناصر العبودی، یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکا کے نمائندے سید احتشام کاظمی، مولانا عبدالحق عمر جی ساؤتھ افریقہ، مولانا عبیدالحق ڈھاکہ کے علاوہ دیگر بے شمار اہم شخصیات اجلاس میں موجود تھیں۔ شاہ حسین والی شرق اردن، صدر عراق، قطر، عمان، فلسطین کے نمائندوں کے علاوہ متحدہ عرب امارات، لیبیا، ایران، بنگلہ دیش، مغربی جرمنی، انگلینڈ، امریکہ، روس، سری لنکا، نیپال، برما، جنوبی افریقہ، شمالی افریقہ، ری یونین، کینیا، ملیشیا، ماریشس وغیرہ کے فود بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ ہندوستان کی وزیر اعظم مسز اندرا گاندھی نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔

کارروائی اجلاس

پہلے دن جمعہ کی نماز پنڈال میں ادا کی گئی اور نماز جمعہ کے بعد افتتاحی اجلاس کا آغاز ہوا۔ آل انڈیا ریڈیو سے

اس اجلاس کی پہلی نشست کا آنکھوں دیکھا حال براہ راست نشر کیا گیا۔ دنیائے اسلام کے مشہور قاری شیخ عبد الباسط عبدالصمد کی وجد آفریں تلاوت قرآن سے پہلے جلسے کا آغاز ہوا۔ کویت کے وزیر اوقاف شیخ یوسف جاسم الحجی نے اپنی افتتاحی تقریر میں دارالعلوم دیوبند کی عظیم الشان خدمات کی تعریف کرتے ہوئے یہ امید ظاہر کی یہ اجلاس ساری دنیا کے مسلمانوں میں باہمی اتحاد و اتفاق اور یکجہتی کی فضا کو تیار کرے گا اور اسلام کے عالمگیر پیغام و تعلیمات کی ترویج و اشاعت کا ذریعہ بنے گا۔ مہتمم دارالعلوم حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نے اپنے جامع اور عالمانہ خطبہ استقبالیہ میں دارالعلوم کی ایک سو سترہ سالہ خدمات کا مؤثر انداز میں تذکرہ فرمایا اور تمام شرکائے اجلاس، مندوبین کرام اور فضلاء دارالعلوم کا پر خلوص شکر یہ ادا کیا۔

صدر اجلاس ڈاکٹر عبداللہ عبدالرحمن التركي نے اپنی صدارتی تقریر میں جلالتہ الملک شاہ خالد بن عبدالعزیز کا سلام پیش کیا اور ولی عہد شہزادہ فہد بن عبدالعزیز کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ انھوں نے کہا کہ اس ادارے نے اسلام کی جو عظیم الشان خدمات انجام دی ہیں اس کا اعتراف ساری دنیا کے مسلمانوں کو ہے۔ دارالعلوم اور اکا بردار العلوم نے دین اسلام اور علم و شریعت کی جو گراں قدر خدمات انجام دی ہیں وہ نہایت قابل قدر اور لائق تحسین ہیں۔ مسز اندرا گاندھی نے اپنی تقریر میں دارالعلوم دیوبند کی مذہبی، تہذیبی اور قومی و ملکی خدمات کا بھرپور الفاظ میں تذکرہ کرتے ہوئے پُر زور انداز میں خراج تحسین پیش کیا۔ انھوں نے کہا کہ پوری دنیا کے اسکالرس اور علماء و فضلاء دارالعلوم کے جلسے میں شریک ہو رہے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیائے اسلام میں اس کا مقام کتنا بلند ہے۔ انھوں نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند کے بزرگوں نے ہندوستان کی آزادی کی جو تحریک شروع کی تھی وہ اگرچہ ظاہری اور وقتی طور پر کامیاب نہیں سمجھی گئی لیکن اس سے لوگوں کے دلوں میں آزادی حاصل کرنے کا جذبہ ابھرا اور ان کوششوں کی بدولت ہندوستان آزاد ہوا۔

اجلاس کی کل پانچ نشستیں منعقد ہوئیں اور متعدد مجالس مذاکرہ و قرأت منعقد ہوئیں جن میں ملک و بیرون ملک کے ممتاز علماء و مشاہیر نے حصہ لیا۔ اوپر مذکور کچھ غیر ملکی حضرات کے علاوہ ہندوستانی علماء میں حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی، حضرت مولانا محمد منظور نعمانی، حضرت مولانا منت اللہ رحمانی، حضرت مولانا سعید احمد اکبر آبادی، حضرت مولانا حامد الانصاری غازی، حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمن عثمانی، حضرت مولانا قاضی زین العابدین میرٹھی، حضرت مولانا انعام الحسن کاندھلوی، حضرت مولانا مسیح اللہ خان شروانی، حضرت مولانا قاری صدیق احمد باندوی، حضرت مولانا ابرار الحق ہرودی، حضرت مولانا سید اسعد مدنی اور اس وقت کے نمایاں اساتذہ دارالعلوم رحمہم اللہ نے اجلاس کی مختلف سرگرمیوں میں نمایاں حصہ لیا۔

اجلاس میں کثرت تعداد کی وجہ سے عام قاعدہ کے مطابق دستار بندی ممکن نہیں تھی؛ اس لیے ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے ایسے حضرات علمائے کرام کو دستار بندی کے لیے منتخب کیا گیا جن کا علمی و عملی مقام مسلم

الثبوت تھا، چنانچہ ان کی دستار بندی کی گئی اور باقی حضرات کو دستی طور پر دستاریں تقسیم کی گئیں۔

جلسہ گاہ

صد سالہ اجلاس دیوبند کی مضافاتی آبادی قاسم پور کے دس لاکھ مربع میٹر وسیع رقبہ میں منعقد ہوا۔ اس عظیم اجلاس کے پنڈال کا صرف چھپا ہوا (covered) حصہ ہی چھ لاکھ مربع فٹ تھا اور اس کے علاوہ اتنا ہی کھلا ہوا پنڈال تھا۔ جلسہ گاہ کا مغربی سراریلوے لائن سے شروع ہوتا تھا اور مشرقی کنارہ اس سے تقریباً دو ڈھائی میل دور باغات تک پہنچا ہوا تھا، شمال میں اس کی حد جی ٹی روڈ تھی جب کہ جنوب میں عید گاہ۔

جلسہ گاہ کے مشرقی حصہ میں باہر سے آنے والے حضرات کی رہائش کے لیے کیمپ لگائے گئے تھے، ہر علاقے کے مہمانوں کا کیمپ الگ تھا اور ہر کیمپ پر اس علاقے کے ناموں کی تختیاں لگی ہوئی تھیں۔ پانی فراہم کرنے کے لیے تھوڑے تھوڑے فاصلے سے تین سوہینڈ پمپ نصب کیے گئے تھے۔ شمالی حصے میں اشیائے خورد و نوش کے اسٹال تھے۔ مغرب میں جلسہ گاہ تھی جس میں شامیانوں کے نیچے تین لاکھ افراد کے بیٹھنے کا انتظام تھا اور اتنی ہی جگہ شامیانوں کے باہر کھلے میدان کے طور پر رکھی گئی تھی اور اس کے پیچھے اقامتی کیمپ تھے۔ جلسہ گاہ کے مغربی سرے پر انتہائی پر شکوہ اسٹیج پختہ اینٹوں کا بنایا گیا تھا جو زمین سے دس فٹ اونچا، ڈیڑھ سو فٹ لمبا اور پچاس فٹ چوڑا تیار کیا گیا تھا جس پر چار سو مہمانوں کے لیے اعلیٰ درجے کے صوفہ سیٹ اور کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ شامیانے کے درمیان اسٹیج تک پہنچنے کے لیے پانچ کشادہ راستے بنائے گئے تھے جن میں دورویہ آمد و رفت کا نظم تھا۔

شرکاء کا ہجوم اس قدر زیادہ ہو گیا کہ تنظیمین کے تمام اندازے، خاکے اور نقشے ناکافی ثابت ہوئے۔ تمام راستوں میں شرکائے اجلاس اس طرح پٹے ہوئے تھے کہ گذرنا تو کجا تل دھرنے کی جگہ بھی نہیں تھی۔ انسانوں کا ایک سمندر ٹھاٹھیں مار رہا تھا، حد نظر تک آدمی ہی آدمی دکھائی دیتے تھے۔ جی ٹی روڈ پر بسوں کا ایک لائن ہی سلسلہ تھا جن کی چھتوں پر بھی آدمی چڑھے ہوئے تھے۔ ادھر ریلوے اسٹیشن پر ہندوستان کے اطراف سے ہر گھنٹے اسپیشل ٹرینیں پہنچ رہی تھیں۔

اس پروقار اجلاس میں شریک ہونے والے شمع رسالت کے پندرہ بیس لاکھ پروانوں کے جوش و جذبہ اور عقیدت و محبت کے لافانی نقوش اور بے مثال مظاہرہ کو دیکھ کر بیرون ملک اور عرب ممالک کے آنے والے زعماء اور ملکی قومی رہ نما جھوم جھوم گئے اور ایک ولولہ، ایک جوش اور ایک جذبہ بے کراں اپنے اندر محسوس کیے بغیر نہ رہ سکے۔ واقعہ یہ ہے کہ اجلاس صد سالہ کا نشاط انگیز اور ایمان افروز منظر دیکھ کر ہر صاحب قلب و نظر بے ساختہ حضرات اکابرین دارالعلوم کی ارواح مبارکہ کو سلام کرنے اور ان کی غیر معمولی مخلصانہ خدمات کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ نذرانہ عقیدت پیش کرنے پر مجبور تھا۔

خلاصہ

غرضے کہ یہ اجلاس پورے جوش و خروش اور شان و شوکت کے ساتھ منعقد ہوا اور باب دین و دانش کو ایک نئی شاہراہ عمل دکھلا کر اختتام کو پہنچا۔ اس اجتماع کے ذریعہ مسلمانوں کی شوکت ظاہر ہوئی، دارالعلوم دیوبند کے آثار لاکھوں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اکابر دیوبند کے ایمان افروز تذکرے سنے اور ان سے ان کے دلوں میں نئے حوصلے پیدا ہوئے۔ یہ اجلاس اپنے اثرات اور ثمرات کے لحاظ سے چودہویں صدی ہجری کا ایک بے مثال، قابل فخر اور عظیم الشان اجتماع تھا۔ یہ اجتماع روحانی کیف و انبساط کا باعث، اسلامی تعلیمات کی نشر و اشاعت کا ذریعہ، اسلامی اخوت کا بے مثال مظاہرہ اور دارالعلوم دیوبند سے امت مسلمہ کے انتہائی عقیدت و محبت کا جیتا جاگتا ثبوت تھا۔

مآخذ:

- مختصر روداد اجلاس صد سالہ، محمد اظہر صدیقی، دفتر اجلاس صد سالہ دارالعلوم دیوبند
- نظام الاوقات، اجلاس صد سالہ دارالعلوم دیوبند، شائع کردہ دفتر اجلاس صد سالہ
- جہان دیدہ، حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی، ص ۳۹۶ تا ۵۱۳

دارالعلوم دیوبند کا موجودہ دور

ابتدا: ۱۴۰۱ھ / ۱۹۸۱ء

دور اہتمام

(۱) حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب بجنوریؒ تیس سال

۱۴۰۱ھ تا ۱۴۰۲ھ / ۱۹۸۱ء تا ۱۹۸۲ء (معاون مہتمم)

۱۴۰۲ھ تا ۱۴۳۲ھ / ۱۹۸۲ء تا ۲۰۱۰ء (مہتمم)

(۲) حضرت مولانا غلام رسول صاحب خاموش، بہ حیثیت کارگزار مہتمم

۱۴۲۴ھ تا ۱۴۳۱ھ / ۲۰۰۴ء تا ۲۰۱۰ء

(۳) حضرت مولانا غلام محمد وستانوی صاحب

صفر ۱۴۳۲ھ تا شعبان ۱۴۳۲ھ / ۲۰۱۱ء تا ۲۰۱۱ء

(۴) حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب

شعبان ۱۴۳۲ھ / ۲۰۱۱ء تا حال

دارالعلوم کے موجودہ دور کی ابتدا اجلاس صد سالہ کے بعد سے ہوتی ہے۔ اجلاس صد سالہ کے بعد دارالعلوم ایک نازک وقت سے گذرا اور شدید اختلافات رونما ہوئے۔ بالآخر اللہ کے فضل و کرم سے جو ہمیشہ دارالعلوم کے شامل حال رہا ہے، دارالعلوم اس امتحان و آزمائش سے باہر نکل آیا اور پھر نہایت برق رفتاری سے شاہراہ ترقی پر گامزن ہو گیا۔

موجودہ دور کا زیادہ تر زمانہ حضرت مولانا مرغوب الرحمن بجنوریؒ کے عہد اہتمام پر مشتمل ہے۔ اس دور میں دارالعلوم نے تعلیمی، انتظامی اور تعمیراتی جہتوں سے خوب ترقی کی اور پہلے کی بہ نسبت اس کا دائرہ پھیل کر دو گنے سے زیادہ ہو گیا۔ باہری دنیا میں بھی دارالعلوم کا شہرہ خوب پھیلا اور وقتاً فوقتاً عالمی میڈیا میں اس کی گونج سنائی دینے لگی۔ حضرت مولانا مرغوب الرحمن بجنوریؒ کی کبرسنی کے باعث ۱۴۲۴ھ میں حضرت مولانا غلام رسول خاموش کو کارگزار

مہتمم نامزد کیا گیا۔ ان کے بعد ۱۳۳۲ھ میں اولاً حضرت مولانا غلام محمد وستانوی اور پھر حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی کو زمام اہتمام سونپی گئی۔

اس دور کی ابتدا میں حضرت مولانا معراج الحق صاحب دیوبندی صدر المدرسین ہوئے اور حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب بلند شہری شیخ الحدیث تھے جو بعد میں صدر المدرسین کے عہدہ پر بھی فائز ہوئے۔ ۱۳۲۹ھ مطابق ۲۰۰۸ء میں حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالن پوری ان دونوں مناصب پر فائز ہوئے۔
ذیل کے صفحات میں دارالعلوم کے اس دور کے اہم واقعات پیش کیے جا رہے ہیں۔

۱۱۹ رواں سال: ۱۳۰۱ھ/۸۱-۱۹۸۰ء

❖ رجب ۱۳۰۱ھ مطابق مئی ۱۹۸۱ء کے اجلاس میں حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نے کمزوری اور پیرانہ سالی (اس وقت ان کی عمر ۹۰ کے قریب تھی) کے باعث مجلس شوریٰ سے درخواست کی کہ ان کا بار ہلکا کر کے کسی کو نائب و معاون مقرر کر دیا جائے۔ چنانچہ حسب درخواست، مجلس شوریٰ نے معاون مہتمم کے طور پر حضرت مولانا مرغوب الرحمن بجنوری کا انتخاب کیا اور مولانا محمد عثمان دیوبندی نو اسد شیخ الہند کو نائب مہتمم بنا دیا۔ واضح رہے کہ یہ تجاویز تمام اراکین مجلس شوریٰ کے اتفاق رائے سے طے ہوئیں۔

❖ صدر المدرسین حضرت مولانا فخر الحسن مراد آبادی اور رکن مجلس شوریٰ حضرت مولانا مصطفیٰ حسن علوی لکھنوی کا انتقال ہوا۔

❖ شوال ۱۳۰۱ھ/ اگست ۱۹۸۱ء کی مجلس شوریٰ میں حضرت مولانا معراج الحق دیوبندی کو صدر المدرسین مقرر کیا گیا۔

❖ حضرت قاری محمد طیب صاحب اور مجلس شوریٰ کے درمیان آئینی اختلافات رونما ہوئے۔ حضرت قاری صاحب نے مجلس شوریٰ کو تحلیل کر کے ایڈہاک کمیٹی بنانے کا اعلان کیا۔ انھوں نے دارالعلوم کے دستور اساسی کو کالعدم قرار دینے اور مجلس شوریٰ کے مذکورہ بالا فیصلوں کی منسوخی کا بھی اعلان کر دیا۔

۱۲۰ رواں سال: ۱۳۰۲ھ/۸۲-۱۹۸۱ء

❖ دارالعلوم میں ہنگاموں کی وجہ سے حضرت قاری صاحب نے ۳۱ اکتوبر ۱۹۸۱ء کو دارالعلوم بند کرنے اور طلبہ سے دارالعلوم خالی کرانے کا اعلان کر دیا۔

❖ کچھ اساتذہ نے اہل دیوبند کی مدد سے نکالے گئے طلبہ کی تعلیم اور قیام و طعام کا نظم کیا۔

❖ مجلس شوری نے حضرت قاری محمد طیب صاحب کے غیر آئینی اقدامات کی بنیاد پر ان کو معطل کر دیا (کام سے روک دیا) اور ان کی جگہ اس وقت کے معاون مہتمم حضرت مولانا مرغوب الرحمن بجنوری کو عارضی مہتمم مقرر کیا۔

❖ ۲۹ جمادی الاولیٰ مطابق ۲۳ مارچ ۱۹۸۲ء کو مسلسل پانچ مہینے بند رہنے کے بعد دارالعلوم دوبارہ کھل گیا اور حسب معمول مجلس شوری کی نگرانی میں نظم و نسق بحال ہو گیا۔ اس کے بعد بہت سے وہ طلبہ بھی آگئے جو اپنے گھروں کو لوٹ گئے تھے۔ اسی طرح دارالعلوم کے بہت سے اساتذہ و ملازمین بھی واپس آ کر اپنے کاموں میں لگ گئے۔

❖ مجلس شوری کا اجلاس ۲۳ شوال ۱۴۰۲ھ / ۱۵ اگست ۱۹۸۲ء کو مسلم مسافر خانہ لکھنؤ میں منعقد ہوا جس میں حضرت مولانا حبیب الرحمن محدث اعظمی، حضرت مولانا محمد منظور نعمانی، حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی، حضرت مولانا عبد الحلیم جون پوری، حضرت مولانا قاضی زین العابدین میرٹھی، حضرت مولانا سعید احمد اکبر آبادی، حضرت الحاج نواب عبید الرحمن خان شروانی، حضرت مولانا عبد القادر مالیکانوی، حضرت مولانا حکیم محمد زماں حسینی کلکتوی، حضرت حاجی علاء الدین بمبوی، حضرت مولانا مرغوب الرحمن بجنوری، حضرت مولانا معراج الحق دیوبندی، حضرت مولانا محمد عثمان دیوبندی (رحمہم اللہ) شریک ہوئے۔ اس اجلاس کے دوران حضرت قاری محمد طیب صاحب کے دو خصوصی ارادت مند جناب ماسٹر عزیز الحق چودھری آسامی اور جناب صوفی عبد الرحمن صاحب بمبوی وہاں پہنچے اور حضرت قاری صاحب کا خود اپنے قلم کا لکھا ہوا استعفا نامہ پیش کیا۔ یہ استعفا ۹ اگست ۱۹۸۲ء کو تحریر کیا گیا تھا، جس میں دارالعلوم سے قلبی لگاؤ کے اظہار کے بعد اہتمام کی ذمہ داریوں سے سبک دوش کر دیئے جانے کی درخواست تھی۔ آپ کی پیرائہ سالی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ارباب مجلس شوری نے استعفا قبول فرمایا۔ مجلس شوری نے حضرت قاری صاحب کا استعفا قبول کرنے کے بعد حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب بجنوری کو مستقل مہتمم مقرر کر دیا۔ (حضرت قاری صاحب کا تحریر کردہ استعفا نامہ محافظ خانہ میں محفوظ ہے۔ دیگر تفصیلات کے لیے دیکھیں: رجسٹر کاروائی اجلاسہائے مجلس شوریٰ بابت ۱۴۰۲ھ؛ دارالعلوم دیوبند کا قضیہ عوام کی عدالت میں، مولانا محمد منظور نعمانی، شائع کردہ: دفتر اہتمام دارالعلوم دیوبند، ۱۹۸۲ء)

❖ حضرت مولانا عبد الحق اعظمی، حضرت مولانا نعمت اللہ اعظمی، حضرت مولانا ارشد مدنی وغیرہ اساتذہ اور دفتری امور کی انجام دہی کے لیے بہت سے ملازمین کا تقرر عمل میں آیا۔

۱۲۱ رواں سال: ۱۴۰۳ھ/۸۳-۱۹۸۲ء

- ❖ رواق خالد کی تعمیر کی تکمیل ہوئی۔
- ❖ اکابر دارالعلوم کے علوم و معارف کی اشاعت کے مقصد سے شیخ الہند اکیڈمی کا قیام ہوا اور حضرت مولانا سعید احمد اکبر آبادی ڈائریکٹر مقرر ہوئے۔
- ❖ معین المدرسین کا درجہ قائم کیا گیا۔
- ❖ فضلاء بنگلہ دیش کو بنگلہ دیش میں اجلاس دستار بندی کی اجازت کی تجویز پاس ہوئی۔
- ❖ دارالعلوم میں غلام اسکیم کا جلسہ منعقد ہوا۔
- ❖ ۶ شوال ۱۴۰۳ھ (۱۷ جولائی ۱۹۸۳ء) کو حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب کا سانحہ انتقال پیش آیا۔

۱۲۲ رواں سال: ۱۴۰۴ھ/۸۴-۱۹۸۳ء

- ❖ اس سال طلبہ کی تعداد ۲۳۵۰ تھی اور دارالعلوم کا سالانہ بجٹ ۵۲ لاکھ روپے تھا۔
- ❖ دارالعلوم کے موقف کی وضاحت اور فراہمی سرمایہ کے لیے ملک کے طول و عرض کے علاوہ پاکستان، بلیشیا، عرب ممالک وغیرہ میں سربراہ آردہ ارکان و اساتذہ پر مشتمل وفد روانہ کیے گئے جس کا خاطر خواہ فائدہ ہوا۔
- ❖ مجلس شوریٰ کے سابق رکن حضرت مفتی عتیق الرحمن عثمانی کا انتقال ہوا۔

۱۲۳ رواں سال: ۱۴۰۵ھ/۸۵-۱۹۸۴ء

- ❖ حضرت مولانا وحید الزماں کیرانوی کو معاون مہتمم بنایا گیا۔
- ❖ دارالمدرسین کی تعمیر کا فیصلہ کیا گیا۔
- ❖ حضرت مولانا حامد الانصاری غازی مجلس شوریٰ سے علیحدہ ہوئے۔
- ❖ حضرت مولانا قاری صدیق احمد باندوی مختلف مصروفیات اور عوارض کی وجہ سے مجلس شوریٰ سے مستعفی ہوئے۔
- ❖ حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی کو صدر مفتی بنایا گیا۔
- ❖ نائب مہتمم حضرت مولانا محمد عثمان دیوبندی کا انتقال ہوا۔

- ❖ حضرت مولانا اسعد مدنی مجلس شوری کے رکن منتخب ہوئے۔ آپ نے اپنی فعال اور بااثر شخصیت سے دارالعلوم کو بہت فائدہ پہنچایا۔
- ❖ دارالتر بیت اور دارالعلوم کے شایان شان جدید مسجد کی تعمیر کی تجویز پاس ہوئی۔
- ❖ پندرہ روزہ پیام دارالعلوم کا اجراء ہوا۔
- ❖ سفیر مصر برائے ہند ڈاکٹر عمر موسیٰ کی دارالعلوم آمد ہوئی۔

۱۲۴ ارواں سال: ۱۴۰۶ھ/۸۶-۱۹۸۵ء

- ❖ حضرت مولانا ابوالسعود صاحب مجلس شوری سے علیحدہ ہوئے۔
- ❖ پندرہ روزہ پیام دارالعلوم کا آئینہ دارالعلوم کے نام سے رجسٹریشن عمل میں آیا۔
- ❖ حضرت مولانا سعید احمد اکبر آبادی (رکن مجلس شوری و ڈائریکٹر شیخ الہند اکیڈمی دارالعلوم) ۳ رمضان کو انتقال فرما گئے۔
- ❖ جامعۃ الازہر مصر سے عربی زبان و ادب کی تدریس کے لیے شیخ عبداللہ جمعہ رضوان دارالعلوم دیوبند مبعوث کیے گئے۔
- ❖ سعودی سفیر برائے ہند شیخ فواد صادق دارالعلوم تشریف لائے۔
- ❖ وزیر اعلیٰ اتر پردیش اور سیاسی رہنماؤں کے اعلیٰ سطحی وفد کی دارالعلوم آمد ہوئی۔
- ❖ اسی سال تین سو سے زائد پاکستانی علماء کے وفد نے جو شیخ الہند سیمینار دہلی میں شرکت کے لیے آیا تھا، دارالعلوم کا دورہ کیا۔
- ❖ عرب اسلامی ایسوسی ایشن کے نمائندہ ڈاکٹر فتحی عثمان کی دارالعلوم آمد ہوئی۔
- ❖ مختلف مسائل و مشکلات کی وجہ سے جامعہ طیبہ کو تحلیل کر دیا گیا۔ (تفصیل کے لیے مستقل عنوان کے تحت مضمون ملاحظہ فرمائیں)
- ❖ تعلیمی نظام کی بہتری کے لیے مدرسہ ثانویہ کا علیحدہ نظم کیا گیا۔
- ❖ جدید مسجد مسمی بہ مسجد رشید کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔
- ❖ دفتر تنظیم و ترقی کی مہمئی شاخ کا دفتر قائم ہوا۔

۱۲۵ ارواں سال: ۱۴۰۷ھ/۸۷-۱۹۸۶ء

- ❖ ۹۲ لاکھ کا بجٹ منظور ہوا۔

❖ قادیانیوں کے بڑھتے اثرات کے پیش نظر دارالعلوم میں ملک و بیرون ملک کے علماء و دانشوران کا اہم اجلاس بلایا گیا۔

❖ دارالعلوم میں کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت کا قیام عمل میں آیا۔

❖ دارالاقامہ اعظمی منزل (شیخ الہند منزل) کی تعمیر شروع ہوئی۔

۱۲۶/رواں سال: ۱۴۰۸ھ/۸۸-۱۹۸۷ء

❖ ایک کروڑ ۳۴ لاکھ کا سالانہ بجٹ منظور ہوا۔

❖ رکن مجلس شوری حضرت حاجی علاء الدین ممبئی کا انتقال ہوا۔

❖ اسی سال امام حرم کی شیخ محمد بن عبداللہ السبیل نے دارالعلوم کا دورہ کیا اور ان کو شاندار استقبالیہ دیا گیا۔

❖ شیخ نے دارالعلوم دیوبند کو بہترین الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔

❖ اسلامک بینک جدہ کے ایکو کیٹیو ڈائریکٹر شیخ فیصل عبدالعزیز الزربلی کی دارالعلوم آمد ہوئی۔

۱۲۷/رواں سال: ۱۴۰۹ھ/۸۹-۱۹۸۸ء

❖ تعداد طلبہ: ۲۵۷۵، اساتذہ: ۳۴، ملازمین: ۳۰۰۔

❖ حضرت مولانا غلام رسول خاموش صاحب مجلس شوری کے رکن منتخب ہوئے۔

❖ مشہور مبلغ و مناظر مولانا ارشاد احمد صاحب فیض آبادی کا انتقال ہوا۔

❖ دارالعلوم میں رد قادیانیت پر مجلس تحفظ ختم نبوت کا دس روزہ تربیتی پروگرام منعقد ہوا جس میں خصوصی طور پر پاکستان سے حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی تربیت دینے کے لیے تشریف لائے۔

❖ غلہ اسکیم کا جلسہ منعقد ہوا۔

❖ دارالعلوم کے طلبہ کے وفد نے ملیشیا میں بین الاقوامی تربیتی کیمپ میں شرکت کی۔

۱۲۸/رواں سال: ۱۴۱۰ھ/۹۰-۱۹۸۹ء

❖ فرق باطلہ، ہندو ازم اور عیسائیت کے رد کے لیے مستقل شعبہ کے قیام کی تجویز پاس ہوئی۔

❖ حضرت مولانا وحید الزماں کیرانوی کی دارالعلوم سے علیحدگی ہوئی۔

❖ رکن مجلس شوری حضرت مولانا حکیم عبدالجلیل دہلوی کا انتقال ہوا۔

❖ دارالعلوم میں فضلاء دارالعلوم کا اجتماع منعقد کیا گیا اور آٹھ سالہ کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔

❖ شیخ محمد محروس الاعظمی العراقی کی دارالعلوم آمد ہوئی۔

۱۲۹ رواں سال: ۱۳۱۱ھ/۹۱-۱۹۹۰ء

❖ شعبہ تخصص فی الحدیث کے قیام کی تجویز پاس ہوئی۔

❖ مجلس شوری کے اراکین حضرت مولانا محمد سعید بزرگ، مہتمم جامعہ اسلامیہ ڈابھیل، حضرت مولانا قاضی زین العابدین میرٹھی اور حضرت مولانا منت اللہ رحمانی کا انتقال ہوا۔

❖ حضرت مولانا اسماعیل موٹا صاحب گجرات اور حضرت مولانا ناظر حسین صاحب ہاپوڑ مجلس شوری کے رکن منتخب ہوئے۔

۱۳۰ رواں سال: ۱۳۱۲ھ/۹۲-۱۹۹۱ء

❖ صدر المدرسین حضرت مولانا معراج الحق صاحب کا انتقال ہوا۔

❖ حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب کو صدر المدرسین بنایا گیا۔

❖ مجلس شوری کے اراکین حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی اور حضرت نواب عبید الرحمن خان شروانی کا انتقال ہوا۔

۱۳۱ رواں سال: ۱۳۱۳ھ/۹۳-۱۹۹۲ء

❖ رکن مجلس شوری حضرت مولانا عبدالقادر مالگاؤں کا انتقال ہوا۔

❖ حضرت مولانا حامد الانصاری غازی کا انتقال ہوا۔

❖ حضرت مولانا ابوالقاسم نعمانی، حضرت مولانا ازہر رانچوی، حضرت مولانا اسماعیل کنگلی اور حضرت مولانا بدرالدین اجمل مجلس شوری کے رکن نامزد کیے گئے۔

❖ حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب بجنوری مہتمم دارالعلوم نے ساوتھ افریقہ، موریشس، ری یونین اور سعودی عرب کا دورہ فرمایا۔

۱۳۲ رواں سال: ۱۳۱۴ھ/۹۴-۱۹۹۳ء

❖ سالانہ بحث ڈھائی کروڑ مقرر ہوا۔

❖ فرق ضالہ اور مذاہب باطلہ کے تعارف و تعاقب کے مقصد سے تکمیلات کے طلبہ کے لیے

محاضرات کا سلسلہ شروع ہوا۔

❖ آسامی منزل (شیخ الاسلام منزل) کی تعمیر کی تجویز پاس ہوئی۔

❖ مہمان خانہ کی عمارت دوبارہ تعمیر ہوئی۔

❖ غلہ اسکیم کا جلسہ منعقد ہوا۔

۱۳۳۳ء/ ۱۳۱۵ھ: ۹۵-۱۹۹۴ء

❖ حضرت مولانا وحید الزماں کیرانوی کا انتقال ہوا۔

❖ مدارس اسلامیہ کو درپیش اندرونی و بیرونی خطرات و مسائل کے پیش نظر مدارس اسلامیہ عربیہ کا

نمائندہ اجتماع بلایا گیا اور دارالعلوم میں کل ہند رابطہ مدارس اسلامیہ کے دفتر کا قیام عمل میں آیا۔

اس شعبہ سے ملک کے سیکڑوں مدارس عربیہ منسلک ہوئے۔

❖ رابطہ مدارس عربیہ کا نیا ترمیم شدہ نصاب نافذ کیا گیا۔

۱۳۳۴ء/ ۱۳۱۶ھ: ۹۶-۱۹۹۵ء

❖ سالانہ بجٹ تین کروڑ اٹھارہ لاکھ روپے پاس ہوا۔

❖ شیخ الہند اکیڈمی میں صحافتی تعلیم و تربیت کا آغاز ہوا۔

❖ حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی کا سانحہ انتقال پیش آیا۔

۱۳۳۵ء/ ۱۳۱۷ھ: ۹۷-۱۹۹۶ء

❖ طلبہ کی ٹیکنیکل تعلیم کے مقصد سے دارالعلوم میں شعبہ کمپیوٹر کا قیام عمل میں آیا۔

❖ موقر رکن شوری حضرت مولانا منظور نعمانی کا سانحہ انتقال پیش آیا۔

۱۳۳۶ء/ ۱۳۱۸ھ: ۹۸-۱۹۹۷ء

❖ سابق امام مسجد اقصیٰ اور مشہور عالم دین ڈاکٹر محمود الصیام کی دارالعلوم آمد ہوئی اور مسجد رشید میں

عظیم الشان استقبالیہ پروگرام منعقد ہوا۔

- ❖ الہ آباد ہائی کورٹ کی جج شیلادکشت اور ماہرین قانون کے اعلیٰ سطحی وفد کا دارالعلوم کا دورہ ہوا۔
- ❖ ڈاکٹر محتشم کی قیادت میں انگلینڈ کے وفد کی آمد ہوئی۔
- ❖ شعبہ خریداری اور اسٹاک روم کا قیام عمل میں آیا۔

۱۳۷۱/۱۳۱۹ھ: ۱۹۹۸-۹۹ء

- ❖ ۱۲ نومبر ۱۹۹۸ء کو کل ہند رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ کا اہم اجلاس عام ہوا جس میں مدارس اسلامیہ کے ربط کی اہمیت اور حکومت کے اثرات سے اجتناب و احترام اور علم و فکر کی آزادی کو برقرار رکھنے پر زور دیا گیا۔

۱۳۸۱/۱۳۲۰ھ: ۱۹۹۹-۲۰۰۰ء

- ❖ رکن شوری حضرت مولانا عبدالحلیم جون پوری کا انتقال ہوا۔
- ❖ ملک میں عیسائی مشنریوں کی بڑھتی سرگرمیوں کے پیش نظر دارالعلوم میں رد عیسائیت کمیٹی کا قیام عمل میں آیا جس کو بعد میں مستقل شعبہ کی حیثیت دی گئی۔
- ❖ عصر حاضر کے جدید دعوتی و مواصلاتی تقاضوں کے پیش نظر شعبہ کمپیوٹر میں انٹرنیٹ اور ویب سائٹ کی ابتدا ہوئی۔
- ❖ ماہنامہ دارالعلوم اور مجلہ الداعی وغیرہ کی کمپوزنگ کے لیے دفتر کمپیوٹر برائے کتابت کا قیام عمل میں آیا۔
- ❖ حضرت مولانا مفتی نظام الدین اعظمی کا انتقال ہوا۔
- ❖ رکن شوری حضرت مولانا ابوالحسن علی میاں ندوی کا انتقال ہوا۔

۱۳۹۱/۱۳۲۱ھ: ۲۰۰۰-۰۱ء

- ❖ رکن شوری حضرت حکیم محمد زماں الحسینی کا انتقال ہوا۔
- ❖ اس سال شعبہ تخصص فی الحدیث قائم ہوا۔
- ❖ حفظ قرآن کے لیے تحفیظ القرآن بلڈنگ (حکیم الامت منزل) کی تعمیر ہوئی۔

۱۴۰۱/۱۳۲۲ھ: ۲۰۰۱-۰۲ء

- ❖ امریکہ میں ۹/۱۱ حملوں کے پس منظر میں افغانستان پر امریکی حملہ ہونے اور میڈیا میں طالبان کو

دیوبندی فکر کی طرف منسوب کرنے کی وجہ سے دارالعلوم کا نام عالمی میڈیا میں پورے تسلسل کے ساتھ آنے لگا، اسی وجہ سے دارالعلوم میں عالمی ذرائع ابلاغ اور سفارتی نمائندوں کی بکثرت آمد شروع ہو گئی۔ دارالعلوم نے تمام واردین و صادرین کے لیے اپنے دروازے کھول دیے اور کھل کر اپنا موقف پیش کیا جس کی وجہ سے الحمد للہ شکوک و شبہات کے بادل چھٹ گئے۔

۱۴۱ ارواں سال: ۱۴۲۳ھ/۰۳-۲۰۰۲ء

- ❖ دارالعلوم کا عالمی تعارف کرانے اور دعوتی مقاصد کے تحت شعبہ انگریزی زبان و ادب کا قیام عمل میں آیا۔
- ❖ سفیر فرانس برائے ہند نے دارالعلوم کا دورہ کیا۔

۱۴۲ ارواں سال: ۱۴۲۴ھ/۰۴-۲۰۰۳ء

- ❖ دارالعلوم اور رابطہ مدارس عربیہ کے تحت ملک کے طول و عرض میں مکاتب کے قیام کی تحریک ہوئی۔
- ❖ میڈیا میں دارالعلوم کی صحیح نمائندگی کے لیے میڈیا سیل کے قیام کا فیصلہ ہوا۔
- ❖ حضرت مولانا غلام رسول خاموش کو کارگزار مہتمم بنایا گیا۔

۱۴۳ ارواں سال: ۱۴۲۵ھ/۰۵-۲۰۰۴ء

- ❖ دار جدید کی مخدوش عمارت کی جگہ نیا عظیم الشان دارالافتاء بنانے کا فیصلہ ہوا۔
- ❖ دارالعلوم کے شایان شان جدید سہولیات سے آراستہ عظیم الشان لائبریری کی تعمیر اور اس کو حضرت شیخ الہندی کی طرف منسوب کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔
- ❖ انفارمیشن ٹکنالوجی کے ذریعہ دارالعلوم کا پیغام عام کرنے اور امت مسلمہ کی رہ نمائی کا فریضہ مؤثر طور پر انجام دینے کے لیے شعبہ انٹرنیٹ کا علیحدہ قیام عمل میں آیا۔

۱۴۴ ارواں سال: ۱۴۲۶ھ/۰۶-۲۰۰۵ء

- ❖ رکن مجلس شوری مولانا اسماعیل کنکلی کا انتقال ہوا۔
- ❖ شعبہ ہندی کے قیام کی تجویز پاس ہوئی۔
- ❖ جمعیتہ علمائے اسلام اور متحدہ مجلس عمل پاکستان کے مولانا فضل الرحمن اور دیگر رہ نماؤں نے دارالعلوم کا دورہ کیا۔

- ❖ امریکہ کے چیف آف مشن رابرٹ بلیک کی دارالعلوم آمد ہوئی۔
- ❖ فتاویٰ دارالعلوم کی جمع و ترتیب جدید کے لیے شعبہ ترتیب فتاویٰ کا قیام عمل میں آیا۔
- ❖ ۱۳۵/رواں سال: ۱۳۲۷ھ/۰۷-۲۰۰۶ء
- ❖ مجلس شوریٰ کے اہم ترین رکن امیر الہند حضرت مولانا اسعد مدنی صدر جمعیتہ علمائے ہند کا سانحہ انتقال پیش آیا۔ دارالعلوم کی ترقی اور اس کی خدمات کی توسیع میں آپ کا اہم حصہ ہے۔ دارالعلوم کے بہت سے نئے شعبہ جات اور سرگرمیوں کی اصل محرک آپ کی ہی شخصیت رہی ہے۔ آپ کی فعال اور موثر قیادت سے دارالعلوم کو بڑا فائدہ پہنچا۔
- ❖ رکن مجلس شوریٰ حضرت مولانا اسماعیل موٹا (گجرات) کا انتقال ہوا۔
- ❖ غیر مقلدین کے بڑھتے فتنہ کے تعاقب و سرکوبی کے لیے شعبہ تحفظ سنت (رد غیر مقلدیت) کا قیام عمل میں آیا۔
- ❖ حضرت مہتمم صاحب نے رابطہ عالم اسلامی کے اجلاس میں شرکت کے لیے سعودی عرب کا سفر کیا۔
- ❖ مولانا فضل الرحمن کی قیادت میں متحدہ مجلس عمل پاکستان کے اراکین پارلیمنٹ کے وفد نے دارالعلوم کا دورہ کیا۔
- ❖ انڈونیشیا سے سات نفری وفد کی دارالعلوم آمد۔
- ❖ ۱۳۶/رواں سال: ۱۳۲۸ھ/۰۸-۲۰۰۷ء
- ❖ دارالافتاء کے فتاویٰ کو آن لائن شائع کرنے کے لیے مستقل اردو اور انگریزی ویب سائٹ کا آغاز کیا گیا۔
- ❖ غلہ اسکیم کا جلسہ منعقد ہوا۔
- ❖ رابطہ مدارس اسلامیہ کا عظیم الشان اجلاس عام ہوا اور حکومت ہند کے مرکزی مدرسہ بورڈ تجویز کی شدید مخالفت کی گئی جس کے بعد حکومت نے اس اقدام سے گریز کیا۔
- ❖ امریکی سفارت خانہ دہلی سے تین رکنی وفد نے دارالعلوم کا دورہ کیا۔
- ❖ ۱۳۷/رواں سال: ۱۳۲۹ھ/۰۸-۲۰۰۸ء
- ❖ اعظمی منزل (شیخ الہند منزل) کے پاس بینک اے ٹی ایم اور ریلوے بنگلہ کا وائر کا افتتاح ہوا۔
- ❖ دارالعلوم کے امتحانات کے نتائج ویب سائٹ پر شائع کیے جانے کا آغاز ہوا۔
- ❖ حضرت مولانا نصیر احمد خاں صاحب علالت اور پیرانہ سالی کی وجہ سے مستعفی ہو گئے اور حضرت

مولانا مفتی سعید احمد پالن پوری کو شیخ الحدیث اور صدر مدرس بنایا گیا۔

❖ دارالعلوم دیوبند نے ۱۶ صفر ۱۴۳۹ھ مطابق ۲۵ فروری ۲۰۰۸ء کو دہشت گردی مخالف کل ہند کانفرنس منعقد کی جس میں دارالعلوم دیوبند کے مکتب فکر سے وابستہ مدارس و تنظیمات کے علاوہ، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، شیعہ مکتب فکر کے نمائندگان اور ذمہ داران مدارس کو بھی دعوت دی گئی، درگاہ اجیر شریف اور کچھوچھو شریف کے سجادہ نشین اور ذمہ داران حضرات کو بھی مدعو کیا گیا۔

اس کانفرنس نے یہ واضح پیغام دیا کہ اسلام ساری انسانیت کے لیے دین رحمت ہے، وہ دائمی امن و سلامتی اور لازوال سکون و اطمینان کا سرچشمہ ہے۔ اسلام نے تمام بنی نوع انسان کے ساتھ اخوت و مساوات، رحم و کرم، ہمدردی و رواداری، خدمت و خیر خواہی، عدل و انصاف اور پرامن بقائے باہم کی تعلیم دی ہے۔ اسلام ہر قسم کے تشدد اور دہشت گردی کا شدید مخالف ہے، اس نے ظلم و تعدی، زور زبردستی، فتنہ و فساد، قتل و خون ریزی، بدامنی و شرانگیزی کو سخت گناہ اور بھیانک جرم قرار دیا ہے۔ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اس کو کسی خاص مذہب، فرقہ یا گروپ سے جوڑنا غلط ہے۔ نیز دہشت گردی کے نام پر ناحق کسی بھی کمیونٹی یا گروپ یا افراد کو نشانہ بنانا بھی آئینی تقاضوں کے خلاف ہے۔ مسلمانان ہند بالخصوص مدارس اسلامیہ سے وابستہ علمائے کرام نے وطن عزیز کی تعمیر و ترقی، ملک میں اتحاد و یک جہتی اور قومی رواداری کے فروغ و استحکام میں اہم کردار ادا کیا ہے اور آج بھی کر رہے ہیں۔ ہندوستانی مسلمان (دیگر برادران وطن کی طرح) اپنے ملک کو ہمیشہ آزاد، خود مختار، مضبوط اور پرامن دیکھنا چاہتے ہیں اور دہشت گردی کی مذمت کرتے رہے ہیں۔

رابطہ مدارس اسلامیہ دارالعلوم دیوبند کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی اس دہشت گردی مخالف کل ہند کانفرنس نے اپنے اعلامیہ میں کہا کہ وہ ہر قسم کے تشدد اور دہشت پسندی کی سخت الفاظ میں مذمت کرتی ہے اور اس المناک عالمی اور ملکی صورت حال پر گہری تشویش اور غم و غصے کا اظہار کرتی ہے کہ دنیا کی اکثر حکومتیں مغرب کی ظالم و جابر اور سامراجی حکومتوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اور ان کو راضی رکھنے کے واحد مقصد سے اپنے شہریوں خصوصاً مسلمانوں کے ساتھ ایسا رویہ اپناتی جا رہی ہیں جسے کسی بھی دلیل سے جائز نہیں ٹھہرایا جاسکتا، ہمارے لیے یہ بات اور بھی زیادہ باعث تشویش ہے کہ ہمارے ملک کی داخلہ اور خارجہ پالیسی بھی ان طاقتوں کے زیر اثر آتی جا رہی ہے جن کے ظلم و بربریت اور سرکاری دہشت گردی نے نہ صرف فلسطین اور عراق و افغانستان بلکہ متعدد دیگر ممالک میں بھی معلوم انسانی تاریخ کے سارے ریکارڈ توڑ دیئے، جب کہ ہمارا یہ عظیم ملک غیر جانب داری بلکہ اخلاقی و روحانی قدروں کے حوالے سے دنیا میں جانا جاتا رہا ہے۔ کانفرنس نے حکومت ہند سے پرزور مطالبہ کیا کہ مدارس اسلامیہ اور مسلمانوں کی

کردار کشی کرنے والوں کو لگام دی جائے کسی خاص فرقے کے لوگوں پر بغیر کسی ٹھوس بنیاد کے شک و شبہ کا اظہار نہ کیا جائے اور سرکاری ایجنسیاں ہر قسم کے تعصب و امتیاز سے بالاتر ہو کر اپنا فرض منصبی ادا کریں تاکہ ملک میں حقیقی امن و سلامتی برقرار رہے۔

دہشت گردی مخالف کانفرنس سے متعلق خبروں کو عالمی میڈیا میں بہت اہمیت دی گئی اور دارالعلوم کے موقف کی تائید و تحسین کی گئی۔

- ❖ جمعیتہ علمائے ہند میں اختلافات کی بنیاد پر ناظم تعلیمات حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب اور نائب مہتمم حضرت مولانا قاری محمد عثمان صاحب اپنے اپنے عہدوں سے مستعفی ہو گئے۔
- ❖ حضرت مولانا عبدالحق صاحب سنبھلی کو نائب مہتمم اور حضرت مولانا مجیب اللہ صاحب گونڈوی کو ناظم تعلیمات منتخب کیا گیا۔

۱۴۸/۱۷۰۱ سال: ۱۴۳۰ھ/۲۰۰۹ء

- ❖ تعلیم و انتظام اور تعمیر کے لیے سالانہ تیرہ کروڑ کا بجٹ پاس ہوا۔
- ❖ سفارش سے داخلہ کا کوٹہ ختم کر دیا۔
- ❖ ملائم سنگھ یادو وزیر اعلیٰ یوپی نے دارالعلوم کا دورہ کیا۔
- ❖ ترتیب فتاویٰ دارالعلوم کے نئے سلسلہ کا آغاز ہوا اور حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب کے فتاویٰ پر مشتمل تیرہویں جلد شائع ہوئی۔
- ❖ مختلف وجوہات کی بنیاد پر پندرہ روزہ آئینہ دارالعلوم کی اشاعت موقوف کر دی گئی۔

۱۴۹/۱۷۰۱ سال: ۱۴۳۱ھ/۲۰۱۰ء

- ❖ حضرت مولانا نصیر احمد خاں صاحب کا انتقال ہوا۔
- ❖ کارگزار مہتمم حضرت مولانا غلام رسول خاموش کا انتقال ہوا۔
- ❖ سعودی عرب کے وکیل وزارة الشؤون الاسلامیة والاوقاف ڈاکٹر عبدالعزیز عبداللہ العمار اور وفد کا دورہ دارالعلوم ہوا۔
- ❖ ملیشیا کے صوبہ کلنتان کے وزیر تعلیم محمد عماد عبداللہ، وزیر سیاحت تقی الدین حسین، چیف جسٹس داتون داؤد اور مفتی اعظم ملیشیا شکری محمد پر مشتمل آٹھ رکنی وفد نے دارالعلوم کا دورہ کیا۔ ان میں سے کئی حضرات فضلاء دارالعلوم تھے۔
- ❖ قطر کے مشہور عالم شیخ محی الدین قرۃ الداعی اور دیگر دو علماء دارالعلوم تشریف لائے۔

❖ اسی سال حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی نے دارالعلوم کا دورہ فرمایا اور مسجد رشید میں آپ کو استقبال دیا گیا۔

❖ ۱۵۰ ارواں سال: ۱۴۳۲ھ/۲۰۱۱ء

❖ یکم محرم کو مہتمم دارالعلوم حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب کا حادثہ انتقال پیش آیا۔

❖ حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی بنارس کی کارگزار مہتمم منتخب ہوئے۔

❖ مجلس شوریٰ صفر میں حضرت مولانا غلام محمد دستاوی کو مہتمم مقرر کیا گیا۔

❖ دارالعلوم میں حالات خراب ہونے کی وجہ سے ۱۹ ربیع الاول میں مجلس شوریٰ دوبارہ بلائی گئی اور

❖ حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی کو دوبارہ بااختیار کارگزار مہتمم بنایا گیا اور مجلس شوریٰ شعبان میں آپ کو مستقل مہتمم بنا دیا گیا۔

❖ تعمیر و انتظام کا سالانہ بجٹ سترہ کروڑ روپے طے ہوا۔

❖ اس سال کئی اہم عرب علماء نے دارالعلوم کا دورہ کیا۔ ۷ ربیع الاول کو مشہور مصنف شیخ عائض عبد

❖ اللہ القرنی کی قیادت میں سعودی عرب کے ایک وفد نے دارالعلوم کا دورہ کیا۔ شیخ عائض قرنی نے جلسہ استقبالیہ میں گراں قدر تاثرات کا اظہار کیا۔

❖ ۱۴ ربیع الاول کو مشہور حنفی شامی عالم شیخ محمد بن محمد عوامہ نے بھی دارالعلوم کا دورہ کیا اور اساتذہ و طلبہ سے خطاب کیا۔

❖ ۲۰ ربیع الثانی کو امام حرم ملی شیخ عبدالرحمن بن عبدالعزیز السدیس نے دارالعلوم کا تاریخی دورہ کیا اور مسجد رشید میں نماز جمعہ کی امامت کی اور لاکھوں فرزندان توحید کو خطاب کیا۔

❖ ۷ جمادی الاولیٰ کو پاکستان کے مشہور بزرگ حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی نے بھی دارالعلوم کا دورہ فرمایا اور تین دن قیام کیا۔

❖ حرمین شریفین میں قادیانیوں کے داخلہ پر پابندی کے مکمل اور موثر نفاذ کے سلسلے میں دارالعلوم نے سعودی عرب کے جلالتہ الملک عبداللہ بن عبدالعزیز کو میمورنڈم ارسال کیا۔

❖ ۱۵۱ ارواں سال: ۱۴۳۳ھ/۱۲-۲۰۱۱ء

❖ مجلس شوریٰ کے اجلاس ماہ صفر میں حضرت مولانا مفتی احمد خان پوری شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ ڈابھیل، حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب علی گڈھ، حضرت مولانا رحمت اللہ کشمیری مہتمم دارالعلوم

❖ رحیمہ ہانڈی پورہ کشمیر اور حضرت مولانا انوار الرحمن بجنوری کو مجلس شوریٰ کارکن منتخب کیا گیا۔

❖ ۱۰ ربیع الثانی/۴ مارچ ۲۰۱۲ء کو شیخ سعود بن ابراہیم الشریم، امام و خطیب مسجد حرام مکہ المکرمہ

❖ دارالعلوم دیوبند تشریف لائے اور علمائے دیوبند کی علمی و دینی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔
 ۲۱ ربیع الثانی / ۱۵ مارچ ۲۰۱۲ء کو کل ہند رابطہ مدارس اسلامیہ کی مجلس عمومی کا اجلاس ہوا جس میں مرکزی حکومت کی مدارس مخالف پالیسیوں کی مخالفت کی گئی۔ اس اجلاس میں مرکزی مدرسہ بورڈ، رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ اور لازمی ٹیکس کوڈ کو مدارس کے نظام میں مداخلت اور دستور ہند کی دفعہ ۳۰ کی صریح خلاف ورزی کی تجویز پاس کی گئی۔

❖ رابطہ مدارس عربیہ کے اجلاس منعقدہ مارچ ۲۰۱۲ء کی تجاویز کی روشنی میں چند اہم مطالبات پر مبنی میمورنڈم پیش کرنے کے لیے حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی، مہتمم دارالعلوم دیوبند و صدر رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ کی قیادت میں ایک پانچ رکنی وفد نے ۲۵ مئی کو وزیراعظم جناب منموہن سنگھ سے ملاقات کی۔ اس میمورنڈم میں مرکزی مدرسہ بورڈ کی تجویز کو کالعدم کرنے، ڈائریکٹ ٹیکسز کوڈ سے مسلمانوں کی مساجد اور مسلم تعلیمی و مذہبی اداروں کو مستثنیٰ رکھنے، دہشت گردی کے الزام میں گرفتار بے قصور مسلمانوں کو رہا کرنے، کسی بھی دہشت گردانہ واقعے میں ایک خاص فرقے کو نشانہ بنانے والی ذہنیت پر روک لگانے اور فلسطینی مظلومین کی حمایت میں مؤثر کردار ادا کرنے کا حکومت ہند سے مطالبہ کیا۔ نیز آرٹی ای سے مدارس اور اقلیتی اداروں کو مستثنیٰ کرنے پر حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس ترمیم شدہ قانون پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا گیا۔

۱۵۲ او ا سال: ۱۴۳۴ھ / ۱۳-۲۰۱۲ء

❖ دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ نے تعمیری و ترقیاتی امور کے پیش نظر ۲۲ کروڑ اکہتر لاکھ روپے بجٹ منظور کیا۔

❖ دارالعلوم کے ۵۱ ویں یوم قیام پر ہندی زبان میں تقریباً چار سو صفحات میں دارالعلوم دیوبند کا اتہاس کی طباعت عمل میں آئی۔

❖ دارالعلوم دیوبند میں فتنہ غیر مقلدیت کے سلسلے میں مشاورتی اجلاس گذشتہ کچھ عرصہ سے ملک میں غیر مقلدیت کا فتنہ تیزی سے سر اُبھار رہا تھا اور حدیث پر عمل کے عنوان سے سادہ لوح مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا تھا۔ اس صورت حال میں شدید ضرورت تھی کہ کتاب و سنت کی روشنی میں اپنے اسلاف کے تجربات کے مطابق کوئی لائحہ عمل تیار کیا جائے تاکہ اس فتنہ کا سد باب ہو سکے اور عام مسلمانوں کے ایمان و عقیدہ کا تحفظ ہو۔ کیوں کہ غیر مقلدین عمل بالحدیث کے نام پر چند احادیث پر عمل میں تشدد اور باقی احادیث کو نظر انداز کرتے ہیں اور جن مسائل میں دو پہلو ہو سکتے ہیں ان میں سے ایک ہی پہلو میں حق کو منحصر قرار دے کر دوسرے پہلو کو

قطعاً باطل سمجھتے ہیں، جب کہ یہ طرز فکر، کتاب و سنت کی تشریح میں اسلاف امت کے طرز عمل سے صریحاً متصادم ہے۔ گذشتہ چند دہائیوں میں اس فرقہ کو نئی قوت حاصل ہوئی جس کی بناء پر ان کی سرگرمیوں میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو گیا اور گذشتہ چند سالوں سے تو ان کی جارحیت تمام حدود کو پار کرتی جا رہی تھی، انتہاء یہ ہے کہ اس فرقہ کے تشددین کی زبان طعن سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نفوس قدسیہ بھی محفوظ نہیں تھے، اور ائمہ مجتہدین بالخصوص امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی تو ان کا شیوہ بن چکی ہے، ان کے اس ناروا طرز عمل سے امت میں ہيجان پیدا ہو رہا تھا، اور بعض مقامات پر حالات نزاعی صورت اختیار کرتے جا رہے تھے۔ اس لیے دارالعلوم دیوبند میں تحفظ سنت کے عنوان سے ۲۲ ربیع الثانی مطابق ۱۳ فروری ۲۰۱۳ء بروز بدھ ایک مشاورتی اجلاس منعقد کیا گیا جس میں ملک بھر کے ممتاز علمائے کرام اور ارباب مدارس نے شرکت کی۔ اجلاس نے واضح طور پر یہ پیغام دیا کہ امت کو ہر حال میں قرآن و سنت کا پابند رہنا اور کتاب و سنت کی تشریح اور اس پر عمل کے بارے میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ائمہ و اسلاف کے منہاج پر کاربند رہنا ضروری ہے۔ جو لوگ اس متواتر فکر و عمل کے خلاف نئی باتیں پیش کریں اور امت کو انتشار میں مبتلا کریں ان کی تردید کرنا اور ان کی غلطی کو واضح کرنا علمائے امت کا فرض منصبی ہے۔

❖ اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ سعودی حکومت اور علماء و مشائخ کو صحیح صورت حال سے واقف کرانے کے لیے، دارالعلوم دیوبند کی قیادت میں موقر علماء کا ایک وفد وہاں کا دورہ کرے اور اعلامیہ کے مطابق اجلاس کے اندیشوں اور جذبات سے حکومت سعودیہ کو واقف کرائے کہ غیر مقلدین، سعودی علماء و مشائخ کا نام لے کر عوام کو گمراہ کرتے ہیں، وہاں سے حاصل شدہ وسائل کا غلط استعمال کرتے ہیں اور اہل حق سے سعودی عرب کی حکومت اور علماء کو دور کرنے کے لیے غلط پروپیگنڈے کا سہارا لیتے ہیں، اور جالیات کے شعبہ تبلیغ کا بھی غلط استعمال کرتے ہیں، اس طرح وہ سعودی حکومت کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں اور امت میں تفریق پیدا کر رہے ہیں؛ لہذا حکومت سعودیہ کو چاہیے کہ وہ راہ سلف سے منحرف اس فرقے کی تائید و تقویت کے بجائے اس پر قدغن لگائے۔

❖ اجلاس تحفظ سنت کی تجویز کے مطابق دارالعلوم دیوبند کے ایک اعلیٰ سطحی وفد نے مہتمم دارالعلوم حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب کی سربراہی میں ۵ جولائی ۲۰۱۳ء (۵ رمضان) کو سعودی عرب کا سرکاری دورہ کیا اور سعودی عرب میں تقریباً ایک ہفتہ قیام کیا۔ وفد نے وزیر مذہبی امور شیخ صالح بن عبدالعزیز آل الشیخ سے ملاقات کی اور متعلقہ موضوع پر تفصیلی گفتگو کی۔ موصوف

نے اس سلسلہ میں ہر طرح کے تعاون کا یقین دلایا۔ اس دورہ میں وفد نے وزیر مذہبی امور کے علاوہ نائب وزیر مذہبی امور شیخ عبدالعزیز العمار، رئیس عام شئون حرمین شریفین شیخ عبدالرحمن السدیس، دیگر علماء و مشائخ مثلاً ڈاکٹر عبدالرحمن الزنیدی ڈاکٹر سلیمان بن صالح الغصن شیخ سعد البریک، شیخ سعد البریک شیخ زین العابدین رکابی شیخ عبدالوہاب الطریری اور شیخ ابراہیم الزید (امین عام للمجلس الاعلیٰ للشؤون الاسلامیہ) اور شیخ عبدالجید العمری (مدیر عام العلاقات الخارجیہ فی الوزارة) اور ہیئت کبار علماء سعودیہ کے اہم ارکان اور اساتذہ جامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ سے ملاقات اور تبادلہ خیال کیا۔ وفد کا یہ دورہ نہایت کامیاب رہا اور سعودی حکومت نے صاف لفظوں میں یقین دہائی کرائی کہ کہ امت میں تفریق پیدا کرنے والوں کو حرمین کی زمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔

❖ تحریک شیخ الہند کے سوسال مکمل ہونے پر دارالعلوم نے ”تحریک ریشمی رومال“ مصنفہ حضرت مولانا محمد میاں دیوبندیؒ کا انگریزی ترجمہ (Silk Letter Movement) شائع کیا جو مولانا محمد اللہ قاسمی نے انجام دیا۔ چار سو صفحات پر مشتمل اس کتاب کی طباعت مانگ پبلیکیشنز دہلی کے اشتراک و تعاون سے عمل میں آئی۔ یہ کتاب برطانوی ہند کی خفیہ سرکاری رپورٹوں پر مبنی ہے جو اس وقت انڈیا آفس لائبریری لندن میں محفوظ ہیں۔

❖ مسجد نبوی مدینہ منورہ کے موقر مہمانوں کے ایک وفد نے ۲۲ ربیع الثانی (مطابق ۶ مارچ ۲۰۱۳ء) بروز بدھ دارالعلوم دیوبند کا دورہ کیا۔ مہمانوں میں مدیر شیخ الحدیث مسجد نبوی مدینہ منورہ فضیلۃ الشیخ الدکتور محمد الخضیر می حفظہ اللہ، مسجد نبوی کے استاذ تفسیر الشیخ الدکتور عبدالجید سلیمان الرویلی اور معلم وزارت مذہبی امور الشیخ الدکتور عبداللہ الخضیر می شامل تھے۔ معزز مہمانوں کے استقبال میں جامع رشید میں بعد نماز مغرب ایک استقبالیہ جلسہ منعقد ہوا اور دیوبند میں مہمانوں کی تشریف آوری پر ان کا شکریہ ادا کیا گیا۔ مہمان حضرات نے بھی حاضرین سے خطاب کیا اور دارالعلوم دیوبند کی علمی و دینی خدمات کو سراہا۔ شیخ عبدالجید سلیمان الرویلی حفظہ اللہ نے دارالعلوم کے سلسلہ میں ایک نظم بھی پیش فرمائی۔

❖ دارالعلوم میں ۷ جمادی الاولیٰ ۱۴۳۴ھ مطابق ۲۰ مارچ ۲۰۱۳ء کو دو روزہ غلہ اسکیم کا جلسہ منعقد ہوا جس میں ہزاروں بھی خواہان دارالعلوم نے شرکت کی۔

❖ حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب مہتمم دارالعلوم نے ترکی کا دورہ کیا اور استنبول میں ”الاجماع والوعی الجمعی“ کے موضوع پر منعقد ہونے والی عالمی کانفرنس کی افتتاحی تقریب میں خطاب کیا۔

❖ دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے رکن اور مدرسہ اصغریہ دیوبند کے مہتمم حضرت مولانا سید میاں خلیل حسین صاحب کا ۱۵/ رمضان ۱۴۳۴ھ (مطابق ۲۵ جولائی ۲۰۱۳ء) بروز جمعرات کو انتقال ہوا۔

۱۵۳/۱۵۳۵ھ: ۱۴/۱۴-۲۰۱۳ء

❖ مملکت سعودی عرب کے وزیر برائے اسلامی امور و اوقاف شیخ صالح بن عبدالعزیز آل الشیخ حفظہ اللہ نے ۱۶ فروری ۲۰۱۴ء کو دارالعلوم کا دورہ فرمایا۔ وزیر محترم نے جامع رشید دارالعلوم میں منعقد جلسہ استقبالیہ کو خطاب کیا اور دارالعلوم کی ہمہ جہت دینی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر محترم کے ساتھ ۱۲ افراد پر مشتمل ایک اعلیٰ سطحی وفد بھی تھا۔ دارالعلوم دیوبند کے مہتمم حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے شیخ کو کلمہ اتحیہ والترحیب پیش فرمایا جس میں دارالعلوم دیوبند کے جامع تعارف کے ساتھ علمائے دیوبند اور سعودی مملکت کے مابین تعلقات کو اجاگر کیا۔

❖ ۱۵/ مارچ ۲۰۱۴ء مطابق ۱۳ جمادی الاولیٰ ۱۴۳۵ھ شنبہ کو وزارت اوقاف قطر سے وابستہ اہم علمی شخصیت سعادت الشیخ دکتور خالد بن محمد بن غانم آل ثانی کی قیادت میں ایک وفد نے ام المدارس دارالعلوم دیوبند کا دورہ کر کے رئیس الجامعہ حضرت مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب سمیت ادارہ کے ذمہ داران اور اساتذہ سے بھی خصوصی ملاقات کی اور ادارے کی لائبریری، مسجد رشید، اور دیگر اہم مقامات کا معائنہ کر کے دلی خوشی کا اظہار کیا۔

❖ دارالعلوم دیوبند میں قائم مدارس اسلامیہ کی کل ہند تنظیم رابطہ مدارس اسلامیہ کی مجلس عاملہ کا اہم اجلاس حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی مہتمم دارالعلوم دیوبند و صدر رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ کی زیر صدارت دارالعلوم کے مہمان خانہ میں منعقد ۲۳ جمادی الاولیٰ ۱۴۳۵ھ (۲۵/ مارچ ۲۰۱۴ء) کو منعقد ہوا جس میں ملک کے مختلف صوبوں سے ارکانِ عاملہ اور صوبائی صدور نے شرکت کی۔ نظامِ تعلیم و تربیت کی بہتری و استحکام اور رابطہ مدارس کو مزید فعال بنانے پر غور کرتے ہوئے مجلس عاملہ نے طے کیا کہ رابطہ کی صوبائی شاخوں کے ذریعہ مربوط مدارس کے معائنہ کا نظم قائم کیا جائے اور فوڈ بھیج کر مدارس کی تعلیم و تربیت، صفائی ستھرائی اور طلبہ کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا جائے، اور جائزے کی رپورٹ مرکزی دفتر رابطہ کو بھیجی جائے، نیز تعلیمی معیار بہتر بنانے اور طریقہ تدریس کی تربیت کے لیے ملک کے مختلف علاقوں میں معلمین کی تربیت کا نظم کیا جائے، مجلس نے ذمہ داران مدارس کو متوجہ کیا کہ رابطہ مدارس کے اجلاسوں میں منظور کردہ نظامِ تعلیم و تربیت اور ضابطہ اخلاق کے مطابق مدارس کے تعلیمی و انتظامی امور انجام دئے جائیں اور اپنے اپنے علاقوں میں مکاتب دینیہ کے قیام پر توجہ مرکوز رکھیں۔

❖ ۹ رمضان ۱۴۳۵ھ (۸ جولائی ۲۰۱۴ء) کو شرعی عدالتوں کے خلاف ۲۰۰۵ء میں دائر کی گئی ایک مفاد عامہ کی عرضی کو سپریم کورٹ نے خارج کر دیا۔ دارالعلوم سے جاری ہونے والے فتاویٰ بھی اس عرضی کے نشانے پر تھے۔ دارالعلوم دیوبند نے سپریم کورٹ کے اس اہم اقدام کا خیر مقدم کیا جس میں کہا گیا تھا کہ ہندوستان میں چلنے والی شرعی عدالتیں اور دارالافتاء محض وہی فیصلے دیتے ہیں جو دستور میں دی گئی مذہبی آزادی کے دائرے میں آتے ہیں، ان کو متوازی نظام عدالت کہنا درست نہیں۔

۱۵۴/۱۵۴ سال: ۱۴۳۶ھ/۱۵-۲۰۱۴ء

❖ حکومت ہند نے 'سوچہ بھارت ابھیان' کے سلسلے میں تعاون کے لیے دارالعلوم دیوبند کو خط لکھا جس کے جواب میں دارالعلوم نے اس صفائی مہم کا خیر مقدم کیا۔ بعد میں دارالعلوم کو اس مہم کا برانڈ ایمبیسیڈر بھی بنایا گیا۔

❖ ۱۳ محرم ۱۴۳۶ھ مطابق ۶ نومبر ۲۰۱۴ء کو رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ دارالعلوم دیوبند شاخ کیرالا کا ایک اہم اجلاس دارالعلوم دیوبند میں منعقد ہوا، جس میں کیرالا کے مدارس اسلامیہ کے اہم ذمہ داران اور اساتذہ کرام شریک ہوئے۔

❖ دارالعلوم کی مجلس شوریٰ نے اس سال کا بجٹ ستائیس کروڑ روپے منظور کیا۔

❖ ۲۴ دسمبر ۲۰۱۴ء مطابق ۲ ربیع الاول کو مملکت سعودی عرب میں ادارہ الدعوة والا رشاد کے زیر اہتمام عوامی سطح پر خدمات امام ابوحنیفہؒ کے موضوع پر ایک اہم سیمینار منعقد کیا گیا جس میں مہتمم دارالعلوم حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے شرکت کی اور پر مغز معلوماتی تقریر کی۔ اس سیمینار میں علمائے عرب کے علاوہ ہندوستان و پاکستان کے جید علمائے کرام بھی شریک ہوئے۔

❖ ملک میں ایک مخصوص نظریہ کی حامل جماعت کی حکومت قائم ہونے کے بعد تشویشناک سیاسی ماحول اور بالخصوص اقلیتوں میں پائے جانے والے خوف و ہراس کے بیچ کل ہند رابطہ مدارس اسلامیہ دارالعلوم دیوبند نے ۲۴ مارچ ۲۰۱۵ء مطابق ۳ جمادی الثانیہ کو رابطہ کی مجلس عمومی کا اجلاس منعقد کیا جس میں ساڑھے تین ہزار سے زائد مدارس کے مندوبین و نمائندگان نے شرکت کی۔ حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نے اپنے صدارتی خطبے میں کہا کہ مدارس اسلامیہ موجودہ عالمی یا ملکی حالات کے نتیجے میں مایوسی کا شکار نہ ہوں اور برادران وطن کے ساتھ رواداری اور باہمی ہم آہنگی کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے معاشرتی رشتے استوار کریں۔ انھوں نے علمائے کرام اور ذمہ داران مدارس سے کہا کہ موجودہ عالمی یا ملکی حالات کے نتیجے میں کسی قسم کی منفی سوچ یا مایوسی کا شکار ہونے سے پرہیز کریں اور مسلمانوں کو بھی مثبت انداز فکر کی

تلقین کریں۔ برادران وطن کے ساتھ رواداری اور پرامن بقائے باہم کے اصول پر عمل کرتے ہوئے غیر مسلم بھائیوں کو بھی مدارس سے براہ راست واقفیت کے مواقع فراہم کریں۔ انھوں نے نظام تعلیم، نصاب تعلیم اور نظام تربیت کے ساتھ ساتھ مدارس اسلامیہ کو اصلاح معاشرہ پر بھی خصوصی طور پر متوجہ کیا۔

❖ اس اجلاس میں مولانا سید ارشد مدنی استاذ حدیث دارالعلوم نے اپنا کلیدی خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ ہمارا ملک آزادی کے بعد اس وقت تاریخ کے سب سے نازک موڑ پر کھڑا ہے جہاں اس کا سیکولرزم اور آئین خطرے میں ہے۔ انھوں نے کہا کہ یہاں کی سیکولر روایات اور ہندوستان کا آئین ملک کے تمام باشندوں بالخصوص اقلیتوں کی بقا و ترقی کا ضامن ہے؛ اس لیے ضروری ہے کہ ارباب مدارس اپنی چہار دیواریوں سے نکلیں اور برادران وطن کے درمیان حائل نفرت کی دیوار کو ڈھادیں۔ انھوں نے زور دیا کہ ملک کے موجودہ نازک ترین حالات میں ارباب مدارس اپنا دینی و ملی کردار ادا کریں اور بلا لحاظ مذہب و ملت برادران وطن کے درمیان محبت و اخوت اور ہم آہنگی کے پیغام کو عام کریں۔ اس اجلاس سے دیگر ممتاز علمائے کرام نے بھی خطاب کیا۔ اجلاس کے اخیر میں اتفاق رائے سے حکومت ہند کو اس کی ذمہ داریوں کی یاد دہانی، موجودہ حالات اور مدارس کو درپیش مسائل و مشکلات کے حل، معیار تعلیم و تربیت اور داخلی نظام بہتر بنانے کی ضرورت اور اصلاح معاشرہ میں مدارس کے کردار وغیرہ اہم امور سے متعلق تجاویز منظور کی گئیں۔

❖ ۱۳ رجب ۱۴۳۶ھ مطابق ۳ مئی ۲۰۱۵ء کو جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد میں رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ دارالعلوم دیوبند کی شاخ مغربی یوپی (زون ۲) کا نمائندہ اجلاس منعقد ہوا۔

❖ ۲۰/۱۹ ذی قعدہ ۱۴۳۶ھ مطابق ۲۴/۲۵ ستمبر ۲۰۱۵ء بروز جمعہ و شنبہ کو دارالعلوم رحیمیہ بانڈی پورہ کشمیر میں رابطہ مدارس صوبہ جموں کشمیر کی مجلس عمومی کا اہم اجلاس منعقد ہوا۔

۱۵۵ رواں سال: ۱۴۳۷ھ/۱۶-۲۰۱۵ء

❖ ۱۸ اکتوبر ۲۰۱۵ء مطابق ۴ محرم ۱۴۳۷ھ کو حضرت مولانا نظام الدین صاحب رکن مجلس شوریٰ دارالعلوم دیوبند و جنرل سکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا انتقال ہوا۔

❖ ۱۵ محرم ۱۴۳۷ھ مطابق ۲۹ اکتوبر ۲۰۱۵ء کو رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ کی مغربی بنگال شاخ کا سترہواں نمائندہ اجلاس کو لکنا شاہر میں حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی مہتمم دارالعلوم دیوبند و صدر رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ کی زیر صدارت منعقد ہوا جس میں مربوط مدارس اسلامیہ کے تقریباً ایک ہزار نمائندہ علماء کرام نے شرکت فرمائی۔

- ❖ ۲۰ صفر ۱۴۳۷ھ مطابق ۱۹ نومبر ۲۰۱۵ء بروز جمعرات، جامعہ اعزاز العلوم ویٹ ہاپوڈ میں رابطہ مدارس مغربی یوپی (زون ۱) کی مجلس عمومی کا اہم اجلاس منعقد ہوا۔
- ❖ ۲۷ صفر ۱۴۳۷ھ مطابق ۱۰ دسمبر ۲۰۱۵ء بروز جمعرات، دارالعلوم پوکرن راجستھان میں جناب مولانا قاری محمد امین صاحب زید مجدہ، صدر رابطہ مدارس اسلامیہ شاخ راجستھان کے زیر اہتمام راجستھان رابطہ مدارس کی مجلس عمومی کا اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں صوبے کے تقریباً تمام رکن مدارس کے نمائندگان، ذمہ داران و اساتذہ کرام نے شرکت فرمائی۔
- ❖ ۲۵ جمادی الاولیٰ ۱۴۳۷ھ مطابق ۶ مارچ ۲۰۱۶ء کو دارالعلوم دیوبند میں، کل ہند رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ کی مجلس عاملہ کا اہم اجلاس زیر صدارت حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی زید مجدہ ہم، مہتمم دارالعلوم دیوبند و صدر رابطہ مدارس اسلامیہ منعقد ہوا، اس موقع پر اپنے صدارتی خطاب میں حضرت والا نے فرمایا کہ: مدارس اسلامیہ ملت کا قیمتی اثاثہ ہیں، آج پہلے سے زیادہ اس کی ضرورت ہے کہ ملک کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے مدارس اپنے تاریخی کردار کی روشنی میں اکابر دیوبند کے مقرر کردہ نچ کے مطابق تعلیم و تربیت، اسلام کے دفاع، معاشرے کی اصلاح اور ملک و ملت کی تعمیر و ترقی میں اپنا ٹھوس کردار ادا کریں۔ حضرت والا زید مجدہ ہم نے مزید فرمایا کہ علماء کرام اور مدارس کے ذمہ داران، مسلمانوں کی صحیح رہ نمائی، ملک میں رواداری، امن و آشتی کے فروغ اور مدارس کے نظام کو مستحکم کرنے کے لیے خصوصی جدوجہد جاری رکھیں۔ اجلاس میں دارالعلوم دیوبند کے ذمہ داران اور اساتذہ کرام کے علاوہ مختلف صوبوں کے نمائندے اور ارکان عاملہ نے شرکت کی۔
- ❖ ۵ اپریل ۲۰۱۶ء مطابق ۲۶ جمادی الثانیہ ۱۴۳۷ھ کو امام حرم مکی فضلیہ الشیخ الدكتور صالح محمد ابن ابراہیم آل طالب نے ایک وفد کے ساتھ دارالعلوم دیوبند کا دورہ کیا۔ مہمان مکرم بذریعہ پہلی کا پٹر دیوبند تشریف لائے، مسجد رشید میں ہونے والے استقبال پر پروگرام میں خطاب کیا اور ظہر کی نماز کی امامت بھی فرمائی۔ امام حرم شیخ صالح نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک مینارہ نور کی حیثیت رکھتا ہے اور دارالعلوم دیوبند کے علماء نے ایسے عظیم الشان علمی کارنامے انجام دیے جن کی گونج دنیا کے کونے کونے تک پہنچی ہے۔ انھوں نے سعودی عرب کے حکام، علماء اور عوام کی طرف سے ہندوستانی مسلمانوں کو سلام پیش کیا اور تمام مسلمانوں کے درمیان محبت و اتحاد اور ربط باہمی کی ضرورت پر زور دیا۔ انھوں نے کہا کہ سعودی عرب تمام مسلم ممالک اور عوام کے ساتھ باہمی رابطہ و اتحاد کو فروغ دینے کا خواہش مند ہے۔
- ❖ شعبہ انگریزی زبان و ادب میں دو سالہ کورس کی بابت یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس میں ہر سال داخلے لیے جائیں گے۔

۱۵۶ رواں سال: ۱۳۳۸ھ / ۱۷-۲۰۱۶ء

❖ انڈین نیشنل گانگریس کے نائب صدر جناب رائل گاندھی نے ۵/ اکتوبر ۲۰۱۶ء کو دارالعلوم دیوبند کا دورہ کیا۔

❖ برسر اقتدار بھارتیہ جنتا پارٹی کے ذریعہ تین طلاق اور تعدد از دواج پر پابندی عائد کرنے کے سلسلہ میں جاری کوششوں کے درمیان دارالعلوم دیوبند نے واضح انداز میں کہا کہ ہمارا ملک جمہوری ہے، یہاں ہر شخص کو مذہبی آزادی حاصل ہے، حکومت یا عدالت کی جانب سے مسلم پرسنل لاء میں مداخلت اور سماجی اصلاح کے بہانے پرسنل لاء میں تبدیلی کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔ تین طلاق اور تعدد از دواج مسلم پرسنل کا لازمی حصہ ہیں۔ یہ کسی طرح مناسب نہیں کہ مرکزی حکومت یا عدالت عالیہ کی کسی کارروائی سے کسی بھی طبقہ میں بے اطمینانی پیدا ہو اور اسے وہ اپنے پرسنل لاء اور مذہبی امور میں مداخلت تصور کرے، کیوں کہ دستور ہند بھی مذاہب اور فرقوں کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا حق دیتا ہے، ان حالات میں مسلم پرسنل لاء میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی ناقابل قبول ہے۔

❖ دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوری نے آنتیس کروڑ، اہتر لاکھ، پچانوے ہزار روپے کے بجٹ کو منظوری دی۔

❖ مولانا محمد سعد کاندھلوی کے بعض غلط نظریات و افکار اور قابل اشکال بیانات کے سلسلہ میں ملک و بیرون ملک سے آمدہ خطوط و سوالات کے پیش نظر دارالعلوم دیوبند کے اکابر اساتذہ کرام اور جملہ مفتیان کرام کے دستخط سے ایک متفقہ موقف عام اختیار کیا گیا اور مولانا سعد صاحب کو اس سے مطلع کیا گیا۔ دارالعلوم دیوبند نے اکابر کی قائم کردہ جماعت تبلیغ کے مبارک کام کو غلط نظریات اور افکار کی آمیزش سے بچانے اور اکابر کے مسلک و مشرب پر قائم رکھنے، نیز جماعت کی افادیت اور علمائے حق کے درمیان اس کے اعتماد کو باقی رکھنے کے لیے اس اقدام کو ضروری سمجھا۔

❖ مجلس شوری کے اجلاس منعقدہ ۶ نومبر ۲۰۱۷ء مطابق صفر ۱۴۳۹ھ میں حضرت مولانا اسرار الحق صاحب قاسمی بہار، حضرت مولانا عبد الصمد صاحب بنگال، حضرت مولانا محمود حسن صاحب راجستھان، حضرت مولانا انظر حسین صاحب دیوبند اور حضرت مولانا نظام الدین خاموش ممبئی کو مجلس شوری کا رکن منتخب کیا گیا۔

❖ دارالعلوم دیوبند کے مایہ ناز استاذ حدیث و شیخ ثانی حضرت مولانا عبدالحق اعظمی کا ۳۰ دسمبر ۲۰۱۶ء کی شام کو ایک مختصر علالت کے بعد دیوبند میں انتقال ہوا۔

❖ یکم فروری ۲۰۱۷ء مطابق ۳ جمادی الاولیٰ ۱۴۳۸ھ کو مسجد نبوی کے اساتذہ حدیث و فقہ (شیخ حامد اکرم البخاری، شیخ عامر بن محمد فداء، بہجت) کی دارالعلوم تشریف آوری اور مسجد رشید میں جلسہ استقبالیہ۔

❖ ۷ مارچ ۲۰۱۷ء مطابق ۸ جمادی الثانیہ ۱۴۳۸ھ کو رابطہ مدارس اسلامیہ دارالعلوم دیوبند کی مجلس عاملہ کا کل ہند اجلاس دارالعلوم دیوبند میں منعقد ہوا، جس میں ملک کے مختلف صوبوں سے مجلس عاملہ کے ارکان اور مدعوین خصوصی شریک ہوئے۔ اجلاس میں تحفظ شریعت، تحفظ مدارس، نظام تعلیم و تربیت میں استحکام، رابطہ کی صوبائی شاخوں کی ترقی وغیرہ امور سے متعلق اجتماعی غور و خوض کے بعد اہم فیصلے کیے گئے۔

❖ دارالعلوم دیوبند کے رکن شوری اور مدرسہ حسینہ رانچی کے بانی و مہتمم حضرت مولانا زہر صاحب کا ۱۳ مئی ۲۰۱۷ء مطابق ۱۶ شعبان ۱۴۳۸ھ بروز شنبہ رانچی میں انتقال ہوا۔

❖ ۲۳ شعبان ۱۴۳۸ھ / ۲۰ مئی ۲۰۱۷ء کو دارالعلوم دیوبند کے مایہ ناز استاذ حدیث اور سابق ناظم تعلیمات حضرت مولانا ریاست علی صاحب بجنوری کا مختصر علالت کے بعد دیوبند میں انتقال ہوا۔

۱۵۷ ارواں سال: ۱۴۳۹ھ / ۱۸-۲۰۱۷ء

❖ دارالعلوم کی عظیم الشان شیخ الہند لائبریری تقریباً پایہ تکمیل کو پہنچنے والی ہے جو باب الظاہر کے مغرب میں واقع سات منزلوں پر مشتمل سربہ فلک گول عمارت ہے اور اس کا کل تعمیری رقبہ دو لاکھ باسٹھ ہزار مربع فٹ پر مشتمل ہے۔ اس عمارت کے نیچے تہہ خانہ میں بیالیس ہزار مربع فٹ کا ایک بڑا ہال تعمیر کرایا گیا ہے جو امتحانات اور کانفرنسوں کے موقع پر کام آئے گا۔ اس سے اوپر کی دو منزلیں درس حدیث کے لیے تیار ہو چکی ہیں، جس کا رقبہ بہتر ہزار اسکوائر فٹ ہے۔ اس عمارت کے اوپر کی چار منزلیں لائبریری کے لیے مخصوص ہیں۔ یہ لائبریری تمام جدید سہولیات سے آراستہ ہوگی۔ لائبریری میں اردو، عربی، انگریزی، ہندی اور دیگر زبان و مذاہب کے لیے مختلف ہال ہوں گے اور ہر ہال میں دینی و سماجی تمام موضوعات و مذاہب کی کتابیں رکھی جائیں گی۔ اسی لیے دارالعلوم نے مصنفین و مولفین، ناشرین کتب اور اصحاب خیر سے اپیل کی کہ دارالعلوم دیوبند کی اس عظیم الشان لائبریری کے لیے کتابوں کو وقف فرمائیں۔

❖ دارالعلوم میں ۲۳-۲۴ جمادی الثانیہ ۱۴۳۹ھ / ۱۲-۱۱ مارچ ۲۰۱۸ء کو کل ہند رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ کی مجلس عاملہ اور مجلس عمومی کا اجلاس منعقد کیا گیا جس میں ہندوستان اور نیپال کے ہزاروں مدارس کے ذمہ دار علمائے کرام، دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوری کے محترم اراکین، رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ کی مجلس عمومی کے تین ہزار سے زائد اراکین اور مدعوین خصوصی حضرات نے شرکت کی۔ اجلاس میں ارباب مدارس کو متوجہ کیا گیا کہ وہ مدارس کو قانونی پہلو سے مضبوط بنائیں، مدرسہ کی جائیداد کے کاغذات درست رکھیں، رجسٹریشن سے غافل نہ ہوں اور کوئی ایسا رخنہ نہ چھوڑیں جہاں سے کسی سرکاری ایجنسی کو مداخلت کا موقع ملے۔ اہل مدارس کو تاکید کی گئی کہ مدارس کے داخلی نظام کو

بہتر سے بہتر بنائیں، شورائی نظام کو مستحکم کریں، مالیات کا نظم شفاف رکھا جائے، حسابات کو آڈٹ کرنے کا اہتمام کیا جائے اور مدارس کو ہر قسم کی حکومتی امداد سے محفوظ رکھا جائے۔

❖ دارالعلوم وقف کے صدر مہتمم حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی کا دیوبند میں ۱۴ اپریل ۲۰۱۸ء کو انتقال ہوا۔

۱۵۸ رواں سال: ۱۴۴۰ھ/۱۹-۲۰۱۸ء

❖ سال رواں کے لیے پینتیس کروڑ روپے کے بجٹ کو منظوری دی گئی۔

❖ ۷ ارب دسمبر ۲۰۱۸ء کو علمائے پاکستان کے ایک پانچ رکنی پارلیمانی وفد نے دارالعلوم کا دورہ کیا۔ وفد میں مولانا عطاء الرحمن ممبر پارلیمنٹ، مولانا صلاح الدین ایوبی ممبر پارلیمنٹ، مولانا اسعد محمود (فرزند حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب) ممبر پارلیمنٹ، مولانا عبدالواسع اور مولانا عبدالشکور شامل تھے۔

❖ اسٹیٹ انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز سرکارِ تانڈونیشیا کے ایک پانچ رکنی وفد نے ۲۷ دسمبر ۲۰۱۸ء کو دارالعلوم دیوبند کا دورہ کیا۔ اس وفد میں انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز کے ریکٹر ڈاکٹر مدفر عبداللہ اور ڈاکٹر شمس الباقری وائس ریکٹر وغیرہ اہم اراکین شامل تھے۔ وفد نے دارالعلوم دیوبند سے علمی رابطہ کی پیشکش کی اور دارالعلوم کے عالمی کردار کی تعریف کی۔

❖ جامع ازہر مصر کے شیخ ڈاکٹر یاسر امام محمد اور بحرین کے اسلامی رائٹر الشیخ خالد بن محمد الانصاری نے ۳ جنوری ۲۰۱۹ء کو دارالعلوم کا دورہ کیا۔ نیز، ۲ فروری کو پیدۃ علماء فلسطین فی الخارج کے دو اہم فلسطینی علماء الشیخ ڈاکٹر ابراہیم مہنا (رئیس پیدۃ لجنۃ الحجوت والدراسات) اور الشیخ علی یوسف آل یوسف (مسؤل العلاقات والاعلام، رابطۃ علماء فلسطین، لبنان) نے دارالعلوم کا دورہ کیا۔

❖ ایران کی مشہور دانش گاہ المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی کے وائس چانسلر علی عباسی کی قیادت میں ایک سات رکنی وفد نے ۷ اپریل ۲۰۱۹ء کو دارالعلوم دیوبند کا دورہ کیا۔ انھوں نے خواہش ظاہر کی کہ دارالعلوم دیوبند اور المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی کے درمیان علمی اور تحقیقی تبادلوں کا آغاز ہو۔

❖ ۱۰ دسمبر ۲۰۱۸ء کو عیسائی پادریوں کے ایک گیارہ رکنی وفد نے دارالعلوم کا دورہ کیا۔ ان فرمی اس وفد میں ہندوستانی کیتھولک عیسائیوں کے اعلیٰ مذہبی قائد بشپ فادر جان باسکو، ہندوستان کے کانونٹ اسکولوں کے مذہبی سربراہ اور کیتھولک بشپ کانفرنس کے قومی سکریٹری فادر نکولس برلا وغیرہ شامل تھے۔ ان حضرات نے باہمی تعلقات پر زور دیا اور مسجد قدیم میں ظہر کی نماز باجماعت

میں شرکت کی۔

- ❖ دارالعلوم دیوبند کے موقر استاذ عربی ادب حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی صاحب کو عربی زبان و ادب کی نمایاں خدمات کے لیے ۲۰۱۷ء صدر جمہوریہ ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا۔
- ❖ مجلس شوریٰ کے موقر رکن اور ممبر پارلیمنٹ حضرت مولانا اسرار الحق قاسمی کا جمعرات کی شب ۷ دسمبر ۲۰۱۸ء مطابق ۲۸ ربیع الاول ۱۴۴۰ھ کو ان کے وطن کشن گنج (بہار) میں انتقال ہوا۔
- ❖ دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے موقر رکن اور تمیل ناڈو کے مشہور عالم دین حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب قاسمی کا ۳ فروری ۲۰۱۹ء مطابق ۲۷ جمادی الاولیٰ ۱۴۴۰ھ کو چھٹی میں انتقال ہوا۔
- ❖ دارالعلوم دیوبند کے مقبول و معروف استاذ حدیث حضرت مولانا جمیل احمد سکروڈوی کا ۳۱ مارچ ۲۰۱۹ء مطابق ۲۳ رجب ۱۴۴۰ء، اتوار کو انتقال ہوا۔
- ❖ ۳ فروری ۲۰۱۹ء کو رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ دارالعلوم دیوبند کی مجلس عاملہ کا ۱۱م اجلاس منعقد ہوا جس میں ملک کی تمام ریاستوں سے تعلق رکھنے والے مجلس عاملہ کے اراکین نے شرکت کی۔
- ❖ اس سال مرکزی حکومت نے انتہائی ہٹ دھرمی اور ضد کا مظاہرہ کرتے ہوئے تین طلاق بل کو پہلے آرڈیننس کے ذریعہ نافذ کیا اور پھر پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے پاس کر کے اسے قانونی شکل دے دی۔ مرکزی حکومت نے اس سلسلے میں متعلقہ کمیونٹی، خواتین، علمائے کرام، ماہرین قانون اور اپوزیشن کی آراء کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ دارالعلوم دیوبند نے اس موقع پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے مذہبی معاملات میں مداخلت اور ناقابل قبول قرار دیا۔

مآخذ:

- کاروائی اجلاسہائے مجلس شوریٰ و مجلس عاملہ، دارالعلوم دیوبند
- ماہنامہ دارالعلوم اور مجلہ الداعی کی فائلیں
- آئینہ دارالعلوم کی فائلیں وغیرہ

جامعہ طبیہ دارالعلوم دیوبند

ہمارے اکابر علماء عام طور پر فن طب سے مناسبت رکھتے تھے۔ دارالعلوم دیوبند کے سرپرست قطب العالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ ماہر طبیب اور حاذق معالج تھے۔ ان سے استفادہ کر کے بہت سے ماہرین طب پیدا ہوئے۔ چنانچہ ہمارے اکابر و اسلاف دیگر فنون کے ساتھ ساتھ طب کا فن بھی پڑھا دیا کرتے تھے۔ بہت سے فضلاء دارالعلوم اسی تعلیم کے ذریعہ فن طب میں اچھی خاصی دسترس حاصل کر لیا کرتے تھے اور اس کے ذریعہ رزق حلال کے حصول میں بھی کامیاب ہوتے تھے۔

دارالعلوم دیوبند کے قیام کے محض تیرہ سال بعد ۱۲۹۶ھ/۱۸۷۹ء میں دارالعلوم میں باضابطہ طب کی کتابیں نصاب میں شامل کی گئیں۔ حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتویؒ اس زمانے میں طب سے متعلق کتابیں بھی پڑھاتے تھے۔ ۱۳۰۱ھ/۱۸۸۴ء میں شعبہ طب کا قیام بھی عمل میں آیا اور طب کی تعلیم کے ساتھ علاج و معالجہ کی خدمات کا بھی نظم کیا گیا۔ اس وقت مولانا حکیم محمد حسن صاحبؒ برادر خور و حضرت شیخ الہندؒ کا تقرر ہوا۔ حکیم صاحب نے ۱۳۴۵ھ تک درس فقہ و حدیث کے ساتھ ساتھ فن طب کی تعلیم دی اور طلبہ دارالعلوم کا علاج و معالجہ بھی کیا۔ اسی طرح بعض طلبہ نے حضرت مولانا علامہ کشمیریؒ سے بھی طب کی تعلیم حاصل کی جن میں سب سے نمایاں نام مولانا حکیم سید محفوظ علی دیوبندیؒ کا ہے۔ ۱۳۲۹ھ میں اس کو مستقل شعبے کی شکل دی گئی۔

۱۳۴۵ھ سے ۱۳۴۸ھ کے درمیان مولانا حکیم سید مرتضیٰ حسن صاحب اس شعبے سے وابستہ رہے۔ ۱۳۴۸-۴۹ھ میں حکیم رمضان الحق صاحب لکھنؤ پوری نے اس شعبے کی خدمت کی۔ محرم ۱۳۵۰ھ سے اس شعبے کی آبیاری اور باغبانی کے لئے مولانا حکیم محمد عمر صاحب دیوبندی کا بہ حیثیت مدرس و طبیب انتخاب عمل میں آیا۔ حضرت حکیم صاحب بعد میں جامعہ طبیہ کے پرنسپل بھی مقرر ہوئے اور دارالعلوم میں ۱۳۱۵ھ تک طبی خدمات سے وابستہ رہے۔ مولانا حکیم محمد انیس صاحب دیوبندی بھی اسی شعبے سے ۱۳۷۴ھ میں وابستہ ہو گئے تھے اور ۱۳۱۵ھ تک طبی خدمات انجام دیں۔

جامعہ طبیہ کا قیام اور خدمات

آزادی کے بعد ملک کی فنی و تعلیمی ضروریات اور وقت کے تقاضے کے پیش نظر مجلس شوریٰ کے فیصلے سے ۱۳۶۶ھ/۱۹۴۷ء میں ایک مجلس طبی کا قیام عمل میں آیا جس میں ملک کے مشہور اور قابل اکابر اطباء کو رکن منتخب کیا گیا

اور حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند اس مجلس کے صدر منتخب کیے گئے۔ اس مجلس طبی نے ایک دستور العمل مدون کیا اور کالج و ہسپتال کے لیے ضروری تعمیرات اور ساز و سامان کی تجاویز منظور کیں اور اعلیٰ معیاری نصاب ترتیب دیا اور اس ادارہ کا نام 'جامعہ طبیہ' منظور کیا گیا۔ حضرت حکیم محمد عمر صاحب جامعہ طبیہ کے پرنسپل مقرر کیے گئے۔

۱۳۷۲ھ/۱۹۵۲ء میں اس شعبہ کو توسیع دی گئی اور دارالشفاء (ہسپتال) کا قیام عمل میں آیا۔ ۱۳۷۵ھ/۱۹۵۵ء میں وقف کرنال کی طرف سے دارالعلوم کو ایک معقول رقم ملنے کے بعد دارالعلوم سے متصل ایک وسیع قطعہ اراضی خرید کر لاکھوں روپے کے صرفے سے تعلیم و معالجہ کے لیے عمارتیں تعمیر کی گئیں، کتابوں اور ضروری سامانوں کی فراہمی کی گئی۔ دارالشفاء میں مفرد، مرکب اور پینٹ ادویہ کے ساتھ چار پائیوں، بستروں اور تیمارداری کا بھی ضروری سامان موجود تھا۔ معالجہ طلبہ کی حد تک محدود نہیں کیا گیا، بلکہ بلا تخصیص مذہب و ملت سب کا علاج کیا جاتا۔ ۱۳۹۱ھ/۱۹۷۱ء میں دارالشفاء (عظمت ہسپتال) کی عمارت کی تکمیل ہوئی جو دو بڑے ہال، چار کمروں اور برآمدوں پر مشتمل تھی۔ شیخ الہند منزل کے سامنے دارالشفاء کی یہ قدیم بلڈنگ اس وقت بوسیدہ حالت میں موجود ہے۔

۱۹۶۰ء میں منتظمین کی کوششوں سے حکومت نے ملک کے دیگر طبیہ کالجوں کی طرح دارالعلوم کے جامعہ طبیہ کی سند کو تسلیم (ریگنٹائز) کر کے فارغین کو مجاز مطب قرار دیا؛ چنانچہ جامعہ طبیہ میں جدید نظام کے تحت چار سالہ نصاب تیار ہوا اور اپریل ۱۹۶۰ء مطابق ۱۳۸۰ھ سے تعلیم کا آغاز ہوا۔ اس چار سالہ طبی کورس کے ذریعہ فن طب کی علمی اور عملی تعلیم دی جاتی۔ اسی دوران دارالعلوم کے شمال میں جامعہ طبیہ کی ایک وسیع اور شان دار عمارت تیار ہوئی جس میں درس گاہوں کے علاوہ مریضوں کے بستروں کا بندوبست بھی کیا گیا تھا۔ دارالعلوم کی روایات کے مطابق طلبہ سے کسی قسم کی فیس نہیں لی جاتی تھی۔ طلبہ کو مفت تعلیم کے ساتھ مفت قیام و طعام وغیرہ کی سہولیات فراہم کی جاتی تھیں۔

جامعہ طبیہ سے پہلی جماعت ۱۹۶۴ء میں فارغ ہوئی اور اسے بی ٹی ایم ایس (BTMS) یعنی طبی میڈیسن و سرجری میں پیچلر ڈگری دی گئی۔ ۱۹۶۸ھ تک یہ سلسلہ قائم رہا اور ۳۳ (تینتیس) طلبہ کو کورس کی تکمیل کے بعد یہ ڈگری تفویض کی گئی۔ ۱۹۶۸ء میں بورڈ آف میڈیسن یو پی نے بی ٹی ایم ایس کی ڈگری منسوخ کر دی اور جن کا رجسٹریشن ہو گیا تھا، ان کو ڈگری واپس کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ ۱۹۶۹ء سے چار سالہ کورس کی بنیاد پر ڈپلومہ سند فاضل الطب (ڈی یو ایم) دیے جانے کا سلسلہ شروع ہوا جو تا اختتام جامعہ طبیہ (۱۹۸۶ء تک) جاری رہا۔ ۲۵ سال کے دوران جامعہ طبیہ سے کل ۳۶۸ فضلاء نے تعلیم طب کی تکمیل کر کے سند حاصل کی۔ ۱۹۶۰ء میں جامعہ طبیہ کے قیام سے قبل دارالعلوم کے شعبہ طب سے وابستہ رہ کر بے شمار طلبہ نے طب کی تعلیم حاصل کی اور ان میں سے سیکڑوں ماہرین طب پیدا ہوئے۔

جامعہ طبیہ کو ہمیشہ ماہرین اساتذہ اور حاذق اطباء کی خدمات حاصل رہیں۔ حضرات اساتذہ اور معالجین عظمت ہسپتال کی فہرست نویں باب میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ دارالعلوم دیوبند کا ایک نہایت مفید

اور فعال شعبہ تھا۔ اس ادارہ سے سیکڑوں فضلاء طب نے تکمیل فن کے بعد میدان عمل میں قدم رکھا اور اپنی فنی مہارت و حذاقت سے خلق خدا کو فائدہ پہنچایا۔ دارالعلوم کے فیض یافتہ چند ممتاز ترین طبی شخصیات میں حکیم جمیل الدین ٹگینوی استاذ حکیم اجمل خاں، حکیم حکیم الدین، بجنوری، حکیم عبدالوہاب غازی پوری ثم دہلوی نابینا، حاذق الاطباء حکیم سید محفوظ علی دیوبندی، مولانا حکیم عبدالجلیل نابینا لکھنوی، مولانا حکیم محمد زماں حسینی کلکتوی، مولانا حکیم انیس احمد دیوبندی، مولانا حکیم عبدالقدوس دیوبندی قابل ذکر ہیں۔

جامعہ طبیہ اجلاس صد سالہ کے بعد

شعبان ۱۴۰۲ھ مطابق ۱۹۸۲ء کی مجلس شوریٰ کے اجلاس میں جامعہ طبیہ کی طبی کمیٹی کا جدید انتخاب عمل میں آیا جس میں حکیم عبدالحمید صاحب ہمدرد، مولانا حکیم افہام اللہ صاحب علی گڑھ، مولانا حکیم محمد زماں صاحب کلکتہ، حکیم عبدالجلیل صاحب دہلی، حکیم محمد طیب صاحب پرنسپل طبیہ کالج علی گڑھ، حکیم شکیل احمد شمسی لکھنؤ اور حکیم سیف الدین طیب صدر جمہوریہ، میرٹھ رکن منتخب ہوئے۔ اس سے ایک سال بعد جامعہ طبیہ میں ترمیم شدہ نصاب تعلیم کی منظوری عمل میں آئی۔

جیسا کہ اوپر ذکر ہوا کہ جامعہ طبیہ کے فضلاء کو اولاً چار سالہ نصاب کی تکمیل کے بعد ڈگری دی جاتی تھی، لیکن ۱۹۶۸ء میں میڈیسن بورڈ نے ڈگری کو منسوخ کر کے ڈپلومہ کی سند کو منظوری دی۔ شعبان ۱۴۰۳ھ مطابق ۱۹۸۳ء کی مجلس شوریٰ کے اجلاس میں جامعہ طبیہ کی ترقی کی بابت غور و خوض ہوا اور ڈگری کورس کے دوبارہ اجراء کی منظوری کے لیے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی بنائی گئی۔ نیز ڈگری کورس کے اجراء کے لیے جو شرائط و لوازم تھے ان کے انصرام و اہتمام کی ذمہ داری اس کمیٹی کو دی گئی۔

صفر ۱۴۰۴ھ میں مجلس شوریٰ نے اپنے طور پر جامعہ طبیہ کے لیے نئے ڈگری کورس کے آغاز کی اجازت دے دی اور پری طب کے لیے ابتدائی طور پر بیس ہزار روپے کی منظوری بھی دے دی۔ اسی کے ساتھ ساتھ کمیٹی کو پابند کیا گیا کہ وہ ڈگری کورس کو گورنمنٹ سے منظور کرانے کے لیے ایسی جدوجہد کرے کہ گورنمنٹ کا ڈگری کورس کو تسلیم کرنا دارالعلوم کی روایات کے خلاف اور اس کے بنیادی کردار پر اثر انداز نہ ہو۔

لیکن جامعہ طبیہ میں ڈگری کورس کے اجراء کی یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ اس سلسلے میں کمیٹی نے جو رپورٹ پیش کی اس کے مطابق ڈگری کورس کی سرکاری منظوری کی شکل میں ایسی شرائط تھیں جن کا دارالعلوم متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ چنانچہ اجلاس مجلس شوریٰ شعبان ۱۴۰۴ھ کے مطابق:

”انتہائی افسوس اور رنج کے ساتھ اپنی بے پناہ خواہش اور جذبہ صادق کے باوجود یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ جامعہ طبیہ میں ڈگری کورس جاری کرنے اور اس کو چلانے کی شکل سمجھ میں نہیں آتی۔ لہذا شوریٰ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ آنے والے سال میں جامعہ کا نیا داخلہ ڈگری کورس میں نہ لیا جائے۔“ (تجویز ۵)

چنانچہ مجبوراً حسب سابق پھر ڈپلومہ کورس میں داخلے ہوئے اور تعلیمی سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن بالآخر کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ ۱۹۰۶ء میں دارالعلوم کو یہ ڈپلومہ کورس بھی موقوف اور جامعہ طیبہ کو تحلیل کرنا پڑا۔

جامعہ طیبہ کو کیوں تحلیل کرنا پڑا؟

پہلے طبابت کے پیشے پر کوئی پابندی نہیں تھی، ہر طبیب آزادی کے ساتھ یہ پیشہ اختیار کرتا تھا اور اس کے ذریعہ حصول رزق اور خدمت خلق دونوں فریضے انجام دیا کرتا تھا۔ لیکن رفتہ رفتہ یہ پیشہ مختلف پابندیوں سے گھرتا چلا گیا۔ حکومت کی طرف سے اس فن کی تعلیم کے لیے باضابطہ اجازت اور طبیعوں کے لیے رجسٹریشن اور سرٹیفکیٹ لازم ہو گئے۔ حکومت نے فن طب کی تعلیم کے لیے دو مراتب مقرر کیے: ایک ڈپلومہ کورس، دوسرا ڈگری کورس۔ دونوں مراتب تعلیم کے نصاب و نظام میں طب یونانی کو کم اور موجودہ میڈیکل سائنس کو زیادہ حصہ دیا گیا۔ چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ ان نصابوں کو پڑھ کر نکلنے والے فضلاء طبیب کم اور ڈاکٹر زیادہ ہونے لگے اور اس عنوان سے وہ اپنے آپ کو متعارف کرنا پسند کرنے لگے۔

دارالعلوم نے جامعہ طیبہ اس توقع کے ساتھ قائم کیا تھا کہ اپنے اسلاف و اکابر کے انداز پر فضلاء دارالعلوم کو طب کی تعلیم دے کر قدیم روایات کو پروان چڑھایا جائے گا، لیکن حکومت کی طرف سے لگائی گئی پابندیوں کے پیش نظر دارالعلوم کے لیے جامعہ طیبہ کو منظور کرانے اور طلبہ کے لیے رجسٹریشن کی ضرورت پڑی۔ دارالعلوم نے ان دونوں کاموں کے لیے مسلسل اور برہاس کوشش کی اور خطیر رقم صرف کی، لیکن کوئی حل نہیں نکلا سکا کہ جامعہ طیبہ میں ڈگری کورس کس طرح جاری کیا جائے اور اس کا نظام حکومت کی پابندیوں اور یونیورسٹیوں کی قید و بند سے آزاد بھی ہو اور طلبہ کے لیے اونچی سند بھی حاصل کی جاسکے۔

بالآخر مجبور ہو کر صرف ڈپلومہ کورس پر اکتفا کرنا پڑا۔ لیکن یہ صورت حال بھی زیادہ دن برقرار نہیں رہی۔ حکومت نے ڈپلومہ کورس کے سلسلے میں بھی نئی نئی پابندیاں اور شرائط لگا دیں۔ اسی دوران ۱۹۸۴ء میں جامعہ طیبہ کے ڈپلومہ کورس کی منظوری کی میعاد پوری ہو گئی۔ منظوری کی توسیع کے لیے انتظامیہ کی جانب سے بہتری کوششیں کی گئیں۔ اسی سلسلے میں اس وقت کے مہتمم حضرت مولانا مرغوب الرحمن بجنوری نے حضرت مولانا اسعد مدنی کی معیت میں مرکزی اور صوبائی سطح پر وزراء سے ملاقات کر کے ڈپلومہ کورس کی توسیع کی منظوری حاصل کرنے کی کوشش کی۔ حکومت نے جامعہ طیبہ کو اقلیتی ادارہ تسلیم کرنے اور ڈپلومہ کورس کی منظوری کے لیے یہ شرط رکھی کہ ”حکومت کا بنایا ہوا نصاب اپنے یہاں جاری کرنا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ کسی یونیورسٹی سے الحاق کرنا ہوگا۔“

پہلی شرط کے مطابق جامعہ طیبہ کا اصل مقصود یعنی طب یونانی کی تعلیم خطرے میں پڑتی نظر آرہی تھی جب کہ دوسری شرط سے دارالعلوم کی آزادی اور خود مختاری پر شدید ضرب پڑتی تھی۔ چنانچہ مجلس شوریٰ کو نہایت کرب و اضطراب اور جبر و اکراہ کے ساتھ جامعہ طیبہ کو تحلیل کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ مجلس شوریٰ کے اجلاس شعبان ۱۴۰۶ھ

مطابق ۱۹۸۶ء میں پوری صورت حال پر نظر ڈالی گئی ہے، لکھا ہے:

”تجویز ۴: ایجنڈے کی دفعہ ۴ کے تحت مجلس طیبی اور جامعہ طیبیہ کے درکنگ پرنسپل صاحب کی رپورٹ پیش ہوئی۔ شوریٰ نے اس رپورٹ پر غور کیا اور تمام کوششوں کا از سر نو جائزہ لیا جو جامعہ طیبیہ میں ڈپلومہ کورس اور ڈگری کورس کے اجراء کے متعلق برسہا برس سے چلی آرہی ہیں۔ اسی جائزہ سے شوریٰ نے یہ محسوس کیا کہ جامعہ طیبیہ کے معاملے کو شوریٰ جس اخلاص، محنت اور کثیر خرچ کے ساتھ سلجھانا چاہتی ہے، حکومت کے نئے نئے قوانین اور پابندیوں کے باعث وہ الجھتا جا رہا ہے۔“

دارالعلوم دیوبند کا مقصد یہ تھا کہ اپنے اکابر و اسلاف کے طریقہ کار کے پیش نظر دارالعلوم میں فن طب کی بھی تعلیم دی جائے کہ یہ فن ہمارے اسلاف کے لیے رزق حلال کا بہترین اور کامیاب ذریعہ رہا ہے اور وہ اس پیشے کے ذریعے خدمتِ خلق کے خوشگوار فریضے کو بھی انجام دیتے رہے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا اور نئے نئے قوانین بنتے گئے، اس پیشے پر پابندیاں لگتی گئیں۔ بڑی کوششوں کے بعد جامعہ طیبیہ کو ڈپلومہ کورس کا درجہ ملا جس کی مدت ۱۹۸۴ء میں ختم ہوگئی۔ تو پھر کوشش شروع کی گئی۔

ہماری کوششوں کا محور یہ تھا کہ طب کی تعلیم ہوتی رہے۔ اس کے ساتھ جدید میڈیکل سائنس سے بھی استفادہ ہو، لیکن جامعہ طیبیہ اور بالخصوص دارالعلوم کی داخلی اور خارجی آزادی متاثر نہ ہونے پائے کہ مسلمانوں کا یہ دینی اور فلاحی ادارہ حکومت کے زیر اثر ہو کر اپنی مخصوص دینی حیثیت اور مذہبی افادیت کو کھو نہ بیٹھے۔ اسی مقصد کے پیش نظر دارالعلوم کے ذمہ داروں اور صوبائی حکومت کے وزیروں اور اس کے اعلیٰ افسروں کے دروازے نہ معلوم کتنی بار کھٹکھٹائے، لیکن مایوسی کے سوا کوئی چیز ہاتھ نہ آئی۔ سال رواں میں حکومت نے ایک قانون بھی بنالیا جس کے باعث اب ڈپلومہ کورس کا کوئی ادارہ نہ قائم ہو سکتا ہے اور نہ باقی رہ سکتا ہے۔

مرکزی حکومت سے محکمہ صحت کا ایک مکتوب بھی آیا جس میں پوری طرح کی ہمدردی کے اظہار کے ساتھ یہ کہا گیا کہ ”جامعہ طیبیہ کو اقلیتی ادارہ تسلیم کر لیا جائے گا، لیکن اسے حکومت کا بنایا ہوا نصاب اپنے یہاں جاری کرنا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ کسی یونیورسٹی سے الحاق کرانا ہوگا۔“

مذکورہ بالا نئے قانون اور حکومت کے اس ذمہ دارانہ مکتوب کے بعد ہمارے جذبات ٹھنڈے پڑ گئے اور یہ بات صاف ہو کر سامنے آگئی کہ اگر دارالعلوم جامعہ طیبیہ کو باقی رکھنا چاہتا ہے تو اسے فن طب کی تعلیم کو ختم کر دینی ہوگی اور حکومت کے نصاب کو جاری کرنا ہوگا؛ یعنی جامعہ طیبیہ کے قیام کا مقصد (طب یونانی کی تعلیم) فوت ہو جائے گا۔ اور پھر اگر وہ دارالعلوم کو یونیورسٹی کی حیثیت میں لا کر اس سے اپنا الحاق کرانا چاہے گا تو جامعہ طیبیہ کا معاملہ تو بعد میں آئے گا، سب سے پہلے دارالعلوم کو حکومت کی تحویل میں دینا ہوگا اور اس کی سابقہ اور موجودہ حیثیت ختم کر کے علوم مشرقیہ کی تعلیم کا ادارہ تسلیم کرنا ہوگا اور اس کے لیے تیار رہنا ہوگا کہ حکومت کی ساری مداخلتوں کو ہم گوارا کریں اور اس کے ہر حکم کو قبول کریں۔

ظاہر ہے کہ قوی اندیشہ اور مستقبل میں پیدا ہونے والی خطرناک صورت حال کو انگیز کرنے کی صلاحیت شوری اپنے اندر نہیں پاتی اور شوری کو ایسا دور رس فیصلہ لینے کا دستوری حق بھی حاصل نہیں ہے۔ ان حالات میں جامعہ طیبہ کی بقا کے لیے بھرپور خواہش کے باوجود اور تعلیم فن طب کی انتہائی خواہش کے باوجود کوئی ایسی واضح یا غیر واضح راہ ہمارے سامنے نہیں ہے کہ جس پر چل کر ہم اپنے مقصود کو پاسکیں۔ اس لیے شوری بڑے افسوس اور صدمہ کے ساتھ جامعہ طیبہ کی بساط کو سمیٹ دینے کے لیے اپنے کو مجبور پاتی ہے اور بڑے کرب و بے چینی کے ساتھ جامعہ طیبہ اور دارالشفاء اور اس کے پورے نظام کو تحلیل کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔

اس فیصلے کے وقت جامعہ طیبہ کے طلبہ اور اس کے مدرسین اور اس کا اسٹاف ہمارے سامنے ہے۔ اس لیے شوری اس عزم کا اظہار بھی ضروری سمجھتی ہے کہ دوسری جگہوں پر طلبہ کے داخلے کی سعی بلیغ کی جائے گی تاکہ ان کی عمریں ضائع ہونے سے محفوظ رہیں اور داخلہ کے بعد ہر ایک طالب علم کو تکمیل تعلیم تک دارالعلوم ۱۰۰ (سو) روپے ماہوار وظیفہ دے گا اور جہاں تک مدرسین اور اسٹاف کا تعلق ہے، ان میں سے جو غیر مستقل ہیں انھیں علیحدہ کر دیا جائے گا اور جو مستقل ہیں ان کو مناسب جگہوں پر مصروف رکھا جائے گا۔ بہر حال شوری طلبہ اور مستقل ملازمین کی صلاح و فلاح کی ممکن سعی سے دریغ نہیں کرے گی۔

شوری کا یہ فیصلہ یکم رمضان المبارک ۱۴۰۶ھ سے نافذ العمل ہوگا۔“ (اجلاس شعبان ۱۴۰۶ھ)

مآخذ:

- تاریخ دارالعلوم دیوبند، سید محبوب رضوی، جلد اول، ص ۱۸۸، ۱۹۷، ۳۶۰
- دارالعلوم میں طب کے سو سال اور جامعہ طیبہ دارالعلوم دیوبند کا اجمالی تعارف، شائع کردہ: دفتر جامعہ طیبہ دارالعلوم دیوبند، ۱۴۰۰ھ/۱۹۸۰ء
- رجسٹر کارروائی اجلاس مجلس شوری، شعبان ۱۴۰۲ھ، شعبان ۱۴۰۳ھ، صفر ۱۴۰۴ھ، شعبان ۱۴۰۴ھ، شعبان ۱۴۰۵ھ، شعبان ۱۴۰۶ھ، محافظ خانہ دارالعلوم دیوبند

موجودہ دور کی ترقیات

موجودہ دور میں دارالعلوم کے صدر المدرسین و شیخ الحدیث حضرت مولانا شیخ نصیر احمد خان صاحب کا اکثر دورِ صدارت گزرا اور آپ کے بعد حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری شیخ الحدیث اور صدر المدرسین قرار پائے۔ اسی عرصہ میں حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی کا آخری دور اور حضرت مفتی نظام الدین اعظمی کا بھی زیادہ تر زمانہ گزرا۔ اس دور میں مجلس شوریٰ کی اہم شخصیات میں قدیم رکن حضرت مولانا محمد منظور نعمانی، حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی اور حضرت مولانا عبدالحلیم جون پوری وغیرہم اور اخیر میں فدائے ملت حضرت مولانا اسعد مدنی صدر جمعیتہ علمائے ہند رہے ہیں۔

موجودہ دور میں بیس ہزار سے زائد فضلاء تیار ہوئے۔ طلبہ کی تعداد دو ہزار سے بڑھ کر چار ہزار سے زائد ہو گئی اور دارالعلوم کا بجٹ ۲۶ لاکھ سے بڑھ کر ۲۶ کروڑ تک پہنچ گیا۔ اس دور میں دارالعلوم کے ہر شعبہ کی رفتار ترقی میں بے مثال اضافہ ہوا اور دیگر متعدد اہم شعبے قائم ہوئے۔ اس طرح یہ عظیم الشان ادارہ اپنے نظام کی وسعت اور خدمات کی ہمہ گیری کے اعتبار سے کہیں سے کہیں جا پہنچا۔

تعلیمی نظام کی ترقیات

اس دور میں تعلیمات سے متعلقہ شعبوں میں بڑی وسعت اور ترقی ہوئی۔ اس سلسلہ میں اولاً مدرسہ ثانویہ کا نظام قائم کیا گیا جہاں درجات پرائمری کے ساتھ عربی چہارم تک کی تعلیم کا نظم ہے؛ کیوں کہ تعلیم کے مراحل میں ابتدائی درجات کی بڑی اہمیت ہے، یہی درجات استعداد سازی کی بنیاد ہیں۔ مدرسہ ثانویہ کا نظام علیحدہ قائم ہونے کی وجہ سے اس میں انقلابی تبدیلیاں رونما ہوئیں اور ابتدائی درجات کی مضبوط تعلیم میں دارالعلوم نے ایک مثال قائم کی۔ یہی وجہ ہے کہ ثانویہ کے درجات میں داخلہ کے لیے اب طلبہ کا رجوع پہلے کی بہ نسبت بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔

تمام درجات عربیہ کے نصاب کی تکمیل پر بھی خصوصی توجہ دی گئی اور تمام اساتذہ کو مقررہ نصاب پورا کرنے کا پابند کیا گیا ہے۔ اچھے اور باصلاحیت اساتذہ کا تقرر کیا گیا ہے اور تقسیم اسباق میں صلاحیت اور متعلقہ فن سے مناسبت کا خاص لحاظ رکھا جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں مختلف جماعتوں کو متعدد حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ پہلے سال پنجم، ششم اور ہفتم میں دو دو جماعتیں تھیں، طلبہ کی تعداد میں اضافہ کے پیش نظر تین تین اور بعض میں چار سیکشن کر دیے گئے۔ اسی طرح ابتدائی جماعتوں میں بھی متعدد سیکشن بنائے گئے۔ اس سے تعلیمی کارکردگی میں نمایاں فرق پیدا ہوا۔

تکمیلات میں پہلے تکمیل افتاء، تکمیل ادب، تکمیل تفسیر اور تکمیل دینیات کے کل چار شعبے تھے۔ اس دور میں

تکمیل دینیات کی جگہ تکمیل علوم کے نام سے ایک جامع نصاب جاری کیا گیا۔

اس کے علاوہ شعبہ تخصص فی الحدیث کا قیام عمل میں آیا جس میں ہر سال چار باصلاحیت طلبہ کو داخلہ دیا جاتا ہے۔ اس کا دو سالہ نصاب ہے جو علم حدیث کے ماہر اساتذہ کی نگرانی میں مکمل کرایا جاتا ہے۔ تخصص فی الحدیث کے فاضل طلبہ نے نہایت قلیل مدت میں اہم علمی خدمات انجام دے کر اس شعبہ کی اہمیت و افادیت کو مزید اجاگر کر دیا ہے۔ شعبہ کے فاضل طلبہ کے ذریعہ اساتذہ کی نگرانی میں جامع ترمذی کی احادیث پر تین اہم علمی و تحقیقی کام شائع ہو کر منظر عام پر آچکے ہیں اور اہل علم سے داد تحسین وصول کر چکے ہیں۔

اسی طرح فقہ و فتاویٰ میں تخصص اور مہارت پیدا کرنے کے لیے تدریب فی الافاء کا کورس شروع کیا گیا جس کے تحت دو سال تکمیل افتاء کے منتخب طلبہ کو فتویٰ نویسی اور مطالعہ کتب فقہیہ کی خصوصی تربیت دی جاتی ہے۔ اس شعبہ کی کارکردگی کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اس کے متعدد فضلاء کا خود دار الافاء میں فتویٰ نویسی کے لیے تقرر کیا گیا۔ افراد کار کی تیاری کے سلسلہ میں تدریب فی التدریس کا کورس شروع کیا گیا۔ دورہ حدیث یا تکمیلات میں امتیازی نمبرات لانے والے کچھ طلبہ کو ابتدائی عربی درجات میں دو سالہ تدریس کی تربیت کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ اس انتخاب میں تعلیمی اور اخلاقی ریکارڈ دیکھنے کے ساتھ ساتھ انٹرویو بھی ہوتا ہے۔

شعبہ تجوید میں اچھے مجودین اور قراء کا تقرر کیا گیا جس سے پورے ملک میں شعبہ کے وقار میں اضافہ ہوا اور اس فن کے اچھے افراد کی تیاری کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس دور میں شعبہ تجوید کی کارکردگی میں نمایاں تبدیلی آئی اور اس شعبہ کی طرف طلبہ کا رجوع بہت زیادہ ہو گیا۔

درجہ تحفیظ القرآن کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے تمام اساتذہ کو مختلف اصول و ضوابط کا پابند بنایا گیا۔ تحفیظ القرآن کے لیے ایک مستقل عمارت تعمیر کی گئی جہاں طلبہ کی درسگاہیں، رہائش گاہیں اور دفتر ایک ساتھ واقع ہیں۔ نیز نگرانی کے لیے مستقل طور پر ایک ذمہ دار کو متعین کیا گیا۔ درجات ناظرہ الگ قائم کیے گئے اور ان میں شروع ہی سے قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے۔

پہلے شعبہ فارسی اور درجہ دینیات الگ الگ تھے اور دونوں کا نصاب بالترتیب چھ اور چار سال کا تھا۔ اس طرح ان مبادیات میں دس سال صرف ہو جاتے تھے۔ چنانچہ دونوں شعبوں کو ضم کر کے درجہ اطفال کے علاوہ پانچ سالہ جامع پرائمری نصاب بنایا گیا جس کے چوتھے اور پانچویں سال میں فارسی داخل کی گئی۔

پہلے سالانہ کے علاوہ دو امتحانات ہوتے تھے؛ سہ ماہی اور شش ماہی۔ دونوں امتحانات کی تیاری، پھر امتحان اور اس کے بعد تعطیل وغیرہ میں کافی وقت لگتا تھا جس سے سالانہ مقدار خواندگی متاثر ہوتی تھی۔ چنانچہ سہ ماہی امتحان ختم کر کے درمیان سال میں ایک وسط مدتی امتحان (شش ماہی) کر دیا گیا اور اس کو سالانہ امتحان کے طرز پر لیا جانے لگا۔ اس سے وقت میں بچت ہوتی ہے اور مقصد بھی اچھی طرح پورا ہوتا ہے۔

نظام داخلہ سے متعلق اصلاحات

دارالعلوم میں داخلے کے نظام میں اہم اصلاحات کی گئیں۔ پہلے امتحان داخلہ تقریری ہوا کرتا تھا جس میں کثرت تعداد کی بنا پر کارروائی کی جلد تکمیل مشکل تھی، اب امتحان داخلہ تحریری کر دیا گیا اور جانچ کا یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ تمام کاپیوں پر کوڈ نمبر لکھ دیا جاتا ہے۔ اس طرح امتحان کے نظام میں مزید شفافیت آئی اور باصلاحیت طلبہ کے انتخاب میں آسانی پیدا ہوئی۔ داخلہ کے لیے طلبہ کا رجوع پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اس وقت دس ہزار سے زائد طلبہ امتحان داخلہ میں شریک ہوتے ہیں۔ کامیاب ہونے والے طلبہ میں سے حسب گنجائش تعداد کو تقابل کی بنیاد پر داخل کیا جاتا ہے۔

اس کے علاوہ داخلہ کے نظام میں ایک اہم اصلاح یہ کی گئی کہ طلبہ کے داخلہ میں سفارشی کوٹہ کو ختم کر دیا گیا جو پہلے سے تقابل کی وجہ سے منتخب نہ ہو پانے والے طلبہ کو سفارش کی بنیاد پر داخلہ دینے کے سلسلہ میں رائج تھا۔ علاوہ ازیں تکمیلات وغیرہ میں داخلہ کے نظام میں بھی اصلاحات ہوئیں اور امتحان سالانہ میں حاصل کردہ نمبرات کے علاوہ حسب ضرورت تحریری یا تقریری انٹرویو بھی لازمی قرار دیا گیا۔

دفاع اسلام سے متعلق شعبوں کا قیام

اس دور میں کئی اہم شعبہ جات وجود میں آئے جن میں فکر اسلامی کے تحفظ و اشاعت پر خاص توجہ کی گئی۔ پاکستان میں قادیانیت کو غیر مسلم اقلیت قرار دیے جانے کے بعد قادیانیوں نے اپنی سرگرمی کا مرکز پھر ہندوستان کو بنانا شروع کیا۔ چنانچہ اس فتنہ کی سنگینی اور ان کی بڑھتی سرگرمیوں کے پیش نظر سب سے پہلے اکتوبر ۱۹۸۶ء میں سہ روزہ عالمی اجلاس تحفظ ختم نبوت منعقد کیا گیا اور اسی موقع پر کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت کا قیام عمل میں آیا تاکہ اس فتنہ کا مسلسل اور کامیاب تعاقب کیا جاسکے۔ یہ مجلس اس وقت سے نہایت سرگرمی کے ساتھ افراد کار کو تیار کرنے، مسلمانوں میں اس عقیدہ کے تئیں بیداری پیدا کرنے اور قادیانیوں کے دجل و فریب کا پردہ فاش کرنے میں مصروف عمل ہے۔

اسی سلسلہ میں دوسری کڑی شعبہ محاضرات علمیہ کا قیام ہے جو طلبہ کو دینی حدود کی حفاظت کے لیے تیار کرنے اور تمام فتنوں سے باخبر رکھنے کے لیے شروع کیا گیا۔ اس میں تکمیلات کے طلبہ کے سامنے عیسائیت، یہودیت، ہندو ازم، شیعیت، قادیانیت کے علاوہ دیگر فرق ضالہ کے سلسلہ میں ہفتہ واری محاضرات پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ملک میں عیسائی مشنریوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے اور ان کا تعاقب کرنے کے لیے شعبہ مطالعہ عیسائیت کا قیام عمل میں آیا۔

اسی طرح گذشتہ برسوں میں ملک میں غیر مقلدین اور نام نہاد سلفیوں کی انتہا پسندانہ تحریک کی وجہ سے عام مسلمانوں میں شدید بے چینی پیدا ہونے کی وجہ سے اکابر دارالعلوم نے لامذہبیت اور غیر مقلدیت کے فتنے پر روک

لگانے کے لیے تحفظِ سنت کا شعبہ قائم کیا اور اس موضوع پر طلبہ کی تربیت کا نظام شروع کیا۔

جدید تقاضوں سے ہم آہنگ شعبوں کا قیام

اس عرصہ میں دارالعلوم کی دینی و دعوتی خدمات کو عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے شیخ الہند اکیڈمی، شعبہ کمپیوٹر، شعبہ انگریزی زبان و ادب اور شعبہ انٹرنیٹ کا قیام عمل میں آیا۔

اکابر کے علوم و معارف کی اشاعت، علمی و تحقیقی کاموں کی انجام دہی اور طلبہ کو صحافت اور انشاء پر دازی کی تربیت دینے کے لیے شیخ الہند اکیڈمی کا قیام عمل میں آیا۔ اکیڈمی نے اب تک درجنوں اہم موضوعات پر اردو، عربی اور انگریزی میں گراں قدر لٹریچر شائع کر کے عام کیا ہے۔ اسی طرح نوجوان فضلاء کی ایک ٹیم تیار ہوئی ہے جو صحافت اور مضمون نگاری کے میدان میں اہم خدمات انجام دے رہی ہے۔

دارالعلوم نے زمانے کی رفتار کا بہ خوبی ادراک کرتے ہوئے شعبہ کمپیوٹر کا آغاز کیا اور اس کے تحت طلبہ کی ٹریننگ کا سلسلہ شروع کیا۔ اس وقت اس شعبہ کے فضلاء ملک و بیرون ملک اہم دینی و سماجی اداروں میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔

اسی طرح شعبہ انگریزی زبان و ادب کے دو سالہ کورس کے ذریعہ فضلاء دیوبند کی ایک ایسی کھیپ تیار ہو رہی ہے جو انگریزی میں تحریری اور تقریری صلاحیت سے لیس ہو کر مختلف مدارس و معاہد میں تعلیمی اور دعوتی خدمات انجام دے رہی ہے۔

اسی سلسلہ کی اہم کڑی شعبہ انٹرنیٹ برائے فتویٰ و دعوت و رابطہ کا قیام ہے۔ ربط و ارتباط کے لیے انٹرنیٹ اس وقت مرکزی حیثیت اختیار کر چکا ہے، اس لحاظ سے اس شعبہ کی اہمیت و افادیت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ اس شعبہ کے ذریعہ آن لائن فتویٰ، دعوت و تحقیق، چندہ و تعاون اور رابطہ کے میدانوں میں اہم خدمات انجام دی جا رہی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ سو سال سے زائد مدت میں دارالافتاء سے جاری شدہ فتاویٰ کے عظیم ریکارڈ کو کمپیوٹر سے ٹائپ کرنے اور فتاویٰ کی ترتیب کے لیے شعبہ ترتیب فتاویٰ کا قیام عمل میں آیا۔

علاوہ ازیں، اس دوران دارالعلوم کے دو جرائد وغیرہ کی کتابت کے لیے شعبہ کمپیوٹر برائے کتابت، دارالعلوم میں وسیع پیمانہ پر اشیاء کی خریداری کے لیے شعبہ خریداری اور ان کاریکارڈ رکھنے کے لیے اشاک روم کا قیام بھی عمل میں آیا۔

کل ہند رابطہ مدارس عربیہ اسلامیہ کا قیام

پورے ہندوستان کے مدارس عربیہ اسلامیہ کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے کل ہند رابطہ مدارس عربیہ کا قیام بھی اسی دور کا عظیم الشان کارنامہ ہے۔ گزشتہ عشرے میں ملکی اور عالمی حالات میں ایسی تبدیلی پیدا ہوئی کہ مدارس دینیہ کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا اور انھیں ملک دشمن سرگرمیوں کا اڈہ کہا جانے لگا۔ دوسری طرف

حکومت اور نام نہاد دانش وران کی طرف سے مدارس کے نظام و نصاب کی تجدید اور اس میں علوم جدیدہ کی شمولیت کی باتیں سامنے آنے لگیں۔ چنانچہ جدید خطرات سے مدارس کو محفوظ رکھنے اور نئے تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے کے پس منظر میں رابطہ مدارس عربیہ اسلامیہ کا قیام عمل میں آیا۔

رابطہ مدارس عربیہ کے تحت اس وقت ہندوستان کے تین ہزار سے زائد مدارس کا وفاق قائم ہو چکا ہے جو نصاب و نظام کے سلسلہ میں دارالعلوم کی ہدایات پر عمل کرتا ہے۔ رابطہ مدارس عربیہ اس وقت ہندوستان کے اسلامی مدارس کو خطرات سے محفوظ رکھنے اور ان کو مزید فعال بنانے میں بنیادی کردار ادا کر رہا ہے۔

تعمیراتی ترقیات

اس عرصہ میں دارالعلوم میں کئی اہم اور شاندار عمارتیں تعمیر ہوئیں اور دارالعلوم کا زمینی رقبہ دو گنے سے زیادہ ہو گیا۔ اس وقت دارالعلوم کا کل زمینی رقبہ چودہ لاکھ اکیس ہزار مربع فٹ پر محیط ہے جس میں درس گاہیں، دارالاقامہ، دفاتر، لائبریری اور مساجد وغیرہ واقع ہیں۔ اس کے علاوہ دیوبند شہر اور بیرون دیوبند دارالعلوم کی زمینیں اور اوقاف بھی ہیں۔ اہم عمارتوں میں دارالتر بیت، مدرسہ ثانویہ، دارالمدرسین، رواق خالد، شیخ الہند منزل (اعظمی منزل) شیخ الاسلام منزل (آسامی منزل)، حکیم الامت منزل (تحفیظ القرآن منزل) وغیرہ اسی دور میں تعمیر ہوئیں۔ سنگ مرمر کی عظیم الشان پر شکوہ جامع رشید اسی دور کی لازوال یادگار ہے۔ دارالاقامہ دار جدید کے ازسرنو انہدام کے بعد اس کی سہ منزلہ دوبارہ تعمیر شروع کی گئی۔ اسی طرح سات منزلہ عظیم الشان شیخ الہند لائبریری کی تعمیر بھی اسی دور میں شروع ہوئی۔ (تعمیراتی ترقیات کی تفصیل کے لیے اگلا عنوان 'عمارات دارالعلوم اور ان کا تعارف' دیکھیں)

خلاصہ

اس دور میں دارالعلوم کو بین الاقوامی شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی۔ الحمد للہ دارالعلوم اب بھی اپنے شاندار ماضی کی تابندہ روایات کے ساتھ پوری دنیا میں مسلک حقہ کی بھرپور نمائندگی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ملت اسلامیہ کی اس امانت کی بھرپور حفاظت فرمائیں اور اس شجرہ طوبی کو ہرا بھرا رکھیں۔ آمین!

مآخذ:

- دارالعلوم دیوبند: شاندار ماضی، تابناک حال، روشن مستقبل، شعبہ نشر و اشاعت دارالعلوم دیوبند، ۱۴۱۵ھ
- دارالعلوم دیوبند: خدمات، حالات، منصوبے، مرتب مولانا محمد سلمان بجنوری، دفتر رابطہ مدارس عربیہ، ۱۴۱۹ھ
- دارالعلوم دیوبند: تعارف، خدمات، منصوبے، مرتب مولانا شوکت علی قاسمی بستوی، دفتر رابطہ مدارس عربیہ، ۱۴۲۵ھ

عمارات دارالعلوم اور ان کا تعارف

مسجد چھتہ کے صحن میں ۱۵ محرم ۱۲۸۳ھ مطابق ۳۱ مئی ۱۸۶۶ء کو مدرسہ عربی دیوبند کی ابتدا نہایت بے سرو سامانی کے عالم میں صرف توکل علی اللہ اور عزم و خلوص کے سرمایہ سے ہوئی۔ ابتدا ہی سے مقامی طلبہ کے علاوہ دور دراز کے طلبہ کا رجوع شروع ہو گیا۔ قیام کے چھٹے سال (۱۲۸۸ھ/۱۸۷۲ء) میں ہی طلبہ کی تعداد ۱۰۶ ہو جانے کی وجہ سے مسجد چھتہ تنگ پڑنے لگی، اس لیے دارالعلوم کو قریبی مسجد قاضی میں منتقل کر دیا گیا۔ ۱۲۹۰ھ/۱۸۷۳ء میں جامع مسجد کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد مدرسہ کو مسجد قاضی سے جو طلبہ کی بڑھتی تعداد کی وجہ سے تنگ پڑ گئی تھی، جامع مسجد منتقل کیا گیا۔

دارالعلوم دیوبند کے قیام کے نویں سال (۱۲۹۱ھ/۱۸۷۵ء) مجلس شوریٰ میں حضرت نانوتویؒ کے ایما پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ دارالعلوم کی اپنی مستقل اور کشادہ عمارت ہونی چاہیے، چنانچہ چندہ جمع ہونا شروع ہوا اور آبادی کے شمال مغرب میں چھتہ مسجد کے پاس ایک قطعہ زمین خرید لیا گیا۔

۲۲ ذوالحجہ ۱۲۹۲ھ ۳۱ دسمبر ۱۸۷۵ء میں دارالعلوم کے قیام کا دس سالہ جلسہ تڑک و احتشام سے منعقد ہوا۔ اسی موقعہ پر دارالعلوم کی پہلی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔

عمارت نودرہ (احاطہ مولسری)

نودرہ دارالعلوم کی پہلی باقاعدہ عمارت ہے جس کا سنگ بنیاد ۲۲ ذوالحجہ ۱۲۹۲ھ یوم جمعہ میں رکھا گیا۔ سنگ بنیاد حضرت مولانا احمد علی محدث سہارن پوریؒ کے دست مبارک سے رکھوایا گیا، اس کے بعد ایک ایک اینٹ حضرت نانوتویؒ، حضرت گنگوہیؒ، حضرت مولانا محمد مظہر نانوتویؒ، حضرت حاجی عابد حسین دیوبندیؒ اور حضرت میاں جی منے شاہ دیوبندیؒ نے رکھی۔ اس موقع پر سب بزرگوں نے دارالعلوم کی بقا و ترقی کے لیے نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ بارگاہِ الہی میں دعا کی۔ حضرت نانوتویؒ نے فرمایا کہ عالم مثال میں اس مدرسہ کی شکل ایک معلق ہانڈی کے مانند ہے، جب تک اس کا مدار توکل و اعتماد علی اللہ پر رہے گا یہ مدرسہ ترقی کرتا رہے گا۔ اس واقعہ کو حضرت مولانا فضل الرحمن عثمانیؒ نے اشعار میں اس طرح نظم فرمایا ہے:

اس کے بانی کی وصیت ہے کہ اس کے لیے
کوئی سرمایہ بھروسے کا ذرا ہو جائے گا
پھر یہ قندیل معلق اور توکل کا چراغ
یہ سمجھ لینا کہ بے نور و ضیا ہو جائے گا

ہے توکل کی بنا اس کی تو بس اس کا معین
ایک گر جائے گا، پیدا دوسرا ہو جائے گا

نورہ کی باقاعدہ تعمیر ۱۲۹۳ء میں حضرت مولانا رفیع الدین دیوبندیؒ کے عہد اہتمام کے دوران ہوئی۔ اسی دوران حضرت مولانا رفیع الدینؒ نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں: ”یہ احاطہ تو بہت مختصر ہے“، یہ فرما کر خود عصائے مبارک سے ایک طویل و عریض نقشہ کھینچ کر بتلایا کہ ان نشانات پر تعمیر کی جائے۔ چنانچہ اسی کے مطابق بنیاد رکھوا کر تعمیر کرائی گئی۔

اس عمارت کے دو درجے ہیں، ہر ایک درجے میں نو دروازے ہیں۔ اس کا طول ۲۶ رگز اور عرض ۱۲ رگز ہے۔ اس میں ۳۶ × ۲۵ مربع فٹ کے تین ہال ہیں۔ نورہ کی یہ عمارت سادہ ہونے کے باوجود شان دار ہے۔ اس کی تعمیر میں ہندوستانی اور انگریزی عمارتوں کا لطف موجود ہے۔ اس کی پشت پر ایک عمدہ تالاب اور جانب جنوب سبزہ زار اور جانب شمال مدرسہ کا باغ تھا۔ وسط صحن میں ایک مختصر اور نفیس چمن نہایت خوش نما جنگلے کے بیچ میں شگفتہ تھا اور جنگلے کے چاروں طرف گملوں میں ہر قسم کے مختلف الائوان پھولوں کے درخت تھے۔ یہ تعمیری سلسلہ ۸ سال کی مدت اور ۲۳۰۰۰ روپے کے صرفے میں مکمل ہوا۔

حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتویؒ نے اس عمارت کا مادہ تاریخ ’اشرف عمارات‘ (۱۲۹۳ھ) سے نکالا۔ ایک دوسرا قطعہ تاریخ یہ ہے:

از تماشائے درس گاہِ علوم
پشمہا روشن است و دلہا شاد
جوش تاریخِ این نجستہ بنا
گفت بیت الشرف مبارک باد

۱۲۹۳ھ

دارالعلوم کا یہ مقام احاطہ مولسری کے نام سے موسوم ہے کیوں کہ اس کے وسط میں مولسری کے دو درخت کھڑے ہیں۔ اس احاطہ میں وہ تاریخی کنواں موجود ہے جو نورہ کے ساتھ بنا تھا۔ اس کنویں کا پانی نہایت شیریں اور ٹھنڈا ہے۔ حضرت مولانا رفیع الدینؒ نے ایک دوسرے خواب میں دیکھا کہ کنواں دودھ سے بھرا ہوا ہے اور آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیالے سے دودھ تقسیم فرما رہے ہیں۔ بعض لوگوں کے پاس چھوٹے برتن ہیں اور بعض کے پاس بڑے، ہر شخص اپنا اپنا برتن دودھ سے بھرا کر لے جا رہا ہے۔ مولانا نے برتنوں کے چھوٹے بڑے ہونے کی یہ تعبیر دی کہ اس سے ہر شخص کا ’ظرف علم‘ مراد ہے۔ (تاریخ دارالعلوم دیوبند، جلد اول، ص ۱۸۳ تا ۱۸۶)

احاطہ مولسری میں داخل ہونے کے لیے بہ جانب مشرق ایک دروازہ ہے جو حضرت نانوتویؒ کی طرف منسوب ہو کر ’باب القاسم‘ کے نام سے موسوم ہے۔ اب اسی کے اوپر دفتر اہتمام واقع ہے۔ احاطہ مولسری کے

مشرقی جانب لب سڑک دارالعلوم کا اولین صدر دروازہ ہے جو شیخ الطائفہ حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکیؒ کی طرف منسوب ہو کر باب الامداد کہا جاتا تھا۔ اب اسی دروازے کو باب قاسم یا صدر گیٹ کہا جاتا ہے۔

دفتر اہتمام

دارالعلوم دیوبند کے مرکزی دفتر 'دفتر اہتمام' کی باقاعدہ عمارت ۱۳۱۵ھ / ۱۸۹۷ء میں حضرت مولانا محمد احمد صاحبؒ کے عہد اہتمام میں تعمیر ہوئی۔ یہ عمارت باب قاسم کے شمالی جانب، احاطہ مولسری کے کنویں کے اوپر واقع تھی۔ اس عمارت کا رقبہ ۱۹×۲۳ مربع فٹ تھا۔ اس عمارت سے ملحق ہال کا اضافہ بعد میں کیا گیا۔

دارالطلبہ (احاطہ باغ)

دارالعلوم میں دارالاقامہ کی تعمیر ۱۳۱۶ھ / ۱۸۹۸ء میں شروع ہوئی دو سال تک جاری رہی۔ دارالاقامہ کی تعمیر کے لیے اہل حیدرآباد دکن کا سات ہزار کا چندہ موصول ہوا۔ اسی مد میں نواب شاہ جہاں بیگم والی بھوپال نے بھی گراں قدر امداد دی۔

یہ دارالاقامہ احاطہ مولسری سے متصل جانب شمال تعمیر ہوا۔ دارالعلوم کا پہلا دارالاقامہ تھا جو انیس (۱۹) حجروں پر مشتمل تھا اور جس میں بیک وقت ۵۶ طلبہ کے قیام کی گنجائش تھی۔ ہر کمرے کا رقبہ ۱۱×۹ مربع فٹ تھا۔

۱۳۵۱ھ / ۱۹۳۲ء میں دارالطلبہ میں مزید کمروں کا اضافہ ہوا۔

اب اس احاطے کے اکثر کمرے دار جدید اور دفتر تعلیمات کی توسیع میں شامل ہو گئے ہیں اور صرف چند کمرے باقی رہ گئے ہیں۔

دفتر محاسبی

دارالطلبہ کے ساتھ ۱۳۱۷ھ / ۱۸۹۹ء میں دروازہ کلاں کے اوپر دفتر محاسبی کی تعمیر ہوئی۔ دفتر محاسبی کا رقبہ ۱۱×۲۳ مربع فٹ تھا۔ اسی کے ساتھ ایک مہمان خانہ کے لیے کمروں کی تعمیر ہوئی۔ دارالطلبہ اور دیگر عمارتوں کی تعمیر میں بارہ ہزار روپے صرف ہوئے۔

کتب خانہ

کتب خانہ کی موجودہ عمارت سے قبل کتب خانہ نو درہ کے قریب جانب جنوب کے کمروں میں تھا، لیکن کتابوں میں روز افزوں اضافہ ہونے کے سبب یہ عمارت ناکافی ہو گئی تو نواب یوسف علی خان رئیس مینڈھو (علی گڈھ) نے اس اہم ضرورت کے لیے سات ہزار روپے عنایت کیے۔

۲ صفر ۱۳۲۲ھ / ۲۸ مارچ ۱۹۰۶ء کو نودرہ اور مسجد چھتہ کے درمیان کتب خانہ کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ ایک عرصہ تک اس عمارت کو کتب خانہ یوسفی کہا جاتا تھا۔ نواب صاحب ممدوح کے بعد میرٹھ کے اہل خیر حضرات نے بھی کتب خانہ کی تعمیر میں حصہ لیا۔

یہ عمارت دو منزلہ ہے اور اوپر کی منزل میں کتب خانہ ہے جس میں فرش سے چھت تک الماریاں لگی ہوئی ہیں۔ ۱۳۸۶ھ / ۱۹۶۶ء میں کتب خانہ کی عمارت کی توسیع ہوئی اور عربی کتب کے جدید ہال کے ساتھ علمائے دیوبند کی تصانیف کا خاص کمرہ بنایا گیا۔

کتب خانہ کے کمروں کا رقبہ یہ ہے: (۱) ۲۳×۲۹ مربع فٹ (۲) ۱۹×۲۰ مربع فٹ (۳) ۱۳×۲۵ مربع فٹ (۴) ۲۰×۲۳ مربع فٹ (۵) ۱۳×۳۷ مربع فٹ (۶) ۲۰×۲۲ مربع فٹ۔ کتابوں کی بڑھتی تعداد کے پیش نظر کتب خانے میں مزید کمروں کا اضافہ ہوتا گیا۔ اس وقت فارسی خانہ کے متعدد کمرے بھی اس میں شامل ہو چکے ہیں اور کتب خانہ کا رقبہ مزید بڑھ گیا ہے۔

مسجد دارالعلوم (مسجد قدیم)

ابتداء میں دارالعلوم کے احاطہ کے اندر مسجد نہ تھی، طلبہ قرب و جوار کی مسجدوں میں نماز پڑھتے تھے۔ حالات کا تقاضا تھا کہ دارالعلوم کے احاطے میں مسجد ہو۔ اس اہم ضرورت کے لیے ۱۳۲۵ھ / ۱۹۰۷ء میں حاجی فصیح الدین میرٹھی کی مالی معاونت سے صدر دروازے کے شمال میں مسجد کے لیے زمین کا ایک قطعہ خرید لیا گیا۔ ۱۳۲۷ھ / ۱۹۰۹ء میں راندر کے مخیر تاجر حاجی غلام محمد اعظم نے مسجد کی تعمیر کے لیے انیس ہزار روپے عنایت کیے اور ۲ ربیع الاول ۱۳۲۷ھ / ۲۶ مارچ ۱۹۰۹ء کو مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔

روداد میں سنگ بنیاد کی تقریب کی نسبت تحریر ہے: ”طلبہ کے عام مجمع میں بزرگان دین نے بنیاد رکھی۔ اور پھر ہر ایک طالب علم نے اپنے اپنے ہاتھ سے اینٹیں رکھیں، اور نہ صرف اینٹیں رکھیں بلکہ اس دیوار کی کل بنیاد جو بہت گہری تھی، طلبہ نے اپنے ہاتھوں سے بھری۔ طلبہ کے ساتھ کل مدرسین اور اراکین مدرسہ نہایت ذوق و شوق سے خود اینٹیں اپنے سروں اور ہاتھوں پر لاتے تھے اور بجائے معماروں کے تعمیر کرتے تھے۔ حضرت مولانا حکیم مسعود احمد صاحب خلف الصدق حضرت گنگوہی، حضرت مولانا عبدالرحیم رائے پوری، صدر المدرسین حضرت شیخ الہند اور مہتمم دارالعلوم حضرت مولانا محمد احمد صاحب بھی دیگر طلبہ کے ساتھ اینٹیں اور گارہ اٹھانے میں شریک تھے۔ سبحان اللہ! طلبہ کا جوش مسرت کے ساتھ سنت خلیل الہی میں مشغول ہونا اور ساتھ میں اشعار جزیہ اور تعمیر بیت اللہ کے وقت کی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعائیں پڑھنا عجیب مؤثر اور پر جوش سماں تھا۔ شرقی دیوار کی بنیاد حضرت مولانا خلیل احمد سہارن پوری اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی وغیرہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے رکھی۔“ ملخصاً یہ مسجد اب مسجد قدیم کے نام سے جانی جاتی ہے۔ مسجد کے دو درجے مسقف ہیں۔ مشرقی بیرونی دیوار پتھر کی

ہے جس میں نہایت نفیس نقش و نگار بنے ہوئے ہیں۔ روکار پر سنگ مرمر کا کتبہ نصب ہے جس میں مندرجہ ذیل اشعار شریفہ فکر حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب کاندہ ہیں:

در مدرسہ مسجدے بنا شد
 این مژدہ ز دوستاں شنیدم
 بر لوح جبینش اسم اعظم
 خواندم چو بصرین او رسیدم
 در سجدہ شکر چوں فادم
 در گوش رسید این نشیدم
 مقرون شدہ عبادت و علم
در مدرسہ خانقاہ دیدم

۱۳۲۸ھ

(تاریخ دارالعلوم دیوبند، جلد اول، ص ۲۱۹ تا ۲۲۱)

مینار بھی منقش پتھر کے بنائے گئے ہیں۔ اس مسجد کی تعمیر ۱۳۲۸ھ/۱۹۱۰ء میں مکمل ہوئی۔ ۱۳۴۹ھ/۱۹۳۰ء میں مسجد کی توسیع عمل میں آئی، صحن مسجد کو مشرق کی جانب بڑھایا گیا۔ حوض جو صحن کے آخر میں تھا، توسیع کے بعد تقریباً وسط میں ہو گیا۔ اسی طرح مسجد کے بالائی حصہ کی تعمیر ہوئی۔ ۱۳۷۵ھ/۱۹۵۵ء میں صحن کے آخری حصہ میں دارالافتاء کی عمارت کے نیچے سنگین حوض بھی بنایا گیا۔

۱۹۸۰ء میں اجلاس صد سالہ کے موقع پر جہاں اور بہت ساری تعمیری کام ہوئے وہیں اس مسجد کے بالائی حصہ پر چھت و مینار وغیرہ کی تعمیر ہوئی اور بالائی حصہ کو زیریں حصہ کی طرح نقش و نگار سے آراستہ کیا گیا۔ اندرون مسجد کا رقبہ ۴۲×۳۳ مربع فٹ اور بیرون مسجد کا رقبہ ۱۱۸×۵۰ مربع فٹ ہے۔ موجودہ دور میں مسجد کے فرش پر سفید پتھر لگائے گئے اور صحن کے اوپر ٹین شیڈ کا اضافہ کیا گیا۔

دارالحدیث

جس طرح دارالعلوم دیوبند کو یہ شرف و امتیاز حاصل ہے کہ ہندوستان بھر میں یہ پہلی درس گاہ ہے جو عین زوالِ علم کے وقت مسلمانوں کے عام چندے سے قائم ہوئی، اسی طرح اس کو یہ تقدم و فضیلت بھی حاصل ہے کہ دارالعلوم کا دارالحدیث، ہندوستان میں پہلی عمارت ہے جو اس نام سے عالم وجود میں آئی۔ اس میں شک نہیں کہ اسلامی عہد کے ہندوستان میں جا بجا مدارس موجود تھے، اور ایک ایک ذرہ علم کی روشنی سے منور تھا، لیکن مدارس کی اس کثرت و بہتات کے باوجود ہندوستان میں کوئی عمارت دارالحدیث کے نام سے اس سے پیشتر نہیں بنی۔

ہندوستان کی سرزمین پر یہ پہلا موقع تھا کہ دارالحدیث کے نام سے ایک بڑی عمارت بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ نواب سلیم اللہ خان رئیس ڈھا کہ نے دارالحدیث کی تعمیر کے لیے تیرہ ہزار کی رقم پیش کی۔

دارالعلوم میں دارالحدیث کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب میں ۲۰ ربیع الآخر ۱۳۳۰ھ / ۸ اپریل ۱۹۱۲ء کو ایک عام جلسہ منعقد کیا گیا جس میں ملک کے مختلف مقامات کے لوگوں نے کثرت سے شرکت کی۔ طلبہ نے باصرار مزدوروں کے بجائے نہایت ذوق و شوق کے ساتھ والہانہ انداز میں خود بنیاد کھودی، حضرت تھانویؒ، حضرت شیخ الہندؒ، حضرت مولانا خلیل احمد سہارن پوریؒ اور حضرت مولانا عبدالرحیم رائے پوریؒ نے سنگ بنیاد رکھا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے مجمع سے فرمایا کہ ”سب صاحب ایک ایک دو دو اینٹ اپنے ہاتھ سے رکھ دیں نہ معلوم حق تعالیٰ کے یہاں کس کا خلوص قبول ہو جائے“ چنانچہ تمام شرکائے جلسہ نے دو دو اینٹیں رکھیں۔

دارالحدیث کے لیے بنیاد تیار کرنے میں طلبہ نے جس مخلصانہ ہمت و محبت اور جوش عمل کا مظاہرہ کیا وہ طلبہ کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ ہے جسے بھلایا نہیں جاسکتا، اس سال کی روداد میں مذکور ہے کہ ”جلسہ دارالحدیث کے دن سنگ بنیاد تو رکھ دیا گیا تھا مگر بنیاد تعمیر کرنے کے لیے پہلے کنکریٹ گٹوانا ضروری تھا، اس کے علاوہ کسی قدر بنیاد بھی گھدنی باقی رہ گئی تھی، ابھی کنکریٹ ڈال کر کوٹنا ہی شروع کیا گیا تھا کہ زور و شور کی ایک طوفانی بارش ہو گئی اور قریبی تالاب پانی سے بھر گیا، حتیٰ کہ دارالحدیث کی بنیادیں تک پانی سے لبریز ہو گئیں، یہ قطعاً زمین تالاب ہی کا ایک حصہ تھا، جو ۱۳۲۸ھ میں اٹوایا گیا تھا، مٹی چونکہ ابھی پختہ نہ ہوئی تھی اس لیے گر گئی، اور بنیاد کا حال دلدار کا سا ہو گیا، اس کے علاوہ درس گاہوں تک پانی کے پہنچ جانے سے عمارتوں کو بھی خطرہ لاحق ہو گیا، ادھر تو یہ حالت تھی اور ادھر مزدور بالکل نہیں ملتے تھے، بارش کے تواتر سے یہ احتمال بھی نہ تھا کہ پانی دو چار روز خشک ہو جائے گا، ڈال لگوا کر پانی نکلوانا شروع کیا، مگر سارے دن میں بہت تھوڑا سا پانی نکل سکا، بالآخر نماز عصر کے بعد طلبہ نے کمر ہمت باندھی، بالٹیاں لے کر کھڑے ہو گئے اور ایک گھنٹے میں تمام پانی نکال کر تالاب میں ڈال دیا، پانی نکل جانے پر معلوم ہوا کہ ابھی ایک سخت مرحلہ باقی ہے، بنیاد میں نصف قدم دلدار ہو گئی تھی، اس موقع پر مدرسین و طلبہ کی محنت و جانفشانی کا منظر قابل دید تھا، کئی سو طلبہ لگے ہوئے تھے اور قطاریں بنا کر آٹا فائنا میں گارے کی بالٹیاں بھر بھر کر تالاب میں پہنچا رہے تھے، رجزیہ اشعار پڑھتے جاتے تھے، اور ہر ایک، دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی سعی میں لگا ہوا تھا، اس مقابلے اور مسابقت میں اور بھی لطف تھا، طلبہ نے دو جماعتیں بنا کر کام کو نصف نصف تقسیم کر لیا تھا، جو کام مہینے بھر میں مزدوروں سے ہونا مشکل تھا وہ طلبہ نے دو دن میں کر دیا۔ کنکریٹ کی کٹائی میں بھی طلبانے حصہ لیا، یہ کام بھی تنہا معماروں اور مزدوروں سے شاید ایک ماہ میں بھی ختم نہ ہوتا، لیکن طلبہ نے اس جدوجہد سے کنکریٹ، اینٹ اور چونا موقع پر پہنچایا کہ ایک ہفتے میں بنیادیں اوپر آگئیں، الغرض جیسی مقدس اور متبرک تعمیر تھی ویسے ہی مخلص ہاتھوں سے بنیاد تعمیر ہوئی اور طلبہ کی یہ آرزو کہ ”دارالحدیث کی بنیاد ہم کھودیں گے“ اب مع شے زائد پوری ہو گئی۔“

عالم اسلام میں ماضی میں جو دارالحدیث بنائے گئے ان کے بنانے والے سلاطین اور فرماں روا تھے، اس

دارالحدیث کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی تعمیر میں غریب عوام کا ہاتھ کار فرما رہا ہے، اور انہیں معمولی معمولی امدادوں سے یہ عظیم الشان عمارت عالم وجود میں آئی ہے۔

دارالحدیث کی تعمیر سے قبل مختلف حضرات نے عالم خواب میں دیکھا کہ موقع تعمیر دارالحدیث پر دارالعلوم کے اکابر مرحومین جمع ہیں اور خود اپنے ہاتھوں سے سامان تعمیر اٹھا اٹھا کر لا رہے ہیں اور تعمیر میں مصروف ہیں۔

دارالحدیث کی یہ پر شکوہ عمارت ۱۳۳۹ھ/۱۹۳۰ء میں مکمل ہوئی۔ یہ عمارت نو درہ کی عمارت سے متصل بالکل پیچھے جانب مغرب میں بنائی گئی اور دائیں بائیں دونوں جانب تیرہ کمرے تعمیر ہوئے۔ تمام کمروں کی مجموعی لاگت کا تخمینہ ڈیڑھ لاکھ روپے تھا۔

اس عمارت کے وسط میں دارالعلوم کا مرکزی ہال واقع ہے جس میں دارالعلوم کے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں۔ اس ہال کو بعد میں دارالحدیث تھمائی کا نام دیا گیا اور ایک عرصہ تک دورہ حدیث کی تعلیم یہیں ہوتی رہی۔ (تاریخ دارالعلوم دیوبند، اول، ص ۲۲۶ تا ۲۲۹)

مسجد (ریلوے اسٹیشن)

دیوبند میں دارالعلوم کی مرکزیت کی وجہ سے مسلمانوں اور اہل علم کی بہ کثرت آمد و رفت رہتی ہے جس کا ذریعہ اس وقت صرف ریل تھی۔ پختہ سڑک بہت بعد میں تعمیر ہوئی، اسٹیشن پر مسجد نہ ہونے کے سبب سے سخت دقت پیش آتی تھی۔ دہلی کے کچھ اصحاب خیر نے اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے طور پر مسجد کی تعمیر کا صرفہ پیش کیا۔

چنانچہ ۱۳۳۳ھ/۱۹۱۵ء میں یہ مسجد تعمیر ہوئی۔ امام و مؤذن کے لیے کمرہ بنا ہوا ہے۔ احاطہ کے باہر مسجد کے مصارف کے لیے کچھ دوکانیں بھی بنائی گئی تھیں۔ مسجد کی تعمیر میں پانچ ہزار روپے صرف ہوئے۔ مسجد کا احاطہ کافی وسیع ہے جس کی بعد میں پختہ چہار دیواری کرائی گئی۔ (تاریخ دارالعلوم دیوبند، اول، ص ۲۳۱)

دارالاقامہ (دار جدید)

۱۳۳۸ھ/۱۹۱۹ء میں دارالعلوم میں طلبہ کی تعداد چھ سو سے متجاوز ہو گئی۔ دارالاقامہ کے کمرے اس تعداد کے لیے کافی نہ تھے۔ اس لیے نصف سے زائد طلبہ شہر کی مساجد اور متفرق مکانات میں رہتے تھے۔ اس صورت میں نہ تو طلبہ کو یکسوئی اور اطمینان حاصل تھا اور نہ ان کی نگرانی اور تربیت خاطر خواہ طریق پر ہو سکتی تھی، علاوہ ازیں جو طلبہ دارالاقامہ میں رہتے تھے ان کی تعداد بھی دارالاقامہ کی وسعت کے لحاظ سے زیادہ تھی، لہذا جگہ کی تنگی کے باعث اکثر پریشانی لاحق رہتی تھی، اس لیے مزید کمروں کی تعمیر کی ضرورت شدت محسوس کی جا رہی تھی، دارالحدیث کے شمالی مغربی اور جنوبی اطراف میں ایک وسیع دارالاقامہ بنائے جانے کی تجویز زیر غور تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ اس سال میں امرتسر کے بعض ارباب خیر کی توجہ اس طرف مبذول ہوئی اور ان کے عطیات سے اس مجوزہ وسیع دارالاقامہ کی بنیاد رکھی گئی۔

یہ کمرے جو سنین مابعد میں وقفاً بنائے گئے ہیں ہندوستان کے مسلمانوں کی دینداری، علوم دین سے اعتناء

اور دینی کاموں میں فیاضانہ امداد کی قابل قدر یادگار ہیں۔ یہ کمرے اس قدر وسیع اور کشادہ ہیں کہ ہر ایک میں آٹھ تک طلبہ باسائش رہ سکتے ہیں۔ کمروں کے سامنے برآمدے ہیں اور آگے نہایت وسیع اور پُر فضا صحن ہے، جس کے تین سمتوں میں دارالاقامہ اور مشرقی جانب دارالحدیث کی نہایت عظیم الشان اور سر بفلک وہ عمارت ہے جو ہندوستان کی سرزمین میں اپنی نوعیت کی پہلی تعمیر ہے، صحن وسیع اور کشادہ ہے جس میں قسم قسم کے چھوٹے بڑے پھول دار درختوں کی چمن بندی کی گئی ہے اور روش بنا کر ایک خوش نما پائین باغ کی شکل دی گئی۔

یہ عمارت حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب کے عہد اہتمام میں تعمیر ہونی شروع ہوئی اور آپ کے زمانے میں صرف پانچ کمرے بن سکے تھے، جب کہ ۵۲ کمروں کی تعمیر کی تجویز تھی۔ بقیہ تعمیر حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب کے زمانے میں ہوئی۔ دار جدید کی عمارت دو منزلوں پر مشتمل ہے۔ دوسری منزل مختلف مراحل میں تعمیر ہوئی۔ ۱۳۶۰ھ/۱۹۴۱ء میں اس کی تکمیل ہوئی۔ ۱۴۰۰ھ/۱۹۸۰ء میں اجلاس صد سالہ کے موقع پر بھی متعدد کمرے تعمیر ہوئے۔ یہ دارالعلوم کا سب سے وسیع اور بڑا دارالاقامہ ہے جس میں سو سے زائد کمرے ہیں۔ دار جدید کے پورے احاطہ کا رقبہ ۵۰۰×۳۶۱ مربع فٹ ہے۔ ایک بڑے کمرے کا سائز ۱۹×۱۸ مربع فٹ ہے۔

دارالحدیث کے شمالی جانب حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب کے زمانہ اہتمام میں ایک بلند دروازہ تعمیر ہوا جو اولین شیخ الحدیث و صدر المدرسین حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی کے نام نامی کی طرف منسوب کر کے باب یعقوب کہا گیا۔ اس دروازہ سے حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی درس حدیث دینے کے لیے دارالعلوم میں داخل ہوا کرتے تھے؛ اسی مناسبت کی وجہ سے بعد میں اس دروازہ کو مدنی گیٹ کہا جانے لگا۔

دارالحدیث کے جنوبی جانب حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب کے زمانہ اہتمام میں ایک دوسرا دروازہ تعمیر ہوا جو حضرت مولانا رفیع الدین دیوبندیؒ مہتمم دارالعلوم کے نام نامی کی طرف منسوب کر کے باب رفیع کہا گیا۔ اب اس کو عرف عام میں 'معراج گیٹ' کہا جاتا ہے۔

دارالحدیث کے بالمقابل بعد میں مغربی جانب باب الظاہر ۱۳۵۹ھ/۱۹۴۰ء میں تعمیر کیا گیا جو افغانستان کے باشاہ محمد ظاہر کی دارالعلوم سے وابستگی کی ایک ایسی یادگار ہے جو تاریخ کے دامن میں محفوظ رہے گی۔

دارالحدیث فوقانی

۱۳۵۲ھ/۱۹۳۳ء میں نودہ کے اوپر درس حدیث کے لئے ایک وسیع ہال کی تعمیر کا آغاز کیا گیا جو چند برسوں میں بن کر تیار ہوا۔ اس درس گاہ کا رقبہ ۶۸×۳۵ مربع فٹ ہے۔ اس عمارت سے نودہ کا حسن دو بالا ہو گیا۔

یہ درس گاہ دارالحدیث فوقانی کے نام سے مشہور ہے جس میں شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین مدنی نے تاعمر درس حدیث دیا۔ پہلے یہی درس گاہ دورہ حدیث کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ پھر طلبہ کی بڑھتی تعداد کے پیش

دارالحدیث تھانی میں تعلیم ہونے لگی۔ اب شیخ الہند لاہریری کے تہہ خانے میں دورہ حدیث کی تعلیم ہوتی ہے۔

درس گاہ فارسی

۱۳۵۶ھ/۱۹۳۷ء میں درجہ فارسی کی درس گاہ کی تعمیر ہوئی۔ اس شعبہ میں دیگر عصری مضامین کے ساتھ ساتھ فارسی کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس درس گاہ کا رقبہ ۴۶×۴۳ مربع فٹ تھا۔

محافظ خانہ

۱۳۵۶ھ/۱۹۳۷ء میں محافظ خانہ کی دو منزلہ عمارت تعمیر ہوئی۔ محافظ خانہ کی یہ عمارت دارالاہتمام کی جنوبی سمت میں واقع ہے جس میں دارالعلوم کے جملہ ریکارڈ رکھے جاتے ہیں۔

دارالتفسیر

۱۳۵۰ھ/۱۹۳۲ء میں دارالعلوم میں دورہ تفسیر جاری کیا گیا، لیکن اس وقت اس کے لیے کوئی مستقل درس گاہ موجود نہ تھی۔ ۱۳۵۸ھ/۱۹۳۹ء میں دارالحدیث کی بالائی منزل پر ۳۰×۳۰ مربع فٹ کا ایک ہال بنایا گیا جس کو دارالتفسیر کا نام دیا گیا۔ دارالتفسیر کے اوپر ایک پرشکوہ گنبد بنایا گیا جو اپنی رفعت و عظمت کے لحاظ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا دارالعلوم کے سر پر تاج رکھا ہوا ہے۔ دارالحدیث کی عمارت اور درمیان میں دارالتفسیر کا گنبد آج دنیا بھر میں دارالعلوم کا سمبل (پہچان اور علامت) سمجھا جاتا ہے۔

باب الظاہر

۱۳۵۹ھ/۱۹۴۰ء میں دارالحدیث کے بالمقابل غربی جانب میں حکومت افغانستان کے عطیہ سے صدر دروازہ کی تعمیر شروع ہوئی اور بادشاہ افغانستان کے نام پر اس کا نام 'باب الظاہر' رکھا گیا تاکہ دارالعلوم اور افغانستان کے مخلصانہ تعلق کی ایک یادگار قائم رہے۔

باب الظاہر کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے نواب صدر یار جنگ حضرت مولانا حبیب الرحمن شروانی رکن مجلس شوری دارالعلوم کا انتخاب کیا گیا۔ علماء و طلبہ کے ایک بڑے مجمع میں صدر یار جنگ مرحوم کے مبارک ہاتھ سے باب الظاہر کی بنیاد رکھی گئی۔

دارالعلوم میں باب الظاہر ایک عظیم الشان اور پر شوکت سہ منزلہ عمارت ہے جس میں متعدد کمرے اور درس گاہیں بنائی گئی ہیں۔ اس عمارت کا رقبہ ۵۲×۴۲ مربع فٹ ہے۔ اس وقت یہ گیٹ دار جدید کی نو تعمیر شدہ عمارتوں کے درمیان پرانی حالت میں کھڑا ہوا ہے۔

دارالطعام (مطبخ)

۱۳۲۸ھ/۱۹۱۰ء میں دارالعلوم میں باقاعدہ مطبخ کا اجراء ہوا۔ ورنہ اب تک اہل شہر حسب مقدرت ایک ایک دو دو طالب علموں کے کھانے کی کفالت کرتے تھے یا کچھ طلبہ کو دارالعلوم کی طرف سے خوردونوش کے لیے نقد و نسیفہ دیا جاتا تھا۔ ۱۳۳۲ھ/۱۹۱۳ء میں شعبہ مطبخ کی توسیع عمل میں آئی۔

۱۳۶۲ھ/۱۹۴۳ء میں موجودہ عمارت تعمیر ہوئی جو نو درہ کے جنوب میں مسجد چھتہ کے قریب واقع ہے۔ اس عمارت کا رقبہ ۵۵ × ۷۰ مربع فٹ ہے۔ لکڑیاں رکھنے اور کھانا تقسیم کرنے کی جگہ اس کے علاوہ ہے۔

دارالافتاء

دارالعلوم کے قیام سے ہی فتویٰ کا سلسلہ شروع ہوا۔ ۱۳۱۰ھ/۱۸۹۲ء میں باضابطہ شعبہ دارالافتاء کا قیام عمل میں آیا۔ دارالافتاء کی قدیم عمارت بہت مختصر تھی اور دارالافتاء کے کارکنوں کے اضافے کے بعد بہت تنگ ہو گئی تھی؛ اس لیے مسجد دارالعلوم کی مشرقی جانب کی عمارت کی بالائی منزل پر دارالافتاء کی وسیع اور کشادہ عمارت تیار کرائی گئی۔ جس کا افتتاح ۱۹ ربیع الآخر ۱۳۶۷ھ/یکم مارچ ۱۹۴۸ء کو ہوا۔

دارالافتاء کی یہ عمارت تین بڑے بڑے کمروں پر مشتمل تھی جن کا رقبہ اس طرح تھا: (۱) ۱۴ × ۱۷ مربع فٹ (۲) ۱۴ × ۱۸ مربع فٹ (۳) ۱۴ × ۱۴ مربع فٹ۔

موجودہ دور میں دارالافتاء میں کافی توسیع عمل میں آئی اور اس میں متعدد ہال اور ایک گیلری کا اضافہ کیا گیا۔

دارالقرآن

قرآن شریف حفظ و ناظرہ اور اردو کے ابتدائی درجات کی تعلیم کے لیے پانچ درس گاہوں کا مجموعہ جناب شیخ فیروز الدین صاحب تاجر کلکتہ کے مخصوص عطیہ سے ۱۳۶۸ھ/۱۹۴۹ء میں تعمیر ہوا۔ یہ عمارت دارالقرآن سے موسوم ہے اور مطبخ کے مغربی جانب واقع ہے۔ اس عمارت کی پانچوں درس گاہوں میں ہر درس گاہ کا رقبہ ۲۱ × ۲۵ مربع فٹ تھا۔

مہمان خانہ

۱۳۱۷ھ/۱۸۹۹ء میں دفتر محاسبی کے ساتھ دروازہ کلاں کے اوپر مہمان خانہ کے لیے کچھ کمرے تعمیر ہوئے۔ لیکن مستقل طور پر ۱۳۷۷ھ/۱۹۵۷ء میں دارالعلوم مسجد کے سامنے مہمان خانہ کی عمارت بنوائی گئی جس کا کل رقبہ ۸۰ × ۱۱۵ مربع فٹ تھا۔

۱۳۱۴ھ/۱۹۹۴ء میں اس عمارت کی تعمیر نو اور توسیع عمل میں آئی۔

دارالشفاء و جامعہ طبیہ

دارالعلوم میں طب کی تعلیم کا آغاز ۱۲۹۶ھ/۱۸۷۹ء میں ہوا۔ ۱۳۰۱ھ/۱۸۸۳ء میں شعبہ طب قائم ہوا۔ پہلے اس شعبہ میں مولانا حکیم محمد حسن صاحب برادر خور و حضرت شیخ الہند کا تقرر ہوا۔ حکیم صاحب درس فقہ و حدیث اور طلبہ دارالعلوم کے علاج کے علاوہ فن طب کی تعلیم بھی دیتے تھے۔ اس شعبہ کی کوئی مستقل عمارت نہ تھی۔

۱۳۷۲ھ/۱۹۵۲ء میں شعبہ طب کو توسیع دی گئی اور دارالشفاء (ہسپتال) کا قیام عمل میں آیا اور دارالعلوم کے شمال میں اس کے لیے ایک عمارت بنوا کر مخصوص کی گئی۔ اس میں مفرد، مرکب اور پیٹنٹ ادویہ کے ساتھ چار پائیوں، بستروں اور تیمارداری کا بھی ضروری سامان موجود تھا۔ جس میں اُس وقت کل سات معالجین کے علاوہ چھ کارکن مقرر تھے۔ معالجہ طلبہ کی حد تک محدود نہیں کیا گیا، بلکہ بلا تخصیص مذہب و ملت سب کا علاج کیا جاتا۔

۱۳۷۵ھ/۱۹۵۵ء میں وقف کرنا ل کی طرف سے دارالعلوم کو ایک معقول امداد اس شرط پر پیش کی گئی کہ دارالعلوم کے شفا خانہ کا نام نواب عظمت علی خان کے نام پر رکھا جائے۔ اسی کے ساتھ جامعہ طبیہ کی ایک مستقل کمیٹی بنا کر (جو ملک کے موقر اور بااثر اطباء پر مشتمل تھی) حکومت سے کہا گیا کہ وہ ملک کے دوسرے طبیہ کالجوں کی طرح دارالعلوم کے جامعہ طبیہ کی سند کو تسلیم کر کے فارغین کو مجاز مطب قرار دے جس کو حکومت نے منظور کر لیا۔

۱۳۸۰ھ/۱۹۶۰ء میں دارالعلوم کے شمال میں جامعہ طبیہ کی ایک وسیع اور شان دار عمارت تعمیر ہوئی جس میں درس گاہوں کے علاوہ مریضوں کے بستروں کا بندوبست بھی کیا گیا۔ اس میں چار سالہ طبی کورس کے ذریعہ فن طب کی علمی اور عملی تعلیم دی جاتی تھی۔

۱۳۹۱ھ/۱۹۷۱ء میں دارالشفاء کی عمارت کی تکمیل ہوئی جو دو بڑے ہال، چار کمروں اور برآمدوں پر مشتمل تھی۔ ۱۴۰۶ء میں جامعہ طبیہ کے کورس کو موقوف کر دیا گیا اور صرف دارالشفاء کا سلسلہ جاری رہا۔ دارالشفاء (عظمت ہسپتال) کی عمارت کے بوسیدہ اور تنگ ہو جانے کی وجہ سے موجودہ دور میں دارالشفاء کولب سڑک نو تعمیر شدہ عمارت میں منتقل کر دیا گیا۔

مسجد چھتہ کی توسیع

۱۳۸۹ھ/۱۹۶۹ء میں مسجد چھتہ کی توسیع عمل میں آئی۔ مسجد کے شمال و جنوب میں متعدد حجرے تھے۔ جنوبی حجروں میں حضرت حاجی عابد حسین صاحب اور حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتویؒ کا قیام رہتا تھا اور شمالی حجرہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کی قیام گاہ تھی۔ شمالی حجرہ بہت بوسیدہ ہو گیا تھا، چنانچہ ۱۳۸۹ھ میں اسے از سر نو تعمیر کرایا گیا اور اس تاریخی جگہ کو محفوظ کر دیا گیا۔

موجودہ دور میں بھی مسجد چھتہ کا فرش پختہ بنایا گیا، صحن کے حصہ کو مسقف کیا گیا اور روشنی و ہوا کے لیے مشرقی دیوار کی جگہ آہنی جالی لگائی گئی۔

افریقی منزل قدیم

۱۳۸۸ھ/۱۹۶۸ء میں یہ عمارت ساؤتھ افریقہ کے اہل خیر کے عطیات سے تیار ہوئی اور طلبہ کے لیے قیام گاہ کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ بعد میں اس کو اساتذہ کے رہائشی مکانات میں تبدیل کر دیا گیا۔

افریقی منزل جدید

۱۳۹۱ھ/۱۹۷۱ء میں دارالشفاء کے شمال میں افریقی طلبہ کے دارالاقامہ کا بڑا حصہ افریقی منزل کے نام سے تیار ہوا جس میں گیارہ وسیع کمرے تھے۔
۱۴۰۶ھ/۱۹۸۵ء میں دارالاقامہ کی بالائی منزل تعمیر ہوئی جس میں ۱۳ کمرے تھے۔

رواق خالد

اس دارالاقامہ کی بنیاد ذوالحجہ ۱۳۹۹ھ/نومبر ۱۹۷۹ء میں ہی رکھی جا چکی تھی۔ ۱۴۰۳ھ/۱۹۸۲ء میں اس کی تکمیل عمل میں آئی۔ رواق خالد کی دو منزلہ عمارت ۵۶ کمروں پر مشتمل ہے۔
موجودہ دور میں رواق خالد کی پرانی عمارت کے دونوں جانب دونی سہ منزلہ بلڈنگیں بنائی گئیں جن میں طلبہ کے لیے مزید ۵۶ کمرے بنائے گئے۔

دارالمدرسین

تعلیم و تدریس میں یکسوئی اور انہماک میں اساتذہ کے لیے مع اہل خانہ قیام کی سہولت کا بڑا دخل ہے۔ اسی لیے ۱۴۰۵ھ/۱۹۸۵ء میں افریقی منزل جدید سے شمال مغرب میں دارالمدرسین کی تعمیر کا آغاز کیا گیا۔ دارالمدرسین کی یہ عمارت دو منزلہ ہے اور اس میں آٹھ اساتذہ کرام کے لیے اہل خانہ کے ساتھ قیام کا اچھا انتظام ہے۔
اسی طرح افریقی منزل قدیم کو جو طلبہ کی رہائش گاہ کے طور پر استعمال ہوتی تھی، اس کو رہائشی مکانات میں تبدیل کیا گیا اور اس کے اوپر مزید تین مکانات تعمیر کیے گئے۔ اب اس عمارت میں آٹھ رہائشی مکانات تیار ہو گئے ہیں۔
اسی طرح ۱۹۹۵ء میں دارالقرآن قدیم کے اوپر اساتذہ دارالعلوم کی مع اہل خانہ رہائش کے لیے مزید پانچ مکانات تعمیر کیے گئے۔

دارالتر بیت

حضرت مولانا وحید الزماں کیرانویؒ کی جدوجہد سے چھوٹے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ۱۴۰۷ھ/۱۹۸۶ء میں دارالتر بیت کی وسیع عمارت کی تعمیر ہوئی۔ یہ عمارت افریقی منزل جدید کے جنوب میں ایک مستقل احاطہ کی شکل میں تھی۔

مسجد رشید

۱۳۰۶ھ/۱۹۸۵ء میں دارالعلوم میں طلبہ کی تعداد تین ہزار تک پہنچ گئی۔ اس وقت تک دارالعلوم کے احاطہ میں مسجد چھتہ اور مسجد دارالعلوم، دو مسجدیں تھیں۔ ان دونوں کے مسقف حصہ میں بہ مشکل ایک ہزار طلبہ نماز ادا کر سکتے تھے، بقیہ طلبہ ان کے صحنوں میں گرمی، برسات اور سردیوں میں بڑی دشواری کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے۔ ان تمام پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے دارالعلوم انتظامیہ نے ایک وسیع و عریض جدید مسجد کی تعمیر کا تاریخی فیصلہ کیا۔

۲۳ رجب ۱۳۰۶ھ/۴ اپریل ۱۹۸۶ء کو جمعہ کی نماز سے فراغت کے بعد تین بچے صلاح و تقویٰ، علم و معرفت اور روحانیت و اخلاص کے ایک پاکیزہ قافلہ نے باب الظاہر کے عقب جانب شمال اور باب مدنی کے جانب غرب میں ایک وسیع و عریض مسجد کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس نورانی قافلے میں خاندان حضرت گنگوہی کے چشم و چراغ حضرت مولانا حکیم عبدالرشید محمود صاحب "نیرہ قطب الاشاہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی"، فقیہ الامۃ حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی "مفتی اعظم دارالعلوم، حضرت مولانا سید اسعد مدنی، حضرت مولانا محمد عمر پالن پوری، حضرت مولانا قاضی زین العابدین میرٹھی، حاجی علاء الدین صاحب "بہیمی، حضرت مولانا محمد طلحہ صاحب وغیرہ کے علاوہ اساتذہ، طلبہ اور اہل دیوبند کی ایک بڑی تعداد شریک تھی۔ بنیاد رکھنے کے بعد ان قدسی صفات بزرگوں نے اپنے ہاتھ پارگاہ خداوندی میں پھیلا دیے اور نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ دعا مانگی۔

قطب الاشاہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کا نام "مسجد رشید" رکھا گیا۔ اس عظیم الشان اور تاریخی عمارت کی تعمیر و تزئین میں حضرت مولانا عبدالخالق مدراسی حال نائب مہتمم دارالعلوم نے شبانہ روز کی محنتیں صرف کیں اور تقریباً بارہ سال کی مدت میں دس کروڑ کے صرفہ سے یہ تاریخی عمارت تیار ہوئی۔

سفید سنگ مرمر سے بنی ہوئی یہ عظیم الشان اور خوب صورت مسجد بلاشبہ ہندوستانی مسلمانوں کے اخلاص کی آئینہ دار ہے جن کے عطیات سے یہ خانہ خدا تعمیر ہوا۔ اس مسجد کی تعمیر میں اسلامی فن تعمیر کے شاندار نمونے موجود ہیں اور ناظرین کی توجہ اپنی جانب کھینچتے ہیں۔ مسجد کے پانچ داخلی دروازے ہیں؛ جن میں جانب مشرق کا بلند دروازہ نہایت عالی شان اور پر شکوہ ہے۔ شمال و جنوب کے دو دیگر دروازے اپنی حسین بناوٹ، لطافت اور حسن توازن کی وجہ سے دیدہ زیب ہیں۔

مسجد کا وسیع و عریض صحن اور اس کے سامنے مسقف حصہ میں داخل ہونے والا گیٹ فن تعمیر کا نادر نمونہ ہے۔ صحن مسجد کے دونوں جانب مسقف طویل گیلری ہے۔ اس مسجد کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے مسقف حصے میں آٹھ ہزار سے زیادہ نمازیوں کی گنجائش ہے جب کہ پوری مسجد میں اٹھارہ ہزار افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد کے مسقف حصہ کا رقبہ شرقاً و غرباً ۲۰ فٹ اور شمالاً و جنوباً ۱۴۰ فٹ ہے۔ اس کی تین منزلیں ہیں۔ ایک منزل میں ۲۵ صفیں ہیں اور ایک صف میں تقریباً سو نمازی آسکتے ہیں۔ مسجد کی نماز گاہ کے نیچے تہ خانہ ہے جہاں مدتوں سے دارالعلوم کے

داخلہ، ششماہی اور سالانہ امتحانات منعقد ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک میں اسی تہہ خانہ ہی میں سیکڑوں بندگانِ خدا اعتکاف کرتے ہیں۔ دورۂ حدیث کے طلبہ کی تعداد بڑھ جانے کی وجہ سے تہہ خانہ کو دورۂ حدیث کی درس گاہ کے طور پر بھی استعمال کیا گیا۔

مسجد کے مسقف حصہ کے اوپر درمیان میں عظیم مرمریں گنبد اور اس کے دونوں کناروں پر دو نمبر بفلک مینارے بنے ہوئے جو مسجد کی عظمت و رفعت کو دو بالا کر رہے ہیں۔ مسجد کی گرداگرد چاروں طرف باؤنڈری ہے جب کہ مسجد کے جنوب مشرقی جانب سنگ مرم کا صاف شفاف حوض بنا ہوا ہے۔

مسجد رشید جہاں ایک طرف مسلمانانِ ہند کے ایمان و اخلاص کا شفاف آئینہ ہے وہیں یہ دارالعلوم دیوبند کی محبوبیت و مقبولیت اور اس کی عظمت و جلال کا پرتو بھی ہے۔

مسجد رشید کی وسیع و عریض عمارت دارالعلوم دیوبند کے اہم اجلاسات اور پروگراموں کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ دور اور قریب سے اس کو دیکھنے آنے والوں کا تانتا لگا رہتا ہے۔ دیوبند میں کوئی نو وارد آئے اور مسجد رشید کی روح پرور اور نشاط انگیز ماحول میں دو رکعت نماز نہ پڑھے ایسا ممکن نہیں ہے۔

شیخ الہند منزل (اعظمی منزل)

ضلع اعظم گڑھ کے کچھ اصحاب خیر نے، جو ممبئی میں کاروبار کے سلسلہ میں مقیم ہیں، طے کیا کہ اعظمی منزل کے نام سے دارالعلوم میں طلبہ کی اقامت کے لیے پچاس کمرے تعمیر کیے جائیں، چنانچہ ۱۴۰۷ھ/۱۹۸۶ء میں مدرسہ ثانویہ کے وسیع احاطہ میں اعظمی منزل کے نام سے ایک دارالاقامہ تعمیر ہوا جس کے کمروں کی تعداد ابتداً ۲۶ تھی۔ بعد میں اس عمارت کو دو منزلہ اور پھر سہ منزلہ بنا دیا گیا۔ نیز اس عمارت کا نام بدل کر شیخ الہند منزل رکھ دیا گیا۔ اب یہ عمارت ساٹھ سے زائد بڑے کمروں پر مشتمل ہے۔

حجۃ الاسلام منزل (مدرسہ ثانویہ)

یہ ایک خوبصورت دو منزلہ عمارت ہے جو مدرسہ ثانویہ اور درجہ دینیات کی تعلیم کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس عمارت میں معتد بڑی درس گاہیں اور ہال ہیں جن میں عربی اول تا عربی چہارم اور شعبہ اطفال، اردو ہندی پرائمری تا فارسی پنجم کی تعلیم ہوتی ہے۔ اس عمارت میں مدرسہ ثانویہ کا دفتر بھی واقع ہے جس کے ماتحت مدرسہ ثانویہ اور دینیات کی تعلیم کا نظام قائم ہے۔

شیخ الاسلام منزل (آسامی منزل)

دارالعلوم میں طلبہ کی بڑھتی تعداد کے پیش نظر طلبہ کی اقامت کی تنگی کو دور کرنے کے لیے ۱۴۱۴ھ/۱۹۹۴ء میں آسامی منزل کے نام سے افریقی منزل جدید کے شمال میں ایک نئے وسیع دارالاقامہ کی تعمیر کا فیصلہ کیا گیا۔ بعد میں

اس عمارت کا نام شیخ الاسلام منزل رکھا گیا۔ پہلے دارالترتیب کی عمارت اسی جگہ واقع تھی۔
یہ عمارت سہ منزلہ ہے اور ایک سو بیس بڑے ہال نما کمروں پر مشتمل ہے۔

حکیم الامت منزل (تحفیظ القرآن)

چھوٹے بچوں کی قرآن کی تعلیم کو مزید منظم اور مستحکم کرنے کے مقصد سے تحفیظ القرآن کے عنوان سے ایک مستقل عمارت کی تجویز چلی آرہی تھی۔ چنانچہ اس سلسلہ میں مدرسہ ثانویہ کی جانب شمال جی ٹی روڈ سے متصل تحفیظ القرآن بلڈنگ کی تعمیر کا آغاز کیا گیا جس کی تکمیل ۱۴۲۱ھ/۲۰۰۰ء میں ہوئی۔ بعد میں اس عمارت کا نام بدل کر حکیم الامت منزل کر دیا گیا۔

حکیم الامت منزل کی سہ منزلہ عمارت ہے جس میں تحفیظ القرآن اور ناظرہ قرآن کریم کی تقریباً پچیس درسگاہیں اور ان سے متعلق اساتذہ اور طلبہ کی قیام گاہیں اور ایک بڑا ہال ہے جو جماعت خانے کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تحفیظ القرآن کا دفتر اور پورا نظام اسی منزل میں واقع ہے۔

دارجدید (تعمیر نو)

دارالعلوم دیوبند کا قدیم اور بڑا دارالاقامہ جو دارجدید کے نام سے موسوم ہے وہ تقریباً پون صدی سے زائد کا تعمیر شدہ ہے، خستہ حالی کے سبب اس کی عمارت خصوصاً برآمدے انتہائی مخدوش ہو گئے تھے، اس لیے اس کو منہدم کر کے ازسرنو اس کی تعمیر کا فیصلہ کیا گیا۔ منصوبہ کے مطابق ۱۲۵ کمروں پر مشتمل یہ عمارت تین منزلہ ہوگی، طلبہ کے قیام کے لیے کشادہ بڑے کمرے ہوں گے جن میں دس یا چودہ طلبہ قیام کر سکیں گے۔ ہر طالب علم کے لیے بیڈ اور الماری علیحدہ علیحدہ ہوگی۔

چنانچہ ۱۴۲۹ھ/۲۰۰۸ء میں دارجدید کے انہدام کے بعد اس کی ازسرنو تعمیر شروع کی گئی۔
دارجدید کی تعمیر نو کے پہلے مرحلہ میں دارالعلوم کے جنوبی گیٹ سے باب الظاہر تک کی تین منزلہ عمارت تیار ہوئی جو ۳۰ کمروں پر مشتمل ہے۔ ان کمروں میں طلبہ کی رہائش بھی شروع کرادی گئی۔

دوسرے مرحلہ میں باب الظاہر سے مدنی گیٹ تک پہلے قدیم عمارت کو تڑوا کر لمبہ وغیرہ صاف کرایا گیا اور بنیادی کام کے بعد ۳۰ مزید کمروں پر مشتمل سہ منزلہ عمارت کی تکمیل ہوئی۔ ان کمروں میں طلبہ کی رہائش بھی شروع کرادی گئی۔
دارجدید کے ان ہال نما بڑے کمروں کا سائز مع برآمدہ ۲۳×۳۰ فٹ ہے، ان کمروں میں دس طلبہ کا قیام ہے۔ ہر طالب علم کے لیے علیحدہ الماری اور آر سی، سی بیڈ ہے، بڑے بڑے زینے، بیت الخلاء و غسل خانے اور کپڑے دھونے کے پلیٹ فارم بھی بنائے گئے ہیں۔

دار جدید کے تیسرے مرحلے کی تعمیر مدنی گیٹ سے احاطہ باغ تک اس وقت (۱۴۳۹ھ) پایہ تکمیل کو پہنچ رہی ہے۔ اس عمارت کے نیچے تہہ خانہ بنایا گیا ہے جو غلہ و دیگر اشیاء رکھنے کے لیے استعمال ہوگا۔ اس تین منزلہ عمارت کے اندر طلبہ کے لیے چودہ چودہ سیٹیوں کے کمرے بنائے گئے ہیں۔

تیسرے مرحلے کی تکمیل کے بعد دار جدید کی تعمیر نو کے چوتھے مرحلے میں معراج گیٹ سے مشرقی جانب کی قدیم عمارت کی جگہ نئی عمارت تعمیر ہوگی۔

شیخ الہند لائبریری و دارالحدیث

دارالعلوم کی قدیم لائبریری کی عمارت کے تنگ اور ناکافی ہونے اور دارالعلوم کی رفتار ترقی کے پیش نظر ایک عرصہ سے دارالعلوم کے شایان شان جدید سہولیات سے آراستہ عظیم الشان لائبریری کی تعمیر کی تجویز تھی۔ ۲۰۰۵ء میں مجلس شوریٰ نے اس سلسلہ میں فیصلہ کیا اور حضرت شیخ الہند کے نام نامی کی طرف منسوب کرتے ہوئے ایک عظیم الشان لائبریری کی تعمیر کا بیڑا اٹھایا۔

اس لائبریری کے لیے باب الظاہر کے مغرب میں واقع وسیع و عریض خطہ اراضی کا انتخاب کیا گیا۔ اس عمارت کا نقشہ ممبئی کے مشہور آرکیٹیکٹ جناب احمد کا سوسا صاحب نے تیار کیا۔ حضرت مولانا عبدالحق مدرسی صاحب مدظلہ (نائب مہتمم) کی نگرانی میں اس عمارت کی تعمیر پایہ تکمیل کو پہنچ رہی ہے۔

شیخ الہند لائبریری کی یہ عظیم الشان سربفلک عمارت سات منزلوں پر مشتمل ہے اور اس کا کل تعمیری رقبہ دو لاکھ باسٹھ ہزار مربع فٹ پر مشتمل ہے۔ یہ عمارت مدور (گول) شکل میں بنائی گئی ہے۔

اس وقت (۱۴۳۹ھ) یہ سات منزلہ عمارت کا پورا اسٹرکچر تیار ہو چکا ہے اور باہری دیواروں پر سرخ پتھر بھی لگائے جا چکے ہیں۔ اس کے نیچے تہہ خانے میں بیالیس ہزار مربع فٹ کا ایک بڑا ہال تعمیر کرایا گیا ہے جس کو طلبہ کے امتحانات کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور اس میں دورہ حدیث کی تعلیم بھی شروع کر دی گئی ہے۔ اس سے اوپر کی دو منزلیں درس حدیث کے لیے تیار کی گئی ہیں جس کا رقبہ تہتر ہزار اسکوائر فٹ ہے۔ سب سے اوپر کی چار منزلیں لائبریری کے لیے مخصوص ہیں۔ لائبریری کی منزلوں میں متعدد بڑے بڑے ہال ہیں۔

اس عمارت میں تقریباً پچیس فٹ چوڑی اور ساٹھ فٹ لمبی نو (۹) بڑی بڑی محرابیں بھی ہیں بنائی گئی ہیں۔ ہر منزل پر آمدورفت کے لیے چار لفٹ لگائے جانے کا منصوبہ ہے۔ اس کے علاوہ چار بڑے زینے تعمیر ہو چکے ہیں۔

شیخ الہند لائبریری دارالعلوم کی اب تک کی عمارت میں سے سب سے عظیم الشان، پر شکوہ اور وسیع و عریض عمارت ہے۔ اس عمارت کی تکمیل کے بعد دارالعلوم کا تعلیمی مرکز نقل اس عمارت کی طرف منتقل ہو جائے گا۔

جدید درس گاہیں

شیخ الہند لائبریری کی تکمیل کے ساتھ ہی دیگر درجات عربیہ کی تعلیم کے لیے اس سے متصل جانب جنوب میں

چھوٹی بڑی ۴۰ مدرس گاہیں تیار کی جا چکی ہیں جن میں ابھی کچھ کام باقی ہے۔ یہ درس گاہیں بڑی کشادہ اور ہوادار ہیں۔

جدید مطبخ

دارالعلوم کا مطبخ جو قدیم زمانے کا تعمیر شدہ ہے، اس کی عمارت کمزور اور مخدوش ہو گئی ہے، نیز اس کی عمارت دارالعلوم کی موجودہ ضرورت کے لیے ناکافی بھی ہے۔

مجلس شوریٰ کی منظوری کے بعد شیخ الاسلام منزل کی پشت پر دوسرے نئے مطبخ کی تعمیر کا کام تقریباً مکمل ہونے والا ہے جس میں مطبخ کی تمام ضروریات مثلاً اجناس و آثار کھنے کے لیے گودام، آٹا چکی اور مصالحہ جات، آٹا گوندھنے کی مشینوں کے لیے علیحدہ کمرے ہیں۔ اس عمارت میں شعبہ مطبخ کے دفتر کے ساتھ ساتھ طلبہ کو کھانا کھلانے کے لیے بڑے بڑے ڈائننگ ہال بھی بنائے گئے ہیں۔

جدید دارالمدرسین

دارالعلوم سے مغرب اندرا پارک کے پاس صغیر کالونی میں دارالعلوم نے ایک وسیع قطعہ اراضی خرید کر اساتذہ کے لیے دارالمدرسین (فیملی کوارٹرز) تعمیر کرانے کا منصوبہ بنایا جس میں کچھ اصحاب خیر کی توجہ سے ایک تین منزلہ عمارت تیار ہو چکی ہے۔ اس عمارت میں کل اٹھارہ (۱۸) فلیٹ تیار کیے گئے ہیں، ہر فلیٹ کا تعمیراتی رقبہ زائد از سو مربع گز پر مشتمل ہے۔

گزشتہ عیشروں میں دیگر تعمیراتی سرگرمیاں

اجلاس صد سالہ کے بعد دارالعلوم نے جہاں تعلیمی و انتظامی میدانوں میں خوب ترقی کی وہیں تعمیراتی میدان میں بھی اس نے بے مثال ترقی کی اور اس کا زمینی اور تعمیراتی رقبہ دو چند سے بھی بڑھ گیا۔ طلبہ کی اقامت کے لیے متعدد اہم اور بڑے ہاسٹل تعمیر ہوئے، مسجد رشید کی تعمیر ہوئی اور شیخ الہند لائبریری کا عظیم الشان تعمیراتی منصوبہ پایہ تکمیل تک پہنچا۔

ان بڑے تعمیراتی منصوبوں کے ساتھ ساتھ دیگر بہت سے تعمیراتی کام ہوئے جو اپنی جگہ پر نہایت اہم ہیں اور ان میں کثیر مصارف بھی صرف ہوئے۔ ان میں بعض عمارات مستقل طور پر تعمیر ہوئیں جب کہ بعض عمارتوں میں توسیع و تزئین کی گئی۔ ذیل میں اس طرح کی چند اہم تعمیرات کی فہرست دی جا رہی ہے:

- دار جدید کے چاروں کونوں پر بیت الخلاء اور غسل خانوں اور زینوں کی تعمیر
- طلبہ کو پانی کی دشواریوں کے ازالہ کے لیے دارالعلوم کی اپنی ٹینکوں کی تعمیر
- دفتر تعلیمات کی پانچ ہال نما کمروں پر مشتمل عمارت کی تعمیر

- احاطہ مولسری کے تینوں جانب دو منزلہ سائبان کی تعمیر
 - جامع رشید کے سامنے مکتبہ دارالعلوم، عظمت ہسپتال، ریلوے ٹکٹ گھر، بینک کی شاخ اور اے، ٹی، ایم کے لیے کمروں کی تعمیر
 - مہمان خانہ کی تعمیر نو و توسیع
 - دارالافتاء کی توسیع
 - مسجد قدیم کی تزئین
 - مسجد چھتہ کی تزئین و توسیع
 - دارالحدیث تھانی کی تزئین و تحسین
 - مطبخ کی توسیع
 - نئے جنریٹر روم کی تعمیر
 - مختلف مقامات پر نئی آراضی کی خریداری اور ان کی چہار دیواری، وغیرہ وغیرہ
- اس کے علاوہ اس وقت شیخ الاسلام منزل کے سامنے ایک مسجد کی تعمیر کا منصوبہ تیار ہے جس سے متصل جی ٹی روڈ کے برابر میں طلبہ کی رہائش کے لیے ایک نیا دارالاقامہ بھی تعمیر ہوگا۔ علاوہ ازیں، اسی طرح رواق خالد کی قدیم عمارت کے بوسیدہ ہونے کی وجہ سے اس کی جگہ نئی عمارت کا منصوبہ بھی تیار ہے۔

مآخذ:

- تاریخ دارالعلوم دیوبند، جلد اول
- دارالعلوم دیوبند: شاندار ماضی، تابناک حال اور روشن مستقبل، ۱۴۱۵ھ
- دارالعلوم دیوبند: خدمات، حالات، منصوبے، ۱۴۱۹ھ
- دارالعلوم دیوبند: تعارف، خدمات، منصوبے، ۱۴۲۵ھ
- تعمیری منصوبہ جات وغیرہ

تیسرا باب

علمائے دیوبند کا مسلک اور سلسلہٴ سند

- دارالعلوم دیوبند کا مسلک و مشرب _____ ۱۸۳
- دارالعلوم دیوبند کا فکری منہج _____ ۱۸۹
- دارالعلوم دیوبند کا سلسلہٴ سند و استناد _____ ۱۹۴
- دارالعلوم دیوبند کی خصوصیات _____ ۱۹۸

علمائے دیوبند کا مسلک و مشرب

علمی حیثیت سے علمائے دیوبند کی ولی اللہی جماعت اہل السنۃ والجماعۃ ہے جس کی بنیاد کتاب و سنت اور اجماع و قیاس پر قائم ہے، اس کے نزدیک تمام مسائل میں اول درجہ نقل و روایت اور آثار سلف کو حاصل ہے، جس پر پورے دین کی عمارت کھڑی ہوئی ہے، اس کے یہاں کتاب و سنت کی مرادات محض قوت مطالعہ سے نہیں بلکہ اقوال سلف اور ان کے متواتر مذاق کی حدود میں محدود رہ کر نیز اساتذہ اور شیوخ کی صحبت و ملازمت اور تعلیم و تربیت ہی سے متعین ہو سکتی ہیں۔ اسی کے ساتھ عقل و درایت اور تفقہ فی الدین بھی اس کے نزدیک فہم کتاب و سنت کا ایک بڑا اہم جز ہے، وہ روایات کے مجموعے سے شارع علیہ السلام کی غرض و غایت کو سامنے رکھ کر تمام روایات کو اسی کے ساتھ وابستہ کرتا ہے، اور سب کو درجہ بدرجہ اپنے اپنے محل پر اس طرح چسپاں کرتا ہے کہ وہ ایک ہی زنجیر کی کڑیاں دکھائی دیں؛ اس لئے جمع بین الروایات اور تعارض کے وقت تطبیق احادیث اس کا خاص اصول ہے، جس کا منشاء یہ ہے کہ وہ کسی ضعیف سے ضعیف روایت کو بھی چھوڑنا اور ترک کر دینا نہیں چاہتا جب تک کہ وہ قابل احتجاج ہو، اسی بنا پر اس جماعت کی نگاہ میں نصوص شرعیہ کسی بھی تعارض اور اختلاف سے مبرا رہ کر ایک ایسا گلدستہ دکھائی دیتا ہے جس میں ہر رنگ کے علمی و عملی پھول اپنے اپنے موقع پر کھلے ہوئے نظر آتے ہیں۔

اسی کے ساتھ بطریق اہل سلوک (جو رسمیات اور رواجوں اور نمائشی حال و قال سے مبرا اور بری ہے) تزکیہ نفس اور اصلاح باطن بھی اس کے مسلک میں ضروری ہے، اس نے اپنے منسبین کو علم کی رفعتوں سے بھی نوازا اور عبدیت و تواضع جیسے انسانی اخلاق سے بھی مزین کیا، اس جماعت کے افراد ایک طرف علمی وقار، استغناء (علمی حیثیت سے) اور غناء نفس (اخلاقی حیثیت سے) کی بلندیوں پر فائز ہوئے، وہیں فروتنی، خاکساری اور ایثار و زہد کے متواضعانہ جذبات سے بھی بھر پور ہوئے، نہ رعونت اور کبر و نخوت کا شکار ہوئے اور نہ ذلت نفس اور مسکنت میں گرفتار۔ وہ جہاں علم و اخلاق کی بلندیوں پر پہنچ کر عوام سے اونچے دکھائی دینے لگتے ہیں وہیں عجز و نیاز، تواضع و فروتنی اور لا امتیازی کے جوہروں سے مزین ہو کر عوام میں ملے جلے اور کما حد من الناس بھی رہے۔ جہاں وہ مجاہدہ و مراقبہ سے خلوت پسند ہوئے وہیں مجاہدانہ اور غازیانہ اسپرٹ نیز قومی خدمت کے جذبات سے جلوہ آرا بھی ثابت ہوئے۔ غرض علم و اخلاق، خلوت و جلوت اور مجاہدہ و جہاد کے مخلوط جذبات و دعویٰ سے ہر دائرہ دین میں اعتدال اور میانہ روی ان کے مسلک میں ان کی امتیازی شان بن گئی، جو علوم کی جامعیت اور اخلاق کے اعتدال کا قدرتی ثمرہ ہے۔ اسی لئے ان کے یہاں محدث ہونے کے معنی فقیہ سے لڑنے یا فقیہ ہونے کے معنی محدث سے بیزار ہو جانے یا نسبت احسانی (تصوف پسندی) کے معنی متکلم دشمنی یا علم کلام کی حذاقت کے معنی تصوف بیزاری

کے نہیں بلکہ ان کے جامع مسلک کے تحت اس تعلیم گاہ کا فاضل درجہ بدرجہ بیک وقت محدث، فقیہ، مفسر، مفتی، متکلم، صوفی (مسن) اور حکیم و مربی ثابت ہوا، جس میں زہد و قناعت کے ساتھ عدم تقشف، حیا و انکساری کے ساتھ عدم مداہنت، رافت و رحمت کے ساتھ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، قلبی یکسوئی کے ساتھ قومی خدمت اور خلوت در انجمن کے ملے جلے جذبات راسخ ہو گئے۔ ادھر علم و فن اور تمام ارباب علوم و فنون کے بارے میں اعتدال پسندی، حقوق شناسی اور ادائیگی حقوق کے جذبات ان میں بطور جوہر نفس پیوست ہو گئے۔ بنا بریں دینی شعبوں کے تمام ارباب فضل و کمال اور راسخین فی العلم خواہ محدثین ہوں یا فقہاء، صوفیاء ہوں یا عرفاء، متکلمین ہوں یا اصولیین، امراء اسلام ہوں یا خلفاء، ان کے نزدیک سب واجب الاحترام اور واجب العقیدت ہیں۔ جذباتی رنگ سے کسی طبقے کو بڑھانا اور کسی کو گرانایا مدح و ذم میں حدود شرعیہ سے بے پروا ہو جانا اس جماعت کا مسلک نہیں۔ اس جامع طریق سے دارالعلوم نے اپنی علمی خدمات سے شمال میں سائبیریا سے لے کر جنوب میں سمٹرا اور جاوا تک اور مشرق میں برما سے لے کر مغربی سمٹوں میں عرب اور افریقہ تک علوم نبویہ کی روشنی پھیلا دی جس سے پاکیزہ اخلاق کی شاہراہیں صاف نظر آنے لگیں۔

دوسری طرف سیاسی اور ملکی خدمات سے بھی اس کے فضلاء نے کسی وقت بھی پہلو تہی نہیں کیا حتیٰ کہ ۱۸۰۳ء سے ۱۹۴۷ء تک اس جماعت کے افراد نے اپنے اپنے رنگ میں بڑی سے بڑی قربانیاں پیش کیں جو تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہیں، کسی وقت بھی ان بزرگوں کی سیاسی اور مجاہدانہ خدمات پر پردہ نہیں ڈالا جاسکتا، بالخصوص تیرہویں صدی ہجری کے نصف آخر میں مغلیہ حکومت کے زوال کی ساعتوں میں خصوصیت سے حضرت شیخ المشائخ مولانا حاجی امداد اللہ صاحب قدس سرہ کی سرپرستی میں ان کے دو میدان خاص حضرت مولانا محمد قاسم صاحب اور حضرت مولانا رشید احمد صاحب اور ان کے منتسبین اور متوسلین کی مساعی انقلاب، جہادی اقدامات اور حریت و استقلال ملی کی فداکارانہ جدوجہد اور گرفتاریوں کے وارنٹ اور قید و بند وغیرہ وہ تاریخی حقائق ہیں جو نہ جھٹلائی جاسکتی ہیں نہ بھلائی جاسکتی ہیں۔ جو لوگ ان حالات پر محض اس لیے پردہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ وہ خود اس راہ سرفروشی میں قبول نہیں کئے گئے تو اس سے خود ان ہی کی نامقبولیت میں اضافہ ہوگا۔ اس بارے میں ہندوستان کی تاریخ سے باخبر حضرات اور ارباب تحقیق کے نزدیک ایسی تحریریں خواہ وہ کسی دیوبندی المنسبت کی ہوں یا غیر دیوبندی کی جن سے ان بزرگوں کی ان جہادی خدمات کی نفی ہوتی ہو ناقابل توجہ اور قطعاً ناقابل التفات ہیں، اگر حسن ظن سے کام لیا جائے تو ان تحریرات کی زیادہ سے زیادہ توجیہ صرف یہ کی جاسکتی ہے کہ ایسی تحریریں وقت کے مرعوب کن عوامل کے نتیجے میں محض ذاتی حد تک حزم و احتیاط کا مظاہرہ ہیں، ورنہ تاریخی اور واقعاتی شواہد کے پیش نظر نہ ان کی کوئی اہمیت ہے نہ وہ قابل التفات ہیں۔ ان خدمات کا سلسلہ مسلسل آگے تک بھی چلا اور انھیں متواتر جذبات کے ساتھ ان بزرگوں کے اخلاف رشید بھی سرفروشانہ انداز سے قومی اور ملی خدمات کے سلسلے میں آگے آتے رہے، خواہ وہ تحریک خلافت ہو یا استخلاص وطن کی جدوجہد، انھوں نے بروقت ان تمام انقلابی اقدامات میں اپنے منصب کے عین مطابق حصہ لیا۔

مختصر یہ کہ علم و اخلاق کی جامعیت اس جماعت کا طرہ امتیاز رہا اور وسعت نظری، روشن ضمیری اور رواداری کے ساتھ دین و ملت اور قوم و وطن کی خدمت اس کا مخصوص شعار، لیکن ان تمام شعبہ ہائے زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت اس جماعت میں علوم نبوت کی تعلیم و تعلم کو حاصل رہی ہے، جب کہ یہ تمام شعبے علم ہی کی روشنی میں صحیح طریق پر بروئے کار آسکتے تھے اور اسی پہلو کو اس نے نمایاں رکھا اس لئے اس مسلک کی جامعیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ جامع علم و معرفت، جامع عقل و عشق، جامع عمل و اخلاق، جامع مجاہدہ و جہاد، جامع دیانت و سیاست، جامع روایت و درایت، جامع خلوت و جلوت، جامع عبادت و مدنیت، جامع حکم و حکمت، جامع ظاہر و باطن اور جامع حال و قال ہے۔

اس مسلک کو جو سلف و خلف کی نسبتوں سے حاصل شدہ ہے اگر اصطلاحی الفاظ میں لایا جائے تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دارالعلوم دیناً مسلم، فرقۃ اہل السنۃ والجماعۃ، مذہباً حنفی، مشرباً صوفی، کلاماً ماتریدی اشعری، سلوکاً چشتی بلکہ جامع السلاسل، فکر آولی اللہی، اصولاً قاسمی، فروغاً رشیدی اور نسبتاً دیوبندی ہے۔

الغرض دارالعلوم دیوبند کا مسلک اعتدال سات اصولی بنیادوں پر قائم ہے جو مختصر تشریح کے ساتھ ذیل میں پیش کیے جاتے ہیں:

(۱) علم شریعت:

اس میں اعتقادات، عبادات، معاملات، وغیرہ کی سب انوار داخل ہیں جن کا حاصل ایمان اور اسلام ہے، بشرطیکہ یہ علم سلف کے اقوال و تعامل کے دائرے میں محدود رہ کر ان مستند علمائے دین اور مربیان قلوب کی تعلیم و تربیت اور فیضانِ صحبت سے حاصل شدہ ہو، جن کے ظاہر و باطن، علم و عمل اور فہم و ذوق کا سلسلہ سند متصل کے ساتھ حضرت صاحب شریعت علیہ افضل الصلوٰات والتحیات تک مسلسل پہنچا ہوا ہو، خود رائی یا محض کتب بنی اور قوت مطالعہ یا محض عقلی تگ و تاز اور ذہنی کاوش کا نتیجہ نہ ہو، گو وہ عقلی پیرایہ بیان اور استدلالی حجت و برہان سے خالی بھی نہ ہو کہ اس علم کے بغیر حق و ناحق، حلال و حرام، جائز و ناجائز، سنت و بدعت اور مکروہ و مندوب میں امتیاز ممکن نہیں اور نہ ہی اس کے بغیر دین میں خود رو تخیلات، فلسفیانہ نظریات اور بے جا توہمات سے نجات ممکن ہے۔

(۲) پیروی طریقت:

یعنی محققین صوفیہ کے سلاسل اور اصول مجربہ کے تحت (جو کتاب و سنت سے ماخوذ ہیں) تہذیب اخلاق، تزکیہ نفس اور سلوک باطن کی تکمیل، کہ اس کے بغیر اعتدال اخلاق، استقامت ذوق و وجدان، باطنی بصیرت، ذہنی پاکیزگی اور مشاہدہ حقیقت ممکن نہیں، ظاہر ہے کہ یہ شعبہ اسلام و ایمان کے ساتھ احسان سے متعلق ہے۔

(۳) اتباع سنت:

یعنی زندگی کے ہر شعبہ میں سنت نبویؐ کی پیروی اور ہر حال و قال اور ہر کیفیت ظاہر و باطن میں ادب شریعت

برقرار رکھ کر سنت مستمرہ کا غلبہ، کہ اس کے بغیر رسوم جہالت، رواجی بدعات و منکرات اور باوجود احوال باطن کے فقدان کے محض رسمی طور پر اہل حال کے وجدی شطیحات و کلمات کی نقالی یا انھیں شریعت کے متوازی ایک مستقل قانون عام کی صورت دیے دیئے جانے کی بلا سے نجات ممکن نہیں۔

(۴) فقہی حنفیت:

اسلامی فرعیات اور اجتہادیات کا نام فقہ ہے، اور اکا بردار العلوم چونکہ عامۃً حنفی ہیں اس لیے فقہی حنفیت کے معنی اجتہادی فرعیات میں فقہ حنفی کا اتباع اور مسائل و فتاویٰ کی تخریج میں اسی اصول فقہ کی پیروی کے ہیں کہ اس کے بغیر استنباطی مسائل میں ہوائے نفس سے بچاؤ اور تلفیق کے راستے سے مختلف فقہوں میں تلون کے ساتھ دائر سائرہ کر عوام کی حسب خواہش، نفس مسائل میں قطع و برید یا ہنگامی حالات کی مرعوبیت سے ذہنی قیاس آرائی اور لاعلمی کے ساتھ مسائل میں جاہلانہ تصرفات اور اختراعات سے اجتناب ممکن نہیں، ظاہر ہے کہ یہ شعبہ اسلام سے متعلق ہے۔

(۵) کلامی ماتریدیت:

یعنی اعتقادات میں فکر صحیح کے ساتھ طریق اہل سنت والجماعت اور اشاعرہ و ماتریدیت کے تنقیح کردہ مفہومات اور مرتب کردہ اصول و قواعد پر عقائد حقہ کا استحکام اور قوت یقین کی برقراری کہ اس کے بغیر زانغین کی شک اندازیوں اور فرق باطلہ کے قیاسی اختراعات اور اوہام و شبہات سے بچاؤ ممکن نہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ شعبہ ایمان سے متعلق ہے۔

(۶) دفاع زلیغ و ضلالت:

یعنی متعصب گروہ بندوں اور ارباب زلیغ کے اٹھائے ہوئے فتنوں کی مدافعت، مگر وقت کی زبان و بیان میں اور ماحول کی نفسیات کے شعور کے ساتھ وقت ہی کے مانوس وسائل کے ذریعہ جس سے اتمام حجت ہو۔ نیز مجاہدانہ روح کے ساتھ ان کے استیصال کی مساعی کہ اس کے بغیر ازالہ منکرات اور معاندین کی دست برد سے شریعت کا تحفظ ممکن نہیں، اس میں ردّ شرک و بدعت، ردّ الجاد و دہریت، اصلاح رسوم جاہلیت اور حسب ضرورت تحریری یا تقریری مناظرے، اور تغیر منکرات سب شامل ہیں، ظاہر ہے کہ یہ شعبہ اعلاء کلمۃ اللہ فحوائے "لنکون کلمۃ اللہ ہی العلیا" اور اظہار دین فحوائے "لیظہرہ علی الدین کلہ" اور عام نظم ملت سے متعلق ہے۔

(۷) ذوق قاسمیت و رشیدیت:

پھر یہی پورا مسلک اپنی مجموعی شان سے جب دارالعلوم دیوبند کے مریدان اول اور نبض شناسان امت حضرت

نانوتوی اور حضرت گنگوہی رحمہما اللہ کے روح و قلب سے گزر کر نمایاں ہوا تو اس نے وقت کے تقاضوں کو اپنے اندر سمیٹ کر ایک خاص ذوق اور خاص رنگ کی صورت اختیار کر لی جسے مشرب کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، چنانچہ دستور اساسی دارالعلوم دیوبند منظور شدہ شعبان ۱۳۶۸ھ میں اس حقیقت کو بایں الفاظ کہا گیا ہے کہ ”دارالعلوم دیوبند کا مسلک اہل السنۃ والجماعۃ حنفی مذہب اور اس کے مقدس بانیوں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس سرہما کے مشرب کے موافق ہوگا۔“ (دستور اساسی ص: ۶)

اس لیے مسلک دارالعلوم دیوبند کے اجزاء ترکیبی میں یہ جز ایک اہم عنصر ہے جس پر دارالعلوم کی تعلیم و تربیت کا کارخانہ چل رہا ہے، جو احسان کے تحت آتا ہے جب کہ اس کا تعلق روحانی تربیت سے ہے، پس علم شریعت، پیروی طریقت، اتباع سنت، فقہی حنفیت، کلامی ماتریدیت، دفاع ضلالت اور ذوق قاسمیت و رشیدیت اس مسلک اعتدال کے عناصر ترکیبی ہیں، جو ”سبع سنابل فی کل سنبلۃ مائة حبة“ کا مصداق ہیں، ان سبع سنابل کو اگر شرعی زبان میں ادا کیا جائے تو ایمان، اسلام، احسان اور اظہار دین سے تعبیر کیا جاسکتا ہے، جیسا کہ ہر نمبر میں اسکی طرف اشارہ بھی کر دیا گیا ہے۔ اگر کہا جائے کہ ان ہی دفعات سبعہ کا مجموعہ بہ تفصیلات بالا دارالعلوم دیوبند کا مسلک حدیث جبریل ہے تو بے محل نہ ہوگا۔

پھر ان تمام بنیادی عناصر کی بنیاد و اساس کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس مجتہد ہے، جن میں سے پہلی دو جہتیں تشریحی ہیں جن سے شریعت بنتی ہے اور آخر کی دو جہتیں تفریحی ہیں جن سے شریعت کھلتی ہے، پہلی دو جہتیں منصوصات کا خزانہ ہیں جو روایتی ہیں، جن کے لیے سند و روایت ناگزیر ہے اور دوسری دو جہتیں درایتی ہیں جن کے لیے تربیت یافتہ عقل و فہم اور تقویٰ شعائر ذہن و ذوق ناگزیر ہے، اس لیے یہ مسلک اعتدال نقلی بھی ہے اور عقلی بھی، روایتی بھی ہے اور درایتی بھی، مگر اس طرح کہ نہ عقل سے خارج ہے نہ عقل پر مبنی، بلکہ عقل و نقل کی متوازن آمیزش سے بایں اندازہ برپا شدہ ہے کہ نقل اور وحی اس میں اصل ہے اور عقل اس کی ہمہ وقتی خادم اور کارپرداز ہے۔

اس لیے علمائے دیوبند کا یہ مسلک نہ تو عقل پرست معتزلہ کا مسلک ہے جس میں عقل کو نقل پر حاکم اور متصرف مان کر عقل کو اصل اور وحی یا اس کے مفہوم کو عقل کے تابع کر دیا گیا ہے؛ جس سے دین فلسفہ محض بن کر رہ جاتا ہے، عوام کے لیے زندقہ کی راہیں ہموار ہو جاتی ہیں اور ساتھ ہی سادہ مزاج عقیدت مندوں کا کوئی رابطہ دین سے قائم نہیں رہتا، اور نہ یہ مسلک ظاہریہ کا مسلک ہے، جس میں الفاظ وحی پر جمود کر کے عقل و درایت کو معطل کر دیا گیا ہے، اور دین کے باطنی علل و اسرار اور اندرونی حکم و مصالح کو خیر باد کہہ کر اجتہاد اور استنباط کی ساری راہیں مسدود کر دی گئی ہیں، جس سے دین ایک بے حقیقت بلکہ بے معنویت غیر محقول اور جامد شے بن کر رہ جاتا ہے اور دانش پسند اور حکمت دوست افراد کا اس سے کوئی علاقہ باقی نہیں رہتا، تو ایک مسلک میں عقل ہی عقل رہ جاتی ہے اور ایک مسلک میں عقل معطل اور بے کار، ظاہر ہے کہ یہ دونوں جہتیں افراط و تفریط اور ”وسکان امرہ فرطاً“ کی راہیں ہیں جن سے یہ متوسط اور جامع و معتدل دین بری ہے۔ اس لیے دین کا جامع عقل و نقل مسلک یہی ہے اور یہی ہو بھی سکتا ہے کہ

تمام اصول و فروع میں عقل سلیم نقل صحیح کے ساتھ ہمہ وقت وابستہ رہے مگر دین کے ایک مطیع و فرمانبردار خادم اور پیش کار کی طرح کہ اس کی ہر ایک کلمی و جزئی کے لیے عقلی براہین، معقول دلائل اور حسی شواہد نظر فرما، ہم کرتی رہے جس سے دین، امت کے ہر طبقہ کے لیے قابل قبول اور ہمہ جہتی دستور حیات ثابت ہو اور یہ امت ”وجعلناکم امة وسطا“ کی صحیح مصداق دکھائی دے، یہی مسلک اہل السنۃ والجماعۃ کا مسلک کہلاتا ہے اور علمائے دیوبند اس مسلک کے نقیب اور علم بردار ہیں، اسی لیے وہ اس مسلک جامع اور ان تمام دینی علوم کے اجتماع سے بیک وقت مفسر بھی ہیں اور محدث بھی، فقیہ بھی ہیں اور متکلم بھی، صوفی بھی ہیں اور مجاہد و مفکر بھی اور پھر ان تمام علوم کے امتزاج سے ان کا مزاج معتدل بھی اور متوسط بھی، یہی وجہ ہے کہ ان کے جماعتی مزاج میں نہ غلو ہے نہ مبالغہ، اور اس وسعت نظری کی بدولت نہ تکفیر بازی ہے نہ دشنام طرازی، نہ کسی کے حق میں سب و شتم ہے نہ بدگوئی، نہ عناد و حسد اور طیش ہے اور نہ غلبہ جاہ و مال اور افراط عیش، بلکہ صرف بیان مسئلہ ہے اور اصلاح امت یا احقاق حق ہے اور ابطال باطل، جس میں نہ شخصیات کی تحقیر اور بدگوئی کا دخل ہے، نہ مغرورانہ طعن و استہزاء کا، ان ہی اوصاف و احوال کے مجموعہ کا نام دارالعلوم دیوبند ہے، اور اسی علمی و عملی ہمہ گیری سے اس کا دائرہ اثر دنیا کے تمام ممالک تک پھیلا ہوا ہے۔

ماخذ:

- مسلک علمائے دیوبند، حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحبؒ بحوالہ تاریخ دارالعلوم دیوبند، جلد اول، ص ۴۲۴ تا ۴۳۵

علمائے دیوبند کا فکری منہج

محدثین دہلی اور ان کے چشمہ علم و عرفان سے سیراب دارالعلوم اور علمائے دیوبند اپنے مسلک اور دینی رخ کے اعتبار سے کلیتاً اہل سنت والجماعت ہیں پھر وہ خودِ وقت کے اہل سنت نہیں بلکہ اوپر سے ان کا سندی سلسلہ جڑا ہوا ہے؛ اس لیے مسلک کے اعتبار سے وہ نہ کوئی جدید فرقہ ہیں نہ بعد کی پیداوار ہیں بلکہ وہی قدیم اہل سنت والجماعت کا مسلسل سلسلہ ہے جو اوپر سے سند متصل اور استمرار کے ساتھ کابرا عن کا پرچلا آ رہا ہے۔

علمائے دارالعلوم دیوبند کے اس جامع، افراط و تفریط سے پاک مسلک معتدل کو سمجھنے کے لیے خود لفظ اہل سنت والجماعت میں غور کرنا چاہیے جو دو اجزاء سے مرکب ہے: ایک 'السنة' جس سے اصول، قانون، اور طریق نمایاں ہیں اور دوسرا 'الجماعة' جس سے شخصیات اور رفقاء کے طریق نمایاں ہیں۔ اہل السنة والجماعة کے اس ترکیبی کلمہ سے یہ بات پورے طور پر واضح ہوتی ہے کہ اس مسلک میں اصول و قوانین بغیر شخصیات کے اور شخصیات بغیر قوانین کے معتبر نہیں کیوں کہ قوانین ان شخصیات ہی کے راستے سے آتے ہیں؛ اس لیے ماخوذ کو لیا جانا اور ماخذ کو چھوڑ دینا کوئی معقول مسلک نہیں ہو سکتا۔

حدیث ”ما أنا عليه و أصحابي“ میں بہتر (۷۲) فرقوں میں سے فرقہ ناجیہ کی نشاندہی فرماتے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار حق ان ہی دو چیزوں کو قرار دیا ”ما أنا“ سے اشارہ سنت یعنی طریق نبوی یا قانون دین کی طرف ہے اور ”و أصحابي“ سے اشارہ الجماعۃ یعنی برگزیدہ شخصیات کی طرف ہے بلکہ مسند احمد اور سنن ابی داؤد میں اصحابی کے بجائے الجماعۃ کا صریح لفظ موجود ہے۔

اس لیے تمام صحابہ، تابعین، فقہائے مجتہدین، ائمہ محدثین اور علمائے راہنہ کی عظمت و محبت ادب و احترام اور اتباع و پیروی اس مسلک کا جوہر ہے؛ کیوں کہ ساری دینی برگزیدہ شخصیتیں ذات نبوی سے انتساب کے بدولت ہی وجود میں آتی ہیں۔ پھر مختلف علوم دینیہ میں صداقت و مہارت اور خدا داد فراست و بصیرت کے لحاظ سے ہر شعبہ علم میں ائمہ اور اولوالامر پیدا ہوئے اور امام و مجتہد کے نام سے انھیں یاد کیا گیا۔ مثلاً ائمہ اجتہاد میں امام ابوحنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل وغیرہ، ائمہ حدیث میں امام بخاری، امام مسلم، امام ابوداؤد، امام ترمذی، امام نسائی وغیرہ، ائمہ درایت و تفقہ میں امام ابویوسف، امام محمد بن حسن، امام خلل، امام مزنی، امام ابن رجب وغیرہ۔ ائمہ احسان و اخلاص میں اولیس قرنی، فضیل بن عیاض وغیرہ، ائمہ حکمت و حقائق میں امام رازی، امام غزالی وغیرہ، ائمہ کلام میں ابوالحسن اشعری، ابومنصور ماتریدی وغیرہ نیز اس قسم کی دین کی اور بھی برگزیدہ شخصیتیں ہیں

جن کی درجہ بدرجہ توفیر و عظمت مسلک دارالعلوم دیوبند میں شامل ہے۔
پھر ان تمام دینی شعبوں کے اصول و قوانین کا خلاصہ دو ہی چیزیں ہیں: ”عقیدہ و عمل“ عقیدے میں تمام عقائد کی اساس و بنیاد عقیدہ توحید ہے اور عمل میں سارے اعمال کی بنیاد اتباع سنت ہے۔

توحید

مسلک دیوبند میں عقیدہ توحید پر بطور خاص زور دیا جاتا ہے تاکہ اس کے ساتھ شرک یا موجبات شرک جمع نہ ہوں اور کسی بھی غیر اللہ کی اس میں شرکت نہ ہو۔ ساتھ ہی تعظیم اہل اللہ اور ارباب فضل و کمال کی توفیر کو عقیدہ توحید کے منافی سمجھنا مسلک کا کوئی عنصر نہیں۔

خاتم الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ

علمائے دیوبند کا یہ ایمان ہے کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر و افضل الانبیاء ہیں، مگر ساتھ ہی آپ کی بشریت کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں۔ وہ آپ کے علو درجات کو ثابت کرنے کے لیے حدود و عبادت کو توڑ کر حدود و عبودیت میں پہنچا دینے سے کلی احتراز کرتے ہیں۔ وہ آپ کی اطاعت کو فرض عین سمجھتے ہیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو جائز نہیں سمجھتے۔

علمائے دیوبند برزخ میں آپ کی حیات جسمانی کے قائل ہیں مگر وہاں معاشرت دنیوی کو نہیں مانتے۔ وہ آپ کے علم عظیم کو ساری کائنات کے علم سے بدرجہا زیادہ مانتے ہیں پھر بھی اس کے ذاتی و محیط ہونے کے قائل نہیں ہیں۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم

علمائے دیوبند تمام صحابہ کی عظمت کے قائل ہیں؛ البتہ ان میں باہم فرق مراتب ہے تو عظمت مراتب میں بھی فرق ہے، لیکن نفس صحابیت میں کوئی فرق نہیں اس لیے محبت و عقیدت میں بھی فرق نہیں پڑ سکتا پس ”الصحابة کلہم عدول“ اس مسلک کا سنگ بنیاد ہے۔ صحابہ بحیثیت قرن خیر من حیث الطبقة ہیں اور پوری امت کے لیے معیار حق ہیں۔ علمائے دیوبند انہیں غیر معصوم ماننے کے باوجود ان کی شان میں بدگمانی اور بدزبانی کو جائز نہیں سمجھتے اور صحابہ کے بارے میں اس قسم کا رویہ رکھنے والے کو حق سے منحرف سمجھتے ہیں۔

علمائے دیوبند کے نزدیک ان کے باہمی مشاجرات میں خطا و صواب کا تقابل ہے حق و باطل اور طاعت و معصیت کا نہیں؛ اس لیے ان میں سے کسی فریق کو تنقید و تنقیص کا ہدف بنانے کو جائز نہیں سمجھتے۔

صلحائے امت

علمائے دیوبند تمام صلحائے امت و اولیاء اللہ کی محبت و عظمت کو ضروری سمجھتے ہیں لیکن اس محبت و تعظیم کا یہ معنی قطعاً نہیں لیتے کہ انھیں یا ان کی قبروں کو سجدہ و طواف اور نذر و قربانی کا محل بنا لیا جائے۔ وہ اہل قبور سے فیض کے قائل ہیں استمداد کے نہیں۔ حاضری قبور کے قائل ہیں مگر انھیں عید گاہ بنانے کو روا نہیں سمجھتے، وہ ایصالِ ثواب کو مستحسن اور اموات کا حق سمجھتے ہیں مگر اس کی نمائشی صورتیں بنانے کے قائل نہیں۔ وہ تہذیبِ اخلاق، تزکیہٴ نفس اور عبادت میں قوتِ احسان پیدا کرنے کے لیے اہل اللہ کی بیعت و صحبت کو حق اور طریقِ احسانی کے اصول و ہدایات کو تجربہٴ مفید اور عوام کے حق میں ایک حد تک ضروری سمجھتے ہیں اور اسے شریعت سے الگ کوئی مستقل راہ نہیں سمجھتے بلکہ شریعت ہی کا باطنی و اخلاقی حصہ مانتے ہیں۔

فقہ اور فقہاء

علمائے دیوبند احکامِ شرعیہ فروعیہ اجتہادیہ میں فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتے ہیں بلکہ برصغیر میں آباد مسلمانوں میں کم و بیش نوے فیصد سے زائد اہل السنۃ والجماعۃ کا یہی مسلک ہے؛ لیکن اپنے اس مذہب و مسلک کو آڑ بنا کر دوسرے فقہی مذاہب کو باطل ٹھہرانے یا ائمہٴ مذاہب پر زبانِ طعن دراز کرنے کو جائز نہیں سمجھتے کیوں کہ یہ حق و باطل کا مقابلہ نہیں ہے بلکہ صواب و خطا کا تقابل ہے۔ مسائل فروعیہ اجتہادیہ میں ائمہٴ اجتہاد کی تحقیقات میں اختلاف کا ہوجانا ایک ناگزیر حقیقت ہے۔ اور شریعت کی نظر میں یہ اختلاف صحیح معنوں میں اختلاف ہے ہی نہیں۔ قرآن حکیم ناطق ہے: نَشَرَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ۔ (سورۃ الشوریٰ)

ظاہر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک شریعتوں اور منہاج کا کھلا ہوا اختلاف رہا پھر بھی قرآن حکیم ان کو ایک ہی دین قرار دے رہا ہے اور شریعتوں کے باہمی فروعی اختلاف کو وحدتِ دین کے معارض نہیں سمجھتا۔ اگر یہ فروعی تنوع بھی افتراق و اختلاف کی حد میں آسکتے تو پھر ”وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ“ کا خطاب کیوں کر درست ہوتا؟

لہذا جس طرح شرائع سماویہ فروعی اختلاف کے باوجود ایک ہی دین کہلائیں اور ان کے ماننے والے سب ایک ہی رشتہ اتحاد و اخوت میں منسلک رہے۔ تحزب و تعصب کی کوئی شان ان میں پیدا نہیں ہوئی؛ اسی لیے وہ ”وَكُنْتُمْ شِيعَةً“ کی حد میں نہیں آئے۔ ٹھیک اسی طرح ایک دین حنیف کے اندر فروعی اختلافات اس کی شانِ اجتماعیت و وحدت میں خلل انداز نہیں ہو سکتے۔

مواقعِ اجتہاد میں اہل اجتہاد کا اجتہاد بھی دین کا مقرر کردہ اصول ہے۔ اسے دین میں اختلاف کیسے کہا

جاسکتا ہے۔ رہا جماعت مجتہدین میں سے کسی ایک کی پیروی و تقلید کو خاص کر لینا تو دین کے بارے میں آزادی نفس سے بچنے اور خود رائی سے دور رہنے کے لیے امت کے سوا ادا عظیم کا طریق مختار یہی ہے، جس کی افادیت و ضرورت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ باب تقلید میں علمائے دیوبند کا یہی طرز عمل ہے۔ وہ کسی بھی امام، مجتہد یا اس کے فقہ کی کسی جزئی کے بارے میں تمسخر، سوئے ادب یا رنگ ابطال و تردید سے پیش آنے کو خسران دنیا و آخرت سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک یہ اجتہادات شرائع فرعیہ ہیں اصل یہ نہیں کہ اپنے فقہ کو موضوع بنا کر دوسروں کی تردید یا تفسیق و تفسیل کریں؛ البتہ اپنے اختیار کردہ فقہ پر ترجیح کی حد تک مطمئن رہیں۔

مذکورہ بالا امور میں علمائے دیوبند کا یہ طرز عمل اور مسلک ان کی مؤلفات (شروح حدیث، تفسیر، فقہ و کلام وغیرہ) میں پوری تفصیل کے ساتھ مندرج ہیں، جنہیں دیکھ کر خود فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔

فقہ میں سنت کی راہیں

برصغیر میں کم و بیش نوے فی صد مسلمان فقہ حنفی پر عامل ہیں۔ فقہ حنفی امام ابوحنیفہؒ کے اجتہادات، ان کے تلامذہ کے استخراجات اور اصحاب ترجیح کے فیصلوں کے مجموعہ کا نام ہے۔ ظاہر ہے کہ اس قدر بحث و تحقیق اور کانٹ چھانٹ کے بعد فقہ کا کوئی مسئلہ اصول شریعت کے خلاف باقی نہیں رہ سکتا۔ مگر اس طریق عمل میں ایک پہلو یہ بھی تھا کہ عمل کرنے والے کی نظر ائمہ و فقہاء کی تخریجات تک محدود رہتی، گو وہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کے طریق سے متجاوز نہ ہوتا؛ مگر عمل کرنے والے کا شعور اتباع سنت کی لذت پوری طرح محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ دارالعلوم دیوبند کا یہ عظیم تاریخی کارنامہ ہے کہ اس نے اعمال و عبادات کو ان کے بنیادی مصادر کی طرف لوٹایا۔ احادیث کے دفاتر کھلے، رجال کی گہری نظر سے پڑتال ہوئی، معانی حدیث میں بحث کی گئی، گو ان حضرات کو اس علمی و تحقیقی کاوش سے فقہ کا کوئی مفتی بہ قول اصول شریعت سے معارض نہ ملاتا، ہم اس راہ تحقیق نے (جو ظاہریت کی تفریط اور اہل بدعت کی افراط سے پاک سلف صالحین کے مقرر کردہ منہاج پر مبنی ہے) ایسی فضا پیدا کر دی کہ پہلے جن مسائل پر فقہ سمجھ کر عمل کیا جاتا تھا اب وہی مسائل سنت کی خنک روشنی دینے لگے اور ان اعمال میں اتباع حدیث کی وہ لذت محسوس ہونے لگی جو اس فکری تبدیلی کے بغیر ممکن نہیں تھی۔

علمائے دارالعلوم کا فکری اعتدال

علمائے دیوبند دین کے سمجھنے سمجھانے میں نہ تو اس طریق کے قائل ہیں جو ماضی سے یکسر کٹا ہو کیوں کہ وہ مسلسل رشتہ نہیں ایک نئی راہ ہے۔ اور نہ وہ اس افراط کے قائل ہیں کہ رسم و رواج اور تقلید آباء کے تحت ہر بدعت، اسلام میں داخل کر دی جائے۔ جن اعمال میں تسلسل نہ ہو اور وہ تسلسل خیر القرون سے مسلسل نہ ہو وہ اعمال اسلام نہیں ہو سکتے۔ یہ حضرات اس تقلید کے پوری طرح قائل ہیں جو قرآن و حدیث کے سرچشمہ سے فقہ اسلام کے نام

سے چلتی آئی ہے۔ قرآن کریم تقلید آباء کی صرف اس وجہ سے مذمت کرتا ہے کہ وہ آباء عقل و اہتداء کے نور سے عاری تھے: ”أَوَلَوْ كَانَ آبَاءُ هُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلَا يَهْتَدُونَ“۔ ائمہ سلف اور فقہائے اسلام جو علم و ہدایت کے نور سے منور تھے ان کی پیروی نہ صرف یہ کہ مذموم نہیں بلکہ مطلوب ہے ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ صرف حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ہی کی نہیں، صدیقین، شہداء اور صالحین کی راہ پر چلنے چلانے کی ہر نماز میں اللہ سے درخواست کریں؛ کیوں کہ یہی صراط مستقیم ہے۔ ”إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ“۔ اس منہج اعتدال کی بنا پر علمائے دیوبند مذہبی برقیدی اور خود راہی سے محفوظ ہیں اور شرک و بدعت کے اندھیرے انہیں اپنے جال میں نہ کھینچ سکے۔

علمائے دیوبند نے نہ صرف برصغیر کے مسلمانوں ہی کو سنت کا شعور بخشنا بلکہ دیگر بلاد اسلامیہ مصر و شام وغیرہ بھی ان کے اس فکر سے متاثر ہوئے۔ دیوبندی مکتبہ فکر کا نصوص فقہی میں منہج مختار یہی ہے۔ علمائے دیوبند کی تالیفات مثلاً فیض الباری شرح بخاری، لامع الدراری شرح بخاری، فتح الملہم شرح صحیح مسلم، الکوکب الدرری شرح جامع ترمذی، معارف السنن شرح جامع ترمذی، بذل الحجو و شرح سنن ابی داؤد، اوجز المسالک شرح مؤطا امام مالک، امانی الاحبار شرح معانی الآثار للطحاوی، اعلاء السنن، ترجمان السنن، معارف الحدیث وغیرہ میں اس منہج مختار کو دیکھا جاسکتا ہے۔

مآخذ:

- تلخیص مقالہ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب
- ماہنامہ الرشید لاہور فروری مارچ ۱۹۷۶ء، دارالعلوم نمبر، ص ۱۵ تا ۱۶۵
- مقالات حبیب، مولانا حبیب الرحمن قاسمی اعظمی، جلد اول، ص ۵۶ تا ۶۳

علمائے دیوبند کا سلسلہ رسند و استناد

دارالعلوم دیوبند کا سلسلہ رسند مسند ہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (۱۷۶۲ء-۱۷۰۲ء) سے گزرتا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے، دارالعلوم اور جماعت دیوبندی کے مورث اعلیٰ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ ہی ہیں جن کے علمی و فکری منہاج و طریق پر منسبین دارالعلوم اور بالفاظ واضح دیوبندی مکتب فکر کی تشکیل ہوئی ہے۔ اس لیے بحمد اللہ دیوبندی مکتب فکر کوئی نوپید جماعت نہیں بلکہ علمی، دینی اور سیاسی احکام و امور میں علمائے دیوبند مسند ہند شاہ ولی اللہ کے توسط سے سلف صالحین سے پوری طرح مربوط ہیں۔

حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی قدس سرہ نے ولی اللہی سلسلہ کے تلمذ سے اس رنگ کو نہ صرف اپنایا جو انھیں ولی اللہی خاندان سے ورثہ میں ملا تھا بلکہ مزید تنور کے ساتھ اس کے نقش و نگار میں اور رنگ بھرا۔ وہی منقولات جو حکمت ولی اللہی میں معقولات کے لباس میں جلوہ گر تھے، حکمت قاسمیہ میں محسوسات کے لباس میں جلوہ گر ہو گئے۔ پھر آپ کے سہل ممتنع انداز بیان نے دین کی انتہائی گہری حقیقتوں کو جو بلاشبہ علم لدنی کے خزانہ سے ان پر بالہام غیب منکشف ہوئیں، استدلالی اور لمبائی رنگ میں آج کی خوگر محسوس یا حس پرست دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ اور ساتھ ہی اس خاص مکتب فکر کو جو ایک خاص طبقہ کا سرمایہ اور خاص حلقہ تک محدود تھا، دارالعلوم دیوبند جیسے ہمہ گیر ادارہ کے ذریعہ ساری اسلامی دنیا میں پھیلا دیا۔ اس لیے کہا جاسکتا ہے کہ ولی اللہی مکتب فکر کے تحت دیوبندیت درحقیقت قاسمیت یا قاسمی طرز فکر کا نام ہے۔

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی قدس سرہ کے انتقال کے بعد اس دارالعلوم کے سرپرست قطب ارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس سرہ نے قاسمی طرز فکر کے ساتھ دارالعلوم کی تعلیمات میں فقہی رنگ بھرا، جس سے اصول پسندی کے ساتھ فروع فقہیہ اور جزئیاتی تربیت کا قوام بھی پیدا ہوا۔ اور اس طرح فقہ اور فقہاء کے سرمایہ کا بھی اس میراث میں اضافہ ہو گیا۔ ان دونوں بزرگوں کے بعد دارالعلوم کے اولین صدر مدرس شاہ عبد العزیز ثانی حضرت مولانا محمد یعقوب قدس سرہ نے دارالعلوم کی تعلیمات میں عاشقانہ اور والہانہ جذبات کا رنگ بھرا، جس سے صہبائے دیانت دو آتشہ ہو گئی۔

پھر دارالعلوم دیوبند کے سرپرست ثالث اور حضرت نانوتوی کے تلمیذ خاص حضرت مولانا محمود حسن قدس سرہ صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند ان تمام علوم و فیوض کے محافظ ہوئے۔ انھوں نے چوبیس سال دارالعلوم کی صدارت تدریس کی مسند سے علوم و فنون کو تمام منطقہائے اسلامی میں پھیلا یا اور ہزار ہا تشنگان علوم ان کے دریائے علم سے سیراب ہو کر اطراف عالم میں پھیل گئے۔

علمائے دیوبند کا سلسلہ تلمذ

علم حدیث میں دارالعلوم دیوبند کے حضرات اکابر کا سلسلہ تلمذ کچھ واسطوں سے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ (۱۸۲۳ء-۱۷۴۶ء) تک پہنچتا ہے۔ حدیث میں اکابرین دیوبند کے استاذ شاہ عبدالغنی مجددیؒ ہیں جو حضرت شاہ محمد اسحاق دہلویؒ کے جانشین تھے۔ حضرت شاہ محمد اسحاق دہلویؒ، حضرت شاہ عبدالعزیز کے نواسے اور ممتاز شاگرد تھے اور ان کے انتقال کے بعد مدرسہ رحیمیہ کے وارث اور جانشین ہوئے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز اپنے زمانے کے سب سے زیادہ تبحر اور جلیل القدر عالم دین تھے جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کے صاحب زادے ہونے کے ساتھ ان کے علوم کے امین اور ان کی تحریک کے سب سے بڑے قائد و علم بردار تھے۔

علمائے دیوبند کا دوسرا سلسلہ تلمذ حضرت مولانا مملوک العلی نانوتویؒ اور مولانا رشید الدین خان دہلویؒ کے واسطے سے حضرت شاہ عبدالعزیز دہلویؒ تک پہنچتا ہے۔ حضرت مولانا مملوک العلی نانوتویؒ اکابر علماء جیسے حضرت نانوتویؒ، حضرت گنگوہیؒ، حضرت مولانا ذوالفقار علی دیوبندیؒ، حضرت مولانا فضل الرحمن عثمانیؒ، حضرت مولانا محمد مظہر نانوتویؒ وغیرہم کے استاذ تھے اور حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتویؒ ان کے لائق و فائق صاحب زادے تھے جو دارالعلوم کے اولین صدر المدرسین اور ممتاز عالم دین ہوئے۔

اکابر دارالعلوم کا سلسلہ سند حدیث

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ سے اوپر کا سلسلہ تمام مشہور و متداول کتب حدیث کے مصنفین کرام تک پہنچتا ہے اور پھر وہاں سے سند متصل کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا ملتا ہے۔

مثال کے طور پر بخاری کا سلسلہ سند اس طرح ہے:

- | | |
|---|--------------------------------------|
| (۱) الشاہ ولی اللہ الحدیث الدہلویؒ | (۲) الشیخ ابو طاہر المدنیؒ |
| (۳) الشیخ ابراہیم الکردویؒ | (۴) الشیخ احمد القشاشیؒ |
| (۵) الشیخ احمد بن عبدالقدوس الشناویؒ | (۶) الشیخ شمس الدین محمد بن الربیؒ |
| (۷) الشیخ الاسلام زکریا بن محمد الانصاریؒ | (۸) الشیخ احمد بن حجر العسقلانیؒ |
| (۹) الشیخ ابراہیم بن احمد التتوخیؒ | (۱۰) الشیخ احمد بن ابی طالب الحجارؒ |
| (۱۱) الشیخ حسین بن مبارک الزبیدیؒ | (۱۲) الشیخ عبدالاول بن عیسیٰ الہرویؒ |
| (۱۳) الشیخ عبدالرحمن بن مظفر الداودیؒ | (۱۴) الشیخ عبداللہ بن احمد السرحسیؒ |
| (۱۵) الشیخ محمد بن یوسف الفربریؒ | (۱۶) الشیخ محمد بن اسماعیل البخاریؒ |

اکابر دارالعلوم کا سلسلہ احسان و سلوک

علمائے دیوبند احسان و تصوف یا اہل اللہ اور اولیائے کرام کے سلاسل اور طرق تربیت کے منکر نہیں بلکہ وہ خود ان سلسلوں سے بندھے ہوئے ہیں، البتہ وہ بے بصیر معتقدین کی غلو زدہ رسموں اور نقلیوں کے منکر ہیں۔ ان کے نزدیک سیدھا اور بے غل و غش راستہ سنت نبوی کا اتباع اور سلف صالحین صحابہ و تابعین، ائمہ مجتہدین اور فقہائے دین کا تلقین کردہ راستہ ہی سلامتی کا طریق ہے جو مستند علمائے ربانیین سے معلوم ہو سکتا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ اولیائے کرام اور صوفیائے عظام کا طبقہ مسلک علمائے دیوبند کی رو سے امت کے لیے روح رواں کی حیثیت رکھتا ہے جس سے امت کی باطنی حیات وابستہ ہے جو اصل حیات ہے۔

حضرات اکابر دیوبند احسان و تصوف کے چاروں سلاسل طیبہ (چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ اور سہروردیہ) کا یکساں احترام کرتے ہیں اور ان سلاسل کے بزرگان کی محبت و عظمت کو تحفظ ایمان کے لیے مفید و ضروری سمجھتے ہیں، مگر غلو کے ساتھ اس محبت و عقیدت میں معاذ اللہ انھیں ربوبیت کا مقام نہیں دیتے۔ بلکہ حضرات اکابر دیوبند اپنی باطنی اصلاح اور ایمانی ترقی کے لیے ان سلاسل سے باضابطہ مربوط بھی ہیں۔

حضرات اکابر دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی سلوک و تصوف میں سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی سے بیعت تھے اور ان حضرات کو حضرت حاجی صاحب سے اجازت و خلافت حاصل تھی۔ حضرت حاجی صاحب کا چشتی سلسلہ حسب ذیل ہے:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| (۱) حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی | (۲) شیخ نور محمد جھنجھانوی |
| (۳) الشاہ عبدالرحیم شہید | (۴) شیخ عبدالباری امر وہوی |
| (۵) شیخ عبدالہادی امر وہوی | (۶) شیخ عضد الدین امر وہوی |
| (۷) شیخ محمد کی | (۸) شیخ الشاہ محمد کی |
| (۹) شیخ محبت اللہ آبادی | (۱۰) شیخ ابوسعید گنگوہی |
| (۱۱) شیخ نظام الدین انجلی | (۱۲) جلال الدین تھانیسری |
| (۱۳) شیخ عبدالقدوس گنگوہی | (۱۴) شیخ محمد العارف ردولوی |
| (۱۵) شیخ احمد العارف ردولوی | (۱۶) شیخ عبدالحق ردولوی |
| (۱۷) شیخ جلال الدین پانی پٹی | (۱۸) شیخ شمس الدین ترک پانی پٹی |
| (۱۹) شیخ علاء الدین صابر کلیری | (۲۰) شیخ فرید الدین گنج شکر |
| (۲۱) شیخ قطب الدین بختیار کاکی | (۲۲) شیخ المشائخ معین الدین چشتی |
| (۲۳) شیخ عثمان الہاروی | (۲۴) السید الشریف الزندائی |

(۲۵) شیخ مودود لچھمیؒ	(۲۶) شیخ ابو یوسف لچھمیؒ
(۲۷) شیخ ابو محمد لچھمیؒ	(۲۸) شیخ احمد الابدال لچھمیؒ
(۲۹) شیخ ابواسحاق الشامیؒ	(۳۰) شیخ ممشاد علوی الدینوریؒ
(۳۱) شیخ ابو ہبیرۃ البصریؒ	(۳۲) شیخ حذیفہ المرعشیؒ
(۳۳) شیخ ابراہیم بن ادہم لبلخیؒ	(۳۴) شیخ فضیل بن عیاضؒ
(۳۵) شیخ عبدالواحد بن زیدؒ	(۳۶) شیخ حسن البصریؒ
(۳۷) سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ	(۳۸) سیدنا رسولنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم

علمائے دیوبند مکمل طور پر صحابہ کرام سے لے کر محدثین دہلی اور صوفیائے عظام تک اسناد اسلام کی ہر کڑی سے پورے وفادار رہے اور سلف صالحین کی اتباع کے اس حد تک پابند رہے کہ چھوٹی سے چھوٹی بدعت کو بھی دین نہ بننے دیا۔ تسلسل اسلام اور اسناد دین کو کمزور کرنے والے مختلف طبقوں سے دارالعلوم اور اس کے علماء نے اختلاف کیا، تو اس لیے نہیں کہ وہ اختلاف پسند تھے یا انھیں کسی طبقے سے ذاتی بغض تھا بلکہ محض اس لیے کہ اسلام جس مبارک و پاکیزہ سلسلے سے ہم تک پہنچا ہے اس سے پوری وفا کی جائے۔ ان کے الحادی یا بدعی نظریات کی تردید و تخریب اس لیے ضروری تھی کہ اس کے بغیر اسلام کی تعمیر و بقاء کی کوئی صورت نہیں تھی؛ لیکن ان کی یہ تردید بھی اصولی رہی اور انداز جدل بھی احسن رہا جس کی تعلیم خود قرآن نے دی ہے ”وَجَادِلْهُمْ بَالْتِیْهِیْ أَحْسَنَ“ (سورۃ النحل، آیت ۱۲۵)

مآخذ:

- دارالعلوم دیوبند کی صد سالہ زندگی، ص ۲۲ تا ۲۳
- تاریخ دارالعلوم دیوبند، جلد اول، ص ۹۲ تا ۱۰۰
- علمائے دیوبند کا دینی رخ اور مسلکی مزاج، حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحبؒ
- سلاسل طیبہ، حضرت مولانا حسین احمد مدنیؒ

دارالعلوم دیوبند کی خصوصیات

دارالعلوم دیوبند کے قیام کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اسلام اور اسلامی علوم کو مٹانے کی جو کوششیں لارڈ میکالے کے نظام تعلیم کے ذریعہ کی جا رہی تھیں انھیں ناکام بنا کر اسلامی علوم کی ٹھیک ٹھیک حفاظت کی جائے اور ایسے جاں نثار علماء کی ایک کھیپ تیار کی جائے جو سخت سے سخت حالات میں دین کو نہ صرف محفوظ رکھ سکیں بلکہ اسے دوسروں تک پہنچا سکیں۔

دارالعلوم کی ابتدا ایک انار کے درخت کے سائے میں ہوئی تھی، کسے معلوم تھا کہ اتنی مسکنت اور گنہامی میں پھوٹنے والے اس چشمہ فیض کی موجیں بالآخر برصغیر کی تاریخ کا رخ موڑ کر رکھ دیں گی۔ لیکن دنیا نے دیکھ لیا کہ اسی سادہ سی درس گاہ سے علم و فضل کے ایسے آفتاب و ماہتاب پیدا ہوئے جنہوں نے ایک دنیا کو جگمگا کر رکھ دیا۔ درس گاہیں دنیا میں بہت قائم ہوئی ہیں، دینی درس گاہوں کا بھی کسی دور میں فقدان نہیں رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دارالعلوم دیوبند کو جو فضیلت اور امتیاز بخشا ہے وہ بہت کم علمی اداروں کے حصہ میں آیا ہے۔

پہلی خصوصیت

دارالعلوم دیوبند کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ محض ایک درس گاہ نہیں، بلکہ ایک خاص نظریہ اور خاص طرز عمل کا نام ہے جو کتاب و سنت کی صحیح ترجمانی کرتا ہے۔ اس درس گاہ کی بنیاد ہی چوں کہ اس لیے رکھی گئی تھی کہ اس کے ذریعہ اسلام اور اسلامی علوم کو اپنی صحیح شکل و صورت میں محفوظ رکھا جائے؛ اس لیے اس کا مسلک یہ رہا ہے کہ دین صرف کتابی حروف و نقوش کا نام نہیں ہے اور نہ دین محض کتابوں سے سمجھا جاسکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کتاب کے ساتھ رسول کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ اپنے عمل سے کتاب کی تفسیر کرے۔ چنانچہ ایسی مثالیں تو ملتی ہیں کہ رسول آئے اور کتاب نہیں دی گئی، لیکن ایسی ایک مثال بھی نہیں جس میں صرف کتاب بھیج دی گئی ہو اور رسول نہ آیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت بتلاتی ہے کہ دین کو سمجھنے سمجھانے، پھیلنے پھیلانے کا ذریعہ صرف کتاب نہیں بلکہ اس کے ساتھ وہ اشخاص بھی ہیں جو کتاب کا عملی پیکر بن کر اس کی تفسیر و تشریح کرتے ہیں۔ لہذا دین کو سمجھنے کے لیے کتاب اللہ اور رجال اللہ لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں، ان میں سے ایک کو دوسرے سے جدا نہیں کیا جاسکتا۔ چنانچہ قرآن کریم کو آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر و تشریح کی روشنی میں اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ و تابعین اور دوسرے بزرگان دین کی روشنی میں ہی صحیح طور پر سمجھا جاسکتا ہے۔ اس کے بغیر دین کی تعبیر و تشریح کی ہر کوشش گمراہی کی طرف جاسکتی ہے۔

مراتب کا فرق ضرور ہے، جو مقام اللہ تعالیٰ کا ہے وہ کسی نبی کو نہیں ہو سکتا، جو مرتبہ ایک نبی کا ہے وہ کسی صحابی کا نہیں ہو سکتا، اور جو درجہ ایک صحابی کو حاصل ہے، کوئی بڑے سے بڑا ولی بھی اس درجہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ بس فرق

مراتب کے ساتھ دین کے ان سرچشموں میں سے ہر ایک کے حقوق و حدود کی رعایت دارالعلوم دیوبند کا وہ خصوصی مزاج ہے جس نے اسے دوسرے اداروں سے امتیاز عطا کیا ہے اور جس کی بنا پر اس کا مسلک مسلمانوں کے مختلف مکاتب فکر کے درمیان ایک ایسی راہ اعتدال کی حیثیت رکھتا ہے جس میں کتاب و سنت کی صحیح ترجمانی ہے اور جو افراط و تفریط سے بچتی ہوئی انسان کو رضائے الہی تک پہنچاتی ہے۔

دوسری خصوصیت

جب دارالعلوم کا اساسی نظریہ یہ ٹھہرا کہ دین کتاب اللہ اور رجال اللہ کے مجموعہ کا نام ہے تو یہیں سے اس کی دوسری خصوصیت ظاہر ہوتی ہے اور وہ یہ کہ دارالعلوم محض ایک علمی درس گاہ نہیں جس میں طلبہ کو صرف کتابوں کے حروف و نقوش اور صرف علم کا ظاہری خول دیا جاتا ہو بلکہ ساتھ ساتھ ایک عملی تربیت گاہ بھی ہے جہاں علم کے ظاہری بدن میں عمل صالح اور اخلاق فاضلہ کی روح بھری جاتی ہے۔ یہاں سے فارغ ہونے والے طلبہ صرف ظاہری علوم ہی سے آراستہ نہیں ہوتے تھے بلکہ وہ عملی اعتبار سے بھی سچے اور پکے مسلمان ہوتے تھے جن کے چہرہ دکھ کر خدا یاد آجاتا تھا اور جن کی ہر ہر نقل و حرکت اسلام کی نمائندگی کرتی تھی۔

یہی وجہ تھی دارالعلوم کا ہر شخص صاحب نسبت ہوا کرتا تھا۔ دن کے وقت یہاں علوم و فنون کے چرچے ہوتے اور رات کے وقت اس کا گوشہ گوشہ اللہ کے ذکر اور قرآن کی تلاوت سے گونجتا تھا۔ اس دور میں جو شخصیتیں دارالعلوم سے تیار ہوئیں انہوں نے عبادات، معاملات، اخلاق، معاشرت، سیاست اور اجتماعی امور میں ایسے ایسے تاناک کردار پیش کیے کہ اس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ ان میں سے ہر شخص اسلام کی مجسم تبلیغ تھا، وہ جہاں بیٹھ گیا ایک جہان کو سچا مسلمان بنا کر اٹھا۔

تیسری خصوصیت

دارالعلوم کی تیسری خصوصیت یہ تھی کہ اس کا پورا ماحول تواضع، سادگی اور بے تکلفی سے معمور تھا۔ علم اگر روح عمل سے خالی ہو تو عموماً انسان میں خود پسندی اور پندار پیدا کر دیتا ہے لیکن دارالعلوم دیوبند کا علم روکھا پھیکا علم نہ تھا بلکہ اس میں اخلاق و عمل اور عشق و محبت کا سوز و ساز بھی شامل تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یہاں کا ہر شخص علم و عمل کا آفتاب ہونے کے باوجود عبدیت اور تواضع کا پیکر تھا۔ اس جماعت کے افراد ایک طرف علمی وقار، استغناء اور خودداری کے حامل تھے تو دوسری طرف فروتنی، خاکساری اور ایثار و زہد کے جذبات سے لبریز۔ اکابرین دیوبند کی زندگیاں اس کی واضح مثال ہیں۔

چوتھی خصوصیت

دارالعلوم دیوبند کی چوتھی خصوصیت یہ تھی کہ اس نے اپنے مسلک اعتدال کی طرف دعوت اور دوسروں پر تنقید کے سلسلے میں پیغمبرانہ اسلوب تبلیغ اختیار کیا جس میں مخالف کو زیر کرنے کے بجائے اس کی دینی خیر خواہی کو زیادہ

اہمیت حاصل ہوتی ہو۔ دارالعلوم دیوبند نے حق کے معاملہ میں مد اہنت کو کبھی گوارا نہ کیا اور جس بات کو حق سمجھا اس کا برملا اظہار کیا، لیکن اس اظہار میں حکمت اور نرمی کا پہلو ہمیشہ مد نظر رکھا گیا۔

دارالعلوم کا اصل مقصد چوں کہ دین کی حفاظت تھا اور یہ مقصد اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ ایک جماعت دوسرے ہر کام کو چھوڑ کر صرف اسی کی نہ ہو رہے۔ اس لیے انھوں نے دنیوی مناصب اور عہدوں سے صرف نظر کر کے اور خود پیٹ پر پتھر باندھ کر اس خدمت کو انجام دیا۔ لیکن عام مسلمانوں کی مادی ترقی کی فکر بھی انھیں ہمیشہ دامن گیر رہی۔ انھوں نے ہر اس پر خلوص تحریک کے ساتھ مقدور بھر تعاون کیا جو دین کو محفوظ رکھتے ہوئے مسلمانوں کی اجتماعی فلاح اور مادی ترقی کا مقصد لے کر آگے بڑھی۔ ہاں جس جگہ مادی ترقی کے شوق میں انھیں دین پامال ہوتا نظر آیا وہاں وہ دین کی حفاظت کے لیے سد سکندری بن گئے۔ آج اسی کا نتیجہ ہے کہ ہندوستان میں سخت ترین حالات و انقلابات کے باوجود اللہ کے فضل و کرم سے آج دین اپنی صحیح شکل میں محفوظ ہے۔ یہ دارالعلوم کی کوششوں کا ثمرہ ہے کہ برصغیر میں دین کو سمجھنے والے، اس کی دعوت دینے والے اور اس پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھنے والے موجود ہیں اور عام مسلمان بھی مغربی افکار کے بے پناہ سیلاب کے باوجود نظری طور پر آج بھی مسلمان ہیں اور اسلام پر فخر کرتے ہیں۔ آج پورے برصغیر میں اسلام اور مسلمان جن اسلامی خصوصیات اور تشخصات کے ساتھ نظر آتے ہیں یہ دارالعلوم دیوبند اور اس کے علماء و فضلاء کی بے پناہ جدوجہد کا فیض ہے۔ الحمد للہ علی ذلک!

ماخذ:

- خلاصہ مضمون حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحبؒ
- ماہنامہ الرشید لاہور، دارالعلوم نمبر، فروری مارچ ۱۹۷۶ء، ص ۱۲۲ تا ۱۲۸

چوتھا باب

دارالعلوم کا نظم و نسق اور شعبہ جات

- دارالعلوم کا نظم و نسق _____ ۲۰۳
- دارالعلوم کے تعلیمی شعبہ جات _____ ۲۰۸
- دارالعلوم کے انتظامی شعبہ جات _____ ۲۱۳
- دارالعلوم کے علمی و دعوتی شعبہ جات _____ ۲۲۴

دارالعلوم کا نظم و نسق

دارالعلوم دیوبند کے تمام تعلیمی و انتظامی امور دستور اساسی کی روشنی میں مجلس شوریٰ کی سرپرستی میں انجام دیے جاتے ہیں۔ انتظامی نظم و نسق دفتر اہتمام کے ذریعہ انجام پاتا ہے اور تعلیمی امور کا نظم و نسق صدر المدرسین کی نگرانی میں انجام پاتا ہے۔ ذیل کے سطور میں دارالعلوم کے نظم و نسق سے متعلق ضروری معلومات پیش کی جا رہی ہیں۔

دارالعلوم دیوبند کا دستور اساسی

دارالعلوم دیوبند کا ایک دستور اساسی اور آئین ہے، جس کی روشنی میں دارالعلوم کے تمام تعلیمی و انتظامی امور طے پاتے ہیں۔ دستور اساسی، اکابر دارالعلوم میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ کے عہد سے حضرت مولانا حسین احمد مدنیؒ تک مجلس شوریٰ کی تجاویز پر مشتمل ایک مضبوط دستاویز ہے؛ کیوں کہ ابتدا میں دارالعلوم کا دروبست مجلس شوریٰ کی تحویل میں چلتا رہا اور جس سلسلہ میں ضرورت پیش آتی رہی، اکابر دارالعلوم شریعت کے مطابق احکام نافذ کرتے رہے۔ اکابر دارالعلوم اور مجلس شوریٰ کے یہ احکام آئین مدرسہ کے نام سے سال اول کی روداد سے طبع ہوتے رہے ہیں۔

پھر ترقی پذیر دارالعلوم میں اس دستور کو باقاعدہ مرتب کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو مجلس شوریٰ کے ایک تجربہ کار اور قانونی دماغ رکھنے والے ممبر مولانا محمود احمد رام پوریؒ نے مجلس شوریٰ کے حکم سے ایک مختصر دستور اساسی مرتب کیا۔ پھر کچھ دنوں بعد مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلویؒ نے مجلس شوریٰ کی درخواست پر اس پر نظر ثانی فرما کر اس کو باقاعدہ اور مفصل بنایا۔ پھر ۱۳۶۰ھ/۱۹۴۱ء میں مجلس شوریٰ نے مکمل اور مفصل دستور کی ضرورت محسوس کی اور اس وقت کے مہتمم (حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحبؒ) کو دستور اساسی مرتب کرنے کا مکلف بنایا۔ حضرت قاری صاحبؒ نے ۱۳۶۲ھ/۱۹۴۵ء میں دستور مرتب فرما کر مجلس شوریٰ میں پیش کیا۔ حضرت قاری محمد طیب صاحبؒ نے حضرت نانوتویؒ اور حضرت گنگوہیؒ کے عہد میمون سے دیگر اکابر کے عہد تک کی مجلس شوریٰ کی تجاویز اور بنیادی رہنما اصول کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ دستور اساسی مرتب کیا۔ پھر مختلف مجلسوں میں اس دستور اساسی کے دفعات اور شمولات پر بحث ہوتی رہی اور بالآخر ۲۲ شعبان ۱۳۶۸ھ/۱۹ جون ۱۹۴۹ء میں اس دستور کو پاس کر دیا گیا اور ۱۱ شوال ۱۳۶۸ھ/۶ اگست ۱۹۴۹ء سے اسے نافذ العمل قرار دیا گیا۔ آج تک اسی دستور کے مطابق عمل ہو رہا ہے۔ نیز، حضرت قاری صاحبؒ کی طرف سے دستور اساسی کی بنیاد پر دارالعلوم کو ۱۹۶۵ء میں سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ بھی کرایا گیا۔

مجلس شوریٰ

دارالعلوم کی ایک مجلس شوریٰ ہے جس کو ہیئت حاکمہ کا درجہ حاصل ہے اور دارالعلوم کے تمام تعلیمی و انتظامی امور میں اس کا فیصلہ حتمی ہے۔ مجلس شوریٰ کے علاوہ مجلس عاملہ، مجلس تعلیمی اور دیگر شعبہ جات و دفاتر قائم ہیں جو اپنے اپنے دائرہ میں کام کرتے ہیں۔

دارالعلوم کا نظم و نسق شروع ہی سے وامرہم شوریٰ بینہم کے مطابق شورائی اصول پر قائم ہے۔ اس کے لیے ایک بااختیار مجلس اعلیٰ ہے جس کی تشکیل قیام دارالعلوم کے ساتھ ہی عمل میں آگئی تھی۔ یہ جماعت مجلس شوریٰ کے نام سے موسوم ہے۔ مجلس شوریٰ کی یہ ذمہ داری ہے کہ دارالعلوم کے تمام کاموں کی نگرانی ورہ نمائی کرے۔ مجلس شوریٰ دارالعلوم کی سب سے بااختیار مجلس ہے۔ دارالعلوم کا تمام نظم و نسق اسی جماعت کے ہاتھ میں ہے۔ اس کی جملہ تجاویز دربارہ انتظام و تعلیم قطعی اور جملہ کارکنان دارالعلوم کے لیے واجب التعمیل ہوتی ہیں۔ دارالعلوم کی مجلس شوریٰ ایک طرف چندہ دینے والوں کی نمائندگی کرتی ہے، اسے چندہ دہندگان کے شرعی وکیل کی حیثیت حاصل ہے۔ دوسری طرف دارالعلوم کے آمد و صرف اور اہم انتظامی امور کے متعلق کثرت رائے سے اپنے فیصلے صادر کرتی ہے۔ دارالعلوم کی تمام کارروائیاں اور تمام ضروری فیصلے دستور اساسی کی روشنی میں طے پاتے ہیں۔ مجلس شوریٰ انتظامی آئین و ضوابط وضع کرتی ہے۔ دارالعلوم کے جملہ اوقاف اور جائدادیں اس کی تولیت و نگرانی میں ہیں اور یہی مجلس دارالعلوم کے مسلک کی حفاظت اور ملازمین کے عزل و نصب کی ذمہ دار ہے۔

مجلس شوریٰ کے ارکان کی تعداد ۲۱ ہوتی ہے جس میں کم از کم ۱۱ علماء کا ہونا ضروری اور لازمی ہے۔ باقی ارکان مسلمانوں کے دیگر طبقات سے منتخب ہو سکتے ہیں، مگر حتی الامکان دو ممبر باشندگان دیوبند سے لیے جاتے ہیں۔ مہتمم اور صدر مدرس بحیثیت عہدہ مجلس شوریٰ کے رکن ہوتے ہیں۔ اس مجلس کے سال میں دو جلسے ہوتے ہیں؛ ایک محرم یا صفر میں اور دوسرا رجب یا شعبان میں۔ انعقاد اجلاس کے لیے اراکین کی کم از کم ایک تہائی تعداد کا شریک اجلاس ہونا ضروری ہے۔

مجلس عاملہ

مجلس شوریٰ کے ماتحت ۱۳۳۵ھ (مطابق ۱۹۲۷ء) سے مستقل مجلس بنام مجلس عاملہ قائم ہے۔ اس مجلس کا کام مجلس شوریٰ کے کاموں میں اعانت و امداد بہم پہنچانا اور مجلس شوریٰ کے تفویض کردہ اختیارات کے مطابق دارالعلوم کے انتظامی امور کو عملی جامہ پہنچانا ہے۔ مجلس عاملہ، مجلس شوریٰ کے فیصلوں اور منظور کردہ تجاویز کے عمل درآمد کے سلسلہ میں ذمہ داروں کے طریق عمل پر نظر رکھتی ہے۔ نظم و تعلیم اور دفاتر کے حسابات اور کارکردگی کی نگرانی اس کے ذمہ ہے۔ اس مجلس کے اراکین کی تعداد نو ہوتی ہے۔ مہتمم اور صدر مدرس باعتبار عہدہ اس کے مستقل رکن ہوتے ہیں

جب کہ یقینہ سات ممبر مجلس شوری کے ارکان میں سے منتخب کیے جاتے ہیں۔ اس مجلس کا انتخاب سالانہ ہوتا ہے۔ مجلس عاملہ کے سال بھر میں حسب ضرورت چار جلسے ہوتے ہیں؛ پہلا جلسہ ربیع الاول میں، دوسرا جمادی الاولیٰ میں، تیسرا شعبان میں اور چوتھا ذوالقعدہ میں۔ مجلس عاملہ کا کورم پانچ کا ہے۔

مہتمم دارالعلوم

دارالعلوم انتظامیہ کا سربراہ اعلیٰ مہتمم ہوتا ہے جو مجلس شوری کی نمائندگی کرتا ہے اور شعبہ تعلیمات کے علاوہ دارالعلوم کے جملہ شعبہ جات کی نگرانی و نظم کا ذمہ دار اعلیٰ اور بہ حیثیت عہدہ مجلس شوری کا رکن ہوتا ہے۔ مجلس شوری کی نظامت کے فرائض مہتمم دارالعلوم انجام دیتے ہیں اور دارالعلوم کے جملہ امور میں وہی جواب دہی کرتے ہیں۔ مہتمم دارالعلوم صرف مجلس عاملہ اور مجلس شوری کے روبرو جواب دہ ہوتے ہیں۔ حسب ضرورت مہتمم دارالعلوم کے ایک یا دو نائب ہوتے ہیں جنہیں مہتمم کے تفویض کردہ فرائض و اختیارات حاصل ہوتے ہیں اور مہتمم کی عدم موجودگی میں محدود اختیارات کے ساتھ قائم مقام ہوتے ہیں۔

اہتمام کے اہم منصب کے لیے ہمیشہ یہ اصول مدنظر رہا ہے کہ اس کے لیے ایسی شخصیتوں کا انتخاب کیا جاتا ہے جو علم و فضل، دیانت و تقویٰ اور انتظامی امور میں خاص صلاحیتوں کے مالک ہونے کے علاوہ ملک میں اپنا خاص اثر اور رتبہ بھی رکھتی ہوں۔ دارالعلوم دیوبند کا یوم تاسیس ہی سے یہ طرہ امتیاز رہا ہے کہ مسند اہتمام کو آراستہ کرنے کے لیے اسے ایسی شخصیتیں ملتی رہی ہیں جنہوں نے نظم و نسق کی پوری صلاحیت کے ساتھ خلوص و للہیت اور تقویٰ و دیانت کی ایسی مثالیں قائم کی ہیں جن کی نظیر بمشکل ہی ملے گی۔

نائب مہتمم

دستور اساسی کی روشنی میں مہتمم حضرات کے کاموں میں تعاون کے لیے ان کی موجودگی و عدم موجودگی میں نائب مہتمم کا عہدہ بھی رکھا گیا ہے۔ نائب مہتمم حضرات کو بھی نظم و انتظام میں خاص دخل ہوتا ہے اور یہ حضرات عموماً دارالعلوم میں تدریس کے ساتھ متعدد علمی و انتظامی شعبہ جات کی نگرانی بھی کرتے ہیں۔

صدر مدرس اور مجلس تعلیمی

دارالعلوم کے تعلیمی امور کی نگرانی کے لیے صدر مدرس کا عہدہ قائم ہے جو شعبہ تعلیمات کا ذمہ دار اعلیٰ اور بہ حیثیت عہدہ مجلس شوری کا رکن ہوتا ہے۔ صدر مدرس کی ذمہ داریوں میں تعلیمی امور کی نگرانی، طلبہ کی دینی و اخلاقی تربیت، مجلس تعلیمی کی سفارشات اور شعبہ تعلیمات کی رپورٹ مجلس شوری میں پیش کرنا وغیرہ شامل ہے۔

تمام درجات عربی، فارسی، اردو، دینیات اور تجوید وغیرہ کے تعلیمی امور کے انتظام و انصرام اور صدر المدرسین

کو مشورہ دینے کے لیے مجلس تعلیمی کے نام سے ایک کمیٹی قائم ہے۔ اس مجلس کا دائرہ عمل داخلہ کے امتحانات کا انتظام، نصاب تعلیم میں حسب ضرورت تبدیلی و ترمیم کی سفارش، اسباق کی تقسیم، امتحانات کا انتظام اور طلبہ کے مشاغل علمیہ و عملیہ کی نگرانی وغیرہ تک محیط ہے۔ اس مجلس کے ارکان مہتمم، صدر مدرس، نائب مہتممین اور طبقہ علیاء کے دو مدرس ہوتے ہیں جن میں سے ایک مجلس تعلیمی کا ناظم ہوتا ہے جسے ناظم تعلیمات کہا جاتا ہے۔ اس کمیٹی کا مجلس شوریٰ کی طرف سے مقرر کردہ ایک نائب ناظم بھی ہوتا ہے۔ صدر المدرسین اس کمیٹی کا صدر ہوتا ہے۔

ناظم تعلیمات

دارالعلوم کے تعلیمی امور کی نگرانی کے لیے صدر مدرس کے ساتھ ناظم تعلیمات کا عہدہ بھی رہا ہے۔ ناظم تعلیمات کے ذمہ صدر مدرس کے ساتھ تعلیمی امور کی نگرانی اور دفتر تعلیمات کی نظامت متعلق ہوتی ہے۔ مدرسہ ثانویہ کے امور کی دیکھ بھال کے لیے نائب ناظم تعلیمات کا بھی عہدہ ہے۔

دفاتر و شعبہ جات

دارالعلوم میں دو مرکزی شعبے ہیں؛ شعبہ اہتمام اور شعبہ تعلیمات۔ شعبہ اہتمام سے دارالعلوم کے تمام شعبہ جات کا نظم متعلق ہوتا ہے اور شعبہ تعلیمات سے تعلیمی شعبہ جات کا تعلیمی نظام متعلق ہوتا ہے۔ شعبہ اہتمام کی سربراہی مہتمم اور شعبہ تعلیمات کی صدارت صدر المدرسین کے ذمہ ہوتی ہے۔

دارالعلوم میں جملہ تعلیمی و انتظامی امور کی انجام دہی کے لیے دفاتر و شعبہ جات قائم ہیں۔ دارالعلوم کا وسیع انتظامی، تعلیمی اور علمی نظام اس وقت تقریباً تین درجن شعبہ جات اور دفاتر پر مشتمل ہے۔ ہر ایک شعبہ کا وسیع دائرہ عمل ہے اور بعض شعبہ جات تو اپنی وسعت کار کے لحاظ سے مستقل ادارہ کے حیثیت رکھتے ہیں۔ ہر شعبہ میں داخلی امور کی نگرانی اور انجام دہی کے لیے ناظم، نگران یا ذمہ دار وغیرہ ہوتے ہیں جو اپنے اختیارات کے دائرے میں رہ کر دفتر اہتمام کی نگرانی میں مفوضہ امور انجام دیتے ہیں۔

دارالعلوم کے تعلیمی شعبہ جات

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| (۱) شعبہ عربی و تکمیلات | (۲) شعبہ انگریزی زبان و ادب |
| (۳) شعبہ کمپیوٹر | (۴) شعبہ جات کے تحت تعلیمی کورسز |
| (۵) شعبہ خوش خطی | (۶) شعبہ دارالصنائع |
| (۷) شعبہ تجوید و قرأت | (۸) شعبہ تحفیظ القرآن و ناظرہ |
| (۹) شعبہ دینیات اردو و فارسی | |

دارالعلوم کے انتظامی شعبہ جات

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| (۱) دفتر اہتمام | (۲) دفتر تعلیمات |
| (۳) شعبہ محاسبی | (۴) محافظ خانہ |
| (۵) کتب خانہ | (۶) شعبہ تنظیم و ترقی |
| (۷) دارالاقامہ | (۸) شعبہ مطبخ |
| (۹) شعبہ تعمیرات | (۱۰) شعبہ اوقاف |
| (۱۱) مکتبہ دارالعلوم | (۱۲) شعبہ برقیات |
| (۱۳) عظمت اسپتال | (۱۴) مہمان خانہ |
| (۱۵) شعبہ خریداری | (۱۶) اسٹاک روم |
| (۱۷) کمپیوٹر برائے کتابت | (۱۸) دفتر صفائی و چمن بندی |
| (۱۹) شعبہ مکاتب اسلامیہ | |

دارالعلوم کے علمی و دعوتی شعبہ جات

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| (۱) دارالافتاء | (۲) شعبہ انٹرنیٹ و آن لائن فتویٰ |
| (۳) شعبہ تبلیغ | (۴) شیخ الہند اکیڈمی |
| (۵) کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت | (۶) شعبہ تحفظ سنت |
| (۷) شعبہ مطالعہ عیسائیت و دیگر مذاہب | (۸) شعبہ محاضرات علمیہ |
| (۹) دفتر مجلہ الداعی | (۱۰) دفتر ماہنامہ دارالعلوم |
| (۱۱) رابطہ مدارس اسلامیہ | (۱۲) شعبہ ترتیب فتاویٰ |

دارالعلوم کے تعلیمی شعبہ جات

دفتر تعلیمات سے متعلق شعبہ جات حسب ذیل ہیں:

- (۱) شعبہ عربی و تکمیلیات (۲) شعبہ انگریزی زبان و ادب (۳) شعبہ کمپیوٹر (۴) شعبہ جات کے تحت تعلیمی کورسز (۵) شعبہ خوش خطی (۶) شعبہ دارالصنائع (۷) شعبہ تجوید و قرأت (۸) شعبہ تحفیظ القرآن و ناظرہ (۹) شعبہ دینیات اردو و فارسی

شعبہ عربی و تکمیلیات

اس شعبہ کے تحت عربی کے آٹھ سالہ فضیلت کورس اور تکمیلیات کی مکمل تعلیم کا نظم ہوتا ہے۔ تکمیلیات میں تکمیل تفسیر، تخصص فی الحدیث، تکمیل افتاء، تدریب فی الافتاء، تکمیل علوم، تکمیل ادب عربی اور تخصص فی الادب کے درجات کا نظم اسی شعبہ سے متعلق ہے۔

شعبہ عربی: اس شعبہ میں میزان الصرف سے لے کر دورہ حدیث تک کی تعلیم ہوتی ہے۔ اگرچہ کتابیں تقریباً سب عربی میں ہوتی ہیں مگر ذریعہ تعلیم اردو زبان ہے۔ عربی زبان کی تدریس پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ اس شعبہ کا نصاب آٹھ سال کا ہے۔ اس آٹھ سال کی تعلیم دو حصوں پر تقسیم ہے: (۱) مدرسہ ثانویہ (۲) درجہ پنجم عربی تا دورہ حدیث شریف۔ مدرسہ ثانویہ میں درجہ اول عربی سے درجہ چہارم عربی کی تعلیم کا نظم ہے۔ اس کا نصاب عربی نحو، صرف، عربی انشاء و ادب، مطالعہ سیرت، تاریخ، ترجمہ قرآن، فقہ، اصول فقہ، منطق، بلاغت، علوم عصریہ (علم جغرافیہ و مدنیات) وغیرہ پر مشتمل ہے۔ درجہ پنجم عربی سے دورہ حدیث تک کے درجات میں تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول الفقہ، عربی ادب، علم الکلام، معانی و بیان، منطق و فلسفہ وغیرہ مضامین پر مشتمل کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ دورہ حدیث میں خاص طور پر علم حدیث کی دس مشہور کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، جن میں صحیح بخاری اور سنن ترمذی مکمل پڑھائی جاتی ہیں اور دیگر کتب کے منتخب ابواب پڑھائے جاتے ہیں۔ دورہ حدیث کی تعلیم مکمل کرنے اور امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد ہی کسی طالب علم کو فاضل کی سند دی جاتی ہے۔

تکمیل تفسیر: دورہ حدیث سے فارغ ہونے والے منتخب طلبہ کو قرآن و علوم قرآنی میں درک پیدا کرنے کے لیے ایک سالہ تکمیل تفسیر کا درجہ قائم ہے جس میں تفسیر ابن کثیر، تفسیر بیضاوی کے ساتھ مناہل العرفان، سبیل الرشاد اور مقدمہ ابن الصلاح جیسی کتابیں بھی داخل درس ہیں۔

تخصص فی الحدیث: دورہ حدیث یا تکمیلیات میں اعلیٰ سے اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہونے والے طلبہ کو

تخصص فی الحدیث میں داخلہ دیا جاتا ہے اور انھیں علوم الحدیث اور اصول حدیث، تخریج حدیث، رجال وغیرہ کے سلسلے میں اعلیٰ تحقیقی تربیت دی جاتی ہے۔ اس شعبہ سے متعدد اعلیٰ پایہ کے تحقیقی اور علمی کام انجام دیے جا چکے ہیں اور شائع ہو کر اہل علم و تحقیق کے ہاتھوں میں پہنچ چکے ہیں۔

تکمیل افتاء: اس شعبہ میں منتخب طلبہ کو فتویٰ نویسی کی مشق کرائی جاتی ہے۔ یہ شعبہ دارالافتاء کی نگرانی میں قائم ہے، اس میں ہر سال اعلیٰ استعداد کے طلبہ کی ایک مختصر جماعت فتویٰ نویسی کے لیے منتخب کی جاتی ہے۔ اس درجہ کا نصاب فقہ و افتاء کی موقر کتابوں پر مشتمل ہے۔ یہ دارالعلوم کا اہم اور موقر شعبہ تعلیم ہے۔ اس درجہ سے فارغ طلبہ کو افتاء کی سند دی جاتی ہے اور فقہ و فتاویٰ کے حوالے سے ملک کی تعلیم گاہوں اور اداروں میں ان کو اہمیت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔

تدریب فی الافتاء: تکمیل افتاء سے فراغت کے بعد چند مخصوص طلبہ کو فتویٰ نویسی کی خصوصی مشق کے لیے تربیت دی جاتی ہے اور فقہی کتابوں کا مطالعہ کرایا جاتا ہے۔ یہ مکمل دو سالہ نصاب ہے، جس سے فراغت کے بعد طالب علم کو فقہ و فتویٰ سے کافی مناسبت پیدا ہو جاتی ہے اور اس درجہ کے فضلاء ملک کے باوقار اداروں میں فتویٰ نویسی کے لیے طلب کیے جاتے ہیں۔

تکمیل علوم: دورہ حدیث شریف سے فارغ ہونے والے ان طلبہ کے لیے یہ کورس ترتیب دیا گیا ہے جو علوم اسلامیہ میں مزید مہارت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کورس کے تحت حجۃ اللہ البالغہ، مقدمہ ابن الصلاح، الاشباہ والنظائر، تفسیر بیضاوی، مسامرہ اور سبیل الرشاد وغیرہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ یہ کورس ایک سال کا ہے۔

تکمیل ادب عربی: دارالعلوم میں عربی زبان کی تعلیم بالکل ابتداء سے دی جاتی ہے۔ گزشتہ کئی عشروں سے دارالعلوم نے عربی زبان کی بہ حیثیت ایک مستقل مضمون تدریس کو اپنے نصاب کا جزء بنایا ہے اور عربی زبان میں طلبہ کی تحریری و تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے سلسلے میں اقدامات کیے ہیں۔ دورہ حدیث سے فراغت حاصل کرنے کے بعد جو طلبہ عربی زبان و ادب میں مزید درک و استعداد پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے دارالعلوم نے ایک سالہ خصوصی درجہ تکمیل ادب عربی کے نام سے رکھا ہے۔ اس کورس کے تحت عربی انشاء پر دازی، صحافت، بات چیت اور ترجمہ وغیرہ کے ضروری فنون پڑھائے جاتے ہیں۔

تخصص فی الادب: اس درجہ کے تحت تکمیل ادب سے فارغ ہونے والے چند منتخب طلبہ کو عربی ادب کی خصوصی تربیت دی جاتی ہے۔ تخصص فی الادب کا کورس دو سال پر مشتمل ہے۔

شعبہ انگریزی زبان و ادب

دعوتی و تبلیغی نقطہ نظر سے انگریزی زبان کی ضرورت و اہمیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ انگریزی اس وقت ایک عالمی زبان کی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ انٹرنیٹ اور میڈیا کے پھیلاؤ اور ترقی کے ساتھ انگلش کی دعوتی اہمیت

اور زیادہ بڑھ گئی ہے، خصوصاً معاصر عالمی حالات میں جب کہ اسلام اور مسلمانوں کو دینی و سیاسی اور سماجی و معاشی سطح پر مسائل و مشکلات اور گھناؤنی سازشوں کا سامنا ہے، ایسے حالات میں اس بات کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ دینی اداروں کے ذریعہ ایسے افراد کا رتیار کیے جائیں جو دینی علوم کے ساتھ ساتھ انگریزی زبان و ادب پر بھی عبور رکھتے ہوں اور اسلامی تعلیمات کو غیروں کے سامنے تحریر و تقریر کے ذریعہ پیش کر سکیں اور اسلام پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دے سکیں۔ دارالعلوم نے اس اہم ضرورت کی طرف توجہ دیتے ہوئے مرکز المعارف کے طرز پر دو سالہ انگلش زبان و ادب کا ایڈوانسڈ ڈپلومہ کورس شروع کیا۔

یہ شعبہ ۱۴۲۳ھ/۲۰۰۲ء میں قائم ہوا ہے۔ اس شعبہ میں دارالعلوم سے فارغ ہونے والے طلبہ کو داخلہ دیا جاتا ہے۔ شعبہ کا نصاب تعلیم دو سال پر مشتمل ہے۔ طلبہ کو انگلش ٹیکسٹ بک، گرامر، اردو و انگریزی ترجمہ اور عربی و انگریزی ترجمہ کے ساتھ انگلش اسپیکنگ اور رائٹنگ پر دھیان دیا جاتا ہے۔ دو سال کی تربیت کے بعد اس شعبہ کے طلبہ بی اے لیول کی انگلش کے ساتھ انگریزی تحریر و تقریر پر اچھی قدرت حاصل کر لیتے ہیں۔ دوران تعلیم طلبہ کی اسلامی وضع قطع کی طرف پورا دھیان دیا جاتا ہے اور طلبہ کی دعوتی و دینی ذہن سازی اور معیاری تعلیم و تربیت پر مکمل توجہ دی جاتی ہے۔

شعبہ کمپیوٹر

آج کے ترقی یافتہ دور میں کمپیوٹر انسانی زندگی کا لازمی جزء بن کر رہ گیا ہے جس سے طلبہ کو روشناس کرانا نہ صرف ضروری ہے بلکہ عصر جدید کا اہم تقاضہ بھی ہے، چوں کہ کمپیوٹر دینی، تعلیمی اور تبلیغی سرگرمیوں میں معاون ہونے کے ساتھ تصنیفی و تالیفی امور کو بہ حسن و خوبی بہ عجلت ممکنہ انجام دیے جانے کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ اسی کے ساتھ یہ معاشی ضرورت کی تکمیل اور یا معاشی خود کفالتی میں بھی معاون ہے۔ اس لیے دارالعلوم نے اس کی اہمیت کا احساس کرتے ہوئے یہ شعبہ قائم کیا تاکہ اس کے تحت طلبہ کو باضابطہ داخلہ دے کر کمپیوٹر کی ٹریننگ دی جاسکے۔

اس شعبہ کا قیام ۱۵ ربيع الاول ۱۴۱۷ھ/ جولائی ۱۹۹۶ء کو عمل میں آیا۔ اس شعبہ میں کمپیوٹر کی تربیت دینے کے لیے ہر سال چند منتخب فضلاء کا داخلہ لیا جاتا ہے۔ ایک سال کے عرصہ میں ڈی ٹی پی سے متعلق جملہ امور کی ٹریننگ کے ساتھ انھیں انگلش کی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ سالانہ امتحان میں کامیابی کے بعد طلبہ کو ڈپلومہ کی سند دی جاتی ہے۔ دارالعلوم کے شعبہ کمپیوٹر کے فارغ طلبہ اس وقت ہندوستان کے بیشتر بڑے مدارس میں کمپیوٹر کی تدریسی و عملی ضرورت پوری کر رہے ہیں اور ملک و بیرون ملک اچھے اداروں میں باعزت ملازمتوں میں لگے ہوئے ہیں۔

شعبہ کمپیوٹر کی نگرانی ہی میں ۱۴۲۵ھ/۲۰۰۴ء سے دارالافتاء کے فتاویٰ رجسٹروں کو کمپوزنگ کے ذریعہ محفوظ کیے جانے کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب کے علاوہ دیگر حضرات مفتیان کرام کے گراں قدر فتاویٰ بھی دارالافتاء کے سیکڑوں رجسٹروں میں محفوظ ہیں۔ ان گراں قدر علمی ورثہ کی حفاظت اور اشاعت کے نقطہ نظر سے

انہیں پہلے ہی عنوانات اور ابواب کے اعتبار سے کوڈنگ کے مرحلہ سے گزارا جاتا ہے اور پھر کمپیوٹر پر کمپوز کیا جاتا ہے۔

شعبہ جات کے تحت تعلیمی کورسز

درج بالا مستقل تعلیمی شعبہ جات کے علاوہ فضلاء دارالعلوم کے لیے کچھ اور تعلیمی کورسز ہیں جو علمی شعبہ جات کی نگرانی میں انجام پاتے ہیں۔ جیسے شیخ الہند اکیڈمی کے تحت صحافتی کورس، شعبہ تحفظ ختم نبوت، شعبہ مطالعہ عیسائیت و دیگر مذاہب اور شعبہ تحفظ سنت کے تحت تربیتی کورس، سلسلہ محاضرات وغیرہ۔ ان کورسز کی تفصیلات علمی شعبہ جات کے عنوان کے تحت متعلقہ شعبہ جات کے تعارف کے ذیل میں پیش کی جا رہی ہیں۔

شعبہ خوش خطی

اس شعبہ میں طلبہ کو خوشنویسی کی مشق کرائی جاتی ہے۔ اس شعبہ میں دو درجے ہیں۔ ایک درجہ محض خط کی صفائی کا ہے تاکہ طالب علم بد خطی کے عیب سے محفوظ ہو جائے اور دوسرا درجہ کتابت کی فنی تکمیل کا ہے جس کے لیے طلبہ کو وظائف بھی دیے جاتے ہیں۔ اس درجہ کی مدت نصاب پوری کر کے اس فن کی سند کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ جو طلبہ فن کتابت سیکھنا چاہتے ہیں انہیں کتابت (اردو و عربی رسم الخط) سکھا کر تکمیل کرا دی جاتی ہے۔ یہ درجہ لازمی مضمون کا نہیں ہے۔ شعبہ عربی و شعبہ تجوید کی مختلف جماعتوں کے طلبہ کے لیے بھی خوش خطی کی تعلیم کا گھنٹہ وار نظم ہے۔

شعبہ دارالصنائع

تعلیم کے ساتھ طلبہ کی معاشی و اقتصادی مسائل کے حل کی جانب پیش رفت کے سلسلے میں ۱۳۶۵ھ/۱۹۴۵ء میں یہ شعبہ قائم ہوا تھا۔ اس شعبہ میں طلبہ کو خیاطی اور جلد سازی سکھائی جاتی ہے تاکہ طالب علم ضرورت کے وقت کسب معاش سے عاری نہ رہے۔

اس شعبہ میں خیاطی کا کام سکھایا جاتا ہے۔ خیاطی میں کرتا پا جامہ اور صدری کی کنگ و سلانی اور شیروانی کی کنگ ایک سال میں سکھادی جاتی ہے۔ اس شعبہ میں کچھ طلبہ تو باقاعدہ داخلہ لے کر خیاطی سیکھتے ہیں جب کہ دیگر کچھ طلبہ خارج وقت میں اختیاری طور پر اس شعبہ سے مستفید ہوتے ہیں۔ شعبہ تجوید کے طلبہ اختیاری طور پر اس شعبہ سے مستفید ہو سکتے ہیں۔

شعبہ تجوید و قرأت

شعبہ تجوید دارالعلوم کا ایک باوقار شعبہ ہے جس میں قرأت و تجوید کی مکمل اور مستقل تعلیم کا نظم ہے۔ حفص اردو (دو سال)، حفص عربی (ایک سال)، سبوعہ (ایک سال) اور عشرہ (ایک سال) کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ان

درجات میں تجوید کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اور عملی مشق بھی کرائی جاتی ہے۔ تکمیل کے بعد متعلقہ درجہ کی مستقل سند بھی دی جاتی ہے۔

اس کے علاوہ عربی جماعتوں کے طلبہ کو لازمی طور پر پارہ عم کی مشق تجوید کے ساتھ کرائی جاتی ہے اور اس کے بغیر طالب علم کو سند فراغت نہیں دی جاتی۔

شعبہ تحفیظ القرآن و ناظرہ

اس شعبہ میں چھوٹے بچوں کو ناظرہ قرآن اور حفظ قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے۔ چھوٹے بچوں کی تعلیم و تربیت کے پیش نظر حفظ و ناظرہ کی تعلیم کا انتظام ایک بالکل علیحدہ بلڈنگ میں ہے۔ اس شعبہ میں صرف مقامی بچوں کو داخلہ دیا جاتا ہے یا ایسے بچے بھی داخلہ کے مجاز ہوتے ہیں جن کا کوئی مقامی سرپرست ہو۔ شعبہ تحفیظ القرآن میں اس وقت حفظ قرآن کے بارہ درجات اور ناظرہ قرآن کے پانچ درجات قائم ہیں۔

شعبہ دینیات اردو و فارسی

درجہ فارسی اور شعبہ دینیات پہلے دو الگ الگ شعبے تھے اور دونوں کا نصاب الگ تھا۔ درجہ دینیات کا نصاب چار سالہ تھا اور درجہ فارسی کا نصاب چھ سالہ تھا۔ اس طرح دس سال مبادیات میں صرف ہو جاتے تھے۔ اس شعبہ میں فارسی زبان کی تعلیم ابتدا سے لے کر مثنوی مولانا نائے روم تک ہوتی تھی۔ فارسی زبان کے علاوہ حساب، اقلیدس، جغرافیہ، ہندی اور تاریخ وغیرہ مضامین بھی نصاب میں داخل تھے۔

موجودہ انتظامیہ نے ان دونوں شعبوں کو باہم ضم کر کے ایک پانچ سالہ نصاب ترتیب دیا ہے جو پرائمری سطح کے مساوی ہے۔ اس نصاب میں اردو زبان میں دینیات کی تعلیم کے علاوہ تاریخ، جغرافیہ، حساب اور ہندی، انگریزی وغیرہ مضامین پڑھائے جاتے ہیں۔ درجہ چہارم اور درجہ پنجم میں فارسی کی تعلیم بھی شامل ہے۔ اس طرح اس درجہ سے فارغ شدہ طالب علم کو معاصر علوم، مضامین اور زبانوں کا اچھا خاصا علم ہو جاتا ہے اور وہ یہاں سے پڑھنے کے بعد آئندہ کسی بھی نظام تعلیم میں نہایت آسانی سے اپنی تعلیم جاری رکھ سکتا ہے۔

دارالعلوم کے انتظامی شعبہ جات

دفتر اہتمام

ادارۂ اہتمام دارالعلوم کا مرکز و محور اور آئینی طور پر مرکزی نقطہ ہے جس کے ارد گرد دارالعلوم کی اندرونی و بیرونی سرگرمیاں گردش کرتی ہیں۔ دارالعلوم کے تمام شعبوں کا نظم و نسق، ان کی نگرانی اور حسابات کی جانچ پڑتال اسی شعبہ سے متعلق ہے۔ مجلس شوریٰ اور مجلس عاملہ کی تجاویز اور فیصلے ادارۂ اہتمام ہی کے ذریعہ نافذ کیے جاتے ہیں۔ دارالعلوم کے تمام شعبوں اور دفاتر کی داخلی نگرانی کے علاوہ دارالعلوم کے ملک سے خارجی تعلقات بھی اسی ادارہ کے واسطے سے قائم ہیں۔ دارالعلوم کے اندرونی نظم و نسق اور ترقی و تبدیلی کے متعلق تمام فیصلے اور احکامات دفتر اہتمام کے ذریعہ جاری کیے جاتے ہیں۔

مہتمم دارالعلوم ہی دارالعلوم کے تمام امور کے سلسلے میں براہ راست مجلس شوریٰ کو جواب دہ ہوتے ہیں۔ ادارۂ اہتمام خاص اہمیت کا حامل ہے؛ اس لیے اہتمام کے اہم منصب کے لیے ہمیشہ یہ اصول مدنظر رہا ہے کہ اس کے لیے ایسی شخصیات کا انتخاب کیا جاتا ہے جو علم و فضل، دیانت و تقویٰ اور انتظامی امور میں خاص صلاحیتوں کی مالک ہونے کے علاوہ ملک میں خاص اثر اور وجاہت رکھتی ہوں۔

دفتر تعلیمات

ایک تعلیمی ادارے کی حیثیت سے دارالعلوم کا بنیادی نقطہ نظر اور اس کا اساسی مقصد تعلیم و تدریس ہے۔ اس لیے دارالعلوم کی تاسیس کے ساتھ ہی شعبہ تعلیمات کا آغاز بھی سمجھنا چاہیے۔ اس وقت یہ شعبہ اپنے متعدد ذیلی شعبوں کے ساتھ کافی وسیع ہو چکا ہے۔ یہ شعبہ قدرتی طور پر دفتر اہتمام کے بعد کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ تمام تعلیمی شعبے اسی کی نگرانی میں کام کرتے ہیں۔

شعبہ تعلیمات کے فرائض میں تعلیمی شعبہ جات کی نگرانی کے علاوہ تقسیم اسباق، امتحانات کا نظم، طلبہ کی ترقی و تنزلی اور داخلوں سے متعلق تمام کارروائی، حاضری کا اندراج، طلبہ کے تعلیمی ریکارڈ کی حفاظت، سندات کا اجراء اور مجلس تعلیمی کی تجاویز کا نفاذ وغیرہ امور شامل ہیں۔

دفتر تعلیمات سے متعلق تعلیمی شعبوں کا مختصر تعارف پچھلے عنوان کے تحت آچکا ہے۔

شعبہ محاسبی

یہ شعبہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے بہت اہم ہے۔ قیام دارالعلوم کے دوسرے سال ہی اس کی تشکیل عمل میں آگئی تھی۔ یہ شعبہ دفتر اہتمام سے ملحق گیٹ کے اوپر واقع ہے۔ مالی لین دین کے لحاظ سے اس شعبہ سے دارالعلوم کا ہر شعبہ وابستہ ہے۔ ہر قسم کے آمد و صرف کی شعبہ دار اور مدوار تفصیلات رکھنا اس کے فرائض میں ہے۔ ادنیٰ سے ادنیٰ رقم اور معمولی سے معمولی چیز بغیر رسید کے داخل نہیں کی جاتی۔ اسی طرح کوئی صرف بھی بغیر واؤچر کے نہیں کیا جاتا۔ دارالعلوم کا خزانہ اسی شعبہ کے واسطے سے مہتمم صاحب کی تحویل میں رہتا ہے۔ حسابات کے اندراجات مروجہ حسابی طریق کے مطابق نہایت واضح اور صاف رکھے جاتے ہیں اور جانچ پڑتال کے لیے اس کا دروازہ ہر شخص کے لیے کھلا رہتا ہے۔ اس کے باوجود مزید احتیاط کے طور پر رجسٹرڈ آڈیٹروں سے سالانہ حسابات چیک کرائے جاتے ہیں۔ اساتذہ و ملازمین کی تنخواہ اور طلبہ کے وظائف کی تقسیم کا کام بھی اسی شعبہ سے متعلق ہے۔ دوسرے شعبوں کے ذریعہ سے جو مصارف ہوتے ہیں ان کی جانچ پڑتال بھی محاسبی کے فرائض میں داخل ہے۔

الحمد للہ دارالعلوم کی دوسری خصوصیات کی طرح شعبہ محاسبی بھی حسابات کی صفائی و عمدگی اور حسن انتظام میں اپنی نظیر آپ ہے جس کا اعتراف ہر دور میں ماہرین نے کیا ہے۔

محافظ خانہ

دفتری حیثیت سے محافظ خانہ کو روداد دارالعلوم میں انتظام کی روح سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ شعبہ ۱۳۵۵ھ/ ۱۹۳۷ء میں قائم ہوا اور اس میں دارالعلوم کا تمام تاریخی سرمایہ محفوظ ہے۔ محافظ خانہ ادارہ اہتمام سے ملحق ایک دو منزلہ کمرہ میں واقع ہے۔ دارالعلوم کے تمام شعبہ جات کے کاغذات اور دستاویزات اسی شعبہ میں محفوظ رکھے جاتے ہیں۔ دارالعلوم کے انتظام و تعلیم سے متعلق ہر فرد کے متعلق خصوصی تفصیلات اور ریکارڈ اس شعبہ میں محفوظ رکھے جاتے ہیں۔ مجلس شوریٰ اور مجلس عاملہ کی تمام کارروائیوں کا ریکارڈ بھی اسی دفتر میں مرتب اور محفوظ ہوتا ہے۔ دفتر اہتمام سے صادر ہونے والے جملہ اہم احکامات اور کاغذات کی نقول یہاں جمع ہوتی ہیں۔ گویا یہ دفتر دارالعلوم کی اب تک کی تاریخ کے تمام اہم ریکارڈ کا خزانہ ہے۔

دارالعلوم کی جملہ رسیدات اور سندتات وغیرہ کی طباعت کا کام بھی دفتر محافظ خانہ سے انجام دیا جاتا ہے۔ نیز، دارالعلوم کے تمام شعبہ جات اور دفاتر کو اسٹیشنری اور کاغذ وغیرہ کا مطلوبہ سامان اسی دفتر کے توسط سے فراہم کیا جاتا ہے۔

کتب خانہ

کسی تعلیمی ادارہ اور دانش گاہ کے لیے کتب خانہ وہی حیثیت رکھتا ہے جو جسم انسانی میں ریڑھ کی ہڈی کی ہوتی

ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اکابر دارالعلوم کے سامنے تعلیم کا جو بلند معیار تھا اور اساتذہ و طلبہ کے مطالعہ و تحقیق اور تصنیف و تالیف کی جو اہم ذمہ داریاں تھیں ان سے عہدہ برآ ہونے کے لیے ضروری تھا کہ ایک اعلیٰ درجہ کا کتب خانہ موجود ہو، کیوں کہ ایسے کتب خانے کے بغیر تدریس و تحقیق کا اعلیٰ معیار برقرار نہیں رکھا جاسکتا تھا۔ اس غرض سے کتب خانہ کے لیے دارالعلوم کے قیام کے ساتھ ہی کوششیں شروع کر دی گئی تھیں۔

دارالعلوم کے عظیم کتب خانہ میں ایک بڑی تعداد ان کتابوں کی بھی ہے جو علم دوست والیان ملک و ریاست کی جانب سے دارالعلوم کو بطور عطیہ حاصل ہوئیں جیسے ترکی کے سلطان رشاد خاں، سعودی عرب کے سلطان ابن سعود، مرحوم جمال عبدالناصر صدر جمہوریہ مصر، حکومت افغانستان اور فرمانروائے دکن نیز ہندوستان کے بہت سے علمی خانوادوں کے ذخائر کتب، دارالعلوم کے کتب خانہ کی زینت ہیں۔ ان کے علاوہ حسب ضرورت درسی و معاون کتابیں خرید کر بھی داخل کتب خانہ کی جاتی رہی ہیں۔ اس طرح سے بھی کتب خانہ دارالعلوم میں کتابوں کا ایک بڑا اور گراں قدر ذخیرہ جمع ہو گیا ہے اور یہ سلسلہ تاحال جاری ہے۔

اب تک درسی و غیر درسی کتابوں کی تعداد دو لاکھ سے زائد ہے، جس میں ایک بڑا حصہ غیر درسی کتابوں کا ہے۔ یہ کتب خانہ کیمت و کیفیت اور اپنی ندرت کے اعتبار سے ملک کے ممتاز کتب خانوں میں ایک مقام رکھتا ہے۔ اس سے ہندو بیرون ہند کے اہل علم اور مصنفین ہمیشہ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ استفادہ کی سہولت کے لیے کتب خانہ کی کتابوں کی تقسیم و ترتیب میں زبان اور فن کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ کتب خانہ دارالعلوم میں بیشتر کتابیں عربی زبان سے متعلق ہیں، اس کے بعد اردو اور پھر فارسی و دیگر زبانوں کی کتابیں ہیں۔ دارالعلوم کے کتب خانہ میں درج ذیل زبانوں کی کتابیں موجود ہیں:

(۱) عربی (۲) فارسی (۳) اردو (۴) انگریزی (۵) ہندی (۶) گجراتی (۷) پنجابی (۸) پشتو (۹) تملگو (۱۰) تامل (۱۱) فرانسیسی (۱۲) بنگلہ (۱۳) ترکی (۱۴) ملیالم (۱۵) مراٹھی (۱۶) سندھی (۱۷) برمی۔

موضوعات اور عنوانات کے اعتبار سے کتابوں کی تقسیم اس طرح ہے:

علوم قرآنی: (۱) قرآن کریم (۲) تجوید (۳) قرأت (۴) اصول تفسیر (۵) تفسیر (۶) حواشی اور شروح و تفسیر (۷) احکام القرآن (۸) غریب القرآن (۹) اعراب القرآن (۱۰) النسخ و الممنوخ (۱۱) اسباب النزول (۱۲) متعلقات قرآن (۱۳) استخراج آیات (۱۴) مضامین قرآن (۱۵) تراجم قرآن فارسی (۱۶) تراجم قرآن اردو۔
علم حدیث اور متعلقات: (۱۷) حدیث صحاح ستہ وغیرہ مع شروح و حواشی (۱۸) اصول حدیث (۱۹) مسانید و سنن (۲۰) دیگر مجموعہ احادیث (۲۱) موضوعات حدیث (۲۲) غریب الحدیث (۲۳) استخراج الحدیث (۲۴) اسماء الرجال۔

اصول فقہ اور فقہ و فتاویٰ: (۲۵) اصول فقہ حنفی (۲۶) اصول فقہ مالکی (۲۷) اصول فقہ شافعی (۲۸) اصول

فقہ حنبلی (۲۹) اصول فقہ اہل حدیث (۳۰) فقہ حنفی (۳۱) فقہ مالکی (۳۲) فقہ شافعی (۳۳) فقہ حنبلی (۳۴) فقہ علماء ظاہر (۳۵) فقہ اہل حدیث (۳۶) فتاویٰ حنفی (۳۷) فرائض۔

عقائد و کلام: (۳۸) علم عقائد و کلام (۳۹) حکمت شرعیہ۔

تصوف: (۴۰) علم تصوف (نثر) (۴۱) علم تصوف (نظم) (۴۲) علم تصوف (مکتوبات) (۴۳) علم تصوف (ملفوظات)۔

متفرقات: (۴۴) مواعظ و اخلاق (۴۵) اوراد و وظائف و عملیات (۴۶) عربی ادب (نثر) (۴۷) عربی ادب (نظم) (۴۸) علم معانی (۴۹) علم نحو (۵۰) علم صرف (۵۱) تاریخ عام (۵۲) تاریخ تہذیب و تمدن (۵۳) تاریخ علوم و مذاہب (۵۴) سیرت النبی (۵۵) تراجم صحابہؓ (۵۶) تراجم فقہاء و محدثین و دیگر علماء (۵۷) تذکرہ علمائے دیوبند (۵۸) تراجم اولیائے کرام (۵۹) تذکرہ الشعراء (۶۰) دائرۃ المعارف (۶۱) سفرنامے (۶۲) کوائف دارالعلوم دیوبند (۶۳) انساب (۶۴) فہرس الکتب (۶۵) مجامع (۶۶) متفرقات (۶۷) علم طبقات الارض (۶۸) علم الکیسیا (۶۹) علم الزراعة (۷۰) علم الاصوات و الحیوانات (۷۱) سیاسیات (۷۲) فلسفہ (۷۳) منطق (۷۴) ہیئت (۷۵) معاشیات و اقتصادیات (۷۶) اخبار و رسائل (۷۷) عمرانیات و معلومات عامہ (۷۸) جغرافیہ (۷۹) طب (۸۰) تعبیر رویا (۸۱) کتب اہل کتاب (۸۲) کتب دھرم شاستر (۸۳) اصول مناظرہ (۸۴) کتب مختلف مذاہب (۸۵) کتب عیسائیت (۸۶) کتب ردّ عیسائیت (۸۷) کتب قادیانیت (۸۸) کتب ردّ قادیانیت (۸۹) کتب مبتدعین (۹۰) کتب ردّ بدعت (۹۱) کتب غیر مقلدین (۹۲) کتب ردّ غیر مقلدین (۹۳) کتب اہل تشیع (۹۴) ردّ روافض (۹۵) ردّ نیچریت (۹۶) کتب خاکساریت (۹۷) ردّ خاکساریت (۹۸) کتب فرقہ مہدویہ (۹۹) ردّ مہدویہ (۱۰۰) کتب فرقہ بہائیہ (۱۰۱) ردّ فرقہ بہائیہ۔

تمام غیر درسی کتابوں کی مفصل فہرست مکمل وضاحت کے ساتھ موجود ہے، کتابیں نکالنے کے لیے حروف تہجی کے لحاظ سے جدید طریقہ کار، کارڈ سسٹم کا استعمال ہوتا ہے۔

کتب خانہ کی موجودہ عمارت ۱۳۲۲ھ/۱۹۰۶ء میں تعمیر ہوئی، پھر ۱۳۳۴ھ/۱۹۹۶ء میں دوبارہ توسیع ہوئی۔ کتب خانہ اس وقت تین وسیع ہال اور چھوٹے بڑے بارہ کمروں پر مشتمل ہے۔ ان میں ایک ہال عربی کتب کے مطالعہ کے لیے اور ایک اردو کتب کے مطالعہ کے لیے مخصوص ہے، جہاں طلبہ و اساتذہ اور دوسرے حضرات مطالعہ و تحقیق میں مشغول رہتے ہیں، جب کہ تیسرے ہال میں نوادرات و مخطوطات بہت ہی حفاظت کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں۔ ایک کمرہ علمائے دیوبند کی تصنیفات کے لیے مخصوص ہے جو تمام زائرین خصوصاً ریسرچ اسکالر حضرات کے لیے خاص دل چسپی کا سامان ہے۔

مخطوطات: کتب خانوں کی دنیا میں قلمی کتابوں اور مخطوطوں کی ہمیشہ سے بڑی اہمیت اور قدر و قیمت رہی ہے۔ دارالعلوم کے کتب خانہ میں متعدد نادرا اور گراں قدر مخطوطات موجود ہیں۔ مخطوطات میں ایک خاصی تعداد ایسی

نادر الوجود کتابوں کی بھی ہے جو کیمیا و نایاب اور علمی و تحقیقی ذوق رکھنے والوں کے لیے متاع بے بہا ہیں۔ بعض ان میں فن خطاطی کے لحاظ سے لاجواب ہیں تو بعض اپنی قدامت کے اعتبار سے لائق توجہ۔ ایک تعداد ایسی بھی ہے جو نقاشی و مصوری میں بے مثال ہے اور شاہی کتب خانوں کی زینت رہ چکی ہے۔ مخطوطات کی باضابطہ فہرست مع تعارف مرتب کر دی گئی ہے تاکہ واروین اور شائقین کے لیے ان سے استفادہ آسان ہو، چنانچہ مخطوطات کی مفصل فہرست دو جلدوں میں شائع ہوئی ہے۔ پہلی جلد تفسیر، حدیث، فقہ اور عقائد و کلام وغیرہ پر مشتمل ہے۔ دوسری جلد تصوف، تاریخ، معانی، ادب عربی، لغت، فلسفہ، منطق، ہیئت، صرف، نحو، مناظرہ، ریاضی، طب، ادب فارسی اور ادب اردو وغیرہ کی فہرست اور مختصر تعارف پر مبنی ہے۔

کتب خانہ دارالعلوم کا خاص امتیاز: یہ کتب خانہ اہل علم و تحقیق کے لیے اپنی پوری خصوصیات کے ساتھ معلوم و مشہور ہے۔ ہندوستان کے دیگر تمام گرام قدر کتب خانوں سے کتب خانہ دارالعلوم کو جو چیز امتیازی شان عطا کرتی ہے، وہ ہے اس کی پشت پر ایشیا کی عظیم دینی درس گاہ ازبیر ہند دارالعلوم دیوبند۔ یہاں آنے والے مہمانان کرام اس وقت تک تشنہ زیارت رہتے ہیں جب تک وہ اس کے عظیم الشان کتب خانہ کے تمام حلقات کو نہ دیکھ لیں۔ یہاں تحقیق و ریسرچ کرنے والوں کے لیے مختلف النوع دلچسپیوں کے وافر سامان مل جاتے ہیں۔ چنانچہ یہاں علم و تحقیق کے پیاسوں کا ایک تاننا اور سلسلہ برابر لگا رہتا ہے، اس کے نایاب اور نادر علمی ذخیرے سے استفادہ کرنے والے برابر آتے رہتے ہیں۔ تحقیق و ریسرچ کے لیے آنے والوں کو حتی الامکان سہولتیں بہم پہنچائی جاتی ہیں۔

شیخ الہند لائبریری: دارالعلوم کی شایان شان جدید سہولیات سے آراستہ ایک عظیم الشان کتب خانہ کی ضرورت عرصہ سے محسوس کی جا رہی تھی۔ الحمد للہ گزشتہ کئی برسوں سے حضرت شیخ الہند کی طرف منسوب نئی لائبریری کی تعمیر ہو رہی ہے اور اب وہ اپنی آخری مراحل میں ہے۔ یہ لائبریری سات منزلہ اور گول ہے۔ اس میں پانچ لاکھ سے زائد کتابوں کے علاوہ، مطالعہ گاہ اور ریسرچ ہال بھی ہوگا۔ عمارت میں کتب خانہ کے ساتھ ساتھ دورہ حدیث کی درس گاہ اور وسیع و عریض کانفرنس ہال بھی شامل ہے۔

شعبہ تنظیم و ترقی

شعبہ تنظیم و ترقی دارالعلوم کا نہایت اہم شعبہ ہے۔ یہ شعبہ ۱۳۵۵ھ سے قائم ہے۔ اس شعبہ کا کام دارالعلوم کے لیے مالیات اور غلہ وغیرہ کی فراہمی ہے۔ عطیات وصول کرنے کے لیے متعدد سفراء مامور ہوتے ہیں جن پر ملک کے مختلف حصوں کو تقسیم کر دیا گیا ہے۔ یہ سفراء اپنے اپنے حلقوں میں دورہ کرتے ہیں اور دارالعلوم کے لیے مالی امداد جمع کرتے ہیں۔ طلبہ کے لیے غلہ کی فراہمی بھی یہی شعبہ انجام دیتا ہے۔ اس شعبہ میں اس وقت سات دفتری عملہ کے علاوہ تقریباً پچاس سفراء حضرات متعین ہیں جو ملک کے طول و عرض میں دارالعلوم کی نمائندگی کے فرائض انجام دینے کے علاوہ عوام کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں اور دارالعلوم کے لیے چندہ جمع کرتے ہیں۔

دفتر تنظیم و ترقی برانچ ممبئی: یہ دفتر ہندوستان کی تجارتی راجدھانی ممبئی میں دفتر تنظیم کی شاخ کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس دفتر کا قیام ۱۹۰۶ء میں عمل میں آیا۔ اس کے مقاصد میں رابطہ عامہ اور فراہمی مالیات وغیرہ کے وہی امور ہیں جو تنظیم و ترقی کے مقاصد ہیں۔

دارالاقامہ

یہ شعبہ بھی دارالعلوم کا ایک فعال شعبہ ہے۔ دیگر شعبوں کی طرح اس شعبہ کا بھی ایک دفتری نظام ہے جو ہر وقت مصروف عمل رہتا ہے۔ دفتر دارالاقامہ کے فرائض میں طلبہ کے کمروں کی ترتیب، سیٹوں کا اجراء و نسخ، طلبہ کے لیے شناختی کارڈ اور تعطیلات میں کنسیشن کا اجراء وغیرہ اہم امور شامل ہیں۔ طلبہ کے لیے کمروں کی تجویز و تعیین، ان کی اخلاقی نگرانی اور طلبہ کے مابین نزاعی معاملات میں فصل خصومات دارالاقامہ سے تعلق رکھتے ہیں جو اساتذہ کے ذریعہ انجام دیے جاتے ہیں۔ دارالعلوم کے تمام بڑے دروازوں پر دربانوں کا نظم، چوہیں گھنٹہ نظم و حفاظت کے لیے اندرون دارالعلوم گشتی کا انتظام بھی دارالاقامہ کے ذمہ ہے۔

دارالعلوم کا دارالاقامہ اس وقت دارجدید، رواق خالد، شیخ الہند منزل، شیخ الاسلام منزل، حکیم الامت منزل وغیرہ جیسے تیرہ وسیع احاطوں اور ۶۲۵ کمروں پر مشتمل ہے جن میں تقریباً چار ہزار طلبہ و اساتذہ کا قیام رہتا ہے۔ طلبہ کے ہاسٹل مختلف حلقوں میں تقسیم ہیں اور ہر حلقہ کا ایک نگران مقرر ہوتا ہے۔ شعبہ میں ناظم اعلیٰ کے علاوہ، متعدد نظمائے حلقہ کام کرتے ہیں جو سب کے سب اساتذہ دارالعلوم ہوتے ہیں۔

طلبہ کی کردار سازی اور دینی تربیت کے مقصد سے متعدد مواقع پر اصلاحی اجلاسات کا اہتمام کیا جاتا ہے جن میں حضرات اکابر و اساتذہ ان کو نصیحتیں فرماتے ہیں۔ قوانین و ضوابط کا احترام، اکابر و اساتذہ کی اطاعت، باہمی محبت و اخلاص اور رواداری طلبہ دارالعلوم کے اخلاقی نظام کے مخصوص اوصاف ہیں۔

شعبہ مطبخ

دارالعلوم میں مطبخ کا باقاعدہ قیام ۱۳۲۸ھ (۱۹۱۰ء) میں عمل میں آیا۔ دارالعلوم کے ابتدائی چالیس سالوں میں مطبخ کے قیام سے پہلے بیرونی طلبہ کے کھانے کا انتظام یہ تھا کہ بعض طلبہ کا کھانا تو اہل شہر کے ذمہ تھا، اہل خیر حضرات ایک ایک دو دو طالب علم کو کھانا دیتے تھے، جب کہ کچھ طلبہ کو نقد وظیفہ دیا جاتا تھا جس سے اپنے کھانے کا خود انتظام کرتے تھے۔ ۱۳۲۸ھ میں نقد وظیفہ کے بجائے مطبخ کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ پہلے سال میں صرف ۲۵ سے ۳۰ طلبہ کا کھانا پکتا تھا۔ رفتہ رفتہ تعداد بڑھتی گئی اور اس کا نظام وسیع ہوتا گیا۔

اس وقت اس شعبہ میں تقریباً پچاس افراد کا عملہ ہے جو تقریباً چار ہزار سے زائد طلبہ کے لیے صبح و شام کا کھانا تیار کر کے تقسیم کرتا ہے۔ مطبخ کی عمارت احاطہ دارالعلوم کے جنوبی گوشے میں چھتہ مسجد کے پاس واقع ہے۔ یہ

عمارت کئی حصوں پر منقسم ہے۔ شعبہ مطبخ کے فرائض میں کھانے کی تیاری اور اس کے لیے ضروری سامان کی فراہمی، تقسیم طعام، مطبخ سے کھانا پانے والے تمام طلبہ کا ریکارڈ اور اس سلسلہ کے مکمل حسابات کی تکمیل شامل ہے۔ یہ شعبہ طلبہ کو پورے سال حتیٰ کہ رمضان و عید الفطر اور عید الاضحیٰ وغیرہ کی تعطیلات میں بھی دارالعلوم میں قیام پذیر طلبہ کو طعام کی سہولیات فراہم کرتا ہے۔

دارالعلوم کی طرف سے طلبہ کو تعلیم اور رہائش وغیرہ کے ساتھ مفت کھانا فراہم کیا جاتا ہے۔ مستطیع طلبہ کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ قیمتاً کھانا حاصل کر سکیں۔ طلبہ کے لیے پرہیزی کھانا کی سہولت بھی موجود ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں، دارالعلوم کے متعلقین کے لیے خصوصی مواقع پر خاص قسم کے کھانوں کی تیاری کا انتظام بھی مطبخ کے ذریعہ ہوتا ہے۔

آٹا چکی: دارالعلوم میں آٹا چکی کا مستقل نظام قائم ہے اور مطبخ کی ضروریات کی تکمیل کے لیے آٹا چکی کا شعبہ کام کر رہا ہے۔

شعبہ تعمیرات

دارالعلوم میں شعبہ تعمیرات ۱۳۳۲ھ/۱۹۱۲ء سے قائم ہے۔ اس سے پہلے تعمیرات کی دیکھ بھال براہ راست دفتر اہتمام سے متعلق تھی۔

شعبہ تعمیرات دارالعلوم کا نہایت سرگرم شعبہ ہے جو دارالعلوم کے تمام تعمیراتی امور کی نگرانی کرتا ہے۔ نئی عمارت کی تعمیر کے ساتھ پرانی عمارتوں کی اصلاح و مرمت، رنگ و روغن اور دیکھ بھال بھی اسی شعبہ کے فرائض میں شامل ہے۔ اس شعبہ کی کارکردگی کا کوئی خاص وقت یا موسم مقرر نہیں ہے، یہ شعبہ ایام تعلیم کے علاوہ تعطیل کے دنوں میں بھی اپنے فرائض کی ادائیگی میں مصروف رہتا ہے۔

گزشتہ دو دہائیوں میں اس شعبہ کی کارکردگی میں بڑی وسعت اور پھیلاؤ آیا ہے۔ اس عرصہ میں کئی اہم اور شاندار عمارتیں تعمیر ہوئیں اور دارالعلوم کا زمینی رقبہ دو گنے سے زیادہ ہو گیا۔ جامع رشید، مدرسہ ثانویہ، دارالمدرسین، رواق خالد، شیخ الہند منزل (اعظمی منزل) شیخ الاسلام منزل (آسامی منزل)، حکیم الامت منزل (تحفیظ القرآن منزل) وغیرہ عمارتیں اسی شعبہ کی نگرانی میں تعمیر ہوئیں۔ سنگ مرمر کی عظیم الشان پرشکوہ جامع رشید کی تعمیر بھی جو فن تعمیر کا ایک شاہکار ہے اسی شعبہ کی کارکردگی کا ایک حصہ ہے۔ گزشتہ برسوں میں دارالاقامہ دار جدید کے از سر نو انہدام کے بعد اس کی سہ منزلہ دوبارہ تعمیر شروع کی گئی۔ اسی طرح عظیم الشان شیخ الہند لائبریری کی تعمیر بھی اسی شعبہ کی نگرانی میں جاری ہے۔

شعبہ اوقاف

اوقاف کا سلسلہ دارالعلوم کی عمارتوں کی تعمیر کے ساتھ شروع ہو گیا تھا۔ تاہم باضابطہ یہ شعبہ ۱۳۳۵ھ/۱۹۱۷ء

میں قائم ہوا۔ وقتاً فوقتاً اہل خیر اپنی چھوٹی چھوٹی جائدادیں دارالعلوم کے لیے وقف کرتے رہے؛ البتہ کوئی ایسی جائداد جس کے ذریعہ سے دارالعلوم کے معتد بہ مصارف پورے ہو سکیں، اوقاف دارالعلوم میں نہیں ہے۔ یہ اوقاف ہندوستان کے مختلف مقامات میں واقع ہیں۔

یہ شعبہ دارالعلوم کی تمام موقوفہ و مملوکہ جائداد کی حفاظت اور دیکھ بھال کے فرائض انجام دیتا ہے۔ عمارتوں کے کرایہ کی وصولیابی، نادہندوں اور قابضین کے خلاف قانونی چارہ جوئی، جائداد سے متعلق مقدمات کی پیروی وغیرہ جیسے امور اس شعبہ کے ذمہ ہیں۔

مکتبہ دارالعلوم

یہ شعبہ دارالعلوم کا قدیم اشاعتی ادارہ ہے۔ اس شعبہ کے مقاصد میں عقائد صحیحہ حقہ کی اشاعت، اکابر و علمائے دیوبند کے علوم و معارف کی توسیع و تشہیر اور مسلک دیوبند کی حفاظت و دفاع وغیرہ امور شامل ہیں۔ مکتبہ دارالعلوم کے ذریعہ حضرات اکابرین دارالعلوم کی اہم کتابوں کی نشر و اشاعت کا کام انجام دیا جاتا ہے۔

مکتبہ دارالعلوم کے زیر اہتمام اب تک ساٹھ سے زیادہ کئی اہم اور وسیع کتابیں شائع ہو کر قبول عام حاصل کر چکی ہیں۔ فتاویٰ دارالعلوم کا مشہور و مستند مجموعہ مکتبہ دارالعلوم کے ذریعہ شائع کیا گیا ہے۔ نیز، شیخ الہند اکیڈمی، مجلس تحفظ ختم نبوت اور شعبہ مطالعہ عیسائیت کے ذریعہ شائع کردہ تمام کتابیں مکتبہ دارالعلوم کے کاؤنٹر سے ہی دستیاب ہوتی ہیں۔ طلبہ کو انعام میں دی جانے والی ہزار ہا ہزار کتابوں کی فراہمی و نظم بھی مکتبہ دارالعلوم کے ذریعہ انجام دیا جاتا ہے۔ مختلف اجلاسات اور کانفرنسوں وغیرہ کے مواقع پر دارالعلوم کی کتابوں کا بک اسٹال بھی لگایا جاتا ہے۔

شعبہ برقیات

شعبہ برقیات ۱۳۷۲ھ/۱۹۵۲ء سے قائم ہے۔ دارالعلوم میں بجلی کی روشنی کا انتظام نہایت وسیع ہے؛ اس لیے ان امور کی برآری کے لیے ایک مستقل شعبہ قائم کیا گیا۔ درس گاہوں، دفاتر، اقامت گاہوں، مساجد، شاہراہوں اور راہداریوں میں بجلی نصب ہے، نیز گرمی اور سردی کے موسموں کے لحاظ سے برقی پنکھوں، ریفریجریٹر اور گرم پانی وغیرہ کا بھی انتظام ہے جس کی دیکھ بھال یہی شعبہ کرتا ہے۔ بجلی گل ہونے کی صورت میں جنریٹر کے ذریعہ بجلی فراہم کی جاتی ہے۔ دارالعلوم کے احاطہ میں پانی کی سپلائی، واٹر ٹینکوں کی دیکھ بھال بھی اسی شعبہ کے ذریعہ کی جاتی ہے۔

اس کے علاوہ، دارالعلوم کی گاڑیوں کی دیکھ بھال، مرمت، ڈرائیوروں سے متعلق معاملات اور گاڑیوں کے پروگرام کی ترتیب وغیرہ بھی اسی شعبہ کے دائرہ کار میں آتی ہے۔ درس گاہوں میں یا اجلاسات اور کانفرنسوں وغیرہ کے مواقع پر لاؤڈ اسپیکر سٹیجنگ اور آڈیو ریکارڈنگ وغیرہ امور کا نظم بھی اسی شعبہ سے متعلق ہے۔

عظمت ہسپتال

دارالعلوم میں طب یونانی کی تعلیم کے ساتھ علاج معالجہ کا سلسلہ ۱۳۰۱ھ/۱۸۸۴ء سے قائم ہو گیا تھا۔ تکمیل الطب کی تعلیم کے ساتھ مستقل طور پر دارالشفاء کا قیام بھی عمل میں آیا۔ بعد میں یہ دارالشفاء 'عظمت ہسپتال' کے نام سے موسوم ہوا۔

دارالشفاء طلبہ کو تقریباً مفت اور غیر طلبہ کو نہایت کم قیمت پر علاج کی سہولت مہیا کرتا ہے۔ اس ہسپتال میں یونانی اور ایلیو پیتھک دونوں قسم کے علاج کا نظم ہے۔ طلبہ کے علاوہ غریب لوگوں کے لیے یہ نہایت مفید ہسپتال ہے جس سے وہ بلا کسی قید مذہب و ملت فائدہ اٹھاتے ہیں۔

عظمت ہسپتال کو ماہر یونانی اور ایلیو پیتھک معالجین کی خدمات حاصل ہیں۔ امراض کی تشخیص اور دواؤں کی تیاری و تقسیم اس شعبہ کے ذریعہ انجام دی جاتی ہے۔ یہ شعبہ بہت فعال ہے اور اس کے ذریعہ کافی لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اس کی خدمات کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ صرف ایک سال میں اس شعبہ سے مستفیدین کی تعداد ایک لاکھ سے زیادہ ہو جاتی ہے۔

مہمان خانہ

دارالعلوم میں مہمانوں کے آمد و رفت کی وجہ سے باضابطہ ۱۳۱۷ھ/۱۸۹۹ء سے مہمان خانہ قائم ہے۔ ۱۹۵۷ء میں دارالعلوم مسجد کے سامنے مہمان خانہ کی مستقل عمارت تعمیر ہوئی جس کی ۱۹۹۴ء میں تعمیر نو ہوئی اور اس کو مزید وسیع بھی کیا گیا اور حسب ضرورت میٹنگ ہال، طعام ہال، ایئر کنڈیشنڈ کمرے تیار کرائے گئے۔ مجلس شوریٰ و مجلس عاملہ کے اجلاس اور دیگر اہم میٹنگیں مہمان خانہ میں انجام پاتی ہیں۔

مہمان خانہ میں مہمانوں کے قیام و طعام کا معقول نظم رہتا ہے۔ مہمانوں کی سہولت کے پیش نظر بجلی، پانی، بیڈ اور موسم کی مناسبت سے گرم و ٹھنڈا پانی، پنکھے، کولر، لحاف وغیرہ کا انتظام رہتا ہے۔ بہت سے ملکی و غیر ملکی مہمانوں کی ایک کثیر تعداد روز آئے مہمان خانہ کی سہولیات سے مستفید ہوتی ہے۔

شعبہ خریداری

دارالعلوم میں شعبہ جات و دفاتر کی کثرت و وسعت اور دیگر مختلف امور کی وجہ سے اشیاء کی خریداری کا کام ہمیشہ رہتا ہے۔ اسی ضرورت کے پیش نظر دارالعلوم نے تمام شعبہ جات و دفاتر کے لیے ایسا نظام مقرر کیا ہے کہ جملہ سامانوں کی خریداری کا کام ایک شعبہ کے ذریعہ انجام دیا جائے تاکہ نظم و انتظام میں سہولت ہو۔ اسی مقصد کے تحت دارالعلوم میں اشیاء کی خرید و فروخت کے لیے ۱۳۱۸ھ/۱۹۹۸ء سے مستقل شعبہ قائم ہے۔

اس شعبہ کے ذریعہ ہر شعبہ کے لیے ضروری سامانوں کی خریداری کا کام انجام دیا جاتا ہے۔ بڑے اور اہم سامانوں کی خریداری کے لیے براہ راست عموماً کمپنی سے رابطہ کیا جاتا ہے اور مختلف کمپنیوں یا ڈیلروں سے کوٹیشن لے کر سامان کی خریداری کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ سامانوں کی قیمت کی ادائیگی عموماً چیک کے ذریعہ کی جاتی ہے۔ شعبہ خریداری کا نظام انتہائی صاف و شفاف اور منظم ہے۔

خریداری کے علاوہ، دارالعلوم کے شعبہ جات اور دفاتر کے پرانے اور ناقابل استعمال سامانوں کی فروختگی کا کام بھی اسی شعبہ کے ذریعہ انجام پاتا ہے۔

اسٹاک روم

شعبہ اسٹاک روم ۱۴۱۸ھ / ۱۹۹۸ء میں قائم ہوا۔ اسٹاک روم میں دارالعلوم کے جملہ سامانوں کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے اور حسب موقع دفتر اور شعبہ جات کو فراہم کیا جاتا ہے۔ شعبہ خریداری کے ذریعہ خریدے ہوئے روزمرہ کے استعمال کے تمام سامانوں اور اشیاء کا اندراج اسٹاک روم میں ہو جاتا ہے اور پھر وہاں سے حسب ضرورت متعلقہ شعبہ جات کی ضرورت اور درخواست پر انھیں فراہم کیا جاتا ہے۔

اسٹاک روم میں دارالعلوم کے جملہ دفتر اور شعبہ جات کی پرانی اور کارآمد اشیاء کو اندراج کے بعد محفوظ بھی رکھا جاتا ہے۔

کمپیوٹر برائے کتابت

ملک میں کمپیوٹر متعارف ہوتے ہی دارالعلوم نے اردو و عربی ترجمان ماہناموں کو کمپیوٹر کتابت کے ساتھ نکالنا شروع کر دیا تھا۔ پہلے یہ کام دہلی اور پھر دیوبند میں مارکیٹ کے ذریعہ انجام دیا جاتا تھا۔ دارالعلوم میں شعبہ کمپیوٹر کی ابتدا کے بعد کچھ دنوں تک ان کی کمپوزنگ کا کام شعبہ کمپیوٹر کے ذریعہ انجام دیا جانے لگا۔ بعد میں ضرورت کے پیش نظر کمپوزنگ وغیرہ امور کی انجام دہی کے لیے مستقل طور پر شعبہ کمپیوٹر برائے کتابت کا قیام عمل میں آیا۔

اس شعبہ میں مستقل طور پر عربی مجلہ 'الداعی' اور ماہنامہ 'دارالعلوم' کی کمپوزنگ اور سیٹنگ کا کام انجام دیا جاتا ہے۔ نیز، دفتر اہتمام اور دارالعلوم کے دیگر دفتری کاغذات اور خطوط وغیرہ کی کمپوزنگ کے کام معیاری طور پر انجام دیے جاتے ہیں۔

دفتر صفائی و چمن بندی

صفائی کا اہتمام اسلام کی اہم خصوصیات میں سے ہے۔ اس لیے دارالعلوم میں روز اول ہی سے صفائی پر

خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ اسی مقصد کی تکمیل کے لیے یہ شعبہ قائم ہے جس کے ذریعہ دارالعلوم کی تمام گذرگاہوں، برآمدوں، بیت الخلاؤں، غسل خانوں اور دیگر عمارات کی صفائی کا کام انجام دیا جاتا ہے۔ نیز، خصوصی مواقع پر دارالعلوم کے جملہ دروازوں، چھتوں اور دیواروں کی صفائی اور دھلائی کا کام بھی انجام دیا جاتا ہے۔

اسی کے ساتھ اس شعبہ کے ذریعہ دارالعلوم کے تمام پارکوں کی چمن بندی اور تزئین کا کام بھی انجام دیا جاتا ہے۔ دارالعلوم کے احاطے میں مختلف چمن اور پارک بنے ہوئے ہیں جو قسم قسم کے خوبصورت اور صحت افزا پھولوں کے پودوں اور درختوں سے معمور ہیں۔ ان پارکوں کی دیکھ بھال، سینچائی اور تراش خراش بھی اسی شعبہ کے ذریعہ انجام دی جاتی ہے۔

شعبہ مکاتب اسلامیہ

دارالعلوم نے ۱۴۲۵ھ/۲۰۰۴ء میں کچھ انتہائی کم مسلم آبادی والے علاقوں میں جہاں دینی و تعلیمی صورت حال ابتر ہونے کے ساتھ قادیانی یا عیسائی مشنریاں سرگرم ہیں ایسے مقامات پر مکاتب اسلامیہ کے قیام کا سلسلہ شروع کیا۔ چنانچہ ہریانہ، پنجاب، اترکھنڈ، راجستھان، جھارکھنڈ، ہماچل پردیش اور نلگنڈہ (آندھرا پردیش) میں مسلمان بچوں کی بنیادی دینی تعلیم کے لیے مکاتب اسلامیہ قائم کیے گئے۔ ہماچل پردیش اور نلگنڈہ (آندھرا پردیش) کے مکاتب مقامی سطح پر خود کفیل ہو چکے ہیں، جب کہ دیگر مقامات کے مکاتب براہ راست دارالعلوم ہی کی نگرانی و تعاون سے چل رہے ہیں۔ ان مکاتب کی مجموعی تعداد چالیس سے زائد ہے۔ علاوہ ازیں، دیوبند شہر کی مختلف مساجد میں بھی دارالعلوم کی طرف سے مکاتب کا نظام قائم ہے۔

دارالعلوم کے علمی و دعوتی شعبہ جات

دارالعلوم محض ایک تعلیمی درس گاہ ہی نہیں بلکہ ایک مکتب فکر اور تجدید دین کا مرکز بھی ہے۔ اسی وجہ سے یہاں قال اللہ و قال الرسول کے زمزموں کے ساتھ ہمیشہ علمی و فکری اور دعوتی و تبلیغی خدمات کا ایک سلسلہ قائم رہا ہے۔ انھیں سلسلوں کو استحکام و تقویت دینے کے مقصد سے حسب ضرورت باضابطہ کچھ شعبے بھی قائم کیے گئے جو اپنے مقاصد کی تکمیل میں سرگرم عمل رہتے ہیں۔

دارالعلوم کا شعبہ دارالافتاء عوام کی دینی رہنمائی کا سب سے موثر ادارہ ہے۔ دارالعلوم کی فکری و مسلکی ترجمانی اور عوام الناس کی اصلاح و دعوت کے مقصد سے شعبہ تبلیغ قائم ہے۔ فرق ضالہ اور مذاہب باطلہ کے رد، اسلام کے حدود و شعور کی حفاظت و پاسبانی اور عوام کو دین مستقیم پر قائم رکھنے کے لیے مجلس تحفظ ختم نبوت، شعبہ مطالعہ عیسائیت، شعبہ تحفظ سنت، دفتر محاضرات علمیہ قائم ہیں۔ تحریر و صحافت کے میدان میں دارالعلوم کی ملک و بیرون ملک میں نمائندگی کے لیے ماہنامہ دارالعلوم اردو اور ماہنامہ الداعی عربی کی اشاعت کا سلسلہ جاری ہے۔ شیخ الہند اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے علمی و تحقیقی کاوشوں کی تیاری و اشاعت کا کام انجام پاتا ہے۔ عصر حاضر کی جدید ٹکنالوجی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انٹرنیٹ کے ذریعہ آن لائن فتویٰ اور آن لائن دعوت کا قابل قدر سلسلہ بھی قائم ہے۔

دارالعلوم کے علمی و دعوتی شعبہ جات حسب ذیل ہیں:

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| (۱) دارالافتاء | (۲) شعبہ انٹرنیٹ و آن لائن فتویٰ |
| (۳) شعبہ تبلیغ | (۴) شیخ الہند اکیڈمی |
| (۵) کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت | (۶) شعبہ تحفظ سنت |
| (۷) شعبہ مطالعہ عیسائیت و دیگر مذاہب | (۸) شعبہ محاضرات علمیہ |
| (۹) دفتر مجلہ الداعی | (۱۰) دفتر ماہنامہ دارالعلوم |
| (۱۱) رابطہ مدارس اسلامیہ | (۱۲) شعبہ ترتیب فتاویٰ |

دارالافتاء

دارالعلوم جس وقت قائم ہوا اس زمانے میں پرانے علماء کی درس گاہیں ویران اور مسندیں خالی ہو چکی تھیں۔ علماء خال خال رہ گئے تھے اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ کوئی مسئلہ بتانے والا مشکل سے ملتا تھا۔ اس لیے جوں ہی دارالعلوم کا قیام عمل میں آیا، لوگوں کی توجہ فوراً اس کی جانب مبذول ہو گئی اور ملک کے اطراف و جوانب سے طلب

فتاویٰ کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا۔ اولاً یہ کام اساتذہ کے سپرد رہا، چنانچہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی صدرت تدریس کے ساتھ فتویٰ نویسی کے فرائض بھی انجام دیتے تھے۔ مگر جب طلب فتاویٰ کی تعداد غیر معمولی طور پر بڑھنے لگی تو باضابطہ شعبہ کے قیام کی طرف توجہ ہوئی اور ۱۳۱۰ھ/۱۸۹۲ء میں دارالافتاء کا باضابطہ قیام عمل میں آیا اور حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب عثمانی اس اہم خدمت کے لیے منتخب ہوئے۔ حضرت مددوچ اپنے زمانے کے یگانہ روزگار عالم اور زبردست فقیہ ہونے کے علاوہ زہد و تقویٰ میں بھی امتیازی حیثیت رکھتے تھے۔ اس وقت سے اب تک اس خدمت پر ایسے حضرات مامور ہوتے رہے جن کو فتنہ میں زیادہ سے زیادہ بصیرت حاصل ہوتی تھی۔

دارالافتاء، دارالعلوم کا نہایت اہم شعبہ ہے اور اس کو روز اول ہی سے مرکزیت حاصل رہی ہے۔ اس سے ملک و بیرون ملک کے علماء و عوام، مختلف مسائل میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ دارالافتاء سے جو فتاویٰ طلب کیے جاتے ہیں ان میں روزمرہ کے معمولی مسائل کے علاوہ اہم، پیچیدہ اور غور طلب مسائل، پنچایتوں کے فیصلے، عدالتوں کی اپیلیں اور مختلف الاحکام فتاویٰ کثرت سے ہوتے ہیں۔ دارالافتاء کا فرض ہے کہ وہ سوال کرنے والوں کو پوری تحقیق اور صحت کے ساتھ مسائل شرعیہ بتلائے۔ دارالافتاء کے فتاویٰ کو ہر جگہ وقعت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ عدالتیں یہاں کے فتاویٰ کو اہمیت دیتی ہیں۔ عوام کے علاوہ علماء بھی اکثر مسائل میں اس کی جانب رجوع کرتے ہیں۔ اس اہمیت و نزاکت کے باوجود دارالافتاء کا کام عام اور خاص مسلمانوں میں ہمیشہ اطمینان اور وقعت کی نظر سے دیکھا گیا ہے۔ الحمد للہ یہ شعبہ آج بھی اپنے امتیاز کے ساتھ مصروف عمل ہے۔

دارالافتاء سے گذشتہ تقریباً سو سال کے درمیان صادر ہونے والے فتاویٰ کی تعداد آٹھ لاکھ سے متجاوز ہے۔ اس وقت ہر سال تقریباً دس ہزار استفتاءات کے جوابات لکھے جاتے ہیں۔ فتاویٰ پر کوئی فیس نہیں لی جاتی ہے۔

فتاویٰ دارالعلوم: حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب کے فتاویٰ کو کتابی شکل میں مرتب کر کے فتاویٰ دارالعلوم کے نام سے شائع کیا گیا ہے۔ شروع کی بارہ جلدیں (تا کتاب اللقطہ) حضرت مفتی ظفر الدین مفتاحی کی مرتب کردہ ہیں۔ ۲۰۰۵ء میں ترتیب فتاویٰ کا کام دوسری بار شروع ہوا اور حضرت مفتی عزیز الرحمن کے ماہی فتاویٰ پر کام ہو کر مزید چھ جلدیں مرتب کی گئیں۔ حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب کے علاوہ دیگر حضرات مفتیان کرام کے گران قدر فتاویٰ بھی دارالافتاء کے رجسٹروں میں محفوظ ہیں جنہیں کمپیوٹر پر محفوظ کیے جانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔

شعبہ انٹرنیٹ و آن لائن فتویٰ

عصر حاضر میں انفارمیشن ٹکنالوجی اور ذرائع ابلاغ کی حیرت انگیز ترقی سے جہاں بہت سارے نئے سیاسی، سماجی اور مذہبی مسائل پیدا ہوئے ہیں، وہیں کمپیوٹر و انٹرنیٹ کا ایک مثبت پہلو یہ سامنے آیا ہے کہ ان وسائل کا استعمال کر کے اسلامی پیغام اور مذہبی تعلیمات کو انتہائی آسانی اور تیز رفتاری کے ساتھ دنیا بھر میں پھیلا یا جاسکتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے وقت کی رفتار کا بروقت ادراک کرتے ہوئے ۱۴۱۵ھ/۱۹۹۶ء میں ہی شعبہ کمپیوٹر کا آغاز

کیا اور ملک میں انٹرنیٹ سروس عام ہوتے ہی ۲۰۰۲ء میں انٹرنیٹ سیکشن قائم کیا جو ۱۴۲۶ھ / ۲۰۰۵ء سے ایک مستقل شعبہ کی شکل میں گراں قدر خدمات انجام دے رہا ہے۔ اس وقت دارالعلوم کی ویب سائٹ ایشیا، یورپ، افریقہ، امریکہ و آسٹریلیا کے تقریباً ہر قابل ذکر ملک میں دیکھی اور پڑھی جاتی ہے اور ماہانہ ڈیڑھ ہزار سے زیادہ افرادی میل کے ذریعہ رابطہ کرتے ہیں۔

شعبہ انٹرنیٹ کی خدمات کے تین اہم عنوان ہیں: (۱) آن لائن فتویٰ (۲) آن لائن دعوت (۳) آن لائن رابطہ

آن لائن فتویٰ: www.darulifta-deoband.com

دارالعلوم دیوبند نے انٹرنیٹ پر ای میل کے ذریعہ آنے والے استفتاءات کی کثرت کے پیش نظر دارالافتاء کے لیے ۲۰۰۷ء میں خصوصی طور پر ایک نئی ویب سائٹ شروع کیا۔ دو زبانوں: اردو و انگریزی میں یہ ڈاٹا بیس ویب سائٹ دولسانی فتویٰ سروس پیش کرنے والی دنیا کی سب سے بڑی ویب سائٹ ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے شعبہ دارالافتاء سے استفتاء کے خواہش مند حضرات اس ویب سائٹ پر آکر سوال کر سکتے ہیں۔ اب تک اس ویب سائٹ پر تقریباً چالیس ہزار اردو و انگریزی زبانوں میں منتخب جوابات شائع کیے جا چکے ہیں جو ہمیشہ قارئین کے لیے آن لائن موجود رہتے ہیں۔

آن لائن دعوت: www.darululoom-deoband.com

آن لائن دعوت کے تحت دارالعلوم ویب سائٹ پر اسلامی لائبریری کا آغاز کیا گیا ہے جس میں اسلامی عقائد، اعمال، تاریخ وغیرہ سے متعلق اہم علمی و دعوتی مواد فراہم کیا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں، اردو اور عربی میں مختلف اسلامی موضوعات پر مضامین کا ذخیرہ موجود ہے۔ دوسری طرف دارالعلوم کے اردو و عربی ترجمان رسالے ماہنامہ الداعی اور ماہنامہ دارالعلوم ویب سائٹ پر قارئین کے لیے آن لائن شائع کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ای میل سے رابطہ کرنے والوں کو عام اسلامی و دعوتی معلومات و مواد فراہم کیا جاتا ہے۔ نیز اسلامی موضوعات پر ریسرچ کرنے والوں کی رہنمائی بھی کی جاتی ہے۔

آن لائن رابطہ: info@darululoom-deoband.com

دارالعلوم کے ای میل کے توسط سے پوری دنیا سے دارالعلوم کے محبین دارالعلوم سے مختلف امور کے لیے رابطہ قائم کرتے ہیں اور انھیں شعبہ انٹرنیٹ کے ذریعہ جواب دیا جاتا ہے۔ دارالعلوم میں داخلہ اور دیگر ضروری امور کے متعلق معلومات فراہم کی جاتی ہے۔ ویب سائٹ پر آن لائن چندہ کا وسیع نظام قائم ہے جس کے ذریعہ دارالعلوم کے معاونین کہیں سے بھی دارالعلوم کو براہ راست چندہ کی رقومات بھیج سکتے ہیں۔

علاوہ ازیں، دارالعلوم کے درجات عربیہ اور تکمیلات کے امتحانات سالانہ کے نتائج بھی ویب سائٹ پر شائع ہوتے ہیں۔ دارالعلوم کی خبریں، اہم بیانات کی صوتی ریکارڈنگ بھی ویب سائٹ پر موجود ہوتی ہے۔ ویب سائٹ پر چار زبانوں میں دارالعلوم کا جامع تعارف بھی موجود ہے۔

شعبہ تبلیغ

یہ شعبہ دارالعلوم کی فکری و مسلکی ترجمانی کے فرائض انجام دیتا ہے۔ شعبہ تبلیغ کا قیام ۱۳۴۲ھ/۱۹۲۴ء میں اس وقت عمل میں آیا جب ہندوستان میں شدھی اور سنگٹھن تحریکوں نے ارتداد کا فتنہ پیدا پھیلا دیا تھا۔ یہ آریہ سماج کی منظم تحریک تھی جس کا مقصد اسلام سے ناواقف سادہ لوح مسلمانوں کو ہندو بنانا تھا۔ اس مقصد کے پیش سوامی شردھانند نے مسلمانوں کی شدھی کا کام شروع کیا جب کہ ڈاکٹر مونجے نے انھیں مقاصد سے سنگٹھن قائم کیا جو خالص ہندوؤں کی جماعت تھی۔ اس نازک ترین موقع پر دارالعلوم نے وہی کیا جو اس جیسے دینی اور مذہبی ادارے کے شایان شان تھا۔ بھم اللہ دارالعلوم کی تبلیغی اور دعوتی کوششوں کے نتیجے میں بے شمار متدین تابع ہو کر اسلام میں واپس ہوئے اور لاکھوں سادہ لوح مسلمانوں کی تبدیلیی مذہب کے رجحان پر روک لگ گئی۔

اس کے بعد سے آج تک یہ شعبہ دعوت و تبلیغ کے کام میں سرگرم عمل ہے۔ اس شعبہ کو ہمیشہ باصلاحیت علماء و فضلاء کی خدمات حاصل رہیں جو تقریر و مناظرہ اور افہام و تفہیم کے ذریعہ دین کی تبلیغ کا اہم کام انجام دیتے رہے۔ اس وقت بھی اس شعبہ میں حضرات مبلغین مقرر ہیں جو مختلف علاقوں میں مدارس اور عام مسلمانوں کی دعوت پر سفر کرنے کے علاوہ اقدامی طور پر بھی تبلیغی اسفار کرتے ہیں۔ بلاشبہ ان حضرات کی مساعی جلیلہ مسلمانوں کو دین اسلام پر ثابت قدم رکھنے اور دارالعلوم سے قریب لانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔

شیخ الہند اکیڈمی

شیخ الہند اکیڈمی، دارالعلوم دیوبند کا تحقیقی و تالیفی شعبہ ہے جس کا قیام علمی منصوبوں کے ذیل میں ۱۴۰۳ھ میں عمل میں آیا۔ اکیڈمی کے بنیادی مقاصد حسب ذیل ہیں:

(۱) حضرات اکابر رحمہم اللہ کے علمی سرمایہ کی حفاظت (۲) حضرات اکابر کی شخصیات اور ہمہ گیر خدمات پر عصر حاضر کے زندہ اسلوب میں تالیفات کی اشاعت کے ذریعہ عام مسلمانوں اور اہل عرب کو روشناس کرانا (۳) مسلک دارالعلوم اور دیگر اسلامی موضوعات پر تحقیقی کتابوں کی اشاعت (۴) طلبہ کو تصنیف و تالیف اور ترجمہ و مضمون نگاری کی تربیت دینا۔

اللہ کا شکر ہے کہ اکیڈمی روز اول ہی سے اپنے نگران حضرات اور کارکنان کی مساعی کے نتیجے میں اپنے مقاصد کی تکمیل میں سرگرم ہے۔ حضرات اکابر کے علمی سرمایہ کی حفاظت کے سلسلے میں اکیڈمی کا طریقہ کار یہ ہے کہ ان کی عبارت میں کسی ترمیم کے بغیر موزاملاء کے اہتمام اور ضروری حواشی کے ذریعہ ان کی تسہیل اور طباعتی اغلاط سے پاک طباعت کی کوشش کی جائے۔ نیز، دیگر موضوعات پر اکیڈمی کتابیں تیار کراتی ہے یا تیار شدہ مسودات پیش کیے جائیں اور اکیڈمی کے مقصد سے ہم آہنگ اور اکیڈمی کے معیار کے مطابق ہو تو ان کا خیر مقدم کرتی ہے اور مجلس

شوری کی اجازت کی بعد ان کی اشاعت عمل میں آتی ہے۔ اب تک اکیڈمی سے تقریباً تین درجن معیاری عربی اور اردو کتابیں شائع ہو کر مقبول ہو چکی ہیں جن میں سے کچھ مشہور کتابوں کے نام حسب ذیل ہیں: (۱) شوری کی شرعی حیثیت (۲) اشاعت اسلام (۳) تفہیم القرآن کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ (۴) ادلہ کاملہ (۵) ایضاح الادلہ (۶) خیر القرون کی درس گاہیں (۷) ائمہ اربعہ (۸) حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی: حیات اور کارنامے (۹) حضرت گنگوہی: حیات اور کارنامے (۱۰) حضرت شیخ الہند: حیات اور کارنامے (۱۱) مجموعہ ہفت رسائل حضرت نانوتوی (۱۲) تذکرۃ النعمان (۱۳) آئینہ حقیقت نما (۱۴) تقریر دل پذیر (۱۵) مقالات حبیب (۱۶) علماء دیوبند: اتجاههم الدینی و مزاجهم المذہبی (۱۷) علماء دیوبند و خدماتہم فی علم الحدیث (۱۸) بحوث فی الدعوة (۱۸) لالی منشورہ (۱۹) الاسلام والعقلانیة (۲۰) محاورات فی الدین (۲۱) حجة الاسلام (۲۲) ردود علی اعتراضات موجهة الی الاسلام (۲۳) الفتنة الدجالیة (۲۴) تحریک ریشمی رومال انگریزی وغیرہ۔

اس شعبہ کے ذریعہ فضلاء دارالعلوم کو اساتذہ کی نگرانی میں مضمون نگاری اور صحافت کی تربیت بھی دی جاتی ہے۔ دارالعلوم کے دورہ حدیث یا تکمیلیات سے فارغ طلبہ کو ایک سال کے لیے اردو صحافت اور مضمون نگاری سکھائی جاتی ہے۔

کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت

مرزا غلام احمد قادیانی کے پھیلائے ہوئے فتنہ ارتداد کی سرکوبی اور تعاقب میں اکابرین دارالعلوم اور علمائے دیوبند نے سنہری خدمات انجام دی ہیں۔ ۱۹۴۷ء میں ہندوستان و پاکستان کی تقسیم کے بعد اس فتنہ نے پوری قوت کے ساتھ پاکستان میں سر اٹھایا۔ چنانچہ وہاں کے علماء و مسلم قائدین نے پاکستانی پارلیمنٹ میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے کر ملک سے فرار ہونے پر مجبور کیا۔ اس کے بعد اس فتنہ نے دوبارہ ایک نئی منصوبہ بندی کے ساتھ ہندوستان میں پاؤں پھیلانا شروع کیا۔ چنانچہ دارالعلوم اپنی روایت کے مطابق اس کی بیخ کنی کے لیے میدان میں آیا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے ۲۹ تا ۳۱ اکتوبر ۱۹۸۶ء میں عالمی اجلاس تحفظ ختم نبوت منعقد ہوا۔ اس کے بعد کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت کا قیام عمل میں آیا تاکہ اس فتنہ کا مسلسل اور کامیاب تعاقب کیا جاسکے۔ یہ مجلس اس وقت سے پورے ملک میں نہایت سرگرمی کے ساتھ مصروف عمل ہے۔

ترہیتی کیمپ: مجلس تحفظ ختم نبوت نے ملک کے ایسے مقامات پر جہاں قادیانی فتنہ کسی شکل میں موجود تھا وہاں کے علماء و ائمہ کو اس فتنہ کی دسیسہ کاریوں اور تباہ کاریوں سے آگاہ کرنے کے لیے ترہیتی کیمپوں کا سلسلہ شروع کیا۔ سب سے پہلے حضرت مولانا محمد اسماعیل کنگلی کی سرپرستی میں دارالعلوم دیوبند میں ۱۹۸۸ء میں دس روزہ ترہیتی کیمپ منعقد کیا جس میں بہت سارے علماء نے رد قادیانیت پر تربیت حاصل کی۔ دارالعلوم نے دوسرا

ترہیتی کیمپ ۱۹۹۰ء میں مشہور عالم حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی (پاکستان) کی زیر تربیت منعقد کیا۔ اس کے علاوہ اب تک مختلف صوبوں اور علاقوں میں پانچ روزہ و سہ روزہ تربیتی کیمپ منعقد کیے گئے؛ مثلاً فیروز آباد (یوپی)، گوبائی، میل پالم (تمل ناڈو)، الوائی (کیرالہ)، بھاگل پور (بہار)، بنگلور، کلکتہ، مرشد آباد (بنگلہ)، ندیا (بنگلہ)، ۲۴ پرگنہ (بنگلہ)، اجمیر (راجستھان)، ہاپوڑ (یوپی)، کان پور (یوپی) اور پڑوسی ملک نیپال میں تربیتی کیمپ لگائے جا چکے ہیں جن کی تعداد ۱۰۶ ہے۔

ہر سال تحفظ ختم نبوت کے سلسلے میں خصوصی تعلیم و تربیت کے لیے چار طلبہ کا داخلہ لیا جاتا ہے جنہیں ردّ قادیانیت کے متعلق کتابوں کے مطالعہ کے ساتھ دعوت و تبلیغ کی تربیت دی جاتی ہے۔ شعبہ کی طرف سے دورہ حدیث اور تکمیلات سے فارغ ہونے والے طلبہ اور دیگر مدارس کے فارغین کے لیے ہر سال ماہ شعبان میں پانچ روزہ تربیتی کیمپ بھی لگایا جاتا ہے۔ نیز، مدارس و معابد کے اساتذہ و مبلغین کے لیے دارالعلوم میں ہی وقتاً فوقتاً خصوصی تربیت کا انتظام کیا جاتا ہے۔

اجتماعات اور کانفرنسیں: مجلس تحفظ ختم نبوت کے قیام کے بعد ہی سے مجلس کی طرف سے یا اس کی نگرانی میں یوپی، بہار، مغربی بنگال، پنجاب، آندھرا پردیش، ہریانہ، ہماچل پردیش، مہاراشٹر، کرناٹک، تمل ناڈو، آسام، میگھالیہ، راجستھان، کیرالہ، جموں و کشمیر اور نیپال میں بہت سے چھوٹے بڑے جلسے اور اجتماعات ہوئے جن کی تعداد تقریباً سو دو سو ہے۔ خصوصاً ۱۴ جون ۱۹۹۷ء کو دہلی کے اردو پارک میں تاریخی تحفظ ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اسی طرح، ۲۰ جون ۱۹۹۸ء کو دہلی ہی میں تحفظ ختم نبوت کی دوسری بڑی کانفرنس منعقد ہوئی۔ علاوہ ازیں متاثرہ علاقوں میں خصوصی میٹنگوں اور دوروں کا اہتمام کیا گیا۔

نیز، قادیانی پر چارک کبھی کبھی مناظرے اور مباحثے کا چیئرمین بھی کرتے ہیں۔ مجلس نے اب تک بہت سارے مقامات پر قادیانی پر چارکوں کا تعاقب کیا، کم از کم ۲۴ مقامات پر قادیانی یا تو مباحثے میں لاجواب ہو گئے یا چیئرمین دے کر روپوش ہو گئے۔ دوسری طرف مجلس کی خدمات کا تابناک پہلو یہ بھی ہے کہ اس کی مساعی سے مختلف علاقوں اور گھرانوں کے سیکڑوں قادیانیوں کو توبہ کی توفیق ملی۔

شعبہ تحفظ سنت

برصغیر میں غیر مقلدیت تقریباً دو سو سال پہلے سے موجود تھی اور علماء دیوبند کو ابتدا ہی سے غیر مقلدین سے نبرد آزما ہونا پڑا۔ لیکن ادھر خلیجی عرب ممالک میں تیل کی دریافت کے بعد غیر مقلدین نے نام نہاد سلفیت کا لبادہ اوڑھ کر عرب عوام اور علماء کو علمائے دیوبند اور احناف کے سلسلہ میں ورغلا نا شروع کر دیا، تا آں کہ یہ اس صدی کا ایک بڑا فتنہ بن گیا اور مسلم نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ ان کے دام فریب میں آ کر علمائے سلف اور فقہاء کی شان میں گستاخی کرنے لگا۔ چنانچہ دارالعلوم نے اس فتنہ کا مقابلہ کرنے کے لیے سب سے پہلے طلبہ کے لیے رد غیر مقلدیت کے

عنوان سے محاضرات کا سلسلہ شروع کیا اور ۱۲۲۷ھ/۲۰۰۶ء میں شعبہ تحفظ سنت قائم ہوا۔ اس شعبہ کے ذریعہ رد غیر مقلدیت کے تعاقب کے سلسلے میں منتخب طلبہ کو خصوصی تربیت دی جاتی ہے۔

شعبہ مطالعہ عیسائیت و دیگر مذاہب

دارالعلوم دیوبند ایسے وقت قائم ہوا تھا جب ملک مکمل طور پر عیسائیوں کے قبضہ میں جا چکا تھا اور انگریز اپنے اقتدار و حکومت کے نشہ میں کہیں بزور قوت اور کہیں بزور دولت ہندوستانی مسلمانوں کے دین و مذہب پر حملہ آور ہو رہے تھے۔ انگریزوں کے تربیت یافتہ پادری ملک کے گوشہ گوشہ میں عیسائیت کی تبلیغ کرتے پھرتے اور کھلم کھلا اسلام پر اعتراضات کرتے تھے۔ ایسے پر آشوب حالات میں فتنہ عیسائیت سے ٹکر لینے کے دارالعلوم کے اکابر علماء اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان حضرات نے تحریری و تقریری دونوں میدانوں میں عیسائی مشنریوں کا بھرپور مقابلہ کیا اور ہندوستان کو عیسائی ملک بنانے کے ان کے ناپاک ارادہ پر پانی پھیر دیا۔

کم و بیش ایک صدی کے بعد عیسائیت کا فتنہ دوبارہ سراٹھانے لگا اور ہندوستان کے طول و عرض سے تشویشناک خبریں دارالعلوم پہنچنے لگیں تو دارالعلوم کی مجلس شوری نے اجلاس صفر ۱۴۱۹ھ/۱۹۹۹ء میں فتنہ عیسائیت کے تعاقب کی خاطر رد عیسائیت کمیٹی تشکیل دی جسے بعد میں شعبہ میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس شعبہ میں کچھ فضلاء دارالعلوم کو باضابطہ داخلہ دے کر اس موضوع پر تیار کیا جاتا ہے۔

اس شعبہ کے ذریعہ عیسائیت کے مختلف موضوعات پر تحقیقی کتابچے اور رسائل بھی ترتیب دیے گئے جس میں عیسائیوں کے لچر اعتراضات اور معاندانہ شبہات کے تحقیقی و الزامی جوابات دیے گئے ہیں اور ساتھ ہی عام مسلمانوں کے ایمان و اسلام کی حفاظت کے لیے دلائل بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ ضرورت کے پیش نظر کتابچوں اور رسائل کا انگریزی اور ہندی میں ترجمہ بھی شائع کیا گیا۔

اسی طرح ملک میں مختلف مقامات پر کیمپ لگا کر رجال کار کی تیاری کا کام بھی انجام دیا گیا۔ اس سلسلے میں ۱۴۲۲ھ میں دارالعلوم میں دو روزہ تربیتی کیمپ لگایا گیا جس سے بنگال، بہار، راجستھان، کشمیر، آندھرا پردیش، کرناٹک، تامل ناڈو، آسام، پنجاب اور اتر پردیش وغیرہ کے ڈیڑھ سو سے زیادہ علماء و فضلاء نے استفادہ کیا۔ شعبہ کی طرف سے حسب ضرورت متاثرہ مقامات پر مبلغین و واعظین بھیج کر اصلاح حال کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔

شعبہ محاضرات علمیہ

دارالعلوم دیوبند اپنی مرکزیت کے پیش نظر دین و مذہب کے ہر شعبہ میں باصلاحیت افراد تیار کرنا اپنی ذمہ داری تصور کرتا ہے۔ امت مسلمہ کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے جو نئے نئے باطل نظریات اور فتنے پیدا ہوتے ہیں، اس سلسلہ میں دارالعلوم نے اپنی ذمہ داری محسوس کی کہ فرزندان دارالعلوم کو امت کے ایمان و عقیدہ کی

حفاظت کے لیے خصوصی طور پر تیار کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے ۱۴۱۴ھ/۱۹۹۴ء میں طلبہ کی تربیت کا ایک سلسلہ 'محاضرات علمیہ' کے عنوان سے شروع کیا گیا جس میں اس وقت سات موضوعات پر طلبہ کو تربیت دی جا رہی ہے۔ وہ موضوعات درج ذیل ہیں: (۱) ہندومت (۲) عیسائیت (۳) شیعیت (۴) قادیانیت (۵) غیر مقلدیت (۶) بریلویت (۷) مودودیت۔

ہر موضوع پر سال بھر میں متعدد محاضرے پیش کیے جاتے ہیں۔ ہر موضوع کے لے الگ الگ اساتذہ متعین ہیں جو متعلقہ موضوع پر تیار شدہ مقالہ پیش کرتے ہیں۔ محاضرات میں صرف دورہ حدیث سے فارغ شدہ (افتاء و تکمیلات کے) طلبہ شرکت کرتے ہیں جن کی تعداد سوادوسو کے قریب رہتی ہے۔ ہر جمعرات کو بعد نماز ظہر دو گھنٹہ طلبہ کے سامنے مقالہ پیش کیا جاتا ہے۔ ہر ہفتہ ایک موضوع کا مقالہ پیش ہوتا ہے۔ دوران مقالہ بھی سوالات و جوابات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس طرح طلبہ کو ان موضوعات سے بصیرت کے ساتھ واقفیت ہو جاتی ہے اور عقائد حقہ اور باطل نظریات کے درمیان فرق کرنا اور عام مسلمانوں کی رہنمائی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔

دفتر ماہنامہ دارالعلوم

دارالعلوم نے تحریر و صحافت کی اہمیت اور اس راہ سے اسلامی تعلیمات، علوم اکابر اور مسلک صحیح کی اشاعت کی ضرورت کو ہر دور میں پیش نظر رکھا۔ چنانچہ اولاً علمائے دیوبند کے علوم و معارف اور مضامین عام مسلمانوں تک پہنچانے اور عوام الناس کو دین کے صحیح عقائد و مسائل سے باخبر رکھنے کے لیے ۱۳۲۸ھ/۱۹۱۰ء میں ہی حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانی اور دوسرے اکابر علماء کی نگرانی میں حضرت نانوتویؒ کے نام نامی سے منسوب 'القاسم' کے نام سے ایک ماہانہ رسالہ جاری کیا گیا۔ ماہنامہ القاسم علمی اور تاریخی مضامین کی اشاعت کے علاوہ دارالعلوم کے مقاصد اور اس کی دینی و علمی خدمات سے بھی عام مسلمانوں کو روشناس کرانے کا ایک بڑا ذریعہ تھا۔ اس لیے اس کا اجراء دارالعلوم کے مصارف سے ہونا چاہئے تھا، مگر ابتدا میں دارالعلوم کو مصارف سے بچانے کے لیے حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانی نے اس کو اپنے ذاتی مصارف سے چلایا اور ۱۳۳۱ء میں اس کا تعلق دارالعلوم سے باضابطہ قائم کر دیا گیا اور دارالعلوم نے اس کو اپنی تحویل میں لے کر شائع کرنا شروع کیا۔ یہ رسالہ ۱۳۳۹ھ میں بند ہو گیا۔ اسی طرح ۱۳۳۲ھ/۱۹۱۴ء میں ایک دوسرے رسالہ ماہنامہ الرشید کا اجراء عمل میں آیا جو ۱۳۳۹ھ تک شائع ہو کر بند ہو گیا۔ ماہنامہ القاسم ۱۳۴۲ھ میں دوبارہ شروع کیا گیا، لیکن محرم ۱۳۴۷ھ تک شائع ہو کر پھر بند ہو گیا۔

بلاشبہ ان دونوں رسالوں نے نہایت معیاری انداز میں اپنا فرض ادا کیا۔ القاسم اور الرشید نے مسلمانوں کی گراں قدر علمی خدمات انجام دی ہیں اور اہم معلومات کے ذخائر بہم پہنچائے ہیں۔ ان رسائل کے بند ہونے کے بعد مختلف اسباب و عوامل کے تحت پیہم ایسے حالات پیش آتے رہے کہ ایک عرصہ تک کوئی رسالہ جاری نہ ہو سکا۔

آخر کار مخلصین و متوسلین کی جانب سے مسلسل ایک ماہنامہ کے اجراء کے لیے اصرار پر دارالعلوم نے دوبارہ

جمادی الاولیٰ ۱۳۶۰ھ/۱۹۴۱ء میں 'دارالعلوم' کے نام سے ایک ماہانہ رسالہ جاری کیا۔ یہ رسالہ مختلف نشیب و فراز سے گزرتا ہوا الحمد للہ آج بھی جاری بلکہ رو بہ ترقی ہے۔ عصر حاضر کے معیار کے مطابق یہ رسالہ کمپیوٹر کتابت کے ساتھ آفسیٹ پر پریس پر طبع ہوتا ہے۔

علمی و اصلاحی مضامین اور مختلف دینی و سیاسی موضوعات پر پر مغز اور موقع تحریریں اور ادارے اس رسالہ کی خصوصی امتیازات میں سے ہیں۔ رسالہ دارالعلوم کے دفتری امور کی دیکھ بھال کے لیے مستقل دفتر قائم ہے۔ گذشتہ کئی سالوں سے رسالہ دارالعلوم کی ویب سائٹ پر آن لائن بھی شائع ہو رہا ہے۔

دفتر مجلہ الداعی

عربی زبان اسلام کی مذہبی اور رسمی زبان ہے اور دارالعلوم عربی ادارہ ہے؛ اس لیے قدرتا یہ بات ضروری تھی کہ دارالعلوم عربی میں اپنا کوئی ترجمان رسالہ جاری کرے تاکہ دارالعلوم کے احوال و کوائف اور مسلک حقہ سے عربوں کو انھیں کی فصیح و بلیغ زبان میں روشناس کرایا جاسکے۔ اس مقصد کے تحت سب سے پہلے ۱۳۸۲ھ/۱۹۶۵ء میں ایک سہ ماہی عربی مجلہ 'دعوة الحق' کے نام سے نکالا گیا۔ دعوة الحق برصغیر کے عربی مدارس کے علاوہ عرب ممالک میں بھی دل چسپی سے پڑھا جاتا تھا۔ بعد میں پھر ۱۳۹۷ھ/۱۹۷۶ء میں اس رسالہ کی جگہ مجلہ الداعی کا اجراء عمل میں آیا۔ ابتدا سے یہ رسالہ پندرہ روزہ تھا، ۱۴۱۴ھ میں ماہانہ کر دیا گیا۔

مجلہ الداعی عربی صحافت و ادب اور علم و تحقیق کے میدان میں نمایاں خدمات انجام دے رہا ہے۔ اس کے ادارے، اشراقتے اور دیگر تحریریں عالم عرب میں بھی قدر کی نگاہوں سے دیکھی اور پڑھی جاتی ہیں۔ ماہنامہ الداعی اپنی ظاہری و باطنی خوبیوں کے اعتبار سے ملک و بیرون ملک کے اسلامی مجلات میں ایک نمایاں مقام رکھتا ہے۔ ماہنامہ الداعی کے دفتری امور کی دیکھ بھال کے لیے مستقل دفتر قائم ہے جہاں مجلہ کی طباعت و ترسیل، خریداروں کے ریکارڈ کی دیکھ بھال وغیرہ جیسے امور انجام پاتے ہیں۔ گذشتہ کئی سالوں سے مجلہ دارالعلوم کی ویب سائٹ پر آن لائن بھی شائع ہو رہا ہے۔

رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ

دارالعلوم کے قیام کے بعد علمائے دیوبند کی کاوشوں سے ہندوستان و بیرون ہند میں دارالعلوم کے طرز پر ہزاروں مدارس عربیہ قائم ہوئے۔ یہ مدارس فکری اور مسلکی اعتبار سے دارالعلوم دیوبند سے مربوط رہے ہیں اور دارالعلوم ہی انھیں آب حیات فراہم کرتا رہا ہے۔ لیکن مدارس کا کوئی باضابطہ بورڈ یا وفاق نہیں تھا جس کے فلیٹ فارم سے مدارس کے اجتماعی مفاد اور مسائل و مشکلات کے حل پر غور و خوض کیا جاسکے۔ ادھر ہندوستان میں مختلف داخلی اور خارجی عوامل کی بنیاد پر ایسے حالات پیدا ہوتے گئے کہ مدارس کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا۔

دوسری طرف مدارس کے نصاب و نظام پر بھی انگلیاں اٹھائی جانے لگیں اور نصاب میں جدید علوم کی شمولیت کی تجویزیں آنے لگیں۔

ان نازک حالات میں دارالعلوم نے اپنی ذمہ داری محسوس کی اور ۲۱، ۲۰ محرم ۱۴۱۵ھ / جون ۱۹۹۵ء کو ملک گیر پیمانے پر ارباب مدارس کا نمائندہ اجتماع بلایا۔ مدارس عربیہ کے معیار تعلیم و تربیت کو بلند کرنے اور دینی معاہدے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے دو ہزار بڑے عربی مدارس کے نمائندگان کی تجویز سے دارالعلوم میں کل ہند رابطہ مدارس عربیہ کا مرکزی دفتر قائم کیا گیا۔ رابطہ مدارس عربیہ کے درج ذیل اغراض و مقاصد طے کیے گئے:

- (۱) مدارس اسلامیہ عربیہ کے نظام تعلیم و تربیت کو بہتر بنانا
- (۲) اتحاد و ہم آہنگی کو فروغ دینا اور روابط کو مستحکم کرنا
- (۳) مدارس کے تحفظ و ترقی کے لیے صحیح اور مؤثر ذرائع اختیار کرنا
- (۴) ضرورت کی جگہوں پر مدارس و مکاتب کا قائم کرنا
- (۵) بوقت ضرورت نصاب تعلیم میں کسی جزوی ترمیم و تسہیل پر غور کرنا
- (۶) اسلامی تعلیم اور اس کے مراکز کے خلاف کی جانے والی کوششوں اور سازشوں پر نظر رکھنا
- (۷) مسلم معاشرہ کی اصلاح اور شعائر اسلام کی حفاظت کرنا

رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ سے اب تک ملک کے تقریباً تمام ہی صوبہ جات کے تین ہزار سے زائد مدارس مربوط ہو چکے ہیں۔ ان میں دارالعلوم کے نصاب کے پابند ہر صوبہ کے بڑے اور کلیدی ادارے شامل ہیں۔ رابطہ کی تمام اہم صوبہ جات میں صوبائی شاخیں قائم ہیں۔ ہر صوبہ میں ایک صدر مقرر ہیں۔ رابطہ کے امور کی انجام دہی کے لیے ایک ۵۱ رکنی مجلس عاملہ ہے جو حضرات اراکین شوری دارالعلوم، اساتذہ علیا دارالعلوم اور ملک کے اہم علماء پر مشتمل ہے۔ رابطہ کی ایک مجلس عمومی ہے جو حضرات اراکین شوری، پندرہ اساتذہ دارالعلوم اور ہر مدرسہ کے ایک ایک نمائندہ پر مشتمل ہاڈی ہے۔

رابطہ کی مجلس عمومی کا پہلا اجلاس ۱۶ صفر ۱۴۲۳ھ / مئی ۲۰۰۲ء کو ہوا جس میں رابطہ کے دستور العمل (آئین) کو منظور کیا گیا۔

رابطہ کے مقاصد میں مدارس کے خلاف کی جانے والی سازشوں کا تعاقب بھی شامل ہے۔ گزشتہ برسوں میں فرقہ پرست عناصر کی جانب سے دینی مدارس کو ہدف تنقید بنایا جا رہا تھا اور ان پر بے بنیاد الزامات عائد کیے جا رہے تھے۔ کبھی مدارس کو آئی ایس آئی کا مرکز قرار دیا جاتا اور کبھی دہشت گردی کا اڈہ، کبھی خود حکومت کی طرف سے ایسے اقدامات کیے گئے جن سے مدارس کے نظام کو خطرات لاحق ہو گئے۔ چنانچہ دارالعلوم نے ایسے موقعہ پر کل ہند مدارس کا اجتماع بلا کر صورت حال کا جائزہ لیا اور اس کے تدارک و تعاقب کا لائحہ عمل طے کیا۔ الحمد للہ دارالعلوم کا یہ طریقہ کار کامیاب رہا اور مدارس کے تین فرقہ پرست عناصر کی سازشیں ناکامی کا شکار ہوئیں اور خود حکومت کو بھی

مسلم رائے عامہ کے سامنے گھٹنے ٹیکنا پڑا۔

اب تک رابطہ مدارس عربیہ کی طرف سے ایسے دسیوں بڑے اجتماعات نیز مجلس عاملہ کے متعدد اجلاس منعقد ہو چکے ہیں۔ ان اجلاسوں میں نصاب تعلیم، طریقہ تدریس، نظام تربیت، مدارس کے مابین رابطہ کے استحکام، تحفظ ختم نبوت، مدارس اسلامیہ کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈے کی مذمت، اصلاح معاشرہ اور اسلام کی حفاظت میں مدارس کے کردار، تدریب المعلمین، اصلاح معاشرہ کی اہمیت، مدارس کے بارے میں حکومت کی منفی پالیسی اور مدارس اسلامیہ کے داخلی نظام اور عصری اداروں میں دینی تعلیم، تحفظ سنت اور مسلک حق کے دفاع کے حوالے سے تقریباً پچاس تجاویز منظور ہو چکی ہیں۔ ان تجاویز سے مدارس کے نظام تعلیم و تربیت کو فعال و بہتر بنانے اور مسائل و مشکلات کے حل میں بڑی مدد ملی ہے۔

۱۹۹۸ء میں اتر پردیش حکومت نے مذہبی عمارات و مقامات ریگولیشن بل پاس کر کے عوام بالخصوص مسلمانوں کے بنیادی حقوق سلب کرنے کی ناروا سعی کی تو دارالعلوم نے ۱۲ نومبر ۱۹۹۸ء کو ملک گیر اجلاس بلا کر اس کی سخت مذمت کی اور بھمد اللہ یہ بل سردخانہ میں ڈال دیا گیا۔ اسی طرح جب یوپی کی حکومتی تعلیم گاہوں میں وندے ماترم گیت پڑھنا ایک آرڈیننس کے ذریعہ لازم کیا گیا تو اس موقع پر بھی دارالعلوم نے کل ہند اجتماع بلا کر سخت رد عمل ظاہر کیا اور آخر کار حکومت کو یہ آرڈیننس واپس لینا پڑا۔

ان اجتماعات میں سب سے اہم فروری ۲۰۰۸ء کی دہشت گردی مخالف کانفرنس تھی جس میں ملک کی ہر جماعت اور مدرسہ کے نمائندوں سمیت بیس ہزار سے زائد علماء نے شرکت کی۔ اس کانفرنس سے ملک و بیرون ملک میں نہایت مثبت پیغام پہنچا اور اس کے دور رس اثرات سامنے آئے۔ اسی طرح مرکزی حکومت کی جانب سے پیش کردہ مرکزی مدرسہ بورڈ کی تجویز کے خلاف بھی رابطہ مدارس عربیہ نے اپنے کل ہند اجتماع میں آواز اٹھائی اور متحد ہو کر اس کا بائیکاٹ کرنے کا عزم کیا۔ آخر کار حکومت نے بھی اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے سے گریز کیا۔ اسی طرح مرکزی حکومت کے رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ یعنی حق تعلیم ایکٹ اور ڈائریکٹ ٹیکسز کوڈ کے خلاف بھی مؤثر آواز اٹھائی گئی کیوں کہ ان قوانین کی وجہ سے یا تو مدارس کا وجود خطرے میں پڑتا نظر آ رہا تھا یا ان کی کارکردگی متاثر ہو رہی تھی۔

رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ کے تحت ہر تین سال میں مجلس عمومی کا اور ہر سال مجلس عاملہ کا اجلاس ہوتا ہے اور مدارس کو درپیش داخلی و خارجی مسائل پر اجتماعی غور و خوض کے بعد اس کا حل تلاش کیا جاتا ہے۔

شعبہ ترتیب فتاوی

فتاویٰ کا کام دارالعلوم کے قیام سے ہی شروع ہو چکا تھا، لیکن دارالافتاء کا باضابطہ قیام ۱۳۱۰ھ/۱۸۹۲ء میں ہوا۔ ابتدا میں فتاویٰ کی نقول رکھنے کا معمول نہیں تھا۔ ۱۳۲۹ھ/۱۹۱۲ء سے فتاویٰ کی نقول رکھنے کا قاعدہ مقرر ہوا۔ اس لیے دارالعلوم کے ۴۷ سال کے فتاویٰ کی نقول موجود نہیں ہیں۔

ترتیب فتاویٰ کا پہلا مرحلہ ۱۳۷۴ھ سے شروع ہوا جب حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحبؒ کی تجویز پر اس سلسلہ کا آغاز ہوا۔ مولانا مفتی ظفر الدین مفتاحیؒ نے صرف مفتی اول حضرت مفتی عزیز الرحمنؒ کے فتاویٰ کو مرتب کیا جو فتاویٰ دارالعلوم کے نام سے بارہ جلدوں پر مشتمل ہے۔ فتاویٰ دارالعلوم کی پہلی جلد ۱۳۸۲ھ میں شائع ہوئی۔ ان بارہ جلدوں میں کتاب الطہارۃ سے کتاب اللقطہ تک کے مسائل فقہی ترتیب پر مرتب کیے گئے ہیں۔ کتاب اللقطہ سے ترتیب کا کام موقوف ہو گیا تھا۔

ترتیب فتاویٰ کا دوسرا مرحلہ ۱۳۲۳ھ/۲۰۰۵ء میں رکن شوری حضرت مولانا بدر الدین اجمل کی تحریک پر شروع ہوا۔ مجلس شوریٰ کی منظوری کے بعد کتاب اللقطہ سے ترتیب فتاویٰ کا کام دوبارہ شروع کیا گیا اور حضرت مفتی عزیز الرحمنؒ کے فتاویٰ فقہی ترتیب سے مرتب ہو کر مزید چھ جلدوں (کل اٹھارہ جلدوں) میں مکمل ہوئے۔ ترتیب فتاویٰ کے لیے مستقل دفتر قائم ہے۔

دارالافتاء کے فتاویٰ کے سیکڑوں رجسٹروں کی کمپوزنگ، کوڈنگ اور ترتیب کا کام شعبہ کمپیوٹر کے ذریعہ انجام پاتا ہے۔ حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحبؒ کے فتاویٰ کے علاوہ دیگر مفتیان کرام کے فتاویٰ بھی کمپیوٹر پر ٹائپ ہو کر محفوظ ہو رہے ہیں۔ دارالافتاء کے سو سال سے زیادہ کا ریکارڈ بارہ سو رجسٹروں میں موجود ہے جس کے کاغذ مرور زمانہ کی وجہ سے بوسیدہ ہوتے جا رہے تھے؛ اس لیے جدید ٹکنالوجی کی مدد سے انہیں کمپیوٹر پر محفوظ کیے جانے کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ اب تک حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحبؒ کے علاوہ حضرت مفتی شفیع دیوبندیؒ، حضرت مولانا اعزاز علیؒ وغیرہ مفتیان کرام کے رجسٹر ٹائپ کیے جا چکے ہیں۔

پانچواں باب

دارالعلوم کا نصاب و نظام تعلیم

- ۲۳۹ _____ مدارس اسلامیہ کا نصاب تعلیم
- ۲۴۵ _____ دارالعلوم کا نظام تعلیم
- ۲۴۹ _____ دارالعلوم کی تعلیمی خصوصیات
- ۲۵۵ _____ درجات تعلیم
- ۲۵۸ _____ نصاب تعلیم فاضل کورس (آٹھ سالہ)
- ۲۶۳ _____ نصاب تعلیم تکمیلیات و تخصصات
- ۲۷۵ _____ نصاب تعلیم شعبہ تجوید و حفظ قرآن
- ۲۷۹ _____ نصاب تعلیم دینیات اردو و فارسی (پرائمری)
- ۲۸۳ _____ قواعد داخلہ
- ۲۸۸ _____ طلبہ کی دیگر علمی و ثقافتی سرگرمیاں

مدارس اسلامیہ کا نصاب تعلیم

تعلیم کی اہمیت کا اندازہ اس امر سے کیا جاسکتا ہے کہ اسلام نے سرزمین عرب کی کفر و شرک اور جہالت و وحشت بھری تاریک فضا میں جو روشنی دکھائی وہ علم کی روشنی تھی۔ اسلام نے روز اول ہی سے علم کی اہمیت پر زور دیا اور مسلمانوں کو تعلیم جیسی دولت بے بہا کو حاصل کرنے کی تاکید کی۔ ابتدائے عہد اسلام میں جبرئیل امین علیہ السلام کے واسطے سے نازل ہونے والا الہی فرمان اور دربار نبوت سے صادر ہونے والے الفاظ و اعمال یعنی قرآن و حدیث ہی مسلمانوں کے نظام تعلیم کا نصاب تھا۔ قرآن کی موقعہ بہ موقعہ نازل ہونے والی آیات کو لکھنے، پڑھنے اور یاد کرنے کا خاص التزام کیا جاتا تھا۔ حدیث کے مذاکرہ کا رواج تھا، کچھ صحابہ حدیث کو لکھنے کا بھی اہتمام کرتے تھے۔

نبی اکرم ﷺ کے بعد صدیقی دور خلافت میں قرآن کریم کو جمع کرنے کی طرف توجہ ہوئی اور اسے ایک مصحف میں نہایت اہتمام و احتیاط کے ساتھ جمع کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی مملکت کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا اور اسلام عرب سے نکل کر بلاد عجم تک پہنچ گیا اور نئی تبدیلیاں واقع ہونے لگیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جملہ شعبہائے حیات اور خصوصاً شعبہ تعلیم میں زبردست انقلابی تبدیلیاں کیں اور ترقیات کی بنیاد ڈالی۔

پہلی صدی ہجری میں احادیث مبارکہ کی تدوین کا سلسلہ شروع ہو گیا اور اس کے بعد کی دو صدیاں تدوین و ایجادات کی صدیاں ثابت ہوئیں۔ خلافت راشدہ کے بعد اموی و عباسی ادوار میں اسلام دنیا کے متمدن علاقوں تک پہنچ چکا تھا۔ دین اسلام کے بڑھتے دائرہ اور نئے نئے مسائل و واقعات کے پیش نظر حرفتوں، علوم اور فنون کی تدوین و ایجاد شروع ہوئی۔ قرآن و حدیث کے معانی و مطالب کو سمجھنے کے لیے عجمیوں کو نحو و صرف جیسے علوم کی ضرورت ہوئی اور یہ علوم ایجاد ہوئے، ادباء و علمائے نحو پیدا ہوئے۔ ترقیات کی کثرت اور عالم اسلام کی وسعت کے لحاظ سے نئے مسائل و حالات پیدا ہوتے رہے اور علماء و فقہاء کی ایک بڑی تعداد قرآن و حدیث کی روشنی میں ان مسائل و حالات کے حل نکالنے میں مشغول ہوئی، اس طرح فقہ و اصول فقہ کی تدوین عمل میں آئی اور تفسیر و اصول تفسیر، حدیث و اصول حدیث، فقہ و اصول فقہ، صرف و نحو، اسماء الرجال اور تواریخ و معاجم کے متعلق کتابیں لکھی جانے لگیں۔

اس وقت تک مساجد اور درسی حلقات کے بنیادی نصاب میں یہی قرآن و حدیث اور اس سے متعلق علوم نصاب کا جز رہے۔ پانچویں صدی میں امام غزالی نے یونانی فلسفہ کے زیر اثر پیدا ہونے والے اسلام مخالف افکار و نظریات کے رد میں علم کلام کی بنیاد ڈالی جس سے اسلامی فلسفہ اور منطق کا جنم ہوا۔ یہ علوم اس وقت اور اس کے بعد تقریباً تمام ہی عالم اسلام کے خطوں میں مشترک تھے لیکن جوں جوں زمانہ گزرتا گیا مختلف اسباب و وجوہات کی

بنیاد پر مختلف علاقے مختلف علوم کے ساتھ مشہور ہوتے گئے؛ جیسے عرب کے علاقے میں تفسیر، حدیث، اصول حدیث اور اسماء الرجال جیسے علوم سے زیادہ شغف رہا۔ اسلامی اندلس میں تاریخ، ادب اور شاعری زیادہ مرغوب رہی جب کہ ایران کے لوگ منطق و فلسفہ سے دلچسپی میں ہمیشہ ممتاز رہے۔ اسی طرح خراسان و ماوراء النہر (وسط ایشیا) میں بعد کی صدیوں میں فقہ، اصول فقہ اور تصوف کا خوب رواج رہا۔

ہندوستانی مسلمانوں کا نصاب تعلیم

ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہو چکی تھی لیکن باقاعدہ طور پر اموی خلافت کے زمانہ میں پہلی صدی ہجری کے اندر محمد بن قاسم کے ہاتھوں سندھ و ملتان فتح ہو چکے تھے۔ اسی طرح پانچویں صدی ہجری میں سلطان محمود غزنوی نے سندھ و پنجاب کو زیر نگین کر لیا تھا اور اپنی فتوحات کا دائرہ گجرات تک وسیع کر لیا تھا، لیکن ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت کی ابتدا دراصل چھٹی صدی ہجری کے اخیر (۱۲۰۶ء) میں سلطان شہاب الدین غوری کے نائب قطب الدین ایبک کے دور سے ہوئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب وسط ایشیا کے مسلمان تفسیر و حدیث کے ساتھ صرف و نحو، بلاغت و ادب اور کلام و تصوف کو بھی اہمیت دینے لگے تھے۔ چوں کہ وسط ایشیا اور دیگر اسلامی ملکوں میں تاتاری حملوں کے بعد مضبوط اسلامی حکومت ہندوستان میں ہی قائم ہوئی تھی اور یہ علاقہ تاتاری یورشوں سے تقریباً آزاد بھی تھا؛ اس لیے وسط ایشیا کے علماء و مشائخ اور عام مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہندوستان آگئی تھی؛ چنانچہ فطری طور پر ان کے ساتھ یہ ذوق ہندوستان منتقل ہوا اور یہیں سے ہندوستانی نظام تعلیم کی بنیاد پڑی۔

مولانا حکیم سید عبدالحی لکھنوی نے اپنی کتاب ”الثقافة الاسلامیة فی الہند“ (ص ۱۱ تا ۱۷) میں قدیم ہندوستانی نصاب تعلیم کو چار ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ اسی کی روشنی میں اختصار کے ساتھ عہد وسطیٰ میں ہندوستانی مسلمانوں کے نصاب تعلیم کا ایک خاکہ پیش کیا جا رہا ہے:

پہلا دور

اس کا آغاز ساتویں ہجری سے سمجھنا چاہیے اور انجام دسویں صدی پر اس وقت ہوا جب کہ دوسرا دور شروع ہو گیا تھا، کم و بیش دو سو برس تک ان فنون کی تحصیل معیار فضیلت سمجھی جاتی تھی: صرف، نحو، ادب، بلاغت، فقہ، اصول فقہ، منطق، کلام، تصوف، تفسیر، حدیث۔ اس طبقے کے علماء کے حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں علم فقہ معیار فضیلت تھا، حدیث میں صرف مشارق الانوار کا پڑھ لینا کافی سمجھا جاتا تھا اور حدیث میں مزید درک و مہارت کے لئے مصابیح آخری کتاب تھی۔ اس زمانے کے نصاب تعلیم میں جو خصوصیات نظر آتی ہیں وہ فاتحین ہند کے مؤثر اور نکھرے ہوئے مذاق کا نتیجہ تھیں، ہندوستان میں اسلامی حکومت کی بساط جن لوگوں نے بچھائی وہ

غزنی اور غور سے آئے تھے، یہ وہ مقامات تھے جہاں فقہ اور اصول فقہ کا ماہر ہونا علم و فن کا طرہ امتیاز سمجھا جاتا تھا اور ان ممالک میں فقہی روایات کا پایہ بہت بلند تھا۔

دوسرا دور

نویں صدی ہجری کے آخر میں شیخ عبداللہ اور شیخ عزیز اللہ ملتان سے دہلی سلطان سکندر لودھی کے دربار میں آئے اور انہوں نے سابقہ معیار فضیلت کو کسی قدر بلند کرنے کے لئے قاضی عضد الدین کی تصانیف مطالع و مواقف اور علامہ سکا کی کی مفتاح العلوم نصاب میں داخل کیں۔ اس دور میں میر سید شریف کے تلامذہ نے شرح مطالع اور شرح مواقف اور علامہ تفتازانی کے شاگردوں نے مطول و مختصر المعانی اور تلویح و شرح عقائد نسفی کو رواج دیا۔ نیز اس زمانہ میں شرح وقایہ اور شرح جامی داخل نصاب کی گئیں، اس دور کے آخر میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے علمائے حریم شریفین سے علم حدیث کی تکمیل کر کے علم حدیث کو فروغ دینے کی کوشش کی، ان کے بعد ان کے فرزند شیخ نورالحق نے بھی درس حدیث کی اشاعت کی کوشش کی۔ اس طبقے کے علمائے کرام کے حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں مفتاح العلوم سکا کی اور قاضی عضد الدین کی مطالع اور مواقف منہیا نہ کتابیں تھیں۔

تیسرا دور

دسویں صدی کے اخیر میں میر فتح اللہ شیراز (ایران) سے ہندوستان آئے، اکبر نے ان کو عضد الملک کا خطاب دے کر پذیرائی کی، انہوں نے سابق نصاب درس میں کچھ معقولی کتابوں کے اضافے کئے اور انہیں کے زیر اثر ہندوستانی نصاب میں ان کا رواج ہوا۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے جو اس دور کے سب سے آخری مگر سب سے زیادہ نامور عالم تھے، حریم شریفین تشریف لے گئے اور وہاں چودہ ماہ قیام فرما کر علم حدیث کی تکمیل کی اور ہندوستان آ کر اس سرگرمی سے اس کی اشاعت کی کہ اس کے اثرات آج تک باقی ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ اور ان کے اخلاف نے صحاح ستہ کے درس و تدریس کو اپنی سعی و کوشش سے جز و نصاب بنا دیا۔ شاہ صاحب نے ایک نیا نصاب درس بھی مرتب کیا تھا مگر چونکہ اس زمانے میں علم کا مرکز دہلی سے لکھنؤ منتقل ہو چکا تھا، نیز ہمایوں اور اکبر کے زمانے میں ایران سے جو نیا تعلق قائم ہوا تھا، اس نے بتدریج ہندوستان کے علمی مذاق میں ایک جدید تغیر پیدا کر دیا تھا، مغل دربار کے ایرانی امراء اور علماء کے ذریعے منطق اور فلسفہ کو آہستہ آہستہ دوسرے علوم پر فوقیت حاصل ہوتی گئی؛ اس لیے شاہ صاحب کے نصاب کو قبول عام حاصل نہ ہو سکا۔

چوتھا دور

چوتھا دور بارہویں صدی ہجری سے شروع ہوا، اس کے بانی ملا نظام الدین سہالوی لکھنوی تھے جن کا مرکز فرنگی

محل لکھنؤ تھا۔ درس نظامی کے نام سے جو نصاب آج تمام مدارس عربیہ میں رائج ہے وہ ان ہی کی یادگار ہے۔ ملا نظام الدین نے دو رسوم کے نصاب میں اضافہ کر کے ایک نیا نصاب مرتب کیا اور اس دور میں پڑھائی جانے والی کتابوں کو حتی الامکان جمع کرنے کی کوشش کی۔ درس نظامی میں تیرہ موضوعات کی تقریباً چالیس کتابیں پڑھائی جاتی تھیں۔ فقہ اور اصول فقہ کے ساتھ، تفسیر میں جلالین و بیضاوی اور حدیث میں مشکاۃ المصابیح داخل تھی۔ انھوں نے ریاضی اور فلکیات کی کئی کتابیں اور ہندسہ (جیومیٹری) پر بھی ایک کتاب شامل نصاب کی تھی۔ اس میں طب، تصوف اور ادب کی کوئی کتاب شامل نہیں تھی اور منطق و فلسفہ کو خاصی جگہ دی گئی تھی۔

تیرہویں صدی کے وسط میں ہندوستان میں علم کے تین مرکز قائم تھے؛ دہلی، لکھنؤ اور خیر آباد۔ گو نصاب تعلیم تینوں کا قدرے مشترک تھا، تاہم تینوں کے نقطہ ہائے نظر مختلف تھے۔ دہلی میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کا خاندان کتاب و سنت کی نشر و اشاعت اور تعلیم و تدریس میں ہمہ تن مشغول تھا، یہاں تفسیر و حدیث پر زیادہ توجہ دی جاتی تھی، علوم معقولہ کی حیثیت ثانوی درجے کی تھی۔ لکھنؤ میں علمائے فرنگی محلی پر ماوراء النہر کا ساتویں صدی والا قدیم رنگ چھایا ہوا تھا، فقہ اور اصول فقہ کو ان کے یہاں سب سے زیادہ اہمیت حاصل تھی، تفسیر میں جلالین و بیضاوی اور حدیث میں صرف مشکاۃ المصابیح کافی سمجھی جاتی تھی۔ خیر آبادی مرکز کا علمی موضوع صرف منطق و فلسفہ تھا اور یہ علوم اس قدر اہتمام سے پڑھائے جاتے تھے کہ جملہ علوم کی تعلیم ان کے سامنے ماندر پڑ گئی تھی۔

دارالعلوم دیوبند اور اس سے ملحقہ مدارس کا نصاب

۱۸۵۷ء کے تاریخی حادثہ انقلاب میں تقریباً ملک سے ساری نامور درس گاہیں برباد کر دی گئیں اور خصوصاً ملک کا شمالی حصہ جو اس تحریک کا مرکز تھا اور دینی علوم و فنون کا گہوارہ تھا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ اس واقعہ کے تقریباً دس سال بعد جب دیوبند میں دارالعلوم کی بنیاد پڑی، اس کے نصاب میں ماضی قریب کے تینوں علمی گہواروں: دہلی، لکھنؤ اور خیر آباد، کی خصوصیات کو جمع کیا گیا۔ اس طرح اس میں درس نظامی کو بنیاد بناتے ہوئے صحاح ستہ کو شامل کیا گیا، فرنگی محل کے خاص فن فقہ کو بھی کافی اہمیت دی گئی اور خیر آبادی فن منطق کو بھی جگہ دی گئی۔

دارالعلوم دیوبند کا یہی نصاب تعلیم تقریباً ڈیڑھ صدیوں سے ہندوستان کے اکثر مدارس میں مروج ہے۔ اس نصاب میں حسب ضرورت تغیر و تبدل بھی ہوتا رہا ہے۔ دارالعلوم دیوبند اور دیگر مدارس نے ان علوم کی عظمت کو نہ صرف یہ کہ باقی رکھا بلکہ ترقی دینے میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ اس نصاب کی خصوصیت یہ ہے کہ طالب علم میں امعان نظر اور قوت مطالعہ پیدا کرنے کا لحاظ اس میں زیادہ رکھا گیا ہے۔ اس نصاب کے ذریعہ طالب علم کے اندر جملہ علوم و فنون سے مناسبت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اس لائق ہو جاتا ہے کہ مطالعہ اور محنت سے جس فن میں چاہے کمال پیدا کر لے۔

اس وقت دارالعلوم دیوبند اور اس کے طرز پر چلنے والے مدارس میں فضیلت تک تقریباً تیس موضوعات کی

پچاس سے زیادہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ ان موضوعات میں تفسیر و ترجمہ قرآن، حدیث و اصول حدیث، فقہ و اصول فقہ، نحو و صرف، معانی و بیان و بلاغت، منطق و فلسفہ، تاریخ و تصوف، عقائد و ادب اور تجوید وغیرہ جیسے علوم پڑھائے جاتے ہیں۔ ابتدا کی چند کتابوں کو چھوڑ کر ساری کتابیں عربی زبان میں ہیں۔ دورہ حدیث کے بعد طالب علم کے ذوق و شوق اور اس کی صلاحیت کے مطابق اسے تفسیر و اصول تفسیر، حدیث و اصول حدیث، فقہ و فتاویٰ یا ادب عربی میں سے کسی ایک فن میں تخصص کی سہولت مہیا کی جاتی ہے اور اس سلسلے میں اس کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ کمپیوٹر، انگریزی زبان و ادب وغیرہ کے بھی کورسز ہیں جو ان موضوعات سے دلچسپی رکھنے والے طلبہ کو اس میدان میں آگے بڑھنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔

دارالعلوم دیوبند کے نصاب کو درس نظامی کا نام دیا جاتا ہے، جو کسی حد تک صحیح کہا جاسکتا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کو اس نام سے یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ نصاب بعینہ بارہویں صدی ہجری کا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ دارالعلوم کے اس نصاب کی بنیاد وہی درس نظامی تھا جو قیام دارالعلوم کے وقت عموماً ہندوستانی مدارس و درس گاہوں میں رائج تھا، لیکن دارالعلوم کے قیام کی ابتدا ہی سے درس نظامی جوں کا توں کبھی بھی دارالعلوم کا نصاب نہیں رہا اور بعد میں حالات کے تقاضے کے پیش نظر اس میں تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ اگر کوئی شخص ملا نظام الدین کے درس نظامی کا آج کے دارالعلوم دیوبند کے نصاب سے موازنہ کرے تو اس کو دارالعلوم کے نصاب کو درس نظامی کا نام دینے میں بھی ہچکچاہٹ ہوگی؛ کیوں کہ اس میں علوم عالیہ کے ساتھ علوم آلیہ کی کتابوں میں بنیادی تبدیلیاں کی گئی ہیں، درس نظامی کی متعدد کتابوں کو بالکل نکال کر دوسری کتابوں کا اضافہ کیا گیا ہے، جب کہ بہت سے موضوعات کی کتابوں کو بدل دیا گیا ہے۔

نصاب دارالعلوم میں زمانہ کے تقاضوں کے مطابق تغیر و تبدل اور حذف و اضافہ کا عمل مسلسل جاری ہے۔ علوم دینیہ کے ساتھ عصری علوم اور معاشی ضرورتوں کا بھی لحاظ رکھا جا رہا ہے۔ دارالعلوم میں دارالصنائع، شعبہ کمپیوٹر، شعبہ انگریزی و شعبہ صحافت اسی مسلسل عمل کا ایک حصہ ہیں۔

نصاب کی تبدیلی کے سلسلے میں ایک بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ دارالعلوم دیوبند اور اس جیسے مدارس کا مقصد دینی علوم و ثقافت کی حفاظت اور اسلام کی نشر و اشاعت ہے۔ لہذا، ایسی کوئی تبدیلی جو اس عظیم مقصد میں خلل انداز ہو قطعاً قبول نہیں کی جاسکتی ہے۔ علوم عالیہ یعنی قرآن، حدیث اور فقہ کو صحیح طور پر سمجھنے اور ان میں درک حاصل کرنے کے لیے جن علوم کی ضرورت ہوتی ہے، ان علوم کی تعلیم ہی ان مدارس کا اصل مقصد ہے۔ اس میں دوسرے علوم و فنون کی گنجائش محض اسی حد تک ہے جب تک کہ یہ دوسرے علوم ان مدارس کے اصل مقصد میں حائل یا مخل نہ ہوں۔ اسی لیے نصاب تعلیم میں کسی بھی جزوی ترمیم اور حذف و اضافہ کے وقت یہ امر بہر حال ملحوظ رہتا ہے کہ نصاب تعلیم کا بنیادی ڈھانچہ اور اس نصاب تعلیم کا اصل مقصد متاثر نہ ہو۔

ہندوستانی مسلمانوں کی تاریخ میں مدارس اسلامیہ کے نصاب و نظام کی اہمیت ایک تاریخی اور ناقابل انکار

حقیقت ہے۔ ان ہی مدارس کے بطن سے ہزار ہا ہزار علمائے کرام، مفتیان عظام، مشائخ کبار اور سیاسی و سماجی شخصیات نے جنم لیا ہے۔ انیسویں صدی عیسوی کے نصف اخیر سے لے کر اب تک کی تاریخ میں ہندوستان کے گوشے گوشے بلکہ پوری دنیا میں ان ہی مدارس کے بوریہ نشین علماء نے دین اور علم دین کو پہنچایا ہے۔ مدارس کی تحریک سے ہمہ جہت شخصیات اور ان کی خدمات کا جو سلسلہ جاری ہوا ہے تاریخ اسلام میں اس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔ ان مدارس کے ذریعہ نہ صرف برصغیر میں اسلام کی حفاظت و بقا کا سامان پیدا ہوا بلکہ یہاں کے علماء کو تمام علوم اسلامیہ میں وہ بلند مقام حاصل ہوا کہ عرب و عجم اور ترکستان و بخارا کے علم و ادب کے گہوارے بھی ان کی عظمتوں کو سلام کرنے پر مجبور ہو گئے۔

دارالعلوم کا نظام تعلیم

دارالعلوم میں شوال میں نئے داخلے لیے جاتے ہیں اور داخلہ کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد اوائل ذی قعدہ سے اسباق شروع ہو جاتے ہیں جو آخر رجب تک جاری رہتے ہیں۔ ششماہی امتحان ماہ ربیع الاول کے آخری عشرہ میں ہوتا ہے جب کہ سالانہ امتحان شعبان میں ہوتا ہے جو تقریباً تین ہفتے تک جاری رہتا ہے۔ شعبان کے آخری ہفتے سے عام تعطیل ہو جاتی ہے جو شوال کے پہلے ہفتے تک جاری رہتی ہے۔ شوال کے دوسرے ہفتے سے داخلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جمعہ کے دن ہفتے کی تعطیل ہوتی ہے۔ رمضان و عید الفطر کی بڑی تعطیل کے علاوہ عید الاضحیٰ میں تقریباً دس دن کی تعطیل ہوتی ہے۔

اوقات تعلیم

دارالعلوم میں درس کے اوقات صبح و شام دو حصوں میں تقسیم ہیں، پہلا حصہ چار گھنٹے کا ہے اور دوسرا دو گھنٹے کا۔ موسم گرما میں صبح ۶ بجے سے ۱۰ بجے تک اور بعد ظہر ساڑھے تین سے ساڑھے پانچ بجے تک اور موسم سرما میں صبح کو ۸ بجے سے ۱۲ بجے تک اور بعد ظہر ۲ بجے سے ۴ بجے تک درس کے اوقات ہیں۔ موسم کے تغیر کے ساتھ تدریجاً اوقات بدلتے رہتے ہیں، یعنی چھ سے سوا چھ اور دو سے سوا دو، اسی طرح آٹھ سے پونے آٹھ اور ساڑھے تین سے سوا تین وغیرہ۔ دارالعلوم میں ہر تعلیمی گھنٹہ پورے ۶۰ منٹ کا ہوتا ہے۔

امتحانات

دارالعلوم سے پہلے ہندوستان میں جتنے تعلیمی مراکز تھے ان کی حیثیت بالعموم شخصی درس گاہوں کی تھی اور یہ امر سب میں بطور قدر مشترک تھا کہ نہ ان میں درجہ بندی تھی، نہ حاضری کے رجسٹر ہوتے تھے، نہ طلبہ کو مجبور کیا جاتا تھا کہ فلاں کتاب اور فلاں کتاب اور فلاں کا لینا ضروری ہے، مطلق آزادی تھی۔ جس کا جو جی چاہتا پڑھتا تھا اور جب تک چاہتا تعلیمی سلسلہ جاری رکھتا، تعلیم کی کوئی مدت معین نہ تھی اور امتحان کا بھی کوئی خاص دستور نہ تھا۔ جماعت بندی، مدت تعلیم، حاضری اور امتحان کے التزام اور تناسب مضامین وغیرہ امور کے اجرا کی اولیت دارالعلوم کو حاصل ہے اور یہیں سے مدارس عربیہ میں یہ امور بتدریج رواج پذیر ہوئے ہیں۔

دارالعلوم سے قبل مدارس عربیہ میں امتحانات کا طریقہ عموماً مروج نہ تھا، تاہم کچھ مدارس میں سالانہ امتحان کی

تفصیلات ملتی ہیں۔ مگر قیام دارالعلوم کے قریبی زمانہ میں یہ رواج متروک ہو چکا تھا اور مدارس عربیہ میں ششماہی اور سالانہ امتحان کا طریقہ جو طالب علم کی استعداد اور محنت و جانفشانی کے اندازہ کرنے کا ایک عمدہ ذریعہ ہے، مروج نہیں تھا۔ طالب علم جب استاد سے ایک کتاب پڑھ لیتا تو اس سے مافوق دوسری کتاب بغیر امتحان لئے شروع کرادی جاتی تھی۔ ظاہر ہے کہ اس میں طالب علم کی استعداد جانچنے اور پرکھنے کا کوئی موقع نہ تھا۔

دارالعلوم نے اس نقص کو محسوس کرتے ہوئے اس طریقے کو ختم کر کے ششماہی اور سالانہ امتحان کو لازمی قرار دیا۔ دارالعلوم میں امتحانات کے سلسلے میں جو قواعد مروج ہیں وہ بھی کافی مستحکم ہیں، یہاں پرائیوٹ اور فاصلاتی امتحان کا نظام نہیں ہے۔

قوانین امتحان

امتحان جو طلبہ کی تعلیمی استعداد اور اساتذہ کی محنت و جاہ فشانی کے اندازے کا معیار ہے اور جس پر ترقی درجات کا انحصار ہے، بہت ضروری چیز ہے، لیکن دارالعلوم کو جس طرح حکومت کے اثر سے بالکل علاحدہ رکھا گیا ہے، اسی طرح امتحان میں کسی قسم کی بیرونی مداخلت کو بھی ناپسند کیا گیا، نصاب تعلیم خود دارالعلوم کا اپنا مجوزہ ہے اور امتحانات بھی دارالعلوم خود ہی اپنی نگرانی میں لیتا ہے۔

امتحان دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک امتحان داخلہ، یہ ان طلبہ کا ہوتا ہے جو کسی دوسرے مدرسہ سے آکر دارالعلوم میں داخل ہونا چاہیں، یہ امتحان شوال میں ہوتا ہے، اس امتحان میں بہت ہی احتیاط برتی جاتی ہے اور بسا اوقات ایک عشر طلبہ داخلہ پاتے ہیں اور بقیہ طلبہ ایسے ہوتے ہیں جن کو امتحان داخلہ میں ناکام ہونے کے باعث واپس ہو جانا پڑتا ہے۔ دوسرا امتحان خواندگی ہوتا ہے، یہ سال میں دو مرتبہ لیا جاتا ہے، ششماہی ماہ ربیع الاول میں اور سالانہ شعبان میں ہوتا ہے۔

امتحانات میں انتہائی احتیاط اور سخت نگرانی کی جاتی ہے۔ پہلے اور دوسرے سال کے تمام اور تیسرے سال کی چند کتابوں تک امتحان زبانی سوال و جواب کے ذریعے لیا جاتا ہے، اوپر کی جماعتوں کا امتحان تحریری ہوتا ہے، سوالات کے پرچے نہایت احتیاط اور رازداری کے ساتھ چھپوائے جاتے ہیں۔

مفت تعلیم اور وظائف

مدارس عربیہ میں تعلیم پانے والے طلبہ اکثر و بیشتر غریب اور نادار ہوتے ہیں، ان کے سرپرستوں میں اتنی استطاعت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے نونہالوں کی تعلیم و تربیت میں روپیہ خرچ کر کے ان کو تعلیم و تہذیب سے آراستہ کر سکیں۔ ہر ترقی کرنے والی قوم کی تاریخ اس امر کی شاہد ہے کہ ترقی کا راز اس قوم کے عوام کے تعلیم یافتہ ہونے میں مضمر ہوتا ہے اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک تعلیم کا مفت انتظام نہ ہو۔ چنانچہ صد ہا برس کے تجربے کے

بعد بیسویں صدی کے بڑے بڑے ماہرین تعلیم بالآخر اس نتیجے پر پہنچے کہ عوام کی تعلیم مفت ہونی چاہئے اور جب تک یہ طریقہ اختیار نہ کیا جائے گا تعلیم کا عام ہونا مشکل ہے، جدید تعلیم کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ صرف ان لوگوں کے لیے خاص ہو کر رہ گئی جو اپنے اخراجات کے خود متحمل ہو سکیں، گویا عصری تعلیم کے حصول میں غریبوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ لیکن ہمارے قدیم تعلیمی نظام میں مصارف کو طلبہ کے بجائے درس گاہوں کے ذمے رکھا گیا ہے، اس تعلیمی نظام میں تعلیم پر کوئی فیس نہیں لی جاتی بلکہ طلبہ کے لیے زیر درس کتابوں کا انتظام بھی مفت کیا جاتا ہے، بلکہ نادار اور غریب طلبہ کو درس گاہوں کی جانب سے کھانا کپڑا اور دوسری ضروریات کے لیے نقد وظائف بھی دیئے جاتے ہیں، حتیٰ کہ دارالعلوم میں شروع ہی سے اس امر کا خاص لحاظ رکھا گیا ہے کہ غریب نادار طلبہ کے قیام و طعام، لباس، مصارف علاج اور دوسری لازمی ضروریات کی کفالت کا بار طلبہ کے بجائے دارالعلوم کی جانب سے برداشت کیا جائے، الایہ کہ جو طلبہ خود اپنی کفالت پر قدرت رکھتے ہیں، وہ طعام و لباس اور بعض دوسرے مصارف خود برداشت کرتے ہیں۔

مگر اجراء وظائف میں یہ لحاظ رکھنا ناگزیر ہے کہ طلبہ میں تعلیمی امور سے بے رغبتی کی عادت پیدا نہ ہونے پائے اور وہ ہمہ تن تعلیمی مشاغل میں منہمک رہیں، اس لیے تمام وظائف ایک سال کے لیے جاری کئے جاتے ہیں، سال آئندہ میں ان کی از سر نو تجدید کرانی ہوتی ہے، طالب علم اگر کسی وقت بھی امتحان میں ناکام ہوتا ہے تو وظیفہ بند کر دیا جاتا ہے اور جب تک وہ اجراء امداد کے قانون کے مطابق مطلوب اوسط نمبرات سے امتحان میں کامیابی حاصل نہ کر لے وظیفہ جاری نہیں ہوتا، البتہ دارالاقامہ میں قیام کے لیے جگہ اور کتب خانہ سے سال متعلقہ کی زیر درس کتابیں بلا تخصیص مستحق و غیر مستحق ہر طالب علم کو مستعار طریقے پر مفت دی جاتی ہیں۔

وظیفہ حاصل کرنے کے لیے حسب ذیل شرائط ضروری ہیں:

(الف) طالب علم کم از کم نور الایضاح اور ہدایۃ النحو وغیرہ کتب (جو دوسرے سال میں پڑھائی جاتی ہے)

پڑھ چکا ہو۔

(ب) مذکورہ کتب کے امتحان میں سو نمبروں میں کم از کم ۵۵ نمبر حاصل کئے ہوں، جو کامیابی کا درجہ اوسط ہے۔

(ج) غربت کی وجہ سے امداد کا طلب گار ہو۔

وظیفے کی دو قسمیں ہیں: کھانا اور نقد وظیفہ۔ کھانے کے انتظام کے لیے مطبخ ہے، جس سے ہر طالب علم کو ایک

وقت میں دو تندروری روٹیاں دی جاتی ہیں جو ۲۵۰ گرام (خشک) آٹے کی ہوتی ہیں، دوپہر کو دال اور شام کو کھانے میں گوشت دیا جاتا ہے۔ ہر ہفتہ دوپہر کے کھانے میں فی طالب علم ایک کلو بریانی دی جاتی ہے۔

کھانے کے علاوہ مختلف مقدار میں نقد وظائف بھی دیئے جاتے ہیں، جو تین سو روپے ماہانہ تک ہوتے ہیں یہ

دونوں قسم کے وظائف دارالعلوم کی اصطلاح میں ”امداد“ کہلاتے ہیں۔ جن طلبہ کی ”امداد“ جاری ہو جاتی ہے ان کو سال بھر میں دو جوڑے کپڑے اور دو جوڑے جوتے دیئے جاتے ہیں۔ حجروں میں روشنی اور کپڑوں کی دھلائی کے

لیے ماہانہ وظیفہ مقرر ہے، بیمار طلبہ کے لیے معالج مقرر ہیں، طلبہ کو دوامفت مہیا کی جاتی ہے اور کھانا پر ہیزی ملتا ہے۔ طالب علم کو مالی امداد ملتی ہو یا نہ ملتی ہو دونوں صورتوں میں اس کے لیے رہائش کا نظم مفت کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کسی طالب علم سے تعلیم یا امتحانات کی کوئی فیس نہیں لی جاتی ہے۔ ان امور کے علاوہ احاطہ دارالعلوم کی تمام گزرگاہوں، درس گاہوں اور کمروں میں روشنی کا نظم ہے۔ اقامت گاہوں میں پانی کے نل، ٹوائلٹ اور غسل خانے بنے ہوئے ہیں۔ موسم سرما کے لیے لحاف دیئے جاتے ہیں اور گرم پانی کا نظم کیا جاتا ہے۔ موسم گرما میں ٹھنڈے پانی کی فراہمی کے لیے جگہ جگہ ریفریجریٹر لگے ہوئے ہیں۔

تقسیم انعام

دارالعلوم میں بعض دوسرے امور کی طرح شروع ہی سے تقسیم انعام کا بھی رواج ہے۔ طلبہ میں تعلیمی مشاغل کی نسبت ترغیب اور مسابقت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے سالانہ امتحان میں کامیابی پر طلبہ کو مستحق انعام سمجھا جاتا ہے، جو طالب علم اعلیٰ نمبروں سے پاس ہوتا ہے اسے خصوصی انعام دیا جاتا ہے، انعام میں طالب علم کی استعداد کے مطابق درسی وغیر درسی کتابیں دی جاتی ہیں۔

تصدیق نامہ اور سند

جو طلبہ نصاب دارالعلوم کی تکمیل کر کے سالانہ امتحانوں میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں ان کو فراغت تعلیم کے بعد سند دی جاتی ہے، سند میں ہر پڑھی ہوئی کتاب کے نام کے اندراج کا التزام رکھا جاتا ہے، مگر جس کتاب کے امتحان میں ادنیٰ کامیابی سے کم نمبر ہوں وہ داخل سند نہیں کی جاتی۔ سند میں ان کتابوں کے ناموں کے علاوہ جن کا امتحان دیا جا چکا ہے، طالب علم کی علمی و ذہنی استعداد اور حسن قابلیت کا بھی ذکر ہوتا ہے اور اس بات کی شہادت دی جاتی ہے کہ اس نے دارالعلوم میں تعلیم پائی ہے، علوم و فنون میں مہارت رکھتا ہے، درس و تدریس اور افتاء کا اس کو حق حاصل ہے، اس کے علاوہ اس کے اخلاق، چال چلن کے متعلق بھی اظہار کیا جاتا ہے۔ سند مطبوعہ ہوتی ہے جس پر مہتمم اور اساتذہ کے دستخط اور دارالعلوم کی مہر ثبت ہوتی ہے۔

ماخذ:

● تاریخ دارالعلوم دیوبند، جلد دوم، ص ۲۹۲ تا ۳۰۱ (مع ضروری حذف و اضافہ)

دارالعلوم کی تعلیمی خصوصیات

تعلیم جس قدر سادہ اور مختصر سا لفظ ہے اتنا ہی اہم اور روح کی گہرائی تک کو متاثر کرنے والا عمل ہے، تعلیم محض نقوش حروف، خطوط، آواز، بولیوں اور چھوٹی بڑی کتابوں کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی ذہنی و دماغی اور علمی تربیت کا نام ہے جس کا مقصد انسان کی فطری قوت و صلاحیت کو ابھار کر سنوارنا اور منظم کرنا ہے اور انسانی جذبات و احساسات کو ایک عمدہ اور اعلیٰ نصب العین کے تحت لا کر مہذب اور شائستہ بنانا ہے، تاکہ نوع انسانی کے لیے مفید ثمرات و نتائج حاصل کئے جاسکیں، انسان کو اس کی اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرانا بہت دشوار ہے اور جس قدر دشوار ہے اسی قدر ضروری بھی ہے۔

بالفاظ دیگر یوں سمجھئے کہ اگر تعلیم صرف نہ جانی ہوئی چیزوں کی واقفیت تک محدود ہو تو کوئی غیر معمولی بات نہ ہوتی لیکن اگر اسے عمل کا پابند بنا دیا جائے تو پھر اس کی دشواریاں کئی گنا بڑھ جاتی ہیں، اگرچہ علم کی قدر دنیا کی ہر قوم کرتی ہے، لیکن علم کی نسبت مسلمانوں کا جو نظریہ ہے، وہ دوسری قوموں سے بالکل مختلف ہے، غیر مسلم علم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ اس کے ذریعہ سے دنیا میں قوت و عظمت اور ترقی و برتری حاصل کریں، علم کو عام طور پر حصول معاش کے لیے وسیلہ سمجھا جاتا ہے، مگر مسلمانوں کی یہ خصوصیت ہے کہ انھوں نے علم کو وسیلے کے بجائے مقصد سمجھا ہے، ذریعہ معاش نہیں سمجھا۔ مسلمانوں نے ہمیشہ علم کو علم کے لیے سیکھا ہے، انھوں نے علم کو کبھی اس لیے خاص نہیں کیا کہ اس کے ذریعے معاش حاصل کریں، مسلمانوں کے نزدیک حصول علم ایک فریضہ ہے جو دنیوی مفاد کے علاوہ اخروی نجات کا ذریعہ بھی ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ”طلب العلم فریضة علی کل مسلم“ یعنی ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔

تحصیل علم کی یہ فریضیت عمل ہی کے لیے ضروری قرار دی گئی ہے اور ہر شخص پر تحصیل علم بقدر ضرورت واجب ہے۔ تاریخ کی یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ کوئی قوم اس وقت تک سر بلند نہیں ہو سکتی جب تک اس میں علم و عمل کی قوتیں بیدار نہیں ہوتیں، تعلیم ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس کی بدولت روحانی اور اخلاقی، تمدنی اور تہذیبی ترقی ہو سکتی ہے جو انسانی تخلیق کا مقصد اعلیٰ ہے۔ ایسی ترقی کے پیش نظر یہ ضروری ہے کہ ہر شخص کو اس کا موقع دیا جائے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کی بہتر سے بہتر طریقہ پر نشوونما کر سکے، بالفاظ دیگر معاشرے کا فرض اولین ہے کہ وہ تمام ایسی سہولتیں مہیا کر دے جس سے ہر طالب علم اپنے بہترین جوہر دکھا سکے۔ درحقیقت علم سے قومیں بنتی ہیں اور جہل سے بگڑتی ہیں، بناء بریں ضروری ہے کہ ہر شخص کو تعلیم حاصل کرنے کے یکساں مواقع حاصل ہوں، اسلام نے تعلیم کو سماج کے مخصوص طبقتوں کی اجارہ داری سے نجات دلا کر انسانیت پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔

ہر ترقی حاصل کرنے والی قوم کی تاریخ اس امر کی شاہد ہے کہ اس کی ترقی کا راز اس قوم کے عوام کے تعلیم یافتہ ہونے میں مضمر ہوتا ہے، اور یہ اس وقت تک آسان نہیں جب تک تعلیم کا مفت انتظام نہ ہو۔ موجودہ طریقہ تعلیم میں مصارف کی گراں باری نے اکثریت کو تعلیم کے فوائد سے محروم کر دیا ہے، صد ہا برس کے تجربے کے بعد بیسویں صدی کے ماہرین تعلیم بالآخر اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ عوام کی تعلیم مفت ہونی چاہیے اور جب تک یہ طریقہ اختیار نہ کیا جائے گا، تعلیم کا عام ہونا مشکل ہے۔

قدیم تعلیمی نظام میں ہمیشہ سے اسی اصول پر عمل درآمد رہا ہے، چنانچہ ان مدارس میں تعلیم کا جو نچ اختیار کیا گیا تھا اس میں تعلیمی مصارف کو طلبہ کے بجائے درسگاہوں کے ذمہ رکھا گیا تھا، اس تعلیمی نظام میں تعلیم پر کوئی فیس عائد نہ تھی اور اتنا ہی نہیں بلکہ طلبہ کے لیے زیر درس کتابوں کا انتظام بھی مفت ہوتا تھا، پھر نہ صرف یہ کہ تعلیم مفت تھی اور قیام گاہ (بورڈنگ ہاؤس) کا کرایہ نہیں لیا جاتا تھا، بلکہ نادار اور غریب طلبہ کو درس گاہوں کی جانب سے کھانا، کپڑا اور دوسری ضروریات کے لیے نقد روپے بھی دیئے جاتے تھے، مدارس عربیہ کی یہ وہ خصوصیت ہے جس کی مثال دنیا کے کسی تعلیمی نظام میں نہیں پائی جاتی۔

اس کے علاوہ مدارس عربیہ میں حصول علم پر کبھی کوئی ایسی پابندی نہیں کی گئی جس کے ذریعے قوم کے کچھ افراد پر تعلیم و تعلم کے دروازے بند کر دیئے گئے ہوں، بلکہ ان میں ہر وہ شخص جس کو اکتساب علم کا ذوق ہوتا بغیر کسی رکاوٹ کے علم حاصل کر سکتا تھا، عمر اور پیشے کی قید سے ہمارے مدارس ہمیشہ آزاد رہے ہیں اور ان میں رنگ و نسل، امیر و غریب اور اونچ نیچ کے مابین کوئی امتیاز اور فرق روا نہیں رکھا گیا۔ اسی بناء پر ہر شخص کے لئے خواہ وہ کسی نسل سے تعلق رکھتا ہو اور کتنا ہی کم مقدور کیوں نہ ہو، بلا تکلف اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی راہیں ہمیشہ کھلی رہی ہیں۔ مسلمانوں کی علمی تاریخ میں بے شمار ایسے علماء و فضلاء ملیں گے جو آبائی طور پر مختلف ادنیٰ و اعلیٰ پیشوں سے تعلق رکھتے تھے، مدارس دینیہ میں تعلیم کو زیادہ سے زیادہ قیود و شرائط سے آزاد رکھے جانے کا اصول پیش نظر رکھا گیا ہے۔ ادنیٰ پیشے والوں سے تعلیم کی پابندی اٹھانا دنیا نے مسلمانوں ہی سے سیکھا ہے اور جس چیز کا سہرا آج یورپ کے سر باندھا جا رہا ہے، وہ درحقیقت مدارس عربیہ ہی کی دین ہے۔

مفت تعلیم

ہمارے قدیم نظام تعلیم کی یہی روایات دارالعلوم کا طرہ امتیاز ہیں۔ یہاں بھی طلبہ سے کوئی فیس نہیں لی جاتی، غیر مستطیع اور ضرورت مند طلبہ کو دارالعلوم کی جانب سے کھانا، کپڑا اور نقد وظائف دیئے جاتے ہیں، زیر درس کتابیں اور قیام کے لئے جگہ ہر مستطیع و غیر مستطیع طالب علم کیلئے مفت مہیا کی جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ دارالعلوم کی تعلیم صرف دولت مندوں کے ساتھ مخصوص نہیں رہی ہے بلکہ غریب سے غریب شخص بھی اس کے ذریعے سے اپنے بچوں کو یورپ سے آراستہ کر سکتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند ہندوستان میں وہ پہلی تعلیم گاہ ہے جو مفت

تعلیم (Free Education) کی بنیاد پر قائم ہوئی اور ڈیڑھ صدی سے زیادہ مدت سے یہ مفت نظام تعلیم پوری کامیابی سے جاری و ساری ہے۔

غیر فاصلاتی تعلیم

زمانہ ٹیکنیکل تعلیم میں ترقی کر کے تریا پر پہنچ گیا ہے اور زمین کا سینہ چاک کر کے اس کے خزانے نکال لایا ہے، لیکن تعلیم اپنے اصل مقصد بلند اخلاقی اور جوہر انسانیت کے ساتھ آرائی سے آج تک محروم ہے، دارالعلوم نے اپنا نظام تعلیم اس طرح مرتب کیا ہے کہ اس میں تعلیم کی پختگی کے ساتھ اخلاق کی بلندی اور اعمال و کردار کی پاکیزگی کی طرف یکساں توجہ دی گئی ہے، ظاہر ہے کہ تعلیم کے ساتھ تربیت کا تصور طلبہ اور اساتذہ کے درمیان فاصلاتی طور پر مشکل ہے یہی وجہ ہے کہ دارالعلوم نے فاصلاتی تعلیم کو اپنے نظام میں کوئی جگہ نہیں دی ہے۔ گرچہ ٹیکنیکل ترقی نے پوری دنیا کو ایک ٹیبل پر سمیٹ کر رکھ دیا ہے اور جدید موافقتی نظام نے دوری کے تصور کو ختم کر دیا ہے لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ فاصلاتی تعلیم یا آن لائن ایجوکیشن کے ذریعے دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر بحث و مباحثہ اور ہر طرح کے علم کا حصول تو ممکن ہے لیکن اس صورت میں تعلیمی ماحول کی پاکیزگی، اساتذہ کی نگرانی میں تربیت اور صالح صحبت کے تعین کے ذریعے شخصیت کا ارتقانہ صرف مشکل بلکہ غیر ممکن ہے۔

فاصلاتی تعلیم کی یہی وہ خامی ہے جس کی بنیاد پر دارالعلوم نے اس نظام کو اپنے مقصد سے ہم آہنگ نہ پا کر مسترد کر دیا ہے، البتہ دینی امور میں رہنمائی کے لیے آن لائن کا دروازہ پوری دنیا کے لیے کھول رکھا ہے۔ دارالعلوم دیوبند اپنے اس نظریہ تعلیم میں کہاں تک کامیاب ہے اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے کہ آج دنیا کے چپے چپے میں یہاں کے فضلاء دینی علوم و فنون پر دسترس حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اسلام کی روحانی و اخلاقی قدروں سے آراستہ ہو کر اسلامی دعوت و تبلیغ کی جدوجہد میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور اپنے اعمال کی درستگی اور کردار کی پاکیزگی میں پوری دنیا کے لیے نمونہ بنے ہوئے ہیں۔

تعلیمی آزادی

برطانوی دور حکومت میں دارالعلوم وہ پہلی درس گاہ تھی جس نے ’آزادانہ طریقہ تعلیم‘ کو پیش کیا اور سیاسی غلامی کی فضا میں ملت کی ذہنی آزادی کو برقرار رکھنے کی جدوجہد کی۔ اگرچہ یہ کام بہت مشکل تھا مگر دارالعلوم نے اس پر عمل کر کے اس مشکل کو آسان بنا دیا، دارالعلوم نے حکومت برطانیہ کی پیش کش کے باوجود کبھی اس کی امداد قبول نہیں کی، اس لئے وہ بہت سی ایسی پابندیوں سے آزاد رہا ہے جو سرکاری ’زرامداد‘ کے ساتھ ساتھ آنی لازمی ہیں۔ بعض لوگوں کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ جب حکومت دارالعلوم کو گراں قدر مالی امداد دینے پر آمادہ تھی تو اس کو قبول امداد میں احتراز و انکار مناسب نہ تھا، قوم خواہ کتنی ہی فیاضی دکھائے مگر پھر بھی حکومت کی پیش کردہ امداد کا

مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ان لوگوں کی نظر غالباً اس امر پر نہیں گئی کہ مدارس عربیہ کو حکومت کے اثر سے اس لئے آزاد رکھنا ضروری ہے کہ حکومت خواہ مسلمانوں ہی کی کیوں نہ ہو جب تک وہ خالص اسلامی طرز کی حکومت نہ ہو اس کی سیاست بے لاگ اور بے غل و غش نہیں ہو سکتی اور مدارس عربیہ کے لئے ایسی تعلیم درکار ہے جو ہر قسم کے غیر اسلامی اثر اور خارجی عمل دخل سے بالکل آزاد ہو۔

دارالعلوم دیوبند نے کبھی حکومت وقت سے امداد حاصل نہیں کی، اس کا تمام تر سرمایہ اعتماد علی اللہ ہے، دارالعلوم صرف مسلم عوام کے بھروسے پر دین کی خدمت میں منہمک رہا ہے اور لیل و نہار کی تیز و تند گردشوں کے باوجود اپنی قدیم شان دار روایات کے ساتھ قائم ہے اور ان شاء اللہ ہمیشہ اس کا فیض جاری رہے گا۔

دارالعلوم کو حکومت کی اعانت اور سرکاری مداخلت سے بالکل علیحدہ اور آزاد رکھا گیا ہے، برطانوی حکومت کی جانب سے تعلیم و تربیت کا جو نظام اس زمانے میں جاری رکھا گیا تھا وہ نہ صرف یہ کہ اسلامی نصب العین اور عقیدے سے کوئی مناسبت نہیں رکھتا تھا بلکہ مسلمانوں کے لئے سخت مضر تھا، اگر اس کو قبول کر لیا جاتا تو ہماری موجودہ نسل محض یہی نہیں کہ اسلام سے بے بہرہ ہوتی بلکہ عجب نہیں کہ وہ اسلام سے منحرف اور باغی ہو چکی ہوتی۔ دارالعلوم کے اکابر نے بروقت اس خطرے کا احساس کیا اور سیاسی غلامی کے باوجود ذہنی آزادی کو برقرار رکھنے کے لئے قدیم نظام تعلیم کی از سر نو بنیاد ڈالی تاکہ اس نصاب کی تعلیم سے فارغ ہونے والے طلبہ ایک مرد مومن کی حیثیت سے زندگی کے عملی میدان میں قدم رکھ سکیں۔

طلب علم کا اعلیٰ مقصد

آج بھی عمومی طور پر بد قسمتی سے تعلیم کا مقصد یہ ہو کر رہ گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے کوئی اچھی اور پُر منفعت ملازمت حاصل کر کے معقول روزی کمائی جائے، گویا تعلیم کا مفہوم ہی سرے سے بدل ڈالا گیا ہے، اور ”علم برائے علم“ کے بجائے اب صرف حصول معاش کے دوسرے بہت سے ذرائع کی طرح یہ بھی ایک ذریعہ بن کر رہ گیا ہے، حالانکہ شرف علم کا قدرتی تقاضا ہے کہ اس کا نصب العین بلند ہو۔ بلاشبہ دنیاوی علوم و فنون اس لئے حاصل کئے جاسکتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے دنیاوی ترقی حاصل کی جاسکے، لیکن اگر اس نصب العین کو صرف اپنے ذاتی مفاد تک محدود کر دیا جائے اور اپنی ہی منفعت سامنے رکھی جائے تو یہ خود غرضی ہے، علم جیسی گراں قدر دولت کو صرف اپنی اغراض پر خرچ کرنا علم کی عظمت کو نہ پہچاننا ہے، دنیاوی علوم و فنون حاصل کرنے کا مقصد یہ بھی ہونا چاہئے کہ اس کے ذریعے سے پوری قوم کے سرمائے کو ترقی دی جاسکے اور نہ صرف اپنے عروج و ترقی کا بلکہ وہ ملک و ملت کی ترقی کا ذریعہ بن سکے۔

مدارس عربیہ کے طلبہ کے سامنے حصول علم کا مقصد اور نصب العین اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور اس کی مخلوق کی بہترین خدمت ہے، شاگرد استاد کو استاد ہی سمجھتے ہیں، استادی اور شاگردی کی قدیم حدود و مراتب کا پوری طرح لحاظ

رکھتے ہیں، شاگرد اپنے استاذ کا ویسا ہی ادب کرتے ہیں جیسے اپنے والدین کا۔ اساتذہ کی خدمت کو ہر طالب علم باعث از دیاد علم و برکت تصور کرتا ہے۔

اسلامی تاریخ کا یہ زریں واقعہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ بغداد میں جب مدرسہ نظامیہ قائم ہوا اور اس کے اساتذہ اور طلبہ کے گراں قدر مشاہرے مقرر ہوئے اور حکومت کی جانب سے ہر قسم کا سامان آسائش مہیا کیا گیا تو علمائے بخارانے ’زوال علم‘ کی مجلس ماتم منعقد کی اور اس پر اظہار افسوس کیا کہ اب علم، علم کے لئے نہیں جاہ و ثروت کے لئے حاصل کیا جائے گا، ظاہر ہے کہ جس شخص کے سامنے علم کا یہ اعلیٰ مقصد نہ ہوگا، وہ عصری اداروں کے بجائے دارالعلوم کا رخ ہی کیوں کرے گا، جس کی سند کی قیمت حکومت کی نظر میں تقویم پارینہ سے زائد نہیں ہے۔

دارالعلوم کے نصاب تعلیم سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ وہ سرکاری امتحانات ’مولوی، فاضل‘ وغیرہ کے معیار سے کہیں زیادہ بلند پایہ ہے، اس لئے اگر دارالعلوم چاہتا تو حکومت سے باسانی اپنی سند کو ’مولوی، فاضل‘ کے مساوی تسلیم کرا سکتا تھا، مگر اس نے اپنی سند کو سرکاری محکموں کی ملازمت کے لئے ’پروانہ راہ روی‘ بنانے کے بجائے اس امر کو زیادہ مناسب سمجھا کہ وہ طلبہ میں ایسی علمی قابلیت و فضیلت پیدا کرنے کی سعی کرے کہ لوگ اس طالب علم اور اس کی سند کو دیکھتے ہی یہ باور کر لیں کہ یہ کوئی کام کی چیز ہے اور یہ شخص دین کے جس کام کو اپنے ذمہ لے گا اس کو قابلیت اور خوش اسلوبی سے انجام دے سکے گا۔

اعلیٰ روحانی و اخلاقی قدریں

دارالعلوم کے نصاب تعلیم میں اس بات کا خاص لحاظ رکھا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے طالب علم اسلام کی روحانی اور اخلاقی قدروں کے ساتھ ساتھ اسلامی علوم و فنون میں بھی پورے طور پر دسترس اور مہارت حاصل کر سکے، تاکہ یہاں سے نکلنے کے بعد ملت کی مخلصانہ قیادت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کا اہل ہو جائے اور اسلامی دعوت و تبلیغ کی جدوجہد میں اہم کردار ادا کر سکے۔ دارالعلوم میں طلبہ کو یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ان کی تعلیم کا مقصد ڈگریاں حاصل کرنا یا سرکاری ملازمتوں اور عہدوں کے لئے تیاری کرنا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک خالص دینی تعلیم ہے جس کا مقصد انسانیت کی خدمت ہے۔

ہندوستان کے سیاسی اور جغرافیائی حالات کا تقاضہ ہے کہ مسلمانوں میں ایک ایسی جماعت موجود رہنی چاہئے جو اعلیٰ کلمۃ اللہ اور احیاء سنت کے لئے ہمیشہ سرگرم عمل رہے۔ خدا کا شکر ہے کہ دارالعلوم اپنے اس تعلیمی مقصد میں کامیاب ہے، اس درس گاہ سے ہزاروں کی تعداد میں ایسے علماء، مبلغین، مصنفین و قائدین نکلے ہیں جنہوں نے دارالعلوم کے اس مقصد سے کبھی گریز نہیں کیا ہے۔

حدیث نبوی، کتاب اللہ کی شرح و تفسیر اور اسلامی قانون کا دوسرا اہم ماخذ ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے بیشتر دینی و دنیوی علوم کی خدمات انجام دی ہیں مگر ان میں سب سے زیادہ نمایاں حیثیت حدیث کے درس کو حاصل رہی ہے،

دارالعلوم کا درس حدیث روایت و درایت اور تفقہ کے تمام اصول کا جامع رہا ہے۔ یہاں کوشش کی جاتی ہے کہ حدیث کی شرح اور اس کے متعلقہ مباحث پر ایسی تفصیل طلبہ کے سامنے آجائے جس سے احادیث نبوی کی جمع و تطبیق اور ترجیح و تاویل میں طلبہ کو اپنی آئندہ زندگی میں کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہی وجہ ہے کہ درس حدیث میں دارالعلوم دیوبند تمام دینی مدارس میں احترام و عظمت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔

دارالعلوم دیوبند اپنے تعلیمی نظام کی وسعت، اتباع سنت میں پختگی اور علوم و فنون میں کامل رسوخ کی بنا پر برصغیر میں منفرد تعلیم گاہ کی حیثیت رکھتا ہے، خصوصاً حدیث نبوی کی تعلیم میں ایک منفرد اسلوب کا حامل ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی اس خصوصیت نے اسے دوسری تمام تعلیم گاہوں سے ممتاز بنا دیا ہے، اس کے دارالحدیث میں ہر سال ایک ہزار سے زائد طالبان علوم حدیث نبوی کا اجتماع رہتا ہے جو دنیا کے مختلف حصوں سے محض حدیث کی تعلیم کے لئے یہاں آتے ہیں، ان طالبان حدیث میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہوتی ہے جو دوسرے مدارس سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں اور صرف اس لئے یہاں آتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند ہندوستان، پاکستان، برما، بنگلہ دیش اور افغانستان وغیرہ ملکوں کے دینی مدارس کی سربراہی کرتا ہے اور بہت سے مدارس طریقہ تعلیم اور اندرونی نظم و نسق میں دارالعلوم دیوبند کی تقلید کرتے ہیں۔

ماخذ:

● تاریخ دارالعلوم دیوبند، جلد دوم، ص ۲۸۴ تا ۲۹۱

درجات تعلیم

دارالعلوم میں ابتدائی تعلیم سے اعلیٰ اسلامی تعلیم کا نظم ہے۔ دارالعلوم کا سب سے اہم کورس 'فاضل' ہے جو آٹھ سال پر مشتمل ہوتا ہے۔ فاضل کورس کو عالمیت اور مولویت وغیرہ ناموں سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ فاضل کورس کے پہلے چار سالوں کا نظام 'مدرسہ ثانویہ' کی صورت میں علیحدہ ہے جس میں عربی صرف و نحو، عربی انشاء، منطق، ترجمہ قرآن، تاریخ اور مبادی کی تعلیم دی جاتی ہے جبکہ آخری چار سالوں میں تفسیر، اصول تفسیر، فقہ، اصول فقہ، حدیث، اصول حدیث، معانی و بلاغت وغیرہ کی تعلیم دی جاتی ہے۔ فاضل کورس کا آخری سال 'دورہ حدیث' سے موسوم ہے جس میں صحاح ستہ کے ساتھ موطا امام مالک، موطا امام محمد، طحاوی اور شمائل ترمذی کتب حدیث روایۃ و درالیۃ پڑھائی جاتی ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے فاضل کورس کو متعدد عصری جامعات جیسے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد، ہمدرد یونیورسٹی نئی دہلی، لکھنؤ یونیورسٹی لکھنؤ وغیرہ میں بی اے کے مساوی تسلیم کیا جاتا ہے۔

فاضل کے بعد تکمیلات کے نام سے تھکصات کے شعبے ہیں جن میں تفسیر، حدیث، فقہ، علوم اسلامی، ادب عربی، تقابل ادیان و فرق وغیرہ موضوعات میں تخصص کے درجات ہیں۔ علوم اسلامیہ کے علاوہ انگریزی زبان و ادب، کمپیوٹر اپلیکیشن، صحافت وغیرہ کے کورسز بھی موجود ہیں جن سے طلبہ حسب ضابطہ استفادہ کر سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں، شعبہ تجوید و حفظ قرآن کے تحت ناظرہ قرآن کے ساتھ حفظ قرآن، تجوید بروایت حفص اردو اور بروایت حفص عربی، قرأت سبعہ اور قرأت عشرہ کے درجات قائم ہیں۔

درجہ دینیات کے تحت پرائمری تعلیم کا نظام قائم ہے جس میں طلبہ کو اردو، ہندی، انگریزی کے ساتھ بنیادی ریاضی، سائنس اور سماجیات وغیرہ کی تعلیم دی جاتی ہے۔ دینیات درجہ پنجم میں فارسی زبان کی تعلیم دی جاتی ہے کیوں کہ اردو زبان کی مہارت اور درستی کے لیے فارسی جاننا ضروری ہوتا ہے۔

فاضل کورس (مدت: آٹھ سال)

درجات ثانویہ

(۱) سال اول عربی

(۲) سال دوم عربی

(۳) سال سوم عربی

(۴) سال چہارم عربی

درجات متوسطہ

(۵) سال پنجم عربی

(۶) سال ششم عربی

درجات عالیہ

(۷) سال ہفتم عربی (موقوف علیہ)

(۸) سال ہشتم (دورہ حدیث)

تکمیلات و تخصصات

(۱) تدریب فی التدریس (دو سال)

(۱) تکمیل تفسیر (ایک سال)

(۲) تخصص فی الحدیث (دو سال)

(۳) تکمیل افتاء (ایک سال)

(۴) تدریب فی الافتاء (دو سال)

(۵) تکمیل علوم (ایک سال)

(۶) تکمیل ادب عربی (ایک سال)

(۷) تخصص فی الادب العربی (ایک سال)

(۸) ڈپلومہ ان انگلش لنگویج اینڈ لٹریچر (دو سال) شعبہ انگریزی زبان و ادب

(۹) ڈپلومہ ان کمپیوٹر اپلیکیشن (ایک سال) شعبہ کمپیوٹر

(۱۰) ڈپلومہ برائے انشاء و صحافت، (ایک سال) شیخ الہند اکیڈمی

(۱۱) تحفظ ختم نبوت (ایک سال) شعبہ تحفظ ختم نبوت

(۱۲) مطالعہ عیسائیت و دیگر مذاہب (ایک سال) شعبہ مطالعہ عیسائیت

(۱۳) تحفظ سنت (مطالعہ غیر مقلدیت)، (ایک سال) شعبہ تحفظ سنت

(۱۴) محاضرات علمیہ (مطالعہ ادیان و فرق)، (ایک سال) دفتر محاضرات علمیہ

(۱۵) خوش خطی (ایک سال) شعبہ خوش خطی

(۱۶) خیاطی (ایک سال) شعبہ دارالصنائع

تجوید و حفظ قرآن

- (۱) قرأت عشرہ (ایک سال)
- (۲) قرأت سبعہ (ایک سال)
- (۳) تجوید بروایت حفص، عربی (ایک سال)
- (۴) تجوید بروایت حفص، اردو (دو سال)
- (۵) حفظ قرآن (دو تا پانچ سال)
- (۶) ناظرہ قرآن

دینیات اردو و فارسی

- (۰) درجہ اطفال
- (۱) درجہ اول
- (۲) درجہ دوم
- (۳) درجہ سوم
- (۴) درجہ چہارم (فارسی)
- (۵) درجہ پنجم (فارسی)

نصاب تعلیم فاضل کورس

درجات

- (۱) سال اول عربی
- (۲) سال دوم عربی
- (۳) سال سوم عربی
- (۴) سال چہارم عربی
- (۵) سال پنجم عربی
- (۶) سال ششم عربی
- (۷) سال ہفتم عربی (موقوف علیہ)
- (۸) سال ہشتم (دورہ حدیث)

سال اول عربی

نصاب	ہفتہ واری گھنٹے	فن
اصول التیوید (قاری جمشید علی قاسمی) پارہ عم حفظ صحیح مخارج کے ساتھ، مشق ربع اول	۶	تجوید القرآن
سیرت خاتم الانبیاء (حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب)	۶	سیرت
میزان (مولانا سراج الدین عثمان اودھی) منشعب (مولانا حمزہ بدایونی) پنج گنج (مولانا صفی رودولوی)	۶	صرف
نحو میر (سید شریف جرجانی) شرح مائتہ عامل (سید شریف جرجانی) ترکیب کے لیے	۶	نحو
القراءۃ الواضحة اول (مولانا وحید الزماں کیرانوی) مفتاح العربیہ ۱/۲ (مولانا نور عالم خلیل امینی)	۶	تمرین عربی
خط واملات منتخب عبارات	۶	خط واملات

سال دوم عربی

نصاب	ہفتہ واری گھنٹے	فن
جمال القرآن (حضرت مولانا اشرف علی تھانوی) مع مشق بقیہ پارہ عم	۶	تجوید القرآن
علم الصیغہ (مفتی عنایت علی کاکوروی) فصول اکبری (قاضی علی اکبر الہ آبادی)	۶	صرف
ہدایۃ النحو (سراج الدین عثمان اودھی)	۶	نحو
القراءة الواضحة دوم (مولانا وحید الزماں کیرانوی) نقحہ الأدب (مولانا وحید الزماں کیرانوی)	۶	تمرین عربی
نور الایضاح (شیخ حسن بن علی الشربلی) مختصر القدوری (شیخ ابوالحسن محمد بن جعفر القدوری) تا ختم کتاب الحج	۶	فقہ
آسان منطق (مولانا عبداللہ گنگوہی) المرقاۃ (علامہ فضل امام خیر آبادی)	۶	منطق

سال سوم عربی

نصاب	ہفتہ واری گھنٹے	فن
ترجمہ قرآن (سورہ ق سے آخر تک، پہلے پارہ عم)	۶	ترجمہ قرآن
نقحہ العرب (مولانا اعزاز علی امرہوی) تا ختم عنوان تبذرة من ذکاوة العرب اس کے بعد مشکوٰۃ الآثار (مولانا محمد میاں) مکمل	۶	عربی ادب و حدیث
مختصر القدوری (شیخ ابوالحسن محمد بن جعفر القدوری) کتاب البیوع تا ختم کتاب	۶	فقہ
کافیہ (ابن حاجب)	۶	نحو

تمرین عربی	۶	القراءة الواضحة سوم (مولانا وحید الزماں کیرانوی) مکمل بعدہ تعلیم للمعلم
منطق	۶	شرح العزید (شیخ عبداللہ الیزدی)
مطالعہ تاریخ	تاریخ ملت : خلافت راشدہ (قاضی زین العابدین میرٹھی، مفتی انتظام اللہ شہابی اکبر آبادی)

سال چہارم عربی

فن	ہفتہ واری گھنٹے	نصاب
ترجمہ قرآن	۶	سورہ یوسف سے سورہ ق تک
حدیث	۶	الفیہ الحدیث (مولانا محمد منظور نعمانی)
فقہ	۶	شرح وقایہ (صدر الشریعہ عبید اللہ بن مسعود) جلد اول، جلد دوم تا کتاب التناقی
اصول فقہ	۶	تسہیل الاصول (مولانا ریاست علی بجنوری، مولانا نعمت اللہ اعظمی) اصول الشاشی (نظام الدین ابوعلی احمد بن محمد الشاشی)
بلاغت	۶	دروس البلاغۃ (حفتی ناصف وغیرہ)
منطق	۶	قطبی (قطب الدین رازی)
تاریخ اسلام	۳	تاریخ ملت : خلافت امویہ و عباسیہ و عثمانیہ (قاضی زین العابدین میرٹھی، مفتی انتظام اللہ شہابی اکبر آبادی)
علوم عصریہ	۳	تاریخ جغرافیہ، علم مدنیہ

سال پنجم عربی

فن	ہفتہ واری گھنٹے	نصاب
ترجمہ قرآن	۶	از سورہ فاتحہ تا ختم سورہ ہود
عقیدہ	۳	العقیدۃ الطحاویہ (امام طحاوی) سلم العلوم کے بعد
فقہ	۶	ہدایہ (شیخ ابوالحسن مرغینانی) جلد اول

نور الانوار (ملاجیون)	۶	اصول فقہ
المقامات (الحریری)	۶	ادب عربی
مختصر المعانی (شیخ سعد الدین تفتازانی)	۶	بلاغت
سلم العلوم (ملاحب اللہ بہاری)	۳	منطق
سلاطین ہند (قاضی زین العابدین سجاد میرٹھی، مفتی انتظام اللہ شہابی)	مطالعہ	تاریخ اسلام

سال ششم عربی

نصاب	ہفتہ واری گھنٹے	فن
جلالین (شیخ جلال الدین محلی و شیخ جلال الدین سیوطی)	۶	تفسیر قرآن
الفوز الکبیر (شاہ ولی اللہ محدث دہلوی)	۳	اصول تفسیر
ہدایہ (شیخ ابوالحسن مرغینانی) جلد دوم	۶	فقہ
حسامی (شیخ حسام الدین خشکی) الفوز الکبیر کے بعد	۳	اصول فقہ
قصائد غنجدیوان متنئی دیوان الحماسہ (ابو تمام) باب الادب	۶	ادب عربی
مبادی الفلسفہ (مفتی سعید احمد پالن پوری) المہیدی (قاضی امام حسین المہیدی)	۶	فلسفہ
اصح السیر (مولانا عبدالرؤف دانا پوری)	مطالعہ	سیرت

سال ہفتم عربی (موقوف علیہ)

نصاب	ہفتہ واری گھنٹے	فن
مشکوٰۃ المصابیح (شیخ محمد بن عبداللہ الخطیب الترمیزی)	۱۸	حدیث شریف
نخبۃ الفکر (علامہ ابن حجر العسقلانی) مقدمہ (شیخ عبدالحق محدث دہلوی)	۳	اصول حدیث

شرح العقائد النسفیة (علامہ سعد الدین تفتازانی)	۶	عقیدہ
ہدایہ (شیخ ابوالحسن مرغینانی) جلد سوم و چہارم	۱۲	فقہ
سراجی (علامہ سجاوندی) شرح عقائد کے بعد	۳	علم الفرائض

سال ہشتم (دورہ حدیث)

کتاب	ہفتہ واری گھنٹے	فن
صحیح بخاری، اول، مکمل (کتاب بدء الوحي تا کتاب مناقب الانصار) صحیح بخاری، ثانی، مکمل (کتاب المغازی تا ختم کتاب)	۱۸	حدیث
صحیح مسلم، اول (از ابتدا تا ختم کتاب الایمان) صحیح مسلم، دوم (کتاب الميوع تا ختم کتاب الملقطه)	۱۲	حدیث
سنن ترمذی، اول، مکمل (از ابواب الطہارۃ تا ابواب اللباس) سنن ترمذی، دوم، مکمل (از ابواب الاطعمۃ تا ختم کتاب)	۱۸	حدیث
سنن ابی داؤد، اول (کتاب الطہارۃ مکمل، کتاب الزکاة مکمل) سنن ابی داؤد، دوم (باب فی الاسیر بکیرہ علی الکفر تا ختم کتاب الجہاد)	۶	حدیث
سنن النسائی (کتاب الصیام مکمل، کتاب المناسک مکمل)	۳	حدیث
سنن ابن ماجہ (سنن نسائی کے بعد) (از ابتدا تا ابواب الطہارۃ، ابواب الادب مکمل)	۱	حدیث
شمائل ترمذی، مکمل (سنن ابن ماجہ کے بعد)	۲	حدیث
شرح معانی الآثار للطحاوی (از کتاب الصلاۃ تا باب الوتر)	۲	حدیث
موطا امام مالک بروایۃ یحییٰ اللیثی (جمعہ کے دن) (از کتاب الاشریۃ تا ما جاء فی الحجامة و اجرة الحجام)	۱	حدیث
موطا بروایۃ امام محمد بن الحسن الشیبانی (کتاب النکاح، کتاب الطلاق، کتاب الضحایا مکمل)	۱	حدیث
تجوید و مشق	خارج	تجوید

نوٹ: دورہ حدیث میں مغرب اور عشاء کے بعد بھی اسباق ہوتے ہیں۔

نصاب تعلیم تکمیلیات و تخصصات

درجات تکمیلیات و تخصصات

- (۱) تدریب فی التدریس (دو سال)
- (۲) تکمیل تفسیر (ایک سال)
- (۳) تخصص فی الحدیث (دو سال)
- (۴) تکمیل افتاء (ایک سال)
- (۵) تدریب فی الافتاء (دو سال)
- (۶) تکمیل علوم (ایک سال)
- (۷) تکمیل ادب عربی (ایک سال)
- (۸) تخصص فی الادب العربی (ایک سال)
- (۹) ڈپلومہ ان انگلش لنگویج اینڈ لٹریچر (دو سال) شعبہ انگریزی زبان و ادب
- (۱۰) ڈپلومہ ان کمپیوٹر اپلیکیشن (ایک سال) شعبہ کمپیوٹر
- (۱۱) ڈپلومہ برائے انشاء و صحافت (ایک سال) شیخ الہند اکیڈمی
- (۱۲) تحفظ ختم نبوت (ایک سال) شعبہ تحفظ ختم نبوت
- (۱۳) مطالعہ عیسائیت و دیگر مذاہب (ایک سال) شعبہ مطالعہ عیسائیت و دیگر مذاہب
- (۱۴) تحفظ سنت (مطالعہ غیر مقلدیت)، (ایک سال) شعبہ تحفظ سنت
- (۱۵) محاضرات علمیہ (مطالعہ ادیان و فرق)، (ایک سال) دفتر محاضرات علمیہ
- (۱۶) خوش خطی (ایک سال) شعبہ خوش خطی
- (۱۷) خیاطی (ایک سال) شعبہ دارالصنائع

تدریب فی التدریس (دو سال)

اس دو سالہ کورس میں باصلاحیت فضلاء کا انتخاب کیا جاتا ہے اور ان کو تدریس کی ٹریننگ کے ساتھ ابتدائی عربی جماعتوں کے طلبہ کو پڑھانے کا موقع بھی دیا جاتا ہے۔

تکمیل تفسیر

فن	ہفتہ واری گھنٹے	نصاب
تفسیر	۶	تفسیر ابن کثیر سورہ طہ سے سورہ نجم کے ختم تک
تفسیر	۶	تفسیر ابن کثیر سورہ اقتربت الساعة سے آخر قرآن تک
تفسیر	۶	بیضاوی آل عمران سے سورہ اعراف تک
تفسیر	۶	بیضاوی شریف سورہ بقرہ
اصول تفسیر	۶	مناہل العرفان (الزرقانی) مباحث منتخبہ
اصول حدیث	۶	مقدمہ ابن صلاح و سبیل الرشاد

تخصص فی الحدیث (سال اول)

فن	ہفتہ واری گھنٹے	نصاب برائے سال اول
اصول حدیث	۶	مقدمہ ابن صلاح
تخریج	۶	اصول التخریج (الدکتور محمود الطحان) الباب الاول تخریج احادیث جمع الفوائد (شیخ محمد بن محمد المالکی)
جرح و تعدیل	۶	الرفع و التکمیل فی الجرح و التعدیل (علامہ عبدالحی لکھنوی) مدارس الرواۃ (۳۷۵)، روایات کے تفصیلی حالات کتب جرح و تعدیل کی روشنی میں
اسماء الرجال	۶	تعارف کتب اسماء الرجال: (۱) التاریخ الکبیر للبخاری (۲) الجرح و التعدیل لابن ابی حاتم (۳) کتاب الثقات لابن حبان البستی (۴) کتاب الجرح و عین لابن حبان (۵) تہذیب الکمال للزمزلی (۶) تہذیب التہذیب للمحافظ ابن حجر العسقلانی (۷) تقریب التہذیب للمحافظ ابن حجر العسقلانی (۸) الکامل فی الضعفاء لابن عدی (۹) میزان الاعتدال للذہبی

حفظ حدیث	۶	احکام سے متعلق ۱۳۵ احادیث مع الکلام علی الرواۃ لہم تکلم فیہم
----------	---	--

تخصّص فی الحدیث (سال دوم)

فن	ہفتہ واری گھنٹے	نصاب برائے سال دوم
دراسۃ الاسانید	۶	(۱) اصول التخریج الباب الثانی للطحان (۲) دراسۃ الحدیث الصحیح والحسن (۳) دراسۃ تطبیق الامثلۃ لانواع الاحادیث المختلفۃ (مولانا نعمت اللہ اعظمی، مولانا عبداللہ معروفی) (۴) منہج دراسۃ الاسانید والحکم علیہا (دکتور ولید بن حسن العانی)
دراسۃ المتون	۶	(۱) الفوائد البہیۃ فی دراسۃ المتون (مولانا نعمت اللہ اعظمی) (۲) الابواب الممتحنۃ من اعلاء السنن مع دراسۃ شاملۃ
تطبیق الاسانید	۶	تطبیق الاسانید
حفظ حدیث	۶	حفظ حدیث: احکام سے متعلق ۱۶۵ احادیث مع کلام علی الرواۃ لہم تکلم فیہم
مقالہ	علم حدیث کے کسی موضوع پر ۱۰۰ صفحات کا مقالہ

تکمیل افتاء (ایک سال)

فن	ہفتہ واری گھنٹے	نصاب
فرائض	۶	سراجی (تمرین کے ساتھ)
افتاء	۶	شرح عقود رسم المفتی لابن عابدین
قواعد		الاشباہ والنظائر لابن نجیم (الفن الاول والثانی) قواعد الفقہ (مولانا محمد عمیم الاحسان)
فقہ	۶	الدر المختار (ابواب طلاق، نکاح، وقف، قضاء دین)
فتویٰ نویسی	۶	تمرین (فتویٰ نویسی اور اس کے طریقوں کی عملی مشق)

تدریب فی الافتاء (سال اول)

نصاب	ہفتہ واری گھنٹے	فن
(۱) ملقی الابحرتا کتاب الوقف (۲) الحلیۃ الناجزۃ (حضرت مولانا اشرف علی تھانوی)	۵	مطالعہ
(۱) بدائع الصنائع لکاسانی (کتاب الطہارۃ، کتاب الصوم، کتاب الحج، کتاب الزکاة) شش ماہی امتحان تک (۲) البحر الرائق لابن نجیم (کتاب الصلاة، کتاب الايمان، کتاب الذبائح، کتاب الاضحیۃ) شش ماہی کے بعد	۳	خلاصہ ابحاث
(۱) اصول الافتاء وآدابہ (مفتی تقی عثمانی) (۲) مقدمہ الدر المختار (علامہ حسکفی)	۲	اصول فتاویٰ نویسی
(۱) 'ابو حنیفہ' (شیخ ابو زہرہ) (۲) فقہ اہل العراق وحدتہم (علامہ زاہد الکوشری) (۳) الفوائد البہیۃ (علامہ عبدالرحمن لکھنوی)	۲	تعارف کتب
۱۵۰ ار فتاویٰ مع تخریج و عنوان	۲۴	تمرین فتاویٰ
(۱) الجواهر المصنیۃ (۲) الاشباہ والنظائر لابن نجیم (الفن الثالث) (۳) امداد الفتاویٰ جلد سوم (حضرت مولانا اشرف علی تھانوی) (۴) تاریخ التشریح الاسلامی (مناع القطان)		مطالعہ

تدریب فی الافتاء (سال دوم)

نصاب	ہفتہ واری گھنٹے	فن
(۱) ملقی الابحرتا (از کتاب البیوع تا ختم) (۲) امداد الفتاویٰ، جلد ششم (حضرت مولانا اشرف علی تھانوی)	۶	مطالعہ

خلاصہٴ اجاث	۳	(۱) رد المحتار (کتاب النکاح، کتاب الطلاق، کتاب الوقف، کتاب الاجارۃ) شش ماہی امتحان تک (۲) فتح القدير (کتاب البيوع، کتاب المضاربه، کتاب الشركه، کتاب الوصية، کتاب الهبة) شش ماہی کے بعد
اصول التشریح والفقہ	۳	(۱) اصول السرخصی (۲) الموافقات، جزء المقاصد (علامہ شاطبی)
تعارف کتب	۲	(۱) 'ابوحنیفہ: حیات و عصرہ، آراؤہ و فقہہ' (شیخ ابوزہرہ) (۲) فقہ اہل العراق وحدہ شہم (علامہ زاہد الکوشری) (۳) الفوائد البہیۃ (علامہ عبدالرحمن لکھنوی)
تمرین فتاویٰ	۱۲	۱۵۰ فتاویٰ مع تخریج و عنوان
فتویٰ نویسی	۲۴	کم از کم ۵۰ صفحات پر مشتمل تفصیلی و تحقیقی فتویٰ
مطالعہ		(۱) جواہر الفقہ (مفتی محمد شفیع دیوبندی) (۲) قضا یا فقہیہ معاصرۃ (مفتی محمد تقی عثمانی) (۳) بدلیۃ المجدد (علامہ ابن رشد) (۴) مجلۃ الاحکام العدلیۃ

تکمیل علوم (ایک سال)

نصاب	ہفتہ واری گھنٹے	فن
تفسیر بیضاوی	۶	تفسیر
مقدمۃ ابن الصلاح	۶	اصول حدیث
الاشباہ والنظائر (علامہ ابن حکیم)		فقہ
مسلم الثبوت (ملاحظہ اللہ بہاری)	۶	اصول فقہ
حجتہ اللہ البالغہ (شاہ ولی اللہ محدث دہلوی)	۶	حکمت شرعیہ
مسامرہ (شیخ کمال الدین محمد بن محمد بن ابی شریف)	۶	علم کلام
سبیل الرشاد (شیخ عبید اللہ سندھی)	۶	تراجم

تکمیل ادب عربی (ایک سال)

نصاب	ہفتہ واری گھنٹے	فن
تاریخ الادب العربی (احمد حسن زیات)	۶	تاریخ الادب
المختارات العربیہ (م ع سلیم خان)	۶	نثر عربی
دیوان الحماسة لابن تمام (باب الحماسة والادب) المعلقات السبع (جمع حماد الراویة) ۳ منتخب معلقات	۶	نظم عربی
اسالیب الانشاء (محمود عمر وغیرہ)	۶	انشاء
اردو سے عربی اور عربی سے اردو	۶	ترجمہ
البلاغة الواضحة (علی الجارم و مصطفیٰ امین)	۶	بلاغت
(۱) حیاتی (احمد امین) (۲) الايام (طلحہ حسین) (۳) عبرات (منفلوطی) (۴) عبقریات (محمود عقاد)		مطالعہ

تخصص فی الادب العربی (ایک سال)

نصاب	ہفتہ واری گھنٹے	فن
(۱) رجال من التاريخ (علی الططاوی) (۲) حیاتی (احمد امین)	۴	نثر جدید
(۱) کتاب الخلاء للجاحظ (رسالة سهل بن هارون، قصة اهل البصرة من المسجدین) (۲) رسائل الجاحظ (رسالة كتمان السر)	۴	نثر قدیم
عربی انشاء، اردو سے عربی، عربی سے اردو ترجمہ الصحف العربیة المختارة	۴	الانشاء العربی
مجموعۃ من النظم والنثر للحفظ والسمع (محمد شریف سلیم)	۴	حفظ النصوص
(۱) کتابة البحث العلمي (عبدالوہاب ابوسلیمان) (۲) کسی موضوع پر ۱۰۰ صفحات کا عربی مقالہ	۴	مقالہ نویسی

مطالعہ	۶	(۱) من نجات الحرم (شیخ الطنطاوی) (۲) النظرات (المفلوطی) (۳) کلیلۃ و دمنۃ (ابن المقفی) (۴) نحو مذہب اسلامی فی الادب والنقد (عبدالرحمن رافت پاشا)
--------	---	--

ڈپلومہ ان انگلش لنگویج اینڈ لٹریچر - سال اول

فن	ہفتہ واری گھنٹے	نصاب برائے سال اول
گرامر	۶	انگلش گرامر
ٹیکسٹ بک	۶	این سی ای آر ٹی سیریز (از حصہ اول تا ہشتم)
کمپوزیشن	۶	ایسے اینڈ کمپوزیشن (انگلش انشاء)
ترجمہ نگاری	۶	انگلش - اردو، اردو - انگلش ترجمہ
اسپوکن انگلش	۶	انگریزی میں بول چال اور تقریر کی مشق
ٹیوٹوریل	۶	ہوم ورک کی جانچ اور تعاون

ڈپلومہ ان انگلش لنگویج اینڈ لٹریچر - سال دوم

فن	ہفتہ واری گھنٹے	نصاب برائے سال دوم
گرامر	۳	ایڈوانسڈ انگلش گرامر
ٹیکسٹ بک	۶	این سی ای آر ٹی سیریز (از حصہ نہم تا بی اے لیول)
کمپوزیشن	۶	انگلش انشاء اور مضمون نگاری
ترجمہ نگاری	۶	انگلش - اردو، اردو - انگلش ترجمہ انگلش - عربی، عربی - انگلش ترجمہ (ہفتہ میں تین تین دن)
اسپوکن انگلش	۶	انگریزی میں بول چال اور تقریر کی مشق
دعوۃ	۳	حفظ ترجمہ انگریزی منتخب آیات و احادیث اسلامی موضوعات پر تقریر کی مشق
کمپیوٹر و انٹرنیٹ	خارج	شعبہ کمپیوٹر کے ذریعہ کمپیوٹر و انٹرنیٹ کی ٹریننگ

ڈپلومہ ان کمپیوٹر اپلیکیشن (ایک سال)

فن	ہفتہ واری گھنٹے	نصاب
مبادیات	۶	مبادیات کمپیوٹر، ونڈوز، انشٹالیشن
ٹائپنگ	۶	ان پیج، پیج میکر
ڈیزائننگ	۶	کورل ڈرا، فوٹوشاپ
ایم ایس آفس	۶	ایم ایس ورڈ، ایم ایس ایکسل، ایم ایس پاور پوائنٹ
انٹرنیٹ	۶	انٹرنیٹ
انگلش	۶	جنرل انگلش

ڈپلومہ برائے انشاء و صحافت (ایک سال)

فن مع نصاب	کتب مطالعہ
فن: سیرت سیرۃ المصطفیٰ ﷺ (مولانا محمد ادریس کاندھلوی) النبی الخاتم ﷺ (مولانا مناظر احسن گیلانی)	رحمۃ للعالمین ﷺ (سید سلیمان منصور پوری) ذکر رسول ﷺ (مولانا عبدالماجد دریا بادی) آفتاب نبوت ﷺ (مولانا قاری محمد طیب صاحب)
فن: انشاء و صحافت اصول مطالعہ و مضمون نویسی (مولانا جمیل احمد ندیری) قواعد اردو (مولوی عبدالحق) اردو کی پانچویں (مولوی اسماعیل میرٹھی)	سچی بات کا مجموعہ (مولانا دریا بادی) گنجائے گراں مایہ (رشید احمد صدیقی) اصناف سخن (ڈاکٹر عطاء الرحمن) عبار خاطر (مولانا ابوالکلام آزاد) پس مرگ زندہ (مولانا نور عالم خلیل امینی) تحدیث نعمت (مولانا محمد منظور نعمانی)
فن: تاریخ ہند و معلومات عامہ مقدمہ تاریخ ہند (مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی) معلومات عامہ (ڈاکٹر سعید الرحمن شیرکوٹی)	ملت اسلامیہ کی مختصر تاریخ (ثروت صولت) آب کوثر، رود کوثر، موج کوثر (شیخ محمد اکرام) آئینہ حقیقت نما (اکبر شاہ نجیب آبادی) مقدمہ ابن خلدون اردو

<p>مقالات عثمانی (علامہ شبیر احمد عثمانی) اشرف الجواب (حضرت تھانوی) حجۃ الاسلام (حضرت نانوتوی) عقائد اسلام (حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی)</p>	<p>فن: مطالعہ افکار و نظریات اسلامی علمائے دیوبند کا دینی رخ اور مسلکی مزاج (حضرت قاری محمد طیب صاحب) اسلام اور عقلیات (حضرت تھانوی)</p>
	<p>فن: مضمون نگاری تحریر و صحافت کی مشق پچاس صفحات پر مشتمل تحقیقی مقالہ (سالانہ)</p>

تحفظ ختم نبوت (ایک سال)

نصاب	فن
التصریح بما تواتر فی نزول المسیح علیہ السلام (حضرت مولانا علامہ انور شاہ کشمیری)	عقائد
تکفیر کے اصول (مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندی)	عقائد
رد قادیانیت کے ذریعے اصول (مولانا منظور احمد چنیوٹی)	رد قادیانیت
قادیانیت: تحلیل و تجزیہ (مولانا ابوالحسن علی ندوی)	تاریخ قادیانیت
اسلام اور قادیانیت کا تقابلی مطالعہ (مولانا عبدالغنی پٹیلوی)	تقابل
خلاصہ اسباق و مطالعہ	مقالہ نویسی
قادیانی لٹریچر	مطالعہ

مطالعہ عیسائیت و دیگر مذاہب (ایک سال)

کتب مطالعہ	فن مع نصاب
مطالعہ بائبل و قرآن (آیات متعلقہ) ازالۃ الاوهام (حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی) ازالۃ الشکوک (حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی) تعلیمات اسلام اور مسیحی اقوام (حکیم الاسلام) اسلام اور نصرانیت (مولانا محمد ادریس کاندھلوی)	<p>فن: مطالعہ عیسائیت منتخب ابواب اظہار الحق (حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی) عیسائیت کیا ہے؟ (مولانا مفتی تقی عثمانی) دی چوائس: عیسائیت یا اسلام، اردو ترجمہ (احمد دیدات)</p>

فن: ہندوستانی فکر و فلسفہ انتصار الاسلام (حضرت نانوتوی) خصوصی نوٹس	صداقت اسلام اور عظمت اسلام (تسہیل حجۃ الاسلام و گفتگوئے مذہبی، مولانا خالد القاسمی) ہندوستانی مذاہب: ایک مطالعہ (ڈاکٹر رضی احمد کمال)
فن: مکالمہ و مناظرہ اور بحث و تحقیق اصول مکالمہ و مناظرہ (بذریعہ نوٹس) اصول بحث و تحقیق (بذریعہ نوٹس) سوالات و جوابات (بذریعہ نوٹس)	مباحثہ شاہجہاں پور (حضرت نانوتوی) اسلام اور عقلیات (حضرت تھانوی) اشرف الجواب (حضرت تھانوی) اصول مناظرہ (مولانا محمد الیاس گھمن)
تمرین و مطالعہ	

تحفظ سنت (مطالعہ غیر مقلدیت) ایک سال

فن	نصاب
فقہ الحدیث	آثار السنن (علامہ محمد ابن علی شوق نیوی)
فقہ الحدیث	اعلاء السنن (مولانا ظفر احمد تھانوی)
مقالہ نویسی	دس مختلف موضوعات پر مقالے
خطابت	دس مختلف موضوعات پر تقاریر
مطالعہ	متون حدیث، کتب غیر مقلدین وغیرہ

محاضرات علمیہ (مطالعہ ادیان و فرق)

فن	تعداد محاضرہ	نصاب
یہودیت و عیسائیت	۶	محاضرات یہودیت (مولانا نعمت اللہ اعظمی)
ہندوازم	۴	محاضرات ہندوازم (مولانا عبدالحمید نعمانی)
قادیانیت	۵	محاضرات قادیانیت (مولانا قاری محمد عثمان منصور پوری)
شیعیت	۶	محاضرات شیعیت (مولانا محمد جمال میرٹھی)
رضا خانیت	۶	محاضرات رضا خانیت (مولانا مفتی محمد امین پالن پوری)
غیر مقلدیت	۶	محاضرات غیر مقلدیت (مولانا مفتی محمد راشد اعظمی)
مودودیت	۵	محاضرات مودودیت (مولانا عبدالحق سنہلی)

نوٹ: تکمیلات کے تمام طلبہ کو ہفتہ میں ایک محاضرہ پیش کیا جاتا ہے۔

خوش خطی (ایک سال)

پہلی سہ ماہی (ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم)		
نصاب	ہفتہ واری گھنٹے	فن
الفب کی پوری تختی کی مشق	۱۸	تمرین
تمام حروف کی ”الف“ ”تا“ ”یے“ پیمائش اور نظری معلومات خط نستعلیق کی وضاحت اور تعارف	۱۸	اصول خوشخطی

دوسری سہ ماہی (صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی)

مرکبات اور قطعات کی (اعجاز رقم) سے مکمل مشق	۱۸	تمرین
کتابت کے ابتدائی خطوط کا تعارف کتابت کی اصطلاحات سے مکمل واقفیت اور نظری معلومات	۶	اصول خوشخطی
ہندوستان میں خط نستعلیق کا ارتقاء	۶	تاریخ خوشخطی
ہفتہ میں ایک بار املاء لکھنا	۱	املاء

تیسری سہ ماہی (جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب)

سادہ کاغذ، لیتھو اور آفسیٹ کے کاغذ پر خفی قلم سے عبارت کی مشق ہفتہ میں ایک بار معیاری املاء لکھنا	۱۸	تمرین
نظم، غزل، متن، اقتباسات اور حاشیہ کو سمجھتے ہوئے مکمل مشق کتابت سے متعلق جملہ معلومات مثلاً مسطر بنانا، مسطر رنگنا، صفحات ڈالنا، مسطروں کے سائز لیتھو اور بلاک آفسیٹ کی کتابت اور سائز میں فرق وغیرہ کی معلومات	۶	اصول خوشخطی
کتابت کے ضروری سامان کی معلومات کتابت شدہ صفحات کو محفوظ رکھنے کے طریقے اور سلیقے کی مکمل معلومات اور اغلاط کو درست کرنے کا طریقہ	۶	اصول عام
کتابت کے خطوط کی مختصر تاریخ اور اس کا ارتقاء	۶	تاریخ خوشخطی

خیاطی (ایک سال)

پہلی سہ ماہی (ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم)		
نصاب	ہفتہ واری گھنٹے	فن
گز، انچ، انچی ٹیپ کی پہچان اور استعمال	۱۲	مبادی
سوت، انچ، گز، ضرب و تقسیم (کننگ سے متعلق)	۱۲	حساب
سوئی کا استعمال، ترپائی کی مشق	۱۲	تمرین
دوسری سہ ماہی (صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی)		
سلائی مشین چلانے کی مشق ڈرائنگ، نپائی کی مشق قینچی چلانے اور کپڑے کاٹنے کی مشق	۳۶	تمرین
تیسری سہ ماہی (جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب)		
کرتا، پاجامہ، شلوار سلائی کی مشق شیروانی کی کننگ و سلائی کا تعارف صدری کی کننگ و سلائی کا تعارف	۳۶	تمرین

نصاب تعلیم شعبہ تجوید و حفظ قرآن

درجات تجوید و حفظ قرآن

- (۱) قرأت عشرہ (ایک سال)
- (۲) قرأت سبعمہ (ایک سال)
- (۳) تجوید بروایت حفص، اردو (دو سال)
- (۴) تجوید بروایت حفص، عربی (ایک سال)
- (۵) حفظ قرآن (دو تا پانچ سال)
- (۶) ناظرہ قرآن

قرأت عشرہ (ایک سال)

نصاب برائے سال اول	ہفتہ واری گھنٹے	فن
الوجوه المسفرة (شیخ شمس المتولی) (۲) الدرۃ المہدیۃ (علامہ جزری) (۳) طلیۃ النثر (علامہ جزری)	۱۲	اصول التجوید والقرآت
مشق آیات مختلفہ	۱۲	تمرین
اجراء قرآن مکمل	۱۲	اجراء

قرأت سبعمہ (ایک سال)

نصاب برائے سال اول	ہفتہ واری گھنٹے	فن
التیسیر (ابو عمر الدانی) شاطبیہ (علامہ شاطبی) رائیہ (علامہ شاطبی)	۱۸	اصول التجوید والقرآت والرسم

تمرین	۱۸	مشق رکوعات فی الاختلاف اجراء قرآن مکمل
-------	----	---

تجوید بروایت حفص عربی (ایک سال)

فن	ہفتہ واری گھنٹے	نصاب
اصول التجوید	۶	خلاصۃ البیان (قاری ضیاء الدین) تحفۃ الاطلاق (علامہ سلیمان الجوزوری) المقدمۃ الجزریۃ (علامہ جزری)
تدویر	۶	پہلا پارہ، نصف پارہ سبوقول، عم پارہ
حدر	۶	ایک منزل
تمرین	۱۸	مشق رکوعات مختلفہ مع پارہ عم ترتیباً (ہر سہ طریق)

تجوید بروایت حفص اردو (سال اول)

فن	ہفتہ واری گھنٹے	نصاب برائے سال اول
اصول التجوید	۱۸	قواعد التجوید (قاری ابوالحسن اعظمی) جمال القرآن (حضرت مولانا اشرف علی تھانوی) جامع الوقف (قاری ابن ضیاء محبت الدین)
تمرین	۱۸	مشق قصار مفصل ترتیباً (تاسہ ماہی) مشق رکوعات مختلفہ (تاسالانہ) پارہ الحکم تدویر ایک منزل حدر

تجوید بروایت حفص اردو (سال دوم)

فن	ہفتہ واری گھنٹے	نصاب برائے سال دوم
اصول التجوید	۱۸	فوائد مکیہ (قاری عبدالرحمن مکی) معرفة الرسوم (قاری ابن ضیاء محبت الدین)

تمرین	۱۸	مشق اوساط مفصل ترتیلاً بعدہ رکوعات مختلفہ پارہ ۲۸، ۲۹، تدویر قرآن مکمل حدر
-------	----	--

حفظ قرآن

فن	ہفتہ واری گھنٹے	نصاب برائے سال اول
حفظ	۱۲	قرآن مجید از پارہ نمبر ۱ تا پارہ نمبر ۵
دینیات	۶	تعلیم الاسلام (مفتی کفایت اللہ دہلوی) حصہ اول
تجوید	۶	مختصر قواعد تجوید
اسلامی تربیت	۱۲	ماثورہ دعائیں
نصاب برائے سال دوم		
حفظ	۱۲	قرآن مجید از پارہ ۶ تا پارہ ۱۳
دینیات	۶	تعلیم الاسلام (مفتی کفایت اللہ دہلوی) حصہ دوم
تجوید	۶	قواعد تجوید
اسلامی تربیت	۱۲	ماثورہ دعائیں
نصاب برائے سال سوم		
حفظ	۱۲	قرآن مجید از پارہ ۱۴ تا ۲۲
دینیات	۶	تعلیم الاسلام (مفتی کفایت اللہ دہلوی) حصہ سوم
تجوید	۶	قواعد تجوید
اسلامی تربیت	۱۲	ماثورہ دعائیں
نصاب برائے سال چہارم		
حفظ	۱۲	قرآن مجید از پارہ ۲۳ تا ۳۰ (حفظ مکمل)
دینیات	۶	تعلیم الاسلام (مفتی کفایت اللہ دہلوی) حصہ چہارم
تجوید	۶	قواعد تجوید

اسلامی تربیت	۱۲	ماثورہ دعائیں
نصاب برائے سال پنجم		
حفظ	۱۸	قرآن مجید (دور) تا ششماہی ۲۰ پارے ششماہی تا سالانہ ۱ پارے
تجوید	۶	قواعد تجوید
اسلامی تربیت	۱۲	ماثورہ دعائیں
نوٹ: درج بالا نصاب تعلیم متوسط ذہن کے طلبہ کی رعایت سے تخمینہ نصاب ہے ورنہ اعلیٰ ذہن کے طلبہ دو سال ہی میں حفظ و دور مکمل کر لیتے ہیں۔		

ناظرہ قرآن

نصاب	
(۱)	نورانی قاعدہ
(۲)	ناظرہ قرآن
(۳)	اردو

نصاب تعلیم دینیات اردو و فارسی

- (۰) درجہ اطفال
- (۱) درجہ اول
- (۲) درجہ دوم
- (۳) درجہ سوم
- (۴) درجہ چہارم (فارسی)
- (۵) درجہ پنجم (فارسی)

درجہ اطفال

نصاب	ہفتہ واری گھنٹے	مضمون
نورانی قاعدہ (مولوی نور محمد)	۶	حروف ابجدی
کلمات (پہلا، دوسرا کلمہ حفظ)	۱۲	دعائیں
اردو قاعدہ، بعدش ماہی	۶	اردو زبان
تختی لکھنا	۶	تحریر کی مشق
۱۰۰ ارتک گنتی لکھنا، پڑھنا	۶	گنتی

درجہ اول

نصاب	ہفتہ واری گھنٹے	مضمون
پارہ عم و الم ناظرہ، و حفظ تا سورہ فیل (بترتیب معکوس)	۶	قرآن شریف
دینی تعلیم کا رسالہ، اول (مولانا محمد میاں)	۶	دینیات
وضو اور نماز کی مشق، تین کلمے حفظ	۶	عملی مشق
اردو کی پہلی کتاب (مولانا اسماعیل میرٹھی)	۶	اردو

اردو مشق تحریر	۶	تختی پر لکھنے کی مشق
ہندی	۶	بھاشا کرن، اول
ہندی مشق تحریر	۶	ہندی مشق تحریر
حساب	۶	بیسک حساب اول، ۱۰ تک پہاڑے، جمع و تفریق

درجہ دوم

مضمون	ہفتہ واری گھنٹے	نصاب
قرآن شریف	۶	از پارہ ۲ تا پارہ ۱۲ ناظرہ، و حفظ تا سورۃ الشمس
دینیات	۳	دینی تعلیم کا رسالہ، حصہ دوم و سوم (مولانا محمد میاں)
عملی مشق	۳	پانچوں کلمے حفظ، وضو و نماز کی عملی مشق
اردو	۳	اردو کی دوسری کتاب (مولانا اسماعیل میرٹھی)
اردو مشق تحریر	۳	اردو نقل
ہندی	۳	بھاشا کرن، دوم
ہندی مشق تحریر	۳	ہندی مشق تحریر
جغرافیہ	۳	سرل ایٹلس یعنی اصطلاحات جغرافیہ
حساب	۶	بیسک حساب، دوم، ۲۰ تک پہاڑے

درجہ سوم

مضمون	ہفتہ واری گھنٹے	نصاب
قرآن شریف	۶	قرآن پاک از پارہ نمبر ۱۳ تا ختم ناظرہ
قرآن شریف	۳	حفظ تا سورۃ انشاق (اخیر سے)
دینیات	۳	دینی تعلیم کا رسالہ نمبر ۴، ۵
عملی مشق	۳	چھ کلمے حفظ، وضو و نماز کی عملی مشق و دعائے نماز جنازہ
اردو	۳	اردو کی تیسری کتاب (مولانا اسماعیل میرٹھی)

اردو نقل	۳	اردو مشق تحریر
قواعد اردو، حصہ اول (فارہیگ)	۳	قواعد اردو
بھاشا کرن، سوم	۳	ہندی
ہندی نقل	۳	ہندی مشق تحریر
بیسک حساب، سوم	۳	حساب
سماج ادھین، دوم	۳	سماج

درجہ چہارم (فارسی)

نصاب	ہفتہ واری گھنٹے	مضمون
تاریخ اسلام اول (مولانا محمد میاں)	۳	تاریخ اسلام
دینی تعلیم کا رسالہ نمبر ۶، ۷	۳	دینیات
اردو کی چوتھی کتاب (مولانا اسماعیل میرٹھی)	۳	اردو
اردو اطباء	۳	اردو اطباء
آمد نامہ (مولانا مصطفیٰ خان) مکمل رہبر فارسی (مولانا اشتیاق احمد) تیسیر المبتدی (مولانا عبداللہ گنگوہی) فارسی کی پہلی کتاب گلزار دبستان، اول و دوم (شیخ سعدی) کریم (شیخ سعدی)	۶	فارسی
بھاشا کرن، چہارم	۳	ہندی
ہندی اطباء	۳	ہندی اطباء
انگلش پرائمر	۳	انگریزی
بیسک حساب، چہارم	۳	حساب
سماج ادھین، سوم	۳	سماج
آؤ کر کے سیکھیں، اول	۳	سائنس

درجہ پنجم (فارسی)

مضمون	ہفتہ واری گھنٹے	نصاب
تاریخ اسلام	۳	تاریخ اسلام، دوم (مولانا محمد میاں)
سوانح و تذکرہ	۳	مشاہیر دارالعلوم دیوبند (مفتی ظفر الدین مفتاحی)
اردو	۳	اردو کی پانچویں کتاب (مولانا اسماعیل میرٹھی)
اردو	۳	اردو خطوط نویسی
فارسی	۶	فارسی کا معلم (مولانا جمیل احمد) گلستان کمال (شیخ سعدی) باستثناء باب پنجم بوستاں (شیخ سعدی)
ہندی	۳	بھاشا کرن، پنجم
ہندی املاء	۳	ہندی املاء
انگریزی	۳	نیولائٹ انگلش ریڈر
حساب	۳	بیسک حساب، پنجم
سماج	۳	ہمارا سماج
سائنس	۳	آؤ کر کے سیکھیں، دوم

قواعد داخلہ

اس وقت دارالعلوم دیوبند میں قدیم و جدید طلبہ کی کل تعداد تقریباً پانچ ہزار سے زائد ہے۔ تکمیلات، کتابت، دارالصنائع کے شعبے قدیم طلبہ کے لیے ہیں، بقیہ شعبوں میں قدیم طلبہ کے بعد جو عدد باقی بچتا ہے اس کو جدید طلبہ سے مقابلہ کے امتحان کے ذریعہ پُر کیا جاتا ہے یعنی ہر جماعت کی مقررہ تعداد کو اونچے نمبرات سے شروع کر کے پورا کیا جاتا ہے۔

دارالعلوم دیوبند میں جدید داخلے صرف درجہ دینیات، حفظ و تجوید، درجات عربیہ اور خوش خطی میں ہی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ تکمیلات و تخصصات کے تمام کورسز میں صرف دارالعلوم کے قدیم طلبہ کا ہی داخلہ ہو سکتا ہے۔

جدید طلبہ کے لیے

جدید داخلے کے لئے آنے والے طلبہ کو فارم درخواست برائے شرکت امتحان داخلہ ۳ شوال سے دفتر تعلیمات سے فراہم کیا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ ۸ شوال تک جاری رہتا ہے۔ امتحان داخلہ عموماً شوال کے پہلے ہفتے سے شروع ہوتا ہے۔

سال اول، دوم، سوم عربی میں داخلہ کیلئے کچھ کتابوں کا امتحان تقریری اور کچھ کا تحریری ہوتا ہے، بقیہ درجات عربیہ کا امتحان تحریری ہوتا ہے۔ سال اول و دوم میں نابالغ بیرونی بچوں کا داخلہ نہیں ہوتا ہے۔ تمام درجات عربیہ کے طلباء کیلئے پارہ عم کا صحیح پڑھنا لازم ہوتا ہے اور اس کا امتحان بھی لیا جاتا ہے۔

سال اول میں داخلہ کیلئے حساب (جمع، تفریق، ضرب، تقسیم) گلستاں مکمل علاوہ باب پنجم کا تحریری امتحان ہوتا ہے، آمد نامہ اور فارسی کا معلم کا تقریری امتحان ہوتا ہے۔

سال دوم میں داخلہ کیلئے القراءۃ الواضحة حصہ اول کا تحریری امتحان ہوتا ہے اور سال اول کی تمام کتب: میزان منشعب، پنج گنج، نحو میر، شرح مائتہ عامل، مفتاح العربیہ ہر دو حصے کا تقریری امتحان ہوتا ہے۔

سال سوم میں داخلہ کے لیے فقہ الادب، ہدایۃ النحو، نور الایضاح کا تحریری امتحان اور علم الصیغہ، فصول اکبری (خاصیات)، قدوری تا کتاب الحج، مرقات، القراءۃ الواضحة حصہ دوم کا تقریری امتحان ہوتا ہے۔

سال چہارم کے لیے قدوری (از کتاب البیوع تا ختم) ترجمہ قرآن (سورہ ق سے آخر تک) شرح تہذیب، فقہ العرب اور کافیا کا تحریری امتحان ہوتا ہے۔

سال پنجم کے لیے شرح وقایہ جلد اول و جلد دوم (تا کتاب العقاق)، اصول الشاشی مع دروس البلاغہ، ترجمہ قرآن (سورہ یوسف سے سورہ ق تک) اور قطبی کا تحریری امتحان ہوتا ہے۔

سال ششم کے لیے ہدایہ اول، نورالانوار، مختصر المعانی، سلم العلوم، مقامات حریری کا تحریری امتحان ہوتا ہے۔
سال ہفتم کے لیے جلالین، ہدایہ ثانی، حسامی، میبذی، قصائد منتخبہ از دیوان مثنوی کا تحریری امتحان ہوتا ہے۔
درجہ ہفتم میں داخلے کیلئے قرآن کریم صحیح بخاری سے پڑھنا لازمی ہے۔ منتخب شدہ طلبہ کا امتحان لیا جاتا ہے اور قرآن کریم صحیح بخاری سے سنانے کے بعد ہی فارم داخلہ دیا جاتا ہے۔

دورہ حدیث کے لیے ہدایہ آخرین، مشکوٰۃ شریف، شرح عقائد نسفی، نخبۃ الفکر اور سراجی کا تحریری امتحان ہوتا ہے۔ نیز پارہ عم صحیح بخاری کے ساتھ حفظ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس کا امتحان بروقت لیا جاتا ہے۔ پارہ عم حفظ صحیح بخاری سے سنانے کے بعد ہی فارم داخلہ دیا جاتا ہے۔ (پارہ عم کا یہ امتحان حصول سند کیلئے تجوید کے قائم مقام نہیں ہوتا ہے۔)
شعبہ دینیات، اردو، فارسی: شعبہ دینیات اردو، فارسی میں خصوصاً مقامی بچوں کو داخلہ دیا جاتا ہے۔
دینیات کے درجہ اطفال میں صرف مقامی بچوں کا داخلہ بشرط گنجائش ہر وقت ممکن ہوتا ہے۔ دینیات کے بقیہ درجات میں داخلہ ذی الحجہ کی تعطیل تک لیا جاتا ہے۔

شعبہ حفظ: شعبہ حفظ میں خاص طور پر مقامی یا قرب وجوار کے نابالغ بچوں کا داخلہ بشرط گنجائش لیا جاتا ہے۔ مقررہ تعداد سے زائد کسی بچے کا داخلہ ممکن نہیں ہوتا ہے۔ اور درمیان سال میں صرف دارالعلوم کے شعبہ ناظرہ سے فارغ بچوں کا داخلہ ہوتا ہے۔

شعبہ ناظرہ: شعبہ ناظرہ صرف اور صرف مقامی بچوں کے لئے مخصوص ہے اور اس شعبہ میں داخل ہونے والے بچوں کو دارالاقامہ کی جانب سے سیٹ نہیں دی جاتی ہے۔

شعبہ تجوید، حفص اردو، عربی: حفص اردو میں وہ طلبہ داخل ہو سکتے ہیں جو حافظ قرآن ہوں اور اردو کی اچھی استعداد بھی رکھتے ہوں؛ نیز ان کی عمر اٹھارہ سال سے کم نہ ہو۔ حفص اردو میں داخلہ کے امیدواروں کا حساب (جمع و تفریق، ضرب و تقسیم) کا امتحان تحریری بھی ہوتا ہے۔ شعبہ حفص عربی میں ان طلبہ کو داخل کیا جاتا ہے جنہیں قرآن کریم یاد ہو اور وہ عربی میں شرح جامی، یا سال سوم کی تعلیم حاصل کر چکے ہوں۔

قرأت سابعہ و عشرہ: قرأت سابعہ و عشرہ میں داخلہ کے لیے حافظ ہونا اور عربی کی سال چہارم تک کی جید استعداد رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ سابعہ کے لیے حفص عربی سے فارغ ہونا اور عشرہ کے لیے قرأت سابعہ کا پڑھا ہوا ہونا ضروری ہوتا ہے۔

عام ضوابط

- جن امیدواروں کی وضع قطع طالب علمانہ نہیں ہوتی، مثلاً: غیر شرعی بال، ریش تراشیدہ ہونا، ٹخنوں سے نیچے پا جامہ ہونا، یا دارالعلوم کی روایات کے خلاف کوئی بھی وضع ہونا، ان کو شریک امتحان نہیں کیا جاتا اور نہ ہی اس سلسلے میں کوئی رعایت کی جاتی ہے۔
- تمام جدید طلبہ کے لیے وطنیت کا تصدیق نامہ پیش کرنا ضروری ہے۔ تصدیق نامہ میں جوڈیشیل مجسٹریٹ کی جاری کردہ تصدیق شہریت یا راشن کارڈ، یا شناختی کارڈ برائے ووٹ، یا ہندوستانی پاسپورٹ کی مصدقہ فوٹو اسٹیٹ کا پی پیش کرنا لازم ہوتا ہے۔
- امیدواروں کے تاریخ پیدائش کا سرٹیفکیٹ کارپوریشن میونسپل بورڈ ٹاؤن ایریا، یا گرام پنچایت کا ہونا ضروری ہے۔ واضح رہے کہ ۱۸ سال سے کم عمر پر فراغت تسلیم نہیں کی جاتی۔
- ہر طالب علم کے لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے سرپرست کا ضمانت نامہ ہمراہ لے کر آئے اور فارم داخلہ کے ساتھ منسلک کرے۔
- جدید امیدواروں کے لیے سابقہ مدرسہ کا تعلیمی و اخلاقی تصدیق نامہ پیش کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کسی جماعت میں سماعت کی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کی ذاتی تصدیق یا دارالعلوم سمیت کسی مدرسہ میں سماعت کا اعتبار ہے۔

غیر ملکی جدید طلبہ کے لیے

- دارالعلوم دیوبند میں بیرون ملکی طلبہ کا داخلہ شوال سے ۳۰ روز و القعدہ تک ہوتا ہے۔
- مطلوبہ سال کے امتحان داخلہ میں کامیابی کے بعد داخلہ مل سکتا ہے۔
- داخلہ کے خواہش مند طلبہ کے پاس کم از کم ایک سال کا تعلیمی ویزہ ہونا چاہیے جس میں دارالعلوم میں تعلیم کی صراحت ہو۔ واضح رہے کہ ٹورسٹ ویزا پر داخلہ نہیں دیا جاتا ہے۔ پاسپورٹ اور ویزہ کی فوٹو کاپی درخواست داخلہ کے ساتھ داخل کرنا ضروری ہے۔
- ویزہ کے حصول میں مدد دینے کے لیے، دارالعلوم صرف 'نو آئیجیکشن سرٹیفکیٹ' (NOC) جاری کر سکتا ہے۔ NOC کے حصول کے لیے درج ذیل تفصیلات فراہم کرنا ضروری ہے: (۱) نام امیدوار (۲) والد کا نام (۳) ڈاک کا مکمل پتہ (۴) پاسپورٹ کی نقل

- واضح رہے کہ دارالعلوم میں ذریعہ تعلیم اردو زبان ہے؛ لہذا اگر بیرون ملکی طلبہ اردو زبان سے واقف ہوں تو یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوتا ہے۔
- دارالعلوم دیوبند غیر ملکی طلبہ کو بھی تعلیم، قیام و طعام اور دیگر سہولیات مفت فراہم کرتا ہے اور کسی بھی عنوان سے کوئی فیس نہیں وصول کرتا ہے۔
- ضروری کاغذات اور تصدیقات کی فوٹو کاپی درخواست فارم برائے داخلہ کے ساتھ جمع کرنی ہوتی ہے اور داخلہ فارم کے اجراء پر اصل کاغذات پیش کرنا ضروری ہوتا ہے۔

قدیم طلبہ کے لیے

- تمام قدیم طلبہ کے لیے ۲۰ رشوال تک حاضر ہونا ضروری ہوتا ہے۔
- جو طلبہ تمام کتابوں میں کامیاب ہوتے ہیں ان کو ترقی دی جاتی ہے، جو طلبہ دو کتابوں میں ناکام ہوتے ہیں ان کا ضمنی امتحان، داخلہ امتحان کے ساتھ لیا جاتا ہے، بصورت کامیابی ترقی دی جاتی ہے ورنہ بلا امداد سال کا اعادہ کر دیا جاتا ہے۔ اعادہ سال کی رعایت صرف ایک سال کے لیے ہے۔
- عربی سال اول میں مشق تجوید اور سال دوم میں جمال القرآن کے نمبرات بسلسلہ ترقی درجہ اوسط میں شمار ہوتے ہیں۔ بقیہ سالوں میں تجوید و کتابت کے نمبرات بسلسلہ ترقی اوسط میں شمار نہیں ہوتے؛ البتہ فوائد مکہ اور صرف عربی کے نمبرات ترقی و اجراء امداد کے سلسلے میں شمار کیے جاتے ہیں۔
- ایک تکمیل کی درخواست دینے والے دوسری تکمیل کے امیدوار نہ ہو سکیں گے الا یہ کہ ان کے مطلوبہ درجہ تکمیل میں تعداد پوری ہونے کے سبب ان کا داخلہ نہ ہو سکا ہو۔
- دارالافتاء کے فضلاء کا کسی شعبہ میں داخلہ نہیں ہوتا، تخصص فی الحدیث اس سے مستثنیٰ ہے۔
- تخصص فی الحدیث سے فراغت کے بعد کسی دوسرے شعبہ میں داخلہ نہیں ہوتا؛ البتہ دارالافتاء اس سے مستثنیٰ ہے۔ لہذا تخصص فی الحدیث کے بعد افتاء میں داخلہ ہو سکتا ہے اور افتاء کے بعد تخصص فی الحدیث میں داخلہ لیا جاسکتا ہے۔ ان دونوں تکمیلات سے فارغ ہونے والے طلبہ کا کسی دوسری تکمیل میں داخلہ نہیں ہوتا۔
- جن طلبہ کے خلاف کوئی بھی شکایت دارالاقامہ، تعلیمات، یا اہتمام میں کسی بھی وقت درج ہوئی ہو، ان کو دورہ حدیث کے بعد کسی بھی شعبہ میں داخل نہیں کیا جاتا ہے۔
- کسی بھی شعبہ میں داخلہ لینے والے قدیم فضلاء کو اس شعبہ سے فراغت کے بعد ہی سند فضیلت دی جاتی ہے۔ کسی بھی تکمیل کے طالب علم پر لازمی ہے کہ وہ اس کی تکمیل کرے، اگر درمیان سال میں تعلیم ترک کر دی تو سند فضیلت سال کے اخیر تک نہیں دی جاتی ہے۔

تعمیل افتاء، تدریب فی الافقاء، تعمیل ادب عربی، تعمیل تفسیر، تعمیل علوم، تخصص فی الحدیث، شعبہ انگریزی زبان و ادب، شعبہ کمپیوٹر، خوش نویسی، دارالصنائع، شعبہ تحفظ ختم نبوت، شعبہ مطالعہ عیسائیت، شیخ الہند اکیڈمی میں داخلہ کے لیے اوسط نمبرات طے ہیں اور انھیں کی روشنی میں تقابل کی بنیاد پر داخلہ دیا جاتا ہے۔

دارالعلوم دیوبند کے قواعد داخلہ میں حسب ضرورت تغیر و تبدیلی ہوتی رہتی ہے اور ہر سال نیا قواعد داخلہ دفتر تعلیمات کی طرف سے شائع کیا جاتا ہے۔

ماخذ:

● قواعد داخلہ، دفتر تعلیمات، دارالعلوم دیوبند، بابت ۳۷-۱۴۳۶ھ

طلبہ کی دیگر علمی و ثقافتی سرگرمیاں

دارالعلوم دیوبند ایک بے مثال تعلیمی ادارہ ہونے کے ساتھ ساتھ بے نظیر علمی و ثقافتی مرکز بھی ہے۔ یہاں کی سرگرمیاں صرف دائرہ تعلیم ہی میں محدود نہیں، بلکہ یہاں کے مشاغل میں آفاقیت و تنوع اور مجموعی مزاج میں وسعت و کشادگی ہے۔ یہاں رہ کر ایک طالب علم صرف دریائے علم کے آبدار موتیوں سے دامن مراد بھرنے پر اکتفا نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ یہاں زندگی کا مفہوم سیکھتا ہے اور معاشرہ میں رہنے کا ہنر بھی، یہاں اسے اخلاق و ادب کی تعلیم بھی ملتی ہے اور علمی و فکری غذا بھی۔ یہاں طالب علم کی صلاحیتیں اس طرح پروان چڑھتی ہیں جیسے کوئی پودا موافق موسم میں نشوونما پاتا ہے۔

دارالعلوم دیوبند میں داخل طلبہ کی نصابی سرگرمیوں کے علاوہ تقریر و تحریر اور مطالعہ کا اہم پلیٹ فارم طلبہ کی انجمنیں ہوتی ہیں۔ طلبہ کی مختلف صلاحیتوں کو پروان چڑھانے میں دارالعلوم میں قائم یہ انجمنیں اہم کردار کرتی ہیں۔ انجمنوں کے اس ماحول سے طلبہ کے اندر گونا گوں علمی و انتظامی، تقریری و تحریری اور سماجی و سیاسی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ انہی نوخیز و نو عمر طلبہ میں انشاء پرداز بھی ہوتے ہیں، فصیح اللسان مقرر بھی، دندان شکن مناظر بھی اور شاعر و منتظم بھی۔ انجمنوں کی مختلف سرگرمیوں سے ان کے جوہر کھلتے ہیں اور ان کے اندر ملک و ملت کی خدمت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔

قیام دارالعلوم کے بعد سے ہی دارالعلوم میں طلبہ ہفتہ واری سرگرمیاں انجام دیتے رہے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بعد میں طلبہ کی تعداد بڑھنے کے ساتھ یہ سلسلہ منظم ہوتا گیا۔ چنانچہ اس سلسلے میں حاصل شدہ معلومات کے مطابق انجمن تہذیب الاخلاق نام کی انجمن ۱۳۳۸ھ مطابق ۱۹۱۸ء میں قائم ہوئی۔ اسی طرح دوسری سب سے قدیم انجمن 'اصلاح البیان' ہے جو طلبہ بہار و بنگال کی مشترکہ انجمن تھی اور ۱۳۳۶ھ مطابق ۱۹۲۸ء میں قائم ہوئی۔ یہی انجمن بعد میں 'بزم سجاد' سے موسوم ہوئی۔ مدنی دارالمطالعہ بھی ایک قدیم انجمن ہے جو ۱۳۶۷ھ مطابق ۱۹۴۸ء میں قائم ہوئی۔ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی کے دور صدارت میں انجمنوں کی تعداد میں کافی اضافہ ہوا کیوں کہ وہ انجمنوں کے قیام کے سلسلے میں طلبہ کی تحریک و تائید اور ہمت افزائی کے ساتھ تعاون بھی کرتے تھے۔

طلبہ کی یہ انجمنیں بعض 'کل دارالعلوم' پیمانے کی ہیں جب کہ کچھ صوبائی و علاقائی سطح کے طلبہ کی ہیں اور اس کے علاوہ بے شمار ضلعی انجمنیں ہیں۔ کل دارالعلوم پیمانے کی سب سے اہم انجمن مدنی دارالمطالعہ ہے جس سے دارالعلوم میں داخل ہر طالب عالم مربوط ہو کر استفادہ کر سکتا ہے۔ النادی الادبی طلبہ دارالعلوم کی ایسی انجمن ہے جو اُن کی عربی زبان و ادب کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے قائم کی گئی۔ اسی طرح مناظرہ و مباحثہ کی مشق کے لیے

انجمن تقویۃ الاسلام قائم ہے۔ قراءت و تجوید کی صلاحیتوں کے نکھارنے کے لیے بھی متعدد انجمنیں قائم ہیں۔ ان انجمنوں کے نظام اور سرگرمیوں کو چلانے کے لیے صدر، نائب صدر، ناظم اعلیٰ، ناظم لائبریری اور خزانچی وغیرہ طلبہ ہی میں باہمی مشورے سے منتخب ہوتے ہیں۔ ہر انجمن کسی استاذ دارالعلوم کی سرپرستی میں سرگرم سفر ہوتی ہے۔ دارالعلوم میں اس وقت قائم کچھ اہم انجمنوں کا مختصر تعارف پیش خدمت ہے:

مدنی دارالمطالعہ

جملہ طلبہ دارالعلوم کی یہ سب سے بڑی انجمن ہے جو ۱۳۶۷ھ مطابق ۱۹۴۸ء سے قائم ہے اور شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی کی طرف منسوب ہے۔ پہلے یہ انجمن صوبہ یوپی کے طلبہ کے لیے مخصوص تھی، بعد میں اس کو تمام طلبہ کے لیے عام کر دیا گیا۔ اس انجمن کے تحت لائبریری قائم ہے جس میں تقریباً دس ہزار کتب و رسائل ہیں۔ مدنی دارالمطالعہ کی مسجد چھتہ کے جنوب میں واقع اپنی مستقل زمین اور عمارت ہے۔

مدنی دارالمطالعہ کے طلبہ کی طرف سے ہفتہ واری اخباری نشریہ 'البلاغ' اردو اور عربی میں الگ الگ شائع ہوتا ہے جس میں مضامین کے ساتھ دارالعلوم کی اہم خبریں نشر ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ، مدنی دارالمطالعہ کے طلبہ آزاد اور اہلال کے نام سے دو ماہانہ رسائل بھی نکالتے ہیں جو طلبہ کے مختلف گروپ الگ الگ نکالتے ہیں۔ اس کے علاوہ مدنی دارالمطالعہ سے متعلق اراکین کو ہر پندرہ دن میں مضمون نگاری کے لیے ایک موضوع دیا جاتا ہے اور جانچ میں پوزیشن لانے والے طلبہ کو خصوصی انعام اور شکر کا کو عمومی انعام دیا جاتا ہے۔ سال کے اخیر میں کل دارالعلوم کی سطح کا سالانہ تقریری مسابقہ منعقد کیا جاتا ہے جس میں سیکڑوں طلبہ شرکت کرتے ہیں۔ ان مضامین کی مختلف مرحلوں میں اساتذہ کے ذریعے جانچ کی جاتی ہے۔ ان مسابقوں میں پوزیشن لانے والے طلبہ کو گراں قدر انعامات دیے جاتے ہیں اور سابقے میں شریک ہونے والے تمام طلبہ کو ترقیبی انعامات بھی دیے جاتے ہیں۔

مدنی دارالمطالعہ کے تحت بزم شیخ الاسلام قائم ہے جس کے پلیٹ فارم سے طلبہ تقریری سرگرمیاں انجام دیتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اسمائے گرامی سے منسوب ہو کر اس وقت بزم شیخ الاسلام میں کل بیس (۲۰) تقریری حلقے قائم ہیں جو ہر ہفتہ بعد نماز جمعہ درسگاہوں میں تقریری مشق کرتے ہیں۔ سال کے اخیر میں سالانہ تقریری مسابقہ منعقد کیا جاتا ہے جس میں سیکڑوں طلبہ شرکت کرتے ہیں۔ ان مسابقوں میں پوزیشن لانے والے طلبہ کو گراں قدر انعامات دیے جاتے ہیں۔

النادی الادبی

النادی الادبی طلبہ دارالعلوم کی ایک عظیم تاریخی انجمن ہے جو بہ طور خاص طلبہ کی عربی زبان و ادب کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے حضرت مولانا وحید الزماں کیرانوی نے ۱۹۶۴ء مطابق ۱۳۸۴ھ میں قائم

فرمائی۔ حضرت مولانا وحید الزماں کیرانوی کو عربی زبان و ادب کا خاص ذوق حاصل تھا اور وہ برصغیر کے نمایاں عربی ادیب اور ماہر ترین استاذ و مربی تھے۔ حضرت مولانا کی سرپرستی اور مربیانہ خصوصیات کی بنیاد پر النادی الادبی ایک بہترین تربیت گاہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس انجمن سے وابستہ فضلاء دیوبند کی ایسی کھیپ کی کھیپ تیار ہوئی جنہوں نے علم و فکر اور زبان و ادب کی دنیا میں دارالعلوم کا نام روشن کیا۔

الحمد للہ اب بھی حضرات اساتذہ کی نگرانی میں یہ انجمن سرگرم سفر ہے۔ النادی الادبی کے تحت مختلف شعبے قائم ہیں جن میں شعبہ اجتماعات، شعبہ نشر و اشاعت اور شعبہ لائبریری اہم ہیں۔ شعبہ اجتماعات کے تحت عربی میں تقریری مشق کے لیے ہفتہ واری حلقہ جات لگتے ہیں۔ ہر حلقے کا ایک ذمہ دار مراقب ہوتا ہے۔ طلبہ ہفتہ واری پروگرام عربی زبان میں منعقد کرتے ہیں اور عربی زبان میں تقریریں کرتے ہیں۔ اختتام سال پر ایک عظیم الشان سالانہ جلسہ منعقد کرتے ہیں جس میں اہم شخصیات کو صدر جلسہ اور مہمان خصوصی کے طور پر مدعو کیا جاتا ہے اور دیگر اساتذہ بھی شرکت کرتے ہیں۔

النادی الادبی کے شعبہ نشر و اشاعت کے تحت طلبہ عربی زبان میں ایک درجن سے زائد جداری پرچے نکالتے ہیں اور اس طرح عربی زبان میں انشاء پر دازی اور مضمون نگاری کی صلاحیت کو جلا بخشتے ہیں۔ شعبہ لائبریری کے تحت انجمن کا کتب خانہ اور دارالمطالعہ قائم ہے جس میں عربی زبان میں مختلف موضوعات کی ہزاروں کتابیں طلبہ کے مطالعہ کے لیے موجود ہیں۔

انجمن تقویۃ الایمان

احقاق حق، ابطال باطل مسلک دارالعلوم کی شناخت ہے۔ دین حق کی اشاعت، افکار ضالہ کا تعاقب اور بدعات و خرافات کی تردید علمائے دین کا فرض منصبی ہے۔ بسا اوقات عناد و تعصب اور فکری غلو میں مبتلا شخص کے لیے مثبت تقریر و تبلیغ اور افہام و تفہیم مفید نہیں ہوتی، بلکہ اس کے سامنے حق کو واضح کرنے کے لیے مجادلہ و مناظرہ کا طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اسی خاص مقصد کے پیش نظر دارالعلوم میں انجمن تقویۃ الایمان قائم ہے جو ۱۳۹۰ھ مطابق ۱۹۷۰ء میں حضرت مولانا قمر الدین صاحب گورکھپوری کی سرپرستی میں قائم ہوئی۔ اس انجمن سے استفادہ کر کے اب تک بہت سے علماء و فضلاء تیار ہو کر میدان عمل میں سرگرم ہیں اور نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔

اس انجمن کے تحت دو اہم شعبے ہیں: شعبہ مناظرہ اور لائبریری۔ شعبہ مناظرہ کے تحت ہر ہفتہ مناظرہ کے لیے ایک موضوع متعین ہوتا ہے اور اس مناظرہ میں شریک طلبہ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ ایک گروپ اہل حق کی ترجمانی کرتا ہے اور دوسرا گروپ اہل باطل کی طرف سے دلائل دیتا ہے۔ طلبہ دارالعلوم کی بڑی تعداد مناظرہ کو سننے کے لئے بعد نماز جمعہ مقام تقریب میں جمع ہوتی ہے۔ مناظرہ کسی استاذ کی نگرانی میں ہوتا ہے۔ مناظرہ میں طے شدہ اصول کے مطابق جواب اور جواب الجواب کا سلسلہ دیر تک چلتا ہے۔ اخیر میں نگران استاذ

اس موضوع پر روشنی ڈالتے ہیں اور دونوں فریق کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے حق و صواب کو مزید دلائل و براہین سے مزین کر کے مناظرہ کا اختتام کرتے ہیں۔

بزم سجاد

صوبائی و علاقائی انجمنوں میں سب سے اہم بزم سجاد ہے۔ یہ نہایت قدیم انجمن ہے جو ۱۳۳۶ھ مطابق ۱۹۲۸ء میں شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی کی تحریک اور سرپرستی میں وجود میں آئی۔ حضرت مولانا منت اللہ رحمانی جو اس وقت طالب علم تھے، اس کے قیام میں پیش پیش تھے۔ ابتدا میں اس کا نام 'انجمن اصلاح البیان' تھا اور یہ طلبہ بہار و بنگال کی مشترکہ انجمن تھی۔ بعد میں صوبہ بنگال کی الگ انجمن قائم ہو گئی۔ ۱۹۵۰ء میں حضرت مولانا ابوالمحاسن سجاد کی طرف منسوب کر کے اس انجمن کا نام 'بزم سجاد' رکھا گیا۔ اس وقت یہ بہار، جھارکھنڈ، اڑیسہ اور نیپال کی مشترکہ انجمن ہے۔ یہ انجمن اس وقت دارالعلوم کی فعال انجمنوں میں سے ایک ہے۔ اس انجمن سے استفادہ کرنے والے بہت سے طلبہ ہندوستان کے مشاہیر علماء میں شمار کیے جاتے ہیں۔

اس وقت بزم سجاد کے زیر اہتمام ۲۴ ذیلی انجمنیں قائم اور سرگرم عمل ہیں۔ ہر جمعرات کو ان کے ہفتہ واری تقریری پروگرام ہوتے ہیں جن میں طلبہ ذوق و شوق سے شرکت کرتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھاتے ہیں۔ بزم سجاد کے شعبہ صحافت سے اردو جدارہ ماہنامہ 'البیان' اور عربی ماہنامہ 'الفضیلة' شائع ہوتے ہیں جب کہ ہفت روزہ اخبار 'آئینہ ایام' بھی نکلتا ہے۔ بزم سجاد سے منسلک ضلعی انجمنیں اپنے اردو ماہانہ جدارہ پرچے بھی نکالتی ہیں۔ بزم سجاد ہر سال تقریری اور تحریری مسابقت بھی منعقد کرتی ہے جس میں متعلقہ صوبہ جات کے طلبہ حصہ لیتے ہیں اور اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہونے والے طلبہ کو خصوصی انعامات اور دیگر کوششیں انعامات دیے جاتے ہیں۔ بزم سجاد کے تحت 'سجاد لائبریری' قائم ہے جس کی محلہ خانقاہ میں اپنی مستقل زمین اور عمارت ہے۔ اس لائبریری میں مختلف موضوعات کی چار ہزار سے زائد کتابیں طلبہ کے مطالعہ کے لیے موجود ہیں۔

دیگر انجمنیں

ان بڑی اور اہم انجمنوں کے علاوہ، دارالعلوم میں صوبہ یوپی اور بہار کے اہم اضلاع کی مستقل انجمنیں قائم ہیں۔ اسی طرح، صوبہ بنگال، صوبہ آسام، صوبہ مہاراشٹر، صوبہ گجرات، صوبہ راجستھان، صوبہ کیرالہ، صوبہ آندھرا پردیش، صوبہ کرناٹک، صوبہ تمل ناڈو، صوبہ جموں و کشمیر وغیرہ کی مستقل انجمنیں ہیں۔ اس کے علاوہ حیدرآباد، بھوپال، ممبئی، بنگلور، پالن پور، سورت وغیرہ کے طلبہ کی مستقل انجمنیں ہیں۔ بعض انجمنوں کی اپنی مستقل عمارتیں ہیں۔

ان انجمنوں کی سرگرمیوں کو تین اہم حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے: (۱) تقریر و خطابت (۲) تحریر و انشاء پردازی (۳) مطالعہ و تحقیق۔

تقریر و خطابت:

ہر انجمن کے تحت یہ شعبہ سب سے فعال ہوتا ہے۔ جمعرات کی شام کو بعد نماز مغرب یا بعد نماز عشاء اور بعض انجمنیں یوم جمعہ کو تقریری پروگرام منعقد کرتی ہیں۔ ناظم و صدر کے تحت یہ پروگرام منعقد ہوتا ہے۔ انجمن کا ہر فرد اس میں شرکت کا مجاز بلکہ پابند ہوتا ہے۔ طلبہ ہفتہ بھر درسیات سے فارغ اوقات میں تقریر کی باقاعدہ تیاری کر کے اس میں شرکت کرتے ہیں۔ تقریری پروگرام میں اردو کے علاوہ، ہر علاقہ کے طلبہ اپنی علاقائی زبانوں میں بھی تقریر کی مشق کرتے ہیں۔ جمعرات کی رات اور جمعہ کے بعد درسگاہوں میں طلبہ کی تقریری سرگرمیوں سے پورا احاطہ گونجتا ہے اور یہ منظر ہر وارد و صادر کو دعوتِ نظارہ دیتا ہے۔ دارالعلوم کی انجمنوں سے تقریر و خطابت کی مشق کر کے ایسے بے شمار علماء و فضلاء تیار ہوئے جنہوں نے ملک و بیرون ملک اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور اپنی علمی و دینی خدمات سے ملک و سماج کو فائدہ پہنچایا۔

انجمنوں کے افتتاحی اور سالانہ اجلاس بھی منعقد ہوتے ہیں جس میں طلبہ اپنی صلاحیت کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہیں۔ اساتذہ ان پروگراموں میں باقاعدہ شرکت کرتے ہیں اور طلبہ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ بیشتر انجمنوں کے ذریعہ سالانہ تقریری مسابقتی منعقد ہوتے ہیں اور پوزیشن لانے والے طلبہ کو انعام دیا جاتا ہے، جب کہ مسابقتی میں شرکت پر جمعی انجام بھی ہوتا ہے۔

تحریر و انشاء پردازی

انجمن کا دوسرا اہم شعبہ تحریر و انشاء پردازی کا ہوتا ہے۔ اس کے تحت ہر انجمن کا ماہانہ دیواری پرچہ نکلتا ہے جو عموماً آٹھ صفحات پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہر پرچے کا ایک ایڈیٹر، نائب ایڈیٹر اور معاونین ہوتے ہیں۔ ہر پرچے کی نگرانی کوئی نہ کوئی استاد کرتے ہیں۔ تمام افراد انجمن اپنی تحریری کاوشیں اس رسالے کے ذریعے منظر عام پر لاتے ہیں۔ اس طرح سے طلبہ کی تحریری مشق پختہ ہوتی رہتی ہے۔ احاطہ دارالعلوم میں ہر نو وارد کو اپنی طرف متوجہ کرنے والی چیز یہی پرچے ہوتے ہیں کیوں کہ صدر گیٹ سے ہی ان کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ احاطہ اہتمام اور احاطہ مولسری میں چاروں طرف یہ پرچے آویزاں کیے جاتے ہیں۔ یہ پرچے اردو کے علاوہ عربی و انگریزی اور دیگر علاقائی زبانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ سالانہ اجلاس سے قبل بیشتر انجمنوں کے ذریعہ سالانہ تحریری مسابقتی منعقد ہوتے ہیں اور پوزیشن لانے والے طلبہ کو انعام دیا جاتا ہے، جب کہ مسابقتی میں شرکت پر جمعی انجام بھی ہوتا ہے۔

مطالعہ و تحقیق

طلبہ کو علمی و فکری غذا پہنچانے اور تقریر و تحریر میں علمی مواد کی فراہمی کے لیے ہر انجمن کے تحت لائبریری ہوتی ہے، جس سے شرکائے انجمن مطالعہ کے لیے کتابیں حاصل کرتے ہیں۔ ان لائبریریوں میں مختلف اسلامی موضوعات پر اہم کتابوں کا کافی ذخیرہ ہوتا ہے جس سے طلبہ تقریر کی تیاری اور مضمون نگاری میں مدد لیتے ہیں۔ کتابوں کی ایک بڑی تعداد درسی کتابوں کی شروح پر مشتمل ہوتی ہے جس سے طلبہ حسب ضرورت استفادہ کرتے ہیں۔ ایک ایک انجمن کے تحت ہزاروں کتابیں ہوتی ہیں، یہاں تک کہ بعض اہم انجمنوں کی لائبریری میں موجود کتابیں بہت سے مدرسوں کے کتب خانوں کے برابر ہوتی ہوں گی۔ یہ کتابیں عموماً آہنی الماریوں میں سلیقے سے رکھی جاتی ہیں۔ متعدد انجمنوں کی اپنی عمارتیں ہیں جن میں ان کے دفتر اور لائبریریاں قائم ہیں۔

غرضیکہ دارالعلوم دیوبند میں انجمنوں کا نظام اس کے تعلیمی نظام کی طرح ایک مبارک و مسعود سلسلہ ہے جس سے وابستہ ہو کر طالبان علوم دینیہ استفادہ کر کے اپنی ذہنی و فکری، تقریری و تحریری اور علمی و تحقیقی صلاحیتوں کی آبیاری کرتے ہیں۔

ماخذ:

- دارالعلوم دیوبند: شاندار ماضی، تابناک حال اور روشن مستقبل، شعبہ نشر و اشاعت، دارالعلوم دیوبند، ۱۴۱۵ھ
- روزنامہ الجمعیتہ دہلی، دارالعلوم دیوبند نمبر، ۲۶ مارچ ۱۹۸۰ء، ص ۲۰۲ تا ۲۰۹
- وہ کوہ کن کی بات، مولانا نور عالم خلیل امینی، ادارہ علم و ادب، دیوبند، ۲۰۰۰ء، ص ۸۰ تا ۱۰۲
- دارالعلوم دیوبند کا صحافتی منظر نامہ، نایاب حسن قاسمی، ادارہ تحقیق اسلامی دیوبند، ص ۱۲۹ تا ۱۳۹
- بزم سجاد کا تعارف نامہ، ناشر: سجاد لائبریری، سن طباعت ۱۴۳۸ھ مطابق ۲۰۱۷ء

چھٹا باب

خدمات دارالعلوم دیوبند

- دارالعلوم دیوبند: تجدید دین کی عالم گیر تحریک _____ ۲۹۷
- دارالعلوم دیوبند: دینی تعلیمی تحریک کا بین الاقوامی مرکز _____ ۳۰۶
- علمائے دیوبند اور تحفظ دین کی خدمات _____ ۳۱۲
- علمائے دیوبند اور عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ _____ ۳۱۹
- علمائے دیوبند اور ردِ شیعیت _____ ۳۲۸
- علمائے دیوبند اور شرک و بدعت کا مقابلہ _____ ۳۲۲
- علمائے دیوبند اور فتنہ عدم تقلید کا تعاقب _____ ۳۲۳
- غیر اسلامی افکار و تحریکات کے خلاف علمائے دیوبند کی خدمات _____ ۳۵۱
- علمائے دیوبند کی اصلاحی اور تبلیغی خدمات _____ ۳۵۸
- علمائے دیوبند کی قرآنی خدمات _____ ۳۶۵
- علمائے دیوبند اور خدمتِ حدیث _____ ۳۷۴
- علمائے دیوبند کی فقہی خدمات _____ ۳۸۵
- علمائے دیوبند اور خدماتِ عربی زبان و ادب _____ ۳۹۷
- علمائے دیوبند اور اردو زبان _____ ۴۰۷
- تحریک آزادی ہند اور علمائے دیوبند _____ ۴۱۶
- علمائے دیوبند کی ملی و سماجی خدمات _____ ۴۲۶

دارالعلوم دیوبند: تجدید دین کی عالم گیر تحریک

انیسویں صدی عیسوی میں یورپی استعمار کی چیرہ دستیوں اور پوری دنیا خصوصاً عالم اسلام پر تصرف اور قبضہ سے ایک عالمگیر سیاسی، سماجی اور دینی بحران پیدا ہو چکا تھا۔ یورپی استعمار اپنے ساتھ عیسائیت اور الحاد و بے دینی کا ایک سیلاب بلا خیز بھی ساتھ لارہا تھا۔ پورے عالم اسلام کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو معلوم ہوگا کہ اس وقت مسلمانوں کی قوت فکر و عمل مفلوج ہو کر رہ گئی تھی اور انڈونیشیا سے مراکش تک کے طول و عرض میں کوئی قابل ذکر تحریک موجود نہ تھی جو اس نازک صورت حال میں مغربی استعمار اور الحاد کے خلاف آہنی دیوار بن کر کھڑی ہو جاتی۔ ایسے نازک دور اور عالمگیر سناٹے میں پہلی صدائے حق دیوبند سے اٹھی جو اگرچہ ابتدا میں ہلکی اور نجیف تھی لیکن آہستہ آہستہ وہ الحاد و بے دینی اور ظلم و بربریت کے ہولناک سناٹے کو چیرتی چلی گئی اور نصف صدی کے اندر اندر پوری دنیا میں اس کا ڈنکا بجنے لگا:

تا ابد گوشِ جہاں زمزمہ زا خواہد بود
زیں نواہا کہ دریں گنبدِ گردوں زدہ ایم

عالم اسلام کی مؤثر ترین دینی تحریک

یہ ایک نمایاں حقیقت ہے کہ مسلمانوں کی حیات اجتماعی کی نشاۃ ثانیہ کی تاریخ میں دارالعلوم کی مسلسل تعلیمی اور تبلیغی جدوجہد کا بڑا حصہ ہے۔ دارالعلوم کی طویل زندگی میں حوادث کے کتنے ہی طوفان اٹھے اور حالات و سیاسیات میں کتنے ہی انقلاب آئے مگر یہ ادارہ جن مقاصد کو لے کر عالم وجود میں آیا تھا، انتہائی استقلال اور ثابت قدمی کے ساتھ ان کی تکمیل میں سرگرم عمل رہا۔ فکر و خیال کے ان ہنگاموں اور فتنہ مغرب میں ڈوبی ہوئی تحریکوں کے دور میں اگر بالعموم مدارس عربیہ اور بالخصوص دارالعلوم جیسے ادارے کا وجود نہ ہوتا تو نہیں کہا جاسکتا کہ آج مسلمان جو دو بے حسی کے کس گردابِ عظیم میں پھنسے ہوئے ہوتے۔ ارشاد و تلقین، تبلیغ و تذکیر، تعلیم و تربیت اور اصلاحِ خلق کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں دارالعلوم کے فضلا مصروف عمل نہ ہوں اور ملت اسلامیہ کی اصلاح و تربیت میں انھوں نے اہم کردار ادا نہ کیا ہو، دعوت و ارشاد اور وعظ و تبلیغ کے بڑے بڑے جلسوں کی رونق اس وقت برصغیر میں دارالعلوم ہی کے گرامی قدر علماء کے دم سے قائم ہے۔ بڑے بڑے مدارس اسلامیہ کی مسند تدریس کی زینت آج یہی اصحاب ہیں۔

دارالعلوم دیوبند صرف ایک تعلیم گاہ ہی نہیں بلکہ درحقیقت ایک مستقل تحریک اور تجدید دین کا مرکز ہے جس سے ہندو پاک اور بنگلہ دیش کے علاوہ پورے ایشیا، مشرقی و جنوبی افریقہ اور یورپ و امریکہ کے کروڑہا کروڑ مسلمان وابستہ ہیں اور اسے اپنا علمی و فکری مرکز سمجھتے ہیں۔ الحمد للہ دارالعلوم دیوبند کا علمی و فکری فیض ایشیا سے گذر کر افریقہ، یورپ اور امریکہ تک پہنچ چکا ہے۔ ان علاقوں میں دارالعلوم کے فیض یافتہ افراد دینی و علمی خدمات انجام دے رہے ہیں اور مرکزی شہروں اور دیہاتوں میں دارالعلوم کے طرز پر اسلامی درس گاہیں کھل چکی ہیں۔

برصغیر میں احیائے اسلام کا مرکز

دارالعلوم دیوبند نے برصغیر کے مسلمانوں کی دینی زندگی میں ان کو ایک ممتاز مقام پر پہنچانے کا بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، یہ نہ صرف ایک بین الاقوامی تعلیمی ادارہ ہے بلکہ ذہنی نشوونما، تہذیبی ارتقا اور ملی حوصلہ مند یوں کا ایک ایسا مرکز بھی ہے جس کے صحیح علم، بلند کردار اور نیک نیتی پر مسلمانوں کو ہمیشہ بھروسہ اور فخر رہا ہے۔ جس طرح عربوں نے ایک زمانے میں یونانیوں کے علوم کو ضائع ہونے سے بچایا تھا ٹھیک اسی طرح دارالعلوم دیوبند نے اس زمانے میں علوم اسلامیہ بالخصوص علم حدیث کے تحفظ و اشاعت کی جو گراں قدر خدمت انجام دی ہے وہ اسلام کی علمی تاریخ میں ایک زریں کارنامے کی حیثیت رکھتی ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے ہندوستان میں نہ صرف دینی علوم اور اسلامی قدروں کی بقا و تحفظ کے زبردست اسباب فراہم کئے ہیں بلکہ اس نے تیرہویں صدی ہجری کے اواخر اور چودہویں صدی ہجری کی معاشرتی اور سیاسی زندگی پر بھی بہت دور رس اور نتیجہ خیز اثرات ڈالے ہیں۔

ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد جب انگریزوں نے اپنے سیاسی مصالح کے پیش نظر اسلامی علوم و فنون کی قدیم درس گاہوں کو یکسر ختم کر دیا تھا اس وقت ضرورت تھی کہ نہ صرف اسلامی علوم و فنون اور اسلامی تہذیب کی بقا کے لئے بلکہ مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت کے لئے ایک تحریک شروع کی جائے جو مسلمانوں کو الحاد و بے دینی کے فتنہ عظیم سے محفوظ رکھ سکے۔ اس وقت اسلام کے تحفظ کی تمام ذمہ داری علمائے کرام کے کاندھوں پر تھی، کیوں کہ اسلامی حکومت کا شیرازہ بکھر چکا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ علمائے کرام نے اپنا فرض انجام دینے میں کوئی کوتاہی نہیں کی اور مسلمانوں کی تمام توقعات دارالعلوم دیوبند کے ذریعہ بدرجہ اتم پوری ہوئیں۔

دارالعلوم دیوبند سے جو افراد فارغ ہوئے انھوں نے تعلیم و تبلیغ، تزکیہ اخلاق، تصنیف و تالیف، فقہ و فتاویٰ، مناظرہ و خطابت، صحافت و تذکیر اور حکمت و طب وغیرہ میں جو پیش بہا خدمات انجام دی ہیں وہ کسی مخصوص خطے تک محدود نہیں ہیں، بلکہ ہندو پاک کے ہر خطہ کے علاوہ بیرونی ممالک میں بھی پھیل چکی ہیں۔ دارالعلوم نے اپنے یوم قیام سے اب تک برصغیر کے کونے کونے اور دنیا بھر کے مرکزی اور بڑے شہروں میں اپنے فرزند ان رشید کو پہنچا دیا ہے جو پورے خطے میں آفتاب و ماہتاب بن کر چمک رہے ہیں اور مخلوق خدا کو ظلمت و جہل سے نکال کر نورِ علم سے مالا مال کر رہے ہیں۔

دارالعلوم دیوبند نے جہاں ایک طرف مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے صحیح الفکر علماء و فضلاء

پیدا کیے وہیں مدارس اسلامیہ کے وسیع نظام کے ساتھ دین اسلام کی اشاعت کا سامان بھی پیدا کیا۔ برصغیر کی کچھلی ڈیڑھ سو سالہ دینی و سماجی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو معلوم ہوگا کہ برصغیر کے مسلمانوں کی زندگی میں سب سے زیادہ مثبت اثر دارالعلوم کی تحریک سے پیدا ہوا ہے اور مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں سب سے زیادہ حصہ علمائے دیوبند کی علمی و دینی کوششوں کا رہا ہے۔

عالمی دینی تعلیمی تحریک کا مرکز

ہندوستان میں برطانوی نظام تعلیم کے جاری ہونے کے بعد جب یہاں ایک نئی تہذیب اور نئے دور کا آغاز ہو رہا تھا تو اس نازک وقت میں دارالعلوم کے اکابر نے دینی تعلیم اور مدارس اسلامیہ کے قیام کی تحریک شروع کر دی، خدا کے فضل و کرم سے ان کی تحریک مسلمانوں میں مقبول ہوئی، چنانچہ برصغیر میں جگہ جگہ دینی مدارس جاری ہو گئے اور یہ سلسلہ ایک وسیع نیٹ ورک کی شکل میں روز بروز وسعت پذیر ہے۔ بہت ہی قلیل مدت میں دارالعلوم کی شہرت بام عروج کو پہنچ گئی اور بہت جلد دارالعلوم نہ صرف متحدہ ہندوستان (بشمول پاکستان و بنگلہ دیش) بلکہ افغانستان، وسط ایشیا، انڈونیشیا، ملیشیا، برما، تبت، سیلون اور مشرقی و جنوبی افریقہ، یورپ، امریکہ و آسٹریلیا کے ممالک کے مسلمانوں کے لیے ایک بین الاقوامی دینی تعلیم کی تحریک کا مرکز بن گیا۔

اس وقت سے لے کر اب تک برصغیر کے طول و عرض میں بجز اللہ بے شمار دینی مدارس جاری ہو چکے ہیں، اور روز بروز ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جو مدرسے دارالعلوم کے مزاج و مذاق سے ہٹے ہوئے ہیں یا دارالعلوم کے نصاب تعلیم کی اتباع نہیں کرتے ہیں ان کا نظام بھی دارالعلوم کے وضع کردہ بنیادی اصولوں پر قائم ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ آج برصغیر میں جس قدر بھی دینی مدارس نظر آتے ہیں ان میں سے بیشتر وہی ہیں جو دارالعلوم دیوبند کے نقش قدم پر یا اس کے قائم کردہ اثرات سے جاری ہوئے ہیں؛ اس طرح دارالعلوم دیوبند کا وجود اسلام کی جدید تاریخ میں ایک عہد آفریں حیثیت رکھتا ہے، اور یہیں سے اس وقت پورے برصغیر میں دینی تعلیم گاہوں کا جال پھیلا ہوا ہے۔ ہندوستان میں موجود مدارس کا کوئی حتمی اعداد و شمار موجود نہیں تاہم چھوٹے بڑے مدارس کی تعداد ایک اندازے کے مطابق دس ہزار سے زائد ہے۔ یہ تعداد ان لاکھوں مکاتب کے علاوہ ہے جو تقریباً ہر مسجد اور مسلم محلہ میں قائم ہوتے ہیں۔

ہندوستان کے علاوہ، پاکستان اور بنگلہ دیش کے چھپے چھپے میں بھی اسی نچ پر ہزاروں مدرسے قائم ہیں جن کے ایک ایک بڑے مدرسے میں ہزاروں طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ پاکستان میں وفاق المدارس کے تحت دس ہزار کے قریب مدارس کا متحدہ پلیٹ فارم بھی قائم ہے جن میں اکثریت دیوبندی مدارس کی ہے۔ اسی طرح بنگلہ دیش میں بھی دینی مدارس ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں۔ ہندو پاک اور بنگلہ دیش کے علاوہ برصغیر کے قریب دیگر ملکوں جیسے مشرق میں برما، شمال میں نیپال، مغرب میں افغانستان و ایران اور جنوب میں سری لنکا وغیرہ میں بھی کافی مدارس دارالعلوم

کے طرز پر قائم ہیں۔ ان مدارس سے ہزاروں علماء ہر سال فارغ ہو کر معاشرہ میں علم کی روشنی پھیلاتے ہیں۔ براعظم افریقہ کے جنوبی ملکوں خصوصاً ساؤتھ افریقہ میں دارالعلوم کے طرز کے سیکڑوں چھوٹے بڑے مدارس قائم ہیں۔ اسی طرح براعظم یورپ میں خصوصاً برطانیہ میں متعدد بڑے دارالعلوم اور مدارس قائم ہیں۔ بحر اطلانتک کے اس پار ریاستہائے متحدہ امریکہ، کناڈا اور ویسٹ انڈیز میں بھی دارالعلوم قائم ہو چکے ہیں اور دارالعلوم کے نہج پر علوم دینیہ کی تدریس و اشاعت میں مشغول ہیں۔ دوسری طرف مشرق میں آسٹریلیا، فیجی، نیوزی لینڈ وغیرہ میں بھی الحمد للہ دارالعلوم دیوبند کے نہج پر مدارس قائم ہیں۔

دفاع اسلام کا مضبوط قلعہ

دین اسلام کے بنیادی عقائد کی حفاظت، اسلامی افکار و روایات کی پاسداری اور تمام فرق باطلہ اور افکار فاسدہ سے اسلام کا دفاع دارالعلوم دیوبند کے اکابر اور فضلاء کا طغرائے امتیاز رہا ہے۔ ہندوستان میں برطانوی استعمار کی نحوست سے مسلمانوں کو نئے نئے فتنوں سے واسطہ پڑا، اسلام دشمن طاقتوں نے مسلمانوں میں افتراق و انتشار پیدا کرنے کے لیے باطل افکار و فرق کو خوب خوب پھیلنے پھولنے کا موقع دیا۔ خود مسلمانوں کی ایک بڑی اکثریت زوال اقتدار کے ساتھ دینی و اخلاقی زوال سے دو چار تھی۔ مسلمانوں کے عقائد و افکار میں تزلزل اور اضطراب پیدا ہو چکا تھا۔ اس نازک دور میں جب مسلمان سیاسی جنگ ہار چکا تھا، ایک طرف عیسائیت پوری قوت کے ساتھ حملہ آور تھی، آریہ سماجیوں اور ہندوؤں کی یلغار تھی، تو دوسری طرف خود مسلمانوں کی صفوں سے ایسے افراد اور جماعتیں جنم لے رہی تھیں جو مختلف زاویوں سے اسلام کی جڑیں کھوکھلی کرنے میں لگی ہوئی تھیں۔

دارالعلوم دیوبند اپنے روز قیام سے اسلام کے دفاع میں تمام فرق باطلہ و افکار فاسدہ کے خلاف سد سکندری کی طرح ڈٹا رہا اور حدیث مبارک *یحمل هذا العلم من کل خلف عدولہ ینفون عنہم تحریف الغالین و انتحال المبطلین و تاویل الجاہلین*، طبرانی (ہر آئندہ نسل میں سے اس علم کے حامل ایسے عادل لوگ ہوتے رہیں گے جو اس سے غلو کرنے والوں کی تحریف، باطل پرستوں کے غلط انتساب اور جاہلوں کی تاویل کو دور کرتے رہیں) کے مطابق دینی عقائد و تعلیمات کا بھرپور دفاع کیا اور قرآن و حدیث اور صحابہ و سلف سے آنے والے متواتر دین کو اس کی اصلی حالت میں نئی نسلوں تک پہنچایا۔ علمائے دیوبند کو اس فرض کو انجام دینے میں مختلف محاذوں پر بیک وقت لڑنا پڑا۔ حضرات علمائے دیوبند نے افکار فاسدہ اور فرق ضالہ کے رد کے سلسلے میں نہایت اعتدال اور توازن سے کام لیا؛ ایک طرف اسلامی عقائد و اعمال کی حفاظت کا فریضہ ادا کرنا ان کا مقصد تھا، وہیں دوسری طرف مختلف فکر کے ماننے والے مسلمانوں کے تئیں ان کے دل میں دل سوزی، مخلصانہ اصلاح اور نصیحت و خیر خواہی کا جذبہ موجزن تھا، یہی وجہ ہے کہ حضرات اکابرین دیوبند کی تحریر و تقریر میں متانت و سنجیدگی، علمی بنیادوں پر اختلاف اور اعتدال و توازن کا عنصر بہت نمایاں ہوتا تھا۔

عیسائیت کا مقابلہ

ہندوستان پر انگریزی تسلط کے بعد عیسائی مشنریاں برصغیر میں اس زعم سے داخل ہوئی تھیں کہ وہ ایک فاتح قوم ہیں اور مفتوح قومیں فاتح قوم کی تہذیب کو آسانی سے قبول کر لیتی ہیں۔ انھوں نے پوری کوشش کی کہ مسلمانوں کے دل و دماغ سے اسلام کے تہذیبی نقوش مٹادیں یا کم از کم انہیں ہلکا کر دیں تاکہ بعد میں انہیں اپنے اندر ضم کیا جاسکے اور اگر وہ عیسائی نہ بن سکیں تو اتنا تو ہو کہ وہ مسلمان بھی نہ رہ جائیں۔ اس محاذ پر دارالعلوم اور اکابر دیوبند نے عیسائی مشنری اور مسیحی مبلغین سے پوری علمی قوت سے ٹکرائی اور نہ صرف علم و استدلال سے ان کے حملے پسپا کر دیئے بلکہ عیسائی تہذیب اور ان کے مذہبی ماخذ پر کھلی تنقید کی اس سلسلے میں حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانویؒ کی خدمات سے علمی دنیا اچھی طرح واقف ہے۔

ہندو احواء پرستی کا مقابلہ

ہندوستان میں ایک بڑی تعداد ایسے مسلمانوں کی تھی جن کے آباء و اجداد نے کسی زمانے میں ہندو مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کیا تھا۔ انگریزوں نے سیاسی اقتدار پر تسلط جمالینے کے بعد یہاں کے ہندوؤں کو اکسایا کہ یہ مسلمان جو کسی زمانہ میں تمہاری ہی قوم کے ایک حصہ تھے اس لیے اپنی عددی قوت کو بڑھانے کے لیے انہیں دوبارہ ہندو بنانے کی کوشش کرو چناں چہ انگریزوں کی خفیہ سرپرستی میں آریہ سماج کے ذریعہ مسلمانوں کو مرتد کرنے کی تحریک پوری قوت سے شروع ہو گئی۔ اسلام کے خلاف اس فکری محاذ پر حالات سے ادنیٰ مرعوبیت کے بغیر اکابر دارالعلوم نے اسلام کا کامیاب دفاع کیا۔ تقریر و تحریر، بحث و مناظرہ اور علمی و دینی اثر و نفوذ سے اس ارتدادی تحریک کو آگے بڑھنے سے روک دیا بالخصوص علمائے دیوبند کے سرخیل اور قائد و امام حضرت حجۃ الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتویؒ نے اس سلسلے میں نہایت اہم و مؤثر خدمات انجام دیں برصغیر کی مذہبی و سماجی تاریخ کا ایک معمولی طالب علم بھی حضرت موصوف کی ان خدمات جلیلہ سے پوری طرح واقف ہے۔ تقسیم ہند کے قیامت خیز حالات میں جب کہ برصغیر کا اکثر حصہ خون کے دریا میں ڈوب گیا تھا اس ہولناک دور میں بھی شدھی و سنگٹھن کے نام سے مسلمانوں کو مرتد کرنے کی ایمان سوز تحریک برپا کی گئی۔ اس موقع پر بھی علمائے دیوبند وقت کے خونی منظر سے بے پروا ہو کر میدان میں کود پڑے اور خدائے رب العزت کی مدد و نصرت سے ارتداد کے اس سیلاب سے مسلمانوں کو بحفاظت نکال لے گئے۔

قادیا نیت کا مقابلہ

الحمد للہ علمائے دیوبند کو یہ فخر حاصل ہے کہ جب ختم نبوت کے عظیم بنیادی عقیدہ پر یلغار کی گئی اور انگریز کی خانہ ساز نبوت مسلمانوں کو ارتداد کی دعوت دینے لگی تو علمائے دیوبند سب سے پہلے پوری قوت کے ساتھ میدان

میں آئے اور مسلمانوں کو اس ارتدادی فتنہ سے خبردار کیا۔ اکابر دارالعلوم اور اساطین علمائے دیوبند نے اپنی گراں قدر علمی تصانیف، موثر تقاریر اور لاجواب مناظروں سے انگریزی نبوت کے دجل و فریب کا اس طرح پردہ چاک کیا اور ہر محاذ پر ایسا کامیاب تعاقب کیا کہ اسے اپنے مولد و منشاء لندن میں محصور ہو جانا پڑا۔ علمائے دیوبند کے علمی و فکری مرکز دارالعلوم دیوبند کی زیر نگرانی حریم ختم نبوت کی پاسبانی کی یہ مبارک خدمت پوری تو انائیوں کے ساتھ آج بھی جاری و ساری ہے۔

شیعیت کا مقابلہ

دارالعلوم ایک ایسے وقت میں قائم ہوا جب کہ انگریزوں نے لکھنؤ وغیرہ کی شیعہ حکومت کا ۱۸۵۷ء میں الحاق کر کے اس کا وجود مٹا دیا تھا، لیکن اودھ کی شیعہ حکومت اور سلطنت مغلیہ میں شیعہوں کے گہرے اثرات کی وجہ سے ان کے مذہبی عقائد کی چھاپ بالخصوص پورے شمالی ہند اور بالعموم سارے ہندوستان پر پڑ گئی تھی۔ پورے ہندوستان میں شیعہ عقائد اور ان کے مشرکانہ رسوم غیر شیعہ مسلمانوں کے دل و دماغ میں اس قدر رچ بس گئے تھے کہ اگرچہ ان کو صحیح طور پر کلمہ شہادت بھی ادا کرنا نہ آتا ہو، مگر وہ تعزیر داری اور اس کے ساتھ عقیدت مندی کا والہانہ جذبہ سینوں میں موج زن رکھتے تھے اور اس کو اپنے مسلمان ہونے کی سند سمجھتے تھے۔ حیرت ناک بات یہ تھی کہ شیعہ اتنے بڑے ملک میں سینوں کے مقابل میں مٹھی بھرتے لیکن کروڑوں اہل سنت و الجماعت مسلمانوں کے دلوں میں شیعہوں نے اپنے سارے عقائد و مراسم، جذبات و خیالات کی چھاپ ڈال دی تھی اور پورے ہندوستان کو شیعیت کے رنگ میں رنگ دیا تھا۔ علمائے دیوبند کا یہ قابل فخر کارنامہ ہے کہ انھوں نے برصغیر کو شیعہوں کے ہمہ گیر اثرات سے پاک کیا اور اہل سنت و الجماعت کے عقائد و افکار کی حفاظت و اشاعت کا عظیم الشان کارنامہ انجام دیا۔ علمائے دیوبند نے کتابوں، فتاویٰ اور بیانات کے ذریعہ امت مسلمہ کی بھرپور رہنمائی فرمائی۔

شُرک و بدعت کا مقابلہ

یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام جب ہندوستان پہنچا تو یہاں کی قدیم تہذیب و تمدن، رسم و رواج، طور و طریق، ذہن و مزاج اور مذہبی تعلیمات و روایات پر اس نے زبردست اثر ڈالا، لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی ناقابل انکار حقیقت ہے کہ ہندو تہذیب نے بھی مسلم تہذیب کو کم متاثر نہیں کیا ہے۔ یہ اثرات مسلم سماج میں اس طرح پیوست ہو کر رہ گئے کہ آج یہ احساس بھی مٹ گیا کہ یہ رسم و رواج اور طور و طریق اسلامی معاشرہ میں غیر مسلموں سے آئے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ علمائے سوء دنیا کمانے کے لیے شرک و بدعت کی تائید میں سامنے آگئے اور انھوں نے مستقل فرقہ کی شکل اختیار کر لی۔ علمائے دیوبند نے احقاق حق اور ابطال باطل کا فرض پوری دیانت داری سے ادا کرتے ہوئے پورے ملک میں اہل بدعت کا مقابلہ کیا، ان سے مناظرے کیے اور عوام پر حق واضح کیا۔ اس سلسلہ میں حضرت

مولانا رشید احمد گنگوہیؒ، حضرت مولانا خلیل احمد محدث سہارنپوریؒ، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ، حضرت مولانا مرتضیٰ حسن چاند پوریؒ وغیرہ نے ناقابل فراموش خدمات انجام دیں اور ان کے اخلاف کے ذریعہ اصلاح عقائد و اعمال کا یہ مبارک سلسلہ اب بھی جاری ہے۔

غیر مقلدیت کا مقابلہ

تاریخ شاہد ہے کہ ہندوستان کی تقریباً تمام اہم مسلم حکومتوں نے مذہب حنفی کا اتباع کیا اور فقہ حنفی ہی تمام قوانین و ضوابط کی بنیاد بنا رہا۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی غالب اکثریت مذہب حنفی کی پابند تھی۔ پوری مسلم تاریخ میں تقلید سے انحراف، اسلامی روایات سے بغاوت اور سلف صالحین سے نفرت و کدورت کا کوئی قابل ذکر ثبوت نہیں ملتا۔ لیکن آخری زمانے میں جب سلطنت مغلیہ رو بہ زوال تھی اور ہندوستان میں انگریزوں کے ناپاک قدم پڑ چکے تھے، اس وقت نئی جماعتوں نے جنم لینا شروع کیا۔ عدم تقلید کا فتنہ بھی اسی تاریک زمانے کی پیداوار تھا۔ اس فرقہ نے بالکل خارجیوں جیسا طریقہ کار اپنا کر نصوص فقہی کے سلسلہ میں سلف صالحین کے مسلمہ علمی منہاج کو پس پشت ڈال کر اپنے علم و فہم کو حق کا معیار قرار دے کر اجتہادی اور مختلف فیہ مسائل کو اولیٰ وغیر اولیٰ کی حدود سے نکال کر حق و باطل اور ہدایت و ضلالت کے درجہ میں پہنچا دیا، اور وہ فرد و طبقہ جو ان کی اس غلط فکر سے ہم آہنگ نہیں تھا اس کو وہ ہدایت سے عاری، مبتدع، ضال و مضل اور فرقہ ناجیہ بلکہ دین اسلام سے ہی خارج قرار دے دیا۔ علمائے دیوبند نے عمل بالحدیث کے نام سے اباحت، ذہنی آزادی اور نفس پرستی کے اس فتنہ کا بھرپور مقابلہ کیا اور غیر مقلدین کے ذریعہ اٹھائے گئے مسائل پر ان حضرات نے عظیم الشان تحقیقی مواد یکجا کر دیا۔ پچھلی دہائیوں میں عالم عرب خصوصاً سعودی عرب میں تیل کی دولت کے ظہور کے بعد جب اس فتنے نے دوبارہ نہایت شد و مد کے ساتھ بال و پر نکالنے شروع کیے اور عرب کی سلفی و وہابی تحریک سے ہم رنگ ہو کر اور وہاں سے مالی امداد پا کر ہندوستان میں دوبارہ افتراق بین الامت کی کوششیں شروع کیں تو پھر علمائے دیوبند میدان میں آگئے اور انہوں نے علم و تحقیق کی سطح پر غیر مقلدین کی ہفوات کا جواب دینے کے ساتھ پورے ملک میں جلسوں اور کانفرنسوں کے ذریعہ عوام کو اس فتنہ سے باخبر کیا۔

نیچریت اور غیر اسلامی افکار و خیالات کا مقابلہ

اٹھارہویں صدی میں یورپ سے اٹھنے والے اقتصادی اور سائنسی انقلاب میں جہاں سماجی و سیاسی اور تجارتی و اقتصادی سطح پر بہت ساری مثبت تبدیلیاں وجود میں آئیں، وہیں مذہبی دنیا میں اس نے کھرام پھا کر دیا۔ یورپ کا سائنسی انقلاب دراصل مذہب یعنی عیسائیت سے بغاوت ہی کے بعد وجود میں آیا تھا کیوں کہ عیسائیت علم و سائنس کی ترقیات کے راستے میں رکاوٹ تھی۔ یورپ کے مذہب بیزار انقلابیوں نے بالآخر مذہب کو فعال اور معاشرتی

زندگی سے نکال کر اسے چرچوں اور انفرادی زندگیوں تک محدود کر دیا۔ مذہب کو ناکارہ، فرسودہ اور ازکار رفتہ سمجھ کر زندگی کے ہر گوشے کو سیکولرزم (لامذہبیت یا مذہب بیزاری) اور تعقل کے پہلو سے دیکھنے اور پرکھنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ مسلمانوں میں پیدا ہونے والے اس عقل پرست نظریہ نے جہاں ایک طرف جدید معتزلہ اور نیچری پیدا کیے، وہیں اسی فکر کے پیٹ سے انکار حدیث کے فتنے نے جنم لیا۔ اخیر زمانے میں تجدید پسندی اور مودودیت بھی اسی فکر کا شاخسانہ تھے۔ علمائے دیوبند نے مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت اور اسلامی حدود کی پاسبانی کا فریضہ انجام دیتے ہوئے ان باطل افکار و خیالات سے بھی نکل لی۔ انھوں نے دین کے صحیح فہم، اسلامی اصطلاحات و روایات کی سلیم تعبیر اور ہر دور میں اسلامی تعلیمات کی ابدی حقانیت و معنویت کو ثابت کیا۔

ان تمام تحریکات کے علاوہ جب بھی کسی فرد یا جماعت نے ما انا علیہ و اوصحابی کے جادہ مستقیم سے انحراف کیا اور ملت اسلامیہ کے اندر غلط افکار و نظریات کے سرایت کر جانے کا اندیشہ ہوا تو علمائے دیوبند کی جانب سے ہمیشہ ان پر تکبیر کی گئی۔ غلط عقائد کا سدباب کیا گیا اور اس کی جگہ صحیح و متواتر اسلام پیش کرنے کی خدمات انجام دی گئیں۔ علمائے دیوبند کی انھیں مبارک کوششوں سے الحمد للہ آج ہندوستان میں دین اسلام اپنی پوری صحیح شکل میں نہ صرف موجود ہے بلکہ مدارس اسلامیہ، جماعت تبلیغ اور دینی اداروں کی برکت سے آج ہندوستان عالم اسلام کے اندر مستند دینی تعلیمات اور صحیح اسلامی روایات کے تحفظ و اشاعت میں سب سے ممتاز نظر آتا ہے۔

مرکز تجدید و احیائے دین

انیسویں صدی کے استعماری دور میں اکابر دیوبند نے اپنی علمی و دینی بصیرت سے اس حقیقت کا پورا ادراک کر لیا تھا کہ سماجی و اقتصادی تبدیلیاں جب اقتدار کے زیر سایہ پروان چڑھتی ہیں تو دینی و روحانی قدروں کی زمین بھی ہل جاتی ہے اس باب میں عثمانی ترکوں کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ ترک قوم مغربی تہذیب کے طوفان میں اپنے آپ کو سنبھال نہ سکی اور مصطفیٰ کمال کی قیادت میں اپنے ماضی سے کٹ گئی جس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ ترک اسلامی تہذیب، مغربیت میں فنا ہو گئی اور ایک عظیم اسلامی سلطنت کا صفحہ ہستی سے وجود ختم ہو گیا۔ الغرض تہذیب اسلام کے لیے یہ نہایت نازک وقت تھا۔ تاریخ کے اس انتہائی خطرناک موڑ پر اکابر دیوبند کے سامنے وقت کی سب سے بڑی ضرورت یہ تھی کہ اسلامی تہذیب کو مغربیت کے اس سیلاب سے محفوظ رکھا جائے اور مسلمانوں کے دین و مذہب کا تحفظ کر کے انھیں ارتداد سے بچایا جائے۔ اس مقصد کے لیے انھوں نے پوری بیدار مغزی و ژرف نگاہی سے ہر اس محاذ کو متعین کیا جہاں سے مسلمانوں پر فکری و عملی یلغار ہو سکتی تھی اور پھر اپنی بساط کی حد تک حکمت و تدبیر کے ساتھ ہر محاذ پر دفاعی خدمات انجام دیں۔

اپنی پوری تاریخ میں دارالعلوم نے ہندوستانی مسلمانوں کو جہاں ایک طرف سماجی زندگی کا ترقی یافتہ شعور دیا ہے، تو دوسری طرف انھیں فکر و عمل کا توازن بخشا ہے، آج مسلمانوں کا جو طبقہ اسلامی نظریات کی معقول تعبیر،

اسلامی افکار کی اطمینان بخش توجیہ اور صحیح اسلامی زندگی اختیار کئے ہوئے ہے وہ دارالعلوم کی ڈیڑھ سو سالہ علمی و عملی جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ عام روایات کے برخلاف یہاں کا مذہبی رجحان کبھی رجعت پسند نہیں رہا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دارالعلوم ایک ایسا تعلیمی ادارہ ہے جو قدیم و جدید کے حسین سنگم پر قائم ہے اور جس کی اپنی شان دار روایت اس کے تابناک ماضی کی نقیب اور اس کے عظیم مستقبل کی پیامبر ہے۔

حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانویؒ نے دارالعلوم دیوبند کی ہمہ جہت خدمات کو 'تجدید دین' کا عنوان دیتے ہوئے لکھا ہے:

”تجدید و احیائے دین کی جو تحریک گیارہویں صدی سے ہندوستان کو منتقل ہوئی تھی اور اپنے اپنے دور میں مجدد الف ثانی، (شاہ ولی اللہ) محدث دہلوی اور شہید بالا کوٹ (سید احمد شہید) جس امانت کے حامل تھے، دارالعلوم دیوبند اس وراثت و امانت کا حامل بنا۔ لوگ دارالعلوم کو مختلف زاویہ سے دیکھتے ہیں؛ کوئی اسے علوم اسلامیہ کی یونیورسٹی سمجھتا ہے، کوئی اسے جہاد حریت کے مجاہدین کی تربیت گاہ قرار دیتا ہے، کوئی اسے دعوت و عزیمت اور سلوک و تصوف کا مرکز سمجھتا ہے، لیکن میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحبؒ کے لفظوں میں اس کو بقائے اسلام اور تحفظ دین کا ذریعہ سمجھتا ہوں۔ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجددین امت کا جو سلسلہ چلا آ رہا تھا، دارالعلوم دیوبند اپنے دور کے لیے مجددین امت کی تربیت گاہ تھی۔ یہیں سے مجدد اسلام حکیم الامت حضرت تھانویؒ نکلے۔ اسی سے دعوت و تبلیغ کی تجدیدی تحریک ابھری جس کی شاخیں چار دانگ عالم میں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہیں سے تحریک حریت کے داعی تیار ہوئے، یہیں سے فرق باطلہ کا توڑ کیا گیا۔ یہیں سے محدثین، مفسرین، فقہاء اور متکلمین کی کھیپ تیار ہوئی۔ مختصر یہ کہ دارالعلوم دیوبند نے نہ صرف یہ کہ نابغہ روزگار شخصیات تیار کیں بلکہ اسلام کی ہمہ پہلو تجدید و احیاء کے لیے عظیم الشان اداروں کو جنم دیا۔ اس لیے دارالعلوم دیوبند کو اگر تجدید و احیائے دین کی یونیورسٹی کا نام دیا جائے تو یہ اس کی خدمات کا صحیح عنوان ہوگا۔“

(ماہنامہ الرشید لاہور، دارالعلوم دیوبند نمبر، ۱۹۷۶ء، ص ۶۶)

دارالعلوم دیوبند: دینی تعلیمی تحریک کا بین الاقوامی مرکز

برصغیر ہند میں سلطنت مغلیہ کے زوال کے بعد انگریزوں نے اپنے سیاسی مصالح کے پیش نظر اسلامی علوم و فنون کی قدیم درسگاہوں کو یکسر ختم کر دیا تھا۔ علماء و اہل علم کی بڑی تعداد کو تہ تیغ کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے مدارس کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ ہندوستان میں مسلم سلطنتوں کے زمانے میں مدارس کا نظام عموماً اوقاف کی آمدنیوں یا مسلم حکمرانوں، نوابوں اور امراء و رؤساء کی سرپرستی میں چلتا تھا۔ مسلم حکومت اور مسلم حکمرانوں کے جانے کے بعد برطانوی تسلط کے زمانے میں شدید ضرورت تھی کہ نہ صرف اسلامی علوم و فنون اور اسلامی تہذیب کی بقا کے لئے بلکہ مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت کے لئے ایک دینی و تعلیمی تحریک شروع کی جائے جو مسلمانوں کو الحاد و بے دینی کے فتنہ عظیم سے محفوظ رکھ سکے۔ غیور اور باہمت علماء نے اس عظیم ضرورت کا بروقت ادراک کیا اور اسی کے نتیجے میں دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا۔ بہت ہی قلیل مدت میں دارالعلوم کی شہرت بامعروفی کو پہنچ گئی اور بہت جلد دارالعلوم میں برصغیر (موجودہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش) کے علاوہ سرحد، افغانستان اور وسط ایشیائی ممالک کے طلبہ پڑھنے آنے لگے۔ بعد میں یہ سلسلہ ملیشیا، برما، تبت، سیلون اور جنوبی افریقہ تک جا پہنچا اور اب تو اس کا فیض یورپ و امریکہ اور آسٹریلیا تک پہنچ چکا ہے۔

دارالعلوم دیوبند صرف ایک دینی تعلیم کا مدرسہ نہیں تھا، بلکہ وہ ایک دینی و تعلیمی تحریک تھی۔ اس تحریک کے بنیادی عناصر اصول ہشت گانہ میں وضع کیے گئے جن سے آئندہ ہندوستان میں مضبوط و مستحکم دینی تعلیمی نظام کی بنیاد پڑی۔ پہلا بنیادی اصول یہ تھا کہ مدارس کو حکومت و امراء کی سرپرستی سے نکال کر اسے جمہور اور عوام سے جوڑا گیا۔ عوام کے چندوں سے چلنے والے اس نظام میں استحکام بھی تھا اور سماج کے ہر طبقہ سے بھرپور ربط بھی، جس کی وجہ سے تعلیم سماج کے ہر حلقہ میں پہنچنے لگی۔ دوسرا بنیادی اصول یہ تھا کہ مدارس کا نظام شورائی بنیادوں پر قائم ہوتا کہ اس کی کارکردگی زیادہ بہتر ہو اور اس کے نظام میں شفافیت ہو۔ گویا ہندوستان میں جمہوری سیاسی نظام شروع ہونے سے پون صدی قبل ہی دارالعلوم نے جمہوری اداروں کی بنیاد رکھ دی تھی۔

دارالعلوم دیوبند نے نصاب بھی ایسا مرتب کیا جو حالات زمانہ سے بالکل ہم آہنگ تھا اور اسلامی ہند کے تمام نظامہائے تعلیم کی خوبیوں کا جامع تھا۔ دارالعلوم نے ولی اللہی نصاب سے قرآن و حدیث، فرنگی محل کے نصاب سے فقہ اور خیر آباد کے نصاب سے معقولات کو لے کر ایسا جامع و حسین گلدستہ تیار کیا کہ جس کی دل آویز خوشبو کی کشش سے دیوبند میں ہندو پیروں ہند کے طالبان علوم اسلامیہ کا جمگھٹا لگ گیا۔

دارالعلوم کے طرز پر مدارس کا قیام

ہندوستان میں مدارس کا سابقہ نظام تیرہویں صدی ہجری تک تقریباً ختم ہو چکا تھا، کہیں کہیں مقامی حیثیت کے حامل کچھ خزاں رسیدہ مدارس کا وجود برائے نام باقی تھا جن میں علوم معقولہ کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی تھی، حدیث و تفسیر وغیرہ کی تعلیم کا بہت ہی کم رواج تھا، اس کے برعکس دارالعلوم کا قیام ولی اللہی طرز فکر پر عمل میں آیا تھا، اس لئے یہاں علوم معقولہ کے بجائے زیادہ اہمیت علوم منقولہ تفسیر و حدیث اور فقہ کو دی گئی۔ دارالعلوم کے قیام کے بعد برصغیر میں جتنے بھی دینی مدارس جاری ہوئے ان میں بھی کم و بیش دارالعلوم کے اسی طریقہ کو پسند کیا گیا۔ قیام دارالعلوم کے چھ ماہ بعد یکم رجب ۱۲۸۳ھ (۹ نومبر ۱۸۶۶ء) میں سہارنپور میں مدرسہ مظاہر علوم جاری ہوا تو اس میں بھی وہی نصاب جاری کیا گیا جو دارالعلوم میں جاری تھا، پھر رفتہ رفتہ دارالعلوم کے نقش قدم پر مختلف مقامات میں دینی مدارس جاری ہو گئے۔ ۱۲۸۵ھ/۱۸۶۶ء کی روداد میں تحریر ہے:

”ہم نہایت خوشی ظاہر کرتے اس امر پر کہ اکثر حضرات باہمت نے اجراء مدارس عربی کو توسیع دینے میں کوشش کر کے مدارس بمقامات مختلفہ دہلی، میرٹھ، خوجہ، بلندشہر و سہارنپور وغیرہ میں جاری فرمائے اور دوسری جگہ مثل علی گڑھ وغیرہ اس کار کی تجویزیں ہو رہی ہیں۔“

دارالعلوم دیوبند کے نقش قدم پر اس وقت جو مدارس جاری ہوئے دارالعلوم کی رودادوں میں تفصیل سے ان کے حالات لکھے گئے ہیں، ۱۲۹۷ھ/۱۸۸۰ء کی روداد میں تحریر ہے:

”ہم کمال خوشی سے یہ بات ظاہر کرتے ہیں اور منعم حقیقی کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس سال میرٹھ، گلاؤٹھی، دان پور میں مدارس اسلامی جدید جاری ہوئے اور ان کا تعلق کم و بیش اس مدرسہ (دارالعلوم دیوبند) سے ہوا اور ان مقامات کے باشندوں کو مبارک باد دیتے ہیں اور خدائے عزوجل کی جناب میں دعا کرتے ہیں کہ ان مدارس کو قیام ہو اور روز بروز ترقی پکڑیں اور بڑے بڑے شہروں اور قصبوں کے مسلمانوں کو اس کار خیر کی تقلید کی توفیق ہو، اے خدا پاک! وہ دن دکھلا کہ کوئی بستی اس دولت پائیدار سے خالی نہ رہے اور ہر گلی کوچے میں علم کا چرچہ ہو اور جہل عالم سے کافر ہو، آمین!“

مشہور شہر میرٹھ میں حضرت نانوتویؒ نے اپنے آخری زمانہ قیام میرٹھ میں ایک اسلامی مدرسہ قائم کیا تھا، یہ مدرسہ دارالعلوم دیوبند کی شاخ تھا، اس کے اولین اساتذہ دارالعلوم دیوبند کے فارغ التحصیل فضلاء تھے۔ مفتی عزیز الرحمن دیوبندی اور مولانا حبیب الرحمن عثمانی جو علی الترتیب بعد میں دارالعلوم کے مفتی اعظم اور مہتمم ہوئے، اس مدرسہ کے مسند درس کو زینت بخشے رہے، مولانا قاضی زین العابدین سجاد اور مولانا سراج احمد میرٹھی جیسی مقتدر ہستیاں اس مدرسہ کے اولین طلبہ میں شامل تھیں۔

مراد آباد مدرسہ کے قیام کے بارے میں ۱۲۹۷ھ کی روداد میں لکھا ہوا ہے:

”مراد آباد ایک مشہور و معروف شہر ہے وہاں کے غریب مسلمانوں نے حسب ایماء حضرت نانوتویؒ عرصہ دو تین سال سے ایک مدرسہ اسلامی جاری کیا، اگرچہ اوائل میں یہ کارخانہ مختصر تھا مگر ماشاء اللہ یہ مدرسہ اچھے عروج پر ہے اور یوں یوں امید ترقی ہے۔ واقعی اس مدرسہ کے جملہ کارپردازان نہایت زیرک اور امانت دار و دیانت دار ہیں، خداوند تعالیٰ ان کی سعی میں برکت عطا فرمائے اور اس کارخانہ کو قائم رکھے۔ اور زیادہ تر ترقی بخشے۔ آمین۔“

(۱) تاریخ دارالعلوم دیوبند، جلد اول، ص ۳۶۳ تا ۳۷۳، بحوالہ روداد بابت ۱۲۸۵ھ و ۱۲۹۷ھ

مراد آباد کا یہ مدرسہ جامعہ قاسمیہ کے نام مراد آباد کی شاہی مسجد میں قائم ہے۔ دارالعلوم کے ابتدائی دور میں جو مدارس جاری ہوئے ان میں مظاہر علوم سہارن پور کے بعد جامعہ قاسمیہ نے سب سے زیادہ ترقی کی۔ مشہور علمائے کرام کی کوششوں کے باعث اس مدرسہ کو بڑی شہرت حاصل رہی اور یہاں سے پڑھ کر مشہور علماء پیدا ہوئے۔

ہندوستان میں اسلامی مدارس کا جال

اس موقع پر یہ بات یاد رہے کہ آج مدارس کا قیام کچھ زیادہ مشکل نہیں رہا مگر ڈیڑھ سو سال پہلے کا خیال کیا جائے جب اس طرح کے مدارس کا رواج نہیں تھا، اور لوگ قیام مدارس کے طریقے لیتے اور ان کی ضرورت سے زیادہ واقف نہیں تھے۔ ان حالات میں حکومت کی امداد و اعانت کے بغیر صرف مسلمانوں کے چندہ کے بھروسے پر دینی مدارس جاری کرنا ایک زبردست کام تھا۔ دارالعلوم دیوبند کا علمی فیضان محض عالم بنا دینے تک ہی محدود نہیں رہا، بلکہ اس کے لائق افراد کے ذریعہ ایسا ماحول بھی پیدا ہو گیا جس سے جا بجا دینی مدارس قائم ہوتے چلے گئے، دارالعلوم کے قیام کے بعد ملک میں جس کثرت سے دینی مدارس قائم ہوئے اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا اس وقت مسلمانوں میں دینی مدارس قائم کرنے کا شدید جذبہ موجود تھا؛ لیکن اجراء مدارس کے قدیم وسائل چوں کہ یکسر ختم ہو چکے تھے اس لیے ہمتیں پست ہو گئیں تھیں، مگر جب دارالعلوم دیوبند نے پہل کی تو مسلمانوں کے سامنے ایک نئی شاہ راہ کھل گئی اسی کے ساتھ بعض مدارس کے منتظمین نے دارالعلوم کی حیثیت کو مرکزی قرار دے کر مناسب سمجھا کہ اپنے اپنے مدرسوں کو دارالعلوم دیوبند کے زیر اثر ایک سلسلے میں منسلک کر دیں۔

اس وقت سے لے کر اب تک برصغیر کے طول و عرض میں بجز اللہ بے شمار دینی مدارس جاری ہو چکے ہیں، اور روز بروز ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ حتیٰ کہ جو مدرسے دارالعلوم کے مزاج و مذاق سے ہٹے ہوئے ہیں یا دارالعلوم کے نصاب تعلیم کا اتباع نہیں کرتے ہیں ان کا نظام بھی دارالعلوم کے وضع کردہ بنیادی اصولوں پر قائم ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ آج برصغیر میں جس قدر بھی دینی مدارس نظر آتے ہیں ان میں سے بیشتر وہی ہیں جو دارالعلوم دیوبند کے نقش قدم پر یا اس کے قائم کردہ اثرات سے جاری ہوئے ہیں؛ اس طرح دارالعلوم دیوبند کا وجود اسلام کی جدید تاریخ میں ایک عہد آفریں حیثیت رکھتا ہے، اور یہیں سے اس وقت پورے برصغیر میں دینی تعلیم گاہوں کا نیٹ

ورک پھیلا ہوا ہے۔

ہندوستان میں موجود مدارس کا کوئی حتمی اعداد و شمار موجود نہیں تاہم چھوٹے بڑے مدارس کی تعداد ایک اندازے کے مطابق دس ہزار سے زائد ہے۔ یہ تعداد ان لاکھوں مکاتب کے علاوہ ہے جو تقریباً ہر مسجد اور مسلم محلہ میں قائم ہوتے ہیں۔

دارالعلوم کے مزاج و منہاج پر اس وقت پورے ہندوستان کے طول و عرض میں بلاشبہ ہزاروں مدارس قائم ہیں جن میں بہت سے مدرسوں کا دارالعلوم سے باقاعدہ الحاق بھی ہے۔ ہندوستان کے جملہ مدارس کو باہم مربوط کرنے کے لئے رابطہ مدارس عربیہ دارالعلوم دیوبند کا مرکزی دفتر سرگرم عمل ہے جس سے اس وقت تین ہزار سے زائد مدارس عربیہ مربوط ہو چکے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند سے ملک کے دینی مدارس کا یہ ارتباط جماعت دیوبند کی شیرازہ بندی، علمی تنظیم، فکری اتحاد اور یگانگت باہمی کا ایک مفید اور مؤثر ذریعہ ہے۔

شہر دیوبند میں دارالعلوم دیوبند کے علاوہ متعدد مدارس قائم ہیں جن میں طلبہ کی ایک بڑی تعداد پڑھتی ہے؛ ان مدارس میں سب سے نمایاں دارالعلوم وقف ہے جو ۱۹۸۳ء میں جامع مسجد دیوبند میں قائم ہوا۔ اس کی موجودہ عمارت کا سنگ بنیاد فقیہ الامۃ حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی اور دیگر علماء کے ہاتھوں ۲۴ جون ۱۹۹۴ء کو رکھا گیا۔ دارالعلوم وقف اس وقت وسیع و عریض قطعہ اراضی پر قائم ہے اور اس میں دورہ حدیث کے علاوہ تکمیلات وغیرہ کے درجات بھی قائم ہیں۔

ضلع سہارن پور اور مظفرنگر میں متعدد اہم اور بڑے مدارس قائم ہیں۔ اس کے علاوہ مراد آباد، امر وہہ، ہاپوڑ، میرٹھ، بجنور، بلند شہر وغیرہ بھی متعدد اہم مدارس واقع ہیں۔ کان پور، ہردوئی اور مشرقی اضلاع میں خاص طور پر منو، اعظم گڑھ، بنارس، جون پور وغیرہ میں متعدد قدیم اور بڑے مدرسے قائم ہیں۔ بہار، مغربی بنگال اور آسام میں بھی دارالعلوم کے طرز پر درس نظامی کی تعلیم دینے والے بے شمار مدارس ہیں۔ دوسری طرف حیدرآباد، بنگلور، ممبئی وغیرہ بڑے شہروں کے علاوہ اترکھنڈ، کشمیر، مہاراشٹر، مدھیہ پردیش، راجستھان، تمل ناڈو، اڑیسہ، آندھرا پردیش اور کیرالہ وغیرہ میں بڑے اور مشہور مدارس قائم ہیں۔ صوبہ گجرات کے مسلمان متعدد شاندار اور بڑے مدارس قائم کیے ہوئے ہیں جن میں گجرات کے ضلع سورت اور بھروچ کے مدارس خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

بیرون ممالک میں دارالعلوم کے طرز پر مدارس کا قیام

دارالعلوم دیوبند کے قیام کے بعد ہی مکہ مکرمہ میں مشہور عالم دین حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے مدرسہ صولتیہ قائم کیا۔ یہ مدرسہ ۱۵ شعبان ۱۲۹۰ھ کو دارالعلوم کے ہی خطوط پر قائم کیا گیا تھا۔ اسی طرح مکہ مکرمہ میں ہی ایک دوسرا مدرسہ مولانا اسحاق امرتسری نے قائم کیا جو دارالعلوم کے فیض یافتہ تھے۔ مدینہ منورہ میں حضرت مولانا

سید احمد فیض آبادی (خلیفہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی و برادر اکبر حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی) نے ۱۳۴۰ھ/۱۹۲۱ء میں مدرسہ علوم شرعیہ قائم فرمایا۔ یہ مدرسہ اہل مدینہ کے لیے بہت بافیض ثابت ہوا اور مدتوں تک اس کا شمار وہاں کے بڑے مدرسوں میں ہوتا تھا۔ مدرسہ صولتیا اور مدرسہ علوم شرعیہ کی پرانی عمارتیں حرم مکی اور حرم مدنی کے بہت قریب تھیں، لیکن اب وہ جدید توسیعات کے بعد حرمین شریفین کا حصہ بن چکی ہیں۔ تاہم نصاب و نظام کی تبدیلی کے ساتھ یہ دونوں مدرسے اس وقت تک قائم ہیں۔

پاکستان اور بنگلہ دیش کے چھپے چھپے میں بھی اسی نچ پر ہزاروں مدرسے قائم ہیں جن کے بڑے مدرسوں میں ہزاروں طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ ان مدارس میں دارالعلوم کراچی، جامعہ بنوریہ کراچی، دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک، جامعہ اشرفیہ لاہور، جامعہ فاروقیہ کراچی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ پاکستان میں وفاق المدارس کے تحت دس ہزار کے قریب مدارس کا متحدہ پلیٹ فارم بھی قائم ہے جن میں اکثریت دیوبندی مدارس کی ہے۔ اسی طرح بنگلہ دیش میں بھی دینی مدارس ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں جن میں دارالعلوم ہاٹ ہزاری سب سے زیادہ قدیم ہے۔ اس کے علاوہ چٹاگانگ، ڈھاکہ، سلہٹ وغیرہ میں متعدد بڑے مدارس موجود ہیں۔

ہندو پاک اور بنگلہ دیش کے علاوہ برصغیر کے قریب دیگر ملکوں جیسے مشرق میں برما، شمال میں نیپال، مغرب میں افغانستان و ایران اور جنوب میں سری لنکا وغیرہ میں بھی کافی مدارس دارالعلوم کے طرز پر قائم ہیں۔ ان مدارس سے ہزاروں علماء ہر سال فارغ ہو کر معاشرہ میں علم کی روشنی پھیلاتے ہیں۔

براعظم افریقہ کے جنوبی ملکوں خصوصاً ساؤتھ افریقہ میں دارالعلوم کے طرز کے سیکڑوں چھوٹے بڑے مدارس قائم ہیں، جہاں پورے افریقہ، یورپ اور امریکہ تک کے طلبہ داخل رہ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ کے ان مدارس میں دارالعلوم زکریا لینیشیا جوہانسبرگ، مدرسہ انعامیہ کیمپ ڈاؤن، دارالعلوم آزادویل، دارالعلوم نیو کیسل، دارالعلوم ابو بکر پورٹ ایلزبتھ، دارالعلوم اسپنگو بیچ، جامعہ محمودیہ اسپرنگس، دارالعلوم العربیۃ الاسلامیہ کیپ ٹاؤن، مدرسہ جامع العلوم جوہانسبرگ، مدرسہ انعامیہ کیمپ ڈاؤن وغیرہ قابل ذکر ہیں۔

اسی طرح براعظم یورپ میں خصوصاً برطانیہ میں متعدد بڑے دارالعلوم اور مدارس قائم ہیں جہاں دارالعلوم کے طرز پر دینی تعلیم کا بہترین نظم موجود ہے۔ برطانیہ کے بڑے دینی مدارس میں دارالعلوم بری، دارالعلوم لندن، دارالعلوم برمنگھم، دارالعلوم لیسٹر، دارالعلوم بولٹن وغیرہ قابل ذکر ہیں۔

بحر ایشیا تک کے اس پار امریکہ، کناڈا اور ویسٹ انڈیز میں بھی دارالعلوم قائم ہو چکے ہیں اور دارالعلوم کے نچ پر علوم دینیہ کی تدریس و اشاعت میں مشغول ہیں۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ میں دارالعلوم نیویارک، دارالعلوم المدنیہ بقیلو، دارالعلوم ٹورنٹو، دارالعلوم شکاگو، اسی طرح کناڈا میں دارالعلوم اونٹاریو وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ دوسری

طرف مشرق میں آسٹریلیا، فیجی، نیوزی لینڈ وغیرہ میں بھی الحمد للہ دارالعلوم دیوبند کے بیچ پر مدارس قائم ہیں۔

فیضان دارالعلوم دیوبند

اس طرح مطلع دیوبند سے پھوٹنے والی یہ علم کی یہ روشنی اس وقت الحمد للہ پورے عالم کو روشن کیے ہوئے ہے۔ ان مدارس سے استفادہ کرنے والے علماء و فضلاء پوری دنیا میں دینی علوم کی تدریس و تصنیف، دعوت و تبلیغ اور نشر و اشاعت میں مشغول ہیں۔ قدیم روایت کے ان مدارس دینیہ نے اسلامی علوم کی حفاظت و اشاعت میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ سلف صالحین کے بیچ پر دینی علوم کی تعلیم کا یہ نظام اپنے اندر بہت ساری برکتیں رکھتا ہے جس سے دوسرے نظام خالی نظر آتے ہیں۔

مدارس دینیہ سے برصغیر کے مسلمانوں کو کیا نفع پہنچا اس سلسلے میں علامہ اقبال کا مشہور تاثر جو انھیں کے ایک عقیدت مند حکیم احمد شجاع سے منقول ہے مدارس اسلامیہ کو ایک اچھا خراج عقیدت ہے۔ علامہ فرماتے ہیں:

”ان مدارس کو اسی حالت میں رہنے دو، غریب مسلمانوں کے بچوں کو انہیں مدرسوں میں پڑھنے دو، اگر یہ ملا اور درویش نہ رہے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ جو کچھ ہوگا اسے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں، اگر ہندوستان کے مسلمان ان مدرسوں کے اثر سے محروم ہو گئے تو بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح اندلس میں مسلمانوں کی آٹھ سو برس حکومت کے باوجود ہوا، آج غرناطہ اور قرطبہ کے کھنڈر اور الحمر کے نشانات کے سوا اسلام کے پیروں اور اسلامی تہذیب کے آثار کا کوئی نقش نہیں ملتا، ہندوستان میں بھی آگرہ کے تاج محل اور دہلی کے لال قلعہ کے سوا مسلمانوں کی آٹھ سو سالہ حکومت اور ان کی تہذیب کا کوئی نشان نہیں ملے گا۔“ (خون بہا، حکیم احمد شجاع، حصہ اول، ص ۴۳۹)

علمائے دیوبند اور تحفظ دین کی خدمات

دین اسلام کی دعوت و حفاظت کے سلسلے میں علمائے دیوبند نے وہ زریں کارنامے انجام دیے ہیں جن کی بنا پر یہ دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ اگر سرزمین دیوبند سے علم و معرفت کا یہ چشمہ صافی نہ بہہ نکلا ہوتا تو تیرہویں صدی ہجری کے اواخر میں ہندوستان سے قرآن و سنت کے علوم کا خاتمہ ہو گیا ہوتا اور یہاں کا ہر مسلمان فتنہ ارتداد کی زد میں آچکا ہوتا۔ دارالعلوم کے ارباب حل و عقد نے ابتداء ہی سے حمیت دینی اور جذبہ اسلامی سے سرشار رہ کر اپنی درسی و علمی مصروفیات کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کے احوال پر گہری نظر رکھی، جہاں کہیں بھی کسی فتنہ نے سر ابھارا، علمائے دیوبند نے اس کا بھرپور تعاقب کر کے اپنی ایمانی حمیت کا ثبوت پیش کیا۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندویؒ کے بقول:

”جس امتیاز پر دارالعلوم کی بنیاد پڑی اور جو اس کا حقیقی سنگ بنیاد ہے وہ دین کی حمیت اور اسلام کی حفاظت کا جذبہ تھا، یہ ہے اس دارالعلوم کا طرہ امتیاز۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ اور ان کے عالی مقام رفقا حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ وغیرہ کے اندر جو جذبہ کارفرما تھا وہ حمیت اسلامی کا جذبہ تھا، اسی نے ان سے دارالعلوم کی بنیاد رکھوائی۔ میں سمجھتا ہوں کہ دارالعلوم کے حق میں ازالہ حیثیت عرفی کا جرم ہوگا اگر کہا جائے کہ دارالعلوم چند مخصوص کتابوں کے پڑھنے، پڑھانے اور درس و تدریس کے ایک مرکز کی حیثیت سے قائم ہوا تھا۔ اس سے بڑھ کر اس کے بانیوں کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہو سکتی، ایسے کہنے والوں کو ان بزرگوں کی روحوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ جس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ یہ محض ایک مدرسہ ہے تو حضرت شیخ الہندؒ تڑپ اٹھتے تھے، ان کے نزدیک یہ اسلام کا قلعہ اس کے داعیوں اور مجاہدوں کی تربیت کی ایک چھاؤنی اور سلطنت مقلیہ کے گل ہونے والے چراغ کا بدل بلکہ نعم البدل تھا۔“ (۱)

عیسائیت کی یلغار کے خلاف میدان میں

ایسٹ انڈیا کمپنی جس کا ظاہری مقصد تجارت اور اصل مقصد ہندوستان میں عیسائیت کی تبلیغ اور سیاسی اقتدار کا حصول تھا، رفتہ رفتہ ہندوستان کی سیاسی، تعلیمی اور انتظامی معاملات میں مداخلت کرنے لگی تھی، اس غرض سے جگہ جگہ بائبل سوسائٹیاں قائم کی گئیں، انجیل کا ترجمہ ملک کی تمام زبانوں میں کیا گیا اور پوری قوت کے ساتھ عیسائیت کی تبلیغ شروع کی گئی۔ اس راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ مسلمانوں کے علوم اور ان کا مذہبی شغف تھا، اس کے لیے ۱۸۳۵ء کا تعلیمی نظام مرتب کیا گیا جس کی روح لارڈ میکالے کے نزدیک یہ تھی کہ:

”ہمیں ایک ایسی جماعت بنانی چاہیے جو ہم میں اور ہماری کروڑوں رعایا کے درمیان مترجم ہو اور

یہ ایسی جماعت ہونی چاہیے جو خون اور رنگ کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو مگر مذاق اور رائے، الفاظ اور سمجھ کے اعتبار سے انگریز ہو۔“ (۲)

انگریزی تہذیب کا یہ حربہ مسلمانوں کی مذہبی زندگی، قومی روایات اور علوم و فنون کے لیے سخت تباہ کن تھا، جس کو قبول کرنے کے لیے وہ کسی طرح تیار نہ ہو سکتے تھے اور ابھی تک وہ اپنی مذہبی زندگی اور قومی شعور کو برقرار رکھنے کا کوئی حل نہ سوچ سکے تھے کہ اسی دوران ۱۸۵۷ء کا جنگی ہنگامہ پیش آ گیا، جس کی بے پناہ تباہ کاریوں اور ہولناکیوں نے دلوں کو ہیبت زدہ، دماغوں کو ماؤف اور روجوں کو پڑ مردہ کر دیا۔ پوری قوم پر جمود، بے حسی اور مایوسی کی گھٹائیں چھا گئیں، ہندوستان میں مسلمانوں کی پوری تاریخ میں یہ سب سے زیادہ بھیانک، نازک اور خطرناک وقت تھا، ایسے پر آشوب وقت میں جب کہ گردش لیل و نہار نے ملت اسلامیہ کے لیے نہایت تباہ کن صورت حال پیدا کر دی تھی۔ علمائے وقت نے حالات و واقعات کو محسوس کیا اور دارالعلوم دیوبند اور ملک میں جا بجا اس کے طرز کے دینی مدارس قائم کر کے ایک دفاعی حصار تیار کیا جس نے ملک کو سیاسی شکست کے نتائج سے بڑی حد تک محفوظ کر دیا۔ دوسری طرف مولانا رحمت اللہ کیرانوی، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا ابوالمختار وغیرہ حضرات نے پوری ہمت و جرأت کے ساتھ عیسائی مشنریوں کا زبردست مقابلہ کیا اور ہندوستان کے مسلمانوں کو عیسائی بنانے کے مسیحی مبلغین کے خواب کو شرمندہ تلعبیر نہیں ہونے دیا۔

عیسائی عام مجموعوں میں وعظ و تقریر اور مناظرے کرتے تھے، ہمارے علماء نے اس میدان میں عیسائی مبلغین کا زبردست مقابلہ کیا اور اپنے پرزور دلائل سے عیسائی مشنریوں کو پے در پے ایسی شکستیں دیں کہ ان کے منصوبے خاک میں مل گئے۔ اس سلسلے میں دہلی، آگرہ اور شاہجہاں پور کے نام خاص طور پر لیے جاسکتے ہیں؛ آگرہ میں مولانا رحمت اللہ کیرانوی اور شاہجہاں پور میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے اپنے رفقاء کے ساتھ مل کر عیسائی پادریوں کا ایسا مقابلہ کیا کہ وہ ٹھہر نہ سکے۔ شاہجہاں پور کے مناظرے کی تفصیلات ”گفتگوئے مذہبی“ کے نام سے شائع ہو چکی ہیں، مذکورہ مقامات کے علاوہ اور بھی بہت سے مقامات پر علماء نے پادریوں سے مناظرے کیے اور اس طرح سے عیسائی مشن کے اثرات کو پھیلنے سے روکنے کے لیے زبردست رکاوٹیں کھڑی کر دیں اس کام میں بلاشبہ ہندوستان کے بہت سے علماء کا حصہ رہا ہے اور ان کی عظیم خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا، مگر اس سلسلے میں علمائے دیوبند نے جو زبردست خدمات انجام دی ہیں وہ اپنی جگہ بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔

عیسائی مشنریوں نے اپنی تصنیف و تالیف میں بھی وعظ و تبلیغ کا وہی جارحانہ طریقہ اختیار کیا تھا جس میں عیسائیت کے محاسن بیان کرنے سے زیادہ اس بات پر زور دیا جاتا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام پر رکیک حملے کیے جائیں، علماء کی جانب سے اس میدان میں بھی عیسائی مشنریوں کو چیلنج کیا گیا جس کے نتیجے میں ان کی روز افزوں سرگرمیاں بڑی حد تک کمزور پڑ گئیں۔ اس سلسلہ میں حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی کی مشہور عالم کتاب ”اظہار الحق“ کا نام لینا کافی ہوگا جو آج بھی رد عیسائیت کے موضوع پر ایک منفرد کتاب بلکہ عظیم الشان انسائیکلو پیڈیا کی حیثیت رکھتی ہے۔ غرض دارالعلوم دیوبند اور اس کے اکابر نے اس وقت دین کی حفاظت کی خاطر ہر ممکنہ کوششیں کیں اور ہر داخلی

دخارجی فتنے سے نمٹنے کے لیے کامیاب جدوجہد کر کے ہر ممکن طریقے سے اسلام کا دفاع کیا۔ (۳)

اسی کے ساتھ ساتھ، فتنہ عیسائیت سے عوام الناس کو متعارف کرانے کے لیے علمائے دیوبند نے علمی میدانوں میں ٹھوس اقدامات کیے اور متعدد و قیغ اور اہم تصنیفات کے ذریعہ آگے آنے والوں کے لیے دلیل راہ قائم کر گئے۔ اردو زبان میں دیگر علمائے دیوبند کی کچھ اہم تصنیفات درج ذیل ہیں:

(۱) اظہار الحقیقۃ عربی، حضرت مولانا حکیم محمد رحیم اللہ بجنوری

(۲) احسن الحدیث فی ابطال التثلیث، حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی

(۳) اسلام اور نصرانیت، حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی

(۴) دعوت اسلام، حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی

(۵) بشارۃ التبتیین، حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی

(۶) اسلام اور مسیحیت، مولانا ثناء اللہ امرتسری

(۷) توحید، تثلیث اور راہ نجات، مولانا ثناء اللہ امرتسری

(۸) تعلیمات اسلام اور مسیحی اقوام، حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی

(۹) سبیل السلام، مولانا ڈاکٹر مصطفیٰ حسن علوی

(۱۰) بائبل سے قرآن تک (ترجمہ اظہار الحق) حضرت مفتی تقی عثمانی

(۱۱) عیسائیت کیا ہے؟ حضرت مفتی تقی عثمانی

(۱۲) محاضرات رد عیسائیت، حضرت مولانا نعمت اللہ اعظمی

۱۳۲۰ھ/۱۹۹۹ء میں دارالعلوم نے ہندوستان میں عیسائی مشنریوں کے بڑھتی سرگرمیوں کے پیش نظر مطالعہ عیسائیت کے لیے باضابطہ ایک شعبہ قائم کیا۔ اس شعبہ کے ذریعہ فضلاء کی تربیت اور مختلف زبانوں میں لٹریچر کی تیاری کا کام ہو رہا ہے۔

آریہ سماج کا فتنہ اور اس کی سرکوبی

جب انگریزی حکومت کی سازش سے ہندوؤں کو سیاسی اور سماجی سطح پر مسلمانوں کے مقابلے میں لاکھڑا کیا گیا، انگریزوں نے اپنی پالیسی کے تحت ہندوؤں کو مذہبی برتری کی راہ سنجائی اور ہندوؤں کو مسلمانوں کے مقابلے میں مناظرہ کے لیے تیار کیا۔ میلہ خدا شناسی شاہجہاں پور اس کی واضح مثال ہے جس میں عیسائی، ہندو اور مسلمان تینوں مذاہب کے نمائندوں کو بذریعہ اشتہار دعوت دی گئی کہ وہ اپنے اپنے مذاہب کی حقانیت کو ثابت کریں۔ اس اہم اور نازک موقع پر مسلمانوں کی ترجمانی کے لیے حضرت نانوتوی خود شریک ہوئے اور حکومت کی سازش کو ناکام بنا دیا۔

اس کے بعد آریہ سماج کے بانی پنڈت دیانند سرسوتی نے مذہب اسلام کو خاص طور پر راست نشانہ بناتے

ہوئے اس پر اعتراض کا ایک سلسلہ شروع کر دیا جس کی وجہ سے مسلمانوں میں بے چینی اور غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت نانوتویؒ نے حضرت شیخ الہندؒ مولانا محمود حسن دیوبندیؒ مولانا فخر الحسن گنگوہیؒ اور مولانا عبدالعدلؒ کے ساتھ روڑ کی اور میرٹھ میں اس فتنہ کا بڑی بہادری سے مقابلہ کیا۔ حضرت نانوتویؒ نے پنڈت سرسوتی کے اعتراضات کے جوابات دیے اور ایسے دلائل پیش کیے کہ غیر مسلم بھی حیرت میں رہ گئے۔ اس طرح حضرت نانوتوی اور ان کے شاگردوں کی پامردی اور اولوالعزمی کی بنا پر آریہ سماجی فتنہ دب گیا۔ (۴)

فصلائے دیوبند میں خاص طور پر حضرت مولانا ابوالوفاء ثناء اللہ امرتسری اور حضرت مولانا مرتضیٰ حسن چاندپوری نے رد آریہ کے موضوع پر نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ آریہ سماجیوں کے مقابلہ میں مولانا ثناء اللہ امرتسری کا کارنامہ بہت نمایاں ہے۔ ان حضرات کی کوششوں کی وجہ سے آریہ سماجیوں کے مشہور مبلغ غازی محمود دھرم پال نے مذہب اسلام قبول کیا اور پھر رد آریہ میں نہایت وقیح کتابیں لکھیں۔ آریہ سماجیوں سے حضرت مولانا احمد حسن امرہویؒ کا ایک بڑا مناظرہ ۱۹۰۴ء میں گنپینہ میں ہوا جس میں حضرت مولانا امرہویؒ نے حضرت نانوتویؒ کی یاد تازہ کر دی۔ الغرض علمائے اسلام کی کاوشوں اور تعاقب سے آریہ سماجیوں کا فتنہ سرد پڑ گیا، گو بعد میں بھی یہ تحریک باقی رہی لیکن اس میں وہ تیزی اور تندہی نہ رہی۔ (۵)

رد آریہ کے موضوع پر علمائے دیوبند کی کچھ اہم کتابیں درج ذیل ہیں:

- (۱) قبلہ نما، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ
- (۲) انتصار الاسلام، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ
- (۳) مباحثہ شاہ جہاں پور، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ
- (۴) گفتگوئے مذہبی، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ
- (۵) براہین قاسمیہ، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ
- (۶) جواب ترکی بہ ترکی، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ
- (۷) رسالہ تحفہ لحمیہ، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ
- (۸) حق پرکاش، مولانا ابوالوفاء ثناء اللہ امرتسری
- (۹) ترک اسلام، مولانا ابوالوفاء ثناء اللہ امرتسری
- (۱۰) الہامی کتاب، مولانا ابوالوفاء ثناء اللہ امرتسری
- (۱۱) تغلیب الاسلام، مولانا ابوالوفاء ثناء اللہ امرتسری
- (۱۲) بحث تناخ، مولانا ابوالوفاء ثناء اللہ امرتسری
- (۱۳) تمبر اسلام، مولانا ابوالوفاء ثناء اللہ امرتسری
- (۱۴) کلمۃ الحق، مولانا محمد مرتضیٰ حسن چاندپوری

(۱۵) نعمتہ الحق، مولانا محمد مرتضیٰ حسن چاند پوری

(۱۶) رد تناخ، مولانا محمد مرتضیٰ حسن چاند پوری

(۱۷) ویدکا بھید، مولانا عبدالصمد رحمانی

(۱۸) ابدی نجات، مولانا عبدالصمد رحمانی

وغیرہ

فتنہ ارتداد اور ہندو احمیا پرستی کا مقابلہ

بیسویں صدی کے راج اول میں تحریک خلافت اور کانگریس کے باہمی تعاون اور اشتراک عمل سے ہندو اور مسلمانوں میں اس قدر یک جہتی اور اتحاد و اتفاق کا ماحول تھا کہ دونوں قومیں شیر و شکر بن گئیں۔ یہ ایسے حالات تھے جن کی وجہ سے ہندوستان میں برطانوی حکومت کا مستقبل خطرہ میں پڑ گیا تھا۔ انگریزوں نے حالات کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے منافرت اور تفریق کا اپنا پرانا نسخہ استعمال کیا۔ ۱۹۲۲ء میں وائسرائے نے ترک موالات کے ایک بڑے لیڈر سوامی شردھانند کو جو اس وقت جیل میں تھے بلا کر گرفتار کیا۔ اس گفتگو کے بعد جو صیغہ راز میں رہی ان کو رہا کر دیا گیا۔ جیل سے نکلنے کے بعد سوامی شردھانند نے مسلمانوں کی شدھی کی تحریک شروع کی جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ مسلمان جو آباء و اجداد سے ہندوستان ہی کے رہنے والے تھے اور جنہوں نے مسلمان فاتحین کے زیر اثر اسلام قبول کر لیا تھا، اب وہ مسلمانوں کے زوال کے بعد اپنے اصل دین یعنی ہندو مذہب کی طرف لوٹ جائیں۔ دوسری طرف ڈاکٹر مونجے نے سنگٹھن نام کی خالص ہندوؤں کی جماعت قائم کی۔ آریہ سماج کی ان منظم تحریکات کا مقصد اسلام سے ناواقف اور سادہ لوح مسلمانوں کو آریہ بنانا تھا۔ آگرہ، مٹھرا، ایٹھ، اٹاواہ، کان پور، فرخ آباد، گڑگاؤں اور مین پوری وغیرہ اضلاع اس تحریک کے خاص مرکز تھے۔ لاہور کے اخبار کیسری نے آگرہ کے ساڑھے چار لاکھ مکانہ نو مسلم راجپوتوں کو شدھی کر لینے کی طرف توجہ دلائی۔ (۶)

۱۳۳۱ھ مطابق ۱۹۲۳ء میں اس فتنہ ارتداد نے ہندوستان کے مسلمانوں میں سخت ہيجان و اضطراب پیدا کر دیا تھا۔ اس نازک موقع پر دارالعلوم نے وہی کیا جو اس عظیم الشان دینی ادارے کے شایان شان تھا۔ اس سلسلہ میں مدافعانہ اور جوابی کارروائی سے قبل آل انڈیا نیشنل کانگریس سے اخلاقی طور پر اپیل کی گئی کہ وہ ان جارحانہ سرگرمیوں کو جو مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان منافرت اور عداوت کے جذبات پیدا کر رہے ہیں اسے اپنے ہمہ گیر اثرات سے فی الفور بند کرائے۔ یک جہتی کی اپیل کا خاطر خواہ اثر نہ دیکھ کر دارالعلوم نے دیگر مسلم اداروں کے ساتھ مل کر اس فتنہ کی سرکوبی کا تہیہ کیا۔

دارالعلوم نے آگرہ کو تبلیغی کاموں کا مرکز بنا کر وہاں ایک دفتر کھولا اور اپنے پچاس مبلغ ارتداد کے علاقہ میں بھیج دیئے جو مدت تک بڑی محنت اور جانفشانی سے تبلیغی خدمات دیتے رہے۔ مبلغین کی انتھک مساعی سے بے شمار مرتدین تائب ہو کر اسلام میں واپس آ گئے۔ اکثر مقامات پر آریہ مبلغین سے مناظرے ہوئے جن میں بالعموم

دارالعلوم کے مبلغ کامیاب رہے۔ جن مقامات پر آریہ سماج کی تحریک جاری تھی وہاں کے مسلمان عموماً دین سے ناواقف اور سادہ لوح تھے، مبلغین نے وعظ و تبلیغ کے ذریعہ راجپوتوں کو اسلام سے روشناس کرایا اور ان کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے جگہ جگہ مساجد، مکاتب اور مدارس کھولے۔

اس جدوجہد کا یہ فائدہ ہوا کہ ارتداد کا بڑھتا ہوا سیلاب رُک گیا۔ بعد میں ان علاقوں کے بچے دارالعلوم دیوبند اور دیگر دینی مدارس سے فارغ التحصیل ہوئے اور انھوں نے اپنے علاقوں میں جا کر دینی زندگی کو نشاۃ ثانیہ بخشی۔ آج الحمد للہ یہ خطہ خصوصاً میوات کا علاقہ تبلیغی جماعت کا اہم مرکز بن چکا ہے اور وہاں سے ایسے لوگ نکل رہے ہیں جو خود دین کے داعی بن گئے ہیں اور تبلیغ دین کے لیے دور دراز کا سفر کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ علمائے دیوبند کے اخلاص، جہد و جہد اور اللہ کے کرم سے ہوا۔ (۷)

اسی طرح برطانوی دور میں جب بھی کوئی ایسا قانون بنانے کی کوشش کی گئی جو اسلامی شریعت سے متصادم ہو سکتا تھا تو علمائے دیوبند نے اس کا زبردست مقابلہ کیا اور بروقت اپنی فرض شناسی کا ثبوت دیا۔ شاردا ایکٹ اور وقف بل وغیرہ اہم امور پر علمائے دیوبند نے پوری جرأت اور صفائی کے ساتھ اسلام کا نقطہ نظر پیش کرنے میں کبھی تاثر نہیں کیا اور اس سلسلہ میں کبھی کوئی مدافعت گوارا نہیں کی۔

دارالعلوم دیوبند اور اس کے فضلاء نے تحفظ دین کی خاطر پورے برصغیر میں مدارس دینیہ کا جال پھیلا کر دینی تعلیم کو گھر گھر پہنچایا اور اس طرح عوام الناس کے ایمان کی حفاظت کی۔ اسلامی معتقدات کو عوام تک پہنچانے کے لئے انھوں نے اردو اور مقامی زبانوں میں کتابوں کی تصنیف اور اشاعت کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ ان ہی علماء کی کوششوں سے آج اردو زبان میں عربی زبان کے بعد علوم اسلامیہ کا سب سے بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ علماء نے دینی عقائد، دینی مسائل، اسلامی علوم، اسلامی تاریخ کے ساتھ ساتھ باطل افکار و خیالات کے رد میں بھی کتابیں لکھیں۔ اردو زبان میں دینی عقائد اور اسلامی افکار کے سلسلہ میں علمائے دیوبند کی چند اہم تصنیفات درج ذیل ہیں:

(۱) احسن الکلام فی اصول عقائد الاسلام، مولانا رحیم اللہ بجنوری

(۲) اسلامی عقائد (اردو)، مولانا محمد عثمان در بھنگوی

(۳) اسلامی عقائد (ہنگلہ)، مولانا محمد عثمان در بھنگوی

(۴) کنز الفرائد ترجمہ شرح عقائد، مولانا عبدالاحد دیوبندی

(۵) حدود مادہ و روح، مولانا محمد ادریس کاندھلوی

(۶) الدین القیم، مولانا سید مناظر احسن گیلانی

(۷) علم الکلام، مولانا محمد ادریس کاندھلوی

(۸) عقائد الاسلام، مولانا محمد ادریس کاندھلوی

(۹) عقائد الاسلام قاسمی، مولانا محمد طاہر قاسمی دیوبندی

(۱۰) عقائد الفرائد حاشیہ شرح عقائد، مولانا محمد علی چانگامی

(۱۱) حاشیہ عقیدۃ الطحاوی، مولانا قاری محمد طیب قاسمی

(۱۲) رحمۃ اللہ الواسعۃ شرح حجۃ اللہ البالغۃ، مفتی سعید احمد پالن پوری

(۱۳) بیان الفوائد شرح عقائد، مولانا مجیب اللہ گونڈوی

دارالعلوم میں باقاعدہ شعبہ دعوت و تبلیغ قائم ہے جس کو ہمیشہ باصلاحیت علماء و فضلاء کی خدمات حاصل رہی ہیں جو تقریر و مناظرہ اور افہام و تفہیم کے ذریعہ دین کی تبلیغ کا اہم کام انجام دیتے رہے ہیں۔ اس وقت بھی اس شعبہ میں حضرات مبلغین مقرر ہیں جو مختلف علاقوں میں مدارس اور عام مسلمانوں کی دعوت پر سفر کرنے کے علاوہ اقدامی طور پر بھی تبلیغی اسفار کرتے ہیں۔ بلاشبہ ان حضرات کی مساعی جمیلہ مسلمانوں کو دین اسلام پر ثابت قدم رکھنے اور دارالعلوم سے قریب لانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ دارالعلوم اس وقت قائم ہو واجب ہندوستان میں اسلام مخالف طاقتیں پوری طرح سرگرم عمل تھیں اور ان کی عیاریوں اور دسیسہ کاریوں سے وہ وقت قریب نظر آ رہا تھا کہ ہندوستان میں مذہبی تعلیم، اسلامی احکام اور شعائر دین کی روشنی گم یا کم از کم مدھم ہو جائے۔ اس پر آشوب وقت میں دارالعلوم نے ملت کی ڈگمگاتی کشتی کو سنبھالا؛ اس لئے جہاں تک مسلمانوں کی نشاۃ ثانیہ کا تعلق ہے بے تکلف کہا جاسکتا ہے کہ اس کی تاریخ کا بڑا حصہ دارالعلوم کی مسلسل تعلیمی اور تبلیغی کوششوں کے دامن سے وابستہ ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ فکر و خیال کے ان ہنگاموں اور فتنہ مغرب میں ڈوبی ہوئی تحریکوں کے دور میں اگر دارالعلوم اور اس جیسے دینی ادارے نہ ہوتے تو اس بھیا تک سیاسی اور تہذیبی انقلاب کے سامنے شکست خوردہ مسلم قوم جمود و بے حسی کے نہ جانے کس گرداب میں پھنسی ہوتی۔ یہ عزم و یقین کے دھنی ان اکابر علمائے کرام کا ہی کارنامہ ہے کہ پورے ہندوستان میں نہ صرف یہ کہ اسلام اور مسلمانوں کے عقائد و اعمال پوری طرح محفوظ رہے، بلکہ اسلام اور علوم اسلامیہ کے عظیم الشان سرمایہ کی نشرو اشاعت کے عظیم مراکز بھی قائم ہو گئے۔

حوالہ جات:

- (۱) پاجا سراغ زندگی، مولانا ابوالحسن علی ندوی، ص ۱۳۵
- (۲) مسلمانوں کا روشن مستقبل، سید طفیل احمد منگلوری، ص ۱۷۱
- (۳) دارالعلوم دیوبند: احیائے اسلام کی عظیم تحریک، مولانا اسیر ادروی، ص ۱۲۲ تا ۲۹
- (۴) ایضاً، ص ۱۲۳ تا ۱۶۲
- (۵) روزنامہ الجمعیت، دارالعلوم دیوبند نمبر مارچ ۱۹۸۰ء، ص ۱۱۹ تا ۱۲۰
- (۶) تاریخ دارالعلوم، اول، ص ۲۶۲، بحوالہ روشن مستقبل
- (۷) تاریخ دارالعلوم دیوبند، اول، ص ۲۶۲؛ احیائے اسلام کی عظیم تحریک، ص ۱۶۴ تا ۱۸۹

علمائے دیوبند اور عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ

برطانوی دور حکومت میں مغربی تہذیب و تعلیم اور عیسائی مشنریوں کی یلغار کے علاوہ تشکیک پیدا کرنے کی ایک طاقت و تحریک بھی جاری تھی جس کا مقصد اسلام سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کو مسلمانوں جو انوں کی نظر میں مشتبہ و مشکوک بنا دینا تھا، خواہ اس کا تعلق شریعت و قانون سے ہو یا تہذیب و تمدن اور ثقافت و تاریخ سے، ہندوستانی علماء نے ان دونوں تحریکوں اور طاقتوں کا پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کیا، خاص طور سے علمائے دیوبند نے معذرت و دفاع کے طریقے کو ترک کر کے اقدام و حملے کی سیاست اور بھرپور علمی تنقید کا راستہ اختیار کیا۔ اس کے نتیجے میں تبلیغ عیسائیت کی یہ تیز و تند لہریں اور تشکیک کی پوری مہم پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہو گئی اور مسلمانوں کے اندر اسلام پر نیا اعتماد، اپنی تہذیب و ثقافت پر فخر اور اپنی شخصیت و تاریخ کا احترام پیدا ہو گیا۔

عیسائی مشنریوں کو جب اپنے تمام حربوں میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا اور ان کی تمام چالیں اور پروپیگنڈے ناکام ہوئے تو انھوں نے مسلمانوں کے ہی اندر ایسے افراد کی تلاش شروع کر دی جو مسلمانوں کے لئے مایہ آستیں ثابت ہوں اور اسلام کی مقدس تعلیمات کو مسخ کر سکیں، چنانچہ انگریزوں کے اشارہ پر پنجاب کا مرزا غلام احمد قادیانی پہلے مسیح موعود، پھر مہدی اور ظلی و بروزی کا فلسفہ بیان کرنے کے بعد باضابطہ نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا، جب کہ ختم نبوت پر مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے اور اس کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ برطانوی حکومت کے زیر اثر اس کے قبیحین پورے ملک میں پھیلنے لگے اور دیکھتے دیکھتے یہ لعنت ایک سنگین فتنہ بننے لگی۔

مرزا غلام احمد کی تکفیر اور قادیانیت کی سرکوبی

علمائے دیوبند کو یہ شرف حاصل ہے کہ انھوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کا تعاقب سب سے پہلے شروع کیا۔ ۱۳۰۱ھ میں جب مرزا قادیانی نے مجددیت کے پردے میں اپنے مزعومہ الہامات کو ”وحی الہی“ کی حیثیت سے ”براہین احمدیہ“ میں شائع کیا تو لدھیانہ کے کچھ علماء (مولانا محمد، مولانا عبد اللہ اور مولانا اسماعیل رحمہم اللہ جو حضرات دیوبند کے مفتیین میں تھے) نے فتویٰ صادر کیا کہ یہ شخص مسلمان نہیں ہے، بلکہ اپنے عقائد و نظریات کے اعتبار سے زندیق اور خارج اسلام ہے۔ مرزا قادیانی اور اس کے دعووں کے متعلق مکمل طور پر اطمینان حاصل کرنے کے بعد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ نے بھی مرزا قادیانی اور اس کے پیروؤں کو زندیق اور خارج از اسلام قرار دیا۔ حضرت گنگوہیؒ تمام اکابر دیوبند کے سرخیل و مقتدی تھے اور ان کا فتویٰ گویا پوری جماعت کا متفقہ فتویٰ تھا؛ یہی وجہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اس ضرب کی ٹیس کو آخر دم تک محسوس کرتا رہا۔

۱۳۳۱ھ میں دارالعلوم دیوبند سے مرزا غلام احمد قادیانی اور فتنہ قادیانیت کے خلاف ایک تفصیلی فتویٰ شائع ہوا جس پر حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا انور شاہ کشمیری اور دیگر اکابرین دیوبند کے دستخط تھے۔ یہ فتویٰ حضرت مولانا مفتی سہول احمد صاحب کے قلم سے تھا۔ ۱۳۳۶ھ میں ایک تیسرا تفصیلی فتویٰ دارالعلوم کے مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمنؒ کے قلم سے صادر ہوا جس پر تمام مشاہیر علمائے ہند کے دستخط تھے۔ ادھر مکہ مکرمہ میں حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانویؒ نے قادیانی کے خلاف کفر و ارتداد کا فتویٰ صادر فرمایا جس پر علمائے حرمین کے بھی دستخط تھے۔ (ماہنامہ الرشید، دارالعلوم دیوبند نمبر، ص ۶۷)

مسئلہ تکفیر بہت ہی نازک مسئلہ ہے۔ ایک مسلمان کو جس طرح کافر کہنا بہت ہی سنگین جرم ہے، اسی طرح کسی کھلے کافر کو مسلمان کہنے پر اصرار کرنا بھی معمولی بات نہیں۔ مرزا قادیانی کے خلاف تکفیر کے فتوؤں سے علمائے دیوبند کا ایک خصوصی امتیاز سامنے آیا اور وہ تھا ان کا مسلک اعتدال۔ اس وقت عام طور پر لوگ اس مسئلہ میں افراط و تفریط کا شکار تھے۔ ان دونوں گروہوں کے طرز عمل سے خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ خدا نخواستہ ان کی بے احتیاطی سے کفر و اسلام کی حدود ہی مٹ کر نہ رہ جائیں۔ بالآخر علمائے دیوبند نے آگے بڑھ کر اسلام اور کفر کے حدود کو ممیز کیا اور لوگوں کو بتایا کہ اسلام اور کفر کے درمیان خط فاصل کیا ہے اور وہ کون سی حد ہے جس کو عبور کر لینے کے بعد آدمی اسلام سے بالکلیہ خارج ہو جاتا ہے۔ اس موضوع پر حضرت علامہ انور شاہ کشمیریؒ نے ”اکفار الملحدین فی شئی من ضروریات الدین“ میں تحقیق کا حق ادا کر دیا۔ نیز دیگر علمائے دیوبند نے بھی اس مسئلہ پر قلم اٹھایا اور اس مسئلہ کو خوب منقح کر کے امت کے سامنے حق و باطل کو واضح کر دیا۔ علمائے دیوبند شروع ہی سے اس نتیجہ تک پہنچ گئے کہ مرزا غلام احمد کے قبیحین کا شمار مسلمانوں کے ایک فرقہ کی حیثیت سے نہیں ہے بلکہ وہ غیر مسلموں کی ایک جماعت ہے جس کا اسلام کے مسئلہ اور بنیادی اصولوں سے کوئی تعلق نہیں بلکہ غیر مسلموں سے کہیں زیادہ یہ گروہ اسلام اور مسلمانوں کا دشمن ہے۔

فتنہ قادیانیت کی سرکوبی کے لیے امتیازی شان سے کام کرنے کی توفیق اکابر دارالعلوم ہی کو میسر ہوئی ہے جن میں مولانا علامہ سید انور شاہ کشمیریؒ، مولانا محمد علی مونگیریؒ، مولانا احمد حسن امرہوئیؒ، مولانا حبیب الرحمن عثمانیؒ، مولانا شبیر احمد عثمانیؒ، مولانا عبد السمیع انصاری دیوبندیؒ، مولانا محمد مسلم دیوبندیؒ، مولانا مرتضیٰ حسن چاند پوریؒ، مولانا احمد علی لاہوریؒ، مولانا حبیب الرحمن لدھیانویؒ، مولانا ثناء اللہ امرتسریؒ، مولانا مفتی شفیع دیوبندیؒ، مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ، مولانا بدر عالم میرٹھیؒ، مولانا محمد علی جالندھریؒ، مولانا ابوالوفاء شاہ جہانپوریؒ اور مولانا نور محمد ٹانڈویؒ وغیرہ کے اسمائے گرامی قابل ذکر ہیں۔ علمائے دیوبند کی عظیم الشان تحریری، تقریری اور مناظرانہ خدمات کی بدولت قادیانیت کا پورے ملک میں کامیابی کے ساتھ تعاقب کیا گیا اور قادیانیوں کو عوامی حلقوں سے لے کر عدالتی کمروں تک ہر محاذ پر شکست فاش دے دی گئی۔

حضرت علامہ انور شاہ کشمیریؒ نے خصوصیت کے ساتھ ختم نبوت کے تحفظ اور دفاع میں نمایاں کردار ادا کیا۔ آپ نے اپنے لائق و فائق شاگردوں کو ختم نبوت کے دفاع کے مشن پر لگا دیا۔ آپ نے فتنہ قادیانیت کے

استیصال کے لیے مسلمانوں کو منظم کرنے کی کوشش کی اور آخر میں تنظیم احرار اسلام کے صدر حضرت مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری کو امیر شریعت بنا کر روادیا نیت کی کمان سونپ دی۔

انگریزوں کی سرپرستی میں کچھ ہی عرصہ میں قادیانیت جسد اسلامی کے لیے ایک ناسور بن گئی تھی۔ یہ دنیا کا مال دار ترین گروہ تھا اور اس کا نظام کار عیسائی مشنریوں جیسا تھا۔ اس نازک وقت میں جب علمائے اسلام ملک کی آزادی کی خاطر قید و بند کی آزمائشوں سے گزر رہے تھے، قادیانیوں نے انگریزوں کی سرپرستی میں اپنی تبلیغی سرگرمیاں جاری رکھیں اور خصوصیت کے ساتھ ایسے لوگوں پر محنت کی جو اہم سرکاری عہدوں پر فائز تھے۔

پاکستان میں قادیانیت کی بیخ کنی

۱۹۴۷ء میں جب تقسیم ہند کا سانحہ پیش آیا اور پاکستان معرض وجود میں آیا، قادیانیوں نے اپنی سرگرمیاں پاکستان منتقل کر لیں اور چنیوٹ کے قریب ایک شہر آباد کر کے اس کا نام ربوہ (چناب نگر) رکھا اور اس کو اپنا مرکز بنا لیا۔ پاکستان میں اپنا مرکز منتقل کرنے میں قادیانیوں کے دلوں میں یہ جذبہ کارفرما تھا کہ پاکستان ایک نومولود ملک ہے اور پہلے ہی دن سے اہم اور کلیدی عہدوں پر قادیانی قابض ہیں؛ لہذا ایک نہ ایک دن ہم اس ملک کی باگ ڈور کے مالک بن جائیں گے۔ خطرناک بات یہ تھی پاکستانی فوج کے اعلیٰ فوجی عہدہ داروں میں ایک دو کے علاوہ باقی سب قادیانی تھے اور ملک کا وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان کٹر قادیانی تھا۔ حکومت کے دفاتر میں کلیدی عہدوں پر قادیانیوں کا تسلط تھا اور حکومت کی پالیسیوں میں ان کا عمل دخل تھا۔

ایسے نازک حالات میں پاکستان میں قادیانیوں کے بڑھتے اثر و رسوخ اور حکومت کے دروبست پر بدترج ان کے قبضہ و تسلط کے پیش نظر علمائے دیوبند نے ایک غیر سیاسی خالص تبلیغی تنظیم 'مجلس تحفظ ختم نبوت' کی بنیاد ڈالی جس کے پہلے امیر اور قائد حضرت مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری تھے۔ دوسری طرف سیاسی میدان میں بھی حضرت مولانا محمد یوسف بنوری اور دیگر علمائے دیوبند نے قادیانیت کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر دیا۔ ملکی اور بین الاقوامی سطح پر مسلمانوں کو قادیانی فتنہ کی سنگینی سے آگاہ کرنے اور قادیانیوں کے خلاف رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے انھوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ ختم نبوت کے مجاہدین کو قید و بند کی صعوبتوں اور جبر و تشدد کا نشانہ بنا پڑا، لیکن انھوں نے مردانہ وار تمام مخالف حالات کا مقابلہ کیا اور آخر کار علماء کی مسلسل جدوجہد کی بنا پر پاکستان کی قومی اسمبلی نے ۷ ستمبر ۱۹۷۴ء کو قادیانیوں کی دونوں شاخوں (قادیانی اور لاہوری) کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا۔

پاکستان میں تحریک تحفظ ختم نبوت میں نمایاں خدمات انجام دینے والوں میں حضرت مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری، حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری، حضرت مفتی محمود صاحب، حضرت مولانا محمد حیات صاحب، حضرت مولانا محمد علی جالندھری، حضرت مولانا خیر محمد جالندھری، حضرت قاضی احسان احمد شجاع آبادی، حضرت مولانا

یوسف لدھیانوی، حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی و دیگر علمائے دیوبند پیش پیش تھے۔

رابطہ عالم اسلامی کی متفقہ قرارداد

پاکستان کے علمائے دیوبند نے قادیانی فتنہ کا مقابلہ کرنے کے لیے ملکی اور بین الاقوامی سطح پر رائے عامہ کو ہموار کرنے کی کوشش کی اور عالم اسلام کو قادیانیت کے دجل و فریب اور اس کی خطرناکی سے آگاہ کیا۔ پاکستان میں مسلم ممالک کے سفراء، عالم اسلام کے سربراہوں اور عظیم شخصیتوں کو قادیانی فتنہ اور اس کی سیاسی و مذہبی سازشوں سے آگاہ کیا گیا جس کے نتیجے میں قادیانیت کے خلاف سب سے پہلی اور بڑی کامیابی اس وقت ملی جب رابطہ عالم اسلامی نے مکہ مکرمہ میں ربیع الاول ۱۳۹۲ھ مطابق اپریل ۱۹۷۱ء کی بین الاقوامی عظیم الشان کانفرنس میں قادیانیت کے خلاف قرارداد پاس کی۔ اس کانفرنس میں عالم اسلام کی ۱۴۴ تنظیموں کے نمائندے شریک تھے۔ کانفرنس نے اپنی متفقہ قرارداد میں کہا کہ قادیانیت ایک نہایت خطرناک باطل تحریک ہے جو اپنی اغراض خبیثہ پر پردہ ڈالنے کے لیے اسلام کا لبادہ اوڑھتا ہے۔ قادیانیت کے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے کانفرنس نے طے کیا کہ دنیا کی تمام اسلامی تنظیمیں قادیانی سازشوں کا تعاقب کریں اور ان کا معاشرتی و اقتصادی بائیکاٹ کریں۔ کانفرنس نے اسلامی حکومتوں سے مطالبہ کیا کہ وہ قادیانیوں کی ہر قسم کی سرگرمیوں پر پابندی لگائیں اور انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیں۔

علمائے دیوبند کی پیہم اور مجاہدانہ کوششوں سے قادیانیت کی کمر ٹوٹ گئی۔ عالم اسلام کے سب سے بڑے ملک پاکستان اور عالم اسلام کی سب سے عظیم تنظیم رابطہ عالم اسلامی کی طرف سے ان کو غیر مسلم قرار دلوا کر انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ قادیانیت کا اسلام سے کچھ لینا دینا نہیں ہے اور قادیانیت بھی دنیا کے دیگر کافرانہ مذاہب و تحریکات میں سے ایک تحریک ہے۔ اب قادیانیوں کے پاسپورٹ اور دیگر سرکاری کاغذات پر انہیں مسلمان نہیں لکھا جائے گا اور وہ خود کو مسلمان جتا کر دوسروں کو دھوکا نہیں دے سکیں گے۔ اس سے مسلمان روز روز کی درد ساری سے محفوظ ہو گئے۔

قادیانیت کی ہندوستان واپسی اور دارالعلوم دیوبند کی خدمات

اپریل ۱۹۸۴ء میں جب مرحوم صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق نے امتناع قادیانیت آرڈیننس جاری کیا تو قادیانیوں کا موجودہ سربراہ مرزا طاہر فرار ہو کر لندن پہنچ گیا اور قادیانیوں نے دوبارہ اپنی سرگرمیوں کا رخ ہندوستان کی طرف پھیر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دارالعلوم دیوبند کے ارباب حل و عقد نے اس فتنہ کے دوبارہ سر اٹھانے کو بروقت بھانپ لیا اور انہوں نے حضرت مولانا سید اسعد صاحب مدنی صدر جمعیۃ علمائے ہند و رکن مجلس شوریٰ دارالعلوم دیوبند کی خصوصی تحریک پر قادیانیت کے تعاقب کے لیے مسلمانوں میں عموماً اور ذمہ داران مدارس عربیہ میں خصوصاً اجتماعی جدوجہد کی ضرورت کا احساس پیدا کرنے کے لیے ۲۹ تا ۳۱ اکتوبر ۱۹۸۶ء کو دارالعلوم دیوبند میں سہ روزہ عالمی اجلاس تحفظ ختم نبوت منعقد کیا۔ اس اجلاس کے صدر حضرت مولانا مرغوب

الرحمن صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند تھے اور اجلاس کا افتتاح حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی ناظم دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ نے فرمایا۔ ۳۱ اکتوبر کو اختتامی اجلاس میں جناب ڈاکٹر عبداللہ عمر نصیف سابق جنرل سکریٹری رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ نے اپنے وقیع خطاب میں فرمایا:

”میں دارالعلوم دیوبند کو اس اہم ترین اقدام کے لیے مبارک باد پیش کرتا ہوں، درحقیقت دارالعلوم دیوبند کے بزرگوں نے ہندوستان میں قادیانیت کے مہیب فتنہ اور اس کی ازسرنو کوششوں کو ختم کرنے کے لیے عالمی سطح پر یہ اجلاس منعقد کر کے اپنی بیداری کا مظاہرہ کیا ہے۔ میں اس تاریخی اجلاس میں شرکت کو اپنی خوش نصیبی تصور کرتا ہوں۔“

اس فتنہ کی سرکوبی کے لیے شرکائے اجلاس میں نیا عزم اور حوصلہ پیدا ہوا اور اس موقع پر کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت کا قیام عمل میں آیا۔ جس کے صدر حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب مہتمم دارالعلوم اور ناظم اعلیٰ حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالن پوری استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند منتخب ہوئے اور حضرت مولانا قاری محمد عثمان صاحب منصور پوری ناظم بنائے گئے۔ ملک بھر کی موثر شخصیات پر مشتمل ۲۳ حضرات کی مجلس عاملہ تشکیل دی گئی۔ ۱۹۸۶ء کے اجلاس کے بعد سے ہی دارالعلوم میں کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت کا مرکزی دفتر قادیانیت کے سلسلہ میں مصروف عمل ہے جس کی شاخیں ملک کے طول و عرض میں پھیلی ہوئی ہیں۔

مجلس تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند نے ملک کے ایسے ایسے مقامات پر جہاں قادیانی فتنہ کسی شکل میں موجود تھا وہاں کے علماء و ائمہ کو اس فتنہ کی دسیسہ کاریوں اور تباہ کاریوں سے آگاہ کرنے کے لیے تربیتی کیمپوں کا سلسلہ شروع کیا۔ سب سے پہلے حضرت مولانا محمد اسماعیل کنگلی کی سرپرستی میں دارالعلوم دیوبند میں ۱۹۸۸ء میں دس روزہ تربیتی کیمپ منعقد کیا گیا جس میں بہت سے علماء کو رد قادیانیت کی تربیت دی گئی۔ دارالعلوم نے دوسرا تربیتی کیمپ ۱۹۹۰ء میں مشہور عالم حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی (پاکستان) کی زیر نگرانی و تربیت منعقد کیا۔ مجلس تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند کی طرف سے پورے ہندوستان میں قادیانیوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھی جاتی ہے اور وقتاً فوقتاً حسب موقع و ضرورت تربیتی کیمپوں، جلسوں اور مناظروں کے ذریعہ عام مسلمانوں کو اس فتنہ سے آگاہ کیا جاتا ہے اور اس جماعت کے پرچار کوں کا تعاقب کیا جاتا ہے۔

خلاصہ کلام

الحمد للہ علمائے دیوبند کو یہ فخر حاصل ہے کہ جب ختم نبوت کے اس عظیم بنیادی عقیدہ پر یلغار کی گئی اور انگریز کی خانہ ساز نبوت مسلمانوں کو ارتداد کی دعوت دینے لگی تو علمائے دیوبند سب سے پہلے پوری قوت کے ساتھ میدان میں آئے اور مسلمانوں کو اس ارتدادی فتنہ سے خبردار کیا۔ اکابر دارالعلوم اور اساطین علمائے دیوبند میدان میں نکلے اور اپنی گراں قدر علمی تصانیف، موثر تقاریر اور لاجواب مناظروں سے انگریزی نبوت کے دجل و فریب کا اس طرح

پردہ چاک کیا اور ہرمخاز پر ایسا کامیاب تعاقب کیا کہ اسے اپنے مولد و منشاء لندن میں محصور ہو جانا پڑا۔ علمائے دیوبند کے علمی و فکری مرکز دارالعلوم دیوبند کی زیر نگرانی حریم ختم نبوت کی پاسبانی کی یہ مبارک خدمت پوری توانائیوں کے ساتھ آج بھی جاری و ساری ہے۔

ردقادیانیت پر علمائے دیوبند کی تصنیفی خدمات ایک نظر میں

ردقادیانیت کے موضوع پر سب سے زیادہ کام علمائے دیوبند نے انجام دیا ہے۔ اس موضوع پر جتنی کتابیں لکھی گئیں ہیں غالباً کسی ملحدانہ تحریک پر اتنا لٹریچر تیار نہیں ہوا ہوگا۔ ذیل میں علمائے دیوبند کی تالیف کردہ کتابوں کی ایک فہرست پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ فہرست تمام کتابوں کا احاطہ نہیں کرتی، اگر مزید تلاش و جستجو کی جائے تو اور بھی کتابیں سامنے آسکتی ہیں۔

- (۱) عقیدۃ الاسلام فی حیۃ عیسیٰ، علامہ انور شاہ کشمیریؒ
- (۲) تحیۃ الاسلام، علامہ انور شاہ کشمیریؒ
- (۳) اکفار الملحدین فی شیء من ضروریات الدین، علامہ انور شاہ کشمیریؒ
- (۴) خاتم التبیین، علامہ انور شاہ کشمیریؒ
- (۵) التصریح بما تو اترنی نزول المسیح، علامہ انور شاہ کشمیریؒ
- (۶) الخطاب المسیح فی تحقیق المہدی و المسیح، مولانا اشرف علی تھانویؒ
- (۷) الشہاب، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانیؒ
- (۸) الجواب المسیح لمنکر حیۃ المسیح، مولانا بدر عالم میرٹھی مہاجر مدنی
- (۹) نزول عیسیٰ علیہ السلام، مولانا بدر عالم میرٹھی مہاجر مدنی
- (۱۰) فتنۃ قادیانیت، مولانا محمد یوسف بنوریؒ
- (۱۱) کلمۃ السر فی حیۃ روح السر، حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ
- (۱۲) کلمۃ اللہ فی حیۃ روح اللہ، مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ
- (۱۳) مسک الختم فی ختم نبوۃ سید الانام، مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ
- (۱۴) اسلام اور مرزائیت کا اصولی اختلاف، مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ
- (۱۵) لطائف الحکم فی اسرار نزول عیسیٰ علیہ السلام، مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ
- (۱۶) مسلمان کون ہے اور کافر کون؟ مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ
- (۱۷) دعاوی مرزا، مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ

- (۱۸) القول المحکم، مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ
- (۱۹) حقیقت مرزا، مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ
- (۲۰) شرائط نبوت، مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ
- (۲۱) مولانا نانوتویؒ پر مرزائیوں کا بہتان، مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ
- (۲۲) مرزائی لیٹرچر میں توہین انبیاء، مولانا بہاء الحق قاسمی صاحب امرتسری
- (۲۳) ایمان کی کسوٹی، مصنفہ مولانا محمد مسلم صاحب دیوبندی
- (۲۴) مسلم پاکٹ بک، مولانا محمد مسلم صاحب دیوبندی
- (۲۵) آفتاب اسلام بجواب انوار احمدیہ، مولانا محمد مسلم صاحب دیوبندی
- (۲۶) ختم نبوت، مفتی محمد شفیع عثمانیؒ
- (۲۷) مسیح موعود کی پہچان، مفتی محمد شفیع عثمانیؒ
- (۲۸) ایمان و کفر، مفتی محمد شفیع عثمانیؒ
- (۲۹) اسلامی تبلیغی انسائیکلو پیڈیا، مفتی محمد شفیع عثمانیؒ
- (۳۰) مسلمانوں کو مرزائیت سے نفرت کے اسباب، مولانا احمد علی لاہوریؒ
- (۳۱) الہامات مرزا، مولانا ثناء اللہ امرتسریؒ
- (۳۲) صاعقہ آسمانی برفرقہ قادیانی، مولانا محمد مرتضیٰ حسن چاند پوریؒ
- (۳۳) مرزائیت کا خاتمہ، مولانا محمد مرتضیٰ حسن چاند پوریؒ
- (۳۴) تحقیق الکفر والایمان، مولانا محمد مرتضیٰ حسن چاند پوریؒ
- (۳۵) فتح قادیان کا دلکش نظارہ، مولانا محمد مرتضیٰ حسن چاند پوریؒ
- (۳۶) مرزائیت کا جنازہ بے گور و کفن، مولانا محمد مرتضیٰ حسن چاند پوریؒ
- (۳۷) اشد العذاب علی مسیئۃ الکذاب، مولانا محمد مرتضیٰ حسن چاند پوریؒ
- (۳۸) اول السبعین، مولانا محمد مرتضیٰ حسن چاند پوریؒ
- (۳۹) ثانی السبعین، مولانا محمد مرتضیٰ حسن چاند پوریؒ
- (۴۰) صحیحۃ الحق، مولانا محمد مرتضیٰ حسن چاند پوریؒ
- (۴۱) قادیان میں زلزلہ، مولانا محمد مرتضیٰ حسن چاند پوریؒ
- (۴۲) دین مرزا کفر خالص، مولانا محمد مرتضیٰ حسن چاند پوریؒ
- (۴۳) القادیانی والقادیانیہ، مولانا ابوالحسن علی ندویؒ
- (۴۴) قادیانیت پر غور کرنے کا سیدھا راستہ، مولانا محمد منظور نعمانیؒ

- (۴۱) کفر و اسلام کی حدود اور قادیانیت، مولانا محمد منظور نعمانی
- (۴۲) اہمّتی القادیانی، مولانا مفتی محمود پشاوری
- (۴۳) اسلام اور قادیانیت کا تقابلی مطالعہ، مولانا عبدالغنی پٹیلوی
- (۴۴) فلسفہ ختم نبوت، مولانا حفیظ الرحمن سیوہاروی
- (۴۵) عقیدۃ الامتہ فی معنی ختم النبوة، علامہ خالد محمود
- (۴۶) علامات قیامت، مفتی محمد رفیع عثمانی
- (۴۷) مسئلہ ختم نبوت علم و عقل کی روشنی میں، مولانا محمد اسحاق سندیلوی
- (۴۸) ائمہ تبلیغیہ، مولانا ابوالقاسم رفیق دلاوری
- (۴۹) رئیس قادیان، مولانا ابوالقاسم رفیق دلاوری
- (۵۰) قادیانی نبوت کا خاتمہ، مفتی نعیم لدھیانوی
- (۵۱) ترک مرزائیت، مولانا لال حسین اختر صاحب
- (۵۲) مسیح علیہ السلام مرزا قادیانی کی نظر میں، مولانا لال حسین اختر صاحب
- (۵۳) عمل مرزا، مولانا لال حسین اختر صاحب
- (۵۴) ختم نبوت اور بزرگان امت، مولانا لال حسین اختر صاحب
- (۵۵) قادیانی دجل کا جواب، قاضی مظہر حسین چکوال
- (۵۶) عبرت ناک موت، مولانا لال حسین اختر صاحب
- (۵۷) قادیانی مفتی کا جھوٹ اسہال میں وصال، مولانا لال حسین اختر صاحب
- (۵۸) قادیانی ریشہ دوانیاں، مولانا لال حسین اختر صاحب
- (۵۹) مسلمانوں کی نسبت مرزائیوں کا عقیدہ، مولانا لال حسین اختر صاحب
- (۶۰) خلیفہ قادیانی جواب دیں، مولانا محمد علی جالندھری
- (۶۱) مرزائیوں کا سیاسی کردار، مولانا محمد علی جالندھری
- (۶۲) تحفہ قادیانیت، مولانا محمد یوسف لدھیانوی
- (۶۳) قادیانی کا مقدمہ، مولانا محمد یوسف لدھیانوی
- (۶۴) عقیدہ ختم نبوت اور کلمہ طیبہ کی توہین، مولانا محمد یوسف لدھیانوی
- (۶۵) نزول عیسیٰ اور مسیح کی شناخت، مولانا محمد یوسف لدھیانوی
- (۶۶) کذب بات مرزا، مولانا نور محمد ٹانڈوی
- (۶۷) مغالطات مرزا، مولانا نور محمد ٹانڈوی

- (۶۸) اختلافات مرزا، مولانا نور محمد ٹانڈوی
- (۶۹) کفریات مرزا، مولانا نور محمد ٹانڈوی
- (۷۰) تناقضات مرزا، مولانا نور محمد ٹانڈوی
- (۷۱) کرشن قادیانی آریہ تھے یا عیسائی؟ مولانا نور محمد ٹانڈوی
- (۷۲) رد مرزائیت کے زریں اصول، مولانا منظور احمد چینیوٹی
- (۷۳) انگریزی نبی، مولانا منظور احمد چینیوٹی
- (۷۴) مرزائیوں کا عبرت ناک انجام، مولانا منظور احمد چینیوٹی
- (۷۵) الہامی گرگٹ، مولانا منظور احمد چینیوٹی
- (۷۶) غدار کی تلاش، مولانا منظور احمد چینیوٹی
- (۷۷) محاضرات رد قادیانیت، قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری
- (۷۸) قادیانی شبہات کے جوابات، مولانا اللہ وسایا صاحب
- (۷۹) پارلیمنٹ میں قادیانی شکنی، مولانا اللہ وسایا صاحب
- (۸۰) دعاوی مرزا، مولانا اللہ وسایا صاحب
- (۸۱) تفاسیر قرآن اور مرزائی شبہات، مولانا شاہ عالم گورکھپوری
- (۸۲) مرزائیت اور عدالتی فیصلے، مولانا شاہ عالم گورکھپوری
- وغیرہ وغیرہ

مآخذ:

- دارالعلوم دیوبند: احیائے اسلام کی عظیم تحریک، ص ۱۹۰ تا ۲۹۴
- دارالعلوم دیوبند اور تحفظ ختم نبوت، مولانا محمد یوسف لدھیانوی، الرشید لاہور، دارالعلوم دیوبند نمبر، ص ۶۶۵ تا ۷۱۷

علمائے دیوبند اور ردِ شیعیت

برصغیر ہند میں اکثر مسلم سلطنتیں اور مغلیہ حکومت کے سربراہان اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے تھے، البتہ ملک میں کہیں کہیں شیعہ حکومتیں یا ریاستیں بھی قائم ہوئیں جن میں بہمنی سلطنت (۱۳۳۷ء-۱۵۲۷ء)، فیض آباد و لکھنؤ کی اودھ حکومتیں (۱۷۲۲ء تا ۱۸۵۸ء) اور نوابان رام پور زیادہ نمایاں ہوئے ہیں۔ ایران کی شیعہ صفوی حکومت نے ہمایوں بادشاہ کو پناہ دی اور اسے ہندوستان کی حکومت دوبارہ دلانے اور سوری حکومت کو شکست دینے میں بھرپور تعاون دیا۔ اس کے بعد سے شاہانِ مغلیہ کے ایران کے ساتھ اچھے مراسم رہے اور اس کی وجہ سے شیعہ عناصر کا حکومت میں عمل دخل رہا۔ خصوصاً اورنگ زیب عالم گیر کے انتقال کے بعد جب مغلیہ حکومت کمزور پڑنے لگی تو ان شیعہ عناصر نے حکومت کی باگ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لی اور بادشاہ ان کے ہاتھوں کھٹ پتلی بنے رہے۔ لال قلعہ میں تعزیر داری اور شہزادوں کا اس میں پوری دل چسپی سے حصہ لینا یہ سب کچھ شیعہ اقتدار کا ثمرہ تھا۔ شیعہ عناصر متعدد بادشاہوں کا تختہ پلٹنے حتیٰ کہ ان کی ایذا و قتل کی سازشوں میں بھی شریک رہے۔ شیعوں کے دورِ عروج میں ان کے خلاف زبان کھولنا کچھ آسان نہیں تھا۔ عام مسلمانوں کا عالم یہ تھا کہ بڑے بڑے سنی جاگیر داروں نے شیعہ عناصر کی داروگیر کے خوف سے اہل تشیع ہونے کا اعلان و اظہار کر دیا تھا۔

اس ماحول میں حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ نے اس فتنہ کا ادراک کر لیا تھا اور ”ازلۃ الخفاء فی خلافت الخلفاء“ اور ”قرۃ العینین فی تفضیل الشیخین“ کے ذریعہ اہل السنۃ والجماعۃ کے موقف کو دلائل و براہین کے ساتھ پیش فرمایا اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے دشمنوں پر ضرب کاری لگائی۔ حضرت شاہ صاحبؒ کے بعد آپ کے فرزند و جانشین حضرت شاہ عبدالعزیزؒ نے ”تحفۃ اثنا عشریہ“ لکھ کر روافض کے سامنے ایک ایسا چیلنج کھڑا کر دیا جس کا علمی جواب ان کے پاس نہ تھا۔ ان کوششوں کی وجہ سے ان حضرات کو شیعوں کے مظالم کا نشانہ بنا پڑا۔

ہندوستان سے شیعہ اثرات کا ازالہ

دارالعلوم ایک ایسے وقت میں قائم ہوا جب کچھ شیعہ حکومتوں اور سلطنتِ مغلیہ میں شیعوں کے گہرے اثرات کی وجہ سے ان کے مذہبی عقائد کی چھاپ پورے ہندوستان پر پڑ گئی تھی۔ پورے ہندوستان میں شیعہ عقائد اور ان کے مشرکانہ رسوم اس طرح غیر شیعہ مسلمانوں کے دل و دماغ میں رچ بس گئے تھے کہ اگرچہ ان کو صحیح طور پر کلمہ شہادت بھی ادا کرنا آتا ہو، مگر وہ تعزیر داری اور اس کے ساتھ عقیدت مندی کا والہانہ جذبہ سینوں میں موج زن رکھتے تھے اور اس کو اپنے مسلمان ہونے کی سند سمجھتے تھے۔ سنی مسلمانوں کی مسجدوں میں تعزیرے رکھے رہتے تھے اور

ان کے محلوں میں چبوترے بنے ہوتے۔ محرم کے مہینے میں سنی مسلمان بڑی عقیدت سے تعزیہ اٹھاتے۔ حیرت ناک بات یہ تھی کہ شیعہ اتنے بڑے ملک میں سنیوں کے مقابل میں مٹھی بھر تھے؛ لیکن کروڑوں اہل السنۃ والجماعۃ مسلمانوں کے دلوں میں شیعوں نے اپنے سارے عقائد و مراسم، جذبات و خیالات کی چھاپ ڈال دی تھی اور پورے ہندوستان کو شیعیت کے رنگ میں رنگ دیا تھا۔

ایسے نازک حالات میں جب کہ ہندوستان میں بیرونی حملوں سے مسلمانوں کے دین و ایمان کو بچانے کی کوششیں جاری تھی، دارالعلوم دیوبند کے اکابرین نے شیعیت اور سبائیت کے فتنہ سے بھی مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کی سعی بلیغ کی۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ کے ان جانشینوں نے ناموس صحابہؓ کے دفاع اور مسلمانوں کے عقائد و اعمال کی اصلاح میں نہایت وقیع اور گراں قدر خدمات انجام دیں۔ حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ نے ’ہدایۃ الشیعہ‘ اور ’اجوبہ اربعین‘ میں اس فرقہ کے ذریعہ اٹھائے گئے سوالوں کا بھرپور جواب دیا ہے۔ اسی طرح حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ نے ’ہدایۃ الشیعہ‘ میں شیعہ پروپیگنڈوں کا بہت مسکت جواب لکھا ہے۔

حضرت نانوتویؒ نے عملی طور پر تعزیہ داری اور دیگر شیعہ رسوم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا بیڑا اٹھایا۔ اس کی ابتدا قصبہ دیوبند ہی کی ایک مسجد سے ہوئی۔ حضرت نانوتوی اور ان کے ایک مرید حاجی محمد یاسین عرف دیوان جی نے اعلان کر دیا کہ اب تعزیہ نہیں اٹھے گا، قصبہ کے شیوخ مرنے مارنے پر آمادہ ہو گئے؛ لیکن دیوبند کے اہل حرفہ حضرت نانوتویؒ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، پھر بالآخر مخالفین مغلوب ہو گئے اور تعزیہ کے ڈھانچے کو توڑ کر پھینک دیا گیا۔ قصبہ کے دوسرے محلوں کے مسلمانوں کو بھی احساس ہوا کہ علمائے حق تعزیہ داری کی مشرکانہ رسم کے مخالف ہیں تو انھوں نے بھی اس سلسلہ میں سنجیدگی سے سوچا اور اپنے اپنے محلوں کی مسجدوں سے تعزیوں کے ڈھانچے نکال کر باہر پھینک دیے۔ اس طرح قصبہ دیوبند کے سنی مسلمانوں کے دلوں سے اس مشرکانہ عقیدہ کے جراثیم دور ہوئے۔ حضرت نانوتویؒ نے اپنے متعدد خطوط میں شیعوں کے پیدا کردہ شکوک اور ان کی خرافات کا پردہ فاش کیا ہے۔ ایسے خطوط اکثر فارسی زبان میں ہیں اور کچھ خطوط اردو میں بھی ہیں جو آپ کے مجموعہ ’مکاتیب فیوض قاسمیہ‘ میں شامل ہیں۔ حضرت نانوتویؒ کی کوششوں سے سادات کے متعدد گھرانے شیعیت سے تائب ہو کر سنی ہوئے۔

حضرت نانوتویؒ کے بعد حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوریؒ عملی جدوجہد کے ساتھ میدان میں آئے۔ آپ نے ریاست بھاول پور میں شیعوں سے لوہا لیا اور انھیں شکست فاش دی۔ رد شیعیت میں آپ کی بلند پایہ تصنیف ’ہدایات الرشید الی انعام العنید‘ ہے جو پونے نو سو صفحات پر پھیلی ہوئی ہے اور اس موضوع کی مدلل اور مفصل ترین کتابوں میں شمار کی جاتی ہے۔ شیعوں کے ساتھ مناظروں کے تجربہ سے دیگر علمائے حق کو روشناس کرانے کے لیے آپ نے ایک دوسری کتاب ’مطرقۃ الکرامہ‘ لکھی۔ حضرت نانوتویؒ کے ایک دوسرے شاگرد حضرت مولانا رحیم اللہ بجنوریؒ نے بھی شیعوں کے رد میں اہم علمی کارنامہ انجام دیا۔ رد شیعیت سے متعلق انھوں نے کئی علمی یادگاریں چھوڑیں۔

بعد کے دور میں شیعیت اور سبائیت کے رد میں نمایاں خدمات انجام دینے والوں میں امام اہل السنۃ والجماعۃ

حضرت مولانا عبدالشکور فاروقی لکھنوی کا نام نامی سرفہرست ہے۔ حضرت مولانا لکھنوی نے اس اہم موضوع کے ہر گوشے سے متعلق اس قدر معلومات فراہم کر دیں کہ اس باب میں ان کا کوئی ہم پلہ نظر نہیں آتا۔ آپ نے مناظروں اور تقاریر کے ذریعہ شیعہ ایوانوں میں زلزلہ برپا کر دیا اور تاعمر شیعیت کے خلاف شمشیر براں بنے رہے۔ دیگر علمائے دیوبند خصوصاً حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی اور حضرت مولانا حبیب الرحمن محدث اعظمی وغیرہ نے آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کیا۔

دارالعلوم نے صرف رسمی تعلیم پر اکتفاء نہیں کیا؛ بلکہ پورے مسلم معاشرہ کے اعمال و عقائد کی اصلاح کا بیڑا بھی اٹھایا۔ قیام دارالعلوم کے کچھ عرصہ بعد ہی علمائے حق نے بدعات و خرافات اور شرکانہ رسوم و عقائد کے خلاف جو چوکھی لڑائی چھیڑی، اس جنگ میں علمائے حق کے ایک حریف شیعہ بھی تھے۔ علمائے دیوبند کی ان ہی مخلصانہ تبلیغی و اصلاحی کوششوں سے آہستہ آہستہ سنی مسلمانوں سے شیعہ اثرات دور ہوئے اور انھوں نے شیعہ رسوم و خرافات سے توبہ کی۔

ناموس صحابہ کا دفاع

علمائے دارالعلوم دیوبند تمام صحابہ (رضی اللہ عنہم اجمعین) کی عظمت کے قائل ہیں؛ البتہ ان میں باہم فرق مراتب ہے تو عظمت مراتب میں بھی فرق ہے؛ لیکن نفس صحابیت میں کوئی فرق نہیں؛ اس لیے محبت و عقیدت میں بھی فرق نہیں پڑ سکتا پس ”الصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُذْوُلٌ“ اس مسلک کا سنگ بنیاد ہے۔ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خیر القرون میں سب سے پہلے نمبر پر ہیں اور پوری امت کے لیے معیارِ حق ہیں۔ علمائے دیوبند انھیں غیر معصوم ماننے کے باوجود ان کی شان میں بدگمانی اور بدزبانی کو جائز نہیں سمجھتے اور صحابہ کے بارے میں اس قسم کا رویہ رکھنے والے کو حق سے منحرف سمجھتے ہیں۔ علمائے دیوبند کے نزدیک ان کے باہمی مشاجرات میں خطا و صواب کا تقابل ہے، حق و باطل اور طاعت و معصیت کا نہیں؛ اس لیے ان میں سے کسی فریق کو تنقید و تنقیص کا ہدف بنانے کو جائز نہیں سمجھتے۔ علمائے دیوبند حضراتِ شیخین کی تفصیل کے قائل ہیں اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے عظمت و احترام کے قائل ہیں؛ لیکن بد قسمتی سے ہندوستان میں انگریزوں کی سازش سے ایسی صورت حال پیدا ہو گئی کہ شیعوں کی طرف سے حضراتِ صحابہ کرام کی شان عالی میں تبرا (نفرت) بازی کی جانے لگی اور اس کی وجہ سے شیعہ سنی کشیدگی پھیلنے لگی۔ اس نازک دور میں تبرا باز شیعوں کے جواب میں حضراتِ علمائے دیوبند نے تحریکِ مدح صحابہ شروع کی۔ حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی وغیرہ علمائے کرام نے اس میں سرگرم حصہ لیا۔ جب وقت کی سیاسی آندھیوں نے قافلہٴ اسلام کی صفِ اول پر یلغار کی تو حضرت مدنی نے مقامِ صحابہ اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے معیارِ حق ہونے پر چر زور مباحث تحریر فرمائے۔

قیام پاکستان کے بعد اس موضوع پر مستقلاً تنظیم اہل السنۃ والجماعۃ، تحریک اہل سنت وغیرہ ناموں سے مختلف جماعتیں قائم ہوئیں، جن میں سید نور الحسن شاہ بخاری، مولانا عبدالستار تونسوی، علامہ دوست محمد قریشی اور ان کے

رفقائے کار نے قابل قدر کام کیا؛ جب کہ حضرت مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاری، قاضی احسان احمد شجاع آبادی اور مولانا قاضی مظہر حسین وغیرہ حضرات نے تحریک مدح صحابہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور شیعیت کو دندان شکن جواب دیا۔ ان بزرگوں کے علاوہ مولانا ولایت حسین رئیس دیوبند صوبہ بہار، مولانا محمد شفیع سنگتھروی، مولانا لطف اللہ جالندھری، مولانا یوسف لدھیانوی وغیرہ علمائے دیوبند نے بھی اس محاذ پر گراں قدر خدمات انجام دیں۔

ایران کا شیعہ انقلاب

۱۹۷۹ء میں جب خمینی کے زیر قیادت ایران میں انقلاب آیا اور شیعہ حکومت قائم ہوئی۔ شیعہ حکومت نے زبردست پروپیگنڈہ کے ذریعہ اسے اسلامی انقلاب کا نام دیا اور ملت اسلامیہ کے بیشتر افراد اس پروپیگنڈہ کی زد میں آ گئے۔ پورے عالم اسلام خصوصاً برصغیر میں ایرانی انقلاب کو صالح اسلامی انقلاب سمجھا جانے لگا۔ اس صورت حال کو دیکھ کر علمائے دیوبند میدان میں آ گئے اور انھوں نے ایران کے اس نام نہاد اسلامی انقلاب کی قلعی کھول کر رکھ دی۔ اس سلسلہ میں خاص طور سے حضرت مولانا محمد منظور نعمانی کی کتاب 'ایرانی انقلاب، امام خمینی اور شیعیت' نے ایرانی انقلاب کا خیر مقدم کرنے والوں کی آنکھیں کھول دیں اور ان کے سامنے حقیقت بے نقاب ہو کر آ گئی۔

علمائے دیوبند کا یہ قابل فخر کارنامہ ہے کہ انھوں نے برصغیر کو شیعوں کے ہمہ گیر اثرات سے پاک کیا اور اہل السنۃ والجماعۃ کے عقائد و افکار کی حفاظت و اشاعت کا عظیم الشان کارنامہ انجام دیا۔ علمائے دیوبند نے کتابوں، فتاویٰ اور بیانات کے ذریعہ امت مسلمہ کی بھرپور رہنمائی فرمائی اور اب بھی حسب ضرورت الحمد للہ یہ سلسلہ جاری ہے۔ دارالعلوم میں تخصصات میں داخل طلبہ کے لیے دیگر ادیان و فرق کے ساتھ شیعیت کے سلسلہ میں بھی محاضرات پیش کیے جاتے ہیں۔

رد شیعیت میں علمائے دیوبند کی تصنیفی خدمات

شیعیت اور رافضیت کے رد میں ہندو پاک کے علمائے کرام نے ایک گراں قدر ذخیرہ جمع کر دیا ہے جس میں سب سے نمایاں تصنیفی خدمات امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی کی ہیں۔ ذیل میں ہم کچھ کتابوں کے نام پیش کر رہے ہیں:

- (۱) ہدیۃ الشیعہ، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی
- (۲) الاجوبۃ الکاملۃ فی الاسولۃ الخاملۃ، حضرت نانوتوی
- (۳) اجوبہ اربعین در رد روافض، افادات حضرت نانوتوی، مرتب: صوفی عبدالحمید خان سواتی
- (۴) ہدایۃ الشیعہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی
- (۵) ہدایات الرشید الی افہام العنید، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری

- (۶) مطرقة الكرامة في مرآة الامامة، حضرت مولانا خليل احمد سہارنپوری
- (۷) ابطال اصول الشيعة، حضرت مولانا حکیم محمد رحیم اللہ بجنوری
- (۸) الکافی للاعتقاد الصافی، حضرت مولانا حکیم رحیم اللہ بجنوری
- (۹) المنار رسائل السنہ والشیعہ، حضرت مولانا حکیم رحیم اللہ بجنوری
- (۱۰) ارشاد الثقلین، حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی
- (۱۱) دفع المجادلہ عن آیات المہابلہ، حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی
- (۱۲) عثمان ذوالنورین، حضرت مولانا سعید احمد اکبر آبادی
- (۱۳) فتنہ رفس، حضرت مولانا محمد منظور احمد نعمانی
- (۱۴) ایرانی انقلاب، خمینی اور شیعیت، حضرت مولانا محمد منظور احمد نعمانی
- (۱۵) شیعہ اثنا عشری اور عقیدہ تحریف قرآن، حضرت مولانا محمد منظور نعمانی
- (۱۶) شیعہ سنی اختلافات: حقائق کے آئینہ میں، مولانا محمد منظور نعمانی
- (۱۷) شیعہ سنی اختلافات اور صراط مستقیم، حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی
- (۱۸) اسلام اور شیعہ مذہب، مولانا امام علی دانش قاسمی لکھنؤ پوری
- (۱۹) محاضرات رد شیعیت، مولانا محمد جمال میرٹھی
- (۲۰) حضرت معاویہ اور تاریخی حقائق، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی
- (۲۱) اکابر صحابہ اور شہدائے کربلا پر افتراء، مولانا عبدالرشید نعمانی
- (۲۲) حقیقت شیعہ، مولانا عبدالرشید نعمانی
- (۲۳) برأت عثمان، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی
- (۲۴) ارشاد الشیعہ، مولانا سرفراز خان صفدر
- (۲۵) ازالة الشک فی مسئلہ فدک، مولانا عبدالستار تونسوی
- (۲۶) شان حضرت فاروق اعظم، مولانا عبدالستار تونسوی
- (۲۷) شان سیدنا عثمان بن عفان، مولانا عبدالستار تونسوی
- (۲۸) شان حیدر کرار، مولانا عبدالستار تونسوی
- (۲۹) خمینیت: عصر حاضر کا عظیم فتنہ، مولانا حبیب الرحمن اعظمی
- (۳۰) شیعیت قرآن و حدیث کی روشنی میں، مولانا حبیب الرحمن اعظمی

- (۳۱) شیعہ مذہب دین و دانش کی کسوٹی پر، مولانا محمد عاشق الہی بلند شہری
(۳۲) واقعہ کربلا اور اس کا پس منظر، مولانا عتیق الرحمن سنبھلی
(۳۳) عقائد الشیعۃ، مفتی محمد فاروق میرٹھی
(۳۴) تاریخ کی مظلوم شخصیتیں، مولانا عبد العلی لکھنوی
(۳۵) تعارف مذہب شیعہ، مولانا عبد العلی لکھنوی
(۳۶) شیعہ مذہب تاریخ کے آئینے میں، مولانا محمد جمال میرٹھی
وغیرہ

ماخذ:

دارالعلوم دیوبند: احیائے اسلام کی عظیم تحریک، ص ۲۹۵ تا ۳۹۹

●

علمائے دیوبند اور شرک و بدعت کا مقابلہ

یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام جب ہندوستان پہنچا تو یہاں کی قدیم تہذیب و تمدن، رسم و رواج، طور و طریق، ذہن و مزاج اور مذہبی تعلیمات و روایات پر اس نے زبردست اثر ڈالا، لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی ناقابل انکار حقیقت ہے کہ ہندو تہذیب نے بھی مسلم تہذیب کو کم متاثر نہیں کیا ہے۔ یہ اثرات مسلم سماج میں اس طرح پیوست ہو کر رہ گئے ہیں کہ آج یہ احساس بھی مٹ گیا ہے کہ یہ رسم و رواج اور طور و طریق اسلامی معاشرہ میں غیر مسلموں سے آئے ہیں۔ ہندوستانی مسلمانوں میں بہت سی بدعات و خرافات، رسم و رواج، قبر پرستی، عرس و میلہ، قوالی اور راگ باجہ، مردوں اور عورتوں کی مزارات پر مخلوط حاضری، منتیں مانگنا، نذر و نیاز چڑھانا، تیجہ چہلم، شادی بیاہ کی رسمیں، نسل و خون کا امتیاز اور ذات پات میں اونچ نیچ وغیرہ سیکڑوں طور و طریق، رسم و رواج اور ہندو قومی و مذہبی روایات مسلم معاشرہ میں درآئی ہیں۔

ہندوستان مسلمانوں کی مذہبی و سماجی حالت

ہندوستان میں مسلمانوں کے دور زوال نے انھیں احساس کمتری میں مبتلا کر دیا تھا اور اس کی وجہ سے ان کے اندر بہت سی اخلاقی اور دینی برائیوں نے جنم لے لیا تھا۔ کچھ تو ہندو تہذیب سے اثر پذیری اور کچھ دنیا پرست علمائے سوء اور مصنوعی صوفیوں اور پیروں کی مفاد پرستی اور زرطلبی کی وجہ سے بدعات و خرافات کو جزو ایمان بنا لیا گیا۔ قبر پرستی کا چلن اتنا بڑھ چکا تھا کہ اسلامی معاشرہ میں قمری مہینوں کے نام مسلمان عورتوں میں جو مروج تھے وہ سب انھیں خرافات کی نشان دہی کرتے تھے۔ فاتحہ، تیجہ، دسواں، بیسواں، چالیسواں، سہ ماہی، ششماہی، برسی، نذر و نیاز، عرس، بی بی کی صحنک، بوعلی قلندر کی سہ منی، شیخ سدوکا بکرا، غازی میاں کا مرغا، شاہ عبدالحق کا توشہ، بڑے پیر کی گیارہویں، شاہ معین الدین کی چھٹی، قبروں پر چادریں، پھول بتاشہ، مسجدوں میں گاتے بجاتے طاق بھرائی، قبروں پر چراغ، چڑھاوے کی منت، شب براءت کا حلوہ، امام جعفر کا کونڈہ، ربیع الاول کا جشن عید میلاد النبی، محفل میلاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا عقیدہ، دوران میلاد قیام، انبیاء و اولیاء کو حاضر و ناظر جاننے کا عقیدہ، تعزیے بنانا، مالیدہ چڑھانا، تعزیہ کا جلوس، امام حسین کے نام کی سبیل وغیرہ بدعات و خرافات عام مسلمانوں کے داخلی و خارجی زندگی کے مظاہر تھے۔ ہندوستان کا مسلمان انھیں توہمات کو حاصل ایمان سمجھتا تھا۔

عرسوں کے میلوں میں بے حجاب عورتوں اور مردوں کا مخلوط اجتماع، اصحاب قبور کو خدائی اختیارات کا مالک سمجھنا، ان سے براہ راست مانگنا اور حاجت روائی کی درخواست کرنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اجمیر کے سات عرسوں میں

شرکت ایک حج کے برابر ہے وغیرہ جیسے سیکڑوں مشرکانہ خیالات ان پڑھ مسلمانوں کے دلوں میں پیوست ہو گئے تھے۔ بے شمار بدعات کا رثا اب سمجھ کر انجام دی جاتی تھیں اور پورا معاشرہ ان ہی گمراہیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ مفاد پرست صوفیاء اور علماء سوء نے بزرگوں کو خدائی اختیارات کا شائبہ پیدا کرنے والے القاب جیسے پیر دستگیر، مشکل کشا، غریب نواز، غوث بندہ نواز، گنج بخش، مولادستگیر وغیرہ سے مشہور کر دیا جو ان شخصیتوں کو اس کائنات میں مختار کل اور متصرف ہونے کا پتہ دیتے ہیں۔ ان ناموں کی شہرت نے بزرگوں کی قبروں کو بتدریج مرجع خلایق بنا دیا۔ قبروں پر زائرین کی بھیڑ نے حریص اور دین فروش انسانوں کو دنیاوی منفعت حاصل کرنے کے لیے اکسایا اور وہ ان قبروں پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے اور آپس میں مناصب اور منافع تقسیم کر لیے۔ اس طرح قبروں کی تجارت بڑے پیمانے پر کمپنی کی شکل اختیار کر گئی۔

علمائے حق دیوبند میدان کارزار میں

مسلمانوں کی اس صورت حال کے خلاف سب سے پہلے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے سب سے مضبوط آواز اٹھائی۔ آپ کے بعد حضرت مولانا سید احمد شہید رائے بریلوی، حضرت مولانا اسماعیل شہید دہلوی اور حضرت مولانا عبدالحی بڈھانوی رحمہم اللہ نے بڑی جرأت اور جانبازی کے ساتھ مسلمانوں کے عقائد و اعمال کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ لیکن یہ تحریک اصلاح و جہاد مئی ۱۸۳۱ء میں حضرت سید احمد شہید اور ان کے رفقاء کی شہادت کے بعد ختم ہو گئی۔ اس کے بعد خانوادہ ولی اللہی کے علمی جانشین علمائے دیوبند نے اصلاح کی اس مہم کو جاری رکھنے اور آگے بڑھانے کے لیے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا۔ اس مشن کی سربراہی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کر رہے تھے۔

قرآن و حدیث کی تعلیمات کی اشاعت

مسلمانوں میں عقائد کی جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں اور دوسری قوموں کے اختلاط کے نتیجے میں جو بد عقیدگیاں در آئی تھیں ان کی بنیادی وجہ مسلم عوام میں تعلیم کی کمی، دینی معلومات کا فقدان اور اسلامی تعلیمات سے ناواقفیت تھی۔ علماء نے اندازہ لگالیا تھا کہ عقیدوں کی ان خرابیوں کا علاج اسلامی تعلیم کا فروغ اور دینی معلومات کو ہر خاص و عام تک پہنچانا ہے؛ جب دین کی صحیح معلومات عام ہو جائیں گی، ہر علاقہ، ہر شہر اور گاؤں میں دینی تعلیم سے واقف لوگ پیدا ہو جائیں گے تو ساری بد عقیدگیاں ختم ہونی شروع ہو جائیں گی۔ اس لیے اکابر ملت نے دینی مدارس کے قیام کو منصوبہ بند طریقہ سے جاری کرنے کو وقت کی سب سے اہم ضرورت سمجھا۔

قیام دارالعلوم کے بعد سے ہی پورے ملک میں جگہ جگہ بہت سے دینی مدارس کے کھلنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ مدرسوں کا نظام اور طریقہ اس نہج پر رکھا گیا کہ ہر سطح کے لوگ ان مدارس سے استفادہ کر سکیں اور سماج کے ہر طبقہ کے

لوگوں کے لیے دینی تعلیم حاصل کرنا آسان بنا دیا گیا۔ علمائے حق کے ذریعہ قائم کردہ ان مدارس کا فیض شہروں سے گذر کر دور افتادہ قریوں تک پہنچ گیا اور دینی تعلیم کا نور محلوں کو ٹھیوں سے آگے بڑھ کر جھونپڑیوں تک پہنچ گیا۔ مسلم آبادیوں میں دینی علوم کے حاملین پیدا ہونے لگے جنہوں نے علوم دینیہ کی روشنی میں اپنے معاشرہ اور اپنی زندگی کی آلودگیوں کو دیکھا، اسلام کی عقیدہ توحید اور اس کے عملی تقاضوں کو سمجھا تو ان میں خود تبدیلی پیدا ہوئی اور رفتہ رفتہ بدعات اور خرافات کی تاریکی دور ہونے لگی۔

تزکیہ باطن اور اتباع سنت کی تحریک

جن لوگوں نے اپنی سابقہ زندگی کی بدعات و خرافات سے تائب ہو کر اسلام کی صحیح تعلیمات کی روشنی میں نئی زندگی شروع کی اور دین و شریعت کے تقاضوں پر پورے طور پر عمل پیرا ہونا چاہا تو قدرتی طور پر ایسے بزرگوں کی تلاش ہوئی جو ان کو دین و شریعت کے تقاضوں سے آشنا کریں تاکہ وہ اپنی زندگی سدھارنے کے ساتھ ساتھ اپنے خاندان، اہل محلہ اور اپنی آبادی کے لوگوں کو بھی صراط مستقیم پر لگائیں۔ امت کی اس دینی ضرورت کی تکمیل کے لیے پہلے ہی سے خانقاہیں موجود تھیں جہاں علوم شریعت سے آراستہ علمائے کرام سلوک و احسان کی دولت عوام میں تقسیم کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ چنانچہ ان خانقاہوں نے صحیح اسلامی عقائد، سنت نبویہ اور تدریس و تقویٰ کی اشاعت میں اہم کردار ادا کیا۔ خانقاہ رشیدیہ گنگوہ، خانقاہ رائے پور، خانقاہ مولانا فضل رحمن گنج مراد آباد، خانقاہ امدادیہ تھانہ بھون، خانقاہ مولانا سید محمد علی مونگیری، خانقاہ حسینہ ٹانڈہ وغیرہ خانقاہوں اور بزرگوں اور ان کے خلفاء سے مربوط ہو کر لاکھوں کروڑوں انسانوں نے شرک و بدعت اور نافرمانی و گنہ گاری کی زندگی سے توبہ کی، قلوب کا تزکیہ کیا اور سنت نبویہ کی اتباع کے جذبہ سے سرشار ہوئے۔

اس طرح دینی مدارس اور اہل اللہ کی خانقاہوں نے مل کر اصلاح کا ایک پر جوش سلسلہ شروع کیا اور اس کے بہترین نتائج بھی سامنے آتے گئے۔ ہر قابل ذکر آبادی میں دین داروں اور دین و شریعت کے تقاضوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے والوں کی تعداد نمایاں ہونے لگی اور ان کی زندگیوں سے تمام بدعات و خرافات اور مشرکانہ عقائد رخصت ہونے لگے۔

وہابیت کا الزام

دوسری طرف علمائے دیوبند نے اردو زبان میں جو اس وقت ہندوستان میں عوام الناس کی زبان تھی، اسلامی عقائد و اعمال پر کتابیں تصنیف کیں تاکہ معمولی نوشت و خواند کے لوگ بھی استفادہ کر سکیں۔ ان ہی کتابوں میں تقویۃ الایمان اور صراط مستقیم کے علاوہ تحذیر الناس (مصنفہ حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ)، حفظ الایمان و اصلاح الرسوم (مصنفہ حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ)، براہین قاطعہ (مصنفہ حضرت مولانا خلیل احمد

سہارن پورٹی) وغیرہ کے نام شامل ہیں۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ کے فتاویٰ کا ایک بڑا حصہ اسلامی عقائد کی تشریح و توضیح اور بدعات و خرافات کی تردید پر مشتمل ہے۔ ان کتابوں کی تصنیف کا مقصد یہی تھا کہ مسلمان بدعات و خرافات اور مشرکانہ عقائد سے دور ہو کر دین کی صحیح تعلیم کو سمجھیں اور اپنی طرف سے دین میں ایجادات کر کے ان کو مذہبی امور کی شکل نہ دے دیں۔

اہل بدعت کی طرف سے ان کتابوں کا جواب ممکن نہیں تھا کیوں کہ وہ شرک کو اسلام اور بدعات و خرافات کو اصل ایمان کہنے کی جرأت نہیں کر سکتے تھے، تو انھوں نے اہل حق کے دلائل کا جواب دینے کے بجائے ان پر وہابیت کا الزام لگانا شروع کیا۔ اس زمانے میں شیخ عبدالوہاب نجدی کی تشدد پسندانہ پالیسیوں کی وجہ سے لفظ وہابی ایک بہت بڑی گالی تھی اور جسے وہابی کہا جاتا تھا اس کو اسلام دشمن، گستاخ رسول اور انتہا پسند خیال کیا جاتا تھا۔ علمائے سوء کو اہل حق کے خلاف کچھ نہیں ملا تو انھوں نے ان کی کتابوں میں تحریف کر کے ان کو کافر اور گستاخ رسول بنانے کی مہم شروع کی۔ انھوں نے علمائے حق کو نشانہ بنایا اور ان گنت فتوے اور کتابچے ان مقربان بارگاہ خداوندی کو کافر قرار دینے کے سلسلہ میں لکھے اور شائع کیے۔ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ رسم و رواج، قبر پرستی و عرس، نذر و نیاز اور فاتحہ و میلاد کی مخالفت کرنے والوں کی ذات کو نشانہ بنا کر اتنا متہم کر دیا جائے کہ عوام میں اشتعال اور ان سے نفرت اور دوری پیدا ہو جائے، پھر ان کی اصلاحی مہم اپنی موت آپ مر جائے گی۔

احمد رضا خان صاحب کی تکفیری مہم

علمائے حق کو بدنام کرنے کی مہم اس وقت شباب پر پہنچی جب مولوی احمد رضا خان بریلوی نے دیانت و امانت کو بالائے طاق رکھ کر ایک ایمان سوز منصوبہ بنایا اور اتنی رازداری برتی کہ کسی کو اس کی سُن گن تک نہیں ملی۔ اس منصوبہ کا بنیادی عنصر ہی بڑا دل دوز اور اشتعال انگیز ہے۔ خانہ کعبہ اور گنبد خضریٰ کے سایہ میں سازش، فریب، غلط بیانی اور اللہ کے بہت سے مقرب بندوں کے ایمان کو قتل کرنے کے دلی جذبے کی تکمیل کے لیے ریشہ دو انیاں کی گئیں۔ چنانچہ علمائے حق کی کتابوں میں تحریف کر کے ان کی عبارتوں میں تغیر و تبدل کر کے اس میں کفر کے احتمالات پیدا کر کے حرمین شریفین کے علماء کو دام فریب میں لا کر ان سے کفر کے فتوے حاصل کیے گئے۔ مولوی احمد رضا خان نے اپنے اس سیاہ کارنامے کو 'حسام الحرمین' کے نام سے شائع کیا۔

بعد میں جب علمائے عرب پر سازش کا انکشاف ہوا، تو انھوں نے علمائے دیوبند کے پاس ایک سوال نامہ بھیج کر عقائد کے متعلق وضاحت طلب کی جس کا جواب حضرت مولانا خلیل احمد سہارن پورٹی نے تحریر فرمایا اور علمائے عرب نے اس پر مکمل اطمینان و اعتماد کا اظہار کیا۔ سوال و جواب کا یہ مجموعہ المہند علی المہند کے نام سے شائع ہوا۔ اسی طرح حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے بھی اس کے جواب میں 'الشہاب الثاقب' تالیف فرمایا اور خان صاحب کے کذب و فریب کا پردہ چاک کر دیا۔

علمائے حق کو بدنام کر کے اور ان کی تحریروں میں تغیر و تبدل کر کے ان پر کفر کے فتویٰ لگا کر مولوی احمد رضا خان نے علماء کی اصلاحی مہم کو ناکام بنانا اور بدعات و خرافات کی دیوار کو سہارا دینا چاہا۔ ان کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے کہ انھوں نے بدعات و خرافات اور مشرکانہ عقائد میں مبتلا لوگوں کو ایک رشتہ میں پرو کر ایک فرقہ کی شکل دے دی۔ اس فرقہ کی تشکیل میں سب سے بڑا اور اہم کردار ان کی 'کافر گری' کی مہم نے انجام دیا۔ اس وقت ہندوستان کے تمام مشاہیر علماء و اولیاء، مجاہدین آزادی، اسلامی مدارس کے علماء و اساتذہ، محدثین و فقہاء، مصلحین و قائدین اور مصنفین و اہل قلم کوئی بھی ان کی شمشیر تکفیر سے محفوظ نہیں رہ گیا۔

رضا خانیت کا تعاقب

مولوی احمد رضا خان کی تکفیری مہم اور بدعات و خرافات کی حمایت کی بنیاد پر مسلمانوں میں مستقل طور پر ایسا فرقہ وجود میں آ گیا جو بدعات اور مشرکانہ رسوم کو دین کا حصہ سمجھتا اور علمائے حق کو کافر گردانا اپنا فرض سمجھتا۔ یہ فرقہ بعد میں رضا خانی یا بریلوی کے نام سے جانا گیا۔ یہ فرقہ زبانی عشق رسول کا بہت دعویدار ہے اور اپنے سوا تمام طبقات اسلام کو قابل گردن زدنی اور دنیا کے ہر کافر مشرک سے بدتر سمجھتا ہے؛ لیکن عملاً اس کا حال یہ ہے کہ شریعت کے روشن چہرے کو مسخ کر کے دین میں نت نئے اضافے کرتا رہتا ہے اور من گھڑت افکار کو شریعت قرار دیتا ہے جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے رسوم و رواج کو بدعت قرار دیا ہے اور اپنے ہر خطبے میں اس کی برائی بیان فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) سے لے کر آج تک علمائے حق نے اپنی تبلیغی سرگرمیوں کو سب سے زیادہ رد بدعت پر مرکوز رکھا کیوں کہ اسی سے شرک کی راہ نکلتی ہے۔ علمائے دیوبند میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا خلیل احمد محدث سہارنپوری، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی اور حضرت مولانا مرتضیٰ حسن چاند پوری وغیرہ نے شرک و بدعت کے رد میں ناقابل فراموش خدمات انجام دیں۔

رضا خانی طبقہ نے اپنے آباء و اجداد کی متواتر گمراہیوں پر اصرار کرتے ہوئے علمائے حق کی شان میں نازیبا الفاظ بلکہ دشنام طرازیوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ بالآخر علمائے حق نے ان کا تعاقب کیا، ان کو مجمع عام میں لا کر ان سے مناظرے کیے، ان کے عقائد کا پوسٹ مارٹم کیا اور ان کے الزامات کے مسکت جوابات دیے۔ علمائے حق، قرآن و حدیث کی روشنی میں بدعات و خرافات کی تردید کرتے جس کے جواب میں اہل بدعت اشتعال انگیز باتیں کرتے اور دشنام طرازی پر اتر آتے۔ ایسے انتہائی خطرناک حالات میں علمائے حق نے احتیاق حق اور ابطال باطل کا فرض پوری دیانت داری سے ادا کیا۔ علماء نے پورے ملک میں اہل بدعت کا مقابلہ کیا، ان سے مناظرے کیے اور عوام پر حق واضح کیا۔ ایسے علماء کی فہرست میں چند نام یہ ہیں: حضرت مولانا خلیل احمد سہارن پوری، حضرت مولانا مرتضیٰ حسن چاند پوری، حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب، حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی، حضرت مولانا ابوالوفاء شاہ جہاں پوری، حضرت مولانا محمد منظور نعمانی، حضرت مولانا محمد اسماعیل سنہلی، حضرت مولانا نور محمد

ٹانڈوی، حضرت مولانا ارشاد احمد فیض آبادی وغیرہ۔

دوسری طرف علمائے حق نے تصنیف و تالیف کے میدان میں بھی نمایاں خدمات انجام دیں۔ انہوں نے بدعات کے تمام مسائل پر چھوٹی بڑی بے شمار کتابیں تصنیف کیں اور حق و باطل کو واضح کر کے عوام کے سامنے پیش کر دیا۔ اس میدان میں حضرت مولانا مرتضیٰ حسن چاند پوری، حضرت مولانا محمد منظور نعمانی، حضرت مولانا نور محمد ٹانڈوی، حضرت مولانا سرفراز خاں صفدر وغیرہ نے نمایاں خدمات انجام دیں اور مبتدعین کے تعاقب میں سرگرم عمل رہے۔

دارالعلوم دیوبند کی تاریخ سے واقف حضرات جانتے ہیں کہ اس کے فرزند اسلام کی سنت قائمہ کے حامی اور بدعت سے بہت دور ہیں اور ایسے کسی عمل کو جو شاہ راہ مسلسل سے نہ آئے وہ اسے اسلام کا نام دینے کے لیے تیار نہیں کیوں کہ ان کا موقف اسلام کی سنت قائمہ سے مکمل وفاداری ہے۔ ان کے نزدیک اہل سنت والجماعت وہ لوگ ہیں جو اسلام کی سنت قائمہ سے وابستہ اور جماعت صحابہ کے نقش پا سے دین کی راہیں تلاش کرنے والے ہوں اور بدعات کو فروغ دینے والے نہ ہوں۔ ان حضرات کا یقین ہے کہ بدعت کا دروازہ کھلا رکھنے سے تفریق بین المسلمین لازمی ہوگی کیوں کہ بدعات ہر گروہ کی اپنی اپنی ہوں گی یہ فقط سنت ہے جو تمام مسلمانوں کو ایک لڑی میں پروسکتی ہے اور ملت واحدہ بنا کر رکھ سکتی ہے؛ اس لیے بدعات کے رد میں علمائے دیوبند کا یہ اہتمام کوئی منہی داعیہ نہیں بلکہ شاہ راہ اسلام سے مخلصانہ عقیدت ہے۔

علمائے دیوبند کی انہیں مبارک کوششوں سے الحمد للہ آج ہندوستان میں دین اسلام اپنی پوری صحیح شکل میں نہ صرف موجود ہے بلکہ مدارس اسلامیہ، جماعت تبلیغ اور دینی اداروں کی برکت سے آج ہندوستان عالم اسلام کے اندر مستند دینی تعلیمات اور صحیح اسلامی روایات کے تحفظ و اشاعت میں سب سے ممتاز نظر آتا ہے۔

رد بدعت میں علمائے دیوبند کی علمی خدمات

- (۱) تحذیر الناس، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی
- (۲) الچہد المقل فی تنزیہ المعز والمقل، شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی
- (۳) براہین قاطعہ، مولانا خلیل احمد سہارنپوری
- (۴) المہند علی المہند یعنی عقائد علمائے دیوبند، مولانا خلیل احمد سہارنپوری
- (۵) النفاس المرغوبہ، حضرت مفتی کفایت اللہ شاہ جہانپوری ثم دہلوی
- (۶) الشہاب الثاقب، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی
- (۷) حفظ الایمان، حکیم الامتہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی
- (۸) تنزیہ القرآن، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی
- (۹) بسط البنان، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی

- (۱۰) مفید المؤمنین فی رد المبتدعین، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی
- (۱۱) طریقہ مولود شریف، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی
- (۱۲) اغلاط العوام، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی
- (۱۳) الجنتہ لاہل السنۃ، حضرت مولانا عبدالغنی پٹیا لوی
- (۱۴) سبیل السداد فی مسئلۃ الامداد، مولانا مرتضیٰ حسن چاند پوری
- (۱۵) السحاب المدرار، مولانا مرتضیٰ حسن چاند پوری
- (۱۶) توضیح البیان فی حفظ الایمان، مولانا مرتضیٰ حسن چاند پوری
- (۱۷) مجموعہ رسائل (دو درجن رسائل کا مجموعہ) مولانا مرتضیٰ حسن چاند پوری
- (۱۸) علم غیب، حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب قاسمی
- (۱۹) کلمۃ الایمان، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی
- (۲۰) سنت و بدعت، مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی
- (۲۱) تبرید النواظر فی تحقیق الحاضر والنظر یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک، حضرت مولانا سرفراز خاں صفدر
- (۲۲) راہ سنت، مولانا سرفراز خاں صاحب صفدر
- (۲۳) ازالۃ الریب عن عقیدۃ علم الغیب، مولانا سرفراز خاں صاحب صفدر
- (۲۴) نور و بشر، مولانا سرفراز خاں صاحب صفدر
- (۲۵) دل کا سرور، مولانا سرفراز خاں صاحب صفدر
- (۲۶) تنقید متین بر تفسیر نعیم الدین، مولانا سرفراز خاں صفدر
- (۲۷) مختار کل، مولانا سرفراز خاں صفدر
- (۲۸) اشہاب المہین سماع موتی، مولانا سرفراز خاں صفدر
- (۲۹) چراغ کی روشنی، مولانا سرفراز خاں صفدر
- (۳۰) گلہ ستہ توحید، مولانا سرفراز خاں صفدر
- (۳۱) تسکین الصدور فی تحقیق احوال الموتی فی البرزخ والمقبر، مولانا سرفراز خاں صفدر
- (۳۲) عبارات اکابر، مولانا سرفراز خاں صفدر
- (۳۳) اظہار الغیب فی اثبات علم الغیب، مولانا سرفراز خاں صفدر
- (۳۴) ملا علی قاری اور مسئلہ علم غیب، مولانا سرفراز خاں صفدر
- (۳۵) تفریح الخواطر فی رد تنویر الخواطر، مولانا سرفراز خاں صفدر
- (۳۶) بوارق الغیب، مولانا منظور احمد نعمانی

- (۳۷) مطالعہ بریلویت، علامہ خالد محمود صاحب
- (۳۸) فتح بریلی کا دل کش نظارہ، مولانا منظور احمد نعمانی
- (۳۹) صاعقہ آسمانی برفرقہ رضا خانی، مولانا منظور احمد نعمانی
- (۴۰) سیف یمانی برفرقہ رضا خانی، مولانا منظور احمد نعمانی
- (۴۱) تاریخ میلاد، مولانا منظور احمد نعمانی
- (۴۲) امعان النظر فی اذان القبر، مولانا منظور احمد نعمانی
- (۴۳) حضرت شاہ اسماعیل شہید اور معاندین اہل بدعت کے الزامات، مولانا منظور احمد نعمانی
- (۴۴) فیصلہ کن مناظرہ، مولانا منظور احمد نعمانی
- (۴۵) شارح حقیقی، مولانا حبیب الرحمن محدث اعظمی
- (۴۶) اعلیٰ حضرت بریلوی کا تعارف نامہ، مولانا نور محمد ٹانڈوی
- (۴۷) اعلیٰ حضرت بریلوی کا حقہ، مولانا نور محمد ٹانڈوی
- (۴۸) تکفیری افسانے، مولانا نور محمد ٹانڈوی
- (۴۹) بدعات و ممنوعات، مولانا نور محمد ٹانڈوی
- (۵۰) مولوی حشمت علی رضا خانی کا تکفیری فتویٰ، مولانا نور محمد ٹانڈوی
- (۵۱) صاعقہ الرحمن علی حزب الشیطان، مولانا نور محمد ٹانڈوی
- (۵۲) ابن الوقت کی خانہ تلاشی، مولانا اسماعیل مراد آبادی
- (۵۳) براءۃ الابرار عن مکائد الاشرار، مولانا عبدالرؤف جگن پوری
- (۵۴) شمشیر حقانی برگردن رضا خانی، مولانا عبدالرؤف جگن پوری
- (۵۵) اصلاح فاتحہ، مولانا عبدالرؤف جگن پوری
- (۵۶) تعزیر سلطانی بر مفتزی کذاب رضا خانی، مولانا عبدالرؤف جگن پوری
- (۵۷) حق پر کون ہے؟ مولانا امام علی دانش صاحب
- (۵۸) زلزلہ در زلزلہ، مولانا امام علی دانش صاحب
- (۵۹) بدعت اور شرک، مفتی کفیل الرحمن نشاط دیوبندی
- (۶۰) زلزلہ در زلزلہ، مولانا نجم الدین احیائی
- (۶۱) بریلوی فتنے کا نیا روپ، مولانا محمد عارف سنبھلی
- (۶۲) بریلوی تراجم قرآن کا علمی تجزیہ، مولانا اخلاق حسین قاسمی
- (۶۳) بریلویت کا تنقیدی جائزہ، مولانا جمیل احمد ندیری

- (۶۴) بریلویت کاشیش محل، مولانا محمد طاہر حسین گیاوی
(۶۵) رضا خانیت کے علامتی مسائل، مولانا محمد طاہر حسین گیاوی
(۶۶) انگشت بوسی سے بائبل بوسی تک، مولانا محمد طاہر حسین گیاوی
(۶۷) بریلی مذہب پر ایک نظر، مولانا عبداللہ قاسمی غازی پوری
(۶۸) دیوبند سے بریلی تک، مولانا عبدالقدوس رومی
(۶۹) دیوبند سے بریلی تک، مولانا ابوالواصاف جون پوری
(۷۰) قاطع الوریہ، مولانا محمد اسحاق بلیاوی
(۷۱) رضا خانی مذہب، مولانا ناریاض احمد قاسمی
(۷۲) ہمارا دین حق، مولانا ریحان الدین قاسمی
(۷۳) خیر الکلام فی مسئلۃ القیام، مولانا خالد سیف اللہ گنگوہی
(۷۴) محاضرہ رضا خانیت، مولانا مفتی محمد امین پالن پوری
وغیرہ

ماخذ:

دارالعلوم دیوبند: احیائے اسلام کی عظیم تحریک، ص ۳۵۰ تا ۳۵۵

●

علمائے دیوبند اور فتنہ عدم تقلید کا تعاقب

برصغیر ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد کے ساتھ اسلامی علوم و فنون اور تہذیب و روایت کی آمد کا آغاز ہو گیا تھا۔ ہندوستان کے تقریباً تمام ہی حکمران علم دوست اور مذہبی واقع ہوئے تھے۔ تاریخ شاہد ہے کہ ہندوستان کی تقریباً تمام اہم مسلم حکومتوں نے مذہبِ حنفی کا اتباع کیا اور فقہ حنفی ہی تمام قوانین و ضوابط کی بنیاد بنا رہا۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی غالب اکثریت مذہبِ حنفی کی پابند تھی۔ پوری مسلم تاریخ میں تقلید سے انحراف، اسلامی روایات سے بغاوت اور سلف صالحین سے نفرت و کدورت کا کوئی قابل ذکر ثبوت نہیں ملتا؛ لیکن آخری زمانے میں جب سلطنتِ مغلیہ رو بہ زوال تھی اور ہندوستان میں انگریزوں کے ناپاک قدم پڑ چکے تھے، اس وقت نئی جماعتوں نے جنم لینا شروع کیا۔ عدم تقلید کا فتنہ بھی اسی تاریک زمانے کی پیداوار ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کے جانشینوں کی کوششوں سے ہندوستان میں ہمہ جہت اصلاحی تحریک شروع ہوئی۔ حضرت سید احمد شہید رائے بریلوی اور حضرت مولانا اسماعیل شہید کی تحریک کا ایک محاذ جس طرح جہاد اور سیاسی اصلاح کا تھا، اسی طرح مسلم معاشرہ میں بدعات اور کفریہ و شرکیہ عقائد کے خلاف بھی محاذ کھولا گیا تھا۔ ان تحریک کے بانیوں کی جہاد بالا کوٹ میں ۱۲۳۶ھ / ۱۸۳۱ء میں شہادت کے بعد بعض مفسد مزاجوں کے ذہن میں ائمہ دین متین کی تقلید کا انکار اور فقہ و فقہاء بالخصوص حضرت امام اعظم ابوحنیفہ کی طرف سے عناد کا خیال پیدا ہوا۔ اس جماعت کے سرغنہ مولوی عبدالحق بنارسی تھے، جنہوں نے حضرت سید احمد شہید کی خلافت کے مدعی بن کر لوگوں کو لاندہ بیت کی طرف بلایا۔ وہ سفر حج میں سید صاحب کے ہم قافلہ تھے؛ لیکن ائمہ کرام پر بدزبانی اور دیگر فاسد نظریات کی وجہ سے سید صاحب نے ان کو اپنے قافلہ سے نکال دیا تھا۔ مولوی عبدالحق بنارسی نے ہزار ہالوگوں کو عمل بالحدیث کے پردے میں قید مذہب سے ہی بیگانہ کر دیا۔ عمل بالحدیث کے نام سے صحابہ و سلف سے بے زاری اور ائمہ فقہ کی توہین کی یہ تحریک بظاہر مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کی گھناؤنی سازش تھی۔ مولوی عبدالحق بنارسی کے انجام سے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ انہوں نے خود اعتراف کیا کہ میں نے عمل بالحدیث کے پردے میں وہ کام کیا کہ عبد اللہ بن سبا سے نہ بنا تھا۔ (۱)

بدقسمتی سے اس تحریک میں مولانا نذیر حسین دہلوی، نواب صدیق حسن خان قنوجی اور مولانا محمد حسین بٹالوی جیسے لوگ شامل ہو گئے۔ ان حضرات نے تقلید سے بیزاری اور نام نہاد عمل بالحدیث کو خوب فروغ دیا۔ یہ تمام غیر مقلد علماء انگریزوں کے بے حد خیر خواہ، برطانوی حکومت کے قصیدہ خواں اور پکے وفادار تھے۔ انہوں نے انگریزی حکومت کے خلاف جہاد کے فتوے پر دستخط سے انکار کیا اور جہاد کی تمسیح پر رساں بھی لکھے۔ ان کی خدمات کے صلہ

میں برطانوی حکومت کی طرف سے ان کو انعامات اور نوازشیں ملیں؛ حتیٰ کہ انگریزی سرکار نے ہی اس جماعت کو جو پہلے خود کو ”محمدی“ کہتی تھی ”اہل حدیث“ کا نیا اور پُر فریب نام الاٹ کیا۔ آج بھی یہ جماعت خود کو فخریہ اسی نام سے یاد کرتی ہے۔ (۲)

علمائے دیوبند کا ردِ عمل

دارالعلوم دیوبند کے اکابر و علماء جماعتِ ولی اللہی کے وارث ہونے کی حیثیت سے اسلامی علوم و روایات کے امین تھے اور ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت کے مخالف تھے۔ دارالعلوم کے قیام کے ساتھ ہی جن داخلی فتنوں سے علمائے دیوبند کو سابقہ پڑا، ان میں ایک اہم فتنہ عدم تقلید کا بھی تھا۔ حضرت شاہ اسحاق محدث دہلوی کے مدینہ ہجرت کر جانے کے بعد دہلی میں میاں نذیر حسین دہلوی نے جو اکثر مسائل میں امام شافعی کے مسائل پر عمل کرتے تھے؛ مگر کسی امام کی تقلید کے قائل نہ تھے، حنفیوں کے خلاف ایک محاذ کھول دیا اور احناف کو دعوتِ مبارزت دینے لگے۔ انھوں نے ایسے تلامذہ تیار کیے جو پورے ملک میں ان کے خیالات و رجحانات کی تبلیغ کرتے۔ جن جن علاقوں میں ان کے تلامذہ تھے ان علاقوں میں ان کے مسلک کی اشاعت ہوئی اور ملک کے بقیہ حصوں میں وہ زیادہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ چونکہ میاں نذیر حسین صاحب کامرکز نشر و اشاعت دہلی تھا؛ اس لیے قریبی مقامات تک ان کی تبلیغی سرگرمیوں کی اطلاع پہنچتی رہتی تھی۔ یہ غیر مقلدین کسی امام کی تقلید کو ضلالت و گمراہی سے تعبیر کرتے اور دینی و شرعی مسائل پر گفتگو اور بحثوں میں انتہائی جارحانہ رویہ اختیار کرتے۔ چنانچہ اکابر علمائے دیوبند نے اس فتنہ کا بھرپور تعاقب کیا اور عوام الناس کے دلوں میں دین و شریعت، صحابہ و سلف اور اسلامی علوم و روایات کی عظمت و عقیدت کو کم نہیں ہونے دیا۔

درسِ حدیث کا نیا طریقہ

اکابرین دیوبند نے ایک طرف حدیث کے طریقہ تدریس میں نمایاں تبدیلی پیدا کی؛ تاکہ علماء کا ایک ایسا طبقہ پیدا ہو سکے جس کو قرآن و حدیث اور فقہ اسلامی پر مکمل بصیرت اور اعتماد حاصل ہو۔ تیرھویں صدی ہجری کے وسط تک درسِ حدیث میں صرف حدیث کا ترجمہ اور مذاہب اربعہ کا بیان کر دینا کافی سمجھا جاتا تھا؛ مگر جب اہل حدیث کی جانب سے احناف پر شد و مد کے ساتھ یہ الزام لگایا گیا کہ ان کا مذہب حدیث کے مطابق نہیں ہے تو حضرت شاہ محمد اہلق صاحب اور ان کے بعض تلامذہ نے مذہبِ حنفی کے اثبات و ترجیح پر توجہ فرمائی۔ علمائے دیوبند میں حضرت نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت شیخ الہند اور دوسرے حضرات نے اس سلسلہ کو یہاں تک فروغ دیا کہ آج حدیث کی کوئی معروف درس گاہ اس طرزِ تدریس سے خالی نظر نہیں آتی۔ درسِ حدیث میں حنفیہ کے اثبات و ترجیح کا یہ طریقہ اور تنقیحات و تشریحات کا وہ انداز جو آج دارالعلوم دیوبند کا طرہ امتیاز ہے اور کم و بیش مدارس عربیہ کے درسِ حدیث میں مروج و متداول ہے، اسے غیر مقلدیت کے اسی فتنہ کے ردِ عمل میں فروغ دیا گیا۔ (۳)

دوسری طرف اکابر و علمائے دیوبند نے کتب احادیث کی شروع کا سلسلہ شروع کیا جس میں فقہی احادیث پر ان حضرات نے تفصیلی کلام کیا اور احناف کی متادل روایات کو واضح کیا اور بظاہر ان کے خلاف نظر آنے والی روایات کا مدلل جواب پیش کیا۔ ان حضرات کی یہ علمی کاوشیں الملاحع الدراری شرح بخاری، فیض الباری شرح بخاری، فتح الملہم شرح صحیح مسلم، الکوکب الدرری شرح جامع ترمذی، بذل المجہود شرح سنن ابی داؤد، معارف السنن شرح جامع ترمذی، اوجز المسالک شرح موطا امام مالک، امانی الاحبار شرح معانی الآثار للطحاوی وغیرہ میں دیکھی جاسکتی ہیں۔ کتب احادیث کی شرح و تحقیق کا یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے اور اس میں بیش بہا اضافے بھی کیے گئے ہیں۔ اس ضمن میں سب سے اہم علمی خدمت اعلیٰ السنن کے ذریعہ انجام دی گئی، جس کی تکمیل حضرت تھانویؒ کی زیر نگرانی خانقاہ امدادیہ تھانہ بھون میں حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی کے ہاتھوں انجام پائی۔ اس ضخیم مجموعہ میں فقہ حنفی کے تمام مسائل کے متدلات یعنی احادیث و آثار کو یکجا کرنے کا عظیم الشان کارنامہ انجام دیا گیا ہے۔

مختلف فیہ مسائل پر تحریریں

ملک بھر میں اگرچہ غیر مقلدین آٹے میں نمک کے برابر تھے؛ لیکن ان کی جارحیت، ائمہ فقہ کی شان میں گستاخی اور چھوٹے چھوٹے مسائل پر تعصب کی وجہ سے بہت سے مقامات پر عوام الناس میں تشویش پیدا ہونے لگی تھی جس کی اطلاعات خطوط وغیرہ کے ذریعہ اکابر دیوبند کو ہوتی تھی۔ ان حضرات نے ملت اسلامیہ کو درپیش دیگر مسائل سے نمٹنے کے ساتھ ساتھ ان مسائل کی طرف بھی توجہ دینا ضروری سمجھا؛ چنانچہ حضرت نانوتویؒ نے قرأت خلف الامام، آمین بالجہر، رفع یدین، تراویح وغیرہ مسائل پر قلم اٹھایا۔ حضرت نانوتویؒ اس وقت عیسائیت، آریہ سماج، سناتن دھرم جیسی اسلام دشمن طاقتوں سے نبرد آزما تھے اور ان کی زیادہ تر توجہ ان خارجی طاقتوں کی طرف تھی جو اسلام کے قلعہ پر حملہ آور تھیں۔ اسی طرح حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ نے بھی اسلام پر حملہ آور تمام داخلی فتنوں کے خلاف محاذ کھول دیا تھا؛ چنانچہ حضرت گنگوہیؒ نے بھی تقلید، تراویح، قرأت فاتحہ خلف الامام، رفع یدین، آمین بالجہر، جمعہ فی القرئی وغیرہ مسائل پر تحقیقی رسائل رقم فرمائے۔

غیر مقلدین، عوام میں شورش پیدا کرنے اور مسلمانوں کے درمیان افتراق و انتشار پیدا کرنے کے لیے نئے نئے حربے اختیار کرتے۔ انھوں نے اپنے چند مخصوص مسائل کے سلسلہ میں عوامی سطح پر بہت عامیانہ لب و لہجہ میں احناف کے خلاف بدگمانیاں پیدا کرنے کے لیے اپنے اعتراضات اشتہارات کی شکل میں شائع کرنا شروع کیا جس سے ان کا مقصد عوام میں اشتعال پیدا کرنا اور خود کو مشہور کرنا تھا۔ علمائے حق کو مجبور ہو کر ان کی حرکتوں کا مناسب جواب دینا پڑا۔ مولوی محمد حسین امرتسری کے اسی طرح کے ایک اشتہار کے جواب میں حضرت شیخ الہندؒ نے اولہ کاملہ تحریر فرمائی اور غیر مقلدین کے دس سوالات کا جواب لکھا۔ مولوی امرتسری کی طرف سے اس کتاب کا کوئی جواب نہیں آیا؛ بلکہ ان کے ایک ہم خیال مولوی احمد حسن امرہوی نے اس کا جواب لکھنے کی کوشش کی اور مولوی محمد

حسین امرتسری نے اس کو ہی کافی سمجھا۔ پھر حضرت شیخ الہند نے اس کے جواب میں 'ایضاح الادلہ' تحریر فرمائی جو بڑے سائز کے چار سو صفحات پر شائع ہوئی۔ یہ کتاب حضرت شیخ الہند کا ایک علمی شاہ کار ہے اور مسائل مختلف فیہ میں قول فیصل کا درجہ رکھتی ہے۔

حضرات علمائے دیوبند نے دین اسلام کی نشر و اشاعت کے ساتھ شریعت اسلامیہ کی حدود و ثغور کی حفاظت میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا۔ عمل بالحدیث کے نام سے اباحت، ذہنی آزادی اور ہوئی پرستی کے اس فتنہ کے سلسلہ میں انھوں نے حسب موقع و ضرورت زبان و قلم کا استعمال کیا۔ یہی وجہ ہے کہ غیر مقلدین کے ذریعہ اٹھائے گئے مسائل پر ان حضرات نے تحقیقی مواد یکجا کر دیا۔ اس میدان میں خصوصیت سے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری، مولانا ناظر حسن دیوبندی، مولانا خیر محمد جالندھری، مولانا منصور علی مراد آبادی وغیرہ حضرات نے تحقیق کا حق ادا کر دیا۔

غیر مقلدیت سلفیت کے پردے میں

ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف عوامی رد عمل اور تحریک آزادی میں شدت کی وجہ سے یہ فتنہ کچھ کمزور سا پڑ گیا اور خصوصاً ملک کے آزاد ہونے کے بعد یہ انگریزوں کی سرپرستی سے محروم ہو گیا؛ جس کی وجہ سے ایک عرصہ تک یہ فتنہ کچھ زیادہ طاقت ورنہ رہا؛ لیکن عالم عرب خصوصاً سعودی عرب میں تیل کی دولت کے ظہور کے بعد اس فتنے نے دوبارہ نہایت شد و مد کے ساتھ بال و پر نکالنے شروع کیے۔ عرب کی سلفی و وہابی تحریک سے ہم آہنگ ہو کر اس فرقہ کے لوگوں نے عربوں میں سلفیت کے پس پردہ اثر و رسوخ قائم کرنا شروع کیا اور وہاں سے مالی امداد پا کر ہندوستان میں دوبارہ افتراق بین الامت کے مشن پر لگ گئے۔ اس فرقہ نے بالکل خارجیوں جیسا طریقہ کار اپنا کر نصوص فقہی کے سلسلہ میں سلف صالحین کے مسلمہ علمی منہاج کو پس پشت ڈال کر اپنے علم و فہم کو حق کا معیار قرار دے کر اجتہادی اور مختلف فیہ مسائل کو حق و باطل اور ہدایت و ضلالت کے درجہ میں پہنچا دیا، اور فرد و طبقہ جو ان کی اس غلط فکر سے ہم آہنگ نہیں تھا، اس کو وہ ہدایت سے عاری، مبتدع، ضال و مضل، فرقہ ناجیہ بلکہ دین اسلام سے ہی خارج قرار دے دیا۔ اس فرقہ نے بالخصوص علمائے دیوبند کے خلاف ہمہ گیر مہم چھیڑ دی اور انھیں نہ صرف دائرہ اہل السنۃ و الجماعۃ سے خارج قرار دیا؛ بلکہ دائرہ اسلام سے ہی خارج کر دینے کی ناپاک و نامراد کوشش میں لگ گئے۔

غیر مقلدین کی اس تکلیف دہ اور دل آزار مہم کے خلاف علمائے دیوبند نے پھر اس موضوع پر قلم اٹھایا اور جن مسائل کو غیر مقلدین نے حق و باطل کا معیار بنا دیا تھا، ان کو واضح کیا کہ ان میں اختلاف کی کیا نوعیت ہے اور ان اختلافات میں کہاں تک جانا "اختلاف امتی رحمتہ" کا مصداق ہے اور کہاں تک جانا "بغیاً بینہم" کا مصداق ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت مولانا حبیب الرحمن عظیمی، حضرت مولانا سرفراز خان صفدر، حضرت مولانا ابو بکر غازی پوری وغیرہم نے نہایت قابل قدر خدمات انجام دیں اور علمی طور پر اس فتنہ کا سد باب کیا۔

غیر مقلدوں کی اشتعال انگیزیوں اور حکومت سعودی عرب کی طرف سے ان کی سرپرستی کے رد عمل میں حضرت مولانا اسعد مدنی کی سربراہی میں جمعیت علمائے ہند نے ۲۰۰۱ء میں دہلی میں تحفظ سنت کانفرنس کا سلسلہ شروع کیا؛ تاکہ علمی طور پر اس فتنہ کا جواب دینے کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کی حکومت کو بھی اس فتنہ کی سرپرستی پر خیردار کیا جائے۔ اسی طرح دارالعلوم دیوبند نے بھی ۱۳ فروری ۲۰۱۳ء کو مدرّس اسلامیہ اور علماء کا نمائندہ اجلاس بلایا اور ملک و بیرون ملک میں اس فتنہ کے تعاقب کا عہد کیا۔ علمائے دیوبند نے پورے ملک کے طول و عرض میں تحفظ سنت کے اجلاسوں اور کانفرنسوں کے ذریعہ شریعت اسلامیہ پر مسلم عوام کے اعتماد کو بحال کیا اور غیر مقلدین کے خارجیت زدہ ناپاک مشن پر قدغن لگانے کی بھرپور کوشش کی۔

فقہ اور فقہاء کے سلسلہ میں علمائے دیوبند کا موقف

علمائے دیوبند احکام شرعیہ فرعیہ اجتہادیہ میں فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتے ہیں؛ بلکہ برصغیر میں آباد کم و بیش پچاس کروڑ مسلمانوں میں نوے فیصد سے زائد اہل السنۃ والجماعۃ کا یہی مسلک ہے؛ لیکن اپنے اس مذہب و مسلک کو آڑ بنا کر دوسرے فقہی مذاہب کو باطل ٹھہرانے یا ائمہ مذاہب پر زبان طعن دراز کرنے کو جائز نہیں سمجھتے؛ کیوں کہ یہ حق و باطل کا مقابلہ نہیں ہے؛ بلکہ صواب و خطا کا تقابل ہے۔ مسائل فرعیہ اجتہادیہ میں ائمہ اجتہاد کی تحقیقات میں اختلاف کا ہو جانا ایک ناگزیر حقیقت ہے اور شریعت کی نظر میں یہ اختلاف صحیح معنوں میں اختلاف ہے ہی نہیں۔ رہا جماعت مجتہدین میں سے کسی ایک کی پیروی و تقلید کو خاص کر لینا تو دین کے بارے میں آزادی نفس سے بچنے اور خود رائی سے دور رہنے کے لیے امت کے سوا اعظم کا طریق مختار یہی ہے، جس کی افادیت و ضرورت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ باب تقلید میں علمائے دیوبند کا یہی طرز عمل ہے۔ وہ کسی بھی امام، مجتہد یا اس کی فقہ کی کسی جزئی کے بارے میں تمسخر، سوئے ادب یا رنگِ ابطال و تردید سے پیش آنے کو خسرانِ دنیا و آخرت سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک یہ اجتہادات شرائع فرعیہ ہیں اصل یہ نہیں کہ اپنے فقہ کو موضوع بنا کر دوسروں کی تردید یا تفسیق و تہلیل کریں؛ البتہ اپنے اختیار کردہ فقہ پر ترجیح کی حد تک مطمئن رہیں۔ (۴)

رد غیر مقلدیت میں علمائے دیوبند کی علمی خدمات

- (۱) توثیق الکلام فی الانصاف خلف الامام، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی
- (۲) الحق الصریح، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی
- (۳) لطائف قاسمی، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی
- (۴) سبیل الرشاد، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی
- (۵) ہدایۃ المعتدی فی قرآۃ المتقدی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی

- (۶) الرأى النجیح، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ
- (۷) اولہ کاملہ، شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندیؒ
- (۸) ایضاح الادلہ، شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندیؒ
- (۹) الاقتصاد فی الضاد، حضرت مولانا رحیم اللہ بجنوریؒ
- (۱۰) الاقتصاد فی التقليد والاجتہاد، حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ
- (۱۱) استجاب الدعوات عقیب الصلوات، حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ
- (۱۲) القول البدیع فی اشتراط المحصر للجمع، حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ
- (۱۳) فصل الخطاب فی مسئلہ ام الكتاب، حضرت مولانا علامہ انور شاہ کشمیریؒ
- (۱۴) خاتمۃ الكتاب فی مسئلہ فاتحۃ الكتاب، حضرت علامہ انور شاہ کشمیریؒ
- (۱۵) نیل الفرقدین فی مسئلہ رفع الیدین، حضرت مولانا علامہ انور شاہ کشمیریؒ
- (۱۶) بسط الیدین لدلیل الفرقدین، حضرت علامہ انور شاہ کشمیریؒ
- (۱۷) کشف الستر عن صلاۃ الوتر، حضرت مولانا علامہ انور شاہ کشمیریؒ
- (۱۸) ہدایۃ المقتدین، حضرت مولانا سید اصغر حسین دیوبندیؒ
- (۱۹) الفرقان فی قرآۃ ام القرآن، حضرت مولانا ناظر حسن دیوبندیؒ
- (۲۰) الجواب الکامل فی ازہاق الباطل، حضرت مولانا ناظر حسن دیوبندیؒ
- (۲۱) خیر التقدیر فی مسئلہ التقليد، حضرت مولانا خیر محمد جالندھریؒ
- (۲۲) خیر المصاحیح فی عدد التراتوج، حضرت مولانا خیر محمد جالندھریؒ
- (۲۳) الفتح المبین فی کشف مکائد غیر المقلدین، حضرت مولانا منصور علی مراد آبادیؒ
- (۲۴) نور العینین فی تحقیق رفع الیدین، حضرت مولانا اشفاق الرحمن کاندھلویؒ
- (۲۵) قرآن وحدیث کے خلاف غیر مقلدین کے ۵۰ مسائل، حضرت مفتی مہدی حسن شاہ جہان پوریؒ
- (۲۶) کشف الغمۃ بسراج الامۃ، حضرت مفتی مہدی حسن شاہ جہان پوریؒ
- (۲۷) امام ابوحنیفہ کی سیاسی زندگی، حضرت مولانا مناظر حسن گیلانیؒ
- (۲۸) الازہار المربوعۃ فی رد الآثار المربوعۃ، حضرت مولانا حبیب الرحمن محدث اعظمیؒ
- (۲۹) رکعات تراتوج، حضرت مولانا حبیب الرحمن محدث اعظمیؒ
- (۳۰) الاعلام المربوعۃ فی حکم الطلاقات المجموعۃ، حضرت مولانا حبیب الرحمن محدث اعظمیؒ
- (۳۱) تحقیق اہل حدیث، حضرت مولانا حبیب الرحمن محدث اعظمیؒ
- (۳۲) الالبانی: شذوذہ و اخطاؤہ، حضرت مولانا حبیب الرحمن محدث اعظمیؒ

- (۳۲) حجیتِ حدیث، حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ
- (۳۳) اجتہاد و تقلید کی بے مثال تحقیق، حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ
- (۳۴) حفظ الرحمن لہذا، حضرت مولانا حفیظ الرحمن سیوہارویؒ
- (۳۵) امام ابوحنیفہ، حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن بجنوریؒ
- (۳۶) تقلیدِ ائمہ، حضرت مولانا محمد اسماعیل سنہلیؒ
- (۳۷) قرأتِ خلف الامام، حضرت مولانا سید فخر الدین مراد آبادیؒ
- (۳۸) رفع یدین، حضرت مولانا سید فخر الدین مراد آبادیؒ
- (۳۹) آئینِ بالچجر، حضرت مولانا سید فخر الدین مراد آبادیؒ
- (۴۰) الکلام المفید فی اثبات التقلید، حضرت مولانا سرفراز خان صفدرؒ
- (۴۱) تسکین الصدور فی تحقیق احوال الموتی فی البرزخ والقبور، حضرت مولانا سرفراز خان صفدرؒ
- (۴۲) احسن الکلام مسئلہ فاتحہ خلف الامام، حضرت مولانا سرفراز خان صفدرؒ
- (۴۳) طائفہ منصورہ، حضرت مولانا سرفراز خان صفدرؒ
- (۴۴) عمدۃ الاثاث (طلاق ثلاث)، حضرت مولانا سرفراز خان صفدرؒ
- (۴۵) مقامِ ابی حنیفہ، حضرت مولانا سرفراز خان صفدرؒ
- (۴۶) ینایح (تراویح)، حضرت مولانا سرفراز خان صفدرؒ
- (۴۷) وقفہ مع الملائکہ، حضرت مولانا ابو بکر غازی پوریؒ
- (۴۸) غیر مقلدین کی ڈائری، حضرت مولانا ابو بکر غازی پوریؒ
- (۴۹) ارمغانِ حق، حضرت مولانا ابو بکر غازی پوریؒ
- (۵۰) صحابہ کرام کے بارے میں غیر مقلدین کا موقف، حضرت مولانا ابو بکر غازی پوریؒ
- (۵۱) عورتوں کا طریقہ نماز، حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانیؒ
- (۵۲) فقہ حنفی اقرب الی النصوص ہے، مولانا مفتی سعید احمد پالن پوریؒ
- (۵۳) حضرت امام ابوحنیفہؒ پر ارجاء کی تہمت، حضرت مولانا نعمت اللہ اعظمیؒ
- (۵۴) علم حدیث میں امام ابوحنیفہؒ کا مقام و مرتبہ، حضرت مولانا حبیب الرحمن قاسمی اعظمیؒ
- (۵۵) مسائل نماز، حضرت مولانا حبیب الرحمن قاسمی اعظمیؒ
- (۵۶) امام کے پیچھے مقتدی کی قرأت کا حکم، حضرت مولانا حبیب الرحمن قاسمی اعظمیؒ
- (۵۷) تحقیق مسئلہ رفع یدین، حضرت مولانا حبیب الرحمن قاسمی اعظمیؒ
- (۵۸) خواتین اسلام کی بہترین مسجد، حضرت مولانا حبیب الرحمن قاسمی اعظمیؒ

- (۵۹) طلاق ثلاث، حضرت مولانا حبیب الرحمن قاسمی اعظمی
- (۶۰) صحابہ کرام کا مقام اور غیر مقلدین کا موقف، حضرت مولانا عبدالحق سنبھلی
- (۶۱) اجماع و قیاس کی حجیت، حضرت مولانا جمیل احمد سکرو ڈوی
- (۶۲) محاضرات رد غیر مقلدیت، مولانا مفتی محمد راشد اعظمی
- (۶۳) مسائل و عقائد میں غیر مقلدین اور شیعہ مذہب کا توافق، مولانا محمد جمال میرٹھی
- (۶۴) توسل و استغاثہ بغیر اللہ اور غیر مقلدین، مولانا مفتی محمود حسن بلند شہری
- (۶۵) غیر مقلدین کے ۱۵۶ اعتراضات کے جوابات، مولانا مفتی شبیر احمد قاسمی
- (۶۶) ایضاح المسائل، مولانا مفتی شبیر احمد قاسمی
- (۶۷) مجموعہ رسائل و مقالات (شائع شدہ بر موقع اجلاس تحفظ سنت، جمعیتہ علمائے ہند)
- (۶۸) مجموعہ رسائل، حضرت مولانا مفتی مہدی حسن شاہ جہان پوری
- (۶۹) رسائل غیر مقلدیت، جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد
- (۷۰) فضائل اعمال پر اعتراض: ایک اصولی جائزہ، مولانا مفتی عبداللہ معرونی
- (۷۱) تقلید کی شرعی حیثیت، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی
- (۷۲) غیر مقلدیت: اسباب و تدارک، مولانا مفتی عبداللہ معرونی
- (۷۳) تذکرۃ النعمان، مولانا عبداللہ بستوی مدنی
- وغیرہ

حوالہ جات:

- (۱) کشف الحجاب، قاری عبدالرحمن پانی پتی، ص ۲۱، بحوالہ محاضرہ رد غیر مقلدیت، مولانا مفتی محمد راشد اعظمی، جزء اول، ص ۲۴
- (۲) الحیاة بعد الممات، مولوی تल्प حسین، الاقتصاد فی مسائل الجہاد، مولوی محمد حسین پٹالوی؛ دیکھئے: محاضرہ رد غیر مقلدیت، جزء اول، ص ۱۴ تا ۱۷
- (۳) تاریخ دارالعلوم دیوبند، جلد اول، ص ۱۱۲
- (۴) علمائے دیوبند کا دینی رخ اور مسلکی مزاج، ص ۱۳۲ تا ۱۳۶

غیر اسلامی افکار و تحریکات کے خلاف

علمائے دیوبند کی خدمات

اٹھارہویں صدی میں یورپ سے اٹھنے والے اقتصادی اور سائنسی انقلاب میں جہاں سماجی و سیاسی اور تجارتی و اقتصادی سطح پر بہت ساری مثبت تبدیلیاں وجود میں آئیں، وہیں مذہبی دنیا میں اس نے کھرام پھا کر دیا۔ یورپ کا سائنسی انقلاب دراصل مذہب یعنی عیسائیت سے بغاوت ہی کے بعد وجود میں آیا تھا کیوں کہ عیسائیت علم و سائنس کی ترقیات کے راستے میں رکاوٹ تھی۔ یورپ کے مذہب بیزار انقلابیوں نے بالآخر مذہب کو فعال اور معاشرتی زندگی سے نکال کر اسے چرچوں اور انفرادی زندگیوں تک محدود کر دیا۔ مذہب کو ناکارہ، فرسودہ اور ازکار رفتہ سمجھ کر زندگی کے ہر گوشے کو سیکولزم (لامذہبیت یا مذہب بیزاری) اور عقل کے پہلو سے دیکھنے اور پرکھنے کا سلسلہ شروع ہوا۔

فتنہ اعتزال جدید

یہی سائنسی انقلاب جب سامراجی طاقتوں کے ذریعہ ان کی نوآبادیات میں آیا جہاں اسلام کے نام لیوا موجود تھے تو ان میں بھی نفسیاتی طور پر شکست خوردہ اور احساس کمتری میں مبتلا طبقہ نے یورپ کے اسی مزاج کو بیعینہ قبول کر لیا جب کہ اسلام اور اس کی تعلیمات عقل سلیم کے عین مطابق اور بشری ضروریات کو حاوی تھیں اور ترقی پذیر زمانے کے ساتھ شانہ بشانہ چل سکتی تھیں۔ سائنس اور عقل کی حیرت انگیز ایجادات و ترقیات کی روشنی سے ان کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں اور انہوں نے اسی روشنی میں اسلامی تعلیمات کو بھی پرکھنا شروع کر دیا۔ بے لگام عقل پسندی اور جدت پسندی میں انہوں نے فرقہ معترکہ کی طرح عقل کو ہی معیار کامل قرار دے کر قرآن و حدیث کی نصوص تک کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ وحی الہی، معجزات، مابعد الطبیعیاتی امور جیسے جنت و جہنم، ملائکہ اور مافوق الفطرت واقعات کے انکار یا اس میں تاویل و توجیہ اور تحریف کی کوششوں میں لگ گئے، جب کہ تغیر پذیر سائنس نے کچھ ہی عرصہ میں اسلامی افکار و تعلیمات کی تائید کردی اور ان عقلیت پسندوں کی ریک تائویلات و اعتراضات کی ہوائنکل گئی۔ اعتزال جدید کے ان علم برداروں کو جدید معترکہ، نیچری اور مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی ژرف نگاہی اور مومنانہ فراست سے وقت کی رفتار کو بھانپ لیا تھا اور حجۃ اللہ البالغۃ جیسی عظیم الشان کتاب لکھ کر آئندہ کے جدید سائنسی دور میں اسلامی تعلیمات کی معنویت اور معقولیت کو

اجاگر کر دیا تھا۔ ولی اللہی مشن کے وارث و امین علمائے دیوبند نے اس تحریک کو آگے بڑھایا۔ خصوصاً حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کی تمام کتابیں عقل و منطق کے اعلیٰ معیار پر فائز ہیں۔ آپ نے اپنی کتابوں میں متکلمانہ رنگ میں اسلام کی صداقت و حقانیت پر بہترین مواد اکٹھا کر دیا ہے۔ اسلامی تعلیمات کو عقلی انداز سے ثابت کرنے میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کو بھی خاص ملکہ حاصل تھا۔ آپ کی کتابیں عقل و نقل کی شاہد عدل ہیں؛ المصالح العقلیہ للمسائل العقلیہ، اشرف الجواب اور الانتباہات المفیدہ اس موضوع پر بے مثال کتابیں ہیں۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی بھی حکمت قاسمی کے ترجمان تھے اور ان کی کتابیں بھی عقل و منطق کی میزان پر پوری اُترتی ہیں۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی تبیرہ حجتہ الاسلام حضرت نانوتوی کی تحریریں اور تقریریں بھی بہت مدلل اور معقول ہوتی تھیں۔ آپ تقریباً تمام ہی اسلامی موضوعات پر عقلی و نقلی دلائل سے بحث فرماتے تھے۔ سائنس اور اسلام، معجزات، تقدیر، برزخ وغیرہ موضوعات پر آپ کی مستقل کتابیں اور رسائل موجود ہیں۔

تحریک خاکسار

عنایت اللہ مشرقی کی خاکسار تحریک بھی اسی سلسلہ زنج و ضلال کی ایک کڑی تھی۔ مشرقی نے اپنی ’تذکرہ‘ نامی کتاب میں اہل حق کے خلاف راہ اختیار کی اور الحاد و زندقہ کی باتیں لکھیں۔ اس نے امت مسلمہ کو اہل حق سے دور کرنے کے لیے ’مولوی کا غلط مذہب‘ کے نام سے رسالے شائع کیے۔ حضرات علمائے حق نے اس کی بھی خوب خبر لی اور امت پر اس کی گمراہی کھول کر واضح کی۔ اس موضوع پر حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے ’الارشاد الی بعض احکام الحاد‘ (مشرق اور اسلام) اور مولانا بہاء الحق قاسمی امرتسری نے ’خاکساری فتنہ‘ نامی کتابیں تصنیف فرمائیں۔

فتنہ انکار حدیث

بیسویں صدی کے نئے فتنوں میں ایک فتنہ انکار حدیث ہے جو عقلیت پرستی کے فتنوں کے سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ اس فرقہ نے انکار حدیث کے نظریہ کو رواج دیا اور اپنی گمراہی کو چھپانے کے مقصد سے اپنے لیے ’اہل قرآن‘ نام تجویز کیا۔ یہ دراصل آزاد مزاجوں اور اباحت پسندوں کا ایک گروہ تھا جو اسلام کے پردے میں اسلام پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس جماعت کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کو محض ایک نظریاتی معمم بنا کر اسے مسلمانوں کی عملی زندگی سے نکال دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ عملی زندگی سے اس کا رشتہ کٹ جانے کے بعد مسلمانوں کا من حیث القوم وجود ہی ختم ہو جاتا۔

قرآن حکیم میں اوامر و نواہی ہیں جن میں بہت سے احکام ایسے ہیں جن کا اجمالی حکم قرآن میں دیا گیا اور ان پر عمل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا۔ ان احکام کی تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں۔ جو لوگ آزاد منہش ہیں، اعمال کی بندش میں آنے سے کتراتے ہیں اور ان کا نفس زندگی کے شعبوں میں اسلام کو اپنانے کے لیے تیار نہیں؛ لہذا یہ لوگ حدیث کے منکر ہو جاتے ہیں۔ چوں کہ قرآن کریم میں

تمام احکام کی تفصیلات مذکور نہیں ہیں؛ اس لیے آزادی کا راستہ نکالنے کے لیے انکار حدیث کا سہارا لیتے ہیں۔ بلاشبہ حدیث کا انکار اور صرف قرآن پر اصرار ایک کھلی ہوئی گمراہی تھی، لیکن انھوں نے اہل قرآن کے پرفریب نام سے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ بہت سے لوگ جو حقیقت حال سے واقف نہیں تھے اور صحیح و غلط میں تمیز نہیں کر سکتے تھے وہ ان کی تحریروں سے متاثر ہو گئے۔

مشہور منکرین حدیث عبداللہ چکڑالوی، اسلم جیراج پوری اور غلام احمد پرویز وغیرہ کا ایک طبقہ سامنے آیا جس نے مستشرقین کے مشن کے مطابق احادیث کے عظیم الشان ذخیرہ سے متعلق شکوک و شبہات کا بیج بونے کی کوشش کی۔ انھوں نے حضرات صحابہ کرام اور سلف صالحین کی دین متین کو محفوظ بنانے کی مساعی جمیلہ پر پانی پھیرنا چاہا۔ بالآخر علمائے دیوبند نے فتنہ انکار حدیث کی طرف بھی توجہ فرمائی اور علمی و تاریخی طور پر ان کے دعووں کی قلعی کھول کر رکھ دی۔ انھوں نے عوام پر واضح کر دیا کہ یہ نام نہاد اہل قرآن نہ صرف علم حدیث کے منکر ہیں بلکہ قرآن کریم کے بھی منکر ہیں۔ دشمنان دین مستشرقین یہود و نصاریٰ نے ان کو مسلمانوں میں بددینی پھیلانے پر لگایا ہے اور یہ انھیں کے شاگرد ہیں اور انھیں کی باتیں زبانی اور تحریری طور پر مسلمانوں میں پھیلاتے ہیں۔ دراصل انگریزوں نے اسکولوں اور کالجوں میں الحاد و زندقہ کی جو ختم ریزی کی تھی یہ ان ہی پودوں کے برگ و بار ہیں۔

منکرین حدیث کے رد میں علمائے دیوبند کی کتابیں درج ذیل ہیں:

- (۱) نصرۃ الحدیث، مولانا حبیب الرحمن صاحب محدث اعظمی
- (۲) انکار حدیث کے نتائج، حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر
- (۳) انکار حدیث کے نتائج، حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی
- (۴) فتنہ انکار حدیث اور اس کا پس منظر، حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری
- (۵) فتنہ انکار حدیث، مولانا ولی حسن خان ٹوکی
- (۶) انکار حدیث کیوں؟، علامہ محمد ایوب صاحب دہلوی
- (۷) نظریہ دو قرآن پر ایک نظر، حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب
- (۸) صرف ایک اسلام، مولانا سرفراز خان صفدر
- (۹) تدوین حدیث، حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی
- (۱۰) سیف ملول بردشمن حدیث رسول، محمد فضل اللہ وانمباڑی
- (۱۱) فکر غامدی: ایک تحقیقی اور تاریخی مطالعہ، مولانا محمد یوسف لدھیانوی
- (۱۲) کتابت حدیث عہد رسالت و صحابہ میں، مولانا محمد رفیع عثمانی
- (۱۳) سنت کا مقام اور فتنہ انکار حدیث، مولانا محمد رفیع عثمانی
- (۱۴) حجیت حدیث، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی

مودودیت یا جماعت اسلامی

تجدد پسندی، عقل پرستی اور نام نہاد احنیائے اسلام کی بنیاد پر وجود میں آنے والا ایک فرقہ مودودیت یا جماعت اسلامی بھی ہے۔ جناب ابوالاعلیٰ مودودی اس جماعت کے بانی ہیں جنہوں نے اپنے اثر انگیز طرزِ تحریر اور جدت پسند صحافتی لٹریچر سے ایک حلقہ بنا لیا تھا جو بعد میں اس جماعت کی بنیاد بنا۔ ۱۹۴۱ء میں جماعت کی تشکیل سے قبل جب مودودی صاحب کے نظریات سامنے نہیں آئے تھے، عقیدہ اور نصب العین کی کوئی تعین نہیں تھی، مودودی صاحب سیدھے سادھے چل رہے تھے، بلکہ علماء سے مودودی صاحب کا ربط بھی تھا۔ جمعیتہ علمائے ہند میں اکابر دیوبند کے زیر سایہ انہوں نے کئی اہم کتابیں تصنیف کیں جن کو سراہا گیا۔ لیکن جماعت اسلامی کی تشکیل کے بعد جب اس کا دستور سامنے آیا تو اس کی بعض دفعات قابل اعتراض تھیں۔ یہیں سے اکابر کا اختلاف شروع ہوا۔

جماعت اسلامی کے دستور کی پہلی دفعہ میں دین کے لیے معیار حق کی تعین کی گئی ہے کہ اللہ و رسول کے علاوہ کسی کو تنقید سے بالاتر نہ سمجھے اور کسی کی ذہنی غلامی میں مبتلا نہ ہو۔ یہ دفعہ صحابہ کرام کے اجتماعی عمل اور فیصلہ کے حجت ہونے کی نفی کرتی ہے؛ حالاں کہ اہل سنت والجماعہ کے نزدیک یہ بھی حجت شرعیہ ہے۔ مودودی دستور کی رو سے جماعت صحابہ معیار حق باقی نہیں رہتی۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ وہ ”ٹھیکہ اسلامی نظام“ کو برپا نہیں کر سکے، وہ ”ٹھیک منہاج نبوت“ پر قائم نہیں رہ سکے، ان کے دور میں جاہلیت کے جراثیم در آئے تھے، حضرت عثمانؓ سے فلاں غلطیاں ہوئیں، حضرت معاویہؓ کے سیرت و کردار پر جاہلیت کے فلاں فلاں داغ دھبے تھے، ابو موسیٰ اشعریؓ اور عمرو بن عاص نے اقامت دین کے بجائے ڈپلومیسی سے کام لیا، وغیرہ وغیرہ۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے انبیائے کرام علیہم السلام کے سلسلہ میں بھی نامناسب تبصرے کیے۔ اسی لیے مودودی تحریک کی خاصیت ہے کہ جو شخص اس سے جس قدر زیادہ وابستہ ہوگا اسی قدر اس کے لوح قلب پر صحابہ کرام اور اسلاف امت بلکہ انبیائے کرام علیہم السلام کی ”کنزوریوں“ کا نقش قائم ہوگا۔ مودودی صاحب کی کتابوں: خلافت و ملوکیت، تجدید و احیائے دین وغیرہ میں یہ مضامین موجود ہیں۔

جماعت اسلامی کے دستور میں اس کا نصب العین اور اس کی تمام سعی و جہد کا مقصد دنیا میں حکومت الہیہ کا قیام اور آخرت میں رضائے الہی کا حصول ہے۔ حکومت الہیہ کے قیام کے اس منصوبہ کو مودودی صاحب نے اپنی کتاب ”قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں“ میں واضح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ (اللہ، رب، عبادت، دین) کی چار بنیادی اصطلاحوں کے مفہوم پر پردہ پڑ جانے کی وجہ سے قرآن کی تین چوتھائی سے زیادہ تعلیم بلکہ اس کی حقیقی روح نگاہوں سے مستور ہو گئی۔ گویا اتنی صدیوں سے ملت اسلامیہ ایسی شخصیتوں سے بانجھ رہی اور علمائے امت کی ان اصطلاحوں تک رسائی نہیں ہو سکی۔ مودودی صاحب کے نزدیک اعمال شریعت کا بنیادی مقصد اقامت دین اور حکومت الہیہ کا قیام ہے، جو چیز دین کی ایک شاخ تھی اسے دین کی بنیاد بنا دیا گیا جن کی وجہ سے تمام اعمال شریعت کا محور بجائے رضائے الہی کے سیاست ہو گیا۔ نماز

کی غایت ”فوجی ٹریننگ“، زکاۃ کا مقصد ”حاصلات“، روزے کی علت ”فوجی جفاکشی کی مشق“، حج کا روحانی اجتماع ”انٹرنیشنل کانفرنس“ اور ارکان اربعہ کا مجموعہ ”ٹریننگ کورس“ بن گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکالا گیا کہ تمام وہ مومنین بلکہ انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ السلام جن کے لیے اقامت دین اور حکومت الہیہ مقدر نہیں تھی وہ ”نا کام انسان“ اور ”نا کام پیغمبر“ نظر آنے لگے۔ (تفصیل کے لیے دیکھئے مودودی صاحب کی کتاب ”اسلامی عبادات پر ایک تحقیقی نظر“)

مودودی صاحب نے قرآنی آیات کو اپنے نظریات کے مطابق ڈھالا اور تفسیر بالرائے کے مرتکب ہوئے۔ ان کے نزدیک قرآن کو سمجھنے کے لیے کسی تفسیر کی حاجت نہیں، ایک اعلیٰ درجہ کا پروفیسر ہونا کافی ہے۔ (تفہیمات، ۲۹۲)

احادیث کے سلسلہ میں لکھتے ہیں کہ یہ دعویٰ کرنا صحیح نہیں کہ بخاری و مسلم میں جتنی احادیث درج ہیں ان کے مضامین کو جوں کا توں بلا تنقید قبول کر لینا چاہیے۔ کسی روایت کے سند صحیح ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کا نفس مضمون بھی ہر لحاظ سے صحیح ہو اور جوں کا توں قابل قبول ہو۔ (رسائل و مسائل ۴۱۲) اسی بنیاد پر انہوں نے بخاری و مسلم کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ثلاث کذبات کی حدیث پر کلام کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ”وہ دراصل ان مہمل افسانوں میں سے ہے جو بائبل میں انبیاء کے نام پر گھڑے گئے ہیں۔“ (رسائل و مسائل ۳/۲) مودودی صاحب نہ مسلک اہل حدیث کو تمام تفصیلات کے ساتھ صحیح سمجھتے تھے اور ہی حقیقت اور شافیہ کے پابند تھے۔ (رسائل و مسائل ۱۵۳/۱) مودودی صاحب مسلکاً آزاد تھے بلکہ ان کی تحریروں سے مجتہد مطلق ہونے کا ادعا ظاہر ہوتا ہے۔

مودودی صاحب کے زور قلم سے امت مسلمہ کے اندر جب فاسد عقائد و افکار کی اشاعت کا آغاز ہوا تو علمائے حق نے افراط و تفریط کے بغیر ان کے متعلق رائے پیش کی اور قرآن و حدیث اور شریعت اسلامیہ کی روشنی میں مودودی عقائد و افکار کی حیثیت واضح کی۔ مودودی صاحب کے مضامین پر سب سے پہلے رد و کدح کرنے والے علماء میں شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی وغیرہ ہیں۔ حضرت مدنی نے مودودی دستور و عقائد کی تشریح میں تفصیلی رسالہ لکھا۔ نیز مودودی صاحب کے چار رفقاء میں سے جو جماعت اسلامی کے امیروں میں شامل تھے دو حضرات یعنی حضرت مولانا محمد منظور نعمانی اور حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی نے چھ ماہ بعد ہی استعفاء دے دیا۔ مولانا نعمانی نے مودودی صاحب کے ساتھ اپنی رفاقت کی سرگشت کی تفصیلات بھی لکھ کر شائع کیں۔

علمائے حق نے مودودی صاحب اور جماعت اسلامی کے افکار و عقائد کے تعارف و تعاقب میں ایک بڑا ذخیرہ جمع فرما دیا جس سے ہر صاحب عقل و دانش کو معلوم ہو جائے گا کہ مودودیت ایک مستقل فرقہ ہے جو اہل سنت و الجماعت کے نظریات سے کوسوں دور ہے۔ اس کی زرق برق تحریر اور شگفتہ و شستہ انشاء پر دازی و طلاقت لسانی میں آج کا پڑھا لکھا انسان بھی گم ہو جاتا ہے، الفاظ کی بھول بھلیوں میں بھٹک جاتا ہے اور اس کی زہرناکی کو سمجھ نہیں پاتا۔ مودودیت دراصل اعترال، خارجیت اور شیعیت کا مسموم معجون مرکب ہے جس نے خارجیوں کی طرح حکومت کو اولین درجہ دیا، صحابہ کو مطعون کیا، معتزلہ کی طرح عقل کو نقل پر ترجیح دی اور شیعوں کی طرح حضرات صحابہ

پر الزامات لگائے۔ ان جملہ فرقوں کی طرح اپنے نظریات کے مطابق تفسیر بالرائے کا ارتکاب کیا۔ (تفصیل کے لیے دیکھیں: محاضرہ رد مودودیت، مولانا عبدالحق سنہلی، جزء اول، ص ۱۱ تا ۱۳۹)

رد مودودیت میں علمائے دیوبند کی علمی خدمات

- (۱) مودودی دستور و عقائد کی حقیقت، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی
- (۲) مکتوبات ہدایت، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی
- (۳) تنبیہات، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی
- (۴) ایمان و عمل، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی
- (۵) فتنہ مودودیت، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی
- (۶) جماعت اسلامی کا دینی رخ، حضرت مولانا عبدالصمد رحمانی
- (۷) جماعت اسلامی کے نظریات و افکار، حضرت مولانا عبدالصمد رحمانی
- (۸) جماعت اسلامی پر تبصرہ، مولانا عبدالصمد رحمانی
- (۹) دارالعلوم کا ایک فتویٰ اور اس کی حقیقت، حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب
- (۱۰) الاستاذ المودودی و شی من حیاتہ و افکارہ، حضرت مولانا محمد یوسف بنوری
- (۱۱) حق پرست علماء کی مودودیت سے ناراضگی کے اسباب، حضرت مولانا احمد علی لاہوری
- (۱۲) مولانا مودودی کے ساتھ میری رفاقت کی سرگزشت، حضرت مولانا محمد منظور نعمانی
- (۱۳) کشف حقیقت یعنی تحریک مودودیت اپنے اصلی رنگ میں، حضرت مولانا قاری سعید احمد صاحب
- (۱۴) مودودی صاحب کا ایک غلط فتویٰ اور ان کے چند دیگر باطل نظریات، حضرت مولانا سرفراز خان صفدر
- (۱۵) براءۃ عثمان، حضرت مولانا ظفر عثمانی
- (۱۶) مقام صحابہ، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب
- (۱۷) شواہد تقدس اور تردید الزامات، حضرت مولانا محمد میاں دیوبندی
- (۱۸) درر منشورہ، حضرت مولانا محمد میاں دیوبندی
- (۱۹) آئینہ تحریک مودودی، حضرت مفتی مہدی حسن صاحب
- (۲۰) عصر حاضر میں دین کی تفہیم و تشریح، حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی
- (۲۱) مودودی مذہب، مولانا عزیز احمد بی اے
- (۲۲) جماعت اسلامی کے دینی رجحانات، مولانا مفتی ظفر الدین صاحب
- (۲۳) حضرت معاویہ اور تاریخی حقائق، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی

- (۲۴) اسلام اور جدت پسندی، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی
- (۲۵) محاضراتِ ردِ مودودیت، مولانا عبدالحق سنہجلی
- (۲۶) مقدمہ تفہیم القرآن کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ، مولانا ریاست علی بجنوری
- (۲۷) مودودی صاحب اکابر امت کی نظر میں، مولانا حکیم اختر صاحب
- (۲۸) جماعت اسلامی کا دینی رخ، مولانا قاضی مظہر حسین صاحب
- (۲۹) علمی محاسبہ، مولانا قاضی مظہر حسین صاحب
- (۳۰) مودودی مذہب، مولانا قاضی مظہر حسین صاحب
- (۳۱) مودودی کے نام کی کھلی چٹھی، مولانا قاضی مظہر حسین صاحب
- (۳۲) مکتوباتِ خلافت، مولانا عبدالرشید محمود گنگوہی
- (۳۳) مودودی صاحب اور ان کی تحریرات کے متعلق چند اہم مضامین، از علمائے دیوبند، دارالاشاعت کراچی
- (۳۴) عصمت انبیاء اور مولانا مودودی، مولانا طاہر حسین گیاوی
- (۳۵) مودودی صاحب اپنے افکار و خیالات کے آئینہ میں (ترجمہ الاستاذ المودودی)، مولانا اعجاز احمد اعظمی
- (۳۶) تفہیم القرآن پر ایک تحقیقی جائزہ، مفتی جمیل الرحمن پرتاپ گڑھی
- وغیرہ

علمائے دیوبند کی اصلاحی و تبلیغی خدمات

دارالعلوم دیوبند کے اکابر و علماء نے جہاں درس و تدریس، تصنیف و تالیف، ملی و اجتماعی معاملات میں رہ نمائی کے ذریعہ ملت اسلامیہ کی خدمت کی ہے، وہیں انھوں نے اصلاحی و تبلیغی میدانوں میں پورے پورے برصغیر بلکہ پورے عالم میں بیش بہا خدمات انجام دی ہیں۔ اس سلسلہ میں انھوں نے سیکڑوں اصلاحی کتابیں لکھیں اور مسلمانوں کے عقائد و اعمال کی اصلاح کے لیے ملک کے کونے کونے میں وعظ و تقریر کی مجلسیں قائم کیں۔ جہاں جہاں اور جب جب مسلمانوں کو کسی بھی ایسے معاملہ کا سامنا ہوا جس سے ان کے دین و ایمان کو نقصان پہنچ سکتا تھا یا ان کی مذہبی شناخت متاثر ہو سکتی تھی، علمائے دیوبند نے بروقت اس کا ادراک کرتے ہوئے مسلمانوں کو اس سے باخبر کیا۔ دارالعلوم کے اکابر و مشائخ نے جس طرح مسلم نونہالوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اسلامی مدارس و مراکز قائم فرمائے اسی طرح انھوں نے عامۃ المسلمین کی روحانی تربیت کا بھی انتظام فرمایا۔

خانقاہوں کے ذریعہ اصلاحی خدمات

دارالعلوم کے اکابر و مشائخ جس طرح دینی علوم کے حامل و امین اور اسلامی روایات کے پاس دار تھے، اسی طرح وہ نسبت باطنی سے آراستہ اور روحانی طور پر تربیت یافتہ بھی تھے۔ علمی سلسلہ کی طرح علمائے دیوبند کا روحانی سلسلہ بھی حضرات اولیائے کرام و مشائخ عظام کے واسطے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فریضہ منصبی یعنی تعلیم و تزکیہ کے مطابق علمائے دیوبند نے تعلیم کے ساتھ تزکیہ اور مدارس کے ساتھ خانقاہوں کا سلسلہ بھی قائم فرمایا۔ انھوں نے اخلاقی رذائل اور عادات قبیحہ کے ازالہ اور اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ اور عقائد صحیحہ سے لوگوں کو آراستہ کرنے کے لیے خانقاہیں قائم کیں اور مسترشدین کے لیے ذکر و شغل اور ادو وظائف متعین کیے۔ اکابرین دیوبند نے سلوک و احسان اور تصوف و طریقت کو دین کے اہم جزء کا درجہ دیا کیوں کہ تہذیب اخلاق، تزکیہ نفس اور سلوک باطن کی تکمیل کے بغیر اعتدال اخلاق، استقامت ذوق و وجدان، باطنی بصیرت، ذہنی پاکیزگی اور مشاہدہ حقیقت ممکن نہیں۔ لیکن انھوں نے بے بصر معتقدین کی غلوزدہ رسموں، بے بصرانہ نقلیوں اور خلاف سنت و شریعت امور کا ہمیشہ انکار کیا۔ ان کے نزدیک سیدھا اور بے غل و غش راستہ سنت نبوی کا اتباع، سلف صالحین صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین و فقہائے دین کا تلقین کردہ راستہ ہی سلامتی کی شاہراہ ہے۔

مشائخ دیوبند نے ان خانقاہوں کے ذریعہ لوگوں کے دلوں میں معرفت کی روشنی پیدا کی اور لاکھوں نفوس کو ذکر و فکر کی دولت تقسیم کرتے رہے۔ ان بزرگوں کے ہاتھوں پر لاکھوں لوگوں کو سابقہ گناہوں کی زندگی سے توبہ اور

تجدید ایمان کی توفیق نصیب ہوئی۔ اپنی سابقہ گناہوں کی زندگی سے تائب ہونے والے اور اسلام کی صحیح تعلیمات کی روشنی میں نئی زندگی شروع کرنے والے ان ہی خانقاہوں کی طرف متوجہ ہوتے جہاں ان کو ذکر و فکر کے ساتھ سنت کی اتباع، نفس کے محاسبہ اور آخرت کی تیاری کا سبق دیا جاتا۔

ان روحانی مربیوں اور ان کے خلفاء سے مربوط ہو کر لاکھوں کروڑوں انسانوں نے شرک و بدعت اور نافرمانی و گنہ گاری کی زندگی سے توبہ کی، قلوب کا تزکیہ کیا اور سنت نبویہ کے اتباع کے جذبہ سے سرشار ہوئے۔ ان کی زندگیوں میں اہل اللہ کی خانقاہوں کی برکت سے دین و شریعت کے تقاضوں کی سمجھ پیدا ہوئی اور سنت کی اتباع کا ذوق پیدا ہوا، اور نتیجتاً ان کی زندگیوں سے تمام بدعات و خرافات اور مشرکانہ عقائد رخصت ہو گئے۔ برصغیر ہند میں ان بزرگوں کی خانقاہوں نے صحیح اسلامی عقائد، سنت نبویہ اور تہذیب و تقویٰ کی اشاعت میں اہم کردار ادا کیا ہے۔

دارالعلوم دیوبند سے وابستہ جن ارباب احسان و سلوک نے ملک کے اطراف میں روحانی تربیت کے مراکز اور خانقاہیں قائم کر کے بے شمار لوگوں کی رہنمائی فرمائی ان کی فہرست طویل ہے، یہاں کچھ خاص حضرات مشائخ کی ایک فہرست پیش کی جا رہی ہے جن کے ہاتھ پر توبہ اور بیعت کرنے والوں کی تعداد لاکھوں میں رہی ہے:

- (۱) سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکیؒ
- (۲) قطب ارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ
- (۳) حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوریؒ
- (۴) حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ
- (۵) شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنیؒ
- (۶) حضرت مولانا محمد علی مونگیریؒ
- (۷) حضرت مولانا شاہ عبدالرحیم رائے پوریؒ
- (۸) حضرت مولانا سید میاں اصغر حسین دیوبندیؒ
- (۹) حضرت مولانا ضرعام الدین فیض آبادیؒ
- (۱۰) حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوریؒ
- (۱۱) حضرت مولانا عبدالغفور عباسی مدنیؒ
- (۱۲) حضرت مولانا احمد علی لاہوریؒ
- (۱۳) حضرت مولانا مفتی محمد حسنؒ
- (۱۴) حضرت مولانا خیر محمد جالندھریؒ
- (۱۵) حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمیؒ
- (۱۶) حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندھلویؒ

- (۱۷) حضرت مولانا اسعد اللہ رام پوریؒ
 (۱۸) حضرت مولانا عبدالحق اکوڑویؒ
 (۱۹) حضرت مولانا منت اللہ رحمانیؒ
 (۲۰) حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھولپوریؒ
 (۲۱) حضرت مولانا شاہ وصی اللہ فتح پوریؒ
 (۲۲) حضرت مولانا مسیح اللہ خاں جلال آبادیؒ
 (۲۳) حضرت مولانا قاری فخر الدین گیاویؒ
 (۲۴) حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہیؒ
 (۲۵) حضرت مولانا عبد الجبار معروٹیؒ
 (۲۶) حضرت مولانا ابرار الحق ہردویؒ
 (۲۷) حضرت مولانا انعام الحسن کاندھلویؒ
 (۲۸) حضرت مولانا قاری صدیق احمد باندویؒ
 (۲۹) حضرت مولانا عبد الحلیم جون پوریؒ
 (۳۰) حضرت مولانا سید اسعد مدنیؒ
 (۳۱) حضرت مولانا احمد علی آسامیؒ

علم تصوف میں تصنیفی خدمات

علمائے دیوبند نے نہ صرف تصوف کو سنت و شریعت سے ہم آہنگ کرتے ہوئے اسے عملی طور پر نیا ہا بلکہ علمی طور پر بھی سلوک و احسان کی اہمیت و ضرورت اور اس کے صحیح طریقہ کار کی طرف رہ نمائی کی۔ تصوف میں غلو پسند افراد کی وجہ سے جو افراط و تفریط در آئی تھی علمائے حق نے اس کو دور کیا اور تصوف و طریقت کے سلسلہ میں معتدل اور متوازن رائے قائم کی۔ تصوف کے سلسلہ میں علمائے دیوبند کی تصنیفات کی ایک فہرست پیش کی جا رہی ہے:

- (۱) غذائے روح، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجرکیؒ
- (۲) ضیاء القلوب، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجرکیؒ
- (۳) شائلم امدادیہ، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجرکیؒ
- (۴) جمال قاسمی، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ
- (۵) امداد السلوک، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ
- (۶) مکاتیب رشیدیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ

- (۷) اتمام النعم ترجمہ تبویب الحکم، حضرت مولانا خلیل احمد سہارن پوریؒ
- (۸) اکمال الشیم، حضرت مولانا عبداللہ گنگوہیؒ
- (۹) فیوض یزدانی ترجمہ الفتح الربانی، حضرت مولانا عاشق الہی میرٹھیؒ
- (۱۰) تبلیغ دین ترجمہ المثلثین من الاربعین، حضرت مولانا عاشق الہی میرٹھیؒ
- (۱۱) تبویب تربیت السالک، حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ
- (۱۲) تربیت السالک، حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ
- (۱۳) التشریف بمعرفة احادیث التصوف، حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ
- (۱۴) التصرف فی تحقیق التصوف، حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ
- (۱۵) التکشف عن مہمات التصوف، حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ
- (۱۶) خصوص الکلم فی حل نصوص الحکم، حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ
- (۱۷) عنوان التصوف، حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ
- (۱۸) کلید مثنوی مولانا روم، حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ
- (۱۹) مبادی التصوف، حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ
- (۲۰) مسائل السلوک کلام ملک الملوک، حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ
- (۲۱) الافاضات الیومیہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ
- (۲۲) انفاس عیسیٰ، حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ
- (۲۳) کمالات امدادیہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ
- (۲۴) السنۃ الجلیلیہ فی الپشتیۃ العلییہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ
- (۲۵) حیاۃ المسلمین، حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ
- (۲۶) تعلیم الدین، حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ
- (۲۷) قصد السبیل، حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ
- (۲۸) جزاء الاعمال، حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ
- (۲۹) سلاسل طیبہ، حضرت مولانا حسین احمد مدنیؒ
- (۳۰) مکتوبات شیخ الاسلام، حضرت مولانا حسین احمد مدنیؒ
- (۳۱) الدر المنصوبہ ترجمہ البحر المورود للشعرانی، حضرت مولانا ظفر احمد تھانویؒ
- (۳۲) رحمۃ القدوس، حضرت مولانا ظفر احمد تھانویؒ
- (۳۳) القول المنصور فی ابن منصور، حضرت مولانا ظفر احمد تھانویؒ
- (۳۴) رفع الاشتباہ عن اولیاء اللہ، حضرت مولانا عبدالصمد رحمانیؒ

- (۳۵) مقامات تصوف، حضرت مولانا اسماعیل سنبھلی
- (۳۶) تصوف کیا ہے؟ حضرت مولانا منظور احمد نعمانی
- (۳۷) مقام توحید، حضرت مولانا منظور احمد نعمانی
- (۳۸) نسبت اور ذکر و شغل، حضرت مولانا منت اللہ رحمانی
- (۳۹) وصیۃ السالکین، حضرت مولانا وصی اللہ الہ آبادی
- (۴۰) الافادات الوصیۃ، حضرت مولانا وصی اللہ الہ آبادی
- (۴۱) وصیۃ الاحسان، حضرت مولانا وصی اللہ الہ آبادی
- (۴۲) دیباچہ معرفت، حضرت مولانا وصی اللہ الہ آبادی
- (۴۳) تصوف و نسبت صوفیہ، حضرت مولانا وصی اللہ الہ آبادی
- (۴۴) وصیۃ الاخلاق، حضرت مولانا وصی اللہ الہ آبادی
- (۴۵) وصیۃ الاخلاص، حضرت مولانا وصی اللہ الہ آبادی
- (۴۶) تختہ باطن، حضرت مولانا وصی اللہ الہ آبادی
- (۴۷) معیت الہیہ، حضرت مولانا عبد الغنی پھولپوری
- (۴۸) معرفت الہیہ، حضرت مولانا عبد الغنی پھولپوری
- (۴۹) مقالات احسانی، حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی
- (۵۰) اکابر کا سلوک و احسان، حضرت مولانا زکریا کاندھلوی
- (۵۱) تاریخ دعوت و عزیمت، حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی
- (۵۲) حکم الذکر بالجبر، حضرت مولانا سرفراز خان صفدر
- (۵۳) شریعت و تصوف، حضرت مولانا مسیح اللہ خاں شروانی
- (۵۴) ذکر الہی، حضرت مولانا مسیح اللہ خاں شروانی
- (۵۵) نجات دارین، مولانا زاہد احسنی
- (۵۶) ترجمہ انقاس العارفین، مولانا یوشع سہارنپوری
- (۵۷) ترجمہ احیاء العلوم، مولانا ندیم الواجدی
- وغیرہ

شعبہ تبلیغ دارالعلوم دیوبند

انیسویں صدی کے پہلے عشرہ میں ہندوستان کے اندر آریہ سماج کی جارحانہ سرگرمیوں اور تحریک ارتداد کے پھیلنے کی وجہ سے دارالعلوم نے تبلیغ اور دعوت دین کے لیے مستقل شعبہ قائم کیا۔ دارالعلوم کے مبلغین کی کوششوں سے

الحمد للہ ارتداد کا بڑھتا ہوا سیلاب رک گیا اور شہمی و سنگٹھن کی کوششوں سے جو مسلمان دین سے برگشتہ ہو گئے تھے وہ اسلام میں واپس آ گئے۔ بعد میں تبلیغ و دعوت کے دائرہ کو وسیع کرتے ہوئے یہ نظام قائم کیا گیا کہ دارالعلوم کے مستقل مبلغین ملک کے طول و عرض میں تبلیغ دین کا دینی فریضہ انجام دینے لگے۔ اس کے ساتھ ساتھ دارالعلوم میں بھی ایسے طلبہ تیار کیے جانے لگے جو وعظ و پند کے علاوہ تقریر و مناظرہ میں معترضین و مخالفین کا کما حقہ مقابلہ کر سکیں۔

دارالعلوم کے شعبہ تبلیغ کے پلیٹ فارم سے اب تک متعدد مبلغین و علماء وابستہ رہ چکے ہیں جن میں چند اہم علماء کے نام یہ ہیں: مولانا ابوالوفاء شاہ جہانپوری، مولانا حامد الانصاری غازی، مولانا خلیق احمد سر دھنوی، مولانا عزیز احمد قاسمی فیض آبادی، مولانا ہادی حسن صاحب، مولانا سید معظم علی نجیب آبادی، مولانا محمد یونس بگھروی، مولانا عتیق الرحمن آروی، مولانا سید سیف اللہ ہاشمی، مولانا عبد السمیع گوٹڈوی، مولانا سید ارشاد احمد فیض آبادی وغیرہ۔ دارالعلوم دیوبند کے فضلاء اور تربیت یافتہ علماء کی اصلاحی و تبلیغی خدمات اظہر من الشمس ہیں۔ کوئی اہم دینی و اصلاحی اجلاس اور موقر اسلامی پلیٹ فارم علمائے دیوبند سے خالی نہیں ہوتا، یہی نہیں بلکہ اس کی قیادت اور باگ ڈور عموماً علمائے دیوبند کے ہاتھوں میں رہتی ہے۔

تبلیغی جماعت

علمائے دیوبند نے امت مسلمہ کے نونہالوں کو دینی تعلیم و تربیت سے آراستہ کرنے کے لیے مدارس کھولے، سائلین طریقت کی اصلاح و تربیت کے لیے خانقاہیں قائم کیں، مسلمانوں میں دینی لہر پیدا کرنے کے لیے مواعظ و تقاریر کا سلسلہ شروع کیا۔ تاہم عوام الناس کی ایک بڑی تعداد علم دین سے دور اور اسلامی تعلیمات سے ناواقف تھی۔ ان مسلمانوں کے دین و ایمان کی فکر کرنے اور ان کے اندر اسلامی روح کو بیدار کرنے کا کام جماعت تبلیغ نے شروع کیا۔ اس تحریک نے عام مسلمانوں تک پہنچ کر فرداً فرداً ان کو دین کی راہوں پر لگایا، کلمہ اور اسلامی عقائد سکھائے، نماز کا پابند بنایا اور ان میں اللہ کی راہ میں وقت اور مال خرچ کرنے کا حوصلہ پیدا کیا۔

تبلیغی جماعت کے بانی حضرت مولانا محمد الیاس کاندھلوی ہیں جو کاندھلہ ضلع مظفر نگر کے اس خانوادہ علم و فضل سے تعلق رکھتے ہیں جس میں ایک سے ایک ماہتاب اور آفتاب پیدا ہوئے۔ حضرت مولانا یحییٰ کاندھلوی، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا کاندھلوی، حضرت مولانا محمد یوسف کاندھلوی، حضرت مولانا ادریس کاندھلوی وغیرہ اکابر علمائے دیوبند بھی اسی خاک سے پیدا ہوئے۔ حضرت مولانا الیاس کاندھلوی نے مظاہر علوم سہارن پور اور دیوبند میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی سے علوم ظاہری کی تکمیل کی۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور حضرت مولانا خلیل احمد سہارن پوری سے سلوک کے مراحل طے کیے۔ بیسویں صدی کے دوسرے عشرہ میں آپ نے بہت سی نظام الدین دہلی میں مستقل قیام پذیر ہو کر میوات کے میوقوم میں تبلیغی سرگرمیاں شروع کیں۔ شب و روز محنت کر کے میوات میں آپ نے مکاتب قائم کیے اور گشت کے ذریعہ عمومی دعوت و تبلیغ کا منصوبہ بنایا جو آہستہ آہستہ

نہایت کامیابی سے پھیلنے لگا۔

۱۹۲۶ء میں آپ نے میوات کے باشندوں کی جماعتیں بنا کر تبلیغ کے کام میں لگایا۔ ۱۹۳۷ء میں میواتی مبلغین کو میوات سے باہر مختلف قریبی شہروں اور صوبوں میں بھیجا۔ حضرت مولانا محمد الیاس کاندھلویؒ کے اس کام نے اہل علم کو اپنی طرف متوجہ کرنا شروع کیا۔ چنانچہ مظاہر علوم سہارن پور، دارالعلوم دیوبند اور ندوۃ العلماء لکھنؤ کے علماء و اساتذہ نے مولانا کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی خدمات پیش کیں اور آپ سے ہدایات لے کر اپنے اپنے مقام پر تبلیغ کا کام شروع کیا۔ تبلیغ کی تحریک میں علماء ابتدا سے شریک رہے اور اکابر علماء جیسے حضرت مولانا خلیل احمد سہارن پوریؒ، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلویؒ اور حضرت مولانا حسین احمد مدنیؒ، حضرت مولانا عبدالقادر رائپوریؒ وغیرہم تبلیغی جلسوں میں شریک ہوتے تھے۔ حضرت مولانا محمد منظور نعمانیؒ اور حضرت مولانا ابوالحسن علی ندویؒ نے اس تحریک میں بہت سرگرم حصہ لیا اور زبان و قلم سے اس تحریک کو ترقی دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا الیاس کاندھلویؒ کے خلوص کی برکت سے اس تحریک کو ایسی کامیابی عطا فرمائی کہ تبلیغی جماعتیں مختلف علاقوں اور شہروں میں بھیجی جانے لگیں اور پھر پورے برصغیر میں اصلاح و تبلیغ کا کام بڑی باقاعدگی سے ہونے لگا۔ جماعت تبلیغ کو مرکز اور ملک کے طول و عرض میں علماء سے تعاون ملا اور ان کی کاوشوں سے یہ کام پھیلتا چلا گیا۔

۱۹۴۴ء میں حضرت مولانا الیاس کاندھلویؒ کے حادثہ وفات کے بعد جماعت تبلیغ کا دوسرا دور حضرت مولانا محمد یوسف کاندھلویؒ کی قیادت میں شروع ہوا۔ تقسیم ہند کے بعد پاکستان اور پھر بنگلہ دیش میں تبلیغی تحریک کا تسلسل قائم ہوا۔ پھر بلاد عربیہ، افغانستان، ترکی، انڈونیشیا، ملائیا، برما، سری لنکا وغیرہ میں تبلیغی نظام کو پھیلا یا گیا۔ بعد میں یہ سلسلہ دراز ہوتا ہوا یورپ، امریکہ، افریقہ، آسٹریلیا اور ایشیا کے دور دراز ملکوں میں بھی پہنچ گیا۔

تبلیغی جماعت کے کارناموں کی داستان بڑی ایمان افروز ہے۔ یہ تحریک بڑے خلوص و للہیت اور سوز و گداز کے ساتھ شروع ہوئی جو اس کی مقبولیت کی واضح دلیل ہے۔ بلاشبہ جماعت تبلیغ عصر حاضر کی عظیم الشان دینی و تبلیغی تحریک ہے جس نے قرون اولیٰ کے بعد پوری اسلامی تاریخ میں اتنے بڑے پیمانے پر دین کی نشر و اشاعت اور تبلیغ کا اس طرز پر نظم کیا کہ چلتے پھرتے مدرسے پوری دنیا کی ہر ہر مسجد میں قائم ہو گئے۔ تبلیغی جماعت نے پوری دنیا میں اسلامی انقلاب پیدا کیا اور مسلمانوں کو مذہب سے جوڑنے میں اہم کردار ادا کیا۔

علمائے دیوبند کی قرآنی خدمات

علمائے دیوبند نے درس و تدریس، وعظ و نصیحت اور دوسرے مشاغل کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف کے میدان میں جو عظیم الشان کارنامے انجام دیئے ہیں وہ نہ صرف برصغیر کے مسلمانوں کے لیے بلکہ دنیائے اسلام کے لیے بھی ایک قابل فخر سرمایہ ہے۔ علوم دینیہ سے متعلق کوئی علم و فن ایسا نہیں ہے جس میں ان کی تصنیفات و تالیفات موجود نہ ہوں، ان میں بڑی بڑی ضخیم کتابیں بھی ہیں اور چھوٹے چھوٹے رسالے اور کتابچے بھی ہیں، یہ کتابیں زیادہ تر تو اردو اور عربی و فارسی زبانوں میں ہیں مگر ان کے علاوہ دیگر علاقائی اور بین الاقوامی زبانوں میں بھی ان کی کتابیں ہیں۔ تصنیف و تالیف کے میدان میں فضلاء دارالعلوم نے جو قابل قدر خدمات انجام دی ہیں وہ برصغیر کی تاریخ میں اپنی مثال آپ ہیں۔

قرآن کریم اسلام کی بنیاد اور شریعت کی اساس ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ سب سے زیادہ لائق توجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علمائے دیوبند نے قرآن کریم و علوم القرآن پر ایک عظیم الشان ذخیرہ چھوڑا ہے۔ یہ وراثت انھیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کے خانوادہ سے حاصل ہوئی۔ حضرت شاہ صاحب نے بدلتے ہوئے سیاسی و سماجی اور ملکی و عالمی حالات کے پیش نظر ضروری محسوس کیا کہ قرآن کریم کا متداول زبانوں میں ترجمہ کیا جائے اور اس کے علوم و معارف کو امت کے سامنے پیش کیا جائے، چنانچہ انھوں نے خود قرآن کریم کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا جو اس وقت کے ہندوستان کی علمی زبان تھی۔ دوسری طرف آپ نے اصول تفسیر میں الفوز الکبیر جیسی محققانہ کتاب تصنیف فرمائی۔ آپ کے بعد آپ کے فرزندوں میں حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی نے فارسی زبان میں تفسیر عزیزی تالیف فرمائی۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے دیگر دو صاحب زادوں حضرت مولانا عبدالقادر صاحب اور شاہ رفیع الدین صاحب نے اس زمانے کی عوامی زبان اردو میں قرآن کریم کا بالترتیب با محاورہ اور تحت اللفظ ترجمہ کیا جو بعد کے اردو زبان کے تمام ترجموں کی بنیاد بنا۔

علمائے دیوبند نے بھی اس وراثت کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن اور قرآنی علوم پر جو پیش بہا مواد اکٹھا کیا اس کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ اس کے مقابلہ میں برصغیر کی کوئی جماعت ان کی خدمات کے عشر عشر کو بھی نہیں پہنچ سکتی۔ پروفیسر ڈاکٹر صلاح الدین یوسف (پاکستان) کی تحقیق کے مطابق ۱۹۹۰ء تک تقریباً تین سو علمائے دیوبند نے قرآن کریم کو اپنا موضوع بنایا اور ۲۱ زبانوں میں قرآن کی خدمات انجام دیں۔ مختلف زبانوں میں قرآن کریم کے ۸۴ تراجم کیے گئے ہیں اور تقریباً دو سو مکمل اور نامکمل مطبوعہ تفسیریں لکھی گئی ہیں۔ علوم القرآن کے حوالہ سے علمائے دیوبند نے ۳۳ موضوعات پر کتابیں لکھی ہیں جس میں ۲۰ احکام القرآن پر، ۳۳ اصول تفسیر و تراجم پر، ۶ اعجاز القرآن پر، ۱۰

فصاحت و بلاغت پر، ۱۵ تاریخ قرآن پر، ۳ راض القرآن پر، ۴۴ قصص القرآن پر، ۲۹ لغات القرآن پر، ۸ فضائل قرآن پر، ۱۵ تاریخ تجوید پر، ۱۲۰ تجوید و قرأت پر، ۱۵ اسباب نزول قرآن پر، ۴ قرآنی ادعیہ پر، ۷ اسمائے حسنیٰ پر، ۱۹ گمراہ فرقوں کی تفسیری آراء کے رد میں، ۵ قرآنی انڈیکس پر، ۵ فلسفہ قرآن پر اور تقریباً سو کتابیں متفرق قرآنی موضوعات پر لکھی گئی ہیں۔ (پندرہ روزہ نجات پشاور، ڈیڑھ سو سالہ خدمات دارالعلوم دیوبند کا نفرنس نمبر، ص ۴۳۸) ۱۹۹۰ء کے بعد علمائے دیوبند کی جو تصنیفات وجود میں آئی ہیں وہ ان کے علاوہ ہیں۔

ترجمہ قرآن، تفسیر اور علوم قرآنی پر علمائے دیوبند کی تصنیفات

علمائے دیوبند کی تمام قرآنی خدمات کا احاطہ تو نہیں کیا جاسکتا، تاہم ذیل کے صفحات میں کچھ اہم تراجم قرآن (اردو اور دیگر زبانوں کے)، نیز تفسیر، علوم القرآن اور متعلقات قرآن سے متعلق مشہور کتابوں کی فہرست پیش خدمت ہے:

تراجم قرآن:

- (۱) ترجمہ قرآن مجید، حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ
- (۲) ترجمہ و تفسیر، حضرت مولانا عاشق الہی میرٹھیؒ
- (۳) ترجمہ قرآن مجید، حضرت مولانا محمود حسن دیوبندیؒ
- (۴) ترجمہ قرآن، سبحان الہند مولانا احمد سعید دہلویؒ
- (۵) توضیح القرآن، مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب
- (۶) ترجمہ قرآن مجید (کشمیری)، مولانا محمد یوسف شاہ کشمیریؒ
- (۷) ترجمہ قرآن مجید (کشمیری)، مولانا میرک شاہ اندرابی کشمیریؒ
- (۸) ترجمہ و تفسیر شیخ الہند (ہندی)، مولانا سید ارشد مدنی صاحب و جناب محمد سلیمان صاحب
- (۹) ترجمہ شیخ الہند (گجراتی)، مولانا غلام محمد صادق راندیری
- (۱۰) ترجمہ شیخ الہند (فارسی) باہتمام حکومت افغانستان شائع شدہ ۱۹۴۰ء
- (۱۱) ترجمہ شیخ الہند و تفسیر عثمانی (پشتو)
- (۱۲) ترجمہ قرآن بنگالی، مولانا محمد طاہر صاحبؒ
- (۱۳) ملخص معارف القرآن بنگالی (حضرت مفتی محمد شفیع صاحب) ترجمہ: مولانا محی الدین خان
- (۱۴) ترجمہ قرآن آسامی، مولانا شیخ عبدالحق آسامیؒ
- (۱۵) ترجمہ و تفسیر قرآن تیلگو، مولانا عبد الغفور کرنولی فاضل دیوبند

- (۱۶) ترجمہ قرآن کنز (حضرت تھانویؒ)، دارالاشاعت بنگلور ۱۹۶۶ء
 (۱۷) انگلش ٹرانسلیشن آف دی قرآن، مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب
 (۱۸) انوار القرآن (پشتو زبان)، مولانا سید انوار الحق صاحب کاخیل
 (۱۹) ترجمہ قرآن (گوجری کشمیری زبان)، مولانا فیض الوحید صاحب

تفاسیر قرآن:

- (۱) تفسیر بیان القرآن، حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ
 (۲) تفسیر عثمانی (موضح الفرقان حاشیہ ترجمہ شیخ الہند)، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی دیوبندیؒ
 (۳) تفسیر معارف القرآن، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحبؒ
 (۴) تفسیر معارف القرآن، حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ
 (۵) شرح تفسیر بیضاوی، حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ
 (۶) تفسیر ثنائی (اردو)، مولانا ثناء اللہ امرتسریؒ
 (۷) تفسیر احمدی، مولانا احمد علی لاہوریؒ
 (۸) ہدایت القرآن (۹ پارے)، مولانا محمد عثمان کاشف الہاشمی
 (۹) ہدایت القرآن تکملہ، مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری
 (۱۰) درس قرآن، مفتی ظفیر الدین صاحب مفتاحی
 (۱۱) تفسیر القرآن، مولانا شائق احمد عثمانی
 (۱۲) بیان القرآن (اول، دوم)، مولانا احمد حسن صاحب
 (۱۳) احسن التفاسیر، مولانا سید حسن دہلوی
 (۱۴) تفسیر کلام الرحمن، مولانا غلام محمد صاحب
 (۱۵) تفسیر القرآن بکلام الرحمن (عربی)، مولانا ثناء اللہ امرتسری
 (۱۶) تفسیر درس قرآن، مولانا عبدالحی فاروقی
 (۱۷) تقریر القرآن، مولانا محمد طاہر صاحب دیوبندی
 (۱۸) تفسیر حبیبی، مولانا حبیب الرحمن صاحب مروانی
 (۱۹) مفتاح القرآن، مولانا شبیر ازہر میرٹھی
 (۲۰) تفسیر قرآن، مولانا سرفراز خان صفدر صاحب
 (۲۱) موضح فرقان، مولانا اخلاق حسین قاسمی دہلوی

- (۲۱) تفسیر تقریر القرآن، مولانا عزیز الرحمن صاحب بجنوری
- (۲۲) تفسیر تعلیم القرآن، مولانا قاضی زاہد الحسنی صاحب
- (۲۳) معالم العرفان فی دروس القرآن، مولانا صوفی عبدالحمید سواتی
- (۲۴) جواہر التفاسیر، مولانا عبدالکیم لکھنوی
- (۲۵) درس قرآن، قاری اخلاق احمد صاحب دیوبندی
- (۲۶) تفسیر بیان السجان، مولانا عبدالدائم الجلالی
- (۲۷) انوار القرآن، مولانا محمد نعیم صاحب دیوبندی
- (۲۸) حاشیہ تفسیر بیضاوی (عربی)، حضرت مولانا عبدالرحمن امرہوی
- (۲۹) ترجمہ تفسیر جلالین، حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب
- (۳۰) حاشیہ تفسیر جلالین، مولانا حبیب الرحمن دیوبندی
- (۳۱) حاشیہ جلالین عربی، مولانا احتشام الحق کاندھلوی
- (۳۲) ترجمہ تفسیر ابن عباس، مولانا عبدالرحمن کاندھلوی
- (۳۳) ترجمہ تفسیر مدارک، مولانا سید انظر شاہ مسعودی کشمیری
- (۳۴) ترجمہ ابن کثیر، مولانا انظر شاہ مسعودی کشمیری
- (۳۵) معالم التنزیل، مولانا محمد علی صدیقی کاندھلوی
- (۳۶) حواشی قرآن مجید مترجمہ شاہ عبدالقادر، حضرت مولانا احمد لاہوری
- (۳۷) کمالین ترجمہ جلالین، حضرت مولانا محمد نعیم صاحب دیوبندی
- (۳۸) جمالین شرح جلالین، مولانا محمد جمال میرٹھی
- (۳۹) تفسیر الحاوی (تقریر بیضاوی)، مولانا جمیل احمد، مفتی شکیل احمد
- (۴۰) تفسیر سورہ حجرات، علامہ شبیر احمد عثمانی
- (۴۱) تفسیر سورہ بقرہ، مولانا عبدالعزیز صاحب ہزاروی
- (۴۲) الدرر المکنون فی تفسیر سورہ الماعون، پروفیسر حکیم عبدالصمد صارم صاحب
- (۴۳) تفسیر سورہ فاتحہ، یونس، یوسف، کہف، مولانا احمد سعید صاحب دہلوی
- (۴۴) احسن البیان فی ما يتعلق بالقرآن، مولانا اشفاق الرحمن کاندھلوی
- (۴۵) مرآة التفسیر، مولانا اشفاق الرحمن کاندھلوی
- (۴۶) مقدمہ علی تفسیر البیضاوی، مولانا اشفاق الرحمن کاندھلوی

- (۴۷) فیض الکریم تفسیر قرآن عظیم، مولانا صبغت اللہ صاحب
 (۴۸) کشف القرآن، مولانا محمد یعقوب صاحب شرووی
 (۴۹) تفسیر نور القرآن (۷ جلدیں)، مولانا مفتی فضیل الرحمن ہلال عثمانی

متعلقات قرآن:

- (۱) اسرار قرآنی، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی
 (۲) مشکلات القرآن (عربی)، حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری
 (۳) سبق الغایات فی نسق الآیات، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی
 (۴) آداب القرآن، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی
 (۵) بیہمة البیان، مولانا محمد یوسف بنوری
 (۶) علوم القرآن، مفتی تقی عثمانی صاحب
 (۷) علوم القرآن، مولانا عبید اللہ اسعدی قاسمی
 (۸) علوم القرآن، مولانا شمس الحق افغانی صاحب
 (۹) احکام القرآن، مولانا شمس الحق افغانی صاحب
 (۱۰) مفردات القرآن، مولانا شمس الحق افغانی صاحب
 (۱۱) مشکلات القرآن، مولانا شمس الحق افغانی صاحب
 (۱۲) حکمت النون، مولانا محمد طاہر صاحب دیوبندی
 (۱۳) تلاوة القرآن، مولانا وصی اللہ صاحب الہ آبادی
 (۱۴) فیض الرحمن، مولانا یعقوب الرحمن عثمانی
 (۱۵) حل القرآن، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی
 (۱۶) ہدیۃ المہدیین فی آیۃ خاتم النبیین، حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب دیوبندی
 (۱۷) لغات القرآن، مولانا قاضی زاہد الحسنی صاحب
 (۱۸) تذکرۃ المفسرین، مولانا قاضی زاہد الحسنی صاحب
 (۱۹) ضرورۃ القرآن، مولانا قاضی زاہد الحسنی صاحب
 (۲۰) بیان القرآن علی علم البیان، مولانا ثناء اللہ امرتسری
 (۲۱) روح القرآن، علامہ شبیر احمد عثمانی

- (۲۲) اعجاز القرآن، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی دیوبندیؒ
- (۲۳) التحریر فی اصول التفسیر، مولانا محمد مالک کاندھلوی
- (۲۴) منازل العرفان فی علوم القرآن، مولانا محمد مالک کاندھلوی
- (۲۵) العون الکبیر شرح الفوز الکبیر، حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری
- (۲۶) الفوز العظیم شرح اردو الفوز الکبیر، مولانا خورشید انور صاحب فیض آبادی
- (۲۷) الروض النضیر شرح اردو الفوز الکبیر، مولانا حنیف گنگوہی
- (۲۸) الخیر الکثیر شرح اردو الفوز الکبیر، مفتی امین صاحب پالن پوری
- (۲۹) السراج المنیر ترجمہ تفسیر کبیر اول، مولانا شیخ عبدالرحمن صاحب
- (۳۰) التتقید السدیدی علی التفسیر الحدید، ابوالہماثر مولانا حبیب الرحمن اعظمیؒ
- (۳۱) تدوین قرآن، حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی
- (۳۲) تاریخ تدوین القرآن، مولانا مصطفیٰ اعظمی
- (۳۳) تاریخ قرآن، مولانا عبدالصمد صارم
- (۳۴) التعوذ فی الاسلام، حضرت مولانا طاہر قاسمی
- (۳۵) دینی دعوت کے قرآنی اصول، حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحبؒ
- (۳۶) فہم قرآن، حضرت مولانا سعید احمد اکبر آبادی
- (۳۷) قصص القرآن، حضرت مولانا حفظ الرحمن سیوہارویؒ
- (۳۸) منجہ الجلیل، حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن عثمانیؒ
- (۳۹) وحی الہی، حضرت مولانا سعید احمد اکبر آبادی
- (۴۰) قرآن پاک آپ سے کہا کہتا ہے؟، حضرت مولانا منظور احمد نعمانی
- (۴۱) ذخیرۃ البچان فی فہم القرآن، مولانا سرفراز خان صفدر صاحب
- (۴۲) تفسیروں میں اسرائیلی روایات، مولانا نظام الدین اسیر ادروی
- (۴۳) لغات القرآن، مولانا عبدالرشید نعمانی
- (۴۴) منتخب لغات القرآن، مولانا نسیم احمد بارہ بنکوی
- (۴۵) جائزہ تراجم قرآنی، مولانا محمد سالم قاسمی وغیرہ
- (۴۶) قرآن اور اس کے حقوق، مفتی حبیب الرحمن خیر آبادی
- (۴۷) قرآن محکم، مولانا عبدالصمد رحمانی

- (۴۸) قرآن پاک اور سائنس، مولانا خلیل احمد صاحب
 (۴۹) قرآن مجید اور انجیل مقدس، مولانا محمد عثمان فارقلیط
 (۵۰) تذکیر بسورۃ الکہف، مولانا مناظر احسن گیلانی
 (۵۱) فوائد القرآن، مولانا میرک شاہ کشمیری
 (۵۲) بدیہیات قرآن، مولانا محمد عارف جمیل مبارک پوری
 وغیرہ

تجوید و قرأت

دارالعلوم دیوبند نے فن تجوید و قرأت کی طرف بھی خصوصی توجہ کی اور ۱۳۲۱ھ/۱۹۰۳ء میں باقاعدہ طور پر ایک مستقل شعبہ تجوید قائم ہوا۔ تدریس کے لیے نظر انتخاب ممتاز ماہر فن حضرت قاری عبد الوحید خان الہ آبادی (م: ۱۳۶۵ھ) پر پڑی۔ آپ استاذ الاساتذہ حضرت قاری عبد الرحمن مکی کے تلمیذ ارشد تھے۔ آپ دارالعلوم دیوبند میں کم و بیش ۲۵ سال تک خدمت قرآن کی مسند پر فائز رہے اور دارالعلوم کے سیکڑوں علماء نے آپ سے استفادہ کیا۔ آپ کے بعد حضرت قاری عبد الرحمن مکی کے دوسرے باکمال اور نامور ترین شاگرد حضرت قاری حفظ الرحمن پرتاپ گدھی دارالعلوم کے شعبہ تجوید کی مسند صدارت پر فائز کیے گئے۔ آپ کے زمانہ میں ملک و بیرون ملک سے فن تجوید و قرأت کے شائق طلبہ جوق در جوق آنے شروع ہوئے اور اس دور میں اس شعبہ کا فیض ملک سے باہر دور دراز تک پہنچ گیا۔ آپ کو اس وقت کے دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث و صدر المدرسین حضرت مولانا حسین احمد مدنی کی سرپرستی اور ان کا خصوصی تعاون حاصل تھا۔ قرآن پاک کی تصحیح طالب علم کے لیے لازم قرار دی گئی اور بغیر مشقی و کتابی تعلیم کے سند نہ دیے جانے کا ضابطہ بنایا گیا۔

دوسری طرف حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے تجوید قرآن پر گراں قدر کتب و رسائل تحریر فرمائے۔ آپ کا رسالہ جمال القرآن آج برصغیر کے تمام اداروں کے نصاب تجوید میں داخل ہے۔ اس آخری دور میں مولانا قاری ابوالحسن صاحب اعظمی نے علم تجوید و قرأت میں مختلف موضوعات پر چھوٹی بڑی درجنوں کتابیں لکھیں اور تجوید و قرأت کے مختلف گوشوں پر تحقیقی مواد اکٹھا کر دیا ہے۔

دارالعلوم نے اس فن میں صرف عظیم الشان رجال کا رہی پیدا نہیں کیے بلکہ اسی کے ساتھ فن کی علمی، تصنیفی اور طباعتی خدمات کا نہایت شاندار سلسلہ قائم کیا۔ آج فن تجوید میں جو چھوٹی بڑی کتابیں اور رسائل و شروح نظر آتی ہیں اور جو کتابیں بیشتر مدارس میں داخل نصاب ہیں، وہ بلا واسطہ یا بالواسطہ دارالعلوم دیوبند ہی کے فیض یافتگان کی کاوشوں کا نتیجہ ہیں۔

فن تجوید و قرأت میں علمائے دیوبند کی کچھ اہم تصانیف حسب ذیل ہیں:

- (۱) جمال القرآن، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی
- (۲) تجوید القرآن (منظوم)، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی
- (۳) حق القرآن (منظوم)، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی
- (۴) تنسیط الطبع فی اجراء السبع، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی
- (۵) وجوه المثانی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی
- (۶) ہدیۃ الوحید، حضرت قاری عبدالوحید خان صاحب الہ آبادی
- (۷) عنایات رحمانی شرح قصیدہ شاطبیہ لامیہ (تین جلدیں)، مولانا قاری فتح محمد صاحب پانی پتی
- (۸) اسہل الموارث شرح رائیہ للشاطبی، مولانا قاری فتح محمد صاحب پانی پتی
- (۹) کاشف العسر شرح ناظمۃ الزھر للشاطبی، مولانا قاری فتح محمد صاحب پانی پتی
- (۱۰) مفتاح الکمال شرح تحفۃ الاطفال للجزری، مولانا قاری فتح محمد صاحب پانی پتی
- (۱۱) تسہیل القواعد، مولانا قاری فتح محمد صاحب پانی پتی
- (۱۲) تنویر شرح التیسیر فی السبع، قاری رحیم بخش صاحب پانی پتی
- (۱۳) الوجوه المفسرہ (اردو ترجمہ)، قاری رحیم بخش صاحب پانی پتی
- (۱۴) تکمیل الاجرنی القراءات العشر، قاری رحیم بخش صاحب پانی پتی
- (۱۵) علم قرأت اور قرأت سبعہ، قاری ابوالحسن صاحب اعظمی
- (۱۶) النھیۃ العنبریۃ شرح المقدمة الجزریۃ، قاری ابوالحسن صاحب اعظمی
- (۱۷) النہجۃ القاسمیۃ شرح متن الشاطبیۃ، قاری ابوالحسن صاحب اعظمی
- (۱۸) النہجۃ الجمیلۃ شرح رائیہ للشاطبی، قاری ابوالحسن صاحب اعظمی
- (۱۹) التبشیر شرح التیسیر، قاری ابوالحسن صاحب اعظمی
- (۲۰) الفوائد الدررۃ ترجمۃ المقدمة الجزریۃ، قاری ابوالحسن صاحب اعظمی
- (۲۱) قواعد التجوید، قاری ابوالحسن صاحب اعظمی
- (۲۲) قراءات عشرہ کا حامل قرآن مجید، قاری ابوالحسن صاحب اعظمی
- (۲۳) تیسیر القراءات فی السبع المتواترات، قاری ابوالحسن صاحب اعظمی
- (۲۴) قرآنی املاء اور رسم الخط، قاری ابوالحسن صاحب اعظمی
- (۲۵) رسم المصحف اور اس کے مصادر، قاری ابوالحسن صاحب اعظمی
- (۲۶) کاتبین وحی، قاری ابوالحسن صاحب اعظمی
- (۲۷) دربار رسالت کے نو قراء، قاری ابوالحسن صاحب اعظمی

- (۲۸) نعم الورد فی احکام المدوۃ، قاری ابوالحسن صاحب اعظمی
- (۲۹) حسن الاقتداء فی الوقف والابتداء، قاری ابوالحسن صاحب اعظمی
- (۳۰) تحصیل الاجرنی القراءات العشر، قاری ابوالحسن صاحب اعظمی
- (۳۱) حسن المحاضرات فی رجال القراءات، قاری ابوالحسن صاحب اعظمی
- (۳۲) مشکلات القراءات، قاری ابوالحسن صاحب اعظمی
- (۳۳) اصول التجوید، قاری جمشید علی صاحب
- (۳۴) اصول القراءات، قاری جمشید علی صاحب
- (۳۵) اللؤلؤ المکنون فی روایۃ قالون، قاری عبدالرؤف بلند شہری
- (۳۶) معین الطلبة فی اجراء قرأت السبعۃ، قاری عبدالرؤف بلند شہری
- (۳۷) دارالعلوم دیوبند اور خدمات تجوید و قرأت، قاری ابوالحسن صاحب اعظمی
- وغیرہ

علمائے دیوبند اور خدمت حدیث

ہندوستان میں اسلام کی آمد گو پہلی صدی ہجری (ساتویں صدی عیسوی) سے شروع ہو چکی تھی اور صحابہ و تابعین کی ایک تعداد سندھ اور قریبی علاقوں میں پہنچ چکی تھی، لیکن ہندوستان کے شمالی اور وسطی علاقوں میں اسلام اور مسلمانوں کی آمد کا سلسلہ گیارہویں صدی عیسوی میں محمود غزنوی کے دور میں شروع ہوا اور پھر ۱۲۰۶ء میں غوریوں کے ذریعہ ہندوستان میں پہلی مسلم سلطنت کے قیام کے بعد ہی سے ہندوستان میں علماء و صلحاء کی کثرت سے آمد شروع ہوئی۔ دہلی سلطنت (۱۲۰۶-۱۵۲۶ء) کے ابتدائی زمانے میں وسط ایشیا اور بغداد و عراق میں تاتاریوں کی خونیں یورشوں کی وجہ سے ہجرت کرنے والے علماء و فقہاء کی ایک بڑی تعداد کو ہندوستان نے اپنے دامن میں جگہ دی۔

ہندوستان کی ابتدائی تاریخ میں علم فقہ اور پھر منطق و فلسفہ کو منہجائے کمال سمجھا جاتا تھا اور ان فنون کے ماہرین یہاں پیدا ہوئے۔ فن حدیث کی طرف خال خال ہی لوگوں نے توجہ دی۔ تاہم ہندوستان کے علماء متقدمین نے فن حدیث میں کئی اہم کارنامے انجام دیے جو پوری علمی دنیا میں سراہے گئے؛ جیسے شیخ حسن بن محمد الصغانی (۱۱۸۱-۱۲۵۲ء) کی مشارق الانوار، شیخ علاء الدین علی متقی ہندی (۱۲۸۰-۱۵۶۷ء) کی کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال، شیخ محمد بن طاہر پٹنی (۱۵۰۳-۱۵۷۸ء) کی مجمع البحار اور المغنی فی اسماء الرجال وغیرہ۔ مغلیہ دور حکومت میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی (۱۵۵۲-۱۶۳۲ء) نے علم حدیث کی اشاعت میں گراں قدر خدمات انجام دیں اور ارفیۃ الممعات و لمعات التتقیح وغیرہ قیمتی کتابیں تالیف فرمائیں۔

ہندوستان میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (۱۷۰۳-۱۷۶۲ء) نے علم حدیث کو نیا موڑ دیا۔ شاہ صاحب کی اولاد و تلامذہ کے ذریعہ یہ سلسلہ پورے ہندوستان میں پھیل گیا۔ شاہ صاحب کے زمانے تک علم حدیث میں مشارق الانوار اور مشکاۃ المصابیح نہائی کتابیں تھیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور ان کے صاحبزادے شیخ نورالحق نے اس سلسلہ کو مزید وسعت دینے کی کوشش کی تھی، لیکن ہندوستان میں علم حدیث کی اشاعت کا شرف خانوادہ ولی اللہی کو حاصل ہونا مقدر ہو چکا تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حرمین شریفین جا کر علم حدیث کی تکمیل کی اور واپس آ کر دہلی میں صحاح ستہ کی تعلیم کا آغاز کیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ اور ان کے اخلاف نے صحاح ستہ کی درس و تدریس کو اپنی سعی و کوشش سے جز و نصاب بنا دیا۔

مغلیہ حکومت کے سقوط کے بعد دارالعلوم دیوبند کی شکل میں انتہائی نامساعد حالات میں ہندوستان کے اندر اسلام کی حفاظت و اشاعت کا مرکز قائم کیا گیا۔ دارالعلوم دیوبند نے جہاں ان نازک حالات میں اسلام اور مسلم

تہذیب کی حفاظت و بقا کا سامان پیدا کیا، وہیں دینی علوم خصوصاً علم حدیث کی اشاعت میں زبردست کردار ادا کیا۔ علمائے دیوبند کی عظیم الشان خدمت حدیث ہندوستان کی علمی و تحقیقی تاریخ کا نہایت روشن باب ہے جس کا دیگر ملکوں کے علماء و محققین نے کھلے دل سے اعتراف کیا ہے۔ عالم اسلام کے سیاسی و علمی زوال کے دور میں دارالعلوم نے تفسیر و فقہ کے ساتھ علم حدیث کی بھی گراں قدر خدمات انجام دیں۔ حدیث کی تدریسی و تصنیفی ہر میدان کی خدمت میں دارالعلوم کے نمایاں کارناموں سے تاریخ کے اوراق بھرے ہوئے ہیں اور یہ صرف دعویٰ ہی نہیں ہے بلکہ ان خدمات سے متاثر ہو کر دنیائے اسلام کے بھر عالم، نامور اہل قلم، مشہور علمی رسالہ ”المنار“ مصر کے ایڈیٹر علامہ سید رشید رضا لکھتے ہیں:

”ہمارے بھائی ہندوستانی علماء کی توجہ اس زمانہ میں علم الحدیث کی طرف متوجہ نہ ہوتی تو مشرقی

ممالک سے یہ علم ختم ہو چکا ہوتا کیونکہ مصر، شام، عراق اور حجاز میں دسویں صدی ہجری سے چودھویں

صدی کے اوائل تک یہ علم ضعف کی آخری منزل پر پہنچ گیا تھا۔“ (مقدمہ مفتاح کنوز السنۃ)

شیخ یوسف سید ہاشم الرفاعی وزیر حکومت کویت نے دارالعلوم میں ایک جلسہ عام میں تقریر کرتے ہوئے

یہاں تک کہہ دیا کہ

”اسلام پر اعتراضات کے دفعیہ کے لیے ہم جلیل القدر علماء کے محتاج ہیں، حافظ ذہبی اور حافظ

ابن حجر کے معیار کے علماء کی ضرورت ہے اور ہمیں فخر ہے کہ اس درجہ کے علماء اس دارالعلوم میں

موجود ہیں۔“ (تاریخ دارالعلوم ص: ۱۶، ج: ۱ ص: ۲۱۶)

عالم اسلام کے ممتاز محدثین اور محقق علماء دارالعلوم کی خدمات حدیث کے نہ صرف معترف بلکہ مداح ہیں۔ شیخ

زاہد الکوشری، شیخ عبدالفتاح ابو غدہ، شیخ عوامہ کو ان میں سے بطور مثال پیش کیا جاسکتا ہے۔

علمائے دیوبند نے علم حدیث کی ہر پہلو اور ہر ہر گوشے سے خدمت کی ہے اور حدیث کا کوئی میدان ان کی

علمی کاوشوں سے خالی نہیں ہے، لیکن درس حدیث خصوصی طور پر ان کے فکر و تدبر اور غور و تحقیق کی جولان گاہ رہا ہے

جس میں ڈیڑھ سو سال سے یہ حضرات مسلسل اپنی تحقیقات کے نادر موتی بکھیرتے رہے ہیں۔

علمائے دیوبند نے حدیث کی تدریس میں پرانے انداز پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ برصغیر میں درس حدیث کا ایسا

منفرد طرز اختیار کیا جو متقدمین کی درسی خصوصیات کا حامل ہونے کے ساتھ دلائل ائمہ اور حالات کے مطابق

مذہب حنفی کے اثبات و ترجیح پر بھی مشتمل ہوتا ہے۔ نیز، وہ ان تمام مسائل پر سیر حاصل بحث کرتے ہیں جو دور

حاضر میں اسلام کے لیے بظاہر ایک چیلنج کی صورت اختیار کر گئے ہیں۔ خدمت حدیث کا یہ درسی انداز اکابرین

دیوبند کی فکری پرواز کا نتیجہ ہے، ورنہ اس سے پہلے ہندوستان کے تمام ہی محدثین حدیث کے ترجمہ اور مذاہب

ائمہ کے بیان پر اکتفا کرتے تھے، ان کے دلائل کا تذکرہ اور اس میں موازنہ کا بالکل رواج نہ تھا۔ حضرت مولانا

محمد قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور دیگر حضرات اکابر کا حدیث کی تفسیح و تشریح کا درسی سلسلہ اتنا

مقبول ہوا کہ ہندوستان، برما، افغانستان، بلشیا، بخارا، ترکستان اور انڈونیشیا کے پروانہ حدیث کھنچ کھنچ کر یہاں آنے لگے اور آج حدیث کی کوئی معروف درس گاہ اس کے فیض یافتگان سے خالی نظر نہیں آتی۔

دارالعلوم دیوبند اور اس کے طرز پر قائم مدارس اسلامیہ کے ذریعہ برصغیر میں ایسے باصلاحیت محدثین پیدا ہوئے جنہوں نے زندگی کا وافر حصہ کتب حدیث خاص کر صحیح بخاری و صحیح مسلم کو پڑھنے پڑھانے یا اس کی شرح لکھنے میں صرف کیا۔ ان محدثین میں سے چند نمایاں نام حسب ذیل ہیں: حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، مولانا غلام رسول ہزاروی، مولانا خلیل احمد سہارن پوری، مولانا محمد یحییٰ کاندھلوی، مولانا فخر الحسن گنگوہی، مولانا احمد حسن امردہوی، مولانا محمد انور شاہ کشمیری، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا اصغر حسین دیوبندی، علامہ ابراہیم بلیاوی، مولانا جلیل احمد علوی، مولانا ظہور احمد دیوبندی، مولانا فخر الدین احمد مراد آبادی، مولانا ظفر احمد عثمانی تھانوی، مولانا احمد رضا بجنوری، مولانا بدر عالم میرٹھی، مولانا محمد یوسف بنوری، مولانا حمید الدین فیض آبادی، مولانا محمد ادریس کاندھلوی، مولانا محمد یوسف کاندھلوی، مولانا محمد زکریا کاندھلوی، مولانا حبیب الرحمن اعظمی، مولانا محمد اسماعیل سنہلی، مولانا عبدالجبار اعظمی، مولانا اسلام الحق اعظمی، مولانا بشیر احمد بلند شہری، مولانا انظر شاہ کشمیری، مولانا محمد میاں دیوبندی، مولانا شریف حسن دیوبندی، مولانا عبدالحق اکوڑوی، مولانا عبدالاحد دیوبندی، مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی، مولانا نصیر احمد خان بلند شہری، مولانا عثمان غنی، مولانا خورشید عالم دیوبندی، مولانا محمد نعیم دیوبندی، مولانا محمد سالم قاسمی، مولانا زین العابدین اعظمی، مولانا سعید احمد پالن پوری، مولانا نعمت اللہ اعظمی، مولانا ارشد مدنی، مولانا عبدالحق اعظمی، مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی، مولانا قمر الدین گورکھپوری، مولانا ریاست علی بجنوری، مولانا حبیب الرحمن قاسمی اعظمی، مولانا سرفراز خان صفدر، مولانا سلیم اللہ خان کراچوی، مولانا مصطفیٰ اعظمی، مولانا ابوللیث اعظمی وغیرہ۔

علمائے دیوبند نے درس حدیث کے مبارک شغل کو پورے برصغیر کے گوشے گوشے اور دنیا کے دوسرے حصوں تک پہنچا دیا۔ علمائے دیوبند کے درس حدیث کی خصوصیات کی بناء پر دنیا بھر سے طالبان علوم حدیث کا ٹھاٹھیں مارتا سمندر امنڈ پڑا اور ڈیڑھ سو سالوں سے اب تک یہ سلسلہ پیہم جاری ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے اپنے یوم قیام سے اب تک ہزار ہا ہزار حدیث کے رجال کار دنیا میں پھیلا دیے ہیں۔

علاوہ ازیں، یہ دارالعلوم ہی کا طغرائے امتیاز ہے کہ اس نے حدیث کی خدمت کے لیے شروع ہی سے سب سے بلند وبالا اور پر شکوہ عمارت دارالحدیث کے نام سے تعمیر کی جو شاید اسلامی تاریخ میں اپنی نوعیت کی ایک منفرد کوشش تھی اور علم حدیث کے تیس علمائے دیوبند کی عظمت کی غماز اور اس سلسلہ میں ان کی عظیم الشان خدمات کا ایک نقش جمیل ہے۔

یہ تو علمائے دیوبند کی صرف درسی خدمات کا ایک جائزہ تھا، اس سے آگے بڑھ کر جب ہم تصنیفی دنیا میں نظر دوڑاتے ہیں تو یہاں بھی علم حدیث کا کوئی گوشہ ایسا نظر نہیں آتا جس پر حضرات علمائے دیوبند کی علمی و تحقیقی کاوشیں

موجود نہ ہوں، خواہ وہ متون حدیث کی شرحیں لکھنے کا موضوع ہو یا احادیث کے ذخیرہ کو تحقیق و تعلیق کے ساتھ شائع کرنے کا، خواہ اصول حدیث کا موضوع ہو یا حدیث کی تاریخ کا۔ ذیل میں حدیث کے عنوان سے ہونے والی تالیفی خدمات کا اجمالاً تذکرہ کیا جا رہا ہے۔

صحیح بخاری اور علمائے دیوبند کی خدمات

(۱) تعلیقات جامعۃ علی صحیح البخاری (عربی): حضرت مولانا احمد علی سہارن پوریؒ نے بخاری کے ۲۵ اجزاء پر تعلیقات کی، باقی پانچ حصوں پر حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ نے تعلیق کی۔

(۲) لامع الدراری علی صحیح البخاری: یہ مجموعہ دراصل حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ کا درس بخاری ہے جو حضرت مولانا محمد یحییٰ کاندھلویؒ نے اردو زبان میں قلم بند کیا تھا جس کا ان کے صاحب زادے شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلویؒ نے عربی زبان میں ترجمہ کیا اور تعلیق و تحقیق کے بعد اس عظیم کتاب کو طبع کیا۔ یہ کتاب عربی زبان میں ہے اور اس کی ۱۰ جلدیں ہیں۔

(۳) فیض الباری علی صحیح البخاری: یہ محدث کبیر حضرت علامہ محمد انور شاہ کشمیریؒ کا درس بخاری ہے جس کو ان کے شاگرد رشید مولانا بدر عالم میرٹھی مہاجر مدنیؒ نے عربی زبان میں مرتب کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ شرح مصر سے شائع ہوئی، اس کے بعد سے دنیا کے بے شمار ملک میں لاکھوں کی تعداد میں شائع ہو چکی ہے، چنانچہ آج عرب و عجم میں اس شرح کو صحیح بخاری کی اہم شروح میں شمار کیا جاتا ہے۔ عرب و عجم میں علامہ محمد انور شاہ کشمیریؒ کا شمار مستند و معتبر محدثین میں کیا جاتا ہے اور مشرق و مغرب کے تمام علمی حلقوں میں ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کیا گیا ہے۔

(۴) الابواب والترجم للبخاری: اس کتاب میں بخاری شریف کے ابواب کی وضاحت کی گئی ہے۔ صحیح بخاری میں احادیث کے مجموعہ کے عنوان پر بحث ایک مستقل علم کی حیثیت رکھتی ہے جسے ترجمۃ الابواب کہتے ہیں۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریاؒ نے اس کتاب میں شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ اور علامہ ابن حجر العسقلانیؒ جیسے علماء کے ذریعہ بخاری کے ابواب کے بارے میں کی گئی وضاحتیں ذکر کرنے کے بعد اپنی تحقیقی رائے پیش کی ہے۔ یہ کتاب عربی زبان میں ہے اور اس کی ۶ جلدیں ہیں۔

(۵) انوار الباری فی شرح صحیح البخاری: حضرت علامہ مولانا محمد انور شاہ کشمیریؒ کا درس بخاری، مرتبہ مولانا

احمد رضا بجنوری

(۶) شرح تراجم البخاری: شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندیؒ

(۷) شرح تراجم البخاری: مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ

(۸) التقریر علی صحیح البخاری: شیخ زکریا کاندھلویؒ، شیخ محمد یونس صاحب

(۹) ارشاد القاری الی صحیح البخاری: مولانا مفتی رشید احمد لدھیانویؒ

- (۱۰) تلخیص البخاری شرح صحیح البخاری: مولانا شمس الضحیٰ مظاہریؒ
- (۱۱) تحفۃ القاری فی حل مشکلات البخاری: مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ
- (۱۲) ترجمۃ صحیح بخاری: مولانا شبیر احمد عثمانیؒ
- (۱۳) فضل الباری شرح صحیح بخاری: مولانا شبیر احمد عثمانیؒ
- (۱۴) تحقیق و تعلیق لامع الدراری علی جامع البخاری: شیخ محمد زکریا کاندھلویؒ
- (۱۵) النبراس الساری فی اطراف البخاری (عربی): مولانا عبدالعزیز گوجرانوالاؒ
- (۱۶) انعام الباری شرح بخاری، مولانا محمد امین چانگامی
- (۱۷) امداد الباری فی شرح البخاری: مولانا عبدالجبار اعظمیؒ، مولانا زین العابدین اعظمیؒ
- (۱۸) جامع الدراری فی شرح البخاری: مولانا عبدالجبار اعظمیؒ
- (۱۹) التصویبات لمافی حواشی البخاری من الصحیفات: مولانا عبدالجبار اعظمیؒ
- (۲۰) الخیر الجاری علی صحیح البخاری: مولانا خیر محمد مظفر گڑھیؒ
- (۲۱) النور الساری علی صحیح البخاری: مولانا خیر محمد مظفر گڑھیؒ
- (۲۲) احسان الباری لفہم البخاری: مولانا محمد سرفراز خان صفدرؒ
- (۲۳) جواہر البخاری علی اطراف البخاری: مولانا قاضی زاہد حسینیؒ
- (۲۴) انعام البخاری فی شرح اشعار البخاری: مولانا عاشق الہی بلند شہری و مہاجر مدنیؒ
- (۲۵) ایضاح البخاری: حضرت مولانا فخر الدین احمد مراد آبادیؒ کا درس بخاری،
مرتب: مولانا ریاست علی بجنوری
- (۲۶) القول الفصیح فی تراجم البخاری، حضرت مولانا سید فخر الدین احمد مراد آبادی
- (۲۷) دروس بخاری: حضرت مولانا حسین احمد مدنیؒ کا درس بخاری، جامع مولانا نعمت اللہ اعظمی
- (۲۸) نصر الباری شرح البخاری (۱۴ جلدیں): مولانا عثمان غنیؒ
- (۲۹) حمد المتعالی علی تراجم صحیح البخاری: مولانا سید بادشاہ گل تلمیذ حضرت مدنیؒ
- (۳۰) فضل البخاری فی فقہ البخاری: مولانا عبدالرؤف ہزارویؒ، تلمیذ علامہ کشمیری
- (۳۱) تسہیل الباری فی حل صحیح البخاری: مولانا قاری صدیق احمد باندویؒ
- (۳۲) کشف الباری فی شرح البخاری: مولانا سلیم اللہ خان صاحب
- (۳۳) شرح البخاری، تجرید البخاری: مولانا محمد حیات سنہلیؒ
- (۳۴) انعام الباری، دروس بخاری شریف: مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا درس بخاری،
مرتب: مولانا مفتی محمد انور حسین صاحب

- (۳۵) تحفۃ القاری: مولانا مفتی محمد سعید احمد پالن پوری کا درس بخاری
 (۳۶) تفہیم البخاری (ترجمہ اردو صحیح بخاری، ۳ جلدیں)، مولانا ظہور الباری قاسمی
 (۳۷) تقریر بخاری، مولانا کفیل احمد علوی

صحیح مسلم اور علمائے دیوبند کی خدمات:

- (۱) موسوعۃ فتح الملہم بشرح صحیح امام مسلم: یہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی کی شرح مسلم ہے جس کو عرب و عجم میں بڑی شہرت حاصل ہوئی ہے۔ شرح کو عربی زبان میں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نے تحریر کیا تھا لیکن مکمل ہونے سے قبل ہی آپ کا انتقال ہو گیا۔
- (۲) تکملۃ فتح الملہم: حضرت مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ نے کتاب الرضاۃ سے اخیر تک ۶ جلدوں میں اس شرح کو عربی زبان میں مکمل کیا اور ابتدائی ۶ جلدوں پر تعلیقات بھی تحریر فرمائیں۔ امت مسلمہ خاص کر عرب علماء میں اس شرح کو خاص مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ لبنان کے متعدد ناشرین اس شرح کے بے شمار نسخے شائع کر چکے ہیں۔
- (۳) الجمل المفہم للصحیح مسلم: یہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کا درس مسلم ہے جو شیخ محمد یحییٰ کاندھلوی نے قلمبند کیا تھا اور شیخ محمد زکریا کاندھلوی نے اپنی تعلیقات کے ساتھ اس کو دو جلدوں میں شائع کرایا۔
- (۴) نعمۃ المنعم فی شرح المجلد الثانی لمسلم: حضرت مولانا نعمت اللہ اعظمی دامت برکاتہم کی تالیف ہے جو کتاب البیوع سے لے کر باب استحب المواساة بفضول الماء تک ہے جس کی ۳۸۳ صفحات پر مشتمل ایک جلد شائع ہو چکی ہے۔

- (۵) صحیح مسلم شریف مترجم عربی اردو: مولانا عابد الرحمن کاندھلوی
 (۶) تفہیم المسلم، مفتی کفیل الرحمن نشاط عثمانی و مفتی فضیل الرحمن ہلال عثمانی
 (۷) القول المفہم فی حل مغلقات الصحیح لمسلم (عربی)، مولانا شوکت علی قاسمی سینٹاڑھی

سنن ترمذی کی خدمات

- (۱) انشعخ الشذی شرح ترمذی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی
 (۲) الورد الشذی علی جامع ترمذی، حضرت مولانا شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی
 (۳) اللوکب الدری، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی
 (۴) معارف السنن شرح جامع ترمذی (عربی)، حضرت مولانا محمد یوسف بنوری
 (۵) معارف مدنیہ تقریر ترمذی حضرت مدنی، حضرت مولانا سید طاہر حسن

- (۶) تقریر ترمذی، شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی
- (۷) العرف الہندی علی جامع الترمذی، حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری
- (۸) شرح ترمذی، حضرت علامہ ابراہیم بلیاوی
- (۹) الطیب الہندی شرح ترمذی، مولانا اشفاق الرحمن صاحب
- (۱۰) درس ترمذی، مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب
- (۱۱) تحفۃ اللمعی شرح ترمذی، مولانا مفتی سعید احمد پالن پوری
- (۱۲) الحدیث الحسن فی جامع الترمذی، شعبۂ تخصص فی الحدیث، دارالعلوم دیوبند
- (۱۳) حسن صحیح فی جامع الترمذی، شعبۂ تخصص فی الحدیث، دارالعلوم دیوبند
- (۱۴) حسن غریب فی جامع الترمذی، شعبۂ تخصص فی الحدیث، دارالعلوم دیوبند
- (۱۵) حدیث غریب فی جامع الترمذی، شعبۂ تخصص فی الحدیث، دارالعلوم دیوبند
- (۱۶) شرح ترمذی (عربی)، مولانا شمس الحق افغانی صاحب
- (۱۷) شرح ترمذی (عربی)، مولانا سید بادشاہ گل صاحب
- (۱۸) معارف الترمذی، مولانا عبدالرحمن کامل پوری صاحب
- (۱۹) خزائن السنن شرح ترمذی، مولانا سرفراز خان صفدر صاحب
- (۲۰) شرح ترمذی، مولانا موسیٰ خان روحانی بازی صاحب
- (۲۱) شرح ترمذی، مولانا عبدالستار اعظمی صاحب

بقیہ کتب ستہ کی خدمات

- (۱) بذل الجہود شرح ابوداؤد (عربی ۵ جلدیں)، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری
- (۲) انوار المحمود حاشیہ سنن ابی داؤد، حضرت مولانا انور شاہ کشمیری
- (۳) التعلیق المحمود حاشیہ ابوداؤد، حضرت مولانا فخر الحسن گنگوہی
- (۴) حاشیہ بذل الجہود شرح ابوداؤد، حضرت مولانا شیخ زکریا صاحب
- (۵) الدر المنصوب شرح ابی داؤد، مولانا محمد عاقل صاحب سہارن پوری
- (۶) شرح ابوداؤد، مولانا عبدالماجد صاحب
- (۷) القول المحمود فی حل معضلات سنن ابی داؤد، مولانا شوکت علی قاسمی سیتا مرھی
- (۸) شیوخ الامام ابوداؤد السجستانی، مولانا حبیب الرحمن قاسمی اعظمی
- (۹) حاشیہ سنن نسائی، مولانا اشفاق الرحمن صاحب

- (۳) حاشیہ سنن ابن ماجہ، حضرت مولانا نور شاہ کشمیری و حضرت مولانا فخر الحسن گنگوہیؒ
 (۱۰) حاشیہ ابن ماجہ، مولانا اشفاق الرحمن صاحب
 (۱۱) رفع الحاجہ ترجمہ ابن ماجہ، مولانا عبد الماجد صاحب
 (۱۱) شرح ابن ماجہ (عربی) مولانا منظور نعمانی صاحب
 (۱۲) مصباح الزجاجة، مولانا اسعد قاسم سنہلی

دیگر کتب حدیث کی خدمات

- (۱) او جز المسالك ۶ جلدیں، حضرت مولانا شیخ زکریا صاحبؒ
 (۲) حاشیہ مؤطا امام مالک، مولانا اشفاق الرحمن صاحب
 (۳) كشف المغطی عن رجال المؤطا، مولانا اشفاق الرحمن صاحب
 (۴) نخب الاوقار شرح شرح معانی الآثار (علامہ بدر الدین العینیؒ)، تحقیق: مولانا ارشد مدنی صاحب
 (۵) تقریب شرح معانی الآثار، مولانا نعمت اللہ اعظمی
 (۶) ایضاح الطحاوی، مفتی شبیر احمد قاسمی
 (۷) درس طحاوی، مولانا جمیل احمد سکروڈوی
 (۸) الکلام الطحاوی علی الطحاوی، مولانا سرفراز خان صفدرؒ
 (۹) مصباح الطحاوی، مولانا اسعد اللہ صاحب سہارن پور
 (۱۰) تراجم الاحبار من رجال معانی الآثار، مولانا سید محمد ایوب سہارن پوری
 (۱۱) حاشیہ طحاوی، مولانا سید محمد ایوب سہارن پوری
 (۱۲) التعلیق الصبیح شرح مشکوٰۃ المصابیح (عربی ۷ جلدیں)، حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ
 (۱۳) مظاہر حق جدید شرح مشکوٰۃ المصابیح، مولانا عبد اللہ جاوید
 (۱۴) معارف المشکوٰۃ شرح مشکوٰۃ المصابیح، حضرت مولانا عبد الرؤف صاحب عالی
 (۱۵) شرح مشکوٰۃ المصابیح، مولانا موسیٰ خان روحانی بازی
 (۱۶) حاشیہ مشکوٰۃ، مولانا نصیر الدین کامل پوری
 (۱۷) تنظیم الاشتات شرح مشکوٰۃ، مولانا ابوالحسن چانگامی
 (۱۸) فلاندا لارہا شرح کتاب الآثار ۳ جلدیں، مولانا مفتی مہدی حسن شاہ جہاں پوریؒ
 (۱۹) شرح شمائل ترمذی، مولانا اشفاق الرحمن صاحب
 (۲۰) خصائل نبوی، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحبؒ

- (۲۱) جمع الفضائل شرح الشمائل، مولانا محمد اسلام قاسمی، متون احادیث کی تعلیق و تحقیق
- (۱) سنن سعید بن منصور (عربی)، مولانا حبیب الرحمن محدث اعظمیؒ
- (۲) حاشیہ آثار السنن (عربی)، حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیریؒ
- (۳) تعلیق و تحقیق مصنف عبدالرزاق (عربی) ۱۱ جلدیں، مولانا حبیب الرحمن محدث اعظمیؒ
- (۴) تعلیق و تحقیق المطالب العالیہ (عربی) ۴ جلدیں، مولانا حبیب الرحمن محدث اعظمیؒ
- (۵) تعلیق و تحقیق کتاب الزہد والرقاق، مولانا حبیب الرحمن محدث اعظمیؒ
- (۶) تعلیق و تحقیق مسند حمیدی (عربی)، مولانا حبیب الرحمن محدث اعظمیؒ
- (۷) تعلیق و تحقیق علی صحیح ابن خزمیہ، ڈاکٹر محمد مصطفیٰ قاسمی اعظمی
- (۸) تحقیق و تعلیق علی کتاب المنعنی فی ضبط الاسماء لروایۃ الانباء، مولانا زین العابدین اعظمی
- (۹) تحقیق و تخریج جمع الفوائد من جامع الاصول و مجمع الزوائد، شعبہ تخصص فی الحدیث، مظاہر علوم سہارن پور
- (۱۰) رسائل (من یعمد قوله فی الجرح والتعديل، اعلام المحدثین، نخب من اسماء رجال الصحاح)،
مولانا زین العابدین اعظمی

مجموعہ احادیث و کتب متعلقہ

- (۱) اعلاء السنن (۸ جلدیں)، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانیؒ
- (۲) معارف الحدیث، حضرت مولانا محمد منظور نعمانیؒ
- (۳) الفیۃ الحدیث، حضرت مولانا محمد منظور نعمانیؒ
- (۴) جامع الآثار، حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ
- (۵) تابع الآثار، حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ
- (۶) منتخب احادیث، حضرت مولانا محمد یوسف کاندھلویؒ
- (۷) مشکوٰۃ الآثار، حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب دیوبندیؒ
- (۸) روض الریاحین ترجمہ بہستان المحدثین، حضرت مولانا عبدالسمیع دیوبندیؒ
- (۹) حفظ الربیعین انتخاب مسلم شریف، حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ
- (۱۰) المسک الزکی، حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ
- (۱۱) اطفاء اللفتن ترجمہ احیاء السنن، حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ
- (۱۲) الادراک والتوصل الی حقیقۃ الاشتراک والتوسل، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ
- (۱۳) منیۃ الحبیب فی شرح الفیۃ الحدیث، مولانا محمد ادریس کاندھلوی

- (۱۴) مستزاد الحقیر علی زاد الفقیر، مولانا بدر عالم میرٹھی
- (۱۵) الباقیات شرح انما الاعمال بالنیات، مولانا دریس کاندھلوی
- (۱۶) تحفۃ الاخوان شرح حدیث شعب الایمان، مولانا دریس کاندھلوی
- (۱۷) جواہر الاصول فی اصول الحدیث، مولانا عبدالرحمن مروانی
- (۱۸) شرح جواہر الاصول، قاضی اطہر مبارکپوری
- (۱۹) دراسات فی الاحادیث النبویہ، ڈاکٹر مصطفیٰ قاسمی اعظمی
- (۲۰) الاتحاف لمدھب الاحناف، علامہ انور شاہ کشمیری
- (۲۱) درر فرائد ترجمہ جمع الفوائد، مولانا عاشق الہی میرٹھی
- (۲۲) مذہب مختار ترجمہ و حواشی معانی الاخیار، مفتی عزیز الرحمن صاحب
- (۲۳) اللالی المکتورۃ، افادات حضرت شیخ الہند، مولانا عبدالحفیظ بلیاوی
- (۲۴) عمدۃ المفہم فی حل مقدمۃ مسلم، مولانا عبدالقادر محمد طاہر صاحب رحیمی
- (۲۵) فضل اللہ الصمد فی توضیح الادب المفرد، حضرت مولانا فضل اللہ جیلانی
- (۲۶) فیض المنعم شرح مقدمۃ مسلم، حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پانپوری
- (۲۷) نعمۃ المنعم شرح مقدمۃ مسلم، حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب اعظمی
- (۲۸) فیض الملہم شرح مقدمۃ مسلم، حضرت مولانا اسلام الحق صاحب کوپانگھی
- (۲۹) نصرۃ المنعم شرح مقدمۃ مسلم، حضرت مولانا عثمان غنی صاحب
- (۳۰) ایضاح المسلم شرح مقدمۃ مسلم، مولانا محمد غانم صاحب دیوبندی
- (۳۱) شرح مقدمۃ شیخ عبدالحق، مولانا حبیب الرحمن قاسمی اعظمی
- (۳۲) معین اللیبیب تعلیق علی الفیۃ الحدیث (عربی)، مولانا توقیر عالم پورنوی
- (۳۳) تحفۃ الاریب شرح الفیۃ الحدیث، مولانا توقیر عالم پورنوی
- (۳۴) انتخاب صحاح ستہ، حضرت مولانا زین العابدین سجاد میرٹھی
- (۳۵) ترجمان السنۃ، حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی
- (۳۶) معارف السنۃ، مولانا احتشام الحسن کاندھلوی
- (۳۷) حدیث رسول کا قرآنی معیار، حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب
- (۳۸) حجیت حدیث، حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب
- (۳۹) حجیت حدیث، حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی
- (۴۰) نصرۃ الحدیث، حضرت مولانا حبیب الرحمن محدث اعظمی

- (۴۱) حجیت حدیث، مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب
(۴۲) تدوین حدیث، حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی
(۴۳) کتب حدیث، حضرت مولانا سید منت اللہ رحمانی
(۴۴) اسباق حدیث، حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی
(۴۵) حدیث کے اصلاحی مضامین، دس جلدیں، مولانا مفتی احمد خان پوری
(۴۶) حدیث اور فہم حدیث، مولانا مفتی عبداللہ معروفی
(۴۷) صحاح ستہ: تعارف و خصوصیات، مولانا محمد اشرف عباس قاسمی
(۴۸) علماء دیوبند و خدماتہم فی الحدیث (عربی)، ڈاکٹر عبدالرحمن البرنی
وغیرہ

علمائے دیوبند کی فقہی خدمات

ہندوستان کی اسلامی تاریخ سے دل چسپی رکھنے والوں کو معلوم ہوگا کہ ابتدائی صدیوں میں جب ہندوستان میں سندھ وغیرہ علاقوں میں مسلمانوں کی قابل ذکر آبادیاں شروع ہوئیں اس وقت سے ہی سے یہاں فقہ حنفی کا رواج ہوا۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی غالب اکثریت ہمیشہ سے مذہب حنفی کی پابند تھی۔ ہندوستان کی تقریباً تمام اہم مسلم حکومتوں نے مذہب حنفی کا اتباع کیا اور فقہ حنفی ہی ہندوستان میں تمام قوانین و ضوابط کی بنیاد بنا رہا۔ سلاطین دہلی (۱۲۰۶-۱۵۲۶ء) اور سلطنت مغلیہ (۱۵۲۶-۱۸۵۷ء) کے عہد میں فقہ کی زبردست خدمات انجام دی گئیں۔ سلطنت دہلی کے عہد میں فقہ اسلامی تعلیمی نصاب کا اہم ترین جزء تھا، بلکہ فقہ کی تعلیم منہجائے کمال سمجھی جاتی تھی۔ اسی زمانے میں فتاویٰ غیاثیہ، فتاویٰ فیروز شاہی اور فتاویٰ قراخانی وغیرہ فقہی مجموعے وجود میں آئے، خاص طور پر فقہ اسلامی کا عظیم الشان انسائیکلو پیڈیا فتاویٰ تاتارخانیہ اسی زمانے کی یادگار اور فخر ہندوستان ہے۔ مغل عہد حکومت میں بھی فقہ حنفی ہی ہندوستانی قانون تھا لیکن نصاب میں علوم عقلیہ کو زیادہ اہمیت دی گئی۔ مغل عہد حکومت میں ہی علماء کی ایک جماعت کے تعاون سے شہنشاہ اورنگ زیب عالم گیر (۱۶۵۸-۱۷۰۷ء) نے فتاویٰ کا ایک مجموعہ تیار کرایا جو اس وقت فتاویٰ ہندیہ یا فتاویٰ عالم گیری کے نام سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اس عہد میں فقہ و فتاویٰ کے موضوعات پر متعدد اہم تصانیف (مثلاً فتاویٰ بابر، فتاویٰ برہنہ، نظام الاحساب، فتاویٰ نقشبندیہ، فتاویٰ السراج المنیر وغیرہ) معرض وجود میں آئیں۔ ہندوستان کے عہد اسلامی میں فقہ اسلامی کے بے شمار محققین، علماء اور اساتذہ پیدا ہوئے۔

سلطنت مغلیہ کے زوال اور اسلامی نظام تعلیم کے بکھر جانے کے بعد جب دارالعلوم دیوبند کو ہندوستان کی علمی و دینی وراثت کو سنبھالنے اور ترقی دینے کی توفیق میسر آئی تو اس نے فقہ اسلامی کو نصاب تعلیم میں کما حقہ جگہ دی اور فقہ و اصول فقہ کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی کیوں کہ فقہ کتاب و سنت کا نچوڑ اور اسلامی نظام حیات اور تہذیب و تمدن کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ علمائے دیوبند نے جس طرح دین کے تمام شعبوں کو اپنے دامن میں سمیٹا اور ہر ایک کی خدمت کا شرف حاصل کیا ہے، اسی طرح شریعت کے بنیادی شعبہ فقہ کی بھی گراں قدر خدمات انجام دی ہیں۔ علمائے دیوبند کی عظیم الشان خدمات کے باعث آج دارالعلوم دیوبند پوری دنیا میں فقہ حنفی کا سب سے بڑا گہوارہ تصور کیا جاتا ہے اور علمائے دیوبند اس کے سب سے بڑے ترجمان، جب کہ فقہ حنفی پر پوری دنیا میں مسلمانوں کی غالب اکثریت کا عمل ہے اور اسلامی ممالک حتیٰ کہ سعودی عرب وغیرہ کی عدالتوں میں فقہ حنفی اساس کی حیثیت رکھتا ہے۔

علمائے دیوبند فقہ میں حنفی مسلک کے پیرو اور ترجمان ہیں۔ ان کا فقہی سرچشمہ امام اعظم ابوحنیفہؒ اور ان کے تلامذہ کا مدون کردہ فقہ و اصول فقہ ہے، لیکن ان کی تصنیفات اور تحریروں میں مسلکی تعصب اور تشدد پسندی کا نشان

تک نہیں ملتا۔ علمائے دیوبند فقہ اسلامی کے چاروں مذاہب کو اہل سنت و جماعت کا ترجمان مانتے ہیں اور سب سے یکساں عقیدت و محبت رکھتے ہیں۔

دارالافتاء

دارالعلوم جس وقت قائم ہوا اس زمانے میں پرانے علماء کی درس گاہیں ویران اور مسندیں خالی ہو چکی تھیں۔ علماء خال خال رہ گئے تھے اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ کوئی مسئلہ بتانے والا مشکل سے ملتا تھا۔ اسی لیے دارالعلوم کے قیام کے ساتھ ہی مسلمانوں نے دینی رہنمائی کے سلسلہ میں دارالعلوم کی طرف نگاہ اٹھائی اور ملک کے اطراف و جوانب سے طلب فتاویٰ کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا۔ اولاً یہ کام اساتذہ کے سپرد رہا، چنانچہ حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتویؒ صدارت تدریس کے ساتھ فتویٰ نویسی کے فرائض بھی انجام دیتے تھے۔ مگر جب طلب فتاویٰ کی تعداد غیر معمولی طور پر بڑھنے لگی تو باضابطہ شعبہ کے قیام کی طرف توجہ مبذول ہوئی اور ۱۳۱۰ھ/۱۸۹۲ء میں دارالافتاء کا باضابطہ قیام عمل میں آیا اور حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب عثمانیؒ اس اہم خدمت کے لیے منتخب ہوئے۔ حضرت ممدوح اپنے زمانے کے یگانہ روزگار عالم اور زبردست فقیہ ہونے کے علاوہ زہد و تقویٰ میں بھی امتیازی حیثیت رکھتے تھے۔ اس وقت سے اب تک اس خدمت پر ایسے حضرات مامور ہوتے رہے جن کو فقہ میں زیادہ سے زیادہ بصیرت حاصل ہوتی تھی۔ دارالافتاء کی گران قدر شخصیات میں حضرت مفتی عزیز الرحمن عثمانیؒ، حضرت مولانا مفتی اعزاز علی امرہویؒ، مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی دیوبندیؒ، مولانا مفتی سہول بھاگل پوریؒ، مفتی سید مہدی حسن شاہ جہاں پوریؒ، مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہیؒ، مولانا مفتی نظام الدین اعظمیؒ، مفتی ظفر الدین صاحب مفتاحی، مولانا مفتی حبیب الرحمن خیر آبادی وغیرہم شامل ہیں۔

دارالافتاء، دارالعلوم کا نہایت اہم شعبہ ہے اور اس سے ملک و بیرون ملک کے علماء و عوام، مختلف مسائل میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ آغاز ہی سے دارالافتاء کی طرف مسلمانان ہند کا بے پناہ رجوع ہوا اور رفتہ رفتہ اسے مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی۔ برصغیر کی حدود سے آگے بڑھ کر پوری دنیا کے مسلمان اپنے اہم مسائل میں دارالافتاء کی طرف رجوع کرنے لگے اور اس کی رائے کو قابل اعتبار سمجھنے لگے۔

دارالافتاء سے جو فتاویٰ طلب کیے جاتے ہیں ان میں روزمرہ کے معمولی مسائل کے علاوہ اہم، پیچیدہ اور غور طلب مسائل، پنچایتوں کے فیصلے، عدالتوں کی اپیلیں اور مختلف الاحکام فتاویٰ کثرت سے ہوتے ہیں۔ دارالافتاء کے فتاویٰ کو ہر جگہ وقعت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ عدالتیں یہاں کے فتاویٰ کو اہمیت دیتی ہیں۔ عوام کے علاوہ علماء بھی اکثر مسائل میں اس کی جانب رجوع کرتے ہیں۔ اس اہمیت و نزاکت کے باوجود دارالافتاء کا کام عام اور خاص مسلمانوں میں ہمیشہ اطمینان اور وقعت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ دارالافتاء، دارالعلوم دیوبند کی فقہی خدمات

کاروشن باب ہے اور دارالافتاء کے باوقار اور مستند فتاویٰ کی وجہ سے پورے برصغیر میں آج فتویٰ کو مسلمانوں کی دینی زندگی میں جو اہم اور بے نظیر مقام حاصل ہے اس کا سہرا دارالافتاء کو جاتا ہے۔

دارالعلوم کے دارالافتاء سے گذشتہ ایک سو بیس سال کے درمیان صادر ہونے والے فتاویٰ کی تعداد آٹھ لاکھ سے متجاوز ہے۔ اس وقت ہر سال تقریباً دس ہزار استفتاءات کے جوابات لکھے جاتے ہیں۔ دارالافتاء میں یہاں سے جاری شدہ فتاویٰ کی نقل سیکڑوں رجسٹروں کی شکل میں محفوظ ہے۔

اب تک صرف پہلے مفتی حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحبؒ کے فتاویٰ کو کتابی شکل میں مرتب کر کے فتاویٰ دارالعلوم کے نام سے شائع کیا گیا ہے۔ شروع کی بارہ جلدیں (تاکتاب الملقطہ) حضرت مفتی ظفر الدین مفتاحیؒ کی مرتب کردہ ہیں، تیرہویں جلد سے اٹھارہویں جلد کی ترتیب کا کام حضرت مولانا مفتی محمد امین پالن پوری نے انجام دیا ہے۔ دارالافتاء سے سابق صدر مفتیان میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحبؒ، حضرت مفتی محمود حسن گنگوہیؒ اور حضرت مفتی نظام الدین اعظمیؒ کے کچھ فتاویٰ الگ سے بھی شائع ہوئے ہیں۔

آن لائن فتویٰ

دارالعلوم نے امت مسلمہ کی ضرورت اور سہولت کا لحاظ کرتے ہوئے ملک میں انٹرنیٹ کی شروعات کے ساتھ ہی آن لائن فتویٰ کا سلسلہ بھی شروع کیا اور بعد میں اس کے لیے اردو اور انگریزی میں فتاویٰ کی سہولت مہیا کرنے والی ڈاٹا بیس ویب سائٹ شروع کی جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی دولسانی فتویٰ سروس ہے۔ ویب سائٹ پر اردو اور انگریزی زبانوں میں اس وقت تقریباً تیس ہزار فتاویٰ آن لائن شائع ہو چکے ہیں اور ہر وقت ویب سائٹ پر موجود رہتے ہیں۔ اس سروس سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دارالعلوم دیوبند سے شرعی امور میں رہنمائی حاصل کرنا آسان تر ہو گیا ہے۔

مدارس اسلامیہ میں قائم دارالافتاء

دارالعلوم ہی کے طرز پر ملک و بیرون ملک کے مدارس اسلامیہ میں دارالافتاء کا سلسلہ قائم ہے جن میں بیشتر مفتیان کرام دارالعلوم دیوبند کے فیض یافتہ اور دارالعلوم کے فقہی طرز و منہاج کے پیروکار ہیں، اس طرح ان اداروں کی خدمات بھی ایک طرح سے دارالعلوم ہی کے فیض کا تسلسل ہے۔ ان اداروں میں مظاہر علوم سہارن پور، مدرسہ قاسمیہ شاہی مراد آباد، المہجد العالی للتدریب فی القضا والافتاء پٹنہ، المعجد العالی الاسلامی حیدرآباد وغیرہ نمایاں ہیں۔

امارت شرعیہ

ماضی میں مسلمانوں کے اجتماعی نظام کی نگرانی مسلم حکومتیں کیا کرتی تھیں اور تمام اجتماعی احکام و قوانین کا اجراء و نفاذ اسلامی حکومتوں کے ذریعہ ہوا کرتا تھا۔ لیکن ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کے زوال کے ساتھ مسلمانوں کے اقتدار کا خاتمہ ہو گیا۔ اسی پس منظر میں مسلمانوں کی شیرازہ بندی اور ان کی دینی و اجتماعی زندگی کو صحیح اسلامی خطوط پر منظم کرنے کے لیے آزادی ہند سے قبل کل ہند سطح پر امارت شرعیہ کے قیام کی تجویز ہوئی جس کے اصل محرک حضرت مولانا ابوالحسن محمد سجاد صاحب اور حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی وغیرہ تھے، لیکن کل ہند سطح پر امارت شرعیہ کا خواب ابتداء شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ تاہم حضرت مولانا ابوالحسن محمد سجاد صاحب نے ۱۹۲۱ء میں امارت شرعیہ بہار و اڑیسہ قائم کی۔

اس وقت سے یہ تنظیم مسلمانوں کو شرعی طور پر منظم کرنے اور ان کو نظام شرعی پر قائم رکھنے میں مسلسل اور کامیاب کوشش کر رہی ہے۔ امارت شرعیہ کی کی نگرانی میں خصوصاً بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ میں اور ملک کے دیگر حصوں میں دارالقضاء قائم ہیں۔ امارت شرعیہ کے پلیٹ فارم سے حضرت مولانا ابوالحسن محمد سجاد، حضرت مولانا منت اللہ رحمانی، حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب، مولانا عبدالصمد رحمانی، مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی اور مولانا سید نظام الدین وغیرہ حضرات نے نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔

۱۹۸۶ء میں جمعیتہ علمائے ہند کی طرف سے کل ہند سطح پر امارت شرعیہ کے قیام کے لیے ایک اجتماع طلب کیا گیا جس میں حضرت مولانا حبیب الرحمن محدث اعظمی کو امیر الہند مقرر کیا گیا۔ حضرت محدث اعظمی کے انتقال کے بعد ۱۹۹۲ء میں حضرت مولانا اسعد مدنی کو امیر الہند ثانی منتخب کیا گیا اور پھر ۲۰۰۶ء میں حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب بجنوری مہتمم دارالعلوم دیوبند کو امیر الہند ثالث منتخب کیا گیا۔ جمعیتہ علماء ہند دہلی میں امارت شرعیہ کے تحت محکمہ شرعیہ، دارالافتاء، بیت المال، رویت ہلال وغیرہ کا نظام قائم ہے۔

ادارۃ المباحث الفقہیہ اور اسلامک فقہ اکیڈمی

اسی طرح ہندوستان میں فقہ اور فتویٰ کے میدان میں عوام الناس کی ضروریات کی تکمیل اور بدلتے زمانہ کے مطابق نئے اور پرانے مسائل میں غور و خوض اور اجتماعی فیصلہ لینے کے لیے مختلف ادارے وجود میں آئے جن کی تشکیل و تعمیر اور ترقی میں بنائے دارالعلوم ہی نے بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ ان اداروں میں ادارۃ المباحث الفقہیہ اور اسلامک فقہ اکیڈمی نہایت اہم اور قابل ذکر ہیں۔

جدید معاملات و مسائل میں علماء و ارباب افتاء کے باہمی مشورہ و اتفاق رائے سے شریعت کا واضح موقف متعین کرنے کے لیے جمعیتہ علمائے ہند کی طرف سے حضرت مولانا مفتی محمد میاں دیوبندی کی سرکردگی میں ۱۹۷۰ء

میں ادارۃ المباحث الفقہیہ کا قیام عمل میں آیا۔ اس ادارہ کے تحت نئے مسائل کے سلسلہ میں اجتماعی غور و خوض کے لیے فقہی اجتماعات منعقد کیے جاتے ہیں جس میں ملک کے مختلف گوشے میں فقہ و فتاویٰ کی خدمات انجام دینے والے علمائے دیوبند شریک ہوتے ہیں۔ ادارہ کی اہم خدمات میں اس کے تحت نظام فضا کا قیام ہے جو کسی نہ کسی شکل میں اب بھی قائم ہے۔

صنعتی اور معاشرتی انقلابات کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مسائل و مشکلات کے اجتماعی حل کی طرف دوسری اہم اور قابل قدر کوشش اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی نے ۱۹۸۹ء میں دہلی میں اس ادارہ کی بنیاد رکھی۔ اس وقت یہ اکیڈمی فقہ اسلامی کے موضوع پر نہایت اہم اور گراں قدر خدمات انجام دے رہی ہے۔ نئے مسائل کے حل میں اکیڈمی کی کوششوں کو نہ صرف ہندوستان بلکہ عالم اسلام میں بڑی مقبولیت اور شہرت حاصل ہوئی۔

اسلامک فقہ اکیڈمی تین میدانوں میں اہم خدمات انجام دے رہی ہے: (۱) فقہی سیمیناروں کا انعقاد (۲) فقہی لٹریچر کی اشاعت (۳) تربیتی ورکشاپ کا قیام۔ اکیڈمی کے سیمیناروں میں بے شمار جدید مسائل پر غور و خوض اور بحث و مباحثہ کے بعد اجتماعی فیصلے لیے گئے اور ان میں ہندوستان کے علاوہ پاکستان، بنگلہ دیش، ایران، سعودی عرب، عراق، مصر، کویت، یمن، برونائی اور برطانیہ کے مفکرین اور علماء کی بھی شرکت ہوتی رہی ہے۔ اکیڈمی نے فقہی لٹریچر کی طباعت و اشاعت کے میدان میں بھی اہم خدمات انجام دی ہیں اور اردو، عربی، انگلش، ہندی وغیرہ زبانوں میں فقہی مواد شائع کیا ہے۔ اس سلسلہ میں اکیڈمی کی ایک اہم خدمت موسوعہ فقہیہ کا اردو ترجمہ ہے جسے وزارت اوقاف کویت نے عالم اسلام کے ممتاز فقہاء کے ذریعہ ۱۹۶۷ء میں ۴۵ جلدوں میں تیار کرایا تھا۔

مجموعہ فتاویٰ

علمائے دیوبند کی ایک بڑی تعداد نے فقہ اسلامی کو اپنی علمی و تحقیقی سرگرمیوں کا مرکز بنایا اور انہوں نے مسلمانوں کی شرعی رہنمائی کا فریضہ انجام دیا۔ فقہ و فتویٰ سے متعلق عظیم خدمات انجام دینے والوں کی ایک بڑی تعداد ہے، البتہ ان میں سے کچھ حضرات کے منتخب فتاویٰ متعدد جلدوں میں شائع ہو کر عام ہو چکے ہیں۔ ان فتاویٰ میں بہت سے مسائل پر اہم اور تفصیلی فتاویٰ بھی ہیں جو مستقل کتاب کا درجہ رکھتے ہیں۔ بہر حال علمائے دیوبند کے کچھ اہم مجموعہائے فتاویٰ حسب ذیل ہیں:

- (۱) فتاویٰ دارالعلوم دیوبند، ۱۸ جلدیں، حضرت مفتی عزیز الرحمن دیوبندیؒ
- (۲) فتاویٰ رشیدیہ مع باقیات فتاویٰ، دو جلدیں، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ
- (۳) امداد الفتاویٰ، چھ جلدیں، حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ
- (۴) عزیز الفتاویٰ، آٹھ اجزاء، حضرت مفتی عزیز الرحمن دیوبندیؒ

- (۵) امداد المفتیین، آٹھ اجزاء، حضرت مفتی محمد شفیع دیوبندیؒ
- (۶) کفایۃ المفتی، نو جلدیں، حضرت مفتی کفایت اللہ دہلویؒ
- (۷) فتاویٰ خلیلیہ، ایک جلد، حضرت مولانا خلیل احمد سہارن پوریؒ
- (۸) فتاویٰ شیخ الاسلام، ایک جلد، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنیؒ
- (۹) فتاویٰ محمودیہ، ۲۵ جلدیں، حضرت مفتی محمود حسن گنگوہیؒ
- (۱۰) احسن الفتاویٰ، آٹھ جلدیں، حضرت مفتی رشید احمد لدھیانویؒ
- (۱۱) خیر الفتاویٰ، پانچ جلدیں، حضرت مولانا خیر محمد جالندھریؒ
- (۱۲) فتاویٰ رحیمیہ، چھ جلدیں، حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم لاچپوریؒ
- (۱۳) فتاویٰ حقانیہ، چھ جلدیں، شیخ الحدیث مولانا عبدالحق اکوڑہ خٹک وغیرہ
- (۱۴) فتاویٰ مفتی محمود، چھ جلدیں، حضرت مولانا مفتی محمود سرحدیؒ
- (۱۵) شمیۃ الفتاویٰ، چار جلدیں، مولانا محمد یعقوب صاحب شروڈیؒ
- (۱۶) آپ کے مسائل اور ان کا حل، نو جلدیں، حضرت مولانا مفتی یوسف لدھیانویؒ
- (۱۷) منتخبات نظام الفتاویٰ، تین جلدیں، حضرت مفتی نظام الدین اعظمیؒ
- (۱۸) کتاب الفتاویٰ، چھ جلدیں، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانیؒ
- (۱۹) فتاویٰ امارت شریعیہ، دو جلدیں، حضرت مولانا ابوالحسن سجاد وغیرہ
- (۲۰) فتاویٰ قاضی، ایک جلد، قاضی مجاہد الاسلام قاسمیؒ
- (۲۱) فتاویٰ احیاء العلوم، ایک جلد، حضرت مولانا مفتی محمد یاسین مبارک پوریؒ
- (۲۲) فتاویٰ عثمانی، تین جلدیں، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانیؒ
- (۲۳) فتاویٰ قاسمیہ، ۲۶ جلدیں، مولانا مفتی شبیر احمد قاسمیؒ
- (۲۴) کتاب المسائل، تین جلدیں، مولانا مفتی محمد سلمان منصور پوریؒ
- (۲۵) کتاب النوازل، ۱۹ جلدیں، مولانا مفتی محمد سلمان منصور پوریؒ
- (۲۶) محمود الفتاویٰ، چار جلدیں، مولانا مفتی احمد خان پوری ڈابھیلؒ
- (۲۷) فتاویٰ بسم اللہ، دو جلدیں، مولانا مفتی اسماعیل بسم اللہ سورتیؒ
- (۲۸) فتاویٰ حبیبیہ، دو جلدیں، مفتی حبیب الرحمن خیر آبادیؒ
- (۲۹) فتاویٰ یوسفیہ، تین جلدیں، مولانا مفتی محمد یوسف تاؤلویؒ
- (۳۰) حبیب الفتاویٰ، ایک جلد، مولانا مفتی حبیب اللہ چیمپارنیؒ

- (۳۱) دین فطرت: آپ کے مسائل اور ان کا حل، ایک جلد، مفتی عزیز الرحمن فتح پوری
 (۳۲) جامع الفتاویٰ، چار جلدیں، مولانا مہربان علی بڑوتوی
 (۳۳) فتاویٰ علمائے ہند، مولانا انیس الرحمن قاسمی

فقہ القرآن وفقہ الحدیث

قرآن مجید کا ایک حصہ فقہی احکام پر مشتمل ہے اور ان میں عبادات، معاشرت، تعزیرات، خصومات، اقتصادیات، دستوری قوانین اور بین الاقوامی قوانین وغیرہ سے متعلق اصول و احکام مذکور ہیں۔ اسی وجہ سے اہل علم نے احکام قرآنی کو اپنی تحریر اور فکر و نظر کا موضوع بنایا ہے۔ اس موضوع پر دیوبند کے حلقہ سے نہایت مہتمم بالشان کام حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کی زیر سرپرستی انجام پایا ہے۔ حضرت تھانویؒ کے حکم سے چار بلند پایہ علماء مولانا ظفر احمد تھانویؒ، مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ، مفتی محمد شفیع دیوبندیؒ، مولانا جمیل احمد تھانویؒ نے قرآن میں فقہ حنفی کے موافقات کو جمع کرنے کا اہتمام کیا، چنانچہ احکام القرآن کے نام سے پانچ ضخیم جلدوں میں یہ کام پایہ تکمیل کو پہنچا جو بلاشبہ قرآن میں موجود فقہی احکام کا ایک موسوعہ اور انسائیکلو پیڈیا ہے۔ اسی طرح علمائے دیوبند کے ذریعہ لکھی جانے والی قرآن کریم کی تفاسیر میں احکام قرآنی کا ایک بڑا ذخیرہ پوری فقہی تفصیلات و دلائل کے ساتھ موجود ہے۔

احکام فقہیہ سے متعلق احادیث کا سب سے بڑا مجموعہ اعلیٰ السنن ہے جو حضرت تھانویؒ ہی کی سرپرستی میں حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی تھانوی کے ذریعہ انجام پایا۔ علامہ زاہد الکوثری، شیخ عبدالفتاح ابو غدہ اور عالم اسلام کے دیگر اہل تحقیق اور اصحاب نظر علماء نے اس کا نامہ کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے۔ احادیث احکام پر ابتدائی ادوار سے لے کر اب تک جو کام ہوا ہے اور اس موضوع پر جو قیمتی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں اعلیٰ السنن ایک اہم ترین کارنامہ کی حیثیت رکھتا ہے۔

علمائے دیوبند نے شروح حدیث کی جو بے نظیر اور نہایت وقیع خدمات انجام دی ہیں ان میں حدیث کے ساتھ احکام فقہیہ کی تحقیق اور مسائل اختلافیہ کی اعتدال کے ساتھ مناقشہ کے نقطہ نظر سے نہایت عظیم الشان کام انجام دیے ہیں۔ علمائے دیوبند کی فقہی بصیرت اور علمی بلندی کا اندازہ لگانے کے لیے خصوصاً ان شروح احادیث کو دیکھا جاسکتا ہے: لامع الدراری، فیض الباری، فتح الملہم و تکریم الملہم، اللوکب الدرری، العرف الشذی، معارف السنن، بذل المحمود، الفیض السماوی، فلانڈالازہار، اوجز المسالک، التعلیق الصیح، امانی الاحبار وغیرہ۔ اس کے علاوہ اردو زبان میں بھی فقہ الحدیث کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ شروح حدیث کا تفصیلی ذکر علمائے دیوبند اور خدمت حدیث کے عنوان کے تحت گزر چکا ہے۔

علمائے دیوبند نے معتد فقہی احکام و مسائل سے متعلق قرآن و حدیث کے دلائل کو یکجا جمع کیا ہے اور اس سلسلہ میں فقہ حنفی پر وارد ہونے والے سوالات و اعتراضات کا علمی جائزہ لیا ہے۔ اس سلسلہ میں اہم کوشش جمعیت

علماء ہند کی طرف سے ہوئی اور ۲۰۰۱ء میں تحفظ سنت کانفرنس کے موقع پر دو درجن سے زائد ایسے مقالات کا مجموعہ تین جلدوں میں شائع کیا جس میں غیر مقلدین کے ذریعہ اٹھائے جانے والے سوالات کا مدلل جواب لکھا گیا ہے۔ ان مقالات میں تقلید، اجماع و قیاس، عقائد، عبادات وغیرہ سے متعلق اہم احکام و مباحث کو قرآن و حدیث کے دلائل سے مزین کیا گیا ہے۔

اس کے علاوہ علمائے دیوبند نے ایسی متعدد کتابیں لکھی ہیں جن میں فقہی احکام کو قرآن و حدیث سے مدلل کیا گیا ہے، جن میں سے کچھ درج ذیل ہیں:

- (۱) بغیۃ اللمعی فی تخریج الزلیعی، مولانا مفتی شفیع دیوبندیؒ
- (۲) فتاویٰ محمدی مع شرح دیوبندی، حضرت مولانا میاں سید اصغر حسین دیوبندیؒ
- (۳) الحجۃ علی اہل المدینۃ (امام محمدؐ)، تعلیق مولانا مفتی مہدی حسنؒ
- (۴) شرح کتاب الآثار، (امام محمدؐ)، تعلیق مولانا مفتی مہدی حسنؒ
- (۵) تحقیق فتح الرحمن فی اثبات مذہب النعمان (شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ)،
حضرت مفتی نظام الدین اعظمیؒ
- (۶) رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز، مولانا مفتی جمیل احمد ندیری
- (۷) نماز احتاف، مفتی حبیب الرحمن مؤاخذ

تدوین فقہ، اصول فقہ، اسرار شریعت وغیرہ پر تصنیفات

- (۱) الحلیۃ الناجزہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ
- (۲) المصالح العقلیہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ
- (۳) اشرف الجواب، حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ
- (۴) فقہ حنفی کے اصول و ضوابط، حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ
- (۵) اجتہاد و تقلید کا آخری فیصلہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ
- (۶) مقدمہ تدوین فقہ، حضرت مولانا مناظر احسن گیلانیؒ
- (۷) اصول فقہ، حضرت مولانا مناظر احسن گیلانیؒ
- (۸) مقدمہ نور الایضاح، حضرت مولانا اعزاز علی امر وہویؒ
- (۹) مقدمہ اسلامی عدالت، حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمیؒ
- (۱۰) تدوین فقہ (مقدمہ فتاویٰ دارالعلوم)، مفتی ظفر الدین مفتاحیؒ
- (۱۱) مقدمہ تاتارخانیہ، مولانا قاضی سجاد حسین صاحبؒ

- (۱۲) آپ فتویٰ کیسے دیں؟ مولانا مفتی سعید احمد پالن پوری
- (۱۳) فقہ اسلامی: تدوین و تعارف، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی
- (۱۴) آسان اصول فقہ، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی
- (۱۵) المجموع فی اصول الفقہ (عربی)، مولانا عبید اللہ سعدی
- (۱۶) القواعد الفقہیہ المحمودۃ، مولانا ابوالکلام شفیق
- (۱۷) اجماع اور قیاس کی حجیت، مولانا جمیل احمد سکروڈوی
- (۱۸) اودھ میں افتاء کے مراکز اور ان کی خدمات، مولانا اشتیاق احمد اعظمی
- (۱۹) قاموس الفقہ، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی
- (۲۰) اسلامی عدالت، حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی
- (۲۱) مجموعہ قوانین اسلامی، حضرت مولانا منت اللہ رحمانی، مفتی ظفر الدین مفتاحی وغیرہم
- (۲۲) فتاویٰ تاتارخانیہ (پانچ جلدیں)، تحقیق مولانا قاضی سجاد حسین دہلوی
- (۲۳) فتاویٰ تاتارخانیہ (۲۳ جلدیں)، تحقیق و تعلق مولانا مفتی شبیر احمد صاحب
- (۲۴) صنوان القضاء، تحقیق حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی
- (۲۵) مختارات النوازل، تحقیق مولانا خالد سیف اللہ رحمانی وغیرہ
- (۲۶) اسلام کا نظام اراضی مع فتوح الہند، حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب
- (۲۷) اسلامی معاشیات، حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی
- (۲۸) اسلام کا اقتصادی نظام، حضرت مولانا حفیظ الرحمن سیوہاروی
- (۲۹) اسلام کا زرعی نظام، حضرت مولانا تقی امینی صاحب
- (۳۰) ہمارا معاشی نظام، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی
- (۳۱) فقہ البیوع، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی
- (۳۲) فقہ الأسرۃ: أوضاع وأحكام، مولانا اشرف عباس قاسمی

کتب فقہیہ اور فقہی مسائل پر تصنیفات

فقہی جزئیات پر علمائے دیوبند کے رسائل اور کتب کی تعداد بے شمار ہے۔ اذان و نماز، روزہ و تراویح، حج و عمرہ، ذبح و قربانی وغیرہ موضوعات پر سیکڑوں چھوٹے بڑے رسائل لکھے گئے ہیں۔ ذیل میں کچھ کتب و رسائل کے نام درج کیے جاتے ہیں:

(۱) تالیفات رشیدیہ (مجموعہ رسائل)، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی

- (۲) احسن القری فی توضیح اوثق العری، شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندیؒ
- (۳) بہشتی زیور، حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ
- (۴) تعلیم الاسلام، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلویؒ
- (۵) مفید الوارثین، حضرت مولانا میاں سید اصغر حسین
- (۶) میراث المسلمین، حضرت مولانا میاں سید اصغر حسین
- (۷) احکام حج، حضرت مولانا مفتی شفیع دیوبندیؒ
- (۸) مسائل سجدہ سہو، مفتی حبیب الرحمن خیر آبادی
- (۹) مسائل امامت، مفتی حبیب الرحمن خیر آبادی
- (۱۰) ایضاح المسائل، مفتی شبیر احمد قاسمی
- (۱۱) ایضاح المناسک، مفتی شبیر احمد قاسمی
- (۱۲) احکام لحوم الخیل، مولانا بدر الحسن قاسمی
- (۱۳) نکاح و طلاق و میراث، مفتی فضیل الرحمن عثمانی
- (۱۴) اسلام میں جدید معیشت و تجارت، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی
- (۱۵) مجموعہ مکمل و مدلل مسائل، مولانا محمد رفعت قاسمی

جدید مسائل پر تصنیفات

علمائے دیوبند نے جس طرح قدیم فقہی سرمایہ کو کھنگال کر اردو زبان میں ایک عظیم الشان ذخیرہ جمع کر دیا، اسی طرح انھوں نے جدید سائنسی و عقلی دور میں روزمرہ پیدا ہونے والے نئے مسائل کو بھی غور و تحقیق کا موضوع بنایا اور فقہ حنفی کے اصول و منہج کے روشنی میں ان کا حل پیش کیا۔ مفتیان کرام کے مطبوعہ و غیر مطبوعہ فتاویٰ میں ایسے مسائل کی ایک معتد بہ مقدار موجود ہے اور جدید مسائل پر علیحدہ کتابیں بھی شائع ہوئی ہیں۔ فقہی کانفرنسوں اور اجتماعات کے ذریعہ جدید مسائل پر تحقیق کا یہ سلسلہ تاہنوز جاری و ساری ہے۔ اس سلسلہ میں چھوٹی بڑی درجنوں کتابیں منظر عام پر آئیں۔ ذیل میں کچھ اہم کتابوں کے نام پیش ہیں:

- (۱) آلات جدیدہ کے شرعی احکام، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندیؒ
- (۲) جواہر الفقہ، حضرت مولانا مفتی شفیع دیوبندیؒ
- (۳) فقہی مقالات، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی
- (۴) عصر حاضر کے جدید مسائل، مولانا بدر الحسن قاسمی
- (۵) معاشرتی مسائل، مولانا برہان الدین سنبھلی

- (۶) جدید فقہی مسائل، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی
- (۷) حلال و حرام، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی
- (۸) ایضاح المسائل، مفتی شبیر احمد قاسمی
- (۹) ایضاح النوادر، مفتی شبیر احمد قاسمی
- (۱۰) رویت ہلال، حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب
- (۱۱) مسئلہ سود، حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب
- (۱۲) بینک انشورنس اور سرکاری قرضے، مولانا برہان الدین ^{سنہلی}
- (۱۳) رویت ہلال کا مسئلہ، مولانا برہان الدین ^{سنہلی}
- (۱۴) اسلامی عدالت، قاضی مجاہد الاسلام قاسمی
- (۱۵) شیر زاور کمپنی، قاضی مجاہد الاسلام قاسمی
- (۱۶) ضرورت و حاجت، قاضی مجاہد الاسلام قاسمی
- (۱۷) جدید تجارتی شکلیں، قاضی مجاہد الاسلام قاسمی
- (۱۸) اوقاف، قاضی مجاہد الاسلام قاسمی
- (۱۹) مجلہ فقہ اسلامی، قاضی مجاہد الاسلام قاسمی
- (۲۰) چند اہم عصری مسائل، مفتی زین الاسلام قاسمی الدآبادی

شرح کتب فقہ

فقہ و اصول فقہ کی نصابی اور متداول کتابوں کی تحقیق و تعلق اور شرح نگاری میں بھی علمائے دیوبند نے نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ کتب فقہیہ میں ہدایہ، شرح وقایہ، شرح نقایہ، کنز الدقائق، قدوری، نور الایضاح، سراجی وغیرہ کے اردو و عربی زبانوں میں متعدد شروح و حواشی لکھے ہیں۔ اسی طرح اصول فقہ کی کتابوں میں حسامی، اصول الشاشی، نور الانوار وغیرہ کی شرحیں یا حواشی بھی لکھے گئے ہیں۔ علاوہ ازیں، کچھ کتب فقہیہ کے اردو میں تراجم بھی کیے گئے ہیں جیسے فتاویٰ عالمگیری کا اردو ترجمہ، نور الایضاح اور قدروی وغیرہ کے اردو ترجمے۔

مشاہیر مفتیان و فقہائے کرام

علمائے دیوبند میں فقہ و فتاویٰ کے حوالے سے خدمات انجام دینے والوں کی فہرست کافی طویل ہے، لیکن ان میں کچھ تعداد ایسے حضرات کی ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی فقہ و فتاویٰ کی خدمت میں گزاری ہے۔ ایسی ہی کچھ شخصیات کے اسماء ذکر کرنے کا اکتفاء کیا جا رہا ہے:

حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ، مولانا اشرف علی تھانویؒ، حضرت مفتی عزیز الرحمن دیوبندیؒ، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلویؒ، حضرت مولانا مفتی اعزاز علی امر وہویؒ، حضرت مفتی ریاض الدین صاحب بجنوری، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندیؒ، حضرت مولانا محمد سہول صاحب بھاگل پوریؒ، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ گنگوہیؒ، حضرت مفتی محمد فاروق صاحب انڈیٹھویؒ، حضرت مفتی سید مہدی حسن شاہ جہاں پوریؒ، حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہیؒ، حضرت مولانا مفتی محمد میاں دیوبندیؒ، مفتی قاضی مسعود احمد دیوبندی، مفتی جمیل احمد سیوہارویؒ، حضرت مولانا مفتی نظام الدین اعظمیؒ، حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی، حضرت مولانا مفتی محمد یوسف لدھیانویؒ، قاضی مجاہد الاسلام قاسمیؒ، مفتی ظفر الدین صاحب مفتاحیؒ، مفتی حبیب الرحمن خیر آبادی، مفتی احمد علی سعید گینوی، مفتی کفیل الرحمن نشاط، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، مولانا مفتی احمد خان پوری، مولانا برہان الدین سنہلی، مولانا عتیق احمد بستوی، مولانا عبید اللہ اسعدی، مفتی محمود حسن بلند شہری، مفتی زین الاسلام قاسمی، مفتی شبیر احمد قاسمی، مولانا مفتی سلمان منصور پوری وغیرہم

علمائے دیوبند کی انھیں عظیم الشان خدمات کی وجہ سے دارالعلوم دیوبند کو دنیا بھر میں فقہ حنفی کا سب سے بڑا مرکز سمجھا جاتا ہے۔

علمائے دیوبند اور خدمات عربی زبان و ادب

ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد سے ہی عربی زبان اس ملک میں داخل ہو چکی تھی۔ ہندوستانی علماء نے ہر عہد اور ہر زمانے میں عربی زبان کو علمی و فکری زبان کے طور پر استعمال کیا اور اس زبان میں بھی گراں قدر خدمات انجام دیں۔ علمائے متقدمین میں علامہ حسن بن محمد الصغانی مصنف مشارق الانوار والعباب الزاخر، علامہ طاہر پٹنی مصنف مجمع بحار الانوار، فیضی مصنف سواطع الالہام، علامہ مرتضیٰ الزبیدی مصنف تاج العروس من جواہر القاموس، شیخ عبد الحق محدث الدہلوی، شیخ محمد اعلیٰ التھانوی مصنف کشاف اصطلاحات الفنون، شاہ ولی اللہ محدث الدہلوی وغیرہم متعدد ایسے نام ہیں جن کی علمی کاوشیں پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ متاخرین علماء میں شیخ عبدالحی فرنگی محلی، نواب صدیق حسن خان بھوپالی، مولانا حکیم عبدالحی حسنی، مولانا غلام علی آزاد بلگرامی، مولانا فیض الحسن سہارن پوری، شیخ حمید الدین فراہی، مولانا مسعود عالم ندوی، مولانا ابوالحسن علی ندوی وغیرہ شخصیات نے دینی و ادبی میدانوں میں عربی زبان کے توسط سے عظیم الشان خدمات انجام دی ہیں۔

علمائے دیوبند کی عربی دانی

دارالعلوم دیوبند کے رکن تاسیسی حضرت مولانا ذوالفقار علی دیوبندیؒ، عربی زبان کے مسلم ادیب، شاعر اور مصنف تھے۔ عربی میں الہدیۃ السدیۃ کے نام سے انھوں نے دارالعلوم، وہاں کے علماء اور دیوبند کے حالات رقم کیے ہیں۔ علاوہ ازیں، عربی شاعری کے علاوہ انھوں نے متعدد کتابوں کے عربی حواشی بھی تحریر فرمائے۔ اولین فضلاء دارالعلوم میں حضرت علامہ انور شاہ کشمیریؒ، حضرت مولانا خلیل احمد سہارن پوریؒ، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانیؒ کی عربی تصنیفات ان کے نبوغ علمی اور براعت و کمال پر بجا طور پر دلالت کرتی ہیں۔

حضرت مولانا اعجاز علی امرہویؒ دارالعلوم میں عربی زبان و ادب کے حوالے سے ایک مشہور نام ہے۔ آپ کی کتاب فقہ العرب علمی حلقوں میں متداول اور معروف ہے۔ اسی طرح دارالعلوم دیوبند میں گذشتہ چار دہائیوں سے عربی زبان و ادب کے تئیں جو دل چسپی اور ترقی پائی جاتی ہے اس کا سہرا حضرت مولانا وحید الزماں کیرانویؒ کو جاتا ہے جنھوں نے ایک طرف عربی زبان کے ماہرین کی ایک جماعت پیدا کی اور دوسری طرف لغت و ادب کی بیش قیمت کتابیں تصنیف کیں، جو آج بھی عربی زبان و ادب کے طالب علم کے لیے دلیل راہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اسی طرح حضرت مولانا محمد یوسف بنوریؒ، حضرت مولانا بدر عالم میرٹھیؒ، حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ، حضرت مولانا حبیب الرحمن محدث اعظمیؒ، حضرت مولانا زین العابدین میرٹھیؒ، حضرت مولانا اشفاق الرحمن

کاندھلوی، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی نے جہاں علم حدیث اور دیگر میدانوں میں انٹ نقوش ثبت کیے ہیں وہیں عربی زبان و ادب کے حوالے سے بھی نمایاں مقام رکھتے ہیں۔

علمائے دیوبند کی عربی شاعری

علمائے دیوبند نے عربی شاعری میں بھی یادگار نقوش چھوڑے ہیں جو مختلف کتابوں اور مجلات وغیرہ میں بکھرے ہوئے ہیں۔ اگر ان نظموں اور قصائد کو جمع کیا جائے تو ایک معتد بہ دفتر تیار ہو سکتا ہے۔ حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانی مہتمم دارالعلوم دیوبند کی عربی شاعری خصوصاً لامیۃ المعجزات ہندوستان کی عربی شاعری کا ایک مایہ ناز سرمایہ ہے۔ مختلف رسائل وغیرہ میں جن علمائے دیوبند کی شعری تخلیقات ملتی ہیں ان میں سے کچھ حضرات کے اسمائے گرامی درج ذیل ہیں:

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت مولانا ذوالفقار علی دیوبندی، حضرت مولانا رحیم اللہ بجنوری، حضرت مولانا انور شاہ کشمیری، حضرت مولانا اعجاز علی امر وہوی، حضرت مولانا یوسف بنوری، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندی، حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی، مفتی عزیز الرحمن عثمانی، حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی، مولانا حبیب الرحمن محدث اعظمی، مولانا محمد یوسف کامل پوری، مولانا عبدالحق مدنی، مولانا عزیز الحق چانگامی، مولانا مفتی جمیل احمد تھانوی، مولانا محمد ابراہیم مسقطی، مولانا عزیز الحق بنگلہ دیشی، مولانا عبدالرحمن سیوہاروی، مولانا میرک شاہ اندرانی، مولانا محمد یامین سہارن پوری، مولانا حمید الدین فیض آبادی وغیرہم

دارالعلوم دیوبند اور عربی صحافت

دارالعلوم میں عربی صحافت کی بھی شاندار تاریخ رہی ہے۔ ۱۳۸۴ھ/۱۹۶۵ء میں سہ ماہی عربی مجلہ 'دعوة الحق' جاری ہوا، جو حضرت مولانا وحید الزماں کیرانوی کی ادارت میں نکلتا تھا۔ یہ مجلہ دس سال تک مسلسل شائع ہوا۔ ۱۳۹۵ھ مطابق ۱۹۷۵ء میں اس کی اشاعت موقوف کر دی گئی۔

مولانا وحید الزماں کیرانوی ہی کی ادارت میں ایک دوسرا عربی رسالہ 'الکفاح' جمعیت علمائے ہند کے ترجمان کے طور پر بھی نکلتا تھا۔

دارالعلوم دیوبند نے ۱۳۹۶ھ مطابق ۱۹۷۶ء میں 'الداعی' کے نام سے پندرہ روزہ عربی رسالہ جاری کیا۔ الداعی کی ادارت کچھ دنوں تک مولانا وحید الزماں کیرانوی سے متعلق رہی، پھر مولانا بدر الحسن قاسمی اس کے ایڈیٹر مقرر ہوئے۔ ۱۴۰۳ھ مطابق ۱۹۸۲ء سے یہ مجلہ مولانا نور عالم ضلیل امینی کی زیر ادارت شائع ہو رہا ہے۔ مجلہ الداعی ۱۴۱۴ھ مطابق ۱۹۹۳ء سے ماہانہ شائع ہونے لگا۔

مجلہ الداعی عربی کا ایک معیاری رسالہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ ظاہری و معنوی خوبیوں کے لحاظ سے ہندوستان کے عربی مجلات و رسائل میں اس کو ممتاز مقام حاصل ہے۔ مضامین کا حسن انتخاب، زبان و بیان کی شگفتگی و شائستگی کے ساتھ ساتھ مجلہ الداعی کے ظاہری حسن اور دیدہ زیبی پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ حالات حاضرہ بالخصوص عالم اسلام اور عالم عرب کے مسائل و مشکلات اور سیاسی و ثقافتی حالات پر مجلہ الداعی کی خصوصی تحریریں اور بصیرت افروز ادارے بڑی توجہ سے پڑھے جاتے ہیں اور پسندیدگی کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں۔ دارالعلوم کے مسلک حقہ کی نمائندگی اور اکابر کے علوم و افادات کی اشاعت کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہر پہلو سے رسالہ کا معیار بلند ہے اور الحمد للہ عرب ممالک میں بھی دارالعلوم کا یہ ترجمان نہایت وقعت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔

شیخ الہند اکیڈمی کی طرف سے اس کے اولین ڈائریکٹر حضرت مولانا سعید احمد اکبر آبادی کی ادارت میں ۱۴۰۴ھ میں ایک تحقیقی سہ ماہی مجلہ 'الدراسات الاسلامیہ' نکالنا شروع ہوا جس کے صرف دو ہی شمارے نکل سکے۔ حال (۱۴۳۱ھ) ہی میں مولانا محمد ساجد قاسمی ہردوئی کی ادارت میں 'النہضة الأدبية' کے نام سے ایک سہ ماہی جریدہ شائع ہونا شروع ہوا ہے۔

دارالعلوم دیوبند اور اس کے طرز پر قائم ہونے والے مدارس نے بھی ہندوستان میں عربی زبان کی خدمت میں نہایت اہم کردار ادا کیا ہے۔ برصغیر اور دنیا کے دیگر حصوں میں دارالعلوم کے طرز پر جو مدارس قائم ہیں سب کی مرکزی زبان عربی ہے۔ قرآن و حدیث، فقہ و علوم اسلامیہ کے جو مضامین ان مدارس میں پڑھے اور پڑھائے جاتے ہیں عربی زبان پر قدرت کے بغیر ان کا سمجھنا سمجھنا ناممکن نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان مدارس کا فاضل علوم دینیہ کی تعلیم کی سند پا کر فارغ التحصیل ہونے کے ساتھ تک عربی زبان پر بھی ایک حد تک قدرت رکھتا ہے، جب کہ ان میں سے ایک بڑی تعداد کو عربی زبان پر اچھی خاصی دسترس ہوتی ہے۔

علمائے دیوبند نے ہندی نژاد ہونے کے باوجود بڑے بڑے اہم تصنیفی و تالیفی کام عربی زبان میں انجام دئے ہیں۔ دارالعلوم کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ قیام دارالعلوم سے اب تک کوئی بھی عرصہ ایسا نہیں گزرا ہے جس میں بنائے دارالعلوم کی عربی خدمات کا سلسلہ جاری نہ رہا ہو، کسی نہ کسی حیثیت و نوع کی عربی خدمت کی مثال ہر دور میں پیش کی جاسکتی ہے۔ علمائے دیوبند کی عربی زبان میں ہر موضوع پر تالیفات موجود ہیں؛ خواہ تفسیر ہو یا حدیث، منطق ہو یا فلسفہ، تاریخ ہو یا ادب، غرض ہر موضوع پر علمائے دیوبند کا معیاری کام موجود ہے۔ ذیل میں ایسی کتابوں کی ایک فہرست پیش کی جا رہی ہے۔

علم قرآن و تفسیر

- (۱) مشکلات القرآن، حضرت مولانا علامہ محمد انور شاہ کشمیری
- (۲) سبق الغایات فی نسق الآیات، حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی

- (۳) احکام القرآن، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب، حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی
- (۴) الہام الرحمن، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی
- (۵) تفسیر القرآن بکلام الرحمن، حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری
- (۶) بیان الفرقان علی علم البیان، حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری
- (۷) یتیمۃ البیان، حضرت مولانا محمد یوسف بنوری
- (۸) نوالین شرح جلالین، حضرت مولانا اشفاق الرحمن کاندھلوی
- (۹) مرآة التفسیر، حضرت مولانا اشفاق الرحمن کاندھلوی
- (۱۰) قاموس القرآن، مولانا قاضی زین العابدین سجاد میرٹھی
- (۱۱) العون الکبیر شرح الفوز الکبیر، حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری
- (۱۲) تفسیرات شیخ الاسلام ابن تیمیہ، مولانا اقبال احمد اعظمی

علم حدیث

- (۱) لامع الدراری علی جامع البخاری، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی
- (۲) الکوکب الدرری علی جامع الترمذی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی
- (۳) الورد الہندی علی جامع الترمذی، حضرت مولانا شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی
- (۴) العرف الہندی علی جامع الترمذی، حضرت مولانا علامہ انور شاہ کشمیری
- (۵) بذل المحمود شرح سنن ابی داؤد، حضرت مولانا خلیل احمد سہارن پوری
- (۶) فیض الباری علی البخاری، حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری
- (۷) العرف الہندی بشرح جامع الترمذی، حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری
- (۸) فتح المہلہم شرح صحیح مسلم، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی
- (۹) تکلمۃ فتح المہلہم از حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی
- (۱۰) معارف السنن شرح الترمذی، حضرت مولانا محمد یوسف بنوری
- (۱۱) الطیب الہندی، حضرت مولانا اشفاق الرحمن کاندھلوی
- (۱۲) کشف المغنی عن رجال المؤمنین، حضرت مولانا اشفاق الرحمن کاندھلوی
- (۱۳) تحفۃ القاری، بحل مشکلات البخاری، حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی
- (۱۴) الابواب والترجم للبخاری، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی

- (۱۵) اوجز المسالك الى مؤطا الامام مالك، شيخ الحديث مولانا محمد زكريا كاندھلوی
- (۱۶) امانی الاحبار شرح معانی الآثار، حضرت مولانا محمد یوسف كاندھلوی
- (۱۷) التعلیق الصبیح شرح مشکوٰۃ المصابیح، حضرت مولانا محمد ادریس كاندھلوی
- (۱۸) شرح شمائل الترمذی، حضرت مولانا اشفاق الرحمن كاندھلوی
- (۱۹) اعلاء السنن، مولانا ظفر احمد عثمانی
- (۲۰) شرح كتاب الآثار للامام محمد، حضرت مولانا مفتی مہدی حسن شاہ جہان پوری
- (۲۱) تحقیق و تعلیق مصنف عبدالرزاق، حضرت مولانا حبیب الرحمن محدث اعظمی
- (۲۲) تحقیق و تعلیق مصنف ابن ابی شیبہ، حضرت مولانا حبیب الرحمن محدث اعظمی
- (۲۳) تحقیق و تعلیق مسند حمیدی، حضرت مولانا حبیب الرحمن محدث اعظمی
- (۲۴) تحقیق و تعلیق كتاب الزهد والرقائق للمحدث عبداللہ بن مبارک، حضرت مولانا حبیب الرحمن محدث اعظمی
- (۲۵) تحقیق و تعلیق سنن سعید بن منصور، حضرت مولانا حبیب الرحمن محدث اعظمی
- (۲۶) تحقیق و تعلیق المطالب العالیہ بزوائد المسانید الثمانيہ للحافظ ابن حجر العسقلانی،
حضرت مولانا حبیب الرحمن محدث اعظمی
- (۲۷) حمد المتعالي على تراجم البخاري، مولانا سيد بادشاہ گل صاحب
- (۲۸) حاشیہ جواهر الاصول فی علم حدیث الرسول کلام محمد بن محمد بن علی فارسی حنفی،
مولانا قاضی اطہر مبارک پوری
- (۲۹) النبراس الساری فی اطراف البخاری، مولانا عبدالعزیز پنجابی
- (۳۰) حاشیہ آثار السنن، حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری
- (۳۱) تعلیق و تحقیق علی صحیح ابن خزمیہ، ڈاکٹر محمد مصطفی قاسمی اعظمی
- (۳۲) تحقیق نخب الافکار شرح شرح معانی الآثار (علامہ بدرالدین العینی)، حضرت مولانا ارشد مدنی
- (۳۳) تقریب شرح معانی الآثار، حضرت مولانا نعمت اللہ اعظمی
- (۳۴) الحدیث الحسن فی جامع الترمذی، شعبہ تخصص فی الحدیث، دارالعلوم دیوبند
- (۳۵) حسن صحیح فی جامع الترمذی، شعبہ تخصص فی الحدیث، دارالعلوم دیوبند
- (۳۶) حسن غریب فی جامع الترمذی، شعبہ تخصص فی الحدیث، دارالعلوم دیوبند
- (۳۷) حدیث غریب فی جامع الترمذی، شعبہ تخصص فی الحدیث، دارالعلوم دیوبند
- (۳۸) شرح ترمذی، مولانا شمس الحق افغانی صاحب
- (۳۹) شرح ترمذی، مولانا سید بادشاہ گل صاحب

- (۴۰) مستزاد الحقیق حاشیہ علی زاد الفقیر للعلامة ابن ہمام، حضرت مولانا بدر عالم میرٹھیؒ
- (۴۱) الباقیات فی شرح حدیث انما الاعمال بالنیات، حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ
- (۴۲) تحفۃ الاخوان بشرح حدیث شعب الایمان، حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ
- (۴۳) جواہر الاصول فی اصول الحدیث، مولانا عبدالرحمن مردانی (م ۱۹۷۵ھ)
- (۴۴) حجتہ الوداع و عمرات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلویؒ
- (۴۵) فضل اللہ الصمد فی توضیح الادب المفرد، حضرت مولانا فضل اللہ جیلانیؒ
- (۴۶) شیوخ الامام ابی داؤد السجستانی، حضرت مولانا حبیب الرحمن قاسمی اعظمیؒ
- (۴۷) علماء دیوبند و خدماتہم فی علم الحدیث، ڈاکٹر عبدالرحمن البرنی

علم فقہ

- (۱) فصل الخطاب فی مسئلہ ام الكتاب، حضرت مولانا محمد نور شاہ کشمیریؒ
- (۲) نیل الفرقدین فی مسئلہ رفع یدین، حضرت مولانا محمد نور شاہ کشمیریؒ
- (۳) بسط الیدین لنیل الفرقدین، حضرت مولانا محمد نور شاہ کشمیریؒ
- (۴) کشف السترن عن صلوة الوتر، حضرت مولانا محمد نور شاہ کشمیریؒ
- (۵) بغیۃ الاریب فی احکام القبلة و المحاریب، حضرت مولانا محمد یوسف بنوریؒ
- (۶) حاشیہ محمود الروایہ شرح نقایہ لملا علی القاری، حضرت مولانا محمد اعز از علی امر وہویؒ
- (۷) حاشیہ کنز الدقائق، حضرت مولانا محمد اعز از علی امر وہویؒ
- (۸) حاشیہ قدوری، حضرت مولانا محمد اعز از علی امر وہویؒ
- (۹) حاشیہ نور الایضاح، حضرت مولانا محمد اعز از علی امر وہویؒ
- (۱۰) شرح قدوری، مولانا غلام اللہ خاں
- (۱۱) تعلیق المہبوط لامام محمد، مولانا ابوالوفاء افغانی
- (۱۲) بغیۃ الامعی فی تخریج الزیلیعی، مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندیؒ
- (۱۳) تعلیق الحجج علی اہل المدینۃ (امام محمدؐ)، مولانا مفتی مہدی حسن شاہ جہاں پوریؒ
- (۱۴) تحقیق فتح الرحمن فی اثبات مذہب النعمان (شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ)، مفتی نظام الدین اعظمیؒ
- (۱۵) الموجد فی اصول الفقہ، مولانا عبید اللہ اسعدی
- (۱۶) القواعد الفقہیہ المحمودۃ، مولانا ابوالکلام شفیق
- (۱۷) قاموس الفقہ، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی

- (۱۸) تحقیق فتاویٰ تاتارخانیہ (پانچ جلدیں)، مولانا قاضی سجاد حسین دہلوی
 (۱۹) تحقیق فتاویٰ تاتارخانیہ (۲۳ جلدیں)، مولانا مفتی شبیر احمد صاحب
 (۲۰) تحقیق صنوان القضاء، حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی
 (۲۱) تحقیق مختارات النوازل، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی وغیرہ

علم عقائد و کلام

- (۱) عقیدۃ الاسلام فی حیاء نزول عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری
 (۲) اکفار الملحدین فی شیء من ضروریات الدین، حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری
 (۳) ضرب الخاتم علی حدوث العالم، حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری
 (۴) مرقاۃ الطارم لحدوث العالم، حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری
 (۵) ازالة الیرین فی الذب عن قرۃ العینین، حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری
 (۶) ہدیۃ المہدیین فی آیۃ خاتم النبیین، حضرت مولانا محمد شفیع دیوبندی
 (۷) التصریح بما تواتر فی نزول مسیح، حضرت مولانا محمد شفیع دیوبندی
 (۸) التہمید لائمۃ التجدید، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی
 (۹) الکندی وآراؤہ الفلسفیہ، مولانا سید عبدالرحمن ہزاروی
 (۱۰) الحیاء الاجتماعیہ عند نجم الدین الرازی، مولانا سید عبدالرحمن ہزاروی
 (۱۱) الیانح الجنی فی الفروق بین الرسول والنبی، مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی
 (۱۲) الفوائد المملکوئیۃ فی ان الاحادیث حجۃ فی العربیہ، مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی
 (۱۳) کتاب الاعیان والکبراء، مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی
 (۱۴) الہدیۃ الجدیدۃ، مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی
 (۱۵) الاستاذ المودودی، مولانا محمد یوسف بنوری
 (۱۶) وقفۃ مع اللاندھیہ، مولانا ابوبکر غازی پوری
 (۱۷) صور تنطق، مولانا ابوبکر غازی پوری

سیرت و تاریخ اور سوانح و ادب

- (۱) لامیۃ المعجزات، حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانی
 (۲) معین اللیب فی قصائد الحبیب، مولانا حبیب الرحمن عثمانی دیوبندی

- (۳) رجال السنو والہندی القرآن السالغ، مولانا قاضی اطہر مبارک پوری
- (۴) الفتوحات الاسلامیہ فی الہند، مولانا قاضی اطہر مبارک پوری
- (۵) العقد الثمین فی فتوح الہند و من ورد فیہا من الصحابۃ والتابعین، مولانا قاضی اطہر مبارک پوری
- (۶) نغمۃ العنبر فی حیات الشیخ انور، حضرت مولانا محمد یوسف بنوری
- (۷) التذکرہ المحمودۃ، مولانا مفتی محمود حسن ہزاروی (م ۱۹۷۳ء)
- (۸) دارالعلوم دیوبند مدرسۃ فکریۃ...، مولانا عبید اللہ اسعدی
- (۹) الشیخ المقرئ محمد طیب رحمہ اللہ، مولانا نور عالم خلیل امینی
- (۱۰) مجتمعاتنا المعاصرۃ والطریق الی الاسلام، مولانا نور عالم خلیل امینی
- (۱۱) المسلمون فی الہند، مولانا نور عالم خلیل امینی
- (۱۲) الصحابۃ و مکاتبتہم فی الاسلام، مولانا نور عالم خلیل امینی
- (۱۳) فلسطین فی انتظار صلاح الدین، مولانا نور عالم خلیل امینی
- (۱۴) العلامة انور شاہ لکشمری: حیاتہ و شعرہ، مولانا عبدالملک قاسمی
- (۱۵) رسول الہدی ﷺ (غیر منقوط)، مولانا محمد ہدایت اللہ قاسمی

لغات و نصابی کتب

- (۱) مصباح اللغات، مولانا عبدالحفیظ بلیاوی
- (۲) اردو عربی ڈکشنری، مولانا عبدالحفیظ بلیاوی
- (۳) بیان اللسان (عربی اردو لغت)، مولانا قاضی زین العابدین سجاد میرٹھی
- (۴) فقہ العرب، مولانا محمد اعجاز علی امر و ہوی
- (۵) القاموس الجدید (اردو سے عربی)، مولانا وحید الزماں کیرانوی
- (۶) القاموس الجدید (عربی سے اردو)، مولانا وحید الزماں کیرانوی
- (۷) القاموس الاصطلاحی (اردو سے عربی)، مولانا وحید الزماں کیرانوی
- (۸) القاموس الاصطلاحی (عربی سے اردو)، مولانا وحید الزماں کیرانوی
- (۹) القاموس الوحید (عربی سے اردو)، مولانا وحید الزماں کیرانوی
- (۱۰) سہ لسانی ڈکشنری، حکیم عزیز الرحمن منوی
- (۱۱) القاموس الفرید، مولانا بدر الزماں کیرانوی
- (۱۲) القاموس الموضوعی، مولانا ندیم الواجدی
- (۱۳) القاموس العصری، مولانا نایا سرندیم قاسمی

- (۱۲) شرح المقامات الحریریہ، حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ
 (۱۵) توضیحات شرح سبع معلمات، مولانا قاضی سجاد حسینؒ
 (۱۶) التعليقات شرح المقامات، مولانا نورالحقؒ
 (۱۷) حاشیہ دیوان مثنوی، حضرت مولانا محمد اعزاز علی امر وہویؒ
 (۱۸) القرأة الواضحة، حضرت مولانا وحید الزماں کیرانویؒ
 (۱۹) فحیح الادب، مولانا وحید الزماں کیرانویؒ
 (۲۰) مفتاح العربیہ، مولانا نور عالم خلیل امینیؒ
 (۲۱) القرأة العربیہ، مولانا عبدالقدوس قاسمی نیرانوی و مولانا محمد ساجد قاسمی
 (۲۲) کیف تكون الکتابات مؤثرۃ، مولانا نور عالم خلیل امینیؒ
 (۲۳) تعلموا اللغۃ العربیہ فانہا من دینکم، مولانا نور عالم خلیل امینیؒ
 (۲۴) معلم العربیہ (۳ حصے)، مولانا ندیم الواجهدی
 (۲۵) تیسیر الانشاء (۳ حصے)، مولانا محمد ساجد قاسمی

اردو کتابوں کے عربی تراجم

علمائے دیوبند کی اکثر تصنیفی خدمات اردو زبان میں ہیں جن میں اکابر علماء کی بہت سی ایسی تصنیفات ہیں جو اسلامی علوم و فنون میں بے بہا اضافہ کی حیثیت رکھتی ہیں اور اس قابل ہیں کہ انھیں عربی اور دیگر زبانوں میں منتقل کیا جائے۔ شیخ عبدالفتاح ابو غدہ نے علمائے دیوبند کی تصانیف کی اہمیت کے اعتراف کے ساتھ اس خواہش کا اظہار بھی کیا کہ ان میں جو کتابیں اردو اور فارسی زبانوں میں ہیں ان کا عربی میں ترجمہ کرایا جائے، تاکہ عرب دنیا کو بھی ان سے استفادہ کا موقع مل سکے، موصوف کے الفاظ یہ ہیں:

”علم و فتویٰ کے اساطین سے مالا مال عظیم الشان ادارے کے علمائے عظام کی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے میں ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں بلکہ اگر ذرا جرأت کروں تو کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا ایک واجب حق ہے جس کا مطالبہ میں کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ان علمائے کرام کا فریضہ ہے کہ اپنی منفردانہ عقول کے نتائج فکر اور بیش بہا علمی فیوض و تحقیقات کو عربی زبان کا جامہ پہنا کر عالم اسلام کے دوسرے علماء کے لیے استفادے کا موقع فراہم کریں، یہ فریضہ ان حضرات پر اس لیے عائد ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص ہندوستان کے علمائے محققین کی کوئی تصنیف پڑھتا ہے تو اس میں اس کو وہ نئی منفردانہ تحقیق ملتی ہے جن کا مدار گہرے علم اور وسیع مطالعے کے علاوہ تقویٰ و صلاح اور روحانیت پر ہوتا ہے۔ چونکہ ہندوستان کے یہ علماء اور شیوخ کرام نیکی و صلاح روحانیت و استغراق فی العلم جیسی شروط پر نہ صرف یہ کہ پورے اترتے ہیں بلکہ سلف صالحین کے صحیح وارث اور ان کے نمونے ہیں اس لیے ان کی کتابیں بہت سی نئی تحقیقات اور حسب حالات وقت کتنی ہی کارآمد چیزوں پر

مشتمل ہوتی ہیں ”ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ“ بلکہ ان حضرات کی بعض کتابیں تو وہ ہیں جن میں ایسی چیزیں ملتی ہیں جو متقدمین علمائے اکابر، مفسرین، محدثین اور حکماء کے یہاں بھی دستیاب نہیں ہوتیں۔ (تاریخ دارالعلوم، جلد اول، ص: ۲۱-۵۲۰؛ عربی تاثرات کے لئے دیکھیں: ماہنامہ الداعی، جمادی الآخرة، ۱۳۳۸ھ مطابق مارچ ۲۰۱۷ء)

اینائے دارالعلوم نے اس پہلو کی طرف بھی توجہ دی ہے اور اسلاف کے کارناموں کو عربی زبان میں منتقل کرنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، تاہم ابھی ضرورت ہے کہ اس سمت اور توجہ دی جائے۔ ذیل میں اردو سے عربی میں منتقل کی جانے والی کچھ اہم کتابوں کے نام پیش کیے جا رہے ہیں:

- (۱) محاورات فی الدین، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، ترجمہ: مولانا محمد ساجد قاسمی
- (۲) ردود علی الاعتراضات الموجهة الی الاسلام، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی
- عربی ترجمہ: مولانا محمد ساجد قاسمی
- (۳) العقيدة الاسلامية: شہادت و ردود، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی
- عربی ترجمہ: مولانا محمد ساجد قاسمی
- (۴) حجۃ الاسلام، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، ترجمہ: مولانا محمد ساجد قاسمی
- (۵) حجۃ الاسلام، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، ترجمہ: مولانا عبدالحمید سواتی
- (۶) الاسلام والعقلانية، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، ترجمہ: مولانا نور عالم خلیل امینی
- (۷) لآلی منشورۃ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، ترجمہ: مولانا نور عالم خلیل امینی
- (۸) بحوث فی الدعوة والفکر الاسلامی، حضرت مولانا حسین احمد مدنی، ترجمہ: مولانا نور عالم خلیل امینی
- (۹) الحالة التعليمية فی الهند، حضرت مولانا حسین احمد مدنی، ترجمہ: مولانا نور عالم خلیل امینی
- (۱۰) الصحیحة ماذا ینبغی أن نعتقد عنہم، حضرت مولانا حسین احمد مدنی، ترجمہ: مولانا محمد ساجد قاسمی
- (۱۱) العقل والنقل، حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی، عربی ترجمہ: مولانا عبدالرشید قاسمی بستوی
- (۱۲) علماء دیوبند اتجاہم الدینی و مزاجہم المذہبی، حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب
- ترجمہ: مولانا نور عالم خلیل امینی
- (۱۳) الفتنة الدجالية، حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی، ترجمہ: مولانا عارف جمیل مبارک پوری
- (۱۴) الامام محمد قاسم النانوتوی کما رأیہ، حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی،
- ترجمہ: مولانا عارف جمیل مبارک پوری
- (۱۵) مختارات الامام محمد انور شاہ کشمیری، حضرت مولانا انظر شاہ کشمیری
- ترجمہ: مولانا عبدالرشید قاسمی بستوی

علمائے دیوبند اور اردو زبان

دارالعلوم دیوبند جس پس منظر میں قائم ہوا، پوری واقعیت کے ساتھ اس کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ برطانوی تسلط نے نصرانیت کی اشاعت کے لیے جن حربوں کا استعمال کیا، دارالعلوم دیوبند نے دینی، تعلیمی، سیاسی، سماجی، ثقافتی اور لسانی ہر محاذ پر انگریزوں کے پروپیگنڈوں کو ناکام بنا دیا۔ مسلمانوں کے اندر سے دینی روح کو مردہ اور اسلامی تشخص کو ملیا میٹ کر دینے کے لیے مغرب سے جو پُرشور آندھی اٹھی تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہندوستان میں اب اسلام کی بقا کچھ دھاگے سے لٹک رہی ہے؛ لیکن علمائے ہند خاص طور پر دارالعلوم دیوبند کے اکابر نے مسلمانوں کے اندر سے مایوسی کے احساس کو نکال کر امید کی روشنی پیدا کی اور ہر طرح سے اسلام اور مسلمانوں کا تحفظ کیا۔ اکابر دیوبند کی دور رس نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ مسلمانوں کی مذہبی زبان عربی ہے اور ہندوستان میں فارسی کا بول بالا ہے؛ لیکن مستقبل میں ہندوستان کا لسانی نقشہ کچھ اور ہوگا۔ برطانوی حکومت ہندوستانیوں کی لسانیات پر حملہ کر کے جہاں ایک طرف انگریزی زبان و ادب کے فروغ کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی وہیں دوسری طرف ہندوستان پر حکومت کرنے کے لیے انھیں یہاں کی زبانیں جاننا بھی ضروری تھا۔ اردو اس وقت ایک غیر ترقی یافتہ زبان تھی۔ انگریزوں نے اردو زبان کی طرف توجہ دی اور اپنے ناپاک عزائم کو بروئے کار لانے کے لیے اردو سیکھنا شروع کیا اور اس کی تعلیم کو آسان کرنے کے لیے قواعد بھی مرتب کروائے۔

دارالعلوم دیوبند کا جو تالیسی دور ہے، وہ اردو کا ارتقائی دور کہلاتا ہے۔ اس وقت اردو زبان اپنے خدو خال کو آراستہ کرنے میں مصروف تھی۔ علمائے دیوبند نے محسوس کیا کہ اگرچہ عربی مسلمانوں کی دینی زبان ہے اور فارسی پر بھی مذہب کا لبادہ ڈال دیا گیا ہے؛ لیکن مستقبل قریب میں اردو کا بول بالا ہونے والا ہے، ہندوستان میں اگر کسی زبان کے ذریعہ اسلام کی خدمت ہو سکتی ہے، تو وہ اردو ہی ہے۔ اکابر دیوبند نے عربی اور فارسی جیسی شیریں اور ترقی یافتہ زبانوں کو اچانک نظر انداز کر کے اردو ہی کو ذریعہ تعلیم کیوں بنایا؟ ظاہر ہے کہ اسے علمائے دیوبند کی فراست ایمانی کا نتیجہ ہی کہا جاسکتا ہے؛ کیوں کہ اگر دارالعلوم دیوبند کا ذریعہ تعلیم عربی یا فارسی ہوتا، تو اس کا دائرہ سمٹ کر کتنا کم ہو جاتا، اس کا اندازہ ہندوستان کے موجودہ لسانی پس منظر میں بخوبی لگایا جاسکتا ہے۔

اردو کا ارتقاء اور علمائے دیوبند

دارالعلوم دیوبند کے اکابرین نے اپنے علمی و دینی فرائض کی ادائیگی کے لیے بنیادی طور پر جس زبان کو اختیار کیا وہ اردو زبان ہی تھی۔ علمائے دیوبند روحانی سرپرست سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی قدس سرہ کی

اردو تالیفات اور روح پرور و سوز شاعری، مؤثر زبان و بیان اور شعر و ادب کا بہترین نمونہ ہیں۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے دقیق علمی مباحث اور فلسفیانہ عمیق مضامین کو اسی زبان کے توسط سے علماء و عوام کے سامنے رکھا۔ حضرت نانوتوی نے اردو زبان کو ایک عوامی اور نونیز زبان کی سطح سے اوپر اٹھا کر علمی و فکری بلندی و چنگلی عطا کی۔ دارالعلوم دیوبند کے پہلے صدر مدرس مولانا محمد یعقوب نانوتوی نے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کی سوانح اس وقت لکھی جب خود اردو ادب سوانح نگاری کے نرالے اسلوب اور مثالی نمونوں سے خالی تھا، یہ سوانح اردو ادب کا شاہکار ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی قد آور شخصیت فقیہ النفس حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کا اسلوب نگارش آج بھی مسلم ہے، ان کی آراستہ و پیراستہ تحریر، شگفتہ و شائستہ اردو کا بہترین نمونہ ہے۔

حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن باکمال ادیب تھے، انہوں نے اپنی علمی تصانیف اور دردا انگیز شاعری کے ذریعہ اردو کی زبردست خدمت انجام دی ہے۔ محاورات اور روزمرہ کے استعمالات سے بھری ہوئی آپ کی تحریریں اردو کے لیے بیش قیمت سرمایہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے مہتمم مولانا حبیب الرحمن عثمانی کی مشہور تصنیف 'اشاعت اسلام' اپنی سلاست اور رواں دواں اردو کی وجہ سے امتیازی حیثیت کی حامل ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی ایک ہزار سے زائد تصانیف و رسائل اردو زبان کے فروغ میں کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ علامہ شبیر احمد عثمانی کا حاشیہ قرآن اردو میں نرالے طرز تحریر کی بنیاد پر قبولیت عام حاصل کر چکا ہے۔ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی کی خودنوشت سوانح 'نقش حیات' اردو زبان میں حقیقت نگاری اور شائستگی کا عمدہ نمونہ ہے۔ صاحب طرز ادیب مولانا مناظر احسن گیلانی بھی دارالعلوم ہی کے فرزند ہیں جنہوں نے اردو زبان و ادب پر اپنی خدمات کے گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔

اردو زبان میں تصنیف و تالیف

علمائے دیوبند نے عوام سے رابطہ، وعظ و تبلیغ، فتویٰ، دینی و ملکی معاملات میں قوم کی شرعی رہنمائی اور تذکیر و ترمیم کے لیے تصنیف و تالیف کا راستہ اختیار کیا اور اس سلسلے میں انہوں نے جو قابل قدر خدمات انجام دی ہیں وہ برصغیر کی تاریخ میں اپنی مثال آپ ہیں۔ تصنیف و تالیف کے میدان میں تنہا ایک بزرگ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی چھوٹی بڑی کتابوں کی تعداد ایک ہزار سے زائد ہے، دینی اور اصلاحی نقطہ نگاہ سے زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس میں حضرت تھانوی کی تصانیف موجود نہ ہوں وہ تصانیف کی کثرت اور افادیت کے لحاظ سے ہندوستانی مصنفین میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔

علمائے دیوبند نے درس و تدریس، وعظ و نصیحت اور دوسرے مشاغل کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف کے میدان میں بھی جو عظیم الشان کارنامے انجام دیئے ہیں وہ نہ صرف برصغیر کے مسلمانوں کے لیے بلکہ دنیائے اسلام کے لیے بھی ایک قابل فخر سرمایہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ علوم دینیہ سے متعلق کوئی علم و فن ایسا نہیں ہے جس میں ان کی

تصنیفات و تالیفات موجود نہ ہوں، ان میں بڑی بڑی ضخیم کتابیں بھی ہیں اور چھوٹے چھوٹے رسالے اور کتابچے بھی۔ یہ کتابیں زیادہ تر اردو زبان میں ہیں۔ علمائے دیوبند نے اردو زبان میں جو علمی و فکری اور دینی و ادبی سرمایہ تیار کیا ہے اس سے ایک عظیم الشان کتب خانہ تیار ہو سکتا ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق علمائے دیوبند کی چھوٹی بڑی اردو تصانیف کی مجموعی تعداد بارہ ہزار کے لگ بھگ ہے۔ علماء کی ان ہی خدمات کی بدولت آج اردو زبان میں اسلامی لٹریچر کا اتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے جو شاید عربی کے بعد دنیا کی کسی اور زبان میں موجود نہیں۔

علمائے دیوبند میں ایک بڑی تعداد ایسے علمائے کرام کی ہے جنہوں نے اردو زبان میں متعدد و قح کتابیں لکھی ہیں۔ ان میں صاحب معارف القرآن مفتی محمد شفیع صاحب، مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی، مولانا مناظر احسن گیلانی، مولانا بدر عالم میرٹھی، مولانا حفیظ الرحمن سیوہاروی، مولانا محمد میاں دیوبندی، مولانا طاہر دیوبندی، حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب، مولانا محمد منظور صاحب نعمانی، مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی، مولانا عبدالصمد رحمانی، مولانا یوسف لدھیانوی، شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندھلوی، مولانا سرفراز خان صفدر، مولانا سعید احمد اکبر آبادی، قاضی زین العابدین میرٹھی، مولانا حامد الانصاری غازی، مولانا احمد رضا بجنوری، قاضی اطہر مبارکپوری، مفتی عتیق الرحمن عثمانی، مولانا انظر شاہ کشمیری، مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی، مفتی عاشق الہی مدنی، مولانا مفتی ظفر الدین مفتاحی، مولانا حبیب الرحمن قاسمی اعظمی، مولانا مفتی تقی عثمانی، مولانا نظام الدین اسیر ادروی، مولانا اعجاز احمد اعظمی، مولانا عبدالحفیظ رحمانی، مولانا محمد عثمان معروٹی، مولانا محمد ابو بکر غازی پوری، مولانا اخلاق حسین قاسمی، مولانا عامر عثمانی، مفتی عزیز الرحمن بجنوری، سید محبوب رضوی، مولانا عبدالحفیظ رحمانی، مولانا عتیق الرحمن سنہلی، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، مفتی فضیل الرحمن ہلال عثمانی، مولانا نربان الدین سنہلی، مولانا عتیق احمد بستوی، مفتی محمد سلمان منصور پوری وغیرہ علمائے دیوبند نے اردو کے علمی و ادبی سرمایہ میں رنگارنگ اضافہ کر کے زبان و ادب کی گراں قدر خدمات انجام دی ہیں۔

دیوبند کے تقریباً ساٹھ کتب خانے اکابر دیوبند کی تصانیف کو چھاپنے اور شائع کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کتابوں کی اشاعت کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ دیوبند میں آفسیٹ پریس کی کئی مشینیں کتابوں کے چھاپنے میں مصروف رہتی ہیں۔ ان کتابوں کے قبول عام کا یہ عالم ہے کہ بہشتی زیور (حضرت مولانا اشرف علی تھانوی) کے کئی کئی ایڈیشن معری اور محشی بیک وقت مختلف کتب خانوں سے نکلتے رہتے ہیں۔ تعلیم الاسلام مصنفہ مولانا مفتی محمد کفایت اللہ دہلوی کی مقبولیت کا بھی یہی عالم ہے، اس کے بھی ایڈیشن پرائڈیشن نکلتے رہتے ہیں۔

علمائے دیوبند کی تصانیف برصغیر کے ملکوں کے علاوہ، افغانستان، برما، نیپال، سیلون، جنوبی افریقہ، انگلستان، امریکہ اور دوسرے بہت سے ملکوں تک پہنچتی اور ذوق و شوق کے ہاتھوں لی جاتی ہیں۔ دینی کتابوں کی کثرت اشاعت کی وجہ سے دیوبند ہندوستان بھر میں دینی کتابوں کا سب سے بڑا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ ان کتابوں کے ذریعے سے بہت سے ملکوں میں دینی علوم کے نشر و اشاعت کی زبردست خدمت دیوبند کی سر زمین سے انجام

پارہی ہے۔ دیوبند سے شائع ہونے والی کتابیں زیادہ تر اردو زبان میں ہوتی ہیں؛ اس لیے ان کتابوں کے ذریعے سے اردو زبان کا دائرہ بھی دن بدن وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔ ایشیا، افریقہ اور یورپی ملکوں کے کروڑوں مسلمان ان کتابوں سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اور بقول مرحوم پروفیسر ہمایوں کبیر ”اس ذریعے سے دنیا میں ہندوستان کی عظمت کو زبردست بڑھاوا مل رہا ہے، اور اس طرح سے اردو بین الاقوامی زبان بن گئی ہے۔“

حضرت تھانوی اور دیگر بزرگان دیوبند کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ انھوں نے اپنی تصنیفات کا حق محفوظ نہیں رکھا، بلکہ ان کو افادہ ملت کے لیے عام کر دیا ہے، ان بزرگوں کو تجارت اور منفعت مالی کبھی مقصود نہیں رہی، بلکہ اصل مقصد صرف افادہ و اصلاح رہا۔

دارالمصنفین دہلی

ندوۃ المصنفین، علمائے دیوبند کی تصنیفی و تالیفی اور علمی و تحقیقی ترکتازیوں کا ایک عظیم الشان مرکز تھا جس نے اردو میں علم و تحقیق اور تصنیف و تالیف کی دنیا میں ایک انقلاب پیدا کر دیا تھا۔ یہ عصری تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اردو میں کتاب و سنت اور سیر و تاریخ اسلام کی وسیع تر اشاعت کا ادارہ تھا جسے ۱۹۳۸ء میں قائم کیا گیا۔ یہ ادارہ حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمن عثمانی کی کوششوں کا ثمرہ تھا جس میں ان کے رفیق خاص حضرت مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی شریک تھے۔ دیگر رفقاء میں حضرت مولانا سعید احمد اکبر آبادی مدیر برہان، حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی، حضرت مولانا حامد الانصاری غازی، حضرت مولانا عبدالرشید نعمانی وغیرہ شامل تھے۔ ان میں آخر الذکر کے علاوہ بقیہ حضرات حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کے ہونہار تلامذہ اور دارالعلوم دیوبند کے قابل فخر فرزند تھے۔

اجتماعی اور منظم طور پر تصنیف و تالیف اور ریسرچ و تحقیق کا یہ پہلا ادارہ تھا جو علمائے دیوبند کے ذریعہ قائم کیا گیا۔ امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کے انداز فکر و نظر پر وقت کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اسلام کے احکام کی تشریح و تعبیر اور مستشرقین مغرب ریسرچ ورک کے پردے میں جو اسلامی علوم و روایات اور اسلامی تہذیب و تمدن پر جو ناروا حملے کرتے رہتے ہیں ان کی مدلل تردید اس کا مقصد قرار پایا۔

ان حضرات کی مساعی سے ندوۃ المصنفین نے اردو زبان میں نہایت مفید، تحقیقی اور علمی و ادبی لٹریچر شائع کیا۔ علوم کتاب و سنت کی ترویج و اشاعت کے سلسلے میں جو گراں قدر خدمات ندوۃ المصنفین نے انجام دی ہیں اس کی مثال کم ہی ملے گی۔ ندوۃ المصنفین سے ہر سال چار کتابیں شائع ہوتی تھیں اور ۱۹۸۴ء تک ڈھائی سو سے زیادہ کتابیں و قیغ کتابیں شائع ہو چکی تھیں۔ ان کتابوں میں ترجمان السنۃ، قصص القرآن، لغات القرآن، اسلام کا اقتصادی نظام، اسلام کا زرعی نظام، قرآن اور تصوف، سلاطین دہلی کے مذہبی رجحانات، عرب و ہند عہد رسالت میں، ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں کے عہد کے تمدنی کارنامے، مسلمانوں کی بحری سرگرمیاں، دیار پورب میں علم اور

علماء، صدیق اکبر، عثمان ذوالنورینؓ، اسلام میں غلامی کی حقیقت، غلامان اسلام، تاریخ ملت، قاموس القرآن، اسلام کا نظام حکومت، مسلمانوں کا عروج و زوال، اخلاق اور فلسفہ اخلاق، بلاغ مبین وغیرہ قابل ذکر ہیں۔

ندوة المصنفین کا دوسرا عظیم الشان کارنامہ ماہنامہ برہان کا اجرا ہے جو ابتدا ہی سے حضرت مولانا سعید احمد اکبر آبادی کی ادارت میں نکلتا تھا۔ یہ ملک کے صف اول کے علمی ماہناموں میں شمار کیا جاتا تھا اور اس کے نظرات اور مضامین اہل علم بڑے ذوق و شوق سے پڑھے جاتے تھے۔ (دیکھیں: قاضی زین العابدین میٹھی، ماہنامہ برہان، مفتی عتیق الرحمن عثمانی نمبر، ص ۴۴ تا ۴۵؛ روزنامہ الجمعیت، مجاہد ملت نمبر، فروری ۱۹۶۳ء ص ۱۷۱)

لیکن افسوس یہ عظیم الشان ادارہ حالات زمانہ کی نذر ہو گیا اور اس کی طبع کردہ کتابوں میں بہت سی عرصہ سے اب نایاب ہو چکی ہیں۔

ندوة المصنفین کے علاوہ، ڈابھیل کی مجلس علمی بھی فضلاء دارالعلوم کا قائم کیا ہوا ادارہ تھا جن سے بہت سی معیاری کتابیں شائع ہو کر علم دوست حلقہ سے خراج تحسین حاصل کر چکی ہیں۔ اسی طرح مطبع قاسمی دیوبند، تاج المعارف، شیخ الہند اکیڈمی، مکتبہ دارالعلوم وغیرہ اداروں سے بھی بہت سی کتابیں چھپ چکی ہیں۔

علمائے دیوبند کی اردو شاعری

علمائے دیوبند نے لطیف جذبات و خیالات کی ترجمانی کے لیے اردو شاعری کا بھی سہارا لیا ہے۔ درس و تدریس، وعظ و نصیحت اور تصنیف و تالیف کے ساتھ انھوں نے عروس شاعری کی زلفوں کو سنوارنے اور لیلائے سخن کو سجانے میں بھی بھرپور حصہ لیا ہے۔ علماء کے مزاج کے مطابق ان کی شاعری میں حقیقت پسندی، واقعہ نگاری، روحانیت اور اعلیٰ اخلاقی قدروں کا حسین و جمیل امتزاج پایا جاتا ہے۔ انھوں نے لایعنی اور مبتذل طریقوں سے ہٹ کر شاعری کو ہمیشہ اعلیٰ مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ نیز، شاعری کو انھوں نے مشغلہ کے طور پر نہیں اپنایا، بلکہ حسب ضرورت افکار و خیالات کے اظہار کے لیے اس کی مدد لی۔ یہی وجہ ہے کہ شعر و شاعری میں ان کے مجموعے اور دو این نہیں تیار ہوئے لیکن وہ اردو شاعری کی مختلف اصناف کی باریکیوں اور نزاکتوں سے نہ صرف پوری طرح واقف تھے بلکہ اس میں استاذانہ حیثیت رکھتے تھے۔

دارالعلوم دیوبند کے پہلے روحانی سرپرست سید الطائفہ حضرت الحاج مولانا امداد اللہ قدس سرہ کی روح پرور و پرسوز شاعری اردو زبان کی روحانی شاعری کا بہترین نمونہ ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اردو زبان کے قادر الکلام شاعر تھے، آپ کا طویل نعتیہ قصیدہ بہاریہ اردو زبان میں آپ کی قادر الکلامی اور مہارت فن کا شاہد عدل ہے۔ آپ کے بعض اشعار تو اپنی جامعیت اور لطیف استعارہ کی بنیاد پر اردو کے قد آور شعراء کے اشعار کے ہم پلہ ہیں۔ حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی اور حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندیؒ بھی قادر الکلام شاعر تھے۔ حضرت تھانویؒ اردو شاعری میں بھی اپنا ایک مقام رکھتے تھے آپ نے اپنے خاص مسترشد مولانا سید سلیمان ندوی کے خطوط

کے جوابات اکثر شاعری کے ذریعہ دیے ہیں۔

علاوہ ازیں، حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندی، مولانا احسان اللہ تاجور نجیب آبادی، مولانا عامر عثمانی، مولانا افضل الرحمن جوہر، مولانا مصطفیٰ حسن علوی کاکوروی، مولانا کاشف الہاشمی، مولانا نسیم احمد فریدی امرہوی، مولانا ریاست علی ظفر بجنوری، مفتی کفیل الرحمن نشاط، مولانا کفیل احمد علوی، مولانا صادق علی بستوی، مولانا عبدالجلیل راغبی، مولانا احسان حسن قاسمی، مولانا ولی اللہ ولی بستوی، مولانا فضیل عمر ناصری وغیرہ متعدد علمائے دیوبند ہیں جن کے مجموعہ کلام بھی طبع ہو چکے ہیں۔ جب کہ فضلاء دیوبند میں ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو شعر و ادب کا اچھا ذوق رکھنے کے ساتھ سخن سنجی اور شعر گوئی کا بھی خاص ملکہ رکھتے ہیں۔

اردو صحافت اور علمائے دیوبند

دارالعلوم اور اردو صحافت کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ میڈیا و صحافت کی اہمیت کے پیش نظر حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانی نے ۱۳۲۸ھ/۱۹۱۰ء میں ماہنامہ القاسم جاری کیا جسے ۱۳۳۱ھ میں دارالعلوم سے متعلق کر دیا گیا۔ اس رسالہ کے مضمون نگاروں میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، حضرت مولانا حسین احمد مدنی، مولانا اعجاز علی امرہوی، نوجوانوں میں مولانا قاری محمد طیب صاحب، مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندی، مولانا عبدالحفیظ در بھنگوی وغیرہ حضرات تھے۔ پھر ۱۳۳۲ھ/۱۹۱۴ء میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کی یاد میں ماہنامہ الرشید کا اجراء کیا گیا۔ حضرت مولانا سید میاں اصغر حسین دیوبندی، مولانا سید سراج احمد رشیدی، مولانا مناظر احسن گیلانی سے ان رسالوں کی ادارتی ذمہ داریاں منسلک تھیں اور یہ حضرات خصوصاً آخر الذکر مولانا گیلانی نے انھیں رسالوں میں لکھنا شروع کیا اور خوب لکھا۔ دونوں رسالے ۱۳۳۹ھ تک جاری رہ کر موقوف ہو گئے۔ ماہنامہ القاسم ۱۳۴۲ھ میں حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانی کی سرپرستی میں دوبارہ جاری کیا گیا لیکن ۱۳۴۷ھ تک شائع ہو کر بند ہو گیا۔ دوسرے دور میں اس کی ادارت کی ذمہ داری مولانا محمد طاہر قاسمی صاحب سے متعلق تھی۔

۱۳۶۰ھ/۱۹۴۱ء میں دارالعلوم کے نام سے ایک اردو ماہنامہ رسالہ جاری کیا گیا جو تاحال شائع ہو رہا ہے۔ اس رسالہ کے پہلے ایڈیٹر مولانا عبدالوحید غازی پوری (مدیر بانی نئی دنیا دہلی) قرار پائے، پھر قاضی خلیق احمد صدیقی سردھنوی اور مولانا عبدالحفیظ بلیاوی کو اس کا مدیر بنایا گیا۔ ۱۳۶۸ھ مطابق ۱۹۴۹ء میں اس رسالہ کی ادارت ابن الانور مولانا ازہر شاہ قیصر سے متعلق ہوئی جنھوں نے نہایت کامیابی کے ساتھ تقریباً تیس برسوں تک اس رسالہ کی ادارت کے فرائض انجام دیے۔ پھر کچھ عرصہ تک مولانا ریاست علی بجنوری مدیر مقرر ہوئے۔ ان کے بعد مولانا حبیب الرحمن قاسمی اعظمی تقریباً ۳۵ سال تک اس کے مدیر رہے۔ اس وقت یہ رسالہ مولانا محمد سلمان بجنوری کی زیر ادارت شائع ہو رہا ہے۔ (مزید تفصیلات نویں باب میں مدیران اردو رسائل کے عنوان کے تحت ملاحظہ فرما سکتے ہیں)

اسی طرح ۱۴۰۶ھ/۱۹۸۵ء میں دارالعلوم نے مولانا کفیل احمد علوی کی ادارت میں پندرہ روزہ آئینہ دارالعلوم کی اشاعت کا آغاز کیا تھا، جس کا سلسلہ ۱۴۳۰ھ/۲۰۰۹ء تک جاری رہا۔

دارالعلوم ہی کے طرز پر دیگر مدارس میں بھی اردو رسالہ شائع کرنے کا رجحان پیدا ہوا۔ چنانچہ ماہنامہ مظاہر علوم سہارن پور، ماہنامہ ندائے شاہی مراد آباد، ماہنامہ البلاغ دارالعلوم کراچی، بینات جامعہ بنوریہ کراچی، ماہنامہ الحق اکوڑہ خٹک، یادگار اسلاف میرٹھ، ریاض الجنتہ گورینی جون پور، ضیاء الاسلام اعظم گڑھ وغیرہ ایسے درجنوں رسائل ہیں جو ابتداءً دیوبند نے شروع کیے۔ اس وقت بہت سے مدارس اپنا ترجمان نکالتے ہیں جن کی ادارت کے فرائض ابتداءً دیوبند ہی ادا کرتے ہیں۔

علمائے دیوبند میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے جنہوں نے اپنے قیمتی مقالات اور زریں نگارشات سے اردو کی لازوال خدمات انجام دی ہیں ان میں مولانا حامد الانصاری غازی، مولانا سعید احمد اکبر آبادی، مفتی عتیق الرحمن عثمانی (برہان)، مولانا محمد منظور نعمانی، مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی (الفرقان)، مولانا عامر عثمانی (تجلی)، مولانا عبد الوحید صدیقی (نئی دنیا)، مولانا نظام الدین اسیر ادروی (ترجمان الاسلام)، مولانا اعجاز احمد اعظمی (المآثر و ضیاء الاسلام)، مولانا حبیب الرحمن قاسمی (ماہنامہ دارالعلوم)، مولانا عتیق الرحمن سنہلی (الفرقان)، مولانا عبد العلی فاروقی (الہدیر)، مولانا محمد ہاشم القاسمی (الفیصل)، مولانا اسرار الحق قاسمی (ملی اتحاد) مولانا رضوان قاسمی (صفا)، مولانا اعجاز احمد قاسمی، مولانا شاہین جمالی (دیوبند ٹائمز)، مولانا کفیل احمد علوی (آئینہ دارالعلوم)، مولانا محمد سالم جامعی قاسمی (الجمعیۃ)، مولانا سلمان منصور پوری (ندائے شاہی)، مولانا فضیل احمد (کردار جمعیۃ) مولانا افضال الحق جوہر قاسمی، مولانا وارث مظہری (ترجمان دارالعلوم)، مولانا عبد اللہ خالد (مظاہر علوم)، مولانا انیس آزاد بلگرامی (تنویر حرم)، حقانی القاسمی (استعارہ)، مولانا ابوالکلام قاسمی (تہذیب الاخلاق)، مفتی فضیل الرحمن ہلال عثمانی (تعمیر سیرت، دارالسلام)، مولانا احمد خضر کشمیری، مولانا عبد الرشید بستوی (محدث عصر)، مولانا ندیم الواجدی (ترجمان دیوبند)، مولانا اعجاز عرفی قاسمی (فکر انقلاب)، مولانا آس محمد گلزار قاسمی (یادگار اسلاف)، مولانا ضیاء الحق خیر آبادی (ضیاء الاسلام)، مولانا محمد ساجد کھجواوری (صدائے حق)، مولانا نور عالم غلیل امینی، مولانا عبد الحمید نعمانی، مولانا حسن الہاشمی، مولانا نسیم اختر شاہ قیصر وغیرہ کے علاوہ سیکڑوں فضلاء دیوبند اردو زبان و ادب کی عظیم الشان خدمات انجام دے رہے ہیں۔ علاوہ ازیں ہندوستان کے معاصر اخبارات و رسائل میں جو مقالات و مضامین شائع ہوتے ہیں ان میں لکھنے والوں میں ایک بڑی تعداد فضلاء دیوبند کی ہوتی ہے۔

اردو اور مدارس اسلامیہ

دارالعلوم دیوبند کے قیام کے نتیجہ میں ہندوستان کے چھپے چھپے میں دینی مدارس کا جال پھیلا ہوا ہے اور جملہ

مدارس دارالعلوم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنا ذریعہ تعلیم اردو کو بنا کر زبان و ادب کی ایک وسیع اور قابل قدر خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اگرچہ ہندوستان کی مختلف ریاستوں کی زبانیں مختلف ہیں؛ لیکن ہر جگہ کے مدارس میں ذریعہ تعلیم اردو ہی ہے۔ یہاں تک کہ مغربی بنگال اور آسام سمیت بنگلہ دیش کے مدارس میں بھی دارالعلوم کے نسخ پر اردو ہی میں درس دیا جاتا ہے؛ حتیٰ کہ خود ساوتھ افریقہ اور برطانیہ وغیرہ میں جو مدارس ہیں ان میں سے اکثر کا ذریعہ تعلیم اردو ہی ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ تقسیم وطن کے بعد اردو زبان کے ساتھ ہندوستان میں جس طرح کا سوتیلارویہ اپنایا گیا اور اردو زبان تقسیم کا شکار ہو گئی، اگر مدارس اسلامیہ عربیہ نہ ہوتے یا اہل مدارس کی توجہ اردو کی طرف نہ ہوتی تو اس کا وجود آج ہندوستان میں اسی طرح کا ہوتا جیسے اس وقت فارسی کا ہے۔

آج اگر اردو ایک زندہ زبان کی حیثیت سے ترقی کی منازل طے کر رہی ہے، تو اس میں اہل مدارس کا نہایت نمایاں کردار ہے۔ فضلاء دارالعلوم ملک و بیرون ملک کے مختلف مدارس میں شعر و شاعری، نثر نگاری و انشا پردازی، تصنیف و تالیف، تراجم و تشریحات اور ماہانہ و ہفتہ وار رسائل کے ذریعہ اردو کی وسیع اور پروقار خدمات انجام دے رہے ہیں۔ حدیث و تفسیر اور فقہ و فتاویٰ کے جو کام اردو زبان میں علمائے دیوبند کے ذریعہ ہوئے ہیں، وہ اردو زبان کو عروج بخشنے میں کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر بحیثیت مجموعی دیکھا جائے تو اردو زبان کا تعلق تین بڑے اداروں سے ہے۔ ایک طرف دارالعلوم دیوبند اور مسلک دیوبند کی پابندی کرنے والے ادارے ہیں، دوسری طرف علی گڑھ اور اس کی جدید علمی روایت کا ساتھ دینے والے ادارے ہیں اور تیسری طرف ندوۃ العلماء اور اس کے حلقہ فکر و نظر سے تعلق رکھنے والے ادارے ہیں؛ لیکن اردو زبان و ادب کی خدمت میں دیوبند کو ترجیحی حیثیت اس وجہ سے حاصل ہے کہ یہاں کے علماء کی اردو تصنیفات دیگر اداروں کے مقابلہ میں کہیں زیادہ ہیں۔

اردو اور مسلمان

اردو زبان مسلمانوں کی زبان ہے، یہ کہنا سراسر غلط ہے۔ ہندوستان کی مقامی زبانیں پراکرت، اپ بھرنش، سنسکرت اور پنجابی کے ساتھ عربی و فارسی کے باہمی اختلاط سے اردو زبان وجود میں آئی ہے۔ اس کی پیدائش سے لے کر ارتقا کی تمام منزلوں کو طے کرنے میں ہندو، مسلمان، بدھ، جین، عیسائیوں اور پادریوں کا یکساں کردار رہا ہے؛ لیکن اردو زبان مذہبی عصبیت کا اس وقت شکار ہوئی جب آزادی سے قبل ہی ہندوؤں کا ایک رجعت پسند طبقہ ہندو راشٹر کا تصور لے کر وجود میں آیا اور جس نے ملک کی یکجہتی کو پارہ پارہ کرنے کے لیے نفرت کا بیج بونا شروع کیا۔ اس طبقہ نے ہندوؤں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ اردو کا رسم الخط عربی رسم الخط کے مشابہ ہے اور مسلمانوں کے مذہبی رہنما اس زبان کو اپنا ذریعہ تعلیم بنائے ہوئے ہیں۔ ہندو قوم پرست جماعت اپنی اس تحریک میں بہت حد تک کام یاب ہو گئی اور اردو جو ہندوستانی روایت کی امین اور قومی یکجہتی کی واضح علامت تھی، وہ بری طرح مذہبی منافرت اور فرقہ وارانہ عصبیت کا شکار ہو کر رہ گئی۔

خلاصہ کلام

خلاصہ یہ کہ مختلف جہتوں سے اردو زبان و ادب کے سلسلے میں دارالعلوم دیوبند کی بے مثال خدمات کا اگر گہرائی کے ساتھ جائزہ لیا جائے، تو ہزاروں صفحات پر مشتمل ضخیم کتاب تیار ہو سکتی ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے علمی، دینی، سیاسی اور سماجی میدانوں کے ساتھ ساتھ اردو زبان و ادب میں بھی اپنی زریں خدمات کے گہرے نقوش چھوڑے ہیں جنہیں کسی طرح فراموش نہیں کیا جاسکتا۔

تفصیلات کے لیے دیکھیں:

- دارالعلوم دیوبند: ادبی شناخت نامہ، حقانی القاسمی
- دارالعلوم دیوبند کا صحافتی منظر نامہ، نایاب حسن قاسمی
- علمائے دیوبند اور اردو ادب، مولانا عبداللہ حیدر آبادی

تحریک آزادی ہند اور علمائے دیوبند

دارالعلوم دیوبند کا قیام جہاں مسلمانوں کے اندر اسلامی تہذیب و تمدن کو بحال کرنے، علوم شرعیہ سے آگاہ کر کے جوہر اسلام کو اجاگر کرنے اور اس کے بتائے ہوئے سیدھے خطوط پر چلنے کے لئے ہوا تھا، وہیں ہندوستان کو انگریزوں کے جبر و استبداد سے نجات دلانے اور مغربیت سے دور رکھ کر انگریزوں کی کوشش کو ناکام کرنا بھی اس کا ایک اہم مقصد تھا۔ انگریزوں کی فرعونیت کو ختم کرنے کے لئے دارالعلوم ایک ضرب کلیم ثابت ہوا جس کی مجاہدانہ و سرفروشانہ کوششوں نے ہندوستان میں انگریزوں کا جینا دو بھر کر دیا۔ ہندوستان کی طویل جدوجہد آزادی میں ہمارے اسلاف نے زبردست قربانیاں دیں؛ انھوں نے تحریکیں چلائیں، تختہ دار پر چڑھے، قید و بند کی صعوبتیں جھیلیں اور حصول آزادی کی خاطر میدان جنگ میں ڈٹے رہے تا آں کہ قابض غیر ملکی (انگریز) ملک سے نکل جانے پر مجبور ہوئے۔ فرزند ان دیوبند نے انگریزوں کے خلاف محاذ آرائیاں کر کے جو کارہائے نمایاں انجام دیئے ہیں وہ تاریخ حریت ہند کا روشن باب ہیں۔

مسلمانوں کے دور حکومت میں ہندوستان کی ترقی و خوشحالی کو دیکھ کر انگریزوں نے بڑی چالاک اور عیاری کے ساتھ پہلے اس ملک میں تجارت کے نام پر اڑے بنانے کی اجازت حاصل کی اور پھر بعد میں مسلم حکومت کے کمزور ہوتے ہی انھوں نے اپنے آپ کو مسلح اور مستحکم کرنا شروع کر دیا۔ بنگال میں انگریزوں کے توسیعی منصوبوں کو بھانپتے ہوئے نواب سراج الدولہ نے ۱۷۵۷ء میں ان سے باقاعدہ جنگ کی۔ دوسری طرف جنوب میں سلطان حیدر علی اور سلطان ٹیپو نے انگریزوں کی پیش قدمی کو روکنے کی بھرپور کوشش کی جس میں بالآخر سلطان ٹیپو ۱۷۹۹ء میں شہید ہو گئے۔

ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد انگریزوں کے حوصلے بڑھ گئے اور ملک میں انھیں چیلنج کرنے والی کوئی طاقت نہیں تھی۔ انگریزوں نے سیاسی اثرات بڑھانے کے ساتھ ساتھ مشنری اور تبلیغی سرگرمیاں شروع کر رکھی تھیں۔ بالآخر ملک کے سنگین حالات کے پیش نظر، تحریک ولی اللہی کے قائد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی (م ۱۸۲۳ء) نے ۱۸۰۳ء میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا مشہور فتویٰ دیا، جس میں ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا گیا۔ اسی پس منظر میں سید احمد شہید رائے بریلوی کی تحریک شروع ہوئی جس نے سرحدی علاقوں میں انگریزوں کے حلیف سکھوں کے ساتھ تاریخی جہاد چھیڑا اور ۱۸۳۱ء میں حضرت سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید وغیرہ حضرات نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔

۱۸۵۷ء میں ہندوستان کی آزادی کے لیے ملک کے طول و عرض میں جو سب سے بڑی مسلح جنگ لڑی گئی اس

میں اکابرین دیوبند نے بھی بڑی سرگرمی سے حصہ لیا اور شامی و تھانہ بھون کے محاذ پر انگریزی فوجوں سے لوہا لیا۔

معرکہ ۱۸۵۷ء میں اکابرین دیوبند کی شرکت

۱۸۵۷ء میں انگریزی اقتدار سے ہندوستان کی آزادی کے لیے دارالعلوم کے اکابر بالخصوص حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کئی (عمر ۴۲ سال)، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی (عمر ۲۵ سال)، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی (عمر ۲۹ سال) وغیرہ حضرات نے سرفروشانہ جدوجہد رقم کی۔ میرٹھ اور دہلی میں انگریزوں کے خلاف مسلح جدوجہد کے موقع پر ضلع مظفرنگر کے تاریخی قصبہ تھانہ بھون کے ایک اجتماع میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کئی کے ہاتھ پر بیعت امارت کر کے ان کو امیر منتخب کیا گیا اور اسی وقت انگریزی حکومت کے ختم ہونے کا اعلان کر دیا گیا اور آزادی وطن کے لیے جانناز مجاہدین کی جماعت بنائی گئی۔ حضرت حافظ ضامن شہید گو صدر مجلس جنگ، حضرت نانوتوی کو چیف کمانڈر، مولانا محمد منیر نانوتوی کو معاون کمانڈر اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کو فوجی سکریٹری بنایا گیا۔

اتفاق سے اسی زمانے میں انگریزی فوج کے چند سوار کھاروں کے کندھوں پر کارتوسوں کی ہتھکیاں لدوائے ہوئے سہارن پور سے کیرانہ جا رہے تھے، جماعت مجاہدین کے لیے یہ بڑا اچھا موقع تھا، انھوں نے سواروں پر حملہ کر کے ہتھیار چھین لیے۔ انگریزی افسر جو ساتھ تھے مقابلے میں مارے گئے۔ اس کامیابی کے بعد مجاہدین نے قریب کی تحصیل شامی پر حملہ کیا جس میں انگریزوں کی ایک چھوٹی سی فوج رہتی تھی۔ تحصیل کو انگریزی فوج نے قلعے کی طرح مستحکم کر کے دروازہ بند کر لیا۔ مجاہدین چوں کہ کھلے میدان میں تھے، اس لیے انھیں انگریزی فوج کی گولیوں سے بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ اس نازک موقع پر حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے بڑی جرأت و دلیری سے کام لے کر تحصیل کے پھاٹک کو آگ لگا دی۔ مجاہدین آگ کے شعلوں ہی میں تحصیل کے اندر گھس گئے۔ بڑا سخت معرکہ پڑا۔ دست بدست جنگ کے بعد محصورین ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے۔ عین اس وقت جب انگریزی فوجی ہتھیار ڈال رہے تھے حضرت حافظ ضامن انگریزی فوج کی گولی سے شہید ہو گئے۔ کچھ روایات کے مطابق یہ معرکہ تین دن تک جاری رہا۔ انگریزی وقائع نگار ہنری جارج کین کے مطابق اس لڑائی میں ۱۱۳ محصورین مارے گئے۔

یہ واقعہ ۲۴ محرم ۱۲۷۴ھ دوشنبہ (۱۴ ستمبر ۱۸۵۷ء) کا ہے۔ مجاہدین کی یہ جماعت انگریزی فوج پر غالب آگئی اور تحصیل پر قبضہ کر لیا اور عمارت کو توڑ پھوڑ کر کھنڈر بنا دیا۔ لیکن یہ جنگ ایک محاذ کی جنگ نہ تھی، یہ جنگ تو پورے ملک میں لڑی جا رہی تھی۔ سوائے اتفاق یہ کہ فتح شامی کے دن ہی ۱۴ ستمبر کو انگریزی فوج دہلی میں داخل ہو کر لال قلعہ پر قابض ہو گئی۔ بد قسمتی سے ہندوستانی عوام اس وقت اپنی طاقت کو منظم نہ کر سکے اور نتیجےً انگریزوں کا پورے ملک پر تسلط قائم ہو گیا۔

انگریزوں نے دہلی پر قبضہ کرنے کے بعد اطراف و جوانب کے باغیوں کی سرکوبی کی مہم بڑے پیمانے پر شروع کی۔ انگریزوں کی اس فہرست میں تھانہ بھون اور شامی بھی تھا۔ انگریزوں نے اس حملہ کا سخت انتقام لیا اور

تھانہ بھون کو بری طرح تباہ و برباد کر دیا۔ جنگ میں حصہ لینے والے تمام مجاہدین کے خلاف وارنٹ جاری ہوا۔ اسی لیے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب ہجرت کر کے چھپ چھپا کر مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی گرفتار ہو کر جیل میں قید کیے گئے لیکن چھ ماہ کے بعد رہائی پائی۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کے خلاف بھی وارنٹ جاری ہوا لیکن دو سال تک انگریزوں کے ہاتھ نہیں آئے، پھر بالآخر حکومت برطانیہ نے ایسٹ انڈیا کمپنی سے حکومت کی باگ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لی اور عام معافی کا اعلان کر دیا۔ (۱)

دارالعلوم دیوبند: مجاہدین حریت کی چھاؤنی

جہاد ۱۸۵۷ء کی ناکامی اور سلطنت مغلیہ کے زوال کے بعد، مسلمان طبقہ خاص طور پر انگریزوں کی انتقامی کارروائی کا سب سے زیادہ نشانہ بنا۔ انگریزوں نے علماء و امراء کی ایک بڑی تعداد کو قتل کر دیا، مدارس و معابد تباہ و برباد کر دیے اور اسلامی تہذیب و ثقافت کو ختم کرنے کا تہیہ کر لیا۔ ایسے ناگفتہ بہ حالات میں اکابرین دیوبند نے ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کے مقصد سے تعلیمی تحریک برپا کرنے کا فیصلہ کیا اور دارالعلوم دیوبند اس سلسلہ کی پہلی کڑی تھی۔ سیاسی زوال نے مسلمانوں کو بے چارگی و مجبوری اور بے چینی و پریشانی کے جس عالم میں پہنچا دیا تھا، دارالعلوم دیوبند کے قیام سے انھیں سکون و اطمینان اور قرار نصیب ہوا۔ اور پھر تاریخ نے ثابت کر دیا کہ علماء نے فراست ایمانی سے جو فیصلہ کیا تھا اس کے بالکل صحیح نتائج برآمد ہونے شروع ہو گئے۔ جہاں ایک طرف دارالعلوم دیوبند نے دینی تعلیم کے فروغ، عقائد صحیحہ و اسلامی تعلیمات کی اشاعت، مسلمانوں کے دینی تشخص کی حفاظت اور اسلامی علوم و فنون کی ترقی و آبیاری میں بھرپور حصہ لیا وہیں دوسری طرف مجاہدین اور سرفروشنوں کی ایک جماعت پیدا کی جس نے آزادی کے مبارک جذبہ کو نہ صرف زندہ رکھا بلکہ انگریزی سامراج کا اس وقت تک تعاقب کرتے رہے جب تک وہ اس ملک کو چھوڑ کر نہ چلا گیا۔

ان علماء و اکابر کو اگرچہ میدان جنگ میں شکست ہو چکی تھی لیکن ان کا تصور آزادی فنا نہیں ہوا تھا۔ ۱۸۵۷ء کے بعد صرف یہی جماعت تھی جس نے آزادی کے تصور کو ہندوستان میں زندہ رکھا۔ یہی نہیں بلکہ انگریز دشمنی اور آزادی وطن کے جذبے میں جو حرارت، طاقت اور عمومیت پیدا ہوتی گئی وہ ان ہی حضرات کی پیہم کوششوں کا نتیجہ ہے۔

تحریک شیخ الہند

جہاد ۱۸۵۷ء کے بعد پہلے مرحلے میں دارالعلوم کا قیام عمل میں آیا۔ دارالعلوم نے خاموشی سے تقریباً پون صدی تک افراد کی تیاری پر توجہ مرکوز رکھی۔ بالآخر دارالعلوم دیوبند کے پہلے سپوت شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی کی مجاہدانہ سرگرمیوں سے یہ تحریک دوسرے مرحلے میں داخل ہوئی جس کو تحریک شیخ الہند یا عرف عام میں تحریک ریشمی رومال کہا جاتا ہے۔

تحریک شیخ الہند کی ابتدا بیسویں صدی کے دوسرے عشرے میں ہوئی جب شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی کے شاگردوں اور متوسلین کی ایک بڑی جماعت اس انقلابی تحریک سے وابستہ ہو چکی تھی۔ شیخ الہند کے نمائندے ملک کے اندر اور ملک کے باہر افغانستان، آزاد علاقہ، صوبہ سرحد اور حجاز کے اندر سرگرم اور فعال تھے۔ اس تحریک میں اہم رول آپ کے شاگرد مولانا عبید اللہ سندھی نے ادا کیا۔ شیخ الہند نے مولانا سندھی کو کابل اس مشن پر بھیجا کہ حکومت افغانستان کو ہندوستان کی تحریک آزادی میں اخلاقی اور فوجی امداد دینے کے لیے تیار کر لیا جائے۔ اسی درمیان مولانا سندھی نے کابل میں ایک عارضی حکومت ہند قائم کی جس کے تین رکن تھے؛ راجہ مہندر پرتاپ سنگھ صدر، مولانا برکت اللہ بھوپالی وزیر اعظم اور مولانا عبید اللہ سندھی وزیر ہند۔ اس عارضی حکومت نے مختلف ممالک میں اپنے وفد روانہ کر کے انگریزوں کے خلاف رائے عامہ کو ہموار کرنے کی کوشش کی۔ اسی سلسلہ میں ایک وفد روس بھیجا گیا، اس کے بعد دو وفد ترکی اور جاپان کے لیے روانہ کیے گئے۔ ترکی جانے والے وفد میں عبدالباری اور شجاع اللہ اور جاپان جانے والے وفد میں شیخ عبدالقادر اور ڈاکٹر مہر سنگھ شامل تھے۔ جاپان جانے والے وفد کو گرفتار کر کے روسی حکام نے برطانیہ کے حوالے کر دیا اور بد قسمتی سے ترکی جانے والا وفد بھی برطانوی حکام کے قبضہ میں آ گیا۔ ان کے بیانات سے سارے واقعات انگریزوں کے علم میں آ گئے۔ انھیں دنوں مشہور ترک جرمن مشن افغانستان آیا جس کا مقصد افغانستان کو برطانیہ کے خلاف لڑنے پر آمادہ کرنا اور جنگ عظیم میں شامل کرنا تھا۔

تحریک آزادی کے لیے حضرت شیخ الہند نے اپنا مرکز بھی سرحدی علاقہ کو بنایا تھا۔ انگریزوں سے مقابلہ میں مجاہدین وہاں پہلے سے متحرک تھے۔ افغانی قبائل کو جہاد کی دعوت دینے اور ان کو متحد و متفق رکھنے کے لیے حاجی ترنگ زئی، عبدالرحیم سندھی وغیرہ متعدد افراد اس علاقہ میں کام کر رہے تھے۔ مرکز یا غستان سے تقاضہ ہو رہا تھا کہ حضرت شیخ الہند وہاں تشریف لے جائیں، تو مجاہدین کا اجتماع اور زیادہ ہو جائے گا، آپس کے تفرقہ کا خطرہ نہ رہے گا، اور کاروبار جہاد میں پختگی آ جائے گی؛ لیکن مجاہدین اور ضروریات جہاد کے لیے غیر معمولی امداد کی بھی ضرورت تھی اور حضرت کے علاوہ اور کوئی ایسا نہ تھا کہ لوگ اس کی شخصیت سے متاثر ہوں اور محض خفیہ اشارہ پر غیر معمولی امداد پیش کر دیں۔ لہذا حضرت نے فیصلہ کیا کہ کسی باقاعدہ حکومت کو آمادہ کیا جائے کہ وہ پشت پناہی کرے۔ اس مرحلہ پر حضرت نے یاغستان کے بجائے حجاز کا ارادہ کیا کہ ترکی حکومت سے رابطہ قائم کریں۔

اسی مقصد کے لیے حضرت شیخ الہند ۱۹۱۵ء میں حجاز تشریف لے گئے اور وہاں دو سال تک ان کا قیام رہا۔ حجاز میں خلافت عثمانیہ کے ذمہ داروں سے خصوصاً غالب پاشا گورنر مدینہ اور خلافت عثمانیہ کے وزیر الحرب انور پاشا وغیرہ سے رابطہ کیا اور انھیں ہندوستان کی صورت حال سے آگاہ کیا اور اپنے منصوبہ سے واقف کرایا۔ ان دونوں نے شیخ الہند کے خیالات سے اتفاق کرتے ہوئے، ان کے منصوبے کی تائید کی اور برطانوی حکومت کے خلاف اپنے اور اپنی حکومت کے تعاون کا یقین دلایا۔ غالب پاشا نے تائید و تعاون پر مشتمل ایک خط آپ کو لکھ کر دیا جس

میں انھوں نے حضرت شیخ الہند کی شخصیت پر اعتماد کا اظہار اور اہل ہند سے ان کی مدد کی اپیل تھی۔ اس خط کو ہندوستان کی تحریک آزادی میں غالب نامہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ ترکی سپہ سالار غازی انور پاشا کے پیغام کا مضمون بھی وہی تھا جو غالب نامہ کا تھا یعنی اس میں ہندوستانیوں کے مطالبہ آزادی کی تحسین کی گئی تھی، اور اپنی طرف سے امداد و اعانت کا وعدہ تھا اور ہر شخص کو جو ترکی کی رعیت یا ملازم ہو حکم تھا کہ مولانا محمود حسن صاحب پر اعتماد کرنے اور ان کی اعانت میں حصہ لینے کی تاکید تھی۔ یہ فرامین صندوق کی تلی میں پیوست کر کے ہندوستان پہنچائے گئے۔ پھر ان کے نوٹوں لیے گئے اور ان کو افغانستان و پاکستان کے جہادی مراکز پہنچایا گیا۔

مولانا عبید اللہ سندھی نے حضرت شیخ الہند کو حالات سے مطلع کرنے کے لیے ریشمی کپڑے کے تین ٹکڑوں پر خط لکھ کر جولائی ۱۹۱۶ء میں عبدالحق نامی ایک نو مسلم نوجوان کو دیا اور اس کو ہدایت کر دی کہ یہ خطوط شیخ عبدالرحیم سندھی کو پہنچادیں تاکہ وہ ان خطوط کو مدینہ روانہ کر دیں۔ ایک روایت کے مطابق یہ خطوط مولانا منصور انصاری نے لکھے تھے۔ بہر حال یہ خطوط ملتان کے خان بہادر رب نواز خاں کو ہاتھ لگ گئے اور اس نے ملتان ڈویژن کے انگریز کمشنر کو یہ خطوط حوالے کر دیے۔ بعد میں پنجاب سی آئی ڈی نے اس سلسلہ میں تحقیقات کیں۔ انگریزوں نے ان کاروائیوں اور مقدمات کو ریشمی رومال سازش کیس (Silk Letter Conspiracy Case) کا نام دیا اور اسی بنیاد پر اس کو تحریک ریشمی رومال کہا جانے لگا۔ اس کیس سے متعلق تمام امور کی تفصیل انڈیا آفس لائبریری لندن کے پولیٹیکل اور سیکریٹ شعبہ میں محفوظ ہے۔

مولانا عبید اللہ سندھی نے یہ خطوط زرد رنگ کے ریشمی کپڑے کے تین ٹکڑوں پر لکھے تھے اور یہ تاریخی و سیاسی اعتبار سے اہمیت کے حامل ہیں۔ ان میں سے پہلا خط شیخ عبدالرحیم سندھی کے نام تھا۔ یہ خط حضرت مولانا شیخ الہند کو مدینہ بھیجنا تھا اور حضرت شیخ الہند کو خط کے ذریعہ بھی اور زبانی بھی آگاہ کر دیں کہ وہ کابل آنے کی کوشش نہ کریں۔ دوسرا خط حضرت شیخ الہند کے نام تھا جس کے سلسلہ میں ہدایت تھی کہ تحریک کے ممتاز کارکنوں کو بھی یہ خط دکھا دیا جائے۔ اس خط میں رضا کار فوج جنود اللہ اور اس کے ۱۰۴ افسروں کا ذکر تھا جن کی فوجی تربیت اور ذمہ داری لکھی گئی تھی۔ اس میں راجہ مہندر پرتاب سنگھ کی سرگرمی، عارضی حکومت کا قیام، روس و جاپان اور ترکی و فوڈ کی تفصیل بیان کی گئی تھی۔

تیسرا خط بھی حضرت شیخ الہند کے نام تھا۔ اس خط میں تحریر تھا کہ ہندوستان میں تحریک کے کون کون سے کارکن سرگرم ہیں اور کون کون سے لوگ سست پڑ گئے ہیں۔ اس میں مولانا آزاد اور مولانا حسرت موہانی کی گرفتاری کی اطلاع بھی تھی۔ اس میں مہمند اور سوات کے علاقوں میں مجاہدین کی سرگرمیوں، جرمن ترک مشن کی آمد اور اس کے ناکام ہونے کے اسباب اور افغانستان کو جنگ میں شریک ہونے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اس کی تفصیل بھی درج تھی۔ ساتھ ہی حضرت شیخ الہند کو یہ مشورہ دیا گیا کہ وہ مدینہ منورہ میں ٹھہر کر ترکی، افغانستان اور ایران میں معاہدہ کرانے کی کوشش کریں۔ اس خط میں حضرت شیخ الہند سے یہ بھی گزارش کی گئی تھی کہ وہ ہندوستان

نہ آئیں، حکومت نے ان کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔

اسی زمانہ میں انگریزوں سے مل کر مکہ کے گورنر شریف حسین نے ترکی حکومت کے خلاف بغاوت برپا کر دی۔ شریف حسین کے سرکاری علماء نے ایک استفتاء اور اس کا جواب مرتب کرایا، جس میں ترکی فوج کی تکفیر تھی، سلاطین آل عثمان کی خلافت سے انکار کیا گیا تھا اور شریف حسین کی بغاوت کو حق بجانب اور مستحسن قرار دیا گیا تھا۔ شریف حسین سے تعلق رکھنے والے بہت سے علماء نے اس پر دستخط کر دیے تھے؛ لیکن علماء کی کثیر تعداد متردد اور خائف تھی۔ حضرت شیخ الہند کے سامنے یہ فتویٰ پیش کیا گیا تو حضرت نے اس پر تائیدی دستخط کرنے سے سختی سے انکار کر دیا۔ آپ کے انکار پر تمام حق پرست علماء کی ہمت بلند ہو گئی، جو حضرات متردد اور خائف تھے، ان سب نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ فتویٰ پر دستخط نہ کرنے کی وجہ سے حکومت برطانیہ کے اشارے پر شریف حسین نے گرفتاری کے احکام جاری کر دیے، حضرت شیخ الہند طائف میں ۱۵ فروری ۱۹۱۷ء کو گرفتار کر لیے گئے اور وہاں سے بحیرہ روم میں واقع جزیرہ مالٹا روانہ کر دیے گئے جو برطانیہ کے سیاسی اور جنگی قیدیوں کا مرکز تھا۔ وہاں سخت تکلیف کی زندگی گزارنے کے بعد ۸ جون ۱۹۲۰ء کو تین برس سات مہینے کی اسارت کے بعد بمبئی پہنچا کر آپ کو رہا کیا گیا۔

دوسری طرف ریشمی رومال خطوط کی روشنی میں ہندوستان میں بھی حکومت نے نہایت ہی تیزی سے کارروائی شروع کی، چھاپے مارے اور گرفتاریاں شروع کیں۔ ۲۲۲ افراد کے خلاف انکوائری اور پوچھ تاچھ کی گئی۔ ۱۵۹ اشخاص پر حکومت برطانیہ کا تختہ الٹنے کا اور غیر ممالک سے امداد حاصل کرنے کی سازش کا مقدمہ قائم کیا گیا۔ ادھر افغانستان میں بھی امیر حبیب اللہ کی رائے بدل گئی، اس نے انگریزوں کے دباؤ پر مولانا عبید اللہ سندھی اور ان کے ساتھیوں کی گرفتاری اور نظر بندی کا حکم جاری کر دیا۔

جنگ عظیم کی ابتدا، عربوں کی ترکوں کے خلاف بغاوت، امیر حبیب اللہ کی طوطا چاشمی اور دوسرے اسباب کی بنیاد پر تحریک ریشمی رومال اپنے انقلابی مقاصد کو پورا کرنے میں ناکام رہی، لیکن اس تحریک کی تفصیلات سے بورنیہ نشین علماء کی بلندی فکر، مجاہدانہ اولوالعزمی اور ان کے تدبیر و سیاست کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کی تحریک آزادی کی تاریخ میں تحریک ریشمی رومال ایک تابناک باب کی حیثیت رکھتی ہے۔

شیخ الہند کی اس تحریک میں مولانا منصور انصاری، مولانا فضل ربی، مولانا فضل محمود، حاجی ترنگ زئی، مولانا محمد اکبر کا شمار اہم ارکان میں تھا۔ مولانا عبدالرحیم رائے پوری، مولانا محمد احمد چکوالی، مولانا محمد صادق کراچوی، شیخ عبدالرحیم سندھی، مولانا احمد اللہ پانی پتی، ڈاکٹر مختار احمد انصاری وغیرہ نے اپنا تعاون پیش کیا۔ ان کے علاوہ مولانا محمد علی جوہر، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا احمد علی لاہوری، حکیم اجمل خان وغیرہ بھی آپ کے مشیر و معاون تھے۔ مالٹا کے اسارت خانہ میں حضرت شیخ الہند کے ساتھ آپ کے دیگر رفقاء حضرت مولانا حسین احمد مدنی، مولانا عزیز گل پشاوری، مولانا حکیم نصرت حسین امر وہوی، مولانا وحید احمد فیض آبادی وغیرہم بھی قید کیے گئے تھے۔

حضرت شیخ الہند نے مالٹا سے واپسی کے بعد ملک کی آزادی میں سرگرم حصہ لیا۔ مالٹا میں اسارت کے

زمانے میں حضرت شیخ الہند نے محسوس کر لیا تھا کہ ہندوستان کی آزادی صرف ایک قوم اپنی کوشش سے حاصل نہیں کر سکتی ہے۔ لہذا آپ نے انقلاب و تشدد کی پالیسی بدل کر ہندوستان کی آزادی کو ہندو اور مسلمان کی مشترکہ جدوجہد سے حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اسی سلسلہ میں آپ نے نیشنلسٹ طاقتوں کا ساتھ دیا اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بنا میں حصہ لیا۔ (۲)

جمعیتہ علمائے ہند اور جدوجہد آزادی

۱۹۱۹ء میں ہی تحریک خلافت شروع ہوئی جو جنگ عظیم اول کے بعد خلافت عثمانیہ کے تحفظ اور ہندوستان پر برطانوی تسلط کے خلاف ایک نہایت مؤثر اور ہمہ گیر تحریک تھی۔ اس تحریک نے ہندوستان میں ہندو مسلم اتحاد کا عظیم الشان نمونہ پیش کیا اور اس پلیٹ فارم سے مسلمان اور ہندو شانہ بشانہ انگریزی حکومت کے خلاف لڑے۔ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی و دیگر علمائے دیوبند اس تحریک میں شریک رہے۔ ۱۳ نومبر ۱۹۱۹ء کو دہلی میں خلافت کمیٹی کا اجلاس مولانا فضل الحق کی صدارت میں ہوا جس میں برطانیہ کے جشن صلح کے بائیکاٹ کی تجویز مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب نے پیش کی جس کی تائید میں گاندھی جی نے بھی تقریر کی۔ اسی موقع پر انقلابی علماء نے جمعیتہ علمائے ہند کے نام سے باضابطہ دستوری جماعت کی تشکیل کا فیصلہ کیا جس کے پہلے صدر مفتی اعظم حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی منتخب ہوئے۔ جمعیتہ علمائے ہند کے قیام کے بعد علمائے دیوبند کی مجاہدانہ سرگرمیاں اسی پلیٹ فارم سے جاری رہیں اور ہندوستان کی آزادی اس جماعت کا بنیادی مشن تھا۔

جمعیتہ علمائے ہند ایک ایسے وقت میں قائم ہوئی جب انگریزی استبداد اپنی آخری حدوں کو چھو رہا تھا اور کسی میں جرأت موجود نہیں تھی کہ وہ سات سمندر پار کی اس اجنبی مخلوق کے خلاف کوئی آواز بلند کر سکے، لیکن جمعیتہ علمائے ہند اور اس کے بانیوں نے سب سے پہلی جو آواز لگائی وہ وہی تھی جسے سننے کے لیے ہر ہندوستانی گوش برآواز تھا، اس نے مکمل آزادی کا نعرہ دیا اور کہنا چاہیے کہ اس نعرہ کے ذریعہ اس نے تحریک آزادی کے لیے قائم تمام تنظیموں، تحریکوں اور انجمنوں پر سبقت حاصل کر لی۔

جون ۱۹۲۰ء میں خلافت کانفرنس الہ آباد میں نان کوآپریشن (ترک موالات) شروع کرنے کا فیصلہ ہوا۔ جولائی ۱۹۲۰ء میں شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نے ترک موالات کا فتویٰ دیا جس کو بعد میں مولانا ابوالحسن سجاد بہاری نے مرتب کر کے جمعیتہ علمائے ہند کی طرف سے ۲۸۴ دستخطوں کے ساتھ شائع کیا۔ غیر ملکی مال کے بائیکاٹ اور برطانوی حکومت کے ساتھ عدم تعاون کی یہ تجویز بہت کارگر ہتھیار تھا جو جنگ آزادی میں استعمال کیا گیا، انگریزی حکومت اس کا پورا نوٹس لینے پر مجبور ہوئی اور اس کا خطرہ پیدا ہو گیا کہ پورا ملکی نظام مفلوج ہو جائے اور عام بغاوت پھیل جائے۔

نومبر ۱۹۲۰ء میں جمعیتہ علمائے ہند کا دوسرا اجلاس عام دہلی میں حضرت شیخ الہند کی صدارت میں ہوا۔ آپ نے

اپنے خطبہٴ صدارت میں سیاسی جدوجہد کی منتشر طاقت کو متحد و موثر بنانے کے لیے کانگریس کے مشترکہ پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی دعوت دی۔ حضرت شیخ الہند کی اس کوشش نے جنگ آزادی کے نعرہ میں ایک روح پھونک دی۔

جولائی ۱۹۲۱ء میں خلافت کانفرنس کراچی کے اجلاس میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے صاف لفظوں میں اعلان کیا کہ حکومت برطانیہ کے ساتھ موالات و اعانت کے تمام تعلقات اور ملازمت حرام ہے۔ اس کے پاداش میں کراچی کا مشہور مقدمہ چلا جس میں آپ کے ساتھ مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، ڈاکٹر سیف الدین کچلو، گروٹکنگر اچاریہ وغیرہ کو دو دو سال قید بامشقت کی سزا ہوئی۔

جنوری ۱۹۲۲ء میں جمعیتہ علمائے ہند کے پانچویں اجلاس میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے اپنے خطبہ میں آزادی کامل کی طرف سب سے پہلے توجہ دلائی۔ پھر جمعیتہ علمائے ہند نے حضرت مولانا سید سلیمان ندوی کے صدارت میں ہونے والے ساتویں اجلاس میں ۱۴ مارچ ۱۹۲۶ء کو سب سے پہلے مکمل آزادی کی تجویز پاس کی۔ ہندوستان پر برطانوی قبضہ کے خلاف ہندوستانیوں کی طرف سے یہ پہلی تجویز تھی جس نے بانگ دہل برطانیہ سے ملک کی مکمل آزادی کی حمایت کی، ورنہ اس وقت کانگریس وغیرہ دیگر قومی جماعتیں حکومت سے محض کچھ مراعات کی طالب ہوا کرتی تھیں۔ بالآخر جمعیتہ علمائے ہند کی یہی تجویز ملک کے ہر فرد کی آواز بن گئی۔

۱۹۲۹ء میں گاندھی جی کے ڈانڈی مارچ اور نمک سازی تحریک میں جمعیتہ علمائے ہند کے رہنما مولانا حافظ الرحمن سیوہاروی، مفتی عتیق الرحمن عثمانی وغیرہ نے شرکت کی اور دیگر قومی کارکنوں کے ساتھ مولانا حافظ الرحمن سیوہاروی، مولانا سید فخر الدین مراد آبادی، مولانا سید محمد میاں دیوبندی اور مولانا بشیر احمد بھٹہ وغیرہ بھی گرفتار ہوئے۔

۱۹۳۰ء کی تحریک سول نافرمانی میں جمعیتہ علمائے ہند کے صدر حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی اور ناظم اعلیٰ جمعیتہ علمائے ہند مولانا احمد سعید دہلوی کو قانون تحفظ عامہ اور بغاوت کے جرم میں گرفتار کر کے قید بامشقت کی سزا دی گئی۔ ۱۹۳۲ء میں جب دوبارہ سول نافرمانی کی تحریک شروع کی گئی تو جمعیتہ علمائے ہند نے بھی کانگریس کی جنگی کونسل کی طرح ادارہ حربیہ قائم کر کے ڈکٹیٹرانہ نظام جاری کیا جس کے ذمہ دار مولانا ابوالحسن سجاد صاحب تھے۔ مارچ ۱۹۳۳ء میں جمعیتہ علمائے ہند کے پہلے ڈکٹیٹر حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی ایک لاکھ افراد کا جلوس لے کر نکلے اور گرفتار کر لیے گئے۔ جمعیتہ علمائے ہند کے دوسرے ڈکٹیٹر حضرت مولانا حسین احمد مدنی کو بھی دیوبند سے دہلی آتے ہوئے راستے میں گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد سحبان الہند مولانا احمد سعید دہلوی، مولانا حافظ الرحمن سیوہاروی، مولانا محمد میاں دیوبندی، رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی وغیرہم ڈکٹیٹر منتخب ہوتے رہے اور گرفتاریاں دیتے رہے۔ اس تحریک میں تقریباً تیس ہزار مسلمان گرفتار کیے گئے۔

۱۹۳۵ء میں حکومت ہند کا جو دستور بنایا گیا تھا اس میں مسلمانوں کی مذہبی و ملی مشکلات کے حل کے لیے جمعیتہ علمائے ہند نے ایک فارمولا پیش کیا تھا جس کو مدنی فارمولا کا نام دیا گیا تھا۔ اگر اس فارمولے کے مطابق دستور

بنایا جاتا تو کافی حد تک مسلمانوں کی مشکلات حل ہو جاتیں اور ملک تقسیم نہ ہوتا۔ بہر حال گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ۱۹۳۵ء کے ذریعہ مسلمانوں کو جو بھی مراعات حاصل ہوئیں وہ اسی فارمولے کی بنیاد پر شامل ہوئیں۔

۳۷-۱۹۳۶ء میں جمعیتہ علمائے ہند نے حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی کی رہنمائی میں صوبہ سرحد کی اسمبلی میں شریعت بل کا مسودہ پیش کر کے پاس کرایا، جو بالآخر شریعت ایکٹ بنا اور آج تک نافذ ہے۔ ۱۹۳۷ء میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے انگریزی اقتدار کے مقابلے میں بلا تفریق مذہب و ملت ہندوستانیوں کے لیے متحدہ قومیت کی وکالت کی اور اس کو قرآن و حدیث سے ثابت کیا۔ اُس وقت مسلم لیگ اور ہندو مہاسبھا کی جانب سے مذہب پر مبنی تصورات پیش کیے جا رہے تھے۔

۴۰-۱۹۳۹ء میں دوسری جنگ عظیم کے موقع پر جمعیتہ علمائے ہند نے جبری بھرتی کی پرزور مخالفت کی اور اعلان کیا کہ جنگ کے سلسلہ میں ہم کسی طرح کا تعاون نہیں کریں گے، جس کی پاداش میں جمعیتہ کے رہنماؤں اور کارکنوں کو گرفتار کیا گیا۔ ان میں مولانا حفیظ الرحمن سیوہاروی، مولانا احمد علی لاہوری، مولانا محمد قاسم شاہ جہانپوری، مولانا ابوالوفا شاہ جہانپوری، مولانا محمد اسماعیل سنہلی، مولانا شاہد میاں فاخری الہ آبادی، مولانا اختر الاسلام مدرسہ شاہی مراد آباد وغیرہ شامل ہیں۔

اپریل ۱۹۴۲ء میں جمعیتہ علماء کی پچھرايوں کانفرنس میں آزادی کے مطالبہ کی پاداش میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی کو جون ۱۹۴۲ء میں گرفتار کر لیا گیا اور چھ ماہ کی مدت اسارت ختم ہونے کے وقت دوبارہ غیر محدود عرصہ کے لیے نظر بند کر دیا گیا۔ ۱۵ اگست ۱۹۴۲ء کو جمعیتہ علمائے ہند کی مجلس عاملہ کے چار مقتدر ارکان حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی، مولانا حفیظ الرحمن سیوہاروی، مولانا احمد سعید دہلوی اور مولانا عبدالحلیم صدیقی لکھنؤی کے دستخطوں سے ایک اخباری بیان جاری کیا گیا جس میں کھلے لفظوں میں کہا گیا تھا کہ ”انگریز ہندوستان چھوڑ دے“۔ اس کے بعد ۸ اگست کو کانگریس نے بمبئی کے اجلاس میں ’کوٹ انڈیا‘ (انڈیا چھوڑ دو) کی تجویز پاس کی۔ اس کی پاداش میں کانگریس کی طرح جمعیتہ علمائے ہند کے رہنما اور ہزاروں کارکن گرفتار ہوئے جن میں مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حفیظ الرحمن سیوہاروی، مولانا محمد میاں دیوبندی، مولانا نور الدین بہاری وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

جمعیتہ علمائے ہند نے مسلمانوں کے لیے الگ اسٹیٹ یعنی نظریہ قیام پاکستان کی ہمیشہ پوری قوت کے ساتھ مخالفت کی۔ لیکن ۱۵ اگست ۱۹۴۷ء کو مجاہدین ملت کی پیش بہا قربانیوں کی بدولت جب آفتاب آزادی نصف شب کو طلوع ہوا، برطانوی شاطر حکمران اپنی پھوٹ ڈالنے والے سیاست میں کامیاب ہو چکے تھے۔ اس مبارک گھڑی میں ہندو مسلم اتحاد کی وہ عمارت جس کی تعمیر جمعیتہ علماء کے اکابر نے کی تھی وہ لرزہ بر اندام ہو گئی، نفرت کی آندھیوں میں صدیوں کے پروردہ رشتے کچے دھاگوں کی طرح ٹوٹ گئے۔ اس وقت شمالی ہند کے مسلمانوں کے سامنے کربلا جیسے مناظر تھے۔ اس بھیا تک تاریکی میں جمعیتہ علمائے ہند نے امید کا چراغ روشن کیا، لڑکھڑاتے قدموں کو سہارا دیا اور حوصلوں کو بحال کیا۔ (۳)

خلاصہ کلام

ہندوستان کی تحریک آزادی کی پوری تاریخ میں علمائے دیوبند کی مجاہدانہ سرگرمیاں بہت نمایاں ہیں۔ فکروالی الہی کے وارث و امین ہونے کی حیثیت سے علمائے دیوبند نے پورے تسلسل اور اعتماد کے ساتھ انگریزوں سے لڑا لیا اور بالآخر انھیں ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ ان علماء نے جذبہ آزادی کی شمع ایسے تیرہ و تاریک ماحول میں بھی جلائے رکھی جب برطانوی جبر و استبداد اپنے عروج پر تھا اور انگریزوں کے خلاف کوئی بھی میدان میں نہیں تھا۔ ان علماء نے پوری سیاسی بصیرت اور تدبیر کے ساتھ وقت اور حالات کے تقاضے کے تحت اپنے ہتھیار بدلے، اپنا طریقہ کار تبدیل کیا، لیکن آزادی کے عظیم الشان ہدف و مقصد سے کبھی سر مو انحراف نہیں کیا۔ یہ ان بور یہ نشین علماء ہی کی دور رس نگاہیں تھیں جنہوں نے ہر موڑ پر تحریک آزادی کی قیادت کی اور مکمل آزادی، کوئٹہ انڈیا وغیرہ جیسی تاریخی تحریک شروع کرنے میں انہوں نے دوسروں پر سبقت حاصل کی؛ جب کہ دوسری طرف ملک و بیرون ملک کے اعلیٰ تعلیمی اداروں سے سیاست و پولیٹیکل سائنس کی ڈگریاں حاصل کرنے والے افراد ان کی گرد کو بھی نہ پہنچ سکے اور وہ انگریزی حکومت کو ہمیشہ ناقابلِ تسخیر ہی سمجھتے رہے۔

دوسری طرف علماء نے تقسیم ہندوستان اور نظریہ پاکستان کی زبردست مخالفت کی، حالانکہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائے اور انگریز اپنی تفرقہ انگیزی کی سیاست میں کامیاب ہوئے؛ لیکن علماء کی متحدہ قومیت کی حمایت کا سب سے اہم فائدہ یہ ہوا کہ ہندوستان ایک سیکولر اور جمہوری ملک بنا اور اس کے دستور نے ہندوستانی مسلمانوں کو برابر کا حق دیا۔ خدا نخواستہ اگر ملک کا سیاسی ڈھانچہ غیر سیکولر اور غیر جمہوری ہوتا تو مسلمانوں کا اس ملک میں کیا حال ہوتا اس کے تصور سے بھی روٹ گئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہندوستان کے آئین میں مسلمانوں کو باعزت برابری کا حق ان ہی علماء کی متحدہ کوششوں کا نتیجہ ہے جنہوں نے ہر طرح کی فرقہ واریت اور مذہبی لکیروں سے ہٹ کر اس کثیر المذہب اور متنوع الثقافت ملک کے لیے سیکولر آئین بنوایا تاکہ یہاں ہر مذہبی طبقہ اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ قائم رہ سکے اور اپنے مذہب کی بقا و اشاعت کے لیے خود مختار ادارے قائم کر سکے۔

حوالہ جات:

- (۱) تاریخ دارالعلوم دیوبند، جلد اول، ص ۵۰۶ تا ۵۱۰، مولانا محمد قاسم نانوتوی: حیات اور کارنامے، ص ۸۲ تا ۹۴
- (۲) نقش حیات، حضرت مولانا حسین احمد مدنی، جلد دوم، صفحہ ۱۳۱ تا ۱۷۸؛ تفصیل کے لئے دیکھیں: ریشمی خطوط سازش کیس، مولانا محمد میاں دیوبندی
- (۳) جمعیتہ علماء نمبر، ہفت روزہ الجمعیتہ نئی دہلی، شائع شدہ بہ موقع ۲۵ رواں اجلاس عام ممبئی ۱۹۹۵ء، ص ۶۵ تا ۶۵

علمائے دیوبند کی ملی و سماجی خدمات

علمائے دیوبند کی تاریخ سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ ان کا دائرہ عمل محض مذہبی اور تعلیمی میدان ہی تک محدود نہیں رہا، بلکہ انھوں نے ہمیشہ ملک و سماج سے جڑ کر تمام مسلمانوں اور عام انسانوں کی خدمت کو بھی اپنے دائرہ عمل میں شامل رکھا۔ علمائے دیوبند ہمیشہ سماج کے ہر طبقہ سے مربوط رہے اور ملت و سماج کی ضروریات کے پیش نظر انھوں نے حسب استطاعت اپنی خدمات پیش کرنے میں لیت و لعل سے کام نہیں لیا۔ عوام میں تعلیمی بیداری کا فروغ اور جہادِ آزادی میں سرگرم حصہ داری اسی احساس فرض کا نتیجہ تھی جس سے علمائے دیوبند نے کبھی پہلو تہی نہیں کی۔

تقسیم ملک کے بعد ہندوستان میں علمائے دیوبند نے بہت سے سماجی و وفاہی، ملی و نیم سیاسی ادارے قائم کیے اور ان کے توسط سے ہندوستان میں سیاسی و سماجی سطح پر مسلمانوں کے پیش آمدہ مسائل کو حل کرنے کی کوششیں کی۔ ان اداروں میں علمائے دیوبند کی نمائندہ تنظیم 'جمعیتہ علمائے ہند' کا دائرہ کار سب سے زیادہ وسیع اور مؤثر رہا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر تنظیمیں جیسے مسلم پرسنل لا بورڈ وغیرہ ہیں جنہیں علمائے دیوبند نے یا تو قائم کیا یا اپنے سرگرم تعاون سے انھیں تقویت پہنچائی۔ ذیل کی سطور میں علماء کی ان ملی و سماجی خدمات کی ایک جھلک پیش کی جا رہی ہے۔

جمعیتہ علمائے ہند اور اس کی ملی و سماجی خدمات

جمعیتہ علمائے ہند، آزاد ہندوستان کی تاریخ میں مسلمانوں کی سب سے قدیم اور بڑی تنظیم ہے جس نے مسلمانوں کے جان و مال اور دین و مذہب کے تحفظ، فرقہ واریت کی مخالفت، تعلیم اور ریلیف و باز آباد کاری کے میدانوں میں عظیم الشان اور قابل فخر خدمات انجام دی ہیں۔ جمعیتہ علماء کے اکثر مرکزی صدور اور صوبہ جات و اضلاع کے صدور و ذمہ داران دارالعلوم دیوبند کے اکابر و علماء رہے ہیں جن میں حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی، حضرت مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مولانا حفیظ الرحمن سیوہاروی، حضرت مولانا محمد میاں دیوبندی، حضرت مولانا سید فخر الدین مراد آبادی، حضرت مولانا سید اسعد مدنی وغیرہ جیسی نمایاں شخصیات شامل ہیں۔

۱۹۴۷ء میں ملک کی آزادی اور مسلم آبادی کی تقسیم کے بعد ہندوستان میں قیام کا فیصلہ کرنے والے مسلمانوں کے لیے زندگی بہت مشکل تھی، خصوصاً شمالی ہند اور دہلی و اطراف کے مسلمانوں پر ایک قیامت صغریٰ ٹوٹ پڑی تھی۔ ان پر خطر اور نازک حالات میں مسلمانوں کو تسکین و تسلی دینے اور ان کے پیروں کو جمانے میں اکابر جمعیتہ نے اہم کردار ادا کیا۔

اسی طرح ملک کے طول و عرض میں فرقہ وارانہ فسادات اور فرقہ پرستی کی روک تھام کے لیے طویل اور صبر آزما جدوجہد کی۔ اس سلسلہ میں جمعیت علماء نے پارلیمنٹ اور اسمبلی کے ایوانوں سے لے کر عوامی مقامات اور جلسہ گاہوں سے فرقہ واریت کی مخالفت کی اور ملک دشمن طاقتوں کو آشکارا کیا۔ جمعیت علماء کے علماء و اکابر نے بڑی جرأت اور استقامت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیا اور فساد زدہ مسلمانوں کی مدد اور باز آباد کاری میں جو خدمات انجام دیں وہ ہماری ملٹی تاریخ کا روشن باب ہیں۔

ہندوستانی مسلمانوں کے لیے جمعیت علمائے ہند کی سب سے اہم خدمت اور کارنامہ ہندوستانی دستور کا سیکولر ڈھانچہ ہے۔ دستور کے بہت سے اجزا جن کا براہ راست یا بالواسطہ تعلق مسلمانوں سے ہے، حالات و ماحول کے لحاظ سے جو بھی ممکن تھا مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی نے دستور ساز اسمبلی کے رکن ہونے کی حیثیت سے وہ کر دکھایا۔ آج دستور میں اقلیتوں کو جو حقوق، مراعات اور ضمانتیں دی گئی ہیں ان میں سے بیشتر جمعیت علمائے ہند کے رہنماؤں کی جدوجہد اور کوششوں کا ثمرہ ہیں۔ آج دستور کی وہی دفعات ہیں جو مسلمانوں کو ہندوستان میں سر بلند رکھنے کے مواقع فراہم کرتی ہیں۔ اگر ان حقوق کو حاصل کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے اور مسلمان احساس کمتری سے نکل آئیں تو ان کا مستقبل تابناک ہو سکتا ہے۔

جمعیت علمائے ہند نے ملک کے دستور اور اس کے سیکولر تانے بانے سے چھیڑ چھاڑ کرنے والی ہر کوشش اور سازش کے خلاف آواز اٹھائی۔ وہ خواہ پرارتھنا یا قومی گیت، وندے ماترم کا معاملہ ہو یا نصابی کتابوں میں مخصوص فرقہ وارانہ ذہنیت کی پرورش کا، خواہ یکساں سول کوڈ کا معاملہ ہو یا مذہبی عمارات بل کا، خواہ سرحدی علاقوں میں مسلمانوں کی شہریت کا مسئلہ ہو یا مسلم عائلی مسائل سے چھیڑ چھاڑ کا، ہر معاملہ میں جمعیت علمائے ہند نے اپنے دستوری حق کے حصول اور سیکولزم کی بقا کے لیے پوری کوشش کی۔ جمعیت علمائے ہند کی ان ہی کوششوں کی وجہ سے دستور اور سیکولزم میں یقین نہ رکھنے والے افراد اور جماعتوں کی ناپاک سازشیں کامیابی سے ہم کنار نہ ہو سکیں۔

ہندوستان میں موقوفہ جائیدادوں اور مسلم اوقاف پر غاصبانہ قبضے، قبرستانوں اور مسجدوں تک کی فروخت، نا اہل متولیوں کی جارحانہ گرفت و خیانت، زمینداری کے خاتمہ کے نتیجہ میں اوقاف کے سلسلہ میں پیش آمدہ دشواریاں، وقف کمیٹیوں کی حالت زار اور اس طرح کے دوسرے بہت سے متعلقہ مسائل ایسے تھے جنہوں نے ملت کے لیے مالی، اقتصادی اور مذہبی دشواریاں پیدا کر دی تھیں۔ چنانچہ جمعیت علمائے ہند نے ان مسائل کی طرف بھرپور توجہ دی۔ جمعیت علماء نے مختلف مواقع پر موثر تجاویز، قانونی کارروائی اور اثر و رسوخ کے ذریعہ اوقاف کی بحالی اور اصلاح و درستگی کے لیے قدم اٹھایا۔ اس سلسلہ میں فروری ۱۹۷۹ء کو کل ہند اوقاف کانفرنس منعقد کی گئی اور جمعیت کی وقف کمیٹی کے مرتب کردہ مسودہ کو پارلیمنٹ میں پاس کر کے ایکٹ کی صورت دی گئی۔

بابری مسجد کا قضیہ ہندوستان کی تاریخ کا سب سے اہم اور حساس قضیہ ہے جس کی وجہ سے ملک میں فسادات، قتل و خون، بد امنی و بے چینی اور افتراق و انتشار کا ایک طوفان برپا ہوا اور بالآخر فرقہ پرستوں نے حکومتی پشت پناہی

میں ۶ دسمبر ۱۹۹۲ء کو بابری مسجد کو شہید کر ڈالا۔ بابری مسجد کیس میں جمعیتہ علمائے ہند ۱۹۳۴ء ہی سے سرگرم عمل ہے جب انگریزوں نے ہندو مسلم کو باہم لڑانے اور اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے مقصد سے بابری مسجد کی جگہ کے سلسلہ میں من گھڑت واقعات کی بنیاد پر رام جنم بھومی کا شاخسانہ پیدا کیا جب کہ ساڑھے تین سو سال تک بابری مسجد کے تعلق سے کوئی جھگڑا نہیں تھا اور تاریخی طور پر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ رام مند توڑ کر بابری مسجد بنائی گئی۔

مارچ ۱۹۳۴ء میں دو فرقوں کے درمیان ہونے والے تصادم کے بعد حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب صدر جمعیتہ علمائے ہند نے خود اوجود ہیا جا کر حالات کا جائزہ لیا اور ورننگ کمیٹی کو رپورٹ پیش کی۔ دسمبر ۱۹۴۹ء کی جس رات کو مسجد میں بت رکھے گئے جمعیتہ علماء کے قائدین حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی اور مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی نے اس جسارت کو ہندوستان کی جمہوریت کے لیے بدنام داغ اور سیکولزم کے لیے شرمناک حرکت قرار دیا۔ جمعیتہ علماء نے موضوع کی نزاکت کے پیش نظر فیصلہ کیا کہ اس کو عوامی مسئلہ نہ بنایا جائے، بلکہ قانونی کارروائی اور حکومت کے ساتھ رابطہ سے اس مسئلہ کے حل کی کوشش کی جائے۔ اسی مقصد کے پیش نظر جمعیتہ نے قانونی انصاف کے حصول کے لیے ۱۹۴۹ء ہی میں عدالتی کارروائی کا آغاز کر دیا تھا۔ دوسری طرف جمعیتہ علماء نے برادران وطن کو مسئلہ کی اہمیت سے آگاہ کرنے اور اپنی برائیاں پالیسی اپنانے کے لیے بابری مسجد کے تعلق سے تاریخی حقائق کو آشکارا کرنا شروع کیا۔ اس کے لیے انھوں نے باہمی تبادلہ خیال کی راہ اپنائی اور بالآخر وہ برادران وطن کی ایک بڑی تعداد کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ جمعیتہ کی یہ پالیسی نہ صرف مسجد کے تحفظ کے نقطہ نظر سے ضروری تھی بلکہ ملکی اتحاد اور قومی یکجہتی کے لیے بھی ضروری تھی۔ لیکن حکومت کی منافقانہ پالیسیوں اور فرقہ پرستوں کی بڑھتی قوت کے پیش نظر بیسویں صدی کی آٹھویں دہائی میں بابری مسجد کا قضیہ ایک حساس سیاسی اور فرقہ وارانہ مسئلہ بن گیا اور آخر کار بابری مسجد کو فرقہ پرستوں نے حکومتی سرپرستی میں دن دہاڑے شہید کر ڈالا۔ جمعیتہ علماء اس وقت سے لے کر آخر تک بابری مسجد کیس میں مدعی رہی۔ افسوس کہ بالآخر فرقہ پرست عناصر اپنے مقاصد میں کامیاب ہو گئے اور سپریم کورٹ نے بہت سارے تاریخی حقائق (کہ بابری مسجد مند توڑ کر نہیں بنائی گئی، مسجد میں مورتی رکھنا غیر قانونی عمل تھا وغیرہ وغیرہ) کو تسلیم کرنے کے باوجود عدل و انصاف کو شرمسار کرتے ہوئے مسجد کی زمین ہندوؤں کو مندر کی تعمیر کے لئے دے دی اور مسجد کے لئے متبادل زمین کا فیصلہ سنایا۔

جمعیتہ علماء کے اکابر و اسلاف نے ابتدا ہی سے جو معتدل پالیسی اپنائی تھی وقت کی کسوٹی نے اسے حرف بہ حرف صحیح ثابت کر دکھایا ہے۔ جو لوگ جمعیتہ علماء کو اس کی معتدل پالیسی کی وجہ سے مصلحت پسندی کا طعنہ دے کر بدنام کرتے تھے، آج وہ بھی اس اعتراف پر مجبور ہیں کہ اکابر جمعیتہ نے بابری مسجد کے تئیں جو پالیسی بنائی تھی اگر اس پر عمل کیا جاتا تو آج شاید وہ حالات رونما نہیں ہوتے جو اس وقت ہندوستانی مسلمانوں اور ان کی عبادت گاہوں کے لیے باعث تشویش بنے ہوئے ہیں۔

جمعیتہ علمائے ہند کا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ اس نے اردو زبان کے تحفظ، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور جامعہ ملیہ

اسلامیہ کے اقلیتی کردار کے تحفظ اور دیگر بہت سے اہم مسائل میں ملک و ملت کی قیادت کی۔ جمعیت علماء نے ہندوستان میں مسلمانوں کو مذہبی طور پر متحد کرنے کے لیے امارت شرعیہ قائم کی اور دوسری طرف مسلمانوں کے اندر پیدا ہونے والی بہت سی مذہبی و سماجی برائیوں کے خاتمہ کے لیے اصلاح معاشرہ تحریک کی شروعات کی۔ آزاد ہندوستان میں امن و امان، فرقہ وارانہ ہم آہنگی، جمہوریت کے فروغ اور سیکولزم کے تحفظ کے لیے اکابر جمعیت اور علمائے دیوبند کی کوششیں جدید ہندوستان کی تاریخ کا روشن باب ہے جنہیں کوئی انصاف پسند مورخ نظر انداز نہیں کر سکتا۔ (۱)

مسلم پرسنل لا کا تحفظ

ہندوستان کے جمہوری اور سیکولر نظام میں مسلمانوں کے لیے مسلم پرسنل لا کی بڑی اہمیت ہے تاکہ مسلمان اپنے تمام عائلی اور شخصی معاملات کو بھی شریعت اسلامیہ کے دائرے میں رہتے ہوئے حل کریں۔ علمائے دیوبند نے برطانوی دور میں اور ملک کی آزادی کے بعد جمہوری حکومتوں کے عہد میں اس اہم مسئلہ کو کبھی نظر انداز نہیں کیا۔ ۱۹۱۷ء میں وزیر ہند کی ہندوستان آمد کے موقع پر ملک کے انتظام میں کچھ تغیرات متوقع تھے۔ اس وقت علمائے دیوبند نے حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب کی سربراہی میں وزیر ہند کو دس دفعات پر مشتمل ایک میمورنڈم پیش کیا اور پوری صفائی کے ساتھ مطالبہ کیا کہ حکومت مسلمانوں کے عائلی مسائل کے سلسلہ میں کوئی ایسا ایکٹ وضع نہ کرے جو شرعی قوانین سے متصادم ہو، ایسا قانون ہمارے لیے ناقابل قبول ہوگا۔ اس میمورنڈم پر اس دور کے تقریباً پانچ سو علماء کے تائیدی دستخط تھے۔

اس میمورنڈم میں دو بنیادی مطالبے تھے۔ ایک یہ کہ ہندوستان میں مسلم پرسنل لا کے اجراء کے لیے محکمہ قضا قائم کیا جائے، چوں کہ شرعی اصول کے مطابق بہت سے مسائل کی تنفیذ کے لیے مسلم حاکم کا ہونا شرط ہے؛ اس لیے قاضیوں کا انتخاب و تقرر اہل السنۃ والجماعہ سے ہو؛ اس کونسل میں ہر فرقے کے علماء نمائندے اور ممبر ہوں اور مسائل کا فیصلہ ہر فرقہ کے اپنے فقہی اصول پر ہو۔ دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے مذہبی شعائر، مساجد و مدارس، مقابر و اوقاف، خانقاہوں اور دیگر دینی رفاہ عام کے تحفظ و نگرانی اور نظم و نسق کے لیے شیخ الاسلام کا عہدہ قائم کیا جو ان تمام شعائر کو تنظیم کے ساتھ چلانے کا ذمہ دار ہو۔

اس کے بعد ۱۹۲۹ء میں ہندوستان میں مسلم اوقاف کی تنظیم کا مسئلہ اٹھا جو مسلم پرسنل لا ہی کا ایک اہم جزو تھا۔ حکومت نے ایک کمیٹی مقرر کی جس نے اوقاف کے متعلق سوالات ملک کے مختلف حلقوں میں بھیجے۔ اس پر وقف کے مسائل کی تفصیلات مرتب کرائی گئیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کی قیادت میں وقف بل کے مسودے پر شریعت اسلامیہ کے نقطہ نظر سے تنقید کرتے ہوئے پیش کردہ اشکالات کا تحریری حل پیش کیا گیا اور ساتھ ہی ایک تحریر بنام 'الانصاف فی قانون الاوقاف' مرتب کی گئی جس پر تمام اکابر علماء کے دستخط ثبت ہوئے۔ اس سلسلہ میں وقت کے مناسب تمام مساعی عمل میں لائی گئیں۔

اسی طرح علمائے دارالعلوم نے عائلی قوانین کے مشترک منصوبے کو خلاف شرع ہونے کی وجہ سے بڑی قوت سے چیلنج کیا اور اس کے خلاف مضامین اور رسائل لکھے۔

مسلم پرسنل لا بورڈ کا قیام

۱۹۷۲ء میں پرسنل لا میں تغیر و تبدل کا مسئلہ بڑے زور شور سے اٹھا اور اسلام کے فقہی اور شرعی مسائل کو زمانہ حال کی ضرورت کے لیے ناکافی ظاہر کیا گیا تو اس کا علمی جائزہ لینے اور اس کے بارے میں پیش کردہ شبہات کی جواب دہی کے لیے حضرات اساتذہ و ارباب افتاء دارالعلوم دیوبند پر مشتمل ایک مسلم پرسنل لاکمیٹی بنائی گئی تاکہ وہ ان مسائل کے سلسلے میں مدلل دفاع کا فریضہ انجام دے۔

اس سلسلے میں اولاً حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب مہتمم دارالعلوم نے ممتاز فضلاء دیوبند کا ایک اجتماع ۱۴ مارچ ۱۹۷۲ء کو دارالعلوم میں طلب کیا جس میں ملک کے دوسرے دانشوروں کو بھی دعوت دی گئی، وجہ یہ تھی کہ اس مسئلے کے بارے میں ہر چند حضرات علمائے کرام نے بلاشبہ کافی توجہ فرمائی، مضامین مقالات اور رسائل شائع کئے، لیکن یہ ساری جدوجہد انفرادی اور شخصی طور پر ہوئی، ضرورت تھی کہ اجتماعی طور پر اس مسئلے کا شرعی موقف سامنے آئے اسی پر گورنمنٹ بھی توجہ دے سکتی تھی۔ اس نقطہ نظر سے اولاً علمائے دیوبند کے منتخب حضرات اور ملک کے دوسرے مشاہیر اہل دانش کو دارالعلوم میں جمع ہونے کی دعوت دی چنانچہ متعدد مقامی اور غیر مقامی مفکرین ملت شریک ہوئے تاکہ پرسنل لا کے بارے میں شرعی موقف متعین کر لیا جائے۔ اجتماع نے ایک آل انڈیا مسلم پرسنل لاکمیٹی کی تجویز منظور کی اور ۲۷-۲۸ دسمبر ۱۹۷۲ء کو عروس البلاد ممبئی میں اس کمیٹی کے انعقاد کا فیصلہ کیا گیا۔

مقصد کی اہمیت کے پیش نظر یہ مناسب اور مفید سمجھا گیا کہ ہندوستان کے مختلف مکاتب فکر کے اکابر اور معروف و مسلم تنظیموں کے سربراہوں کی طرف سے مشترکہ دعوت نامہ جاری کیا جائے۔ چنانچہ متعینہ تاریخوں میں یہ عظیم کمیٹی اپنی غیر معمولی خصوصیات کے ساتھ ممبئی میں منعقد ہوا جس میں ہندوستان کی تمام مسلم جماعتوں نے حصہ لیا۔ مسلمانان ہند کے مختلف مکاتب فکر کے اجتماع اور نمائندگی کے لحاظ سے یہ کمیٹی جس قدر غیر معمولی تھا اسی حد تک خدا تعالیٰ نے اسے کامیاب بھی فرمایا۔ کمیٹی کے داعیوں اور مندوبین کی متفقہ رائے سے جن میں سنی، شیعہ، مہدی، بریلوی، اہل حدیث اور جماعت اسلامی کے علاوہ دوسری سیاسی غیر سیاسی جماعتوں کے رہنما موجود تھے، حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب مہتمم دارالعلوم کو کمیٹی کا صدر منتخب کیا گیا۔ ہندوستانی مسلمانوں کے مختلف مذہبی مکاتب فکر اور طبقات میں سے کوئی طبقہ بھی ایسا نہیں رہا جس کے اکابر علماء و وزراء کمیٹی کے پلیٹ فارم پر جمع نہ ہو گئے ہوں۔ اس کمیٹی نے اور دوسرے لفظوں میں ہندوستان کے تمام مکاتب فکر کے مسلمانوں نے متحدہ آواز کے ساتھ اپنے ریزولوشن کے ذریعے اعلان کر دیا کہ وہ کسی حالت میں بھی مسلم پرسنل لا میں تغیر و تبدل کو گوارا نہیں کر سکتے، یہ شریعت اسلامی کا ایک حصہ ہے۔ اس متحدہ آواز کا اثر ملک اور حکومت دونوں پر پڑا اور اس

ذریعے سے ہندوستان کے تمام مسلمان وحدت کلمہ کی بنا پر متحد ہو گئے، جو ہندوستان کی تاریخ میں ایک بے مثال صورت حال تھی۔ تحریک خلافت کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ ہر مکتب فکر کے مسلمانوں نے متحد ہو کر اور ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر اسلامی اتحاد کا ثبوت دیا۔

ممبئی کے کنونشن کا بنیادی مقصد پرسنل لا کا تحفظ اور تمام مکاتب فکر کے اہل علم و فضل اور دانشوروں کی طرف سے یہ اعلان کرنا تھا کہ مسلمانان ہند خواہ ان کا تعلق کسی مکتب فکر سے ہو اپنے پرسنل لا سے نہ کسی حالت میں دست بردار ہو سکتے ہیں نہ اس میں کسی قسم کی تبدیلی و ترمیم گوارا کر سکتے ہیں، اور نہ کسی ایسے قانون کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں جو پرسنل لا کے کسی شرعی جزئیہ پر بھی اثر انداز ہو، بالفاظ دیگر مسلمان اپنی معاشرتی اور ثقافتی خصوصیات اور امتیازات کو فنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جن پر ان کے ملی وجود کی عمارت کھڑی ہوئی ہے اور ان کا شرعی اور قومی امتیاز قائم ہے۔ (۲)

آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اس وقت ملک کا موقر ترین ادارہ ہے جو ہندوستان کے تمام مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا محمد طیب صاحب سابق مہتمم دارالعلوم دیوبند اس آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے بانی صدر اور حضرت مولانا منت اللہ صاحب رحمانی اس کے پہلے جنرل سیکریٹری منتخب کیے گئے۔ ان حضرات کے بعد حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی، حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی، حضرت مولانا سید نظام الدین صاحب اور حضرت مولانا ولی رحمانی وغیرہ نے اس ادارہ کی قیادت کی اور اپنے عہد کے مسائل کو نہایت خوش اسلوبی اور جرأت کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کی۔

دہشت گردی کی مخالفت اور امن پسندی

دارالعلوم دیوبند بنیادی طور پر تعلیمی ادارہ ہے لیکن اس نے عوام الناس کو متاثر کرنے والے قومی اور بین الاقوامی اہم امور و مسائل سے خود کو کبھی بھی دور نہیں رکھا اور اس سلسلہ میں اپنی رائے دینے سے گریز نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ دارالعلوم نے گزشتہ دہائیوں میں ہندوستان اور پورے عالم میں انتہا پسندی اور دہشت گردی جیسے اہم مسائل سے صرف نظر نہیں کیا۔ دارالعلوم نے امن و امان کے قیام کی حمایت اور ہر طرح کی دہشت گردی و انتہا پسندی کی ہمیشہ مخالفت و مذمت کی۔ دارالعلوم کے علماء و اکابر نے ہمیشہ جمہوری طرز فکر اور بقائے باہم کے اصول کی حمایت اور فرقہ واریت، مسلکی عناد و تعصب، مذہبی منافرت اور نسلی، علاقائی اور لسانی تعصبات کی کھل کر مخالفت کی۔

حالاں کہ ملک کی فرقہ پرست طاقتوں نے دارالعلوم اور مدارس اسلامیہ کو نشانہ بنائے رکھا اور اس کو دہشت گردی کا ڈھکرا دیتے رہے؛ لیکن دارالعلوم نے ہمیشہ مثبت اور معقول انداز میں اس الزام کا دفعیہ کیا۔ امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر ۱۱ ستمبر ۲۰۰۱ء کو حملہ اور امریکہ کی افغانستان پر چڑھائی کے بعد دارالعلوم کا نام سرخیوں میں آنے لگا تو اس وقت اکابر نے دارالعلوم کے دروازے عالمی اور مقامی میڈیا کے لیے کھول دیے اور ہر کسی کو دارالعلوم آ کر

حقیقتِ حال کو دیکھ کر فیصلہ کرنے کی دعوت دی۔ الحمد للہ دارالعلوم کی اس دانش مندی اور حقیقت پسندانہ حکمتِ عملی کی وجہ سے بدخواہوں کی کوششیں ناکام ہو گئیں اور دارالعلوم کی امن پسندی اور مذہبی رواداری کا نقش قائم ہو گیا۔ دارالعلوم کے دارالافتاء کی طرف سے متعدد بار سوالات کے جواب میں دہشت گردی اور معصوم و بے گناہ لوگوں کو قتل کرنے کے خلاف فتاویٰ جاری کیے گئے۔ اسی پس منظر میں دارالعلوم دیوبند نے فروری ۲۰۰۸ء میں ایک کل ہند دہشت گردی مخالف کانفرنس منعقد کی جس میں ہندوستان کے اکثر فرقوں اور جماعتوں کے نمائندے شریک ہوئے۔ اس کانفرنس کے ذریعہ ہر طرح کی سرکاری، انفرادی اور جماعتی دہشت گردی کی مذمت کی گئی اور اعلان کیا گیا کہ معصوموں کا ناحق خون سراسر ظلم اور انسانیت کے قتل کے مترادف ہے۔ دارالعلوم کی اس کانفرنس کو عالمی میڈیا نے کورج دیا اور اس کے مثبت نتائج سامنے آئے۔

دارالعلوم اور مدارس اسلامیہ امن پسند، مہذب اور باوقار شہری تیار کرنے میں ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ مدارس اسلامیہ کا نصاب و نظام جہاں ایک طرف دینی و اخلاقی تعلیم دیتا ہے، وہیں ذہنی و روحانی تربیت بھی فراہم کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے فضلاء مدارس اخلاقی جرائم سے پاک ہوتے ہیں اور ان کا سماجی ریکارڈ بہت اچھا ہوتا ہے۔

حوالہ جات:

- (۱) جمعیت علماء نمبر، ہفت روزہ الجمعیت نئی دہلی، ۱۹۹۵ء، ص ۱۱۳-۱۱۴
- (۲) تاریخ دارالعلوم دیوبند، جلد اول، ص ۲۰۳-۲۰۹

ساتواں باب

دارالعلوم دیوبند مشاہیر کی نظر میں

- دارالعلوم دیوبند مشاہیر کی نظر میں _____ ۲۳۵
- مشاہیر ہند نظر میں _____ ۲۳۶
- مشاہیر عرب و عجم کی نظر میں _____ ۲۴۰
- شعراء کے منظوم تاثرات _____ ۲۴۹

دارالعلوم دیوبند مشاہیر کی نظر میں

دارالعلوم دیوبند ہمیشہ سے اپنی تعلیمی، تربیتی، تہذیبی اور سیاسی خدمات کی وجہ سے عالمی سطح پر شہرت و عظمت اور مقبولیت کا حامل رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی ہمہ جہت خدمات کا اعتراف ہر دور میں مشاہیر علماء کرام، زعمائے ملت اور عالم اسلام کے معزز دانشوروں و مفکر حضرات نے کھل کر کیا ہے اور اس کے ہمہ گیر علمی و دینی اثرات اور کارناموں کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ ان میں بہت سے حضرات جسمانی طور پر دارالعلوم دیوبند تشریف لائے اور انھوں نے اپنے گراں قدر تاثرات کا اظہار کیا ہے۔

ابتداءً ہی سے دارالعلوم کی زیارت کو آنے والے مہمانوں کی کثرت رہی ہے۔ ان واردین و صادرین میں ہند و بیرون ہند کے مسلمانوں کے علاوہ مختلف مذاہب، مختلف خیال اور مختلف شعبہ ہائے زندگی کے سبھی افراد شامل ہیں۔ سب نے اپنے اپنے نقطہ ہائے نظر سے دارالعلوم کی اہمیت کا اعتراف کیا ہے اور اپنے تاثرات کا زبانی اور تحریری طور پر آزادانہ اظہار کیا ہے۔ ان معائنوں سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ دنیا کے اہل الرائے دارالعلوم کی نسبت کیا رائے رکھتے ہیں۔ یہ معائنہ جات اکثر معائنہ رجسٹروں اور سالانہ رودادوں میں محفوظ ہیں۔

گذشتہ دہائیوں میں مختلف وجوہات خصوصاً سفری سہولیات کے اضافے کی وجہ سے زائرین اور مہمانوں کی آمد میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ علاوہ ازیں، ۲۰۰۱ء میں امریکہ کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور پنٹاگون پر حملے کے بعد جب افغانستان میں برسراقتدار طالبان کے خلاف امریکہ نے عالمی طاقتوں کے ساتھ مل کر یلغار کر دی۔ طالبان کے دیوبندی الفکر ہونے کے متعلق خبروں کے عام ہونے کے بعد عالمی میڈیا کی توجہ دارالعلوم دیوبند کی طرف ہونے لگی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد سے مختلف ملکوں اور مختلف فکر و مذہب کے اہل علم و قلم، اہل تحقیق اور صحافیوں کی ایک بڑی تعداد دارالعلوم دیوبند کا رخ کرنے لگی۔ ان میں بہت سے حقیقت پسند اہل قلم نے دارالعلوم دیوبند کے متعلق بے بنیاد پروپیگنڈوں کو طشت از بام بھی کیا۔ آخری دور میں دارالعلوم آنے والے مہمانوں کے دورہ اور ان کے تاثرات کی تفصیلات اخبارات کے علاوہ دارالعلوم سے شائع ہونے والے ماہنامہ دارالعلوم اور ماہنامہ الداعی اور پندرہ روزہ آئینہ دارالعلوم میں شائع ہوتی رہی ہیں۔

تمام قدیم و جدید مہمانان کرام کے تاثرات کا پیش کرنا طوالت کا باعث ہوگا؛ تاہم ذیل میں عرب و عجم کے کچھ مشاہیر کے تاثرات نقل کیے جا رہے ہیں۔ یہ تاثرات دارالعلوم دیوبند کی عظمت و رفعت اور اس کے فیوض و برکات کی صداقت پر روشن دلیل کی حیثیت سے پیش کئے جاسکتے ہیں۔

مشاہیر ہند کی نظر میں

مولانا ابوالکلام آزاد

”ہندوستان کے اسلامی تعلیمات کے اس عظیم ادارہ میں نہ صرف ہندوستان کے حصوں سے طلبہ کھنچے چلے آتے ہیں بلکہ انڈونیشیا، بلشیا، افغانستان، وسط ایشیا اور چین جیسے دور دراز ممالک سے بھی یہاں طلبہ آتے ہیں، اس قدر وسیع رقبے میں دارالعلوم کی ہر دل عزیزی اس کی عظمت کا ثبوت ہے۔ یہ ادارہ صحیح معنی میں اسلامی تعلیمات کی ایک بین الاقوامی یونیورسٹی ہے۔“ (۱۹۵۰ء)

مولانا شوکت علی

”جو اثر میرے قلب پر دیوبند کو دیکھ کر ہوا، وہ نہایت دل خوش کن تھا، میں وہ اثرات دیوبند میں پاتا ہوں، جن سے کسی قوم کے زندہ ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔“ (۷ جنوری ۱۹۴۱ء)

ڈاکٹر راجندر پرساد (صدر جمہوریہ ہند)

”آپ کے دارالعلوم نے صرف اس ملک کے بسنے والوں ہی کی خدمت میں نہیں بلکہ اپنی خدمات سے اتنی شہرت حاصل کر لی ہے کہ غیر ممالک کے طلبہ بھی آپ کے یہاں آئے ہیں۔ اور یہاں سے تعلیم پا کر جو کچھ یہاں انہوں نے سیکھا ہے اپنے ملک میں اس کی اشاعت کرتے ہیں۔ یہ بات اس ملک کے سبھی باشندوں کے لیے قابل فخر ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے بزرگ علم کو عمل کے لیے پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، ایسے لوگ پہلے بھی ہوئے ہیں، مگر کم۔ ان لوگوں کی عزت بادشاہوں سے بھی زیادہ ہوتی تھی، آج دارالعلوم کے بزرگان اسی طرز پر چل رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف دارالعلوم یا مسلمانوں ہی کی خدمت نہیں بلکہ پورے ملک اور پوری دنیا کی خدمت ہے۔ آج دنیا میں مادیت کے فروغ سے بے چینی پھیلی ہوئی ہے، اور دلوں کا اطمینان مفقود ہے، اس کا صحیح علاج روحانیت ہے، میں دیکھتا ہوں کہ سکون و اطمینان کا وہ سامان یہاں کے بزرگ مہیا فرما رہے ہیں، اگر خدا کو اس دنیا کو رکھنا منظور ہے تو دنیا کو بالآخر اسی لائن پر آنا ہے۔“ (۱۳ جولائی ۱۹۵۷ء)

نواب بہادر یار جنگ (حیدرآباد دکن)

”اس زمانہ میں جب کہ نیچریت و دہریت نے قلوب و اذہان پر قبضہ کر لیا ہے، اور دنیا میں ہر طرف

لامذہبیت کا دور دورہ ہے، وہ نفوس قدسیہ قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے اس درسگاہ کی بنیاد رکھی، یا جو لوگ اب اس کو نہایت کامیابی سے چلا رہے ہیں۔ گزشتہ ۵۰/۷۵ سالوں میں اس مادر علمی کے سپوتوں نے ہندوستان ہی نہیں بلکہ تمام ممالک ایشیاء میں علم کی روشنی کو جس طرح پھیلا یا اس سے سبھی واقف ہیں۔“ (۳۰ اکتوبر ۱۹۳۹ء)

شیخ محمد عبداللہ، کشمیر

”موجودہ زمانہ میں دنیا ہر قسم کے بحران علی الخصوص کردار کے بحران سے دوچار ہو رہی ہے، اگر ہم بائیان ادارہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اور حضرت مولانا محمود حسن کے کردار کو اپنا مشعل راہ بنائیں اور ادارہ کے ساتھ وابستہ نصب العین کو عمل سے زندہ رکھیں تو مجھے یقین ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ کردار کے بحران اور دیگر ہر قسم کی مشکلات سے نجات حاصل کرنے میں بنی نوع انسان کی بے مثال خدمات انجام دیں گے۔“ (۲۸ جنوری ۱۹۶۸ء)

مولانا عبدالباری فرنگی محلی

”میں نے جتنے قومی اور سرکاری ادارے دیکھے ہیں قدرے مشترک طور پر سب کا حال یہ ہے کہ ان کی شہرت واقفیت سے زیادہ ہے، جس قدر ان کے کارنامے شائع کیے جاتے ہیں وہ اندرونی حالات کے اعتبار سے زائد ہوتے ہیں، لیکن دارالعلوم دیوبند کو دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس کی واقعی خدمات اس کی اشاعت سے بہت زیادہ ہیں۔“

نواب لطیف یار جنگ بہادر (حیدرآباد دکن)

”میں نے باوقات متعدد متفرق جماعتوں اور ان کی ٹکڑیوں میں ٹھہر ٹھہر کر ان کے بحث و مباحثہ کو سنا اور دیکھا، دل بہت خوش ہوا، معلوم ہوتا ہے کہ خدا کا فیضان خاص اس درسگاہ پر ہے، دین کی تعلیم فرشتوں کو ہو رہی ہے، اس وقت تقریباً چھ سو سے زائد طلبہ ہیں اور اکثر کا قیام مدرسہ میں ہے، اور سب مسجد مدرسہ میں نماز کے لیے آتے ہیں، زندگی بالکل ساکت و صامت ہے، راتوں کو بارہ بجے تک عام طلبہ اور اس کے بعد بھی بعض طلبہ مطالعہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب کوئی شخص خواہ کسی درجہ کا ہو ان کے سامنے آئے تو ادب سے سلام کرتے ہیں اور باحیا طریقہ پر جھک کر پیش آتے ہیں، یہ اسلامی نورانی سماں دوسرے مقام پر ہندوستان میں تو مفقود ہے، کہیں مقامات مقدسہ میں ہو تو ہو۔“

تقسیم خوراک کے وقت میں نے دیکھا کہ ایک سلیم طریقہ پر خوراک اور اس کے لوازم بغیر کسی شور و شر کے تقسیم ہو جاتے ہیں، روٹی اور سالن کو چکھ کر دیکھا اچھا تھا اور مزے دار بھی۔ تعمیر کو بھی دیکھا نہایت عمدہ طریقہ پر کرائی گئی ہے، صفائی اس قدر ہے کہ سرکاری دفاتر جن پر ہزاروں روپیہ صرف ہوتا ہے، اس سے کسی طرح کم نہیں

ہے، بہر حال میری توقع اور امید سے زیادہ مجھے یہ درس گاہ نظر آئی۔ اساتذہ خاص خاص فن میں یکتا ہیں، میرے دل سے دعا نکلتی ہے کہ خداوند عالم کارکنان مدرسہ کی عمر اور ایمان میں برکت دے، افسوس ہے کہ جو کچھ میں نے دیکھا اس کے اظہار کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔“ (۲۷ اپریل ۱۹۲۹ء)

فخر الدین علی احمد (صدر جمہوریہ)

”مجھے دارالعلوم دیوبند کو دیکھ کر مسرت ہوئی، اس درس گاہ نے علم و عرفان کی روشنی سے دنیا والوں کے دلوں کو منور کیا اور اس کی مایہ ناز ہستیوں نے ملکی سیاست میں نمایاں کارنامے انجام دے کر اپنی عظمت کا پرچم بلند کیا ہے، اس سے بھی کبھی بخوبی واقف ہیں کہ یہ ادارہ ملک میں اپنی علمی اور سیاسی خدمات میں ممتاز رہا ہے۔ میں اس کے کتب خانہ میں نادر کتابوں کے عظیم ذخیرہ کو دیکھ کر متاثر ہوا، مجھے مولانا قاری محمد طیب صاحب ان کے شرکاء کا راسخ اور طلبہ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دارالعلوم دیوبند کو نئی روشنی میں پرانی روایات کو قائم رکھتے ہوئے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ملک و ملت کی خدمت میں ہمیشہ اس کو نمایاں مقام حاصل ہو۔“ (آمین) (۲۳ اپریل ۱۹۷۶ء)

بی گوپال ریڈی (گورنر آف یوپی)

”مجھے خوشی ہے کہ میں دارالعلوم دیوبند دیکھ سکا جو آج اسلامی تعلیم کا بین الاقوامی طور پر مشہور ادارہ ہے، اس مرکز میں ایک بہت بڑی لائبریری ہے اور ڈیڑھ ہزار سے زائد طلباء یہاں زیر تعلیم ہیں ان میں سے ایک بڑی تعداد کو قیام و طعام اور کتابیں مفت دی جاتی ہیں، میری تمنا ہے کہ یہ ادارہ مذہبی تعلیمات کے ایک مرکز کی حیثیت سے اپنی آن بان کو باقی رکھے اور نیز ملک کی خدمت کے جذبے کو بھی فروغ دے اور اس پر زور دے۔“ (۲۲ ستمبر ۱۹۶۹ء)

پروفیسر ہمایوں کبیر (وزیر سائنسی تحقیقات و ثقافتی امور حکومت ہند)

”مجھے یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ آج جبکہ دنیا بھر کی یونیورسٹیاں کروڑوں روپے خرچ کرتی ہیں، یہ دارالعلوم بہت ہی کم خرچ سے اس قدر بڑی اور قابل قدر خدمات انجام دے رہا ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ اگر اس کے بائیوں اور کارکنوں میں خدا ترسی اور خدمت خلق کا جذبہ نہ ہوتا تو وہ اس پر ہر سال کروڑوں روپے خرچ کرتے، مگر ان کے ایثار اور خلوص کا یہ عالم ہے کہ انھوں نے کبھی حکومت سے امداد کے لئے ایک پیسہ نہیں مانگا اور صرف خدا کے بھروسے اور غریب مسلمانوں کی امداد پر اسے چلاتے رہے، اور آج تک چلا رہے ہیں، اگر ایسے دارالعلوم کو کوئی مشنری سوسائٹی چلاتی تو اس کا سالانہ بجٹ کسی ریاستی بجٹ سے کم نہ ہوتا، مگر دنیا یہ سن کر حیرت کرے گی کہ دارالعلوم ایک سو سال سے کم سے کم مصارف کے ساتھ اعلیٰ سے اعلیٰ خدمات انجام دے رہا ہے، وہ علماء جو کسی سرکاری

یونیورسٹی میں پروفیسر بن کر ہزاروں روپے مشاہرہ پاتے وہ اس میں اقل قلیل تنخواہ لے کر کام کرتے ہیں اور بوریہ نشینی کے ساتھ وہ کام انجام دیتے ہیں جو انٹرنیشنل کمروں اور کرسیوں پر بھی نہیں دیا جاسکتا، یہ دارالعلوم دوسری یونیورسٹیوں کے لئے ایک مثالی یونیورسٹی ہے، اس کی سادگی اور اس کے ارباب کار کا خلوص و ایثار اور مقصد کی لگن دوسروں کے لئے نمونہ بن سکتا ہے۔

جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علمی اور مذہبی ادارہ فرقہ پرستی کا قائل یا حامی ہے وہ چمکتے ہوئے سورج کی کرنوں کا انکار کرتے ہیں، نہ صرف یہ ادارہ بلکہ اس کے فضلا اور مدرسین فرقہ پرستی کے ہمیشہ مخالف رہے ہیں، فرقہ پرستی کی مخالفت بہت معمولی بات ہے، یہ ایک منفی چیز ہے، اس ادارے نے تو سارے ملک میں حریت وطن کی شمع روشن کی اور قوم کو آزادی کے لئے بیدار کیا، اگر اس کے اکابر اس وقت آزادی کا نعرہ نہ لگاتے جب کہ کانگریس کا وجود تک نہ تھا تو آج ہندوستان کی تاریخ یہ نہ ہوتی جو آج نظر آ رہی ہے، یہ ادارہ آزادی کا معلم اور استقلال وطن کا شمع بردار ہے۔ آزادی کا جو خم اس نے بویا تھا آج ہم اس کا پھل کھا رہے ہیں۔“

اکبر علی خاں (گورنر اتر پردیش)

”میں آج اس دارالعلوم میں حاضری کو اپنے لئے باعث عزت و افتخار سمجھتا ہوں میری نیک تمنائیں اس مرکز علم اور مراکز آزادی ہند کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔
خدا کرے یہ دارالعلوم روز افزوں ترقی کرے اور علم و دانش کے پھیلانے میں اور خدمت خلق کی خدمت گزاری کے جذبے میں ترقی دینے اور حب الوطنی کے احساسات کو قوی تر کرنے میں اپنی دیرینہ کوشش و سعی کو جاری رکھے۔“ (۱۲ دسمبر ۱۹۷۳ء مطابق ۱۲/۱۲/۱۳۹۳ھ)

حکیم عبدالحمید (بانی جامعہ ہمدرد، دہلی)

”ہندوستان کا یہ علمی اور روحانی ادارہ علم دین کی خدمت میں مصروف ہے، اپنی ایک سو تیرہ سال کی زندگی میں اس نے اسلامی علوم کے بہت سے شعبوں میں ہزاروں ایسے اصحاب فضل و کمال پیدا کئے جن کے اثرات بر صغیر ہی میں نہیں بلکہ دوسرے ممالک میں موجود رہے ہیں، اور ابھی یہ موجود ہیں۔“

مشاہیر عرب و عجم کی نظر میں

محمد ظاہر شاہ درانی (سابق شاہ افغانستان)

”میں بہت مسرور ہوں کہ آج مجھے دارالعلوم دیکھنے کا موقع ملا، یہ دارالعلوم افغانستان میں خاص طور سے وہاں کے مذہبی حلقوں میں بہت معروف و مشہور ہے، افغانستان کے علماء دارالعلوم دیوبند کے بانیوں اور یہاں کے اساتذہ کو ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھتے آئے ہیں۔“ (۲۵ فروری ۱۹۵۸ء)

سردار نجیب اللہ خاں (سفیر افغانستان نئی دہلی)

”دارالعلوم دیوبند افغانستان کی نظر میں ایک عوامی، علمی اور اسلامی درس گاہ ہے، مگر میں اپنے مشاہدے کی بنا پر کہہ سکتا ہوں کہ یہ صرف ایک درس گاہ ہی نہیں بلکہ اسلامی ثقافت کا مرکز بھی ہے، دارالعلوم نے اس زمانہ میں جب کہ ہندوستان سے اسلامی حکومت رخصت ہو چکی تھی، دین اور دینی علوم کی حفاظت کی۔ مجھے یقین ہے کہ دارالعلوم آئندہ بھی اسی طرح علوم و فنون کی خدمت میں مشغول رہے گا، افغانستان کے عوام، علماء اور علم دوست لوگ اس کے قدردان ہی نہیں بلکہ بھی خواہ اور مددگار بھی ہیں۔ دارالعلوم ثقافت اسلامیہ کا ایک عظیم ادارہ ہے اور آپ اپنی نظیر ہے۔ ثقافت اسلامی کی بنیاد سچائی، محبت، مساوات، اخوت اور حقیقت شناسی پر مبنی ہے، اور یہ ادارہ ان اجزاء پر مشتمل ہے۔ دارالعلوم کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ اس نے ہمیشہ راست کردار مجاہد اور راست گفتار فرزند پیدا کئے ہیں جن پر دارالعلوم صحیح طور پر فخر کر سکتا ہے۔ دارالعلوم تنہا ہندوستان کا ورثہ نہیں ہے، بلکہ پورے عالم اسلام کی میراث ہے۔“ (۱۹۵۰ء)

سید رشید رضا مصری (صاحب تفسیر المنار)

”آپ جو عظیم الشان اور گراں بہا خدمت علم اور دین کی انجام دے رہے ہیں ان کے لحاظ سے آپ میرے اور تمام مسلمانوں کے شکر یہ کے مستحق ہیں، مجھے اس دارالعلوم کو دیکھ کر بڑی مسرت حاصل ہوئی، میں آپ حضرات کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر میں دارالعلوم دیوبند کو نہ دیکھتا تو میں ہندوستان سے نہایت غمگین واپس جاتا (لو لم ازرها لرجعت من الہند حزیناً)۔ اس مدرسہ کے نسبت میں نے اب تک جو سنا تھا، اس سے بہت زیادہ پایا۔ استاذ جلیل مولانا انور شاہ صاحب نے جو اصول بیان کیے ہیں اور مشائخ کا جو مسلک بتایا ہے، میں اسے پسند کرتا ہوں

اور اس سے متفق ہوں، فقہ حنفی بلاشبہ کافی و وافی ہے۔“ (رجب ۱۳۳۰ھ/۱۹۱۲ء)

انور السادات (سابق صدر جمہوریہ مصر)

(جنرل سکریٹری مؤتمر اسلامی)

”اس عظیم اور تاریخی درس گاہ کی زیارت نے مجھے مجبور کیا میں بھیم قلب اپنے ان بھائیوں کی خدمت میں مبارک باد پیش کروں جو اس کو چلا رہے ہیں، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اس ادارہ کو علم و معرفت کا مینارہ بنائے اور ہمیشہ ہمیشہ مسلمانوں کو اس سے مستفید ہونے کے موقع عطا فرمائے۔“ (۱۳۷۵ھ/۱۹۵۵ء)

شیخ عبدالفتاح ابو غدہ شامی

”میرے لیے اللہ کا بہت بڑا فضل و انعام ہے کہ اُس نے ہندوستان کے شہروں کی زیارت کا موقع بہم پہنچایا بالخصوص ان شہروں میں سرفہرست دیوبند اور اس کی دینی درس گاہ ”دارالعلوم“ ہے، جو درحقیقت ہندوستان کا علم و تقویٰ سے بھرپور زندہ قلب علماء و مولفین کا مرکز اور دین و معرفت کے طلباء کی آماجگاہ ہے، اس مرکز علم کی زیارت عمر بھر کی تمناؤں اور لیل و نہار کے خوابوں میں سے ایک خواب و تمنا تھی، خدا کا شکر ہے کہ آج دارالعلوم دیوبند سر کی نگاہوں سے دیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی، اور پرانا خواب شرمندہ تعبیر ہوا، دور رہتے ہوئے اس کے بارے میں جو کچھ سنا تھا، اس کا جو کچھ ذہن میں خاکہ اور تصور تھا قریب سے دیکھ کر اس کو اس سے کہیں زیادہ پایا۔ اس مقدس ادارے کے گوشے گوشے سے انوارِ علم کا فیضان ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تعلیم دی جاتی ہے اور تشنگانِ علم اور طالبانِ رشد و ہدایت کے لیے مثالی نظم و نسق، سلیقہ شعاری اور روشن دماغی کے ساتھ اس اسلوب سے احکام دین و شریعت بیان کئے جاتے ہیں، جس میں اہل روحانیت کی روحانیت اور اصحابِ علم و تحقیق کے آثار و فیوض نمایاں طور پر جھلکتے ہیں۔

علم و تقویٰ کے اساطین سے مالا مال اس عظیم الشان ادارے کے علماء عظام کی خدمات جلیلہ کا ذکر کرتے ہوئے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، بلکہ اگر ذرا جرات کروں تو کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہمارا ایک واجب حق ہے، جس کا مطالبہ میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان علماء کرام کا فریضہ ہے کہ اپنے منفردانہ عقول کے نتائج فکر اور پیش بہا علمی فیوضات و تحقیقات کو عربی زبان کا جامہ پہنا کر عالم اسلام کے دوسرے علماء کو استفادے کا موقع فراہم کریں، یہ فریضہ ان پر اس لیے عائد ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص ہندوستان کے علمائے محققین کی کوئی تصنیف پڑھتا ہے تو اس میں اس کو وہ نئی منفردانہ تحقیقات ملتی ہیں جن کا مدار گہرے علم اور وسیع مطالعہ کے علاوہ تقویٰ و صلاح اور روحانیت ہوتی ہے، یہ حضرات سلف صالحین کے صحیح وارث اور اُن کے نمونے ہیں، اس لیے ان کی کتابیں نئی اور کارآمد چیزوں سے خالی نہیں ہوتیں۔ وذلک فضل اللہ یوتیہ من یشاء.....

بلکہ ان حضرات کی بعض کتابیں تو وہ ہیں جن میں ایسی چیزیں ملتی ہیں جو متقدمین علماء اکابر، مفسرین، محدثین اور حکماء کے یہاں بھی دستیاب نہیں، لیکن افسوس اور قلق کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان نادر تالیفات میں سے اکثر بلکہ سب کی سب اردو زبان میں لکھی گئی ہیں، اس لیے فریضہ معرفت اور امانت علم کی ادائیگی کے لیے یہ بات اولین واجبات میں سے ہے کہ ان نفیس شاہکار اور عمدہ کتابوں کا عربی زبان میں ترجمہ کیا جائے تاکہ ان سے وہ آنکھیں روشنی حاصل کریں جو ایسی چیزوں کے لیے بے تاب، تشنہ اور مشتاق ہیں، اور جیسا کہ میرا خیال ہے اس اہم ذمہ داری اور کٹھن فریضے کی ادائیگی کا کام اسی ادارہ عامرہ کے افراد کر سکتے ہیں جو ممتاز ترین علماء و طلباء کا گہوارہ اور سرچشمہ ہے، یہ دین و ثقافت کی ایک عظیم الشان خدمت اور قابل ذکر کارنامہ ہوگا، یہ اس ادارہ کے علماء اور طلبہ کا واجب فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ سے میری دعاء ہے کہ اس کار عظیم میں اس کی خصوصی مدد و معاونت ان کے شامل حال ہو۔“ (۲۸/ربیع الاول ۱۳۸۲ھ/۱۹۶۲ء)

شیخ عبدالحلیم محمود (شیخ الازہر)

”میں نے دارالعلوم دیوبند کی زیارت کی اور یہاں کچھ وقت گزارنے کی سعادت حاصل کی، میں نے طلبہ کو دیکھا کہ وہ محنت و جانفشانی کے ساتھ طلب علم میں لگے ہوئے ہیں اور دوسری طرف اساتذہ کے بارے میں بھی اندازہ ہوا کہ خلوص قلب کے ساتھ افادہ علمی کی خاطر جدوجہد کے لئے کمر بستہ ہیں۔ دارالعلوم میں جو نظام چل رہا ہے اس کے تحت طلبہ نہایت سہولت و آسانی کے ساتھ قیام و طعام اور تعلیم و تدریس سے مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ میں یہ اعتراف کئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ دارالعلوم کے مہتمم صاحب کے زہد و تقویٰ اور رفعت علمی اور اخلاص و للہیت ہی کے یہ آثار ہیں جو اس ادارہ میں مشاہد ہوتے ہیں اور اسی کا نتیجہ ہے کہ فضلاء دارالعلوم تمام شہروں اور ملکوں میں پہنچ کر اشاعت علم میں کامیابی کے ساتھ مشغول ہیں۔ ہم سب کی یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دارالعلوم دیوبند کے ذمہ داروں اور اساتذہ و طلبہ اور یہی خواہوں کہ بے مثال اجر و ثواب سے نوازے۔“ (۲۶ اپریل ۱۹۷۵ء)

شیخ محمد الحکیم (مفتی حلب، شام)

”آج مجھے دوسری مرتبہ دارالعلوم کو دیکھنے کا موقع ملا، میں نے پہلی حاضری کے بعد سے اب تک دو سال کے عرصے میں ہونے والی اس ادارے کی ترقیات کو دیکھ کر بڑی خوشی محسوس کی، اس کے اساتذہ کی کاوشیں قابل احترام اور اس کے طلبہ کی ترقیات قابل ستائش ہیں، خدا سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اسلام اور مسلمانان عالم، خاص طور پر ان قابل قدر ہندوستانی علما حضرات کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے جنہوں نے اسلامی تہذیب و ثقافت اور علم و عرفان کی اشاعت کے لئے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے اور ہمیں اپنی مرضیات کی توفیق دے، آمین۔“ (۲۴ نومبر ۱۹۷۴ء مطابق ۹ یقعدہ ۱۳۹۴ھ)

شیخ محمد الفحام (سابق شیخ الازہر، مصر)

”میں ایک زمانے سے دارالعلوم دیوبند کی زیارت کا مشتاق تھا، یہ اشتیاق دن بدن بڑھتا رہا، میں نے اللہ سے دعا کی کہ میری موت اس وقت تک نہ آئے جب تک میں دارالعلوم دیوبند کی زیارت نہ کر لوں، الحمد للہ کہ میری یہ تمنا پوری ہوئی جس کو میں کبھی بھول نہیں سکتا، میں نے اپنی آنکھ سے جو کچھ یہاں دیکھا وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو میں نے سنا تھا، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دارالعلوم دیوبند اور اس کے علماء کو ہر قسم کی توفیق اور ترقی سے نوازے، یہ ادارہ اسلام کے قلعوں میں سے ایک محفوظ قلعہ ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی اعانت فرمائے جو اس میں کام کر رہے ہیں تاکہ وہ اسلام کی خوب سے خوب تر خدمت انجام دے سکیں۔“ (۲۶ اپریل ۱۹۷۵ء)

شیخ یوسف السید ہاشم الرفاعی

(سابق وزیر حکومت کویت)

”عالم اسلام کو اس وقت ایک زبردست چیلنج کا سامنا ہے، یہ چیلنج پہلے تو اسلام کے دشمنوں کی جانب سے تھا وہ کہا کرتے تھے کہ اسلام اس دور کا ساتھ نہیں دے سکتا، لیکن اب یہ چیلنج خود داخلی طور پر مسلم نوجوانوں کے اندر سے ابھر رہا ہے، جدید تعلیم یافتہ نوجوان مستشرقین کی کتابیں دیکھتے ہیں، اور تشکیک میں مبتلا ہو کر کہتے ہیں کہ اسلام عصر حاضر میں رہنمائی کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور بڑی مصیبت یہ ہے کہ اگر دشمن آپ کے گھر میں ہو تو اس کا مقابلہ دشوار ہوتا ہے، ان نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ وہ اسلام کو اس کے صحیح خدوخال کے ساتھ جانتے ہی نہیں ہیں، اس فکری چیلنج کے لیے ہمیں علمائے راتخین کی ضرورت ہے اور علمائے راتخین پیدا کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند جیسے ادارہ کی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت صرف ہندوستان کی نہیں بلکہ سارے عالم اسلام کی ضرورت ہے، اسلام پر اعتراضات کے دفعیہ کے لیے ہم جلیل القدر علماء کے محتاج ہیں، ہمیں حافظ ذہبی اور حافظ ابن حجر کے معیار کے علماء کی ضرورت ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ الحمد للہ اس درجہ کے علماء اس دارالعلوم میں موجود ہیں۔“

دارالعلوم دیوبند اپنے افکار و نظریات میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی تحقیقات و نظریات سے کسب فیض کر کے اسی ڈگر پر چل رہا ہے، امام غزالی نے اپنے عہد کے مطابق فلسفہ یونان کی یلغار سے اسلام کو محفوظ رکھا، شاہ ولی اللہ نے کفر و شرک کی تردید کے لیے کام کیا، ہمیں بھی اس وقت ان چیزوں پر کام کرنا چاہئے جو اس دور کی پیداوار ہیں، شیطانی طاقتیں روز نئے نئے حربے استعمال کرتی ہیں، ہمیں اپنے عقائد و افکار کی حفاظت کے لیے اسی طرز پر ان کے خلاف کام کرنا چاہئے۔“ (نومبر ۱۹۷۵ء)

شیخ عبداللہ عمر نصیف

(جنرل سکریٹری رابطہ عالم اسلامی مکہ المکرمہ)

”یہ امر واقعہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا مرتبہ انتہائی بلند ہے اور روز اول ہی سے اس کی خدمات عظیم تر ہیں، یہاں کے فضلاء ہندو بیرون ہند میں دین اسلام کی بقاء و حفاظت کے لیے بنیادی رول ادا کر رہے ہیں اور مستقبل میں بھی ان شاء اللہ اسلام کے حوالے سے ہمہ جہتی خدمات انجام دیں گے۔“ (۱۳۰۴ھ/۱۹۸۴ء)

شیخ عبداللہ عبدالحمسن الترمذی

(وائس چانسلر جامعہ الامام محمد بن سعود، ریاض)

”آج کا یہ دن ہمارے لیے انتہائی مسعود و مبارک ہے کہ اللہ رب العزت نے اس عظیم اسلامی یونیورسٹی میں ہمیں حاضری کا موقع عطا فرمایا جس نے نسل در نسل علماء، دین کے داعی، علم و معرفت کے جیالوں کو جنم دیا، اس کے بانیین خدا ترس علماء اور بزرگ تھے، اس کے علمی و روحانی سرچشمہ سے طلبہ کی ایک بڑی جماعت سیراب ہو رہی ہے، امید ہے کہ اس کے یہ فرزند بنیادی علم دین کی طرف ہمیشہ متوجہ اور سنت نبوی پر عامل رہیں گے، سلف صالحین کے نقش قدم پر چل کر مبتدعین اور اہل زبغ و ضلال کا منہ توڑ جواب دیتے رہیں گے، نیز دعوت الی اللہ کے بنیادی فریضہ میں کوتاہی سے کام نہ لیں گے۔“

یہ چیز بھی میرے لیے انتہائی مسرت کا باعث ہے کہ ہندوستان کے مسلم ادارے خاص طور سے دارالعلوم دیوبند حرمین شریفین اور خادم حرمین شریفین کی برابر حمایت کرتے رہتے ہیں، مفسدین کی سازشوں اور دشمنوں کی طرف سے اسلام کے خلاف آنے والی با مخالف کارخ پھیر دیتے ہیں، حق کا دفاع کرتے ہیں۔

ہم دارالعلوم دیوبند اور اس کے فرزندوں کے لیے ہر خیر و بھلائی کی دعا کرتے ہیں، ہم اس موقع سے جامعہ کے نظام کو جان سکے، ہماری خواہش ہے کہ جامعہ الامام محمد بن سعود اور سعودی عرب کے دیگر تمام جامعات کے ساتھ دارالعلوم دیوبند کا جوڑ اور تعاون جاری رہے حتیٰ کہ اساتذہ و طلبہ ایک دوسرے سے افادہ و استفادہ کرتے رہیں۔“ (۱۳۰۷ھ/۱۹۸۷ء)

شیخ محمد بن عبداللہ السبیلی

(امام و خطیب مسجد حرام مکہ المکرمہ)

”میرے لیے انتہائی مسرت اور سعادت کا موقع ہے کہ اللہ رب العزت نے دارالعلوم دیوبند، یہاں کے علماء و مشائخ اور ذمہ داران سے ملاقات کی توفیق نصیب فرمائی، کئی مرتبہ دارالعلوم دیوبند دیکھنے کی خواہش دل میں

جاگی، بالآخر آج یہ مبارک موقع آ ہی گیا، یہاں کا حسن انتظام، طلبہ کا علم کے تئیں جنون اور دلچسپی نے مجھے بے حد مسرور اور متاثر کیا۔ دارالعلوم دیوبند، یہاں کے اکابر علماء اور ان کے روشن کارناموں سے آج دنیا واقف ہے، یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ علمائے دیوبند نے بحیثیت جماعت جو کام کیا ہے اس سے علم دین کا کوئی گوشہ مستثنیٰ نہیں گویا دارالعلوم ایک آفتاب ہے:

ولیس یصح فی الأذهان شیء
إذا احتاج النهار إلی دلیل
(آفتاب آمد دلیل آفتاب)

تمام مدارس میں اس کی الگ پہچان ہے، یہاں کے علماء ممتاز ہیں، اللہ رب العزت ان کو ان کی شایان شان بہترین بدلہ عنایت فرمائے۔

میں نے بے شمار ملکوں کا سفر کیا، سیکڑوں مدارس میں گیا جو اسی کی پیداوار ہیں، یا پھر اس کے نقش قدم پر یا اس کے قائم کئے ہوئے اثرات سے جاری ہوئے ہیں، چنانچہ بنگلہ دیش، پاکستان، ملیشیا، انڈونیشیا حتیٰ کہ برطانیہ جہاں جہاں بھی میں مدرسوں میں گیا سب جگہ دارالعلوم دیوبند کے فیض ہی کا نتیجہ نظر آیا۔

میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نصرت فرمائے اور یہ جامعہ اسلام کا ایک روشن مینارہ ثابت ہو، اور اپنی ضیا پاشیوں سے پورے عالم کو روشن کرے، جس طرح اس نے برصغیر اور اس سے متصل اسلامی ممالک کو منور کیا، اللہ تعالیٰ اس کے بانیوں کو بہترین بدلہ عنایت فرمائے کہ ان حضرات کی انتھک کوششوں، بلند ہمتی اور جذبہ عمل سے دارالعلوم جیسے عظیم ادارے کا قیام عمل میں آیا۔“ (۱۳۰۸ھ/۱۹۸۷ء)

شیخ عائض ابن عبداللہ القرنی

(عربی کے مشہور مصنف و خطیب)

”چونکہ ہم دارالعلوم دیوبند کے واقعات، خبریں، حقائق اور یہاں کے علماء کی کتابیں اور ان کے مجاہدانہ کارناموں کو پڑھا کرتے تھے اس لیے دیا حرم (مکتہ المکرمہ، مدینہ منورہ) بلکہ ہر جگہ یہ خواہش رہتی کہ کب ہم اس کو قریب سے دیکھیں گے، ہم دل ہی دل میں یہ کہا کرتے تھے کہ ہماری یہ دیرینہ تمنا کب پوری ہوگی۔

الغرض ہم نے دارالعلوم کے بارے میں بہت کچھ پڑھا اور سنا بلکہ آپ کے یہاں کے علماء کی بعض کتابیں ہمارے یہاں جامعات میں پڑھائی جاتی ہیں، میں اس وقت اپنے جذبات کا اظہار ”متنبی“ کے اس شعر سے کروں گا:

واستکبر الأخبار قبل لقائه
فلما التقینا صغر الخبر الخبر

ترجمہ: مجھے اس کے دیدار سے پہلے اس کی خبریں بڑی محسوس ہوئیں، مگر جب قریب سے دیکھا تو

مشاہدہ نے بتایا کہ یہ تو اُس سے بڑھ کر ہے۔

میں نے دنیا کے تیس سے زائد ملکوں کا سفر کیا، لیکن سب سے زیادہ فرحت و انبساط اس دارالعلوم دیوبند کو دیکھ کر ہوا، میں نے یہاں کے علماء و طلبہ کو اور جگہوں کے مقابلے میں سنت پر زیادہ عمل پیرا پایا (یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے)۔ دارالعلوم دیوبند کی ایک قدیم تاریخ ہے، ہزاروں علماء، محدثین، فقہاء، مفسرین، مبلغین اسی کی کوکھ سے پیدا ہوئے اس طرح برصغیر میں اسلام کی حفاظت کا یہ ضامن بنا، شاعر مشرق علامہ اقبال مرحوم نے کہا تھا:

رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی
(جس کو شیخ موصوف نے عربی زبان میں اس طرح ادا فرمایا)

و عند الناس فلسفة و فکر ولكن أين تلقين الغزالي
و جلجلة الأذان بكل حي ولكن أين صوت من بلال
لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر اقبال مرحوم آج موجود ہوتے اور دارالعلوم دیوبند، یہاں کے علماء و طلبہ کو دیکھتے تو بے ساختہ یہ کہتے کہ یہاں تو روح بلالی بھی موجود ہے اور تلقین غزالی بھی۔

بخدا آج اگر مجھ سے یہ کہا جائے کہ آپ عالیشان محلات میں چاہیں تو شاہوں، وزراء، حکام اور امراء کی ہم نشینی اختیار کریں یا ان علماء و طلبہ کے ساتھ اس خاک پر بیٹھیں تو میں ان علماء و طلبہ کی ہم نشینی کو ترجیح دوں گا، اس ربح مسکوں میں دارالعلوم دیوبند اور وابستگان دارالعلوم تنہا نہیں ہیں، بلکہ ان کے ساتھ خدائی نصرت ہے، کروڑوں مسلمان بھائی ان کے لیے ہمنوائی اور خیر کی دعا کرتے رہتے ہیں۔“ (۱۴۳۲/۱۱/۲۰۱۱ء)

محدث شیخ محمد عوامہ

”خدائے عز و جل کا بے پایاں شکر و احسان ہے کہ اس نے میری اس آرزو کو پورا کیا کہ مجھے از ہر ہند، علم و دانش کے مرکز اور اسلام کے مضبوط اور عالیشان قلعہ دارالعلوم دیوبند دیکھنے کی توفیق بخشی، گذشتہ صدیوں میں اسلام کی تاریخ میں ایسے بہت سے مراکز ہوئے ہیں، جن سے امت مسلمہ کو خوب خوب نفع پہنچا، لیکن موجودہ صدی میں اس روشن منارے کی طرح کوئی منارہ نظر نہیں آتا، اس کی محدود عمر کے سامنے اس کے علمی و عملی کارنامے لامحدود ہیں، ہر علم پسند دوست اور ہر وہ شخص جس نے اس پُر بہار جامعہ کے متعلق سن رکھا ہے، وہ بخوبی جانتا ہے کہ یہ جامعہ ہندو پاک، بنگلہ دیش، جنوبی افریقہ، یورپ وغیرہ میں ہزاروں سے متجاوز فرزندوں کی مادر علمی ہے، شہروں اور آبادیوں سے ماوراء اس کی گونج ہر نشیب و فراز، پہاڑوں اور وادیوں میں پہنچی ہوئی ہے۔“ (۱۴۳۲/۱۱/۲۰۱۱ء)

شیخ عبدالرحمن السدیس

(امام و خطیب مسجد حرام مکہ المکرمہ)

”جمعیۃ علمائے ہند کی عظمت صحابہ کانفرنس (دہلی) میں شرکت کے موقع پر دارالعلوم دیوبند کے استاذ حدیث

حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کی دعوت پر مجھے دارالعلوم دیوبند جیسے عظیم علمی و تربیتی مرکز کی زیارت کا موقع میسر آیا، یہ وہ جامعہ ہے کہ ہندوستان جیسے ملک سے برسہا برس سے اس کا اہم اسلامی پیغام جاری ہے، میں دارالعلوم دیوبند کے اس دورہ کو خدا کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت سمجھتا ہوں۔

اس مبارک موقع سے میں خادم حرمین شریفین اور ان کے دونوں نائیبین نیز ائمہ حرمین شریفین اور سعودی عوام کی جانب سے دارالعلوم دیوبند کے مہتمم و جملہ ذمہ داران و ملازمین اور طلبہ کا شکر یہ ادا کرتا ہوں، اس حاضری اور ملاقات پر اباب دارالعلوم کی طرف سے جو محبت مجھے ملی الفاظ میں ان کا اظہار نہیں کیا جاسکتا۔

واقعاً دارالعلوم دیوبند ایمان اور علم کے ہتھیار سے مسلح نسل کو تیار کرنے میں ایک درخشاں کردار ادا کر رہا ہے، پوری ملت اسلامیہ خاص کر برصغیر کو اس پر ناز ہے۔“ (۱۴۳۲ھ/۲۰۱۱ء)

شیخ سعود بن ابراہیم الشریم

(امام و خطیب مسجد حرام مکہ المکرمہ)

”جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ ہندوستان کے ہمارے اس پروگرام میں دارالعلوم دیوبند کی زیارت بھی شامل ہے، تو مجھے بہت خوشی ہوئی اس لیے کہ جب بھی ہم ہندوستان، یہاں کے مسلمانوں اور علماء کے کارناموں کو سنتے تھے تو اس میں دارالعلوم دیوبند کا ذکر ضرور آتا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے بغیر ہندوستان میں اسلام کی تاریخ نامکمل ہے۔“

آج دارالعلوم دیوبند سے کون ناواقف ہے، ہندو بیرون ہند اس کے چرچے ہیں، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اُس نے ہمیں اس جامعہ کا دیدار کرایا جس کے بارے میں ہم کثرت سے صرف سنا کرتے تھے۔“ (۱۴۳۳ھ/۲۰۱۲ء)

شیخ صالح بن عبدالعزیز بن محمد آل الشیخ

(وزیر برائے مذہبی امور سعودی عرب)

”مہتمم جامعہ حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم کی دعوت پر مجھے دارالعلوم دیوبند کی زیارت اور یہاں کے علماء و طلبہ سے ملاقات کا موقع ملا، میں نے دارالعلوم دیوبند، اس کے علماء اور ان کے علم و فضل کی بابت بہت کچھ سن رکھا تھا، یہاں آکر اس کا مشاہدہ ہو گیا، اس لیے کہ اس نے برصغیر میں اسلام کی شمع کو روشن رکھتے ہوئے علوم قرآن و سنت کی حفاظت، اسلام اور مسلمانوں کے وجود کو صحیح شکل میں باقی رکھا ہے۔“

میں دارالعلوم دیوبند کے ذمہ داران و منتسبین کا بے حد ممنون و مشکور ہوں، بلاشبہ ہمارے اور آپ کے درمیان یہ رشتہ بہت مضبوط بنیادوں پر قائم ہے جس کو دنیا کی کوئی طاقت کمزور نہیں کر سکتی، وہ ہے کلمہ کی طاقت۔“ (۱۴۳۵ھ/۲۰۱۴ء)

شیخ صالح محمد بن ابراہیم آل طالب (امام و خطیب مسجد حرام مکہ المکرمہ)

”اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے مجھے اسلام کی عظیم یونیورسٹی دارالعلوم دیوبند میں کی زیارت، اس کی عظیم الشان مسجد جامع رشید میں نماز پڑھنے، اس کے علماء و طلبہ سے ملاقات کرنے اور ان کے مابین کچھ کہنے کا موقعہ فراہم فرمایا۔ ہمارے دلی جذبات و احساسات پر، جو اس جامعہ اور اس کے علماء کے بارے میں ہیں، شاعر کا قول پورے طور پر صادق آتا ہے:

نلنا محبتکم من قبل رؤیتکم والأذن تعشق قبل العين أحياناً
(آپ کی ملاقات سے قبل ہی ہمارے دلوں میں آپ کی محبت سمائی ہوئی تھی؛ کیوں کہ بسا اوقات دیکھنے سے پہلے ہی صرف کانوں کے ذریعہ سن کر محبت ہو جاتی ہے)

اس جامعہ کی شہرت چہار دانگ عالم میں ہے اور اس کا فیض دنیا کے گوشے گوشے میں جاری و ساری ہے۔ اس جامعہ کے فضلاء اور ان کی تصنیفات ہر جگہ پائی جاتی ہیں اور ان کی روشنی زمان و مکان کی حدود سے آگے بڑھی ہوئی ہے۔ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے علوم و فنون پر جامعہ کی توجہات ہی دراصل اس کی کامیابی کا سب سے بڑا راز ہے۔ خوف خدا کی تلقین کے بعد اس نچ کو اور رشد و ہدایت اور فلاح و کامرانی کے اسباب (یعنی کتاب و سنت) کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کی تاکید کرتا ہوں۔ میں ان سطور میں ان احساسات و جذبات کو قلم بند کر رہا ہوں جو مجھے اپنے استقبال کنندگان اور مہمان نوازی کرنے والے بھائیوں سے میسر آئے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنے فضل کو قائم و دائم رکھے اور مینارہٴ رشد و ہدایت بنائے۔ آمین ثم آمین!“ (۱۴۳۷ھ/۲۰۱۶ء)

شعراء کے منظوم تاثرات ترانہ دارالعلوم دیوبند

مولانا ریاست علی ظفر بجنوری

یہ علم و ہنر کا گہوارہ، تاریخ کا وہ شہ پارہ ہے
ہر پھول یہاں اک شعلہ ہے، ہر سُر و یہاں مینارہ ہے
خود ساقی کوثر نے رکھی، میخانے کی بنیاد یہاں
تاریخ مرتب کرتی ہے دیوانوں کی رُو داد یہاں
جو وادی فاراں سے اٹھی، گونجی ہے وہی تکبیر یہاں
ہستی کے صنم خانوں کے لیے ہوتا ہے حرم تعمیر یہاں
برسا ہے یہاں وہ ابر کرم، اٹھا تھا جو سوائے یثرب سے
اس وادی کا سارا دامن سیراب ہے جوئے یثرب سے
کھسار یہاں دب جاتے ہیں، طوفان یہاں رک جاتے ہیں
اس کا رخ فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں
ہر بوند ہے جس کی ہر ت جل، یہ بادل ایسا بادل ہے
سوساگر جس سے بھر جائیں یہ چھاگل ایسا چھاگل ہے
مہتاب یہاں کے ذروں کو، ہر رات منانے آتا ہے
خورشید یہاں کے غنچوں کو ہر صبح جگانے آتا ہے
یہ صحنِ چمن ہے برکھاڑت، ہر موسم ہے برسات یہاں
گلابنگِ سحر بن جاتی ہے ساون کی اندھیری رات یہاں
اسلام کے اس مرکز سے ہوئی، تقدیس عیاں آزادی کی
اس بامِ حرم سے گونجی ہے سو بار ازاں آزادی کی
اس وادی گل کا ہر غنچہ، خورشیدِ جہاں کہلایا ہے
جو رند یہاں سے اٹھا ہے وہ پیرِ مغان کہلایا ہے

جو شمع یقین روشن ہے یہاں، وہ شمعِ حرم کا پرتو ہے
 اس بزمِ ولی اللہی میں تنویرِ نبوت کی ضو ہے
 یہ مجلسِ مے وہ مجلس ہے، خود فطرت جس کی قاسم ہے
 اس بزم کا ساقی کیا کہیے جو صبحِ ازل سے قائم ہے
 جس وقت کسی یعقوب کی لے، اس گلشن میں بڑھ جاتی ہے
 ذروں کی ضیا خورشیدِ جہاں کو ایسے میں شرماتی ہے
 عابد کے یقین سے روشن ہے، سادات کا سچا صاف عمل
 آنکھوں نے کہاں دیکھا ہوگا اخلاص کا ایسا تاج محل
 یہ ایک صنم خانہ ہے جہاں، محمود بہت تیار ہوئے
 اس خاک کے ذرے ذرے سے کس درجہ شہر بیدار ہوئے
 ہے عزمِ حسین احمد سے بپا، ہنگامہ دارو گیر یہاں
 شاخوں کی لچک بن جاتی ہے باطل کے لیے شمشیر یہاں
 رومی کی غزلِ رازی کی نظر، غزالی کی تلقین یہاں
 روشن ہے جمالِ انور سے پیاناہ فخر الدین یہاں
 ہر رند ہے ابراہیم یہاں، ہر میکش ہے اعزاز یہاں
 زندانِ ہدی پہ کھلتے ہیں تقدیسِ طلب کے راز یہاں
 ہیں کتنے عزیز اس محفل کے، انفاسِ حیات افروز ہمیں
 اس سازِ معانی کے نغمے، دیتے ہیں یقین کا سوز ہمیں
 طیبہ کی مئے مرغوب یہاں، دیتے ہیں سفالِ ہندی میں
 انوارِ چراغِ نعمانی، روشن ہیں جمالِ ہندی میں
 خالق نے یہاں اک تازہ حرم، اس درجہ حسین بنوایا ہے
 دل صاف گواہی دیتا ہے، یہ خلدِ بریں کا سایہ ہے
 اس بزمِ جنوں کے دیوانے، ہر راہ سے پہنچے یزداں تک
 ہیں عام ہمارے افسانے، دیوارِ چمن سے زنداں تک
 سو بار سنوارا ہے ہم نے، اس ملک کے گیسوئے برہم کو
 یہ اہل جنوں بتلائیں گے، کیا ہم نے دیا ہے عالم کو

جو صبح ازل میں گونجی تھی، فطرت کی وہی آواز ہیں ہم
 پُروردہ خوشبو غنچے ہیں، گلشن کے لیے اعجاز ہیں ہم
 اس برقی تجلی نے سمجھا پروانہ شمع نور ہمیں
 یہ وادی انجمن دیتی ہے تعلیم کلیم کھور ہمیں
 دریائے طلب ہو جاتا ہے، ہر میکش کا پایاب یہاں
 ہم تشنہ لبوں نے سیکھے ہیں مے نوشی کے آداب یہاں
 بلبل کی دعا جب گلشن میں، فطرت کی زباں ہو جاتی ہے
 انوارِ حرم کی تابانی ہر سمت عیاں ہو جاتی ہے
 ہر موج یہاں ایک دریا ہے، اک ملت ہے ہر فرد یہاں
 گونجا ہے، ابد تک گونجے گا، آوازہ اہل درد یہاں
 امداد و رشید و اشرف کا، یہ قلوبِ عرفاں پھیلے گا
 یہ شجرہ طیب پھیلا ہے؛ تا وسعتِ امکاں پھیلے گا
 خورشید یہ دین احمد کا، عالم کے افق پر چمکے گا
 یہ نور ہمیشہ چمکا ہے؛ یہ نور برابر چمکے گا
 یوں سینہ گیتی پر روشن، اسلاف کا یہ کردار رہے
 آنکھوں میں رہیں انوارِ حرم؛ سینے میں دل بیدار رہے

قدیم ترانہ دارالعلوم دیوبند

مولانا عبدالرؤف منصف اعظمی

مرکز علم و ہنر اے چشمہ فیضانِ حق
تجھ سے سیکھا ہے جہاں نے علم و حکمت کا سبق

دستِ قاسم سے تری بنیاد جب رکھی گئی
داعیٰ حق و صداقت مرکزِ ابرار ہے
ہو گئے عالم پہ اسرارِ حقیقت منجلی
ہر طرف اسلام کی پھیلی ہے تجھ سے روشنی
جن کی صوتِ سردی پر اہل دل شیدا ہوئے
وقت پر تونے جھنجھوڑا غفلتوں کے خواب سے
دے دیا ہر کارواں کو صبحِ منزل کا پتہ
داعیٰ تہذیبِ دیں ہے حامیٰ طرزِ حجاز
تیرے ہر اقدام میں جذبہ یہی موجود ہے
تیرا مسلک پیرویٰ صاحبِ قرآن ہے
خرمنِ الحاد پر اک برقی شعلہ بار ہے
دہریت لرزاں ہے تیرے زورِ استدلال سے
علم میں یکتائے دوراں، ماہرینِ قیل و قال
دہر کی ہر بزم میں ہیں کامیاب و کامراں
نعرہ زن بھی ہیں کہیں، سرگرم آہوں میں بھی ہیں
اور سیاسیات میں نباضِ نیرنگ جہاں
چشمِ شیخِ الہند پر بھی منکشفِ رفعت تری
افتخارِ عصرِ خود، ممتازِ اربابِ تمیز
مطلقاً نباضِ فطرت پیکرِ فکرِ جمیل

تہنیت خواں تھے ملائک چرخ پر باصد خوشی
دستِ قال اللہ کا تو اک علم بردار ہے
تیری ضو پاشی سے اک دنیا منور ہو گئی
جلوہ توحید کی حامل ہے تیری زندگی
نغمہ زن باغِ حقیقت کے یہاں پیدا ہوئے
قوم کی کشتی نکالی تونے ہر گرداب سے
ہر مسافر کو دکھایا راستہ مقصود کا
دعوتِ حقانیت سے سر بلند و سرفراز
تیری جدّ و جہد کا للہیت مقصود ہے
در حقیقت ہند میں تو علمِ دیں کی جان ہے
تو جہاں میں ملتِ اسلام کا شہکار ہے
دم بخود ہے مادیت حسن حال و قال سے
تیرے فیضِ عام سے کتنے بنے اہل کمال
تیری محفل میں جنھوں نے پی شرابِ ارغواں
خانقاہوں میں بھی ہیں اور رزم گاہوں میں بھی ہیں
مسند تدریس پر بیٹھے تو شیخِ کامراں
قاسم و یعقوب سے پوچھے کوئی وقعت تری
تیرے ہی فیضان سے یکتا ہوئے مفتی عزیز
اور حبیبِ ذی فطانت، مالکِ نظمِ جمیل

عبد الاحدؒ ومدنیؒ جیسے ہیں ابھی زندہ مثال
 اور عبید کاشفِ رمز سیاست بھی ہوئے
 عارفِ سر حقیقت، صاحبِ صدق و صفا
 جی میں آتا ہے گناؤں بعض کو بہر مثال
 اسوۂ مخلقِ پیہر، مرجعِ مخلقِ خدا
 حضرت مولانا مدنیؒ، قائدِ اہلِ زمن
 حضرت عبد السمیعؒ ہیں نکتہِ سخنِ قیل و قال
 موعظت میں طیبؒ رنگیں بیاں ممتاز ہیں
 مسندِ تعلیم پر رونقِ فزا فخر الحسنؒ
 جن کے ذوقِ استقامت پر نفا فضل و کمال
 ہیں بشیرؒ دانش افزا مشفقِ اہلِ زمن
 ہیں مجسمِ طاعت و اخلاق کے روشن گہر
 حو حیرت ہو رہے ہیں جن پر اصحابِ جہاں

انورؒ و شبیرؒ جیسے بھی ہوئے اہلِ کمال
 تیرے ہی فیضان سے فخر و کفایت بھی ہوئے
 تھانویؒ صاحب بھی جو تھے مرجعِ خلقِ خدا
 ہیں بہت سے اب بھی تیرے باغ میں اہلِ کمال
 صاحبِ کشف و کرامت پیکرِ صبر و رضا
 مظہرِ شانِ جلالتِ چشمہٴ علم و سنن
 عالمِ یکتائے دُوراں، مظہرِ فضل و کمال
 مسندِ فقہ و ادب پر ضوفشاں اعزاز ہیں
 مسندِ افتا پہ ہیں مہدی حسنؒ جلوہ فگن
 ماہرِ تفہیم ہیں حضرت جلیلؒ خوش مقال
 واقفِ علمِ ریاضی، ماہرِ دستور فن
 حضرت عبدالاحدؒ، شیخِ المعانی کے پسر
 تیرے اعلیٰ کارناموں کی ہیں زریں داستاں

منصفِ معجز بیاں زلہ رہائے خوانِ تست
 بردل و جانس رواں شام و سحر فرمانِ تست

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور دارالعلوم دیوبند

حضرت مولانا نسیم احمد فریدیؒ

جب رکھی بنیادِ مے خانہ بطورِ یادگار
مجرعہ نوشانِ ازل آئے قطار اندر قطار
اپنی وسعت کے مطابق پی گیا ہر بادہ خوار
بادۂ مغرب کے متوالوں کا ٹوٹا ہے شمار
یہ خصوصیت یہاں ہر فرد میں ہے آشکار
باخدا دیوانہ باش و با محمد ہوشیار
اپنے مے خانے کی رونق، اپنے رندوں کی بہار
تیرا مستقبل ترے ماضی سے بڑھ کر شاندار
دور میں ساغر رہے تا گردشِ لیل و نہار
ہند میں ہے بزمِ دلی کی یہ واحد یادگار
پھر بھی اس سرمایہٴ ملت کا ہے سرمایہ دار
دیکھ کر اس کو بہل جاتا ہے قلبِ سوگوار
نور سے معمور کر دے اے خدا اُن کے مزار

ساقی دہلی کے مستوں نے بارضِ دیوبند
دور دورہ ساغرِ صہبائے طیبہ کا ہوا
قاسم و محمود و انور نے لٹھائے تم کے تم
آج بھی ساقی کی چشمِ خاص کی تاثیر دیکھ
در کھے جامِ شریعت در کھے سندانِ عشق
اس کے ہر مے خوار کو چہر مغاں کا حکم ہے
کاش اے ساقی دہلی تو بھی آکر دیکھتا
تیرا دورِ جامِ دورِ چرخ سے بھی تیز تر
یا الہی حشر تک باقی رہے یہ مے کدہ
اس کی ہر ہر اینٹ میں تاریخِ ماضی ثبت ہے
مسلم ہندی اگرچہ مفلس و نادار ہے
شوکتیں جب دہلی مرحوم کی آتی ہیں یاد
جن کی کوشش سے چلا ہے دورِ صہبائے حجاز

آفریدیؒ تو بھی ہو ساغرِ بکف مینا بدوش

طالبِ جوشِ عمل ہے، ساقی ابر بہار

دارالعلوم دیوبند

مولانا ظفر علی خان مرحوم

شاد باش و شاد زی، اے سرزمینِ دیوبند ہند میں تو نے کیا اسلام کا جھنڈا بلند
ملتِ بیضا کی عزت کو لگائے چار چاند حکمتِ بطحا کی قیمت کو کیا تو نے دوچند
اسم تیرا با مستی، ضرب تیری بے پناہ دیو استبداد کی گردن ہے اور تیری کند
تیری رجعت پر ہزار اقدام سو جاں سے نثار قرن اول کی خبر لائی تری الٹی زقند
تو علم بردار حق ہے، حق نگہ باں ہے ترا خیل باطل سے پہنچ سکتا نہیں تجھ کو گزند
ناز کر اپنے مقدر کو کہ تیری خاک کو کر لیا ان عالمانِ دینِ قیم نے پسند
جان کر دیں گے جو ناموسِ پیہر پر فدا حق کے رستے پر کٹا دیں گے جو اپنا بند بند
کفر ناچا جن کے آگے بارہا تنگی کا ناچ جس طرح جلتے توے پر رقص کرتا ہے پسند
اس میں قائم ہوں کہ انور شہ کہ محمود الحسنؒ سب کے دل تھے درہند اور سب کی فطرت احمد

گرمی ہنگامہ تیری ہے حسین احمدؒ سے آج
جن سے پرچم ہے روایاتِ سلف کا سر بلند

منظرِ نورِ خدا دارالعلوم

جناب عثمان شاکر دیوبندی

السلام اے سرزمینِ خلد زارِ دیوبند
عالمِ انسانیت میں امن کی تصویر ہے
ہے گماں خورشید کا ہر ذرہ ناچیز پر
کوچہ و بازار جس کے پرسکون و دل نواز
قدسیوں کی سرزمین، جنات کا مسکن ہے یہ
بند کر ڈالے ہیں جس میں دیو استبداد کے
دیو کے ظلمت کدوں میں نور کا سامان ہے
وہ امینِ عظمت و ناموسِ ہندوستان ہے
ایک دریائے حقیقت از مکاں تا لا مکاں
ہے زمینِ دیوبند تسکینِ دل آرامِ جاں
اے مرے پیارے وطن تو ملک کی ہے آبرو
ملک و ملت کو بچاؤ فرضِ اول جان کر
مدتی و محمود کے مسلک کا رہبر آگیا
حق نما و حق نگر روشن حقیقت حق نواز
کاروانِ ملک و ملت آج کیوں تاراج ہے

مرحبا بادِ نسیمِ گل بہارِ دیوبند
بزمِ عالم میں، ہوائے مشکبارِ دیوبند
دل جگاتا ہے جہاں میں جلوہ زارِ دیوبند
صورتِ راہِ وفا ہے، رہ گزارِ دیوبند
منظرِ نورِ خدا ہے رازِ دارِ دیوبند
بے نشان ہیں، بے مکاں وہ گنہ گارِ دیوبند
ہند و مسلم کیا، سبھی ہیں نگہدارِ دیوبند
ہے عروسِ ملک و ملت اب شمارِ دیوبند
فیض کا ہے عام جاری آبشارِ دیوبند
جنتِ ارضی ہے ہر اک لالہ زارِ دیوبند
مرتبہ اعلیٰ ہے، برتر ہے وقارِ دیوبند
کہتا ہے لکار کر اک وضعدارِ دیوبند
دھوم سے ہر سمت آیا تاجدارِ دیوبند
یوسفِ ثانی ہے گویا گل عذارِ دیوبند
پھر اٹھا ہے سرفروش و جاں نثارِ دیوبند

مل گئے شاکر یہاں جب رہنمایانِ جہاں
کیوں نہ ہوگی روح اپنی نغمہ بارِ دیوبند

چمنستان دیوبند

جناب صابر مظفر آبادی، کشمیر

میں ہی نہیں ہوں ایک ثنا خوان دیوبند
اہل جہاں میں مدح سراپان دیوبند
وہ سرزمین کہ آئی تھی بوجس سے علم کی
وہ سرزمین ہے آج خیابان دیوبند
یعقوبؑ اور قاسمؑ و امدادؑ کی اے دل
ممنون ہے بہار گلستان دیوبند
محمودؑ ہوں حسینؑ ہوں انورؑ ہوں یا علیؑ
ہیں سارے آفتاب درخشان دیوبند
ہے قریہ، قریہ عالم اسلام کا ندیم
منت کش فیوض دبستان دیوبند
جاہ وجلال وشوکت دارا وجم کو آج
لائے نہیں نظر میں گدایان دیوبند
الحاد وکفر غرب ہو یا شرک ایشیا
دونوں کی موت، برق درخشان دیوبند
ہے دل سے یہ دعا کہ معطر بہ علم دیں
یا رب رہے سدا یہ چمنستان دیوبند

ہے اس کا فیض شرق سے تا غرب منتشر
صابر ہو کیوں نہ آج ثنا خوان دیوبند

وہ پہلا گھر علوم کا ہندوستان میں

مولانا محمد عثمان قاسمی جو پوری

علم و عمل کا مرکز اعلیٰ کہیں جسے
دارالعلوم جس کی بنا ہے خلوص پر
وہ جس کا فیض عام ہے سارے جہان میں
ہر ذرہ جس کا مہر درخشاں کی طرح ہے
ایک معجزہ کی طرح چمکتا ہے اس کا نور
وہ پہلا گھر علوم کا ہندوستان میں
مہر منیر ماہ درخشاں کی طرح ہے
پہلے ہی دن سے جس کی بنا اتقا پہ تھی
گلشن علوم دین کا کہتے ہیں جس کو سب
بجھتی ہے تشنہ لب کی یہیں آ کے تشنگی
جس کی ضیا سے ظلمتِ بدعات مٹ گئی
گلہائے تر سے جس کے معطر جہان ہے

دارالعلوم فضلِ خدائے کریم ہے
عثمان کو بھی اس سے نیازِ قدیم ہے

دیوبند! اے مرکزِ اسلام! تو زندہ رہے

حکیم آزاد شیرازی

خطۂ ہندوستان میں تو ہے فردوسِ بریں
تو زمانہ میں حریفِ گردشِ ایام ہے
کائناتِ علم میں پھیلی ہے تیری رنگ و بو
تو یقیناً وارثِ علمِ نبوت بھی تو ہے
بتکدے سے نعرۂ تکبیرِ رخصت ہو گیا
شاعری تھی مرثیے تھے اور قصیدوں کی کتاب
آکے گھیرا شاعرانِ مغلیہ کو جنگ نے
سکھا شاہی کے مگر پنجاب میں آثار تھے
چند غداروں نے پر امداد کی کفار کی
لٹ گیا سرحد پہ سب اہلِ حرم کا قافلہ
وہ اکیلا رزمِ آرا بر سر میدان تھا
وہ بلا لائے ہلا کو خان اور چنگیز کو
یوں وطنِ محکومِ افرنگی سیاست سے ہوا
تو مگر مصروفِ سعیِ خدمتِ اسلام تھا
بن گیا تمہیدِ ماضی حال و استقبال کی
تھے یقیناً اپنی تنہا ذات میں اک انجمن
شیخ کے نزدیک تو جنگِ سیاست اور تھی
کامِ آخر آ گیا تیرا جہادِ حریت
سرزمینِ دیوبند آزاد ہے آباد ہے
پایۂ عرشِ بریں پر نقشِ تیرا نام ہے

سرزمینِ دیوبند! اے سرفروشوں کی زمیں
تیرے نقشِ پامیں رنگِ صبح و گر و شام ہے
سو برس سے علم کا منبع ہے سرچشمہ ہے تو
ہند میں تو مرکزِ رشد و ہدایت بھی تو ہے
ہند سے جب دورِ عالم گیر رخصت ہو گیا
اپنے ہاتھوں میں بجائے تیغ تھے چنگ و زباب
دیکھ کر یہ حال بدلیں کروٹیں افرنگ نے
سید احمد شاہ اسماعیلؒ ابھی بیدار تھے
جو مجاہد تھے انھوں نے ہاتھ میں تلوار لی
ہو گئے ملت پہ قرباں وہ شہیدانِ وفا
اس طرف ٹپو اٹھا جو شیرِ ہندوستان تھا
ہاں مگر غدار واں بھی مل گئے انگریز کو
سرخرو سلطان ٹپو بھی شہادت سے ہوا
گو ستاون کا جہادِ حریت ناکام تھا
جب ہوئی ناکام کوششِ ریشمی رومال کی
تیرے خادم تھے جو شیخ الہند محمود الحسنؒ
درسِ دین تو اک بہانا تھا حقیقت اور تھی
مدتوں جاری رہا تیرا جہادِ حریت
اب فرنگی کی غلامی سے وطنِ آزاد ہے
سرزمینِ ہند میں تو مرکزِ اسلام ہے

ہے دعا تو حشر تک زندہ و تابندہ رہے
تیرا فیضِ عام جاری اور درخشندہ رہے

دارالعلوم دیوبند

جناب اکرام القادری، پاکستان

خاص ہیں تجھ پر عنایاتِ خداوندِ کریم
 ہر طرف پھیلا ہوا ہے تیرا فیضانِ عظیم
 بالیقین ہے تیراے خواروں پہ احسانِ عظیم
 سلف کو آئی تھی تجھ سے علم و عرفاں کی نسیم
 تیرے فرزانوں سے گھبراتا تھا فرنگی لئیم
 فقر تھا جن کی ردا اور معرفت جن کی گلیم
 عاشقِ سنت رشید احمدؒ سا انسانِ عظیم
 جو سراجِ اولیا ہیں اور امت کے حکیم
 جن کو بخشا تھا خدائے پاک نے قلبِ سلیم
 حضرت مدنیؒ امامِ اولیاءِ جنت مقیم
 جو ذکی تھا، نابغہ تھا عبقری تھا اور فہیم
 سرنگوں ہے عظمتوں کے سامنے جن کی غنیم
 کوہِ عزم و علم تھا جو اور اواہ و حلیم
 صالحیں تیرے دعا گو اولیاءِ تیرے ندیم
 کیوں وہاں سے پھر نہ ہو مایوس شیطانِ رجم

تو عظیم اور تیرے بانی بھی یقیناً تھے عظیم
 آبیاری تو نے کی ہے گلشنِ اسلام کی
 خم کے خم تو نے لٹھکھائے بادۂ عرفان کے
 تو نے قائم کی جہاں میں دین و تقویٰ کی فضا
 تیرے پروانوں نے آزادی کا لہرایا علم
 ہیں ترے معمارِ اول حضرتِ نانوتویؒ
 مدتوں شامل رہا ہے سرپرستوں میں ترے
 تیری آغوشِ محبت میں کپے تھے تھانویؒ
 تیری ہی مٹی سے اٹھے تھے اسپر مالکا
 تیری نسبت پر ہمیشہ ناز فرماتے رہے
 فیض پایا تیرے فرزندوں سے انور شاہؒ نے
 تھے عبید اللہ سندھی خوشہ چینوں میں ترے
 قاری طیبؒ سا عظیم انساں تھا تیرا مہتمم
 تجھ کو بخشا ہے خدانے وہ علو مرتبت
 گونجتے ہوں زمزمے قرآن و سنت کے جہاں

کیوں نہ میں اکرام ان ابرار کی مدحت کروں

جن کی توصیف و ثنا کرتا ہے قرآنِ کریم

دارالعلوم دیوبند

جناب زبیر افضل عثمانی

مرے اجداد کی تخلیق کا شہ کار حسین
باعث عظمتِ دیں رفعتِ دیں شوکتِ دیں

جس پہ معمار کو ہے ناز وہ تعمیر ہے تو
فخر ہے جس پہ مصور کو وہ تصویر ہے تو
کاتبِ مصحفِ ایمان کی تحریر ہے تو
جلوہِ حسنِ جہاں تاب کی تنویر ہے تو

جس نے روشن کیا دنیا میں چراغِ ایمان
جس نے حل کر دیئے سربستہ رموزِ قرآن
جس نے تاریخ کے اوراق کئے زر افشاں
جس کی آغوش میں تسنیم کی موجیں ہیں رواں

جس نے زندہ کیا بھولے ہوئے افسانوں کو
جس نے فرزانہ کہا دین کے دیوانوں کو
جس نے توحید کی مے بخش دی میخانوں کو
جس نے اک سوز عطا کر دیا پروانوں کو

جس کے ہاتھوں میں رہا اسوہ حسنہ کا چراغ
جس نے سیرت کیلئے وقف کئے روح و دماغ
جس نے دھو ڈالے زمانے سے ابو جہلی داغ
جس کا ہر پھول بتائے گا تمہیں عظمتِ باغ

یہ حقیقت ہے کہ فردوسِ بداماں ہے یہ
جو خزاں دیدہ نہ ہو ایسی بہاراں ہے یہ
دلِ مومن کا مچلتا ہوا ارماں ہے یہ
سازِ توحید کے تاروں پہ غزلِ خواں ہے یہ

بے نیازِ غمِ پیری ہے جوانی اس کی
زندہ و روشن و تازہ ہے کہانی اس کی
قولِ اللہ کا سنتے ہی زبانی اس کی
مہر و مہ سے ہے فزوں نورِ فشانِ اس کی

رفعت کون و مکاں کا اسے حاصل کہہ دوں
سینہٴ جسمِ رسالت کا اسے دل کہہ دوں
سرورِ کون و مکاں کی اسے محفل کہہ دوں
جادۂ علم و عمل کی اسے منزل کہہ دوں

میرے معبود اسے اور درخشاں کر دے
میرے مالک اسے امت کا نگہباں کر دے
اس کی عظمت کو ابھی اور نمایاں کر دے
اس کے ہر گوشہ کو انوارِ بداماں کر دے

مرے اجداد کی تخلیق کا شہ کار حسین
باعثِ عظمتِ دیں رفعتِ دیں شوکتِ دیں



آٹھواں باب

علماء و اکابر دارالعلوم کے حالات

- ۴۶۵ _____ دور اول کے علماء و اکابر دارالعلوم
- ۴۶۷ _____ دور اول کے کلیدی عہدہ داران
- ۵۱۶ _____ اراکین تاسیسی
- ۵۲۱ _____ دور اول کے مشاہیر اساتذہ و مشائخ
- ۵۲۶ _____ دور ثانی کے علماء و اکابر دارالعلوم
- ۵۲۸ _____ دور ثانی کے کلیدی عہدہ داران
- ۵۲۴ _____ دور ثانی کے اہم اراکین مجلس شوری
- ۵۶۸ _____ دور ثانی کے مشاہیر اساتذہ
- ۵۷۹ _____ دور ثالث کے علماء و اکابر دارالعلوم
- ۵۸۲ _____ دور ثالث کے کلیدی عہدہ داران
- ۵۹۹ _____ دور ثالث کے مشاہیر اراکین مجلس شوری
- ۶۲۶ _____ دور ثالث کے مشاہیر اساتذہ و مشائخ
- ۶۳۹ _____ موجودہ دور کے علماء و اکابر دارالعلوم
- ۶۴۲ _____ موجودہ دور کے کلیدی عہدہ داران
- ۶۶۵ _____ مشاہیر و موجودہ اراکین مجلس شوری
- ۶۷۹ _____ موجودہ دور کے مشاہیر اساتذہ و مشائخ
- ۶۹۳ _____ مشاہیر علماء و فضلاء دارالعلوم
- ۶۹۶ _____ مشاہیر علماء و فضلاء دارالعلوم کے حالات

دور اول کے علماء و اکابر دارالعلوم

۱۲۸۳ھ تا ۱۳۱۳ھ مطابق ۱۸۶۶ء تا ۱۸۹۵ء

دور اول کے کلیدی عہدہ داران

شمار	اسمائے گرامی	عہدہ	کب سے کب تک	صفحہ
۱	حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ	بانی وسرپرست	۱۲۸۳-۱۲۹۷ھ	۴۶۷
۲	حضرت حاجی سید عابد حسین دیوبندیؒ	بانی مہتمم (دوسری بار) (تیسری بار)	۱۲۸۳-۱۲۸۴ھ ۱۲۸۶-۱۲۸۸ھ ۱۳۰۶-۱۳۱۰ھ	۴۷۹
۳	حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ	سرپرست	۱۲۹۷-۱۳۲۳ھ	۴۸۷
۴	حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتویؒ	شیخ الحدیث و صدر مدرس	۱۲۸۳-۱۳۰۲ھ	۴۹۲
۵	حضرت مولانا رفیع الدین دیوبندیؒ	مہتمم (دوسری بار)	۱۲۸۴-۱۲۸۵ھ ۱۲۸۸-۱۳۰۶ھ	۴۹۸
۶	حضرت حاجی فضل حق دیوبندیؒ	رکن تاسیسی مہتمم	۱۳۱۰-۱۳۱۱ھ	۵۰۱
۷	حضرت مولانا محمد منیر نانوتویؒ	مہتمم	۱۳۱۱-۱۳۱۳ھ	۵۰۳
۸	حضرت مولانا سید احمد دہلویؒ	شیخ الحدیث و صدر مدرس	۱۳۰۲-۱۳۰۷ھ	۵۰۵
۹	شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندیؒ	سرپرست شیخ الحدیث و صدر مدرس	۱۳۰۸-۱۳۳۳ھ	۵۰۷
۱۰	حضرت مولانا عبدالرحیم رائے پوریؒ	سرپرست	۱۳۳۳-۱۳۳۷ھ	۵۱۳

اراکین تاسیسی

شمار	اسمائے گرامی	کب سے کب تک	صفحہ
۱	حضرت مولانا مہتاب علی دیوبندیؒ	۱۲۸۳-۱۳۰۳ھ/۱۸۶۶-۱۸۸۷ء	۵۱۶
۲	حضرت مولانا ذوالفقار علی دیوبندیؒ	۱۲۸۳-۱۳۲۱ھ/۱۸۶۶-۱۹۰۳ء	۵۱۷
۳	حضرت مولانا فضل الرحمن دیوبندیؒ	۱۲۸۳-۱۳۲۵ھ/۱۸۶۶-۱۹۰۷ء	۵۱۸
۴	حضرت شیخ نہال احمد دیوبندیؒ	۱۲۸۳-۱۳۰۳ھ/۱۸۶۶-۱۸۸۷ء	۵۱۹

دور اول کے مشاہیر اساتذہ و مشائخ

شمار	اسمائے گرامی	کب سے کب تک	صفحہ
۱	مولانا محمد محمود دیوبندیؒ	۱۲۸۳-۱۳۰۳ھ	۵۲۱
۲	مولانا میر باز خان تھانویؒ	۱۲۸۳-۱۲۸۷ھ	۵۲۱
۳	حضرت مولانا فتح محمد تھانویؒ	۱۲۸۳-۱۲۸۷ھ	۵۲۲
۴	حضرت مولانا صدیق احمد انیسٹھویؒ	۱۲۹۰-۱۲۹۲ھ	۵۲۲
۵	حضرت مولانا عبدالعلی میرٹھیؒ	۱۲۹۲-۱۲۹۸ھ دو بارہ: ۱۳۱۴-۱۳۱۷ھ	۵۲۳
۶	حضرت مولانا خلیل احمد انیسٹھویؒ	۱۳۰۸-۱۳۱۲ھ	۵۲۴
۷	حضرت مولانا عبدالقدیر دیوبندیؒ	۱۳۰۷-۱۳۰۹ھ (نائب مہتمم)	۵۲۵

دور اول کے کلیدی عہدہ داران

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ

۱۲۲۸-۱۲۹۷ھ/۱۸۳۲-۱۸۸۰ء

حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ، دارالعلوم دیوبند کے بانی و اولین سرپرست اور جماعت علمائے دیوبند کے سرخیل تھے۔ آپ ولی اللہی خوان علم کے آخری خوشہ چینوں میں سے تھے۔ علوم عقلیہ و نقلیہ کے ماہر، ہندوستان کے چنندہ اکابر علماء کے استاذ اور مربی تھے۔ جہاد آزادی کے ایک سرفروش قائد ہونے کے ساتھ ایک کامیاب مناظر و مبلغ کے طور پر آپ نے اسلام اور مسلمانوں کے دفاع کا حق ادا کر دیا۔

ابتدائی حالات

نانوتیہ ضلع سہارن پور میں شعبان ۱۲۲۸ھ مطابق دسمبر ۱۸۳۲ء میں آپ کی ولادت ہوئی جو سہارن پور کے نواح میں ایک قدیم مردم خیز قصبہ ہے۔ آپ کے والد کا نام شیخ اسد علی تھا۔ ابتدائی تعلیم وطن مالوف میں حاصل کی، مکتب کی تعلیم کے بعد دیوبند پہنچا دیے گئے، یہاں کچھ دنوں مولانا مہتاب علی صاحب کے مکتب میں پڑھا، پھر اپنے نانا مولوی وجیہ الدین صاحب کے پاس سہارن پور چلے گئے جہاں عربی صرف و نحو کی ابتدائی کتابیں پڑھیں۔

۱۲۵۹ھ مطابق ۱۸۴۳ء کے آخر میں آپ کو حضرت مولانا مملوک العلی نانوتویؒ اپنے ہمراہ دہلی لے گئے۔ وہاں آپ نے متوسطات و علیا کے درجات کی اکثر کتابیں حضرت مولانا مملوک العلی نانوتویؒ سے پڑھیں۔ دہلی کا لُج میں بھی داخلہ لیا مگر سالانہ امتحان میں شرکت نہیں کی۔ آخر میں اس حلقہٴ درس میں حاضر ہوئے جو علوم قرآن و حدیث میں سارے ہندوستان میں مرکزی حیثیت رکھتا تھا، حضرت شاہ ولی اللہؒ کی مسند علم پر حضرت شاہ عبدالغنی مجددیؒ رونق افروز تھے، ان سے علم حدیث کی تحصیل کی۔

مزاج میں استغنا اور عجز و انکساری اس درجے کا تھا کہ علما کی مخصوص وضع و دستار وغیرہ کا کبھی استعمال نہیں کیا، تعظیم سے بہت گھبراتے تھے۔ جن امور میں نمایاں ہونے کا موقع ہوتا ان سے عموماً دور رہتے تھے۔ ۱۲۷۷ھ مطابق ۱۸۶۰ء میں حج کے لیے تشریف لے گئے، واپسی کے بعد مطبع مجتہبی میرٹھ میں تصحیح کتب کی ملازمت کر لی، ۱۲۸۵ھ مطابق ۱۸۶۸ء تک اسی مطبع سے وابستہ رہے، اسی زمانے میں دوسری مرتبہ حج کے لیے جانا ہوا اور اس

کے بعد مطیع ہاشمی میرٹھ سے تعلق ہو گیا، اس دوران میں درس و تدریس کا مشغلہ برابر جاری رہا مگر کسی مدرسہ کی ملازمت اختیار نہیں کی۔

حضرت نانوتویؒ نے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجرکتی سے بیعت و ارادت کی سعادت حاصل کی اور اپنی پرہیز گاری و تقویٰ اور حاجی صاحب کی توجہ کی بدولت سلوک و معرفت کے بلند مقام پر پہنچے پھر خلافت سے نوازے گئے۔ آپ کے کمال علمی، زہد و ورع اور اخلاص و للہیت کی بنا پر حاجی صاحب کے دل میں آپ کی بڑی قدر تھی۔

جنگ آزادی میں شرکت

حضرت نانوتویؒ نے ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں نہ صرف یہ کہ مردانہ وار حصہ لیا بلکہ حضرت حاجی امداد اللہ کی امارت میں قائم ہونے والے نظام میں ان کو فوجی اصطلاح میں چیف کمانڈر کی ذمہ داریاں ملی تھیں۔ آخر کار ان مجاہدین نے شامی ضلع مظفر نگر کی تحصیل فتح کر ڈالی مگر اس وقت کے بگڑے ہوئے سیاسی حالات نے شامی سے آگے بڑھنے کا موقع نہ دیا۔ برطانوی فوجوں کے مقابلے میں ہندوستانی انقلابیوں کی عمومی ناکامی کے بعد آپ کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ بھی جاری ہوا۔ جنگ آزادی میں حضرت نانوتویؒ اور ان کے رفقاء کے عظیم کارنامے تاریخ ہند کا روشن باب ہیں۔ ان حضرات نے ہندوستانیوں کے دلوں میں آزادی کی شمع روشن کی اور انگریزوں کے تسلط سے ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے ٹھوس لائحہ عمل تیار کیا۔ بعد میں آپ کے شاگردوں خصوصاً حضرت شیخ الہندؒ اور ان کے تلامذہ نے ان ہی حضرات کے نقش قدم پر چل کر انگریزوں کو اس ملک سے نکال کر ہی دم لیا۔

دارالعلوم دیوبند اور دینی تعلیمی تحریک کا قیام

حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ کی زندگی کا سب سے اہم کارنامہ برصغیر میں علوم اسلامیہ کے احیاء کے لیے تعلیمی تحریک کا آغاز ہے۔ برطانوی ہندوستان میں حکومت وقت نے جب عیسائی تعلیمی نظام کو رائج کرنا چاہا اس ماحول میں حضرت نانوتویؒ نے ایک ایسے نظام تعلیم و تربیت کی تحریک چلائی، جس کے ذریعہ سے ان کا مقصد ایسی نسل تیار کرنا تھا جو فکر و نظر اور عقل و شعور کے اعتبار سے کامل مسلمان ہو اور مسلمانوں کے دینی، تہذیبی اور علمی سرمایہ کی پاسبانی کر سکے۔ اسی فکر کے تحت دیگر اکابر علماء و مشائخ کے تعاون سے دارالعلوم کی بنیاد ڈالی گئی۔ حضرت نانوتویؒ اس ادارہ کی سرپرستی و نگرانی فرماتے ہوئے ہر طرح سے اس کی تعمیر و ترقی کے لیے کوشاں رہے؛ چنانچہ جلد ہی یہ ادارہ بام عروج پر پہنچ گیا۔ دارالعلوم کے قیام میں جو جماعت شریک تھی، ان میں حضرت نانوتویؒ کی شخصیت سب سے نمایاں تھی اور انھیں کے فکری منہج کے مطابق دارالعلوم کا ارتقا ہوا۔

حضرت نانوتویؒ نے مدرسہ دیوبند کی شکل میں برپا ہونے والی اس دینی تعلیمی تحریک کو منظم، دیر پا اور موثر تر بنانے کے لیے ایک دستور العمل تحریر فرمایا جس میں انھوں نے دارالعلوم دیوبند اور اس کے منہاج پر جاری دیگر

مدارس دینیہ کے لیے کچھ اصول وضع کیے۔ یہی اصول دارالعلوم دیوبند ہی نہیں بلکہ برصغیر کے تمام اسلامی مدارس کے لیے رہنما اصول یا دستور اساسی کی حیثیت رکھتے ہیں۔

حجۃ الاسلام حضرت نانوتویؒ نے اپنی ایمانی فراست سے چھینے ہوئے اقتدار کا نعم البدل تعلیمی راہ سے حریت فکر کی بقا و ترقی کو قرار دیا۔ اس سلسلہ میں دیوبند کے مدرسے کے قیام اور اس کے باقاعدہ عمدہ انتظام کے ساتھ اس مقصد کی اہمیت کے پیش نظر ملک گیر پیمانے پر مدارس قائم کرنا شروع کیا اور بہ نفس نفیس خود جا کر مراد آباد، گلاؤنٹھی، امر وہہ اور مظفر نگر میں مدارس قائم کیے۔ حضرت نانوتویؒ نے جا بجا اپنے متوسلین کو زبانی اور خطوط کے ذریعہ قیام مدارس کی ہدایت فرمائی۔ چنانچہ بہت سے مدارس حضرت کی زندگی ہی میں قائم ہو گئے تھے۔ بریلی میں حضرت نانوتویؒ نے بریلی کے اکابر و عمائد کے مشورہ سے مصباح الہندیہ کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا۔ اسی طرح میرٹھ میں آپ نے مدرسہ اسلامی کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا۔ آپ کی سرپرستی میں قائم ہونے والے مدارس میں مراد آباد کا مدرسہ شاہی، امر وہہ کا مدرسہ جامع مسجد آج بھی قائم ہیں اور دونوں ہی مدارس اہم علمی و دینی خدمات انجام دے رہے ہیں۔

قیام دارالعلوم کے بعد اسی طرز پر مدارس کے قیام کا سلسلہ شروع ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے برصغیر سے باہر تک یہ سلسلہ پھیل گیا۔ اس وقت ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے ساتھ ساتھ افغانستان، وسط ایشیا، انڈونیشیا، ملیشیا، برما، تبت، سیلون اور مشرقی و جنوبی افریقہ، یورپ، امریکہ و آسٹریلیا کے ممالک میں دارالعلوم کے طرز کے مدارس قائم ہیں اور حضرت نانوتویؒ کے مقرر کردہ اصول کی روشنی میں سرگرم عمل ہیں۔ دارالعلوم اور دیگر مدارس نہ صرف ان ہی اصولوں پر قائم ہیں بلکہ ان پر کار بند رہنے کو اپنی کامیابی کی ضمانت سمجھتے ہیں۔

مسند درس پر

تحصیل علم سے فراغت کے بعد آپ نے پہلے کچھ دنوں تک مدرسہ دارالافتاء دہلی میں پڑھایا۔ اس مدرسہ کو شاہجہاں بادشاہ نے جامع مسجد دہلی کے ساتھ مسجد سے داہنی سمت میں تعمیر کرایا تھا اور ۱۸۵۷ء میں ہی انگریزوں نے اسے منہدم کر دیا تھا۔ (قاسم العلوم حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ احوال و آثار، ص ۱۸۶)

پھر حضرت نانوتویؒ نے ذریعہ معاش کے لیے مطبع احمدی دہلی میں تصحیح کتب کا کام اختیار فرمایا اور پھر آخر تک میرٹھ کے مطبع مجتہائی اور مطبع ہاشمی میں یہی ذریعہ معاش رہا۔ تصحیح کتب کے ساتھ ساتھ درس و تدریس کا سلسلہ بھی ہمیشہ جاری رہا، لیکن کسی مدرسہ کی ملازمت نہیں اختیار کی۔ صحاح ستہ کے علاوہ مثنوی مولانا رومؒ اور دوسری کتابیں بھی پڑھاتے تھے، مگر درس کسی مدرسہ کے بجائے مطابع کی چہار دیواری، مسجد یا مکان پر ہوتا، جہاں خاص خاص تلامذہ زانوائے ادب تہ کرتے تھے۔

۱۸۵۷ء کے بعد روپوشی کے زمانے میں حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتویؒ کو بخاری شریف کا کچھ حصہ پڑھایا۔

اس کے بعد جب آپ میرٹھ میں مطبع سے وابستہ ہوئے تو ایک جماعت کو جس میں حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتویؒ بھی شریک تھے مسلم شریف کا درس دیا۔ اسی دوران مثنوی مولانا روم کا درس بھی دیتے تھے۔ (ایضاً، ص ۲۰۶)

پھر جب دارالعلوم دیوبند کا اجراء ہوا اور آپ دیوبند منتقل ہوئے تو مخصوص طور پر فلسفہ و ہیئت اور حدیث شریف کی متعدد کتابوں کا درس دیتے تھے۔ دارالعلوم دیوبند کے قیام سے قبل اور بعد میں بہت سے طالبانِ علوم دینیہ نے آپ سے علمی فیض حاصل کیا جن میں مشاہیر علمائے کرام شامل ہیں، مثلاً حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتویؒ، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندیؒ، حضرت مولانا فخر الحسن گنگوہیؒ، حضرت مولانا احمد حسن امرہویؒ، حضرت مولانا رحیم اللہ بجنوریؒ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ لائق و فائق تلامذہ کے واسطے سے حضرت کا علمی فیضان خوب جاری ہوا۔

علوم عربیہ کی تعلیم و تعلم، مدارس اور جماعت بندی وغیرہ کا جو طریقہ آج مروج و متداول ہے، علمائے سلف کا طریقہ اس سے مختلف تھا، عام طور پر علما اپنے مکانات اور مساجد میں بیٹھ کر بطور خود لوجہ اللہ تعلیم دیتے تھے، حصول معیشت کے لیے تجارتی کاروبار کرتے یا متوکلانہ زندگی گزارتے تھے، حضرت نانوتویؒ نے حالات کی سخت نامساعدت کے باوجود سلف کی اس متاع عزیز کو جس ہمت و استقلال اور استغنائے قلب کے ساتھ برقرار رکھا وہ آپ ہی کا حصہ تھا۔

درس حدیث کا طریقہ

درس حدیث میں حنفیہ کے اثبات و ترجیح کا وہ طریقہ اور تنقیحات و تشریحات کا وہ انداز جو آج دارالعلوم دیوبند کا طرہ امتیاز ہے اور کم و بیش مدارس عربیہ کے درس حدیث میں مروج و متداول ہے، اسے فروغ دینے میں حضرت نانوتویؒ کا بڑا حصہ ہے، تیرھویں صدی ہجری کے وسط تک درس حدیث میں صرف حدیث کا ترجمہ اور مذاہب اربعہ کا بیان کر دینا کافی سمجھا جاتا تھا، مگر جب غیر مقلدین کی جانب سے احناف پر شد و مد کے ساتھ یہ الزام لگایا جانے لگا کہ ان کا مذہب حدیث کے مطابق نہیں ہے تو حضرت شاہ محمد اہلق صاحبؒ اور ان کے بعض تلامذہ نے مذہب حنفی کے اثبات و ترجیح پر توجہ فرمائی، دارالعلوم میں حضرت نانوتویؒ، حضرت شیخ الہندؒ اور دوسرے حضرات نے اس کو یہاں تک فروغ دیا کہ آج حدیث کی کوئی معروف درس گاہ اس سے خالی نظر نہیں آتی۔

حضرت نانوتویؒ کے درس سے کما حقہ استفادہ صرف وہی طلبہ کر سکتے تھے جو خود ذی استعداد اور ذہین و ذکی ہوں، نیز پہلے سے کتاب کا بغور مطالعہ کر چکے ہوں، حضرت نانوتویؒ کی ذہانت و ذکاوت و بالغ نظری اور قوت استدلال کافی الجملہ اندازہ ان کی تصانیف سے کیا جاسکتا ہے، ان کا یہ قول تھا کہ کتاب و سنت کے تمام احکام سراسر عقلی ہیں، البتہ ہر شخص کے عقل کی وہاں تک رسائی نہیں ہو سکتی، حکیم منصور علی خاں مراد آبادیؒ جو حضرت نانوتویؒ کے ارشد تلامذہ میں سے ہیں، اپنی تصنیف مذہب منصور میں حضرت کے درس و تقریر کی خصوصیات کے ذیل میں لکھتے ہیں:

”حقیقت یہ ہے کہ حضرت نانوتویؒ جب کسی اہم اور مشکل مسئلہ کو جمہور کے تصورات کے خلاف ثابت فرماتے تو بڑے بڑے ارباب علم و فضل حیران اور انگشت بدنداں رہ جاتے تھے، جو حکم ظاہر میں قطعاً بے دلیل و برہان معلوم ہوتا وہ تقریر کے بعد عقل کے عین مطابق معلوم ہونے لگتا تھا، آپ کے پیش کردہ دلائل کے خلاف بڑے بڑے ارباب علم و فضل کو جرأت نہ ہوتی تھی۔“ (مذہب منصور جلد دوم، ص ۱۷۸)

احیائے سنت کی تحریک

حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی قدس سرہ نے اس وقت مسلم معاشرہ میں جڑ پکڑنے والی بہت سی بدعات و رسوم کے خلاف کامیاب تبلیغی و اصلاحی کوششیں کیں۔ نکاح بیوگان، تعزیہ داری کا صفایا اور اہل دیوبند سے ترک رسوم و بدعات پر تحریری معاہدہ اسی سلسلہ کی سنہری کڑیاں ہیں۔ عقد بیوگان کی ترویج بھی ان کا ایک عظیم الشان معاشرتی اور اصلاحی کارنامہ ہے، تیرہویں صدی کے آخر تک عقد بیوگان بہت معیوب سمجھا جاتا تھا۔ مگر اس کو ختم کرنے کی کسی میں ہمت نہ تھی، سید احمد شہیدؒ، مولانا مملوک العلی نانوتویؒ، مولانا مظفر حسین کاندھلویؒ، مولانا محمد احسن نانوتویؒ اور حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کی مساعی جمیلہ سے عقد بیوگان کو خوب بڑھا و املا، حضرت نانوتویؒ نے اپنی بیوہ، بہن کو جو عمر میں ان سے بہت بڑی تھیں اور بوڑھی ہو چکی تھیں نکاح پر آمادہ کر کے اس فتنج رسم کو اس طرح توڑا کہ اب کوئی یہ بھی نہیں جانتا کہ یہاں کبھی یہ رسم موجود بھی تھی۔

برصغیر میں ہندو مسلم آبادی کے اختلاط کے باعث لڑکیوں کو وراثت سے محروم کرنے کا چلن بھی عام ہو گیا تھا۔ حضرت نانوتویؒ نے احیاء سنت کے لیے کوشش کرتے ہوئے اہل اسلام کو اس طرف بھی متوجہ کیا اور ان کو اس کے مفاسد سمجھائے۔ آپ کے طرز عمل اور کوششوں سے مظفرنگر اور سہارنپور وغیرہ کے علاقے اس عمل بد سے پاک ہوئے، لوگوں میں لڑکیوں کے حق وراثت کے تعلق سے شعور بیدار ہوا۔ بدعات و رسوم کی بیخ کنی، معاشرہ کی اصلاح، صنف نازک کو اس کا حق دلانے کے سلسلے میں آپ کی مساعی سے اسلامی احکام کے نفاذ کے لیے آپ کی دھن اور تڑپ کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

دیوبند کی اکثر آبادی سنی مسلمانوں پر مشتمل تھی مگر وہاں اچھے اچھے گھرانوں میں شیعہ اور تفضیلی اثرات موجود تھے اور سنی مسلمانوں کا ایک خاص طبقہ شیعہ رسوم و رواج اور تعزیہ داری میں مبتلا تھا۔ دیوبند کی مشہور محل مسجد میں تعزیہ رکھا جاتا تھا، محرم کے مہینہ میں اٹھتا تھا، تو اس کے اٹھانے والے اکثر سنی مسلمان ہی ہوتے تھے، گرچہ کچھ شیعہ گھرانے بھی شامل ہوتے تھے، حضرت نانوتویؒ کی کوشش سے اس رسم پر بھی بند لگا۔

مغل حکومت کے آخری دور میں جن سادات بارہ نے بادشاہ گرنے کی حیثیت حاصل کر لی تھی ان میں سے بعض مظفرنگر اور سہارنپور کے اطراف و جوانب کے رہنے والے تھے ان لوگوں نے اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے مغل دور میں اور بعد کے ادوار میں شیعیت کو خوب رواج دیا یہ حضرات شیعیت میں غالی بھی تھے۔ حضرت نانوتویؒ

علیہ الرحمۃ نے ان بستیوں کے متعلق کوششیں کیں لہذا ان سادات بارہہ میں خانجماں پور، تھیرٹی، منصور پور کے خاندان حضرت کے ہاتھوں پر تائب ہو گئے اور اس قدر گرویدہ ہوئے کہ پھر تو آپ کے ہر مشن کے ساتھی اور ہر تحریک کے رفیق بن گئے۔

حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ نے رسوم و بدعات کی بیخ کنی کرنے اور مسلمانوں کو راہ مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے وعظ و تقریر کے ساتھ ساتھ عملی قدم اٹھاتے ہوئے دیوبند کے مسلمانوں سے رسوم و بدعات کے ترک پر ایک تحریری معاہدہ لیا تھا جس میں برائیوں اور بدعات و رسوم کو بالترتیب ذکر کیا گیا تھا۔ اور پھر یہ صرف کاغذی راضی نامہ نہیں بن کر رہ گیا، بلکہ یہ اتنا مؤثر ثابت ہوا کہ شادی بیاہ میں رسم و رواج کی ادائیگی اور فضول خرچی موقوف ہو گئی، موت کے بعد کیے جانے والے رسوم سوم و چہلم موقوف ہو گئے، میت کو ایصال ثواب کا طریقہ شرع کے موافق ہو گیا، اس طرح اور بھی متعدد رسوم و بدعات پر بند لگ گیا۔ (تفصیل کے لیے دیکھئے: سوانح قاسمی، مولانا مناظر احسن گیلانی، جلد دوم، ص ۷۶ تا ۱۵۷)

حضرت نانوتوی علیہ الرحمۃ نے اپنے مختلف رسائل اور طویل خطوط میں شیعیت اور غیر مقلدیت سے متعلق اہم امور کا بلیغ انداز میں رد بھی لکھا ہے۔ اس طرح آپ نے تحریر و تقریر ہر دو طریقے سے دین اسلام کی حفاظت و اشاعت کا کامیاب فریضہ انجام دیا۔

عیسائی پادریوں سے مناظرہ

ہندوستان پر اپنے تسلط کو پائیدار اور لازوال بنانے کے لیے انگریزوں نے پورے ملک میں مشنریوں کا جال پھیلا دیا تھا اور خصوصاً دہلی و اطراف کے مسلمان ان کا نشانہ تھے۔ اس سلسلہ میں حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی اور دیگر علماء و مخلصین اسلام نے عیسائیت کا کامیاب تعاقب کیا اور ہندوستان کو عیسائی بنانے کی برطانوی کوشش کو کامیاب نہ ہونے دیا۔ حضرت نانوتوی نے بھی اس عظیم تحریک میں حصہ لیا۔ حضرت نانوتوی کے قیام دہلی کے زمانے میں جب وہاں پادریوں نے پیر پھیلائے شروع کر دیے تھے، وہ کھلم کھلا اسلام اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرتے اور کوئی بھی ان کے جواب کی ہمت نہ کرتا، حضرت نانوتوی نے اپنے شاگردوں کو وعظ کہنے کا مکلف کیا اور کہا کہ جہاں پر وہ وعظ کہیں تم لوگ بھی وعظ کہو۔ ایک بار اس طرح مباحثہ کی صورت پیدا ہو گئی، آپ معمولی لباس میں عیسائیوں کے پادری تارا چندر کے پاس پہنچے اور چند باتوں میں اس کو اس طرح گھیرا کہ اس کی زبان نہ کھل سکی اور اس کو سر بازار شکست و رسوائی ہوئی۔ اس کے بعد ان کا تعارف مشہور مناظر اسلام مولانا ابوالمنصور ناصر الدین علی دہلوی (وفات ۱۳۲۰ھ مطابق ۱۹۰۲ء) سے ہوا اور دونوں میں علمی تعلق قائم رہا۔ (سوانح قاسمی، جلد دوم، ص ۳۵۸)

مسیلہ خدا شناسی شاہجہاں پور

انگریزی حکومت نے ایک خطرناک سازش یہ کی کہ ہندوؤں کو مسلمانوں کے مقابلے میں لاکھڑا کیا،

ہندوستان میں مسلمانوں کو سیاسی اہمیت حاصل تھی، انگریزوں نے اپنی پالیسی کے تحت ہندوؤں کو بڑھایا اور مسلمانوں کو گھٹایا۔ جب معاشی و سیاسی میدان میں ہندو آگے بڑھ گئے تو ان کو مذہبی برتری کی راہ سنجائی اور ہندوؤں کو مسلمانوں کے مقابلے میں مناظرہ کے لیے تیار کیا اور اس کے مواقع بھی بہم پہنچائے گئے تاکہ ہندو مسلمانوں سے کھلے عام مناظرے کریں۔ شاہجہاں پور (یوپی) کے قریب چاند پور گاؤں میں وہاں کے زمیندار پیارے لال کبیر پنتھی پادری نولس کی سربراہی اور رابرٹ جارج کلکٹر شاہجہاں پور کی تائید و اجازت سے ۸ مئی ۱۸۷۶ء کو ایک میلہ خدا شناسی منعقد ہوا جس میں عیسائیت، ہندومت اور اسلام تینوں مذاہب کے نمائندوں کو بذریعہ اشتہار دعوت دی گئی کہ وہ اپنے اپنے مذاہب کی حقانیت کو ثابت کریں۔

مسلمانوں کی ترجمانی کے لیے حضرت نانوتوی تشریف لے گئے، ۸ مئی ۱۸۷۶ء کو میلہ خدا شناسی منعقد ہوا، جب مباحثہ شروع ہوا تو ہندوؤں کے ترجمان لالہ جی نے کمال ہوشیاری سے نہایت مہمل اور بے معنی بات کے ذریعہ خود کو مباحثہ سے الگ کر لیا اب اصل مباحثہ عیسائیوں اور مسلمانوں کے مابین رہا۔ عیسائیوں کی جانب سے پادری نولس اور دیگر انگلستانی پادری بھی تھے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت نانوتویؒ کے حکم سے حضرت مولانا محمود حسن دیوبندیؒ حضرت مولانا فخر الحسن گنگوہیؒ اور مولانا سید ابوالمنصور تھے۔ اول روز یہ حضرات پادری کے اعتراضات کے جوابات دیتے رہے مگر دوسرے دن حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ نے حصہ لیا اور اسلام کی حقانیت اور ابطال تثلیث و شرک پر ایسے زبردست دلائل پیش کیے کہ مجمع داد تحسین دیے بغیر نہ رہ سکا اس طرح آپ کی وجہ سے اسلام کی حقانیت آشکارا ہوئی۔ (سوانح قاسمی، جلد دوم ص ۳۸۲؛ قاسم العلوم والٹھیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ احوال و آثار، ص ۲۱۰)

دوسرے سال مارچ ۱۸۷۷ء مطابق ۱۲۹۳ھ میں منشی اندرمل مراد آبادی اور آریہ سماج کے بانی پنڈت دیانند سرسوتی بھی ایک فریق کی حیثیت سے شریک ہوئے۔ حضرت نانوتویؒ نے دنیا کے دو بڑے مذاہب عیسائیت اور ہندو مذہب کے ماننے والوں کو ایک ساتھ مخاطب بنانے اور دین صحیح کا پیغام ان تک پہنچانے کے اس اہم موقع کو غنیمت جانتے ہوئے پہلے تو اچھی طرح بات پیش کرنے کی نیت سے اضافی وقت حاصل کرنے کی کوشش کی جب اس میں کامیابی نہ ملی تو جس طرح بھی بن پڑے پیغام حق پہنچانے کا عزم کیا۔ انتظامیہ کمیٹی کی طرف سے یہ طے پایا تھا کہ پہلی تقریر پنڈت جی کی ہوگی مگر موقع پر پنڈت نے پہلو تہی کی، حضرت نانوتویؒ نے بحث وجود اور توحید اور تحریف انجیل پر تقریر فرمائی اور اعتراضات و جوابات کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ آپ کی تقریر پر ایک یوروپین پادری کا تبصرہ یہ ہے کہ مجھے بہت سے جلسوں میں شرکت کا اتفاق ہوا بہت سے علمائے اسلام سے گفتگو کی، مگر نہ ایسی تقریر سنی اور نہ ایسا عالم دیکھا، ایک دبلا پتلا آدمی، میلے کپڑے، یہ بھی نہ معلوم ہوتا تھا کہ کوئی عالم ہے، ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ حق کہتے تھے لیکن اگر تقریر پر ایمان لایا کرتے تو اس شخص کی تقریر پر ایمان لے آتے۔ حضرت نانوتویؒ نے میلہ خدا شناسی میں دونوں سال شریک ہو کر اسلام کے خلاف سازش کو ناکام بنا دیا۔ (سوانح قاسمی، دوم، ص ۴۲۵)

مناظرہ روڑکی و میرٹھ

ربیع الاول ۱۲۹۵ھ میں حج سے واپسی کے وقت جدہ میں حضرت نانوتویؒ کی طبیعت خراب ہو گئی، وطن آ کر طبیعت کسی قدر سنبھل گئی، مگر مرض رفع نہ ہوا، اسی سال شعبان ۱۲۹۵ھ میں روڑکی سے اطلاع ملی کہ آریہ سماج کے بانی پنڈت دیانند سرسوتی نے مسلمانوں کے مذہب پر اعتراض کرنے شروع کر دیے ہیں جس کی وجہ سے مسلمانوں میں بے چینی اور غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ روڑکی کے ذمہ داروں نے مولانا سے تشریف لانے کی گزارش کی، حضرت نانوتویؒ خرابی صحت کے باعث اپنے تلامذہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندیؒ مولانا فخر الحسن گنگوہیؒ اور مولانا عبدالعدل گوپنڈت جی سے بات کرنے کے لیے بھیجا مگر پنڈت جی کسی قیمت پر ان سے بات کرنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ بالآخر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اسی علالت کے عالم میں روڑکی پہنچے اور پنڈت جی سے مراسلت کی، ہزار حیلے بہانے کرنے کے بعد پنڈت جی نے راہ فرار اختیار کی، آپ نے اپنے شاگردوں سے شہر کے مختلف علاقوں میں وعظ کہنے اور آریہ سماج کی حقیقت کھولنے کو کہا اور آخر کے تین دن آپ نے بھی بیان فرمایا، جس میں حضرت نانوتویؒ نے ان کے اعتراضات کے جوابات دیے اور ایسے دلائل پیش کیے کہ غیر مسلم بھی حیرت میں رہ گئے۔

اس کے بعد پنڈت جی میرٹھ پہنچے، انہوں نے وہاں بھی وہی انداز اختیار کیا، مسلمانان میرٹھ کی درخواست پر حضرت نانوتویؒ میرٹھ تشریف لے گئے پنڈت جی نے وہاں بھی گفتگو کرنا منظور نہ کیا، مجبوراً حضرت نانوتویؒ نے میرٹھ کے جلسہ عام میں اپنی پرزور تقریر کے ذریعے سے اعتراضات کے جواب دیئے۔ اس طرح حضرت نانوتویؒ اور ان کے شاگردوں کی پامردی اور اولوالعزمی کی بنا پر آریہ فتنہ دب گیا اور اسلام کا پہلو واضح ہوا۔ (تفصیل کے لیے دیکھئے: سوانح قاسمی، جلد دوم، ص ۵۱۲ تا ۵۲۸)

اسلامی عقائد و تعلیمات کی عقلی تشریح کا عظیم کارنامہ

انیسویں صدی میں ولی اللہی مشن کی وراثت کا سب سے بڑا مرکز دارالعلوم دیوبند قائم ہوا جس کے سربراہ حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ تھے۔ حضرت نانوتویؒ نے جہاں ایک طرف قرآن و حدیث اور فقہ و علوم اسلامیہ کی تعلیم و تدریس کا نہایت بے مثال ادارہ دارالعلوم قائم کیا وہیں انہوں نے شاہ ولی اللہ کی تحریک کے اساسی عمل یعنی اسلامی عقائد و تعلیمات کو عقلی و منطقی دلائل سے ثابت کرنے کا اہم ترین کارنامہ بھی انجام دیا۔

حضرت شاہ ولی اللہ تاریخ کے اس موڑ پر پیدا ہوئے جب ہندوستان میں مسلمانوں کا سیاسی اقبال رو بڑوال تھا۔ مسلمانوں میں بہت سی اخلاقی اور معاشرتی کوتاہیاں پیدا ہو چکی تھیں۔ شاہ ولی اللہ کا یہ تجدیدی کارنامہ ہے کہ انہوں نے جہاں سیاسی سطح پر اسلامی سطوت کی بازیابی کی کوششیں کی وہیں انہوں نے مسلمانوں کی علمی و عملی کوتاہیوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ انہوں نے قرآن و حدیث کی تعلیم و تعلم کو اعلیٰ پیمانہ پر جاری کیا اور مسلمانوں کے

درمیان پیدا ہونے والے اختلافات میں نہایت معتدل راستہ اختیار کیا۔ شاہ ولی اللہ کا سب سے اہم کارنامہ یہ ہے کہ انھوں نے اپنی اعلیٰ ژرف نگاہی سے مغرب میں برپا ہونے والے سائنسی اور اقتصادی انقلاب کی آہٹ محسوس کر لی تھی اور اسلام اور مسلمانوں کو آئندہ پیش آنے والے علمی و فکری چیلنجز کا ادراک کرتے ہوئے اس کی پیش بندی کی بھرپور کوششیں شروع کر دی تھیں۔ آئندہ کے سائنسی اور عقلی انقلاب کے پیش نظر انھوں نے دین اسلام کے عقائد و تعلیمات کو عقل و نقل کے پیمانے پر پورا اتارنے کے لیے علم اسرار دین کو ایک باقاعدہ فن کے طور پر پیش کیا جس پر آپ کی عدیم النظیر کتابیں خصوصاً حجۃ اللہ الباقیہ شاہد عدل ہیں۔

حضرت نانوتویؒ کے زمانے میں مغرب اپنی سائنسی ترقی اور استعماری طاقت کے ساتھ مشرق پر سیاسی اور تہذیبی غلبہ حاصل کر رہا تھا۔ سائنس اور کلیسا کی کشمکش کے نتیجے میں مغرب دین بیزار ہو چکا تھا اور دین بیزاری کی یہی لہر مسلم ممالک میں پھیل رہی تھی۔ سائنس جدید سے پیدا ہونے والی عقلی و سائنسی اور مادی و الحادی تحریک کے اثرات سے تعلیم یافتہ مسلمانوں کا ایک اہم طبقہ متاثر ہو چکا تھا اور جو مذہبی معتقدات و اعمال عقل کی کسوٹی پر نہیں اترتے انھیں وہ طبقہ یا تو رد کر دیتا یا ان میں تاویل و تحریف کرنے کی کوشش کرتا۔ جہاں ایک طرف مسلمان سیاسی میدان میں ہزیمت کا شکار ہو چکے تھے وہیں دوسری طرف تہذیبی و علمی محاذ پر بھی پے پے پسپا ہو رہے تھے۔ قریب تھا کہ اگر اس تہذیبی و علمی یلغار کو نہیں روکا گیا تو مسلمان اس ملک میں قصہ پارینہ بن جائے گا اور سائنسی و مادی سیلاب کے سامنے دین و ایمان خس و خاشاک کی طرح بہہ جائیں گے۔ ایسے نازک حالات میں حجۃ الاسلام حضرت نانوتویؒ نے دینی عقائد و تعلیمات کی عقلی تعبیر و تشریح کا مجددانہ کارنامہ انجام دیا۔ حضرت نانوتویؒ نے ولی اللہی افکار و خیالات کی تشریح اور تریخ کے ساتھ اس کو زمانے کے تقاضے کے مطابق حسی اور مشاہداتی انداز سے پیش کیا اور اسلامی عقائد و اعمال سے متعلق عقلی و کلامی مباحث کا ایک عظیم الشان اور فقید المثل ذخیرہ جمع کر دیا۔ ان کی ان ہی کوششوں نے مادی اور الحادی سیلاب پر ایک بندھ باندھ دیا اور مسلمانوں کے عقیدہ و ایمان کو متزلزل ہونے سے بچالیا۔ انھوں نے مسلمانوں کے باہمی اختلاف میں نہایت مثبت اور معتدل نظریہ اختیار کیا۔ عیسائی پادریوں اور ہندو پنڈتوں کے اعتراضات و تشکیکات کو مضبوط دلائل و براہین سے رد کیا۔

تصانیف

حضرت نانوتویؒ کی دو درجن سے زیادہ تصانیف ان کی یادگار ہیں۔ ۱۸۵۷ء اور مابعد کے طوفانی اور بلاخیز دور میں حضرت نانوتویؒ نے ان مسائل پر قلم اٹھایا ہے جو اس وقت زیادہ تر زیر بحث تھے اور جن کا اس زمانہ کے مسلمانوں کو سب سے زیادہ سامنا ہوا۔ آپ نے اسلامی عقیدہ و عمل کے بے شمار موضوعات پر اپنے البیلے اور محقولی انداز تحریر سے اسلامیان ہند کو ایسا علمی لٹریچر فراہم کیا جس سے ابھی تک ان کا دامن خالی تھا۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کی موجود و مطلوبہ تصانیف کی فہرست درج ذیل ہے:

(۱) قبلہ نما (۲) آب حیات (۳) جواب ترکی بہ ترکی (۴) حجۃ الاسلام (۵) ہدیۃ الشیعہ (۶) تقریر دلپذیر (۷) تحذیر الناس (۸) لطائف قاسمی (۹) فیوض قاسمیہ (۱۰) جمال قاسمی (۱۱) مکتوبات قاسمیہ (۱۲) تصفیۃ العقائد (۱۳) تحفہ لحمیہ (۱۴) اسرار قرآنی (۱۵) الحق الصریح (۱۶) توثیق الکلام فی الانصاف خلف الامام (۱۷) انتصار الاسلام (۱۸) الاجوبۃ الکاملۃ فی الاسولۃ الخاملۃ (۱۹) الدلیل المحکم علی عدم قرآۃ الفاتحۃ للموت تم (۲۰) گفتگوئے مذہبی معروف بہ روداد میلہ خدا شناسی، وغیرہ۔

تحشیہ صحیح بخاری

تحصیل علم سے فراغت کے بعد حضرت نانوتویؒ نے کم عمری ہی میں حضرت مولانا احمد علی محدث سہارن پوریؒ کی فرمائش پر صحیح بخاری کے آخری چند سیپاروں کا حاشیہ تحریر فرمایا، حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتویؒ لکھتے ہیں:

”جناب مولوی احمد علی صاحب سہارن پوریؒ نے تحشیہ اور صحیح بخاری شریف کے جو پانچ چھ سیپارے آخر کے باقی تھے، مولوی صاحب کے سپرد کیا، مولوی صاحب نے اس کو ایسا لکھا ہے کہ اب دیکھنے والے دیکھیں کہ اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے، اس زمانے میں بعض لوگوں نے جو کہ مولوی صاحب کے کمال سے آگاہ نہ تھے، جناب مولوی احمد علی صاحب کو بطور اعتراض کہا تھا کہ آپ نے یہ کیا کام کیا، آخری کتاب کو اس ایک نئے آدمی کے سپرد کیا، اس پر مولوی احمد علی صاحب نے فرمایا تھا کہ میں ایسا نادان نہیں ہوں کہ بغیر سمجھے بوجھے ایسا کروں اور پھر مولوی صاحب کا تحشیہ دکھلایا، جب لوگوں نے جانا اور وہ جگہ بخاری میں سب جگہ سے مشکل ہے علی الخصوص تائید مذہب حنفیہ کا، جو اول سے التزام ہے اور اس جگہ جہاں امام بخاری نے اعتراض مذہب حنفیہ پر کئے ہیں ان کے جواب لکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنے مشکل ہیں، اب جس کا جی چاہے اس جگہ کو دیکھ لے اور سمجھ لے کہ کیسا حاشیہ لکھا ہے، اور اس حاشیہ میں یہ بھی التزام تھا کہ کوئی بات بے سند اور کتاب کے بغیر محض اپنے فہم سے نہ لکھی جائے۔ (حالات جناب طیب مولوی محمد قاسم، حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتویؒ، بحوالہ سوانح قاسمی، ص ۳۰-۲۹)

حضرت مولانا سید مناظر احسن گیلانیؒ نے مبہم طور پر بائیس تیس سال کی عمر بتائی ہے۔ جو لوگ حضرت نانوتویؒ کی عبقریت سے واقف نہ تھے ان کو صحیح بخاری کی صحیح و تحشیہ جیسا مہتمم بالشان علمی کام ایک نوعمر کے سپرد کئے جانے پر تعجب ہونا ہی چاہئے تھا۔ مگر حضرت مولانا احمد علیؒ جیسے بالغ نظر نے اپنے شاگرد کی غیر معمولی ذہانت و ذکاوت اور تبحر علمی کو کما حقہ پہچان لیا تھا۔

وفات

حضرت نانوتویؒ نے ۴۹ سال کی عمر میں ۴ جمادی الاولیٰ ۱۲۹۷ھ / ۱۵ اپریل ۱۸۸۰ء کو پنجشنبہ کے دن

وفات پائی۔ دارالعلوم کے شمالی جانب آپ کا مزار ہے۔ یہ جگہ آپ کی طرف منسوب ہو کر قبرستان قاسمی کہلاتی ہے۔ حضرت مولانا کے نامور ہم عصر سرسید احمد خان مرحوم نے آپ کے انتقال کے موقع پر اپنے تاثرات کا ان الفاظ میں اظہار کیا تھا:

”لوگوں کا خیال تھا کہ بعد جناب مولوی محمد اسحاق صاحب کے کوئی شخص ان کی مثل ان تمام صفات میں پیدا ہونے والا نہیں، مگر مولوی محمد قاسم صاحب نے اپنی نیکی، دینداری، تقویٰ، ورع اور مسکینی سے ثابت کر دیا کہ مولوی محمد اسحاق صاحب کی مثل اور شخص کو بھی خدا نے پیدا کیا ہے، بلکہ چند باتوں میں ان سے زیادہ۔ بہت لوگ زندہ ہیں جنہوں نے مولوی محمد قاسم صاحب کو نہایت کم عمری میں دلی میں تعلیم پاتے دیکھا ہے، انہوں نے جناب مولوی مملوک العلی صاحب مرحوم سے تمام کتابیں پڑھی تھیں، ابتدا ہی سے آثار تقویٰ و ورع اور نیک و خد پرستی ان کے اوضاع و اطوار سے نمایاں تھے اور یہ شعر ان کے حق میں بالکل صادق تھا:

بالائے سرش زہوشمندی ☆ می تافت ستارہ بلندی

زمانہ تحصیل علم میں جیسے وہ ذہانت اور عالی دماغی اور فہم و فراست میں معروف و مشہور تھے ویسے ہی نیکی اور خدا پرستی میں بھی زبان زد اہل فضل و کمال تھے، ان کو جناب مولوی مظفر حسین صاحب کی صحبت نے اتباع سنت پر بہت زیادہ راغب کر دیا تھا اور حاجی امداد اللہ کے فیض صحبت نے ان کے دل کو ایک نہایت اعلیٰ رتبہ کا دل بنا دیا تھا۔ خود بھی پابند شریعت و سنت تھے اور لوگوں کو بھی پابند شریعت و سنت کرنے میں زائد از حد کوشش کرتے تھے، بایں ہمہ عام مسلمانوں کی بھلائی کا خیال تھا۔ انہی کی کوشش سے علوم دینیہ کی تعلیم کے لیے نہایت مفید مدرسہ دیوبند میں قائم ہوا، اور ایک نہایت عمدہ مسجد بنائی گئی، علاوہ اس کے چند مقامات میں بھی ان کی سعی اور کوشش سے اسلامی مدرسے قائم ہیں، وہ کچھ خواہش پیر و مرشد بننے کی نہیں کرتے تھے لیکن ہندوستان میں اور خصوصاً اضلاع شمال و مغرب میں ہزار ہا آدمی ان کے معتقد تھے اور ان کو اپنا پیشوا اور مقتدا جانتے تھے۔ مسائل خلافیہ میں بعض لوگ ان سے ناراض تھے اور بعضوں سے وہ ناراض تھے، مگر جہاں تک ہماری سمجھ ہے ہم مولوی محمد قاسم صاحب کے کسی فعل کو خواہ کسی سے ناراضی کا ہو، خواہ کسی سے خوشی کا ہو، کسی طرح ہوائے نفسانی یا ضد اور عداوت پر محمول نہیں کر سکتے، ان کے تمام کام اور افعال جس قدر کے تھے بلاشبہ للہیت اور ثواب آخرت کی نظر سے تھے اور جس بات کو وہ حق اور سچ سمجھتے تھے اس کی پیروی کرتے تھے، ان کا کسی سے ناراض ہونا صرف اور صرف خدا کے واسطے تھا اور کسی سے خوش ہونا بھی صرف خدا کے واسطے تھا، کسی شخص کو مولوی قاسم اپنے ذاتی تعلقات کے سبب اچھا یا برا نہیں جانتے تھے، بلکہ صرف اس خیال سے کہ وہ برے کام کرتا ہے یا بری بات کہتا ہے، خدا کے واسطے جانتے تھے، مسئلہ حب فی اللہ اور بغض فی اللہ کا خاص ان کے برتاؤ میں تھا، ان کی تمام خصائیں فرشتوں کی سی تھیں، ہم سب دل سے ان کے ساتھ محبت رکھتے تھے اور ایسا شخص جس نے ایسی نیکی سے اپنی زندگی بسر کی ہو بلاشبہ نہایت محبت کے لائق ہے۔

اس زمانے میں سب لوگ تسلیم کرتے ہیں اور شاید وہ لوگ بھی جو ان سے بعض مسائل میں اختلاف کرتے تھے تسلیم کرتے ہوں گے مولوی محمد قاسم اس دنیا میں بے مثل تھے، ان کا پایہ اس زمانے میں شاید معلومات علمی میں شاہ عبدالعزیزؒ سے کچھ کم ہو، اور تمام باتوں میں ان سے بڑھ کر تھا، مسکینی اور نیکی اور سادہ مزاجی میں اگر ان کا پایہ مولوی محمد اسحاق سے بڑھ کر نہ تھا تو کم بھی نہ تھا، درحقیقت فرشتہ سیرت اور ملکوتی خصلت کے شخص تھے اور ایسے شخص کے وجود سے زمانہ کا خالی ہو جانا ان لوگوں کے لیے جو ان کے بعد زندہ ہیں نہایت رنج اور افسوس کا باعث ہے۔“ (علی گڑھ انسٹی ٹیوٹ گزٹ ۲۴/۴/۱۸۸۰ بحوالہ موج کوثر، شیخ محمد اکرام، ۳۶۷ تا ۳۶۸)

مآخذ:

- تاریخ دارالعلوم دیوبند، جلد اول، ص ۱۰۲ تا ۱۲۲
- سوانح قاسمی، حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی
- مولانا محمد قاسم نانوتوی: حیات اور کارنامے، مولانا نظام الدین اسیر ادروی
- قاسم العلوم حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی: احوال و آثار، مولانا نور الحسن راشد کاندھلوی

حضرت حاجی سید عابد حسین دیوبندیؒ

۱۲۵۰-۱۳۳۱ھ / ۱۸۳۳-۱۹۱۳ء

حضرت حاجی سید محمد عابد حسین صاحبؒ، دارالعلوم دیوبند کے بانی و محرک اول اور اس کے اولین مہتمم تھے۔ آپ دیوبند کے نہایت متقی، پرہیزگار اور طریقہ چشتیہ صابریہ کے ایک معروف صاحب سلسلہ اور صاحب اثر بزرگ تھے۔ آپ کی زندگی زہد و ریاضت سے عبارت تھی۔ حضرت حاجی صاحب کا حلقہ اثر دیوبند اور اطراف و جوانب میں بہت وسیع تھا۔ دیوبند شہر کی عظیم الشان جامع مسجد کی تعمیر بھی آپ ہی کی جدوجہد اور سعی و کوشش کا نتیجہ ہے۔

تحریروں میں حضرت حاجی صاحب کا نام عابد حسین اور محمد عابد دونوں ملتا ہے۔ آپ کا نسبی تعلق سادات رضویہ سے ہے۔ قرآن شریف اور فارسی پڑھ کر علوم دینیہ کی تعلیم دہلی میں حاصل کی۔ زمانہ تعلیم میں تصوف کا ایسا شوق دامن گیر ہوا کہ علوم کی تکمیل نہ کر سکے۔ متعدد بزرگوں سے خلعت خلافت حاصل کیا، خاص طور پر حضرت میاں جی کریم بخش صابریؒ (رام پور منیہاران) خلیفہ مولانا محمد حسن رام پوریؒ (وفات ۱۲۷۹ھ) اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجرکیؒ سے آپ کو شرف خلافت حاصل تھا۔

تصوف و سلوک میں آپ کا مقام

حاجی صاحب کے پیر میاں جی کریم بخش رام پوریؒ نے خواب میں دیکھا کہ آسمان پر ایک بہت بڑا ستارہ ہے، اور اس کے ارد گرد بہت سے ستارے ہیں، بڑا ستارہ ان کی گود میں آ گیا ہے، میاں جی نے صبح کو مریدین سے فرمایا کہ مجھ سے کوئی سید بیعت ہوگا، جو قیام سنت ہوگا، اس سے لوگوں کو بڑا فیض پہنچے گا اور وہ بہت سے دینی کام انجام دے گا۔ (تذکرۃ العابدین، نذیر احمد دیوبندی، ص ۶۷، بحوالہ تاریخ دارالعلوم، جلد دوم، ص ۲۲۲)

حضرت حاجی صاحبؒ کا ۶۰ برس تک مسجد میں قیام رہا۔ مشہور ہے کہ ۳۰ سال تک آپ کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ نماز تہجد کا ایسا التزام تھا کہ ۶۰ سال تک قضا کی نوبت نہیں آئی۔ صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے۔ رشد و ہدایت اور تذکیر و تزکیہ قلوب کے علاوہ آپ کو ”فن عملیات“ میں زبردست ملکہ حاصل تھا۔ مختلف النوع کاموں کی کثرت کے باوجود ضبط اوقات کا بے حد التزام تھا اور ہر کام ٹھیک اپنے وقت پر انجام پاتا تھا۔

آخر شب میں بیدار ہوتے، نماز تہجد اور اوراد و وظائف سے فارغ ہو کر فجر کی نماز چھتے کی مسجد میں ادا فرماتے۔ نماز کے بعد تلاوت فرما کر حجرے سے باہر تشریف لاتے، بیعت کے خواہش مندوں کو بیعت کرتے، تعویذات کے

طالبین کو تعویذات دیتے، دوپہر تک یہ سلسلہ جاری رہتا، بعد ظہر متوسلین طریقت حاضر ہوتے، اس وقت ذکر و شغل ہوتا اور عصر تک جاری رہتا۔ بعد مغرب ختم خواجگان کا معمول تھا، عشاء کے بعد اول وقت سو جاتے تھے۔

تعویذات کے ضرورت مند بعض اوقات حد سے زیادہ پریشان کرتے، مگر اخلاق و تواضع کا یہ عالم تھا کہ کبھی ترش رو ہوتے نہیں دیکھا گیا۔ اتباع سنت کا غایت اہتمام تھا، ان کا مقولہ ہے کہ ”بے عمل درویش ایسا ہے جیسے سپا ہی بے ہتھیار، درویش کو چاہئے کہ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے عمل ظاہر کر دے“۔

ایک مرتبہ معلوم ہوا کہ مریدین میں حاجی محمد انور دیوبندی نے نفس کشی کے طور پر کھانا پینا قطعاً ترک کر دیا ہے، آپ نے بتا کیدان کو لکھا کہ ”یہ امر سنت کے خلاف ہے، بطریق مسنون کھانا پینا ضرور چاہیے خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو“۔

انوار قاسمی میں سوانح مخطوطہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ ”حاجی صاحب دیوبند میں ایک ذی وجاہت، صاحب اثر، عابد و زاہد ہستی تھے، آپ کی بزرگی کا سکہ دیوبند کے ہر خورد و کلاں، مرد و عورت، بچے و بوڑھے کے دل پر تھا، ان کے روحانی فیض نے دیوبند اور اطراف و جوانب بلکہ دوسرے صوبوں کے لوگوں کے دلوں کو بھی مسخر کر رکھا تھا۔ عابد و زاہد ہونے کے ساتھ بہت بڑے عامل بھی تھے، آپ کے تعویذوں کا روحانی فیض بیماروں پر تریاق کا کام کرتا تھا، آپ کی صورت کو دیکھ کر خدا یاد آتا تھا۔ پابندی وضع، استقلال طبع، اولوالعزمی، خوش تدبیری آپ کی مشہور ہے، باوجودیکہ دنیا کو ترک کر دیا ہے، مگر کوئی آپ سے مشورہ لیتا ہے تو اس میں ایسی اچھی رائے ہوتی ہے جیسے بڑے کسی ہوشیار دنیا دار کی۔“ (انوار قاسمی، جلد اول ص ۳۵۰ تا ۳۵۱، مطبوعہ لاہور)

سوانح قاسمی میں لکھا ہے کہ اہل دیوبند کو آپ سے کمال درجے کی عقیدت ہے، آپ کی ذات فیض آیات سے خلائق کو بہت طرح کا نفع حاصل ہے۔ غیر مذہب والے بھی آپ کے تعویذوں کے معتقد ہیں۔ گھر باہر، زمین، باغ جس قدر آپ کی ملک میں تھا سب کا سب راہ خدا میں دے کر محض خدا پر تکیہ کیا ہوا ہے۔ (سوانح قاسمی، جلد دوم، ص ۲۳۹، ۲۴۱، مطبوعہ نیشنل پریس دیوبند)

اوقات و معمولات کے ضبط و نظم کا بڑا اہتمام رکھتے تھے، حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی فرمایا کرتے تھے کہ ”جاننے والا ہر وقت یہ بتا سکتا ہے کہ اس وقت حاجی صاحب فلاں کام میں مشغول ہوں گے، اگر کوئی جا کر دیکھے تو اسی کام میں ان کو مشغول پائے گا“۔ (اشرف السوانح، جلد اول، ص ۱۴۹)

اشرف السوانح میں حضرت تھانویؒ کا ایک ملفوظ نقل کیا گیا ہے۔ لکھا ہے کہ ”میں حاجی صاحب کو بزرگ تو سمجھتا تھا مگر یہ خیال نہ تھا کہ وہ شیخ اور مرنبی بھی ہیں، لیکن اپنے ایک باطنی اشکال کے دوران ان کے جواب شافی سے مجھے معلوم ہوا کہ وہ کامل درجے کے شیخ اور مرنبی تھے۔“ (اشرف السوانح، جلد اول، ص ۱۴۸ تا ۱۵۰)

حضرت حاجی صاحب اور بنائے دارالعلوم

دارالعلوم دیوبند کے لیے عوامی چندے کی تحریک کا آغاز آپ ہی نے فرمایا تھا۔ حاجی فضل حقؒ نے حضرت

نانوتومی کی سوانح مخطوطہ میں دارالعلوم کے لیے چندہ کا طریقہ اختیار کرنے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھا ہے:

”ایک دن بوقت اشراق حضرت حاجی سید عابد حسین سفید رومال کی جھولی بنا کر اور اس میں تین روپے اپنے پاس سے ڈال کر چھتہ مسجد سے تن تہا مولوی مہتاب علی مرحوم کے پاس تشریف لائے۔ مولوی صاحب نے کمال کشادہ پیشانی سے چہرہ روپے عنایت کیے اور دعا کی اور بارہ روپے مولوی فضل الرحمن صاحب نے اور چہرہ روپے اس مسکین (سوانح مخطوطہ کے مصنف حاجی فضل حق صاحب) نے دیئے، وہاں سے اٹھ کر مولوی ذوالفقار علی سلمہ کے پاس آئے، مولوی صاحب ماشاء اللہ علم دوست ہیں، فوراً بارہ روپے دیئے اور حسن اتفاق سے اس وقت سید ذوالفقار علی ثانی دیوبندی وہاں موجود تھے، ان کی طرف سے بھی بارہ روپے عنایت کیے، وہاں سے اٹھ کر یہ درویش بادشاہ صفت محلہ ابوالبرکات پہنچے، دو سو روپے جمع ہو گئے اور شام تک تین سو روپے۔ پھر رفتہ رفتہ چرچا ہوا اور جو پھل پھول اس کو لگے وہ ظاہر ہیں، یہ قصہ بروز جمعہ ۲۲ ذی قعدہ ۱۲۸۲ھ میں ہوا۔“ (سوانح مخطوطہ بحوالہ سوانح قاسمی، جلد دوم ص: ۲۵۸ تا ۲۵۹)

آج سے ڈیڑھ سو سال پہلے یہ ایک عجیب و غریب اور نئی بات تھی کہ عوامی چندے کی بنیاد پر ایک ایسا تعلیمی ادارہ قائم کیا جائے جو حکومت کے اثرات سے آزاد ہو۔ آنے والے عوامی و جمہوری دور کے پیش نظر یہ ایک زبردست ایمانی فراست اور پیش بینی تھی۔ اوقاف کے سابقہ طریقہ کے بجائے عوامی چندہ کا یہ طریقہ بہت کامیاب ہوا۔ دینی مدارس کے قیام اور دینی تعلیم کی نشرو اشاعت کے لیے یہ ایک ایسا مفید اور مستحکم طریقہ تھا کہ جس سے دینی تعلیم کے فروغ و اشاعت کے نئے راستے کھل گئے۔

بالآخر ۱۵ محرم الحرام ۱۲۸۳ھ مطابق ۳۱ مئی ۱۸۶۶ء پنجشنبہ کو مسجد چھتہ کے صحن میں نہایت سادگی کے ساتھ مدرسہ عربیہ دیوبند کا افتتاح عمل میں آیا۔ اگرچہ بہ ظاہر یہ ایک مدرسہ کا بہت ہی مختصر اور محدود پیمانے پر افتتاح تھا، مگر درحقیقت ہندوستان میں دینی تعلیم کی ایک عظیم تحریک کا آغاز تھا۔ حضرت حاجی صاحب مدرسہ کے اولین مہتمم ہوئے۔ آپ کے اثر و وجاہت سے دارالعلوم کو کافی فوائد حاصل ہوئے اور اس کا ہر قدم ترقی کی جانب گامزن رہا۔ (۱)

دارالعلوم دیوبند کے منصب اہتمام پر

دارالعلوم کے اولین محرک اور بانی ہونے کے علاوہ آپ دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوری کے رکن رکن اور پہلے مہتمم بھی ہیں۔ دارالعلوم کا منصب اہتمام تین مرتبہ آپ کے سپرد ہوا۔ آپ کی کل مدت اہتمام تقریباً دس سال ہے۔ آخر میں بے پناہ مصروفیت کے باعث آپ اہتمام سے مستعفی ہو گئے تھے۔ آپ کے اثر و وجاہت سے دارالعلوم کو کافی فوائد حاصل ہوئے اور وہ ترقی کی جانب گامزن رہا۔

پہلی مرتبہ یوم تاسیس ۱۵ محرم ۱۲۸۳ھ / ۱۸۶۶ء سے رجب ۱۲۸۴ھ مطابق ۱۸۶۷ء تک مہتمم رہے۔ ۱۲۸۴ھ

میں حضرت حاجی صاحبؒ نے سفر حج کا عزم کیا۔ روداد میں مذکور ہے:

”دوم ایسا امر عظیم اور حادثہ عظیم پیش آیا کہ جس سے تمام اہل دیوبند اور جملہ مدرسین و طلبہ کو گمان غالب تھا کہ اب قائم رہنا اس مدرسہ کا مشکل ہے؛ یعنی حاجی سید عابد حسین صاحب نے (جو مہتمم مدرسہ بلکہ اصل الاصول اس کام کے تھے اور باشندگان دیوبند اطراف و جوانب کے دلوں میں اُن کی عظمت و توقیر بدرجہ کمال تھی، ان کے لحاظ و پاس سے طلبہ پیر و نجات کے واسطے کھانا مقرر ہوا اور چندہ بھی بہت آب و تاب سے تحصیل ہوا) یکا یک عزم بیت اللہ کا کیا اور قطع تعلق سے ایسا ظاہر ہوتا تھا کہ پھر ہندوستان میں تشریف نہ لائیں گے، فی الواقع ایسا زلزلہ تھا کہ اگر بنیاد مدرسہ سنج برکنہ ہو جاتی تو عجب نہ تھا؛ کیوں کہ باشندگان دیوبند میں بظاہر کوئی ایسا نظر نہ آتا تھا کہ اس کام کا متکفل ہوتا، لیکن ع خدا خود میر سامان است ارباب توکل را، بعض ارکان کو جنہیں لیاقت کامل اور اخلاص نیت حاصل ہے یہ القا ہوا کہ اس کام کے واسطے قدوۃ المتورعین مولوی رفیع الدین نہایت خلف الصدق عالم عامل مولانا محمد فرید الدین مرحوم نہایت مناسب ہیں، چنانچہ ابتدائے شعبان ۱۲۸۲ھ سے یہ کام ان کے سپرد ہوا۔“ (۲)

دوسری مرتبہ حج سے واپسی کے بعد ۱۲۸۶ھ/۱۸۶۹ء میں آپ منصب اہتمام پر فائز کیے گئے اور ۱۲۸۸ھ/۱۸۷۱ء تک اس پر برقرار رہے۔ ۱۲۸۸ھ میں دارالعلوم کے اہتمام کے علاوہ جامع مسجد کی تعمیر کا کام بھی حاجی صاحبؒ کی نگرانی میں ہو رہا تھا، دونوں کام کافی وقت چاہتے تھے؛ اس لیے مناسب سمجھا گیا کہ حاجی صاحب کے کاموں کے بار کو ہلکا کیا جائے؛ لہذا دارالعلوم کا اہتمام پھر مولانا رفیع الدینؒ کے سپرد کر دیا گیا، البتہ اہم امور کی نگرانی حاجی صاحب سے متعلق رکھی گئی۔

تیسری مرتبہ ربیع الاول ۱۳۰۶ھ/۱۸۸۸ء میں دارالعلوم کے مہتمم مقرر ہوئے اور شعبان ۱۳۱۰ھ/۱۸۹۳ء تک اس پر فائز رہے۔ ۱۳۰۶ھ میں حضرت مولانا رفیع الدینؒ نے حج کا ارادہ فرمایا اور بقصد ہجرت مدینہ میں قیام کی نیت کی۔ اراکین شوری نے حضرت حاجی عابد حسینؒ سے اہتمام کی ذمہ داریوں کے سنبھالنے کی درخواست کی۔ ۱۳۰۶ھ کی روداد کے ساتھ ایک اعلان منسلک ہے جس کے الفاظ سے حضرت حاجی صاحب کی عظمت و اہمیت نمایاں ہوتی ہے، اعلان کا متن یہ ہے:

اما بعد گزارش یہ ہے کہ جناب مولوی محمد رفیع الدین صاحب مہتمم مدرسہ اسلامی دیوبند بحرم حج راہی مکہ معظمہ زاد ہا اللہ شرفاً و تعظیماً ہو گئے، چون کہ اہتمام مدرسہ کا ایک کار عظیم الشان ہے اور بسبب انتظام ایک مجمع کثیر کے مختلف جزئیات پر مشتمل ہے، مثل انتظام اسباق و نگرانی ترقی خواندگی و خبر گیری خوراک و پوشاک طلبہ مسافر و درستی حساب آمد و صرف مدرسہ وغیرہ اور متعلقہ چند صد طلبہ و مدرسین جن کی تفصیل متعذر ہے۔ لہذا جملہ خیر خواہان مدرسہ کو بسبب روانگی مولوی صاحب موصوف کے نہایت تشویش پیش آئی۔ ناچار بجز اس تدبیر کے کوئی چارہ نہ بن پڑا کہ سب مجتمع ہو کر بخدمت بابرکت حضرت سید حاجی محمد عابد دامت برکاتہ کے (جو بانی و مجوز اول مدرسہ ہذا وحامی و

سرپرست و سرآمد باب شوری ہیں اور اول ایک عرصہ دراز تک مہتمم مدرسہ رہے ہیں، اور جب جناب موصوف حج کو تشریف لے گئے تھے اس وقت مولوی رفیع الدین صاحب بجائے ان کے کار اہتمام پر منصوب ہوئے تھے، اور تمام زمانہ اہتمام میں مولوی صاحب جملہ امور مثل جانچ پڑتال حساب و کتاب ماہواری مدرسہ بلکہ کارہائے روزمرہ حسب ہدایت و مشورہ و شرکت جناب حاجی صاحب انجام دیتے تھے؛ الغرض ابتدائے اجراء مدرسہ سے اس وقت تک جس قدر امور مدرسہ سے واقفیت حضرت حاجی صاحب کو ہے اور کسی کو نہیں، یہاں تک کہ مولوی صاحب کو بھی نہیں تھی) حاضر ہو کر بتائی ہوئے کہ اب جناب والا پھر اس کام اہتمام کو انجام دیوں کہ آخریہ مدرسہ آپ کا ہی ہے ع اے بادصبا میں ہمہ آردہ تست۔ سو الحمد للہ کہ سید صاحب ممدوح نے بہ نظر حمایت دین متین و خوشنودی رب العالمین و فرسندی روح پر فتوح حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ اصحابہ اجمعین اس عرض کو قبول فرمایا، جزاہ اللہ تعالیٰ خیر الجزاء و شکر مساعیہ.....“

۲۳ جمادی الاولیٰ ۱۳۰۶ھ کو مشتہر اس اعلان کے اخیر میں اس وقت کے تمام اراکین مجلس شوری (حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، محمد ضیاء الدین رام پوری، مشتاق احمد دیوبندی، ذوالفقار علی دیوبندی، محمد فضل الرحمن دیوبندی، محمد فضل حق دیوبندی) کے نام درج ہیں۔ (۳)

پھر آخر کار ۱۳۱۰ء میں حضرت حاجی صاحب کی غیر معمولی مصروفیات کی وجہ سے اہتمام میں تغیر کرنا پڑا اور حضرت حاجی فضل حق صاحب مہتمم بنائے گئے۔ اس سال کی روداد میں لکھا ہے:

”چوں کہ حضرت حاجی محمد عابد صاحب مدظلہ العالی کو بوجہ ہجوم خلق اللہ جو ان کی خدمت بابرکت میں نزدیک و دور سے جوق در جوق واسطے دعائے حل مشکلات و دفع امراض کے شبانہ روز حاضر ہوتے ہیں اور حضرت ممدوح بوجہ شفقت و اخلاق حسنہ کسی ادنیٰ کو بھی ناکام جانا پسند نہیں فرماتے، اس قدر فرصت نہ تھی کہ امور جزوی روز آ نہ متعلقہ اہتمام مدرسہ میں زیادہ اور کافی وقت صرف فرماویں؛ لہذا حضرت موصوف نے یہ مناسب سمجھا کہ اہتمام مدرسہ کا حاجی فضل حق صاحب کو جو ایک ممبر مدرسہ ہذا سے ہیں اور سابق بھی چند ماہ کار اہتمام انجام دے چکے ہیں، سپرد کر کے خود اہل شوری میں ہوں اور امور کلی اہتمام کی بھی نگرانی فرماتے رہیں۔ اہل شوری نے بخیاں اتباع رائے اور تخفیف تصدیق حضرت موصوف اس کو تسلیم کیا۔ اس لیے باتفاق اہل شوری یہ قرار پایا کہ حاجی فضل حق مہتمم مقرر ہوں۔“ (۴)

اوصاف و کمالات

دارالعلوم کی تاسیس اور نظم میں آپ کے شریک حضرت مولانا ذوالفقار علی دیوبندی نے عربی زبان میں الہدیۃ السنیۃ فی ذکر المدرستہ الاسلامیۃ الدیوبندیۃ کے نام سے ایک مختصر رسالہ لکھا ہے جس میں بزرگان دارالعلوم کے اوصاف و کمالات اور سرزمین دیوبند کی خصوصیات کو بڑے لطیف اور ادیبانہ مقفی و مسجع انداز میں لکھا ہے۔ حمد و صلوات

کے بعد حضرت حاجی صاحب کا تعارف ان وقیع الفاظ سے کرتے ہیں:

”لَمَّا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى شَأْنَهُ وَعَزَّ سُلْطَانَهُ، خَيَّرَ هَذِهِ الْبِلَادِ وَإِرْشَادَ الْعِبَادِ، بِإِحْيَاءِ الْعُلُومِ الدِّينِيَّةِ، وَالْفُنُونِ الْيَقِينِيَّةِ إِذْعَانًا وَتَصَدِيقًا، وَإِيقَانًا وَتَحْقِيقًا؛ أَلْهَمَ السَّيِّدَ النَّسِيبَ الْجَلِيلَ، وَالشَّرِيفَ الْحَسِيبَ النَّبِيلَ، صَاحِبَ الْقُوَّةِ الْقُدْسِيَّةِ، وَالْأَبْهَةِ الْوَهْبِيَّةِ، الرَّضِيِّ التَّدْبِيرِ، الرَّحِيمِ عَلَى الصَّغِيرِ، وَالْمَوْقَرِّ لِلْكَبِيرِ، الْفَقِيْدَ الْمَثْبُوتِ وَالْعَدِيمَ النَّظِيرِ وَسَامَةَ وَجَمَالَ، وَفَخَامَةَ وَجَلَالَ، وَصُورَةَ وَسِيرَةَ، وَسِرًّا وَسَرِيرَةَ، وَرَأْيًا وَرِيًّا، وَطَبَاعًا ذَكِيًّا، السَّمِيَّ الْمَخْبِرَ الْبَهِيَّ الْمَنْظَرَ الْخَيْرَ الشَّيْرَ، وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِهِ فَقَدْ صَدَّقَ الْخَبَرَ الْخَيْرَ. الْحَبِيَّ النَّقِيَّ، السَّخِيَّ النَّقِيَّ، فَخَرَ الْأَمْثَالَ الْأَمَاجِدِ، السَّيِّدَ الْأَجَلَّ مُحَمَّدَ عَابِدَ - أَدَامَهُ اللَّهُ وَآبَقَاهُ، وَإِلَى مُنْتَهَى الْأَمَالِ رَفَّاهُ، مَا دَرَّ سَحَابٌ، وَقُرِئَ كِتَابٌ - بِتَأْسِيسِ هَذِهِ الْمَدْرَسَةِ الَّتِي أُسِّسَتْ عَلَى التَّقْوَى، وَالطَّرِيقَةِ الْمُثَلَى، وَإِنْ لَمْ يُسَاعِدْهُ الزَّمَانُ وَالْمَكَانُ؛ وَلَمْ يُوَافِقْهُ الْحَيْنُ وَالْأَوَانُ. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، وَالْحَكِيمِ الْحَلِيمِ؛ فَإِنَّهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا هَيَأُ سَبَابَهُ، وَقَدَّرَ لَهُ أَرْبَابَهُ، إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ، فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، فَتَدَبَّرَ السَّيِّدُ أَهْلَ الْخَيْرِ إِلَى إِعَانَةِ هَذِهِ الْمَثُوبَةِ، وَتَأْيِيدِ هَذِهِ الْمَشُورَةِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَمَانِينَ بَعْدَ الْأَلْفِ وَالْمِائَتَيْنِ مِنْ هِجْرَةِ سَيِّدِ الثَّقَلَيْنِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَعَظَّمَهُ وَكَرَّمَهُ، فَاسْتَمْعُوا لَهُ وَانْتَدَبُوا، وَأَجَابُوا وَاتَّبَعُوا، فَصَارَ الْمَدْرَسَةُ بِسَعْيِهِ الْمَشْكُورِ مَلْجَأً لِلْعُلَمِ وَكَلْبِيَّةً، وَمَرْجِعًا لِلْفَضْلِ وَمُنْتَسِبِيَّةً وَمَوْثِقًا لِلدِّينِ وَمُنْتَحِلِيَّةً. وَلَا عَرُوفًا إِلَّا الْوَالِدَ سِرًّا لِأَبِيهِ. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ.“ (۵)

ترجمہ: جب اللہ تعالیٰ نے اس خطے میں خیر برپا کرنے اور اذعان و یقین اور تصدیق و تحقیق کے ساتھ دینی علوم و فنون کے احیاء کے ذریعے بندوں کی رشد و ہدایت کا ارادہ کیا، تو سید النسب، شریف و معزز، روحانی طاقت و وہابی عظمت کے حامل، مدبر و مشفق، حسن و جمال، عظمت و شوکت، صورت و سیرت، ظاہر و باطن رائے و مشورہ اور عادات و اخلاق میں بے مثال و بیگانہ روزگار، نیک طینت، خوش منظر (اور جس کو ان چیزوں کا یقین نہ ہو تو پھر اس کے لیے تجربہ کی تصدیق کافی ہے) باحیاتی و پرہیزگار، سخی و دین داتا، رشک زمانہ شخصیت: الحاج سید محمد عابد صاحب (اللہ تعالیٰ انھیں عمر نوح عطا کرے اور تابدان کی تمام آرزوں کی تکمیل فرمائے) کے دل میں اس مدرسے کے قیام کا خیال القاء فرمایا، جس کی بنیاد اخلاص و تقویٰ پر رکھی گئی، اگرچہ حالات نامساعد تھے اور زمانے کے تیور بدلے ہوئے تھے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ جب وہ کسی چیز کو برپا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اسباب فراہم کر دیتے ہیں اور اس کے لائق افراد بھی۔ اِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ

كُنْ فَيَكُونُ (سورہ یس/۸۲) (جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس اس کا معمول تو یہ ہے کہ اس چیز کو کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے، تو اس کی پاک ذات ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا پورا اختیار ہے اور تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے) چنانچہ سید صاحب نے ۱۲۸۲ھ میں اہل خیر حضرات کو اس کارِ ثواب میں تعاون اور اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کی دعوت دی، تو انھوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا، بس کیا تھا مدرسہ آپ کی مبارک کوششوں کے نتیجے میں علم و اہل علم کا گہوارہ، ارباب فضل و کمال کا مرکز، دین اور دینداروں کی پناہ گاہ بن گیا، اس میں کیا تعجب کی بات ہے کہ یہ سعادت آپ کے حصے میں آئی! آپ تو خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں۔ ذَلِكْ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ (یہ اللہ کا فضل ہے وہ اپنا فضل جس کو چاہے عنایت کرے)۔ (ترجمہ از مولانا محمد ساجد قاسمی: دارالعلوم دیوبند کے ابتدائی نقوش)

دارالعلوم ہی کے دوسرے تاسیسی رکن خاتمی ہند حضرت مولانا فضل الرحمن عثمانی نے ایک نظم میں دارالعلوم کے سلسلے میں حضرت حاجی صاحب کے کردار کو ان الفاظ میں رقم فرمایا ہے:

دگر سیدے عابدے زاہدے سر ساکاں زبده العارفین
کسے کو فشانده اول این تخم خیر ہمیں است و تادیر ماند ہمیں
بدینساں تنے چند از اہل حق بخوبی این مکاں را مکیں
چو خواہی نجات ابد طالبا بہ پیش مکین اش دو زانو نشیں
کہ ہر طفل این ملک فقہ و حدیث کند فخر بر علم وے فخر دیں
دگر سال اتمام پرسی ز فضل بگو خانہ دولت علم دیں (۶)

حکیم الامتہ حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ مشنویؒ زیر و بم میں حضرت حاجی صاحبؒ کے اوصاف عالیہ اس طرح بیان فرماتے ہیں:

ہم شریک مشورہ اے نور عین ہست حضرت حاجی عابد حسین
عامل کامل ولی مرد خدا پائے او بر پائے فخر انبیا
ہم جمالی ہم جلالی شان او کان حلم و مخزن خلق نکو
نقش و تعویذش مثال نقش قدر فیض او بر خاص و عامی مثل بدر (۷)

مشنویؒ فروغ کے مصنف مولانا فروغ دیوبندیؒ آپ کے بارے میں لکھتے ہیں:

اور حضرت معدن لطف و کرم متقی و حاجی بیت الحرم
حق نے ان پر کی ہر اک خوبی تمام ہے محمد اور عابد جن کا نام
کی انھوں نے ہے ریاضت اس قدر جس سے عاجز رہتے ہیں اکثر بشر

اس قدر طاعات حق لائے بجا نفس ان کا حکم میں ان کے ہوا
ہیں بہت پاکیزہ خصلت ، نیک خو رات دن رہتے ہیں محو ذکر ہو
یاد حق میں قلب ہے ان کا گرو مہتمم ہیں جامع مسجد کے دو
مدرسے میں دل سے وہ عالی مقام رہتے ہیں دائم شریک انتظام
ان کی برکت سے یہ مسجد ، مدرسہ ہے ترقی روز افزوں پر سدا
ہمت باطن کا ہے ان کے اثر جس سے دین میں ہوئی یہ کرو فر
اجر ان کو ان کی نیت کا ملے حق انہیں اس کی جزائے خیر دے
یہ ترقی دین کی ان سے ہوئی ایسی ہمت کر سکے گا کیا کوئی (۸)

وفات

پنجشنبہ ۲۷ ذی الحجہ ۱۳۳۱ھ مطابق ۲۷ نومبر ۱۹۱۳ء کو اکیاسی سال کی عمر میں وفات پائی اور دارالعلوم کے شمال
میں قبرستان قاسمی کے متصل بہ جانب شمال مشرق ایک احاطہ میں مدفون ہیں جو آپ کے نام کی نسبت سے مزار
عابدی سے موسوم ہے۔ مدارالمہام بہشت بریں مادہ سن وفات ہے۔

حوالہ جات:

- (۱) تاریخ دارالعلوم دیوبند، جلد دوم، ص ۲۲۱ تا ۲۲۵
- (۲) روداد مدرسہ عربی دیوبند بابت سال ۱۲۸۲ھ، ص ۲
- (۳) اعلان مطبوعہ مطبع مجتہدائی دہلی، مع روداد بابت ۱۳۰۶ھ (محافظ خانہ دارالعلوم دیوبند)
- (۴) روداد سال بست و ہشتم مدرسہ اسلامی عربی دیوبند بابت ۱۳۱۰ھ، ص ۲ تا ۳
- (۵) الھدیۃ السنیۃ فی ذکر المدرستہ الاسلامیۃ الدیوبندیۃ، مطبوعہ مکتبہ محمودیہ لاہور، عکس طباعت ۱۳۰۷ھ، ص ۲
- (۶) کیفیت جلسہ دستار بندی مدرسہ عربی اسلامی دیوبند، ۱۳۰۱ھ، ص ۲۰
- (۷) القاسم، دارالعلوم نمبر، ماہ محرم ۱۳۳۷ھ، ص ۱۹
- (۸) مشنوی فروغ، مولانا عبد الکریم فروغ دیوبندی، مطبوعہ ۱۹۷۸ء، ص ۲۶ تا ۲۷

حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ

۱۲۲۴-۱۳۲۳ھ / ۱۸۲۹-۱۹۰۵ء

امام ربانی قطب الارشاد محدث عصر فقیہ انفس حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ جماعت علمائے دیوبند کے سرخیل اور دارالعلوم دیوبند کے سرپرست تھے۔

امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ اور حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کی عظیم شخصیتیں اسلامی ہند کے اس دور میں پیدا ہوئیں جب اس کے جاہ و جلال اور عظمت و اقتدار کا پرچم نگوں ہو رہا تھا۔ اس کی بہاروں کا کارواں پابہ رکاب تھا اور بادخزاں کے جھونکے چلنے شروع ہو گئے تھے۔ تاریخ کے اس دورا ہے پر کھڑے ہو کر اسلامی ہند کے ماضی کی طرف نگاہ ڈالیے تو حدنگاہ تک ہماری سر بلندی و فرازی اور حکمرانی و اقتدار کا پرچم آسمان سے باتیں کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور پھر جب اس کے مستقبل کی طرف دیکھئے تو ذلت و ادبار اور پستی و نکبت کی کالی گھٹائیں اٹتی ہوئی نظر آتی ہیں، راہیں تاریک سے تاریک تر ہوتی دکھائی دیتی ہیں۔ مسلمان بے بسی کے عالم میں سلامتی کی راہیں تلاش کر رہا تھا اور کوئی فیصلہ کرنے میں بے بس نظر آ رہا تھا۔

تاریخ کے ٹھیک اس موڑ پر یہ دونوں تاریخی شخصیتیں عالم وجود میں آئیں، جو اپنے مضبوط کردار، خارا شگاف قوت فکر اور اپنے حیرت انگیز کارناموں کی وجہ سے تاریخ کا عنوان اور سرنامہ بن گئیں۔ مؤرخ کا قلم مجبور ہے کہ جب اسلامی ہند کی عروج و زوال کی تاریخ مرتب کرے تو ان دونوں تاریخ ساز بزرگوں کو ہندوستان میں اسلام کی نشاۃ ثانیہ اور تحریک اصلاح کے امیر کارواں اور ملت اسلامیہ کے مسیحا کی حیثیت سے پیش کرے اور ان کے عظیم کارناموں کو سنہرے حروف میں لکھے۔ دونوں کے دو محاذ تھے۔ حضرت نانوتویؒ ایدان باطلہ کے مقابلے میں سینہ تان کر کھڑے ہو گئے اور حریف کے سارے حملوں کا بھرپور جواب دے کر ان کو ہزیمت کی رسوائی اور شکست کی ذلت کے ساتھ میدان چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ دوسری طرف حضرت گنگوہیؒ نے مسلمانوں کی داخلی گمراہیوں کے سدباب کے محاذ پر مورچہ سنبھالا اور تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا۔ اسلام میں شرکانہ اوہام و عقائد کے نفوذ کی راہیں بند کرنے میں کامیابی حاصل کی۔

تعلیم اور ابتدائی حالات

حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ ۶ ذیقعدہ ۱۲۴۴ھ / ۱۱ مئی ۱۸۲۹ء کو بروز دوشنبہ گنگوہ میں پیدا ہوئے، ان

کے والد ماجد مولانا ہدایت احمد صاحب اپنے زمانے کے جید عالم تھے اور احسان و سلوک میں دہلی کے حضرت شاہ غلام علی مجددی کے مجاز تھے۔

حضرت گنگوہیؒ قرآن شریف وطن میں پڑھ کر اپنے ماموں کے پاس کرناں چلے گئے، اور ان سے فارسی کی کتابیں پڑھیں۔ پھر مولوی محمد بخش رام پوری سے صرف و نحو کی تعلیم حاصل کی۔ ۱۲۶۱ھ مطابق ۱۸۴۵ء میں دہلی پہنچ کر حضرت مولانا مملوک العلی نانوتویؒ کے سامنے زانوئے تلمذتہ کیا۔ یہیں حضرت نانوتویؒ سے تعلق قائم ہوا، جو پھر ساری عمر قائم رہا۔ دہلی میں معقولات کی بعض کتابیں مفتی صدر الدین آزرہ سے بھی پڑھیں، آخر میں حضرت شاہ عبدالغنی مجددیؒ کی خدمت میں رہ کر علم حدیث کی تحصیل کی۔

تعلیم سے فراغت کے بعد شیخ المشائخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی خدمت میں رہ کر سلوک و تصوف کی تکمیل کی۔ حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتویؒ نے حضرت نانوتویؒ کی سوانح میں لکھا ہے:

”جناب مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی اور مولوی محمد قاسم صاحب سے اسی زمانے سے ہم سبقی اور دوستی رہی ہے، آخر میں حدیث جناب شاہ عبدالغنی صاحب کی خدمت میں پڑھی اور اسی زمانے میں دونوں صاحبوں نے جناب قبلہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب دام ظلہ سے بیعت کی اور سلوک شروع کیا۔“ (سوانح قاسمی، جلد اول، ص ۲۸)

انہوں نے بڑی تیز رفتاری سے سلوک کی منزلیں طے کر لیں، چنانچہ صرف چالیس دن کی قلیل مدت میں خلافت سے سرفراز ہو گئے اور گنگوہہ واپس ہو کر حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہیؒ کے حجرے کو اپنی قیام گاہ بنایا، اس دوران مطب ذریعہ معاش رہا۔

انقلاب ۱۸۵۷ء میں خانقاہ قدوسی سے مردانہ وار نکل کر انگریزوں کے خلاف صف آرا ہو گئے اور اپنے مرشد حضرت حاجی امداد اللہ صاحب اور دوسرے رفقا کے ساتھ شامی کے معرکہ جہاد میں شامل ہو کر خوب داد شجاعت دی۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی سربراہی میں جو نظام قائم کیا گیا اس میں حضرت نانوتویؒ سپہ سالار اور حضرت گنگوہیؒ وزارت جنگ کے سکریٹری نامزد کیے گئے۔ معرکہ شامی کے بعد گرفتاری کا وارنٹ جاری ہوا اور ان کو گرفتار کر کے سہارنپور کی جیل میں بھیج دیا گیا، پھر وہاں سے مظفر نگر منتقل کر دیا گیا۔ وہاں بہت سے قیدی آپ کے معتقد ہو گئے اور جیل خانے میں جماعت کے ساتھ نماز ہونے لگی۔ آپ پر مقدمہ چلا اور بالآخر کافی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے باعزت بری کر دیے گئے۔

حضرت گنگوہیؒ کا علمی فیضان

رہائی کے بعد گنگوہہ میں آپ نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع فرمایا۔ ۱۲۹۹ھ/۱۸۸۲ء میں تیسرے حج کے بعد آپ نے یہ التزام کیا کہ ایک سال کے اندر اندر پوری صحاح ستہ کو ختم کر دیتے تھے۔ معمول یہ تھا کہ صبح سے ۱۲ بجے تک طلبہ کو پڑھاتے تھے۔ آپ کے درس کی شہرت سن سن کر طالبان حدیث دور دور سے آتے تھے۔ کبھی کبھی

ان کی تعداد ۷۰/۸۰ تک پہنچ جاتی تھی، جن میں ہندو بیرون ہند کے طلبہ شامل ہوتے تھے۔ طلبہ کے ساتھ غایت محبت و شفقت سے پیش آتے تھے۔ ۱۳۰۱ھ/۱۸۸۳ء سے آپ نے مستقل صحاح ستہ کی تعلیم اپنے لیے خاص کر لی تھی اور دیگر علوم و فنون کی کتابیں بالکل بند کر دی تھیں۔ یہ سلسلہ ۱۴ برس تک مسلسل جاری رہا۔ حضرت گنگوہی سے اس زمانے کے تقریباً تین سو علماء نے دورہ حدیث کی تکمیل کی جو بعد میں بڑے اہل علم و تقویٰ اور اپنے علاقہ و زمانہ کے آفتاب و ماہتاب ہوئے۔ یہ بات پیش نظر رہے کہ حضرت گنگوہیؒ اپنی خانقاہ ہی میں درس دیتے تھے، کوئی باقاعدہ مدرسہ نہیں تھا، بلکہ آپ حسب اللہ پڑھاتے تھے۔

درس کی تقریر ایسی ہوتی تھی کہ ایک عامی بھی سمجھ لیتا تھا۔ آپ کے درس حدیث میں ایک خاص خوبی یہ تھی کہ حدیث کے مضمون کو سن کر اس پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا تھا۔ آپ نے مسائل فقہیہ کو حدیث پر منطبق کر کے درس حدیث کا ایک ایسا طرز قائم فرمایا جو یقیناً بے نظیر اور حالات زمانہ کے لحاظ سے بہت ضروری تھا۔ بخاری شریف کی درسی تقریر لامع الدراری شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلویؒ کی تحقیق و تفسیر کے ساتھ شائع ہو چکی ہے۔ جامع ترمذی کی درسی تقریر الکوکب الدرری بھی حضرت شیخ الحدیث کی تحقیق و تفسیر کے ساتھ منظر عام پر آ چکی ہے۔ یہ شروح مختصر ہونے کے باوجود بخاری و ترمذی کی نہایت جامع شرحوں میں شمار کی جاتی ہیں۔ ۱۳۱۴ھ تک آپ کا درس جاری رہا۔ درس حدیث میں آپ کے آخری شاگرد حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کے والد ماجد مولانا محمد یحییٰ کاندھلویؒ تھے۔ آخر میں بعض وجوہات کی وجہ سے درس بند ہو گیا مگر ارشاد و تلقین اور فتاویٰ کا سلسلہ برابر جاری رہا، ذکر اللہ کی تحریض و ترغیب پر بڑی توجہ تھی، جو لوگ خدمت میں حاضر ہوتے رغبت آخرت کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور لے کر جاتے، اتباع سنت کا غایت درجہ اہتمام فرماتے تھے۔

حضرت گنگوہیؒ کو علم حدیث اور تصوف کے ساتھ ساتھ فقہ اسلامی سے بڑی گہری مناسبت تھی، اسی وجہ سے آپ کو فقیہ النفس کہا جاتا ہے۔ فتاویٰ رشیدیہ آپ کی فقہی بصیرت اور علمی بلندی کا شاہکار ہے۔ اس کے علاوہ متعدد فقہی مسائل پر آپ نے قلم اٹھایا اور موضوع کا حق ادا کر دیا۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیریؒ جیسی عبقری شخصیت کا تاثر تھا کہ حضرت گنگوہیؒ نہ صرف فقہ حنفی کے ماہر تھے بلکہ چاروں مذاہب فقہیہ کے فقیہ تھے۔ میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو چاروں مذاہبوں کا ماہر ہو۔

آپ تقویٰ، اتباع سنت، شریعت پر استقامت، بدعات کے استیصال، سنت کے پھیلانے اور شعائر اسلام کے بلند کرنے اور دین کے معاملہ میں کسی کی کوئی پروا نہ کرنے میں اللہ کی نشانی تھے۔ علم و عمل، مریدین کی تربیت اور تزکیہ نفوس کی سربراہی آپ پر منتہی ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے شاگرد اور خلفاء دیے جن کا شمار اپنے زمانہ کے مشاہیر اہل علم و اہل تقویٰ میں ہوتا ہے۔ آپ کے کبار خلفاء میں شیخ خلیل احمد سہارن پوریؒ، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندیؒ، حضرت شاہ عبدالرحیم رائے پوریؒ، حضرت مولانا حسین احمد مدنیؒ اور مشہور شاگردوں میں شیخ محمد یحییٰ کاندھلویؒ، شیخ ماجد علی مانویؒ وغیرہ شامل ہیں۔

حضرت گنگوہیؒ کی علمی یادگاریں

دور جن سے زائد کتابیں و رسائل آپ کی یادگار ہیں جو آپ کی علمی رفعت و بلندی کی شاہد ہیں:

(۱) فتاویٰ رشیدیہ (۲) الکوکب الدرری تقریر ترمذی (۳) لامع الدراری تقریر بخاری (۴) الحل المفہم تقریر مسلم (۵) الفیض السمانی تقریر نسائی (۶) مکاتیب رشیدیہ (۷) لطائف رشیدیہ (۸) سبیل الرشاد (۹) زبدۃ المناسک (۱۰) قطوف دانیہ (۱۱) اوثق العری فی تحقیق الجمعۃ فی القری (۱۲) الحق الصریح فی اثبات التراویح (۱۳) الراى النجیح فی عدد رکعات التراویح (۱۴) رد الطغیان فی اوقاف القرآن (۱۵) الشمس اللامعة فی کرامۃ الجماعۃ الثانیہ (۱۶) فتویٰ احتیاط الظہر بعد الجمعۃ (۱۷) ہدایۃ المعتدی فی قرآۃ المتعدی (۱۸) مجموعہ فتاویٰ میلاد شریف و عرس وغیرہ (۱۹) کیا ہندوستان دارالحرب ہے؟ (۲۰) امداد السلوک (۲۱) تصفیۃ القلوب (۲۲) ہدایۃ الشیعۃ (۲۳) دافع بدعت (۲۴) تقلید شخصی وغیرہ

حضرت گنگوہیؒ اور دارالعلوم دیوبند

دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرات سے آپ کے گہرے مراسم تھے، خصوصاً حضرت نانوتویؒ سے زمانہ طالب علمی سے انتہائی تعلق اور موانست رہی۔ اسی لیے ابتداء ہی سے دارالعلوم کی تعلیمی و تعمیری سرگرمیوں میں آپ شریک رہا کرتے تھے۔ دارالعلوم کی تعمیر و ترقی میں حضرت گنگوہیؒ، حضرت نانوتویؒ کے ہم نوا اور ہم زبان تھے۔ ہر اہم موقع پر حضرت گنگوہیؒ کی دیوبند میں تشریف آوری ضروری تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ۱۲۹۷ھ میں حضرت نانوتویؒ کے انتقال کے بعد لوگوں کی نگاہیں حضرت گنگوہیؒ کی طرف کی اٹھیں اور آپ نے باضابطہ دارالعلوم دیوبند کی سرپرستی قبول فرما کر اس کی تعمیر و ترقی میں سرگرمی سے حصہ لیا۔

سرپرست کا عہدہ اگرچہ کوئی آئینی و قانونی اختیارات کا حامل نہیں تھا، لیکن سرپرست کا اعتماد و احترام نظم دارالعلوم میں کلیدی رول ادا کرتا تھا اور عموماً ہر کام میں سرپرست کی منشاء اور رائے کی خلاف ورزی نہیں ہوتی تھی۔ حضرت گنگوہیؒ کی سرپرستی کے دور میں کئی ایسے اہم واقعات رونما ہوئے جس میں حضرت گنگوہیؒ کی بصیرت نے کلیدی کردار ادا کیا۔ مشکل حالات میں دارالعلوم کی گتھیوں کو سلجھا دینا ان کی ایک بڑی خصوصیت تھی۔ حضرت گنگوہیؒ کے دور سرپرستی میں ہی حضرت نانوتویؒ کے خلف الرشید حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب کو دارالعلوم دیوبند کا مہتمم بنایا گیا جو اپنے پیش رووں کے برخلاف ۳۳ سال تک اس عہدہ پر قائم رہے۔ حافظ محمد احمد نے حضرت گنگوہیؒ کی منشاء کے مطابق دارالعلوم کو ترقی دینے میں مثالی کردار ادا کیا۔ یہ حضرت گنگوہیؒ کی فراست ایمانی تھی کہ ایسی شخصیت کو دارالعلوم کی ذمہ داری دی جو درحقیقت اس عظیم منصب کے اہل بھی تھے اور مستحق بھی، جنہوں نے دارالعلوم کو کئی خطروں سے بچایا اور اس کو از ہر ہند کے بلند مقام تک پہنچانے کے لیے شاہراہ تیار کی۔

حضرت گنگوہیؒ نے ۱۳۱۴ھ (۱۸۹۷ء) سے مدرسہ مظاہر علوم سہارن پور کی سرپرستی بھی قبول فرمائی تھی۔ گویا آپ اس زمانے میں تمام علمائے دیوبند و مظاہر علوم کے متفق علیہ بزرگ اور قائد تھے۔ تذکرۃ الرشید (مصنفہ حضرت مولانا عاشق الہی میرٹھی) میں آپ کے تفصیلی احوال مذکور ہیں۔

وفات

۹ جمادی الثانیہ ۱۳۲۳ھ مطابق ۱۱ اگست ۱۹۰۵ء بروز جمعہ، اذان جمعہ کے بعد ۷۸ سال کی عمر میں وفات پائی اور گنگوہ ضلع سہارن پور میں مدفون ہوئے۔

مآخذ:

- تاریخ دارالعلوم دیوبند، جلد اول، ۱۲۵-۱۲۹
- مولانا رشید احمد گنگوہی: حیات اور کارنامے، مولانا نظام الدین اسیر اوروی

حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتویؒ

۱۲۴۹-۱۳۰۲ھ/۱۸۳۳-۱۸۸۴ء

حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتویؒ دارالعلوم کے سب سے پہلے صدر المدرسین اور شیخ الحدیث ہیں۔ آپ بلند پایہ عالم ربانی، صاحب کشف بزرگ اور عالی مرتبت محدث و فقیہ گزرے ہیں۔ آپ استاذ العلماء حضرت مولانا مملوک العلی نانوتویؒ کے فرزند ارجمند اور مایہ ناز شاگرد ہیں۔ دارالعلوم کو ایک مدرسہ سے دارالعلوم بنانے اور اس کے نظام تعلیم کو ترقی دینے میں آپ کا بڑا کردار رہا ہے۔ فضلاء دیوبند کی پہلی صف کے مشہور علماء آپ کے شاگرد رہے ہیں۔

ابتدائی حالات

حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتویؒ ۱۳ صفر ۱۲۴۹ھ مطابق ۲ جولائی ۱۸۳۳ء کو نانوتہ میں پیدا ہوئے۔ منظور احمد، غلام حسین اور شمس الضحیٰ ان کے تاریخی نام ہیں۔ قرآن مجید نانوتہ میں حفظ کیا۔ محرم ۱۲۶۰ھ مطابق ۱۸۴۴ء میں جب کہ ان کی عمر گیارہ سال کی تھی ان کے والد ماجد حضرت مولانا مملوک العلیٰ ان کو دہلی لے گئے۔ میزان منسحب اور گلستاں سے ان کی تعلیم شروع ہوئی۔ تمام علوم متداولہ اپنے والد ماجد سے حاصل کیے، البتہ علم حدیث کی تحصیل حضرت شاہ عبدالغنی مجددیؒ سے کی۔ علوم منقول و معقول میں اپنے والد ماجد کے مثل تھے۔ حدیث میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ اور حضرت مولانا احمد علی سہارن پوریؒ سے بھی استفادہ کیا۔

ذی الحجہ ۱۲۶۷ھ مطابق ۱۸۵۱ء میں حضرت مولانا مملوک العلیٰ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے ایک سال بعد تک دہلی میں قیام رہا، بعد ازاں اجمیر کے گورنمنٹ کالج میں مدرس اول کے عہدہ پر ان کا تقرر ہو گیا۔ وہاں پانچ سال قیام رہا۔ انگریز پرنسپل نے آپ کی ذکاوت و ذہانت اور فہم و فراست سے متاثر ہو کر بلا اطلاع گورنمنٹ میں سفارش کر کے آپ کے لیے ڈپٹی کلکٹری کا عہدہ منظور کرا لیا۔ بعد منظوری جب آپ کو اس عہدہ پر مامور ہونے کی اطلاع ملی تو اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ڈپٹی کلکٹر کا عہدہ اس زمانے میں ملازمت کی معراج سمجھا جاتا تھا، لیکن آپ نے قناعت و استغنا کا ثبوت دیتے ہوئے علمی و تعلیمی ماحول سے جدا ہونا پسند نہیں کیا۔ پھر اجمیر سے تبادلہ ہو کر پہلے بنارس گئے، پھر روڑکی کالج میں رہے اور وہاں سے ڈپٹی انسپکٹر مدرس کے عہدہ پر ڈیڑھ سو روپے کی تنخواہ پر سہارن پور تشریف لائے۔ اس کے کچھ عرصہ بعد صدر کا سانحہ پیش آیا۔ ہنگامے کے زمانے میں نانوتہ قیام رہا۔ ہنگامہ فرو ہونے کے بعد آپ کو چھ ماہ کی تنخواہ نو سو روپے کی پیش کش کی گئی، آپ نے فرمایا کہ میں نے ان چھ مہینوں میں کچھ کارسہ کار انجام نہیں دیا؛ اس

لیے یہ روپیہ نہیں لے سکتا، نیز ملازمت سے بھی استعنا ظاہر فرمایا اور متوکلًا متفرق کام کرتے رہے۔
 ۱۲۸۲ھ میں میرٹھ حضرت نانوتویؒ کے پاس تشریف لے گئے اور وہاں مطبع مجتہبائی میں منشی ممتاز علی کے یہاں ملازم ہو گئے۔ مطبع مجتہبائی کے بعد مولانا محمد یعقوب صاحب ۱۲۸۳ھ میں مطبع ہاشمی مملوکہ مولوی محمد ہاشم میں بھی تصحیح کتب کی خدمت پر حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کے ساتھ تشریف لے گئے؛ کیوں کہ مطبع مجتہبائی کے مالک منشی ممتاز علی کی حج کو روانگی کے بعد حضرت نانوتویؒ مطبع ہاشمی میں کام کرنے لگے تھے۔ اسی درمیان دارالعلوم قائم ہوا اور حضرت نانوتویؒ کے ایما پر آپ دیوبند میں مدرس اول کی حیثیت سے تشریف لائے۔ (سوانح یعقوب و مملوک، مولانا انوار الحسن شیرکوٹی، ص ۲۸ تا ۵۹)

آپ سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے اور وہ آپ سے بہت تعلق خاطر رکھتے تھے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کے بقول مولانا یعقوب صاحب فطری طور پر بے غل و غش اور نفس کی کدورتوں سے شروع ہی سے پاک تھے اس لیے منازل سلوک طے کرنے میں ان کو خاص مجاہدوں کی ضرورت نہیں تھی۔ دیگر اکابرین کی طرح آپ کو بھی حضرت حاجی صاحب سے خلافت و اجازت حاصل تھی۔ (ایضاً، ص ۹۱ تا ۹۳)

دارالعلوم دیوبند میں

۱۲۸۳ھ مطابق ۱۸۶۶ء میں جب دیوبند میں مدرسہ قائم ہوا اور وہاں طلبہ کی بڑھتی تعداد کے پیش نظر ملا محمد محمود صاحب کے بعد مزید مدرس کی ضرورت محسوس ہوئی تو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کے حسب ارشاد آپ مدرسہ عربیہ دیوبند میں بہ طور صدر مدرس تشریف لائے۔ اجرائے مدرسہ کے وقت طلبہ کی تعداد سولہ کے قریب تھی، لیکن آخر ذوالحجہ ۱۲۸۳ھ تک طلبہ کی تعداد اٹھہتر (۷۸) ہو گئی جن میں اٹھاون (۵۸) طلبہ بیرونجات مثلاً پنجاب، بنارس وغیرہ کے تھے، باقی دیوبند کے تھے۔ حضرت مولانا کے سلسلے میں ماہنامہ القاسم کے دارالعلوم نمبر میں لکھا ہے:

”محرّم ۱۲۸۳ھ میں جب مدرسہ جاری ہوا تو صرف ایک مدرس (ملا محمود صاحب) تھے، اس کے بعد اثنائے سال میں حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتویؒ کو اسی سال صرف مبلغ پچیس روپے ماہوار پر صدر مدرس کر کے بلایا گیا اور حضرت مرحوم نے بکمال محنت مدرسہ کی خدمت فرمائی۔ حضرت مرحوم کے حالات عجیب و غریب ہیں وہ تو اپنے موقع پر ظاہر کیے جائیں گے، لیکن یہاں پر صرف اس قدر عرض کیا جاتا ہے کہ وہ علم اور معلومات میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب (دہلوی) کے ثانی تھے، حق تعالیٰ شانہ نے انہیں نہایت ہی عجیب ذہن رسا عطا فرمایا تھا اور بہت ہی عظیم الشان جامعیت کی شان بخشی تھی۔ سب سے پہلے مدرسہ حضرت مولانا یعقوب صاحب ہی مقرر ہوئے تھے۔ (القاسم، محرّم ۱۳۳۷ھ، دارالعلوم نمبر، ص ۵۸)

آپ ۱۲۸۳ھ سے ۱۳۰۲ھ تک دارالعلوم کے شیخ الحدیث اور صدر مدرس کی مسند پر متمکن رہے۔ اس دوران

تعلیم و تدریس، انتظامات امتحان، فتویٰ نویسی، تہذیب اخلاق طلبہ اور ترقی دارالعلوم میں مسلسل مصروف رہے۔ آپ نے دارالعلوم میں معقولات اور منقولات دونوں علوم کی تعلیم دی اور بہ حیثیت مفتی دارالعلوم بھی کام کیا۔

دارالعلوم دیوبند میں آپ کے فیض تعلیم و تربیت سے بہت سے ممتاز اور نامور علما پیدا ہوئے جو آسمان علم و فضل کے آفتاب و ماہتاب بن کر چمکے۔ ۱۹ سال کی مدت میں ۷۷ طلبہ نے آپ سے علوم نبویہ کی تحصیل کر کے فراغت حاصل کی۔ آپ کے نامور شاگردوں میں شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا احمد حسن امرہوی، مولانا فخر الحسن گنگوہی، مفتی عزیز الرحمن عثمانی، مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند، مولانا عبدالحق پور قاضوی، مولانا عبداللہ اٹیٹھوی، مولانا فتح محمد تھانوی، مولانا خلیل احمد اٹیٹھوی، مولانا حکیم منصور خاں مراد آبادی، مولانا حافظ محمد احمد صاحب اور مولانا حبیب الرحمن عثمانی جیسے مشاہیر اہل علم اور یگانہ عصر علمائے کرام شامل ہیں۔ حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی اور ان کے تلامذہ کے فیض تعلیم کو دیکھتے ہوئے اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا کہ اس وقت ہندو پاک، بنگلہ دیش، افغانستان اور وسط ایشیا میں جس قدر علماء موجود ہیں، ان کی بڑی تعداد اسی خوان علم کی زلہ رہا ہے۔ (تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم، ص ۳۷؛ سیرت یعقوب و مملوک، ص ۶۲)

آپ کے حلقہٴ درس کی نسبت اشرف السوانح میں لکھا ہے:

”مولانا محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ جو علاوہ ہرن میں ماہر ہونے کے بہت بڑے صاحبِ باطن اور شیخِ کامل بھی تھے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے مولانا مدوح سے بڑے بڑے فیوض و برکات حاصل کیے ہیں اور زیادہ تر علوم عجیبہ و غریبہ ان ہی سے حاصل فرمائے ہیں، اور مولانا کے اکثر اقوال و احوال اور حقائق و معارف نہایت لطف لے کر بیان فرمایا کرتے ہیں، اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ حلقہٴ درس کیا ہوتا تھا حلقہٴ توجہ ہوتا تھا، یہ حال تھا کہ تفسیر کا سبق ہو رہا ہے، آیات کا مطلب بیان فرما رہے ہیں اور آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری ہیں“ (اشرف السوانح، جلد اول، ص ۳۳، شائع کردہ کتب خانہ اشرفیہ دہلی)

حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی نے ایک زمانہ تک دارالعلوم میں آنے والے استفتاءات کے جوابات بھی لکھے ہیں۔ چنانچہ ابتدائے مدرسہ سے ۱۳۰۱ھ تک آپ نے درس و تدریس کے ساتھ فتویٰ نویسی کی خدمت بھی انجام دی۔ اس وقت تک باضابطہ دارالافتاء قائم نہیں ہوا تھا اور نہ ہی فتاویٰ کے ریکارڈ کا کوئی نظام تھا۔ اسی زمانے میں حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب آپ کی نگرانی میں فتاویٰ لکھتے تھے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کے پاس جو استفتاءات تھے وہ مولانا کے پاس ہی جواب کے لیے بھیج دیتے تھے، فیوض قاسمیہ مکتوبات قاسمی میں قاسم العلوم نے کئی جگہ لکھا ہے کہ مولانا محمد یعقوب صاحب آج کل نانوتے میں چھٹیاں گزار رہے ہیں؛ اس لیے ناچار میں جواب دے رہا ہوں۔ (دیکھیں: روداد مدرسہ بابت ۱۳۳۳ھ، ص ۱۹؛ دارالعلوم دیوبند کی صد سالہ زندگی، ص ۹۹؛ سیرت یعقوب و مملوک، ص ۶۲)

اخلاق فاضلہ

حضرت مولانا محمد یعقوبؒ نے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے سلوک و معرفت کے مقامات طے کیے تھے، اکثر جذب و کیف کی حالت طاری رہتی تھی، دنیوی علاقہ کی جانب مطلق توجہ نہ تھی، انھوں نے جو خطوط اپنے ایک مرید منشی محمد قاسم نیا نگری کے نام لکھے ہیں وہ سلوک و معرفت کا مرقع اور حقائق تصوف کا دستور العمل ہیں، سالک کے لیے وہ ایک جامع ہدایت نامہ ہیں۔

مکتوبات یعقوبی کے دیباچہ نگار حکیم امیر احمد عشرتی لکھتے ہیں کہ آپ کے صدہا شاگرد و مرید اور شاگردوں کے شاگرد بلاد ہندوستان، کابل و بخارا وغیرہ میں موجود ہیں، آپ جامع علوم معقول و منقول ہیں فاضل اجل اور عالم ہونے کے علاوہ سالک و مجذوب بھی تھے، اور جیسے کہ آپ روحانی طبیب تھے، اسی طرح امراض ظاہری کا بھی علاج کرتے تھے۔

آپ نہایت خوش وضع، خوش خلق، خوش خو، خوش لہجہ و خوش گفتگو تھے، بڑے صاحب کمال و مکاشفات تھے۔ باوجودیکہ مزاج میں جلال اور جذب کا غلبہ تھا اور اس رعب و اثر کا یہ عالم تھا کہ لوگ بات کرتے ہوئے گھبراتے تھے، مگر آپ ہر شخص سے نہایت اخلاق و تواضع کے ساتھ پیش آتے تھے۔ اپنے بزرگوں کی طرح مزاج میں بڑا استغنا تھا، جس کا اندازہ اس واقعہ سے کیا جاسکتا ہے کہ ایک صاحب نے، جن کو مولانا کے مزاج میں بڑا دخل تھا، عرض کیا: فلاں نواب صاحب کی بڑی خواہش ہے کہ ایک مرتبہ آپ ان کے یہاں تشریف لے جائیں، مولانا نے فرمایا: ”ہم نے سنا ہے کہ جو مولوی نواب صاحب کے یہاں جاتا ہے، نواب صاحب اس کو سو روپے دیتے ہیں ہمیں وہ خود بلار ہے ہیں اس لیے شاید دو سو روپے دے دیں، سو دو سو روپے ہمارے کتنے دن کے ہیں، ہم وہاں جا کر مولویت کے نام پر دھپہ نہ لگائیں گے“۔ (ارواحِ ثلاثہ، مابین حکایت ۴۳۹، ۴۴۰)

دارالعلوم سے تعلق ملازمت کے دوران کئی جگہوں سے بڑی بڑی ملازمتوں کی پیشکش ہوئی، لیکن آپ نے دارالعلوم کی قلیل تنخواہ پر قناعت فرمائی اور اس خدمت کے مقابلے میں بڑی سے بڑی پیشکش کو مسترد کر دیا۔ مولانا عاشق الہی صاحب تذکرۃ الخلیل (سوانح مولانا خلیل احمد صاحب محدث سہارن پوری) میں لکھتے ہیں:

”مولانا جمال الدین مدار المہام شوہیر والیہ ریاست سکندر جہاں بیگم، حضرت مولانا مملوک علی صاحب کے شاگرد تھے اور چاہتے تھے کہ استاد زادہ مولانا محمد یعقوب کو تین سو روپیہ ماہوار پر ریاست میں بلا کر حق خادمیت ادا کریں۔ مگر مولانا مرحوم اس وقت اکابر ملت (مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی اور مولانا محمد قاسم صاحب) کی تجویز سے دارالعلوم دیوبند میں تیس سو روپیہ ماہوار پر مدرس اول ہو چکے اور اجمیر میں ایک صد روپیہ ماہور کی ملازمت اور بریلی کی انسپکٹری مدارس کو خیر باد کہہ کر اس فقیرانہ مخلصانہ درسگاہ کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکے تھے؛ اس لیے آپ

نے بھوپال جانے سے انکار کر دیا اور مولوی جمال الدین کو لکھا: لا حاجۃ فی نفس یعقوب! لا قضاہا (یعقوب کی دلی حاجت جو کچھ تھی وہ پوری ہو چکی) کہ بقدر ضرورت معاش کے ساتھ اہل اللہ کا قرب اور علمیہ و دینیہ خدمت نصیب ہوگئی۔ لہذا اب کہیں آنے جانے کا خیال نہیں۔“ (تذکرۃ التحلیل، ص ۱۰۳، مطبوعہ مطبع اعوان پرنٹنگ پریس و اقبال پرنٹنگ پریس سیالکوٹ)

آخر میں آپ نے دارالعلوم سے ملنے والی تنخواہ سے بھی معذرت کر لی۔ آپ کے خطوط سے معلوم ہوتا ہے کہ محرم ۱۳۰۱ھ سے تنخواہ نہ لینے اور توکل پر گذر کرنے کا فیصلہ کیا اور تا وفات (یکم ربیع الاول ۱۳۰۲ھ) اس پر ثابت قدم رہے۔ اس دوران آپ نے ذریعہ معاش کے طور پر مشترکہ طور پر اسلامی دکان کھولی اور تجارت کا سلسلہ شروع کیا۔ (سیرت یعقوب و مملوک، ص ۶۵ تا ۶۶)

حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب نے ایک نظم (روداد جلسہ انعامی بابت ۱۳۲۲ھ، ص ۱۷) میں آپ کی نسبت لکھا ہے:

بیا درس گاہ کلانش نگر کہ جائے است دلچسپ و فرحت قریں
چوں ایں جاری با ادب باش و ہوش کہ یابی در آں اوستاد میں
ملک سیرتے آسمان وقعتے بشر صورتے و فرشتہ جبین
حضرت تھانویؒ نے مثنویؒ زیرو بم (مطبوعہ: القاسم، محرم ۱۳۳۷ھ دارالعلوم نمبر، ص ۱۹) میں آپ کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے:

شش مدرس ہست اندر مدرسہ ہر یکے استاد کامل آمدہ
مولوی یعقوب صاحب اولیں عالم جملہ فن دنیا و دیں
ہم بہ علم باطنی دارو کمال ہست مقبول خدائے ذو الجلال
مرشد کامل ولی بے بدل عابد و زاہد نقی و بے خلل
او ست بحر کامل و استاد کل او است جز اکمل و استاد الجمل

سفر حج

آپ نے دو حج کیے، پہلا حج ۱۲۷۷ھ مطابق ۱۸۶۰ء میں حضرت مولانا محمد قاسم قدس سرہ کی معیت میں کیا، حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلویؒ اور حضرت حاجی عابد حسین دیوبندیؒ بھی ساتھ تھے، یہ سفر پنجاب اور سندھ کے راستے سے کیا گیا۔ بیاض یعقوبی میں خود انہوں نے اس سفر کی مفصل یادداشت لکھی ہے۔ دوسرے حج کے لیے ۱۲۹۳ھ مطابق ۱۸۷۷ء میں تشریف لے گئے اس مرتبہ بھی علما کی ایک بڑی جماعت کی معیت رہی۔ حضرت مولانا نانوتویؒ، حضرت مولانا گنگوہیؒ، حضرت مولانا محمد مظہر نانوتویؒ، مولانا محمد منیر نانوتویؒ، مولانا حکیم ضیاء الدین رام

پوری، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندیؒ وغیرہ حضرات کے علاوہ اس مقدس قافلے میں تقریباً سو آدمی تھے۔ (مکتوبات یعقوبی، ص ۱۵۱)

علمی یادگار

حضرت مولانا یعقوب صاحبؒ اردو، فارسی اور عربی شعر و شاعری سے ذوق رکھتے تھے۔ اردو و فارسی میں دگنام، تخلص تھا۔ دہلی میں بزمانہ طالب عملی، غالب، مومن، ذوق، صہبائی اور آزرہ جیسے یگانہ روزگار شعرا کو دیکھا تھا اور ان کی مجالس سخن کے ہنگاموں سے ان کے کان آشنا تھے۔ مولانا کا فارسی اور اردو کلام بیاض یعقوبی میں درج ہے۔ اشعار میں قدرت کلام کے ساتھ سوز و گداز اور درد و اثر پایا جاتا ہے۔

تصانیف میں تین رسالے آپ کی یادگار ہیں۔ حضرت نانوتویؒ کے حالات میں آپ کی تصنیف ”حالات طیب جناب مولوی محمد قاسم صاحب مرحوم“ (طبع اول بھاول پور ۱۲۹۷ھ) اگرچہ بہت مختصر سوانح حیات ہے مگر زبان و بیان اور حالات و واقعات کے لحاظ سے بہت قابل قدر ہے۔ ان کا دوسرا مجموعہ مکتوبات یعقوبی ہے جو ۶۴ خطوط پر مشتمل ہے۔ یہ خطوط استفسارات کے جوابات میں لکھے گئے ہیں، ان میں راہ سلوک کی دشواریوں کا حل مسائل شرعیہ کا ذکر اور طریقت و سلوک کا دستور العمل بیان کیا گیا ہے۔ تیسرا مجموعہ بیاض یعقوبی ہے یہ سفر حج کے حالات، کتب احادیث کی اسانید، منظومات اور عملیات وغیرہ پر مشتمل ہے اور آخر میں طبی نسخے درج ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ نے دونوں مجموعوں پر حسب ضرورت حواشی تحریر فرمائے ہیں۔

وفات

وفات سے چند دن پہلے وطن مالوف نانوتہ تشریف لے گئے تھے وہیں بمرض ہیضہ ۳ ربیع الاول ۱۳۰۲ھ مطابق ۲۰ دسمبر ۱۸۸۴ء شنبہ کی رات کو داعی اجل کو لبیک کہا۔ نانوتہ میں سہارن پور روڈ پر واقع قبرستان میں مدفون ہیں۔ ارواحِ ثلاثہ میں جنتہ جنتہ آپ کے حالات ملتے ہیں۔ سیرت یعقوب و مملوک میں تفصیلی احوال درج ہیں۔

مآخذ:

- تاریخ دارالعلوم دیوبند، جلد دوم، ص ۱۷۸ تا ۱۷۱
- سیرت یعقوب و مملوک، مولانا محمد انوار الحسن شیرکوٹی، دارالعلوم کراچی ۱۹۷۷ء، ص ۱۵ تا ۹۵

حضرت مولانا رفیع الدین دیوبندی

۱۲۵۲-۱۳۰۸ھ / ۱۸۳۶-۱۸۹۰ء

حضرت مولانا رفیع الدین دیوبندی دارالعلوم دیوبند کے دوسرے مہتمم تھے۔ تقویٰ و اتابیت، نظم و انتظام اور دیانت و امانت میں ممتاز تھے۔ حضرت مولانا شاہ عبدالغنی مجددی کے اجل خلفاء میں تھے اور دارالعلوم کے مفتی اول حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن دیوبندی (وفات ۱۳۴۷ھ مطابق ۱۹۲۸ء) کو آپ سے بیعت و خلافت کی نسبت حاصل تھی۔

حضرت مولانا رفیع الدین دیوبندی ۱۲۵۲ھ / ۱۸۳۶ء میں پیدا ہوئے، آپ عثمانی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد مولانا فرید الدین عثمانی دیوبندی ایک جید عالم دین تھے اور حضرت سید احمد شہید کے خلفاء میں تھے۔ آپ کے تین بھائی جناب بلند بخت عثمانی، جناب مقصود علی عثمانی اور جناب سید احمد عثمانی معرکہ بالاکوٹ میں شہید ہوئے۔

آپ باقاعدہ عالم نہ تھے، لیکن فارسی و دینیات کا کافی علم تھا۔ گو علمی حیثیت معمولی تھی لیکن انتظامی امور کا زبردست ملکہ تھا اور اس بارے میں عجیب و غریب صفات کے مالک تھے۔

آپ حضرت شاہ عبدالغنی مجددی مہاجر مدنی کے مشہور خلفاء میں تھے، حضرت شاہ صاحب ان پر فخر کیا کرتے تھے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی سے بھی اکتساب فیض کیا تھا۔ آپ کا شمار اپنے زمانے کے اولیائے کاملین میں تھا۔ حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن عثمانی کو آپ سے خلافت حاصل تھی۔ حضرات اکابر آپ کی نسبت باطنی کے قائل تھے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے آپ کے بارے میں فرمایا:

”ان میں اور مولانا گنگوہی میں سوائے اس میں کوئی فرق نہیں کہ مولانا گنگوہی عالم ہیں اور وہ (شاہ رفیع الدین صاحب) عالم نہیں، ورنہ نسبت باطنی کے لحاظ سے دونوں ایک درجہ کے ہیں۔“
(اشرف السوانح، جلد اول، ص ۱۳۹)

دارالعلوم کے مسند اہتمام پر

حضرت مولانا رفیع الدین دو مرتبہ دارالعلوم کے مہتمم مقرر ہوئے۔ پہلی مرتبہ ۱۲۸۴ھ مطابق ۱۸۶۷ء سے ۱۲۸۵ھ مطابق ۱۸۶۸ء تک حاجی عابد حسین صاحب کے سفر حج کے زمانے میں اہتمام کی خدمات انجام دیں۔ ۱۲۸۶ھ / ۱۸۶۹ء میں سفر حج پر تشریف لے گئے، اسی وجہ سے اہتمام کی ذمہ داریاں دوبارہ حضرت حاجی عابد

حسین گو سپرد کردی گئیں۔ پھر تقریباً تین سال کے بعد ۱۲۸۸ھ/۱۸۷۱ء میں حضرت حاجی صاحب کی جامع مسجد کی تعمیر اور دیگر مشغولیات کی وجہ سے دوبارہ مہتمم قرار پائے اور ۱۳۰۶ھ/۱۸۸۸ء تک اس منصب پر فائز رہے۔ آپ کی کل مدت اہتمام تقریباً ۱۹ سال ہے۔

دارالعلوم کی ظاہری و معنوی ترقی میں حضرت مولانا رفیع الدینؒ نے اہم کردار ادا کیا۔ مشہور ہے کہ دیانت و امانت کے ساتھ انتظامی سلیقے کا بہت کم اجتماع ہوتا ہے مگر آپ میں یہ صفات بدرجہ اتم موجود تھیں۔

دارالعلوم کی اکثر ابتدائی عمارتیں آپ ہی کے زمانہ اہتمام میں تعمیر ہوئیں۔ ان کے تعمیر ذوق کا اندازہ اس زمانے کی عمارتوں بالخصوص نودرے وغیرہ کی پختگی، استواری اور حسن تعمیر سے کیا جاسکتا ہے۔ یہ عمارت دارالعلوم کی عمارتوں میں ایک ممتاز شان اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ ۱۲۹۲ھ/۱۸۷۵ء میں اس کی بنیاد کے وقت خواب میں دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ تشریف لائے اور فرمایا کہ یہ احاطہ تو بہت مختصر ہے۔ یہ فرما کر بہ نفس نفیس عصائے مبارک سے احاطہ کا ایک طویل و عریض نشان کھینچ کر بتلایا کہ ان نشانات پر عمارت بنوائی جائے۔ چنانچہ اسی کے مطابق بنیاد کھدوا کر تعمیر کرائی گئی۔ یہ دارالعلوم کی سب سے پہلی عمارت تھی۔ اس عمارت کا سنگ بنیاد رکھنے والوں میں محشی بخاری حضرت مولانا احمد علی سہارن پوریؒ، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ اور حضرت مولانا محمد مظہر نانوتویؒ جیسے علماء و افتیاء شامل تھے۔ (۱)

دارالعلوم کا مرکزی احاطہ مولسری آپ ہی کے دور کی یادگار ہے۔ اسی احاطے میں وہ تاریخی کنواں موجود ہے جو نودرہ کے ساتھ بنا تھا۔ یہ کنواں بڑا بابرکت سمجھا جاتا ہے۔ حضرت مولانا رفیع الدینؒ ہی نے ایک دوسرے خواب میں یہ بھی دیکھا تھا کہ کنواں دودھ سے بھرا ہوا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیالہ سے دودھ تقسیم فرما رہے ہیں۔ بعض کے پاس چھوٹے برتن ہیں اور بعض کے پاس بڑے، ہر شخص اپنا برتن دودھ سے بھرا کر لے جا رہا ہے۔ دودھ کی تعبیر علم سے اور برتنوں کی تعبیر ہر شخص کے ”ظرف علم“ سے کی گئی۔ (۲)

سوانح قاسمی میں مولانا مناظر احسن گیلانی حضرت مولانا رفیع الدینؒ کے حسن انتظام اور تدبیر و تدبیر کے سلسلے میں فرماتے ہیں:

”مولانا حبیب الرحمن مرحوم جو اپنے عہد میں دارالعلوم کی روح رواں کی حیثیت حاصل کیے ہوئے تھے، اپنے تدبیر، پیش بینی، مردم شناسی کے دانش مندانہ پہلوؤں کے ساتھ ساتھ کم از کم فقیران کی للہیت و اخلاص سے زیادہ متاثر تھا۔ وہی فقیر سے براہ راست مولانا رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ کے اہتمامی کاموں کا ذکر کرتے کرتے کبھی کبھی ان کی طرف ایسی باتیں منسوب کر دیا کرتے تھے کہ مجھ جیسے عقلمند زدہ آدمی کے لیے اس کا ماننا دشوار ہو جاتا تھا۔ فرماتے کہ بسا اوقات مجھے اس کا تجربہ ہوا کہ دارالعلوم کے متعلق کوئی مفید تجویز میرے دماغ میں آئی، لیکن عمل کرنے کے وقت اس کا پتہ چلتا ہے کہ مولانا رفیع الدین صاحب اپنے ایام اہتمام میں اس کی بنیاد ہموار کر چکے تھے۔ مہمات

ہی کی حد تک نہیں بلکہ مجھے خوب یاد ہے مولانا حبیب الرحمن فرماتے کہ مدرسہ کی عمارت میں کسی ترمیم و تجدید کا خیال آیا۔ کام جب شروع کرایا تو دیکھا کہ مجھ سے پہلے اس ترمیم کی گنجائش قصداً پیدا کر کے مولانا رفیع الدین جاچکے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کسی چھت میں مجھے نالی بنانے کی ضرورت ہوئی، جب بنوانے لگا تو دیکھا کہ پہلے ہی سے نالی اسی مقام پر بنائی جا چکی تھی، چوں کہ اس وقت ضرورت نہ تھی اس لیے چھپادی گئی تھی، گویا مجھے صرف اسی بنی ہوئی نالی کے کھلوادینے کا کام کرنا پڑا، جس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ سررشتہ اہتمام کو ہاتھ میں لینے کے بعد اپنی بصیرت و دماغی قلبی ہر قسم کی قوتوں کو دارالعلوم ہی کی فلاح و بہبود میں مولانا رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ نے غرق کر دیا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ مولانا رفیع الدین کے جو حالات میں نے سنے ہیں ان کا اقتضاء ہے کہ کسی مستقل سوانح عمری کے ذریعہ ان کی زندگی کے عملی اسباق اور نمونوں کو محفوظ کر دیا جائے۔“ (۳)

ہجرت اور انتقال

حضرت مولانا رفیع الدینؒ ۱۳۰۶ھ/۱۸۸۸ء میں دوبارہ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ کا یہ سفر حج بقصد ہجرت تھا۔ آپ نے مستقل طور پر مدینہ منورہ میں قیام فرمایا۔ ہجرت کے دو سال بعد ۱۳۰۸ھ/۱۸۹۰ء میں مدینہ منورہ ہی میں انتقال فرمایا اور جنت البقیع میں دفن کیے گئے۔

حوالہ جات:

- (۱) تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم، ص ۲۲۵ تا ۲۲۶
- (۲) مبشرات دارالعلوم، انوار الحسن ہاشمی، بحوالہ خطبہ صدرت مولانا محمد طیب صاحب جلسہ انعام ۱۳۶۶ھ
- (۳) سوانح قاسمی، جلد دوم، حاشیہ صفحہ ۲۳

حضرت حاجی فضل حق دیوبندیؒ

وفات: ۱۳۱۵ھ / ۱۸۹۸ء

حضرت منشی حاجی سید فضل حق ابن سیف علی دیوبند کے خاندان سادات رضویہ سے تھے۔ دارالعلوم کی تاسیس اور تعاون میں ابتدا سے شریک رہے اور دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے رکن تھے۔

دارالعلوم کے قیام کے بعد دفتری امور کے ذمہ دار بنائے گئے۔ حضرت حاجی صاحب کے زمانہ اہتمام میں سربراہ کار کی حیثیت سے کئی سال تک دارالعلوم کی خدمات انجام دیں۔ قیام مدرسہ کے بعد ۱۹ محرم ۱۲۸۳ھ کو جو پہلا اعلان چندہ شائع ہوا تھا سربراہ کار مدرسہ کی حیثیت سے آپ نے ہی اسے شائع کرایا تھا۔ نہایت محتاط اور متقی بزرگ تھے۔

۱۳۱۰ھ / ۱۸۹۳ء میں جب گونا گوں مصروفیات کے باعث حضرت حاجی عابد حسین صاحبؒ مستعفی ہو گئے تو حضرت حاجی فضل حق صاحبؒ دارالعلوم کے منصب اہتمام پر فائز کیے گئے، اور تقریباً ایک سال تک اس خدمت کو انجام دے کر اس عہدہ سے مستعفی ہو گئے۔ آپ کے اندر تحریری اور انتظامی صلاحیتیں بدرجہ اتم پائی جاتی تھیں۔ دارالعلوم کے ساتھ تعلق سے قبل سہارن پور میں سرکاری محکمہ تعلیم سے مدت تک وابستہ رہ چکے تھے۔ (تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم، ص ۲۲۶ تا ۲۲۷)

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ سے شرف بیعت حاصل تھا اور آپ سے خصوصی تعلق رکھتے تھے۔ انھوں نے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کی ایک مفصل سوانح حیات لکھی تھی، جو طبع نہ ہو سکی۔ سوانح قاسمی کے مقدمے میں حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب نے سوانح مخطوطہ کے سلسلے میں لکھا ہے کہ اس کا جو ناقص مسودہ دستیاب ہوا وہ صفحہ ۷ سے ۵۶ تک مسلسل تھا اور درمیان کے کچھ منتشر اوراق مسودہ کے بیچ سے نکلے ہوئے تھے۔ اس میں فہرست مضامین کے اوراق مکمل تھے جن میں ۳۲ عنوانات اصولی قائم کیے گئے تھے اور ہر اصولی عنوان کے نیچے ضمنی عنوانات کی کافی تعداد تھی جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سوانح کے اصول پر مرتب شدہ مکمل سوانح تھی۔ سن ولادت سے لے کر سن وفات تک مکمل حالات بیان تھے، حتیٰ کہ وفات کے عنوان کے نیچے مرض وفات تک کی توضیح، نوعیت علاج معالجین کی فہرست، انداز علاج، حالات نزاع و وفات، مبشرات و منامات، نماز جنازہ کی تفصیلی کیفیت، جنازہ پر غیر معمولی ہجوم کے واقعات، تعزیت کنندوں کا ہجوم، مرثی اور قصائد تعزیت و تواریخ، اخبارات میں مضامین تعزیت وغیرہ ضمنی عنوانات صرف ایک عنوان وفات کے نیچے درج تھے۔ سوانح قاسمی مؤلفہ مولانا مناظر احسن گیلانی میں مخطوطہ کے نام سے جا بجا اس کے اقتباسات دیئے گئے ہیں۔ (مقدمہ سوانح قاسمی، اول، ص ۱۲ تا ۱۱)

دارالعلوم سے قطع تعلق کے بعد دیوبند کو خیر باد کہہ کر ریاست جھالاواڑ (راجستھان) چلے گئے اور تاحیات وہیں قیام کیا۔ جھالاواڑ میں ہی ۱۳۱۵ھ مطابق ۱۸۹۸ء میں وفات ہوئی۔ حضرت حاجی صاحب کے صاحبزادے مولانا ظہور الحق مدرسہ مظاہر علوم سہارن پور کے اعلیٰ مدرس ہوئے اور وہیں قیام کیا۔ دیگر صاحبزادگان جے پور اور بھوپال میں رہے۔ (قاسم العلوم حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ: احوال و آثار، باقیات و متعلقات، مولانا نور الحسن راشد کاندھلوی، ص ۳۳۸)

حضرت مولانا محمد منیر نانوتویؒ

۱۲۴۷-۱۳۲۱ھ / ۱۸۳۱-۱۹۰۳ء

حضرت مولانا محمد منیر نانوتویؒ دارالعلوم کے چوتھے مہتمم تھے۔ آپ مشہور عالم و مصنف مولانا محمد احسن نانوتویؒ اور مولانا محمد مظہر نانوتویؒ (اولین صدر مدرس مدرسہ مظاہر علوم سہارن پور) کے چھوٹے بھائی تھے۔ آپ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کے رشتہ کے بھائی تھے اور جہاد شامی میں شریک تھے۔ نہایت ہی خدا ترس اور صاحب دیانت و تقویٰ بزرگوں میں تھے۔

حضرت مولانا محمد منیر نانوتویؒ ۱۲۴۷ھ مطابق ۱۸۳۱ء میں نانوتہ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد حافظ لطف علی سے حاصل کی، پھر دہلی کالج میں داخل ہو گئے۔ وہاں حضرت مولانا مملوک العلی نانوتویؒ، مفتی صدر الدین آزرہ اور پھر حضرت شاہ عبدالغنی دہلویؒ سے علمی استفادہ کیا۔ حضرت نانوتویؒ سے آپ کے بہت گہرے تعلقات تھے۔ دونوں بچپن کے ساتھی تھے۔

مولانا محمد منیر صاحب جنگ آزادی ۱۸۵۷ء کے ایک سرگرم کارکن اور مجاہد تھے۔ شامی کے معرکے میں دوسرے اکابر کے دوش بدوش شریک رہے۔ سوانح قاسمی کے مطابق مولانا منیر صاحب حربی سکریٹری تھے اور انہوں نے خوب داد شجاعت دی۔ جنگ شامی کے بعد روپوش ہو گئے تھے۔ عام معانی کے بعد اپنے بڑے بھائی مولانا محمد احسن کے پاس بریلی پہنچے اور ۱۸۶۱ء مطابق ۱۲۷۸ھ میں بریلی کالج میں ملازم ہو گئے۔ پنشن ملنے تک بریلی میں قیام رہا۔ قیام بریلی کے زمانے میں اپنے بھائی مولانا محمد احسن کے مطبع صدیقی بریلی کے مہتمم بھی رہے۔ ۱۲۹۴ھ کے بعد بریلی سے تعلق ختم ہو گیا۔ آپ نہایت وجیہ اور خاموش مزاج تھے۔

مولانا محمد منیر صاحب "نقشبندی سلسلے میں بیعت تھے۔ انہوں نے امام غزالیؒ کی کتاب منہاج العابدین کا سراج السالکین کے نام سے اردو ترجمہ کیا جو مطبع صدیقی بریلی میں ۱۲۸۱ھ مطابق ۱۸۶۴ء میں طبع ہوا۔ ان کی دوسری تصنیف فوائد غریبہ ہے، یہ رسالہ تصوف کے مسائل پر مشتمل ہے۔ یہ رسالہ تین ابواب پر مشتمل ہے، پہلا باب توحید و رسالت سے متعلق ہے، دوسرا نفس کے بیان میں ہے اور تیسرا قرآن کریم کی تلاوت سے متعلق ہے۔ حضرت مولانا نے ایک رسالہ حج کے موضوع پر بھی لکھا تھا۔ ۱۲۷۸ھ اور ۱۲۹۵ھ میں آپ نے حج ادا کیا۔

آپ کو ۱۳۱۱ھ میں سرپرست دارالعلوم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ کے ایما پر حضرت حاجی سید فضل حق صاحب کے بعد دارالعلوم کا مہتمم بنایا گیا۔ آپ ایک سال سے کچھ زائد مدت تک اس عہدہ پر متمکن رہے۔

دارالعلوم میں خارج اوقات میں طلبہ کو عربی ادب کی کتابیں پڑھاتے تھے۔

دیانت و امانت میں مولانا محمد منیر کا بڑا پایہ تھا۔ ارواحِ ثلاثہ میں ان کے متعلق ایک واقعہ لکھا ہے کہ دارالعلوم کی سالانہ روداد چھپوانے کے لیے ڈھائی سو روپے لے کر دہلی گئے۔ اتفاق سے وہاں روپے چوری ہو گئے۔ مولانا منیر اس حادثے کی کسی کو اطلاع کئے بغیر اپنے وطن نانوتہ آئے، اپنی زمین فروخت کر کے روپیہ فراہم کیا اور اس سے روداد چھپوا کر لائے۔ مجلس شوریٰ کے ارکان کو جب اس کا علم ہوا تو انہوں نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی سے اس کے متعلق مسئلہ دریافت کیا۔ وہاں سے جواب آیا کہ ”مہتمم صاحب امین تھے اور روپیہ چوں کہ بلا تعدی کے ضائع ہوا اس لیے ان پر تاوان نہیں آسکتا“۔ ارکان نے حضرت گنگوہی کا فتویٰ دکھا کر مولانا محمد منیر صاحب سے درخواست کی کہ اپنا روپیہ واپس لے لیں۔ مولانا نے فرمایا کہ ”فتویٰ کی بات نہیں ہے، اگر خود مولانا رشید احمد صاحب کو ایسا واقعہ پیش آتا تو کیا وہ روپے لے لیتے؟“ چنانچہ اصرار کے باوجود روپیہ لینے سے انکار کر دیا۔ (ارواحِ ثلاثہ حکایت: ۴۵۳، مولانا محمد احسن نانوتوی، ص: ۱۵۷، ۶۰)

حضرت مولانا محمد منیر صاحب اپنے بڑے بھائی حضرت مولانا محمد احسن نانوتوی کے انتقال کے بعد دارالعلوم کے اہتمام سے ۱۳۱۳ھ (۱۸۹۵ء) میں مستعفی ہو کر نانوتہ واپس چلے گئے۔ تاریخ وفات محفوظ نہیں، تاہم ۱۳۲۱ھ/۱۹۰۳ء تک حیات کا ذکر ملتا ہے۔

ماخذ:

● تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم، ص ۲۲۷-۲۲۸

حضرت مولانا سید احمد دہلویؒ

وفات: ۱۳۱۱ھ/۱۸۹۴ء

حضرت مولانا سید احمد دہلویؒ دارالعلوم دیوبند کے دوسرے صدر المدرسین تھے۔ مولانا موصوف نہایت جلیل القدر علماء میں سے تھے، منقولات کے ساتھ علوم معقولہ خصوصاً فن ریاضی و ہیئت میں امام وقت سمجھے جاتے تھے۔ خصوصاً فن ریاضی و ہیئت میں تو ان کا آوازہ شہرت یورپ تک پہنچا ہوا تھا۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ فرمایا کرتے تھے کہ ”مولوی سید احمد صاحب کو خداوند کریم نے فنون ریاضی میں وہ استعداد اور مناسبت عطا فرمائی ہے کہ ان فنون کے موجودوں کو بھی شاید اتنی ہی ہو۔“

قیام دارالعلوم کے تیسرے سال ۱۲۸۵ھ مطابق ۱۸۶۸ء میں مدرس دوم کی حیثیت سے بلائے گئے۔ ۱۳۰۲ھ/۱۸۸۴ء میں حضرت مولانا محمد یعقوبؒ کی وفات پر منسذ صدارت تفویض ہوئی، جس پر چھ سال تک فائز رہے۔ اس مدت میں ۲۸ طلبہ نے دورہ حدیث کی تکمیل کی۔ دارالعلوم کی صدر مدرس کے دوران ۱۳۰۶ھ میں حج کیا۔ ۱۳۰۷ھ مطابق ۱۸۹۰ء میں دارالعلوم سے علاحدگی اختیار کر کے بھوپال تشریف لے گئے اور وہیں انتقال ہوا۔ مولانا سید احمد دہلویؒ، حضرت نانوتویؒ سے بیعت تھے۔ حکیم الامتہ حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ اپنی مثنویؒ زیر و بم کے حاشیہ میں تحریر فرماتے ہیں:

”جناب مولانا (سید احمد دہلوی) بالخصوص در فن ریاضیہ ید طولی می داشتند و کمال مہارت این فنون مشہور و معروف“

جن شعروں پر مذکورہ بالا حاشیہ لکھا گیا ہے، وہ یہ ہیں:

مولوی سید احمد دہلوی	دوئی آن سالک شرع نبی
ختم نبود بشکند صدہا قلم	وصف ذہن او اگر سازد قلم
ہم ریاضی و علوم مشکلمہ	خاتم معقول و علم فلسفہ
ہم سخی و ہم جواد و ہم کریم	پارسا و متقی، کم گو، حلیم

(تاریخ دارالعلوم، جلد دوم، ص ۱۷۸-۱۷۹)

آپ کے سلسلہ میں حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی صاحبؒ لکھتے ہیں:

”سید احمد نام، ابوالخیر کنیت، مولوی امام الدین صاحب (خلف فرزند علی) کے فرزند ارجمند، مرحوم دہلی کے نامی گرامی مولویوں کے خاندان کے فرد اور خانوادہ سادات کے چشم و چراغ تھے۔ مولوی

امام الدین صاحب ملکہ زینت محل اور مغل شہزادوں کے استاذ و اتالیق ہونے کی وجہ سے بڑی شہرت و عزت رکھتے تھے۔ مولانا سید احمد صاحب مولانا میر سید محبوب علی صاحب جعفری کے بھانجے تھے جو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے ممتاز تلامذہ میں ہیں۔ مولانا سید احمد صاحب کو علوم عقلیہ بالخصوص ریاضی و ہیئت میں یدِ طولیٰ حاصل تھا۔ حضرت مولانا محمد قاسم فرمایا کرتے تھے کہ مولوی سید احمد صاحب کو خداوند کریم نے فنون ریاضی میں وہ استعداد اور مناسبت عطا فرمائی ہے کہ ان فنون کے موجودوں کو بھی شاید اتنی ہی ہو۔ ۱۳۰۷ھ مطابق ۱۸۹۰ء میں نواب شاہجہاں بیگم کی درخواست اور طلبی پر بھوپال تشریف لے گئے اور مدرسہ جہاں گیری کی صدر مدرس و اہتمام کے عہدہ کو قبول کیا۔ لیکن یہ فیضان علمی زیادہ مدت تک جاری نہ رہ سکا اور چار سال بعد ۱۳۱۱ھ/ ۱۸۹۳ء میں آپ نے اس دار فانی سے کوچ فرمایا۔ مولانا نہایت خاموش، کم آمیز اور باوقار عالم تھے۔“ (حیات عبدالحی، ندوۃ المصنفین دہلی، نومبر ۱۹۷۰ء ص ۶۱، ۶۲)

شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندیؒ

۱۲۶۸-۱۳۳۹ھ / ۱۸۵۱-۱۹۲۰ء

شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسنؒ دارالعلوم کے اولین طالب علم، حضرت گنگوہیؒ کے بعد دارالعلوم کے سرپرست، شیخ الحدیث، صدر مدرس اور دارالعلوم کے صف اول کے علماء کے استاذ و مربی ہیں۔ درس و تصنیف، ارشاد و تلقین اور ملکی و قومی خدمات میں آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ دین کے ہر دائرہ میں آپ کی خدمات نمایاں مقام رکھتی ہیں۔

ابتدائی حالات

حضرت شیخ الہندؒ کی پیدائش ۱۲۶۸ھ مطابق ۱۸۵۱ء میں بریلی میں ہوئی، جہاں ان کے والد ماجد مولانا ذوالفقار علیؒ سرکاری محکمہ تعلیم سے وابستہ تھے۔ ابتدائی تعلیم اپنے چچا مشہور عالم دین حضرت مولانا مہتاب علیؒ سے حاصل کی۔ قدوری اور شرح تہذیب پڑھ رہے تھے کہ دارالعلوم کا قیام عمل میں آیا، چنانچہ آپ اس میں داخل ہو گئے۔ حضرت شیخ الہند دارالعلوم کے سب سے پہلے طالب علم ہیں۔ آپ کے اساتذہ میں حضرت مولانا ملا محمود دیوبندیؒ، مولانا حضرت مولانا سید احمد دہلویؒ اور حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتویؒ کا نام شامل ہے۔ نصاب دارالعلوم کی تکمیل کے بعد حضرت نانوتویؒ کی خدمت میں رہ کر علم حدیث کی تحصیل فرمائی۔ فنون کی بعض اعلیٰ کتابیں والد ماجد سے پڑھیں۔ ۱۲۹۰ھ مطابق ۱۸۷۳ء میں حضرت نانوتویؒ کے دست مبارک سے دستارِ فضیلت حاصل کی۔ زمانہ تعلیم ہی میں آپ کا شمار حضرت نانوتویؒ کے ممتاز تلامذہ میں ہوتا تھا اور حضرت نانوتویؒ آپ پر خاص شفقت فرماتے تھے۔ قاسمی علوم کا جو فیضان آپ کی ذات سے ہوا، اس کی نظیر دوسرے تلامذہ میں نہیں ملتی۔ آپ حضرت نانوتویؒ کے علوم و افکار کے امین تھے اور ان کی ایضاح و تشریح میں نمایاں حصہ لیا۔

علم و تقویٰ میں یگانہ روزگار شخصیت

حضرت مولانا محمود حسنؒ کی اعلیٰ علمی و ذہنی صلاحیتوں کے پیش نظر دارالعلوم کی مدرسے کے لیے اکابر کی نظر انتخاب آپ کے اوپر پڑی اور ۱۲۹۱ھ میں مدرس چہارم کی حیثیت سے آپ کا تقرر عمل میں آیا۔ حضرت شیخ الہند نے اپنی تدریسی زندگی کے آغاز سے بڑی محنت اور جاں فشانی کے ساتھ دارالعلوم کی خدمت کی۔ کبھی کبھی آپ کے ذمہ

۱۹ کتابوں کا سبق متعلق ہوتا تھا اور آپ مغرب و عشاء اور فجر کے بعد بھی اسباق پڑھاتے تھے۔ حضرت نانوتویؒ کی وفات کے حادثہ جا نگاہ کی وجہ سے تدریسی سلسلہ موقوف کر دیا تھا لیکن پھر حضرت مولانا رفیع الدین دیوبندیؒ ہتتم دارالعلوم دیوبند کے اصرار کے بعد دوبارہ مسند تدریس سنبھالی۔ ۱۳۰۸ھ مطابق ۱۸۹۰ء میں حضرت مولانا سید احمد دہلویؒ کے بعد دارالعلوم میں صدارت تدریس کے منصب پر فائز ہوئے۔ دارالعلوم میں صدارت تدریس کا مشاہرہ اس وقت ۷۵ روپیہ تھا، مگر آپ نے ۵۰ روپے سے زیادہ کبھی قبول نہیں فرمائے، بقیہ ۲۵ روپے دارالعلوم کے چندے میں شامل فرمادیتے تھے۔

ظاہری علم و فضل کی طرح باطن بھی آراستہ تھا۔ طریقت کی تحصیل حضرت گنگوہیؒ کی بارگاہ میں کی۔ جب آپ کو سلوک و تصوف میں کمال حاصل ہو گیا تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی گو تحریر فرمایا کہ مولوی محمود حسن اب اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ حضرت کی طرف سے ان کو اجازت و خلافت عنایت فرمادی جائے۔ جب تک حضرت حاجی صاحب حیات تھے، حضرت گنگوہیؒ بالعموم خود اجازت و خلافت دینے کے بجائے آپ سے سفارش کرتے تھے اور حاجی صاحب اجازت و خلافت کی تحریر بھیج دیتے تھے، پھر اس کے بعد آپ بھی اپنی طرف سے اجازت و خلافت دے دیتے۔ حضرت شیخ الہندؒ اور ادو و نطنف، شب بیداری اور تہجد گزاری کے ہمیشہ پابند رہے۔ جن ایام میں آپ اٹھارہ انیس اسباق پڑھاتے تھے، عشاء اور فجر کے بعد بھی درس ہوتا تھا، رات میں مطالعہ بھی کرتے تھے اور شب بیداری کے معمول میں کبھی فرق نہیں آتا تھا۔ اسارت مالٹا کے زمانے میں جب کہ وہاں کی سردی اور برفانی ہوائیں نوجوان ہمرایوں کے لیے ناقابل برداشت تھیں، آپ بڑھاپے اور لاغری کی حالت میں بھی رات کو اخیر پہراٹھ کر اپنے مولیٰ سے راز و نیاز میں مصروف ہو جاتے۔

آپ کی زندگی میں بڑی سادگی تھی۔ گفتار و کردار، عادات و اطوار اور لباس وغیرہ میں کسی طور پر برتری کا اظہار نہیں فرماتے تھے۔ تواضع و خاکساری طبیعت میں بہت زیادہ تھی۔ غرباء اور معمولی آدمیوں میں رہنا پسند فرماتے تھے۔ امراء اور اہل دنیا کے تکلفات سے گھبراتے تھے۔ بڑے فقیہ تھے، نقلی و عقلی علوم میں پوری مہارت تھی۔ تاریخ کا مطالعہ بھی بڑا وسیع تھا۔ شعر و ادب سے بھی لگاؤ تھا اور بہت زیادہ اشعار یاد تھے۔ خود بھی شاعر تھے۔ آواز صاف تھی، کلام میں ایجاز تھا۔ درمیانہ قد تھا۔ چلنے اور بات کرنے میں بڑا وقار تھا۔ ان کے کھڑے سے ہمت اور تواضع کے آثار نمایاں تھے، عبادت اور مجاہدہ کا نور شپکتا تھا۔ احباب اور تلامذہ کے ساتھ انبساط کے باوجود وقار اور ہیبت کا اثر دکھائی دیتا تھا۔

حضرت شیخ الہند کا علمی فیضان

تدریس کی ابتداء آپ نے دارالعلوم سے کی اور آخر تک آپ کا علمی فیضان جاری رہا۔ آپ کے درس کا امتیاز تحقیق اور ایجاز تھا، لب لباب پر اقتصار فرماتے تھے۔ محدثین اور ائمہ مجتہدین کا بے حد احترام کرتے تھے۔ آپ

کے حلقہٴ درس کو دیکھ کر سلف صالحین اور اکابر محدثین کے حلقہٴ حدیث کا نقشہ نظروں میں پھر جاتا تھا۔ قرآن و حدیث حضرت کی زبان پر تھا، صحابہ و تابعین اور فقہاء و مجتہدین کے اقوال اور ائمہ اربعہ کے مذاہب از بر تھے۔ بہت سے ذی استعداد اور ذہین و ذکی طالب علم جو مختلف اساتذہ کی خدمتوں میں استفادہ کرنے کے بعد حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے اپنے شکوک و شبہات کے کافی و شافی جواب پانے کے بعد حضرت مولانا کی زبان سے آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ کے معانی اور مضامین عالیہ سن کر سر نیاز خم کر کے معترف ہوتے کہ یہ علم کسی میں نہیں ہے اور ایسا محقق عالم دنیا میں نہیں دیکھا۔ آپ کی زبردست علمی شخصیت کے باعث کثیر تعداد میں طلبہ نے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے فراغت حاصل کی۔ دارالعلوم کے صف اول کے فضلاء و علماء میں تقریباً سب ہی نے آپ سے کسب فیض کیا ہے۔ حضرت شیخ الہند کے فیض تعلیم نے مختلف علوم و فنون کے ماہرین کی ایک جماعت تیار کی ہے۔ مثلاً: حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، حضرت مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی، حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانی، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی، حضرت مفتی عزیز الرحمن عثمانی، حضرت مولانا سید اصغر حسین دیوبندی، حضرت مولانا منصور انصاری، حضرت مولانا ابراہیم بلیاوی، حضرت مولانا محمد اعجاز علی امرہوئی، حضرت مولانا سید مناظر احسن گیلانی، حضرت مولانا سید فخر الدین احمد، حضرت مولانا سید احمد فیض آبادی ثم المدنی بانی مدرسہ علوم شرعیہ مدینہ منورہ، شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری، حضرت مولانا محمد الیاس بانی تبلیغ، حضرت مولانا غلام رسول ہزاروی، حضرت مولانا محمد رسول خان ہزاروی، مولانا فضل ربی ہزاروی، حضرت مولانا محمد اکبر شاہ پشاوروی، حضرت مولانا عزیز گل سرحدی، حضرت مولانا عبدالوہاب دربھنگوی، حضرت مولانا عبدالصمد رحمانی، حضرت مولانا محمد صادق کراچی، حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالعلی لکھنوی، حضرت مولانا احمد اللہ پانی پٹی وغیرہ۔

تالیفات و تصنیفات

اپنے وسیع علم اور کثرت درس کے باعث تالیف و تصنیف کی طرف زیادہ توجہ نہ دے سکے۔ ابتدائی پچیس تیس سال تو درس و تدریس میں مشغول رہے اور اس کے بعد تازندگی مجاہدانہ سرگرمیوں میں مصروف رہے۔ مگر اس کے باوجود آپ نے نہایت قابل اور ماہرین علم و فن شاگردوں کی ایک جماعت کے ساتھ گراں قدر علمی ورثہ بھی چھوڑا جو حسب ذیل ہے:

(۱) ترجمہ قرآن کریم: اردو کا مقبول ترین ترجمہ، سورہ نساء تک آپ کے حواشی بھی ہیں جنہیں بعد میں علامہ شبیر احمد عثمانی نے مکمل کیا۔ سعودی حکومت کی طرف سے بھی شائع ہو چکا ہے۔ متعدد زبانوں میں اس کے ترجمے شائع ہو چکے ہیں۔

(۲) 'الابواب والتراجم' صحیح بخاری کے تراجم ابواب کی مختصر شرح (۳) تقریر ترمذی عربی (۴) حواشی و

تعلیقات علی سنن ابی داؤد (۵) حاشیہ مختصر المعانی (۶) جہد المقل فی تنزیہ المعز والمذل: اردو میں مسئلہ امکان کذب کے موضوع پر (۷) الادلۃ الکاملۃ: محمد حسین بٹالوی کے دس سوالوں کے جواب میں (۸) ایضاح الادلۃ: بجواب مصباح الادلۃ از محمد احسن امر وہوی (۹) احسن القری (۱۰) افادات: دو مضامین کا مجموعہ (۱۱) فتاویٰ (۱۲) مکتوبات شیخ الہند (۱۳) کلیات شیخ الہند: منظوم کلام کا مجموعہ۔

ملکی و ملی خدمات

ہندوستان میں سلطنت مغلیہ کے زوال کے بعد آزادی وطن کی تحریک کا تذکرہ ہو یا آزادی وطن میں مسلمانوں کے فخر و مباہات کا ذکر، مجاہدین کی جاں سپاریوں کا ذکر ہو یا انقلاب و بغاوت کی بے مثال منصوبہ بندی کا، ہر موقعہ پر تدبیر و فراست، بصیرت و سیاست دانی اور بے مثال انقلابی قربانیوں کے لیے حضرت شیخ الہند کا نام نہایت ادب و احترام اور پورے احساس عظمت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ حضرت شیخ الہند ان علمائے دیوبند کے سچے وارث تھے جنہوں نے دارالعلوم کا قیام ہی اس جذبہ سے کیا تھا کہ اس سے علماء و فضلاء کی ایسی جماعت تیار ہو جو ایک طرف مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت اور اسلامی ورثہ و تہذیب کے فروغ میں نمایاں حصہ لے تو دوسری طرف مغربی استعمار سے ہندوستان کو آزاد کرنا اور کرا کر باشندگان ملک کو سیاسی و مذہبی آزادی عطا کرے۔

سب سے پہلے آپ نے فضلاء دیوبند کو ذہنی و فکری اعتبار سے مستحکم و منظم کرنے کے لیے انجمن شمرۃ التربیت قائم فرمائی۔ پھر جمعیت الانصار قائم فرمائی جس کا مقصد عامۃ المسلمین میں دارالعلوم کی مرکزیت کا احساس پیدا کرنا اور دارالعلوم کے اثرات کی ترویج و اشاعت اور اس کو ہمہ گیر بنانا تھا۔ اسی جمعیت کے پلیٹ فارم سے آپ نے اپنے شاگردوں کو تیار کرنا شروع کیا۔ مولانا عبید اللہ سندھی اس کے سکریٹری تھے۔ بعد میں مختلف وجوہات کی بنیاد پر نظارۃ المعارف القرآنیہ نام کی تنظیم قائم کی گئی۔ اسی درمیان عالم اسلام میں کافی سنگین حالات پیدا ہو رہے تھے۔ جنگ طرابلس و بلقان کی وجہ سے مسلمانوں میں ہیجان پھیلا ہوا تھا۔ حضرت شیخ الہند نے ہندوستان سے برطانوی حکومت کے اقتدار کو ختم کرنے کے لیے ایک اسکیم تیار کی، یہ ۱۳۳۰ھ مطابق ۱۹۱۳ء کا زمانہ تھا، انہوں نے مسلح انقلاب کے ذریعہ برطانوی گورنمنٹ کا تختہ الٹ دینے کا نقشہ تیار کیا۔ اس کے لیے انہوں نے نہایت منظم طور پر اپنا پروگرام مرتب کیا تھا، ان کے شاگردوں اور رفقاء کے کارکن ایک بڑی جماعت جو ہندو بیرون ہند کے اکثر ممالک میں پھیلی ہوئی تھی، ان کے مجوزہ پلان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے نہایت سرگرمی اور جاں بازی کے ساتھ کوشاں تھی۔ شاگردوں میں مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا محمد میاں منصور انصاری اور ہندوستان اور باہر کے بہت سے نمایاں افراد اس میں شامل تھے، جنہوں نے حضرت شیخ الہند کے سیاسی اور انقلابی پروگرام کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں۔

حضرت شیخ الہند کے اسی پروگرام کے تحت حضرت مولانا عبید اللہ سندھی نے افغانستان میں آزاد ہندوستان

کی حکومت قائم کی جس کے سربراہ راجہ مہندر پرتاپ سنگھ، مولانا برکت اللہ بھوپالی وزیر اعظم اور مولانا عبید اللہ سندھی وزیر داخلہ تھے۔ اس وقت عام خیال یہ تھا کہ طاقت کے بغیر ہندوستان سے انگریزوں کا نکالنا ممکن نہیں ہے، اس کے لیے سپاہ اور اسلحہ کی ضرورت ہے، ان چیزوں کی فراہمی کے لیے افغانستان اور ترکی کا انتخاب کیا گیا۔ حضرت شیخ الہند نے اپنی مجوزہ اسکیم کو کامیاب بنانے کے لیے پیرانہ سالی کے باوجود ۱۳۳۳ھ مطابق ۱۹۱۵ء میں جاز کا سفر فرمایا۔ وہاں کے ترکی گورنر غالب پاشا اور انور پاشا سے جو اس وقت ترکی کے وزیر جنگ تھے ملاقات فرما کر بعض اہم امور طے کیے۔ اس وقت جنود رہانیہ کے نام سے ایک مسلم فوج قائم کی گئی جس کا مرکز مدینہ تھا، کمانڈران چیف عثمانی خلیفہ تھے اور حضرت شیخ الہند اس آرمی کے کمانڈر جنرل تھے۔ اس فوج میں عالم اسلام کے متعدد اہم مسلم کمانڈر اور قائدین شریک تھے۔ حضرت شیخ الہند حجاز سے براہ بغداد بلوچستان ہوتے ہوئے سرحد کے آزاد قبائل میں پہنچنا چاہتے تھے کہ اچانک جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ اسی دوران شریف حسین والی مکہ نے انگریز حکام کے ایما پر آپ کو گرفتار کر کے ان کے حوالے کر دیا۔ حضرت شیخ الہند کے ساتھ مولانا حسین احمد مدنی، مولانا عزیز گل، حکیم نصرت حسین اور مولانا وحید احمد فیض آبادی کی گرفتاری بھی عمل میں آئی، آپ کو پہلے مصر اور پھر وہاں سے جزیرہ مالٹا لے جایا گیا، جو برطانوی قلمرو میں جنگی مجرموں کے لیے محفوظ ترین قید خانہ سمجھا جاتا تھا۔

برطانوی حکومت کو حضرت شیخ الہند اور ان کے رفقاء کے کارکی تحریک اور پروگرام کی اطلاع مل گئی۔ برطانوی حکومت کے کاغذات میں اس تحریک کو Silk Letter Conspiracy Case (ریشی رومال سازش کیس) کے نام سے یاد کیا ہے اور سیکڑوں صفحات پر مشتمل یہ فائل آج بھی انڈیا آفس لندن میں محفوظ ہے۔

جنگ عظیم ختم ہونے پر آپ کو ہندوستان آنے کی اجازت ملی اور ۲۰ رمضان المبارک ۱۳۳۸ھ مطابق ۱۹۲۰ء کو آپ نے ساحل ممبئی پر قدم رنجہ فرمایا۔ اہل ہند نے نہایت تڑک و احتشام سے آپ کا استقبال کیا۔ استقبال کرنے والوں میں تحریک خلافت کے روح رواں مولانا شوکت علی، موہن داس کرم چند گاندھی اور علمی و سیاسی دنیا کی ممتاز شخصیتیں شامل تھیں۔ تحریک خلافت کے جلسہ عام میں آپ کو سپاس نامہ پیش کیا گیا۔ اس اجلاس میں ہندوستان کے اکابر علماء ملت نے متفقہ طور پر آپ کو شیخ الہند کا خطاب دیا۔ مالٹا سے واپسی کے بعد صحت بگڑ چکی تھی، پیرانہ سالی اور قید و بند کے باعث نہایت ضعیف ہو گئے تھے، مگر بایں ہمہ آپ نے شہد و مد کے ساتھ سیاسی کاموں میں حصہ لیا اور ہندوستان کے طول و عرض میں تمام شہروں کا دورہ کرنے کی ٹھان لی۔ علی گڑھ گئے اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بنیاد ڈالی، خطبہ دیا اور ترک موالات کا فتویٰ جاری کیا۔ اسی طرح آپ نے جمعیتہ علمائے ہند کی سرپرستی فرمائی جو تحریک آزادی میں مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت کے طور پر سامنے آئی اور آزادی کے بعد بھی اہم ملکی و ملی خدمات انجام دے رہی ہے۔

حضرت شیخ الہند کے کارناموں کا باب ہندوستان کی سیاسی و اسلامی تاریخ میں جلی حروف سے اسی لیے لکھا گیا کہ انھوں نے تنہا اتنا عظیم الشان کارنامہ انجام دیا جو بڑی سے بڑی تنظیم اجتماعی طاقت کے بل بوتے پر انجام دیتی

ہے۔ یہ حضرت شیخ الہند کی بے پناہ قوت ارادی اور عزم و حوصلہ کا کرشمہ تھا جس کے سامنے اسلامی ہند کا سر ہمیشہ خم رہے گا اور سرزمین ہند ہمیشہ ان کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کرتی رہے گی۔

وفات

مسلل جہد و ریاضت، قید و بند اور پیرانہ سالی کے باعث بہت بیمار ہو چکے تھے۔ بالآخر ۱۸ ربیع الاول ۱۳۳۹ھ مطابق ۳۰ نومبر ۱۹۲۰ء کی صبح کو دہلی میں داعی اجل کو لبیک کہا، جنازہ دیوبند لایا گیا اور اگلے روز حضرت نانوتوی قدس سرہ کی قبر مبارک کے قریب یہ گنجینہ فضل و کمالات سپرد خاک کیا گیا۔

تفصیلی حالات کے لیے دیکھیں: حیات شیخ الہند (مرتبہ حضرت مولانا اصغر حسین دیوبندیؒ)، نقش حیات، اسیر مالٹا (شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنیؒ)، تذکرہ شیخ الہند (مفتی عزیز الرحمن بجنوریؒ)، حضرت شیخ الہند: حیات اور کارنامے (مولانا نظام الدین اسیر ادرویؒ)، شیخ الہند مولانا محمود حسن: ایک سیاسی مطالعہ (ڈاکٹر ابوسلمان شاہ جہانپوری)

مآخذ:

- تاریخ دارالعلوم دیوبند، جلد دوم، ص ۲۰۱ تا ۲۱۷
- حضرت شیخ الہند: حیات اور کارنامے، مولانا اسیر ادروی، ص ۳۰۷ تا ۳۲۲

حضرت مولانا شاہ عبدالرحیم رائے پوریؒ

۱۲۷۲-۱۳۳۷ھ / ۱۸۵۵-۱۹۱۹ء

حضرت مولانا شاہ عبدالرحیم رائے پوریؒ ایک عالم ربانی، شیخ وقت، مرشد کامل اور صاحب سلسلہ بزرگ تھے۔ ۱۳۳۳ھ میں حضرت شیخ الہندؒ کے حجاز تشریف لے جانے کے بعد حضرت مولانا شاہ عبدالرحیم رائے پوریؒ کو دارالعلوم دیوبند کا سرپرست تسلیم کیا گیا۔

ابتدائی حالات

حضرت رائے پوریؒ کا سن پیدائش ۱۸۵۵ء ہے۔ اصل وطن آپ کا نگری ضلع انبالہ ہے، مگر بعد میں رائے پور ضلع سہارنپور میں قیام کیا۔ آپ کی ذات جامع کمالات تھی۔ ۱۸۵۷ء کے ہنگامہ کے بعد اعلیٰ حضرت حاجی صاحبؒ کی روپوشی کے زمانہ میں جب کہ امام ربانی (مولانا رشید احمد گنگوہیؒ) قدس سرہ پنچلا سہ جاتے ہوئے نگری میں ٹھہرے تو آپ ہی کے والد صاحب راؤ اشرف علی خان صاحب کے مہمان بنے تھے۔ مولانا ممدوح اس وقت طفل سہ سالہ تھے۔ حضرت نے پیار کیا اور سر پر ہاتھ رکھ کر عادی تھی۔ اس وقت سے آپ کو امام ربانی کے ساتھ تعلق تھا، جوں جوں ہوش سنبھالا باپ کی زبان سے حضرت کے مناقب سُن کر گویا حضرت ہی کی محبت میں نشوونما پائی۔

بیعت و اجازت

آپ نے طفولیت ہی میں گنگوہ کی آمدورفت شروع کر دی اور حضرت کے مربیانہ فیضان سے مستفید ہونے لگے تھے۔ سہارنپور میں بزمانہ طالب علمی حضرت شاہ عبدالرحیم سہارن پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے اور صاحب نسبت اور مجاز طریقت بنے۔ اُس زمانہ میں بھی امام ربانی حضرت گنگوہی قدس سرہ کی خدمت میں حاضری اُسی محبت و شوق کے ساتھ رہی جو ماقبل و مابعد زمانہ میں تھی اور مولانا کے دوسری جگہ بامر اللہ مرید بن جانے کے باوجود حضرت کا تعلق بھی آپ سے وہی مربیانہ رہا جو اس سے قبل یا بعد میں تھا۔ شاہ عبدالرحیم صاحب سہارن پوریؒ کے وصال کے چار سال بعد آپ کو حضرت گنگوہیؒ نے بیعت کیا اور بیعت کے ساتھ ہی ساتھ مجاز طریقت بنایا۔

اوصاف و کمالات

مولانا ممدوح اپنی متوکلانہ گذران میں اپنے شیخ کی شبیہ مجسم تھے۔ زہد و استغنا میں اپنی مثال آپ تھے۔

تواضع اور تذلل میں آپ بے نظیر تھے۔ مہمان نوازی کی حد نہیں تھی، دسترخوان کی وسعت دیکھ کر امراء حیران رہ جاتے۔ کتھانِ حال بے انتہا اور طبیعت بے انتہا خلوت پسند تھی؛ اس لیے رائے پور کے مغرب سمت لب نہر جمن ایک باغ میں آپ نے سکونت اختیار کی۔

حضرت شاہ عبدالرحیم راپوری قدس سرہ کی ذاتِ گرامی فضائل و مناقب کا مرقع تھی، حضرت مولانا عاشق الہی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تالیف ”تذکرۃ الخلیل“ میں ضمناً آپ کا ذکر خیر بھی تعلق خاطر سے کیا ہے، فرماتے ہیں:

”حضرت ممدوح اس صدی کی وہ مقتدر ہستی تھی جو گذشتہ صدیوں کے بزرگانِ مشاہیر کا نمونہ بن کر دنیا میں آئی تھی، شانِ تفویض کی مجسم تصویر، بحرِ توحید کی غواص، تسلیم و رضا میں غرق اور توکل و اعتماد میں فنا، شریعت میں آپ عالمِ بحر تھے، مگر طریقت کا آپ پر غلبہ تھا کہ دیکھنے والا آپ کو مولوی و عالم نہ سمجھتا تھا، یکسوئی اور وحدت نشینی آپ کی طبیعتِ ثانیہ تھی۔ محبوبیت آپ پر سایہ افکن تھی، آپ سنتِ نبویہ کے عاشق تھے جگہ جگہ مکاتبِ قرآنیہ جاری کرنے کے آپ حریص تھے اور بچوں کو صحیح و صاف سادہ لہجہ میں قرآن مجید پڑھتا ہوا دیکھ کر آپ بہت خوش ہوا کرتے تھے، خود آپ کے باغ میں بھی ایک مدرسہ تھا جو توکل کا مجسمہ تھا، کتب کیا تھا، نائبِ رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) جامعِ شریعت و طریقت کی خانقاہ تھی، صبر و شکر، قناعت و اخلاص، علم و یقین، تفویض و توکل اور رضا و تسلیم کی آپ مجسم تصویر تھے۔ آپ دائم الفکر اور دائم السکوت تھے کہ بلا ضرورت بولنا ہی نہیں جانتے تھے، مگر جب امر بالمعروف کا وقت آتا تو آپ کی عالمانہ تقریر ایسی نرالے طرز پر ہوتی تھی کہ دلوں میں بیٹھتی اور آہن کو موم بناتی چلی جاتی تھی“۔ (ص ۲۳۹)

جس طرح آپ کو تعلیمِ قرآن مجید سے شغف تھا اسی طرح خود تلاوتِ کلام اللہ سے عشق تھا۔ آپ حافظِ قرآن تھے اور شب کا قریب قریب سارا وقت تلاوت میں صرف ہوتا تھا، رات دن کے چوبیس گھنٹوں میں شاید آپ گھنٹہ بھر سے زیادہ نہ سوتے ہوں اور اسی لیے آپ کو لوگوں سے وحشت ہوتی تھی کہ معمولِ تلاوت میں حرج ہوتا تھا۔ عصر و مغرب کے درمیان کا وقت عام مجلس اور ملاقات کے لیے مخصوص تھا اور اس کے علاوہ بغیر کسی خاص ضرورت کے آپ کسی سے نہ ملتے اور مکان کا دروازہ بند فرما کر خلوت میں اپنے مولیٰ کریم سے راز و نیاز میں مشغول رہا کرتے تھے۔ خوراک آپ کی بہت ہی کم تھی اور ماہِ رمضان میں تو مجاہدہ اس قدر بڑھ جاتا تھا کہ دیکھنے والوں کو ترس آتا تھا، افطار و سحر دونوں وقت کا کھانا بمشکل دو پیالی چائے اور آدھی یا ایک چپاتی ہوتا تھا، شروع میں آپ قرآن مجید تراویح میں خود سناتے اور دو بجے ڈھائی بجے فارغ ہوتے تھے، مگر آخر میں دماغ کا ضعف زیادہ بڑھ گیا تو سامع بنتے اور اپنی تلاوت کے علاوہ تین چار ختم سن لیا کرتے تھے، ماہِ مبارک میں چونکہ تمام رات اور تمام دن آپ کا مشغلہ تلاوتِ کلام اللہ رہتا تھا، اس لیے مہمانوں کی آمد آپ روک دیا کرتے اور مراسلت بھی پورے مہینے بند رہتی تھی کہ کوئی خط کسی کا بھی عید سے قبل دیکھا یا سنا نہ جاتا تھا۔ (تذکرۃ الخلیل: ۲۵۲؛ سوانح حضرت مولانا عبدالقادر راپوری از مولانا ابوالحسن علی ندوی، ص: ۷۴)

دارالعلوم دیوبند کی سرپرستی

حضرت مولانا رائے پوری جماعت دیوبند کے متفق علیہ بزرگ تھے۔ ۱۳۲۰ھ/۱۹۰۲ء میں آپ کو دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کا رکن بنایا گیا۔ ۱۳۳۳ھ/۱۹۱۵ء میں شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی کے حجاز تشریف لے جانے کے بعد آپ کو دارالعلوم دیوبند کا سرپرست تسلیم کیا گیا اور تا وفات آپ دارالعلوم کی سرپرستی فرماتے رہے۔

دارالعلوم کے ساتھ ساتھ آپ مظاہر علوم سہارنپور کے بھی سرپرست تھے۔ آپ اور حضرت اقدس مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری میں وہ محبت و یگانگت تھی، جس کی نظیر نہیں تھی۔ حضرت سہارنپوری سفر حجاز کو تشریف لے جاتے تو اپنے تمام متوسلین کو یہ وصیت فرما کر جاتے تھے کہ رائپور کی حاضری دیتے رہیں اور جس امر میں مشورہ یا استفسار کی حاجت پیش آئے وہ مولانا رائپوری سے پوچھیں۔

سفر آخرت

آخر زمانہ میں اعلیٰ حضرت رائپوری پر اشتیاق زیارت حرمین شریفین نے بے حد غلبہ کیا، اگرچہ اس سے پیشتر بھی چند مرتبہ سعادت حج بیت اللہ سے مشرف ہو چکے تھے، لیکن اس مرتبہ ذوق و شوق کا ایک اور ہی عالم تھا۔ آپ نے قبل از وفات اپنا تمامی سامان حتی کہ بدن کے کپڑے تک وصیت و ہبہ کے ذریعے دوسروں کی ملک بنا دیے تھے، مگر تیرہ سو روپیہ نقد زور راہ بنا کر مولانا عبدالقادر صاحب کے حوالے کر دیا تھا کہ اس کو محفوظ رکھو کہ یہ میرے اور تمہارے سفر حج کا خرچ ہے، آخر جوں جوں حج کا موسم قریب آتا گیا، آپ کا مرض و ضعف بڑھتا رہا اور وصال کا وقت قریب آتا گیا، حتی کہ آپ نے سمجھ لیا کہ اب گنجائش نہیں رہی اور تیرہ سو روپیہ ترک کرنا چاہتا ہے، تب آپ نے مولانا کو بلا کر وہ روپیہ بھی تقسیم کر دیا، کیونکہ آپ مولیٰ کریم سے ایسی حالت میں ملنے کے متمنی تھے کہ دنیا کا کوئی حصہ اور پارچہ بھی آپ کی ملک میں نہ ہو۔ بیت کے دھیان سے ہٹ کر اب آپ رب البیت کے خالص تصور میں غرق ہو گئے اور آخر چند ہی روز بعد وہ مبارک وقت آیا جس کے شوق میں آپ کا رُواں رُواں پکارتا تھا۔

خرم آں روز کزین منزل ویراں بروم راحتِ جاں طلسم وز پئے جاناں بروم
نذر کردم کہ گر آید بسرایں غم روزے تا در میکدہ شاداں وغزل خواں بروم

رائے پور میں ۲۵ ربیع الثانی ۱۳۳۷ھ مطابق ۲۷ جنوری ۱۹۱۹ء یوم دوشنبہ کو شب میں آپ کا انتقال ہوا۔ چنانچہ اسی باغ میں جہاں آپ کی حیات شریفہ کا اخیر حصہ گزرا تھا، مسجد کی جنوبی سمت آپ کا جسد اطہر سپرد خاک کیا گیا۔ (تذکرۃ الخلیل، ص ۲۷۳؛ مشاہیر علمائے دیوبند، قاری فیوض الرحمن، اول، ص ۲۸۱ تا ۲۸۷)

اراکین تاسیسی

حضرت مولانا مہتاب علی دیوبندیؒ

حضرت مولانا مہتاب علی صاحب دارالعلوم دیوبند کے بانیوں میں سے ایک تھے۔ آپ تاحیات دارالعلوم کی مجلس شوریٰ کے رکن رہے۔ آپ حضرت شیخ الہندؒ کے بڑے ابا (تایا) یعنی حضرت مولانا ذوالفقار علیؒ کے بڑے بھائی ہیں۔ علم و فضل کے اعتبار سے اس زمانہ میں دیوبند کے ممتاز ترین علماء میں شمار ہوتے تھے۔ حضرت نانوتویؒ نے دیوبند میں عربی کی ابتدائی کتابیں آپ سے ہی پڑھیں۔ دارالعلوم کے قیام اور اس کی تعمیر و ترقی میں حضرت حاجی سید عابد حسین صاحبؒ کے ہمنوا اور مشیر کار رہتے تھے۔ مدرسہ کو ترقی و استحکام دینے میں آپ کا بھی بڑا کردار رہا ہے۔

شیخ فتح علی دیوبندیؒ کے تین صاحبزادوں میں حضرت مولانا مہتاب علیؒ سب سے بڑے تھے۔ آپ کے بھائی حضرت مولانا ذوالفقار علیؒ بھی دارالعلوم کے بانیوں میں سے ہیں۔ حضرت مولانا مہتاب علیؒ نے تعلیم دہلی عربک کالج میں حضرت مولانا مملوک العلی نانوتویؒ اور حضرت مفتی صدر الدین آزرودہ سے حاصل کی۔ جب سند فراغت لے کر دیوبند واپس آئے تو چوں کہ گھرانہ بہت خوشحال تھا؛ اس لیے انھوں نے کہیں ملازمت نہیں کی، بلکہ دیوبند میں مسند تدریس بچھائی۔ شیخ کرامت حسین کی بیٹھک میں ان کا مدرسہ تھا، یہیں وہ شوقین طلبہ کو پڑھایا کرتے تھے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ نے مولانا موصوف سے عربی کی ابتدائی کتابیں یہیں پڑھیں۔ حضرت شیخ الہندؒ کے والد حضرت مولانا ذوالفقار علی صاحبؒ بھی اسی درسگاہ میں زیر تعلیم تھے اور عربی کی متوسطات پڑھتے تھے۔ یہ حضرت نانوتویؒ سے تقریباً گیارہ سال عمر میں بڑے تھے۔

دارالعلوم کے قیام کی جب تحریک چلی اور مالیات کی فراہمی کے لیے حضرت حاجی عابد حسینؒ نے آغاز کیا، تو سب سے پہلے وہ مشورہ اور مالی تعاون کے لیے حضرت مولانا مہتاب علیؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سب سے پہلی رقم انھوں نے ہی عنایت کی۔ مولانا موصوف نے صرف مالی تعاون ہی نہیں کیا، بلکہ دارالعلوم کے قیام میں سرگرمی سے شریک ہوئے اور اس کے ابتدائی سرپرستوں میں شامل رہے۔ دارالعلوم کے افتتاح کے بعد ۱۹ محرم الحرام ۱۲۸۳ھ کو مدرسہ کے لیے تعاون کی عوام کے نام جو سب سے پہلی اپیل کی گئی اور اشتہار چھپا، اس میں حضرت حاجی عابد حسینؒ اور حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کے بعد تیسرا نام مولانا مہتاب علیؒ کا ہی ہے۔ دارالعلوم کے سالانہ امتحانات میں طلبہ کا امتحان عموماً آپ ہی لیتے تھے۔

حضرت مولانا مہتاب علیؒ کی تاریخ وفات تاریخ دارالعلوم دیوبند کے مصنف جناب محبوب رضوی صاحب کے مطابق ۱۲۹۳ھ مطابق ۱۸۷۶ء ہے (تاریخ دیوبند، طبع دوم، ص ۳۳۱ تا ۳۳۲) جب کہ حضرت مولانا قاری محمد

طیب صاحب نے مدرسہ کی رکنیت کی مدت از قیام تا ۱۳۰۴ھ لکھی ہے جو شاید آپ کا سن وفات ہو۔ (دارالعلوم دیوبند کی صد سالہ زندگی، ص ۱۰۲)

حضرت مولانا ذوالفقار علی دیوبندیؒ

حضرت مولانا ذوالفقار علی صاحب دارالعلوم دیوبند کے بانیوں میں سے تھے اور دارالعلوم کی پہلی مجلس شوری کے رکن رکین۔ آپ ایک نہایت پختہ صلاحیت کے عالم دین، عربی کے ادیب اور مصنف تھے۔ آپ کی فضیلت کے لیے یہ بات بھی کافی ہے کہ آپ دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم اور حضرت شیخ الہند کے والد ماجد تھے۔ آپ کی ولادت دیوبند میں ۱۲۳۷ھ/۱۸۲۲ء میں ہوئی۔ آپ کے والد شیخ فتح علی تھے جو دیوبند کے مشہور عثمانی شیوخ میں تھے۔ مولانا مہتاب علی دیوبندی آپ کے بڑے بھائی تھے۔ دونوں برادران علم و فضل کے اعتبار سے اس زمانہ میں دیوبند کے ممتاز ترین علماء میں شمار ہوتے تھے۔ دونوں حضرات دارالعلوم کی بنیاد اور اس کے کاموں میں حضرت حاجی سید عابد حسین دیوبندی کے ہموا اور مشیر کار تھے اور حتی المقدور مدرسہ کو ترقی دینے میں دونوں حضرات شریک رہتے تھے۔

مولانا ذوالفقار صاحب نے دہلی کالج میں حضرت مولانا مملوک العلی نانوتوی (وفات ۱۲۶۷ھ مطابق ۱۸۵۱ء) اور مفتی صدر الدین دہلوی سے پڑھا۔ آپ مولانا مملوک العلی کے ممتاز تلامذہ میں سے ہیں۔ آپ نے اپنی علمی صلاحیتوں کی وجہ سے بہت جلد ترقی کر لی تھی۔ فراغت کے بعد بریلی کالج میں پروفیسر مقرر ہوئے، چند سال کے بعد ڈپٹی انسپکٹر اور پھر انسپکٹر ابتدائی مدارس بنا دیے گئے۔ مولانا ذوالفقار علی پنشن پانے کے بعد دیوبند میں آنریری مجسٹریٹ بھی رہے۔

حضرت مولانا ذوالفقار علی فنون ادبیہ کے مشہور علماء میں سے ہیں۔ آپ کو عربی زبان و ادب پر بڑی دسترس تھی۔ آپ عربی، فارسی اور اردو کے بے مثل ادیب اور شاعر تھے۔ تینوں زبانوں میں آپ کو یکساں مہارت تھی۔ سلطان عبد الحمید خلیفہ ترکی کی شان میں آپ کا عربی قصیدہ اور دارالعلوم دیوبند کے تعارف میں مفتی عربی رسالہ آپ کی قادر الکلامی کی شہادت دیتا ہے۔

عربی زبان و ادب، معانی و بلاغت اور علم الحساب وغیرہ میں متعدد کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کتابوں سے آپ کے علمی مقام و مرتبہ اور ادبیت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ نے مشہور درسی کتب دیوان حماسہ، دیوان متنبی، قصیدہ السبع المعلقات اور قصیدہ بانٹ سعاد کی اردو میں شرحیں لکھیں جن کے نام حسب ذیل ہیں: (۱) تسہیل الدرستہ شرح دیوان حماسہ (۲) تسہیل البیان شرح دیوان متنبی (۳) التعلیقات علی السبع المعلقات (۴) ارشاد شرح قصیدہ بانٹ سعاد۔ مولانا نے ان شروح میں عربی کے غریب اور مشکل الفاظ اور محاورات کا ایسا سلیس و با محاورہ ترجمہ اور ایسی دل نشیں تشریح کی ہے، جس کی بدولت عربی ادبیات کی یہ مشکل ترین کتابیں طلبہ کے لیے نہایت سہل اور آسان ہو گئی

ہیں۔ (۵) عطر الوردہ: یہ کتاب مشہور عربی نعتیہ قصیدہ بردہ کی اردو شرح ہے۔ زبان سلیس و محاورہ اور مفتی ہے۔
 (۶) معیار البلاغۃ (یا تذکرۃ البلاغۃ): یہ اردو زبان میں علم معانی و بیان کی لاجواب کتاب ہے۔ اس کو اگر اردو کی مختصر المعانی کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ اس میں آپ نے اردو شعراء کے اشعار کی مثالیں اس طرح چسپاں کر دی ہیں کہ حیرت ہوتی ہے۔ (۷) الہدیۃ السنیۃ فی ذکر المدرستہ الاسلامیۃ الدیوبندیۃ: ۱۳۰۷ھ میں عربی زبان میں ایک مختصر رسالہ لکھا جس میں مدرسہ دیوبند، بزرگان دارالعلوم کے اوصاف و کمالات اور سرزمین دیوبند کی خصوصیات بڑے لطیف اور ادیبانہ انداز میں جمع کر دی گئی ہیں۔ کتاب کی عبارت مفتی ہے۔ (۸) تسہیل الحساب (ریاضی) مولانا حکیم عبدالحی الحسنیٰ زہدہ الخواطر میں تحریر فرماتے ہیں:

”فنون ادبیہ کے مشہور علماء میں سے تھے۔ درسی کتب مولانا مملوک العلیٰ نانوتوی اور مفتی صدر الدین دہلوی سے پڑھیں۔ ان کی خدمت میں کافی عرصہ تک رہے، یہاں تک کہ معانی، بیان، نحو اور ذوق شعری میں اپنے ساتھیوں سے سبقت لے گئے۔ میں ان سے دیوبند میں ملا اور انھیں فنون ادبیہ کا عالم و ماہر پایا۔“ (طبقتہ رابعہ عشرہ، حرف ذ)

مولانا ذوالفقار علیٰ کے متعلق فرانس کا مشہور مصنف گارسان دتاسی لکھتا ہے:

”وہ دہلی کالج کے طالب علم تھے، چند سال کے لیے بریلی کالج میں پروفیسر ہو گئے، ۱۸۵۷ء میں میرٹھ میں ڈپٹی انسپکٹر تھے، مسٹر ٹیلر ان سے واقف تھے، ان کا بیان ہے کہ ذوالفقار علیٰ ذہین اور طباع ہونے کے علاوہ فارسی اور مغربی علوم سے بھی واقف تھے۔ انھوں نے اردو میں تسہیل الحساب کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، جو بریلی میں ۱۸۵۲ء میں چھپی ہے۔“ (تاریخ دارالعلوم دیوبند، جلد اول، ص ۱۲۲)

مولانا ذوالفقار علیٰ کا انتقال دیوبند میں ۱۳۲۲ھ (مطابق ۱۹۰۴ء) میں بہ عمر ۸۵ سال ہوا۔ قاسمی قبرستان میں حضرت نانوتوی کے پہلو میں جانب مشرق ان کی قبر ہے۔

نوٹ: واضح رہے کہ آپ کے ایک ہم نام سید ذوالفقار علیٰ دیوبندی بھی دارالعلوم دیوبند کے لیے عطیہ دینے والوں کی پہلی فہرست میں شامل ہیں۔ ان کی شخصیت بھی علم و فضل سے آراستہ تھی۔۔ پنجاب میں اکثر اسٹنٹ کمشنر تھے۔ دیوبند میں ان کی حویلی مشہور تھی۔ ان کے لڑکے مولوی ممتاز علی نامور عالم تھے جنھوں نے لاہور میں اپنا ایک مطبع کھولا تھا۔ کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ایک رسالہ لاہور سے ’تہذیب نسواں‘ کے نام سے نکالتے تھے۔ اردو کے مشہور ادیب اور انارکلی ڈرامہ کے مصنف امتیاز علی تاج سید ذوالفقار علیٰ دیوبندی کے پوتے تھے۔

مآخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، اول، ص ۱۲۳ تا ۱۲۴؛ مشاہیر علمائے دیوبند، ص ۱۸۰ تا ۱۸۱

حضرت مولانا فضل الرحمن عثمانی

حضرت مولانا فضل الرحمن عثمانی دارالعلوم کے بانیوں اور اولین معاونین میں تھے۔ آپ نے اپنے فرزندوں

میں حضرت مفتی عزیز الرحمن صفتی اعظم دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانی مہتمم دارالعلوم دیوبند اور حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صدر مہتمم دارالعلوم دیوبند جیسے مشاہیر اور یگانہ روزگار علماء چھوڑے۔ ندوۃ المصنفین دہلی کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمن عثمانی انہی کے پوتے ہیں۔ حضرت مولانا فضل الرحمن عثمانی کے اخلاف نے عظیم علمی اور دینی خدمات انجام دی ہیں۔

حضرت مولانا فضل الرحمن عثمانی ۱۲۴۷ھ/۱۸۳۲ء میں پیدا ہوئے۔ دہلی کالج میں حضرت مولانا مملوک اعلیٰ سے تعلیم پائی تھی۔ محکمہ تعلیم میں ڈپٹی انسپکٹر مدارس کے عہدے پر فائز تھے۔ بریلی، بجنور اور سہارنپور وغیرہ اضلاع میں تعینات رہے۔ ۱۸۵۷ء میں بریلی میں ڈپٹی انسپکٹر مدارس تھے۔

دارالعلوم کے اراکین تاسیسی میں تھے۔ مجلس شوریٰ کے تاحیات رکن رہے۔ ۱۳۲۴ھ کی روداد مدرسہ میں آپ کے سلسلے میں لکھا ہے: ”جناب مولانا مولوی فضل الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان مقدس ارکان مدرسہ میں سے تھے کہ جو چند باخیر حضرات بنیاد مدرسہ میں شریک تھے اور جن کے متبرک ہاتھوں سے مدرسہ کی ابتدا ہوئی تھی۔ مولانا کی تمام عمر مدرسہ کی ہر طرح کی خدمت گزاری اور خبر گیری، جاں نثاری و خیر خواہی میں صرف ہوئی اور ہر حالت میں جدوجہد، سعی و جانفشانی کے ساتھ مدرسہ کے تمام معاملات اور تدابیر میں بدل و جان سرگرم رہے۔ امور متعلقہ مدرسہ میں ہمیشہ احتیاط و دیانت داری، راست بازی و انجام نبی سے کام لیا۔“

آپ فارسی و اردو کے بلند پایہ شاعر تھے۔ عربی ادب میں بھی ملکہِ راسخہ حاصل تھا۔ متعدد نظمیں، قصیدے اور مرثیے وغیرہ ان کے ذوق شعری کے آئینہ دار ہیں۔ دیوبند میں ۱۳۰۱ھ/۱۸۸۳ء میں ایک زبردست پلیگ (طاعون) پھیلا تھا، اس پلیگ کی تباہ کاریوں کو انھوں نے فارسی زبان میں نظم کیا ہے۔ دیوبند کے حالات میں یہ ایک تاریخی دستاویز ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحمن کو مادہ تاریخ کے نکالنے میں بھی بڑا کمال حاصل تھا، دارالعلوم کی رودادوں میں بھی ان کی بہت سی نظمیں اور تاریخی قطععات درج ہیں۔

حضرت مولانا فضل الرحمن نے ۳ جمادی الاولیٰ ۱۳۲۵ھ مطابق ۱۵ جون ۱۹۰۷ء بروز شنبہ رحلت پائی۔

مآخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، اول، ص ۱۲۵؛ روداد سالانہ مدرسہ عربیہ دیوبند، بابت ۱۳۲۲ھ، ص ۶

حضرت شیخ نہال احمد دیوبندیؒ

حضرت شیخ نہال احمد دیوبندیؒ بھی دارالعلوم کے تاسیسی اراکین میں تھے۔ حضرت حاجی عابدؒ نے دارالعلوم دیوبند کے لیے جو پہلا چندہ کیا تھا، اس میں تعاون کرنے والوں میں آپ کا نام بھی ہے۔ قیام دارالعلوم کے بعد جو پہلی اپیل شائع کی گئی ان میں بھی آپ کا نام شامل تھا۔

شیخ نہال احمد صاحب، شیخ کرامت حسین رئیس دیوبند کے صاحب زادے تھے۔ آپ کی تعلیم حضرت مولانا مہتاب علیؒ کی درس گاہ میں ہوئی جو آپ کے دیوان خانے میں قائم تھا۔ اسی درس گاہ میں حضرت نانوتویؒ نے

بھی ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی۔ شیخ کرامت حسین کی صاحبزادی سے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کا نکاح ہوا، اس طرح یہ حضرت نانوتویؒ کے برادر نسبتی بھی ہوئے۔ حضرت نانوتویؒ کے نام جب وارنٹ تھا تو انھوں نے خطرات کی پرواہ کیے بغیر آپ کی حفاظت اور بچاؤ کی ہر ممکن کوشش کی۔ (مولانا محمد قاسم نانوتویؒ: حیات اور کارنامے، مولانا سیرادروی، شیخ الہند اکیڈمی دارالعلوم دیوبند، ص ۴۷)

شیخ نہال احمد صاحب دیوبند کے متمول اور رئیس شمار کیے جاتے تھے اور اپنے دور کی مشہور شخصیات میں تھے۔ جتنے بڑے رئیس تھے اتنے ہی مخیر و فیاض بھی تھے۔ ان کی فیاضی اور مہمان نوازی کے کئی قصے مشہور ہیں۔ صاحب اعلیٰ السنن مشہور عالم دین حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی جو تھانوی کی نسبت سے مشہور ہوئے آپ کے پوتے ہیں۔ تاریخ وفات محفوظ نہیں، ریکارڈ کے مطابق دارالعلوم کے قیام سے لے کر ۱۳۰۴ھ (مطابق ۱۸۸۷ء) تک مجلس شوریٰ کے رکن رہے۔ شاید یہی آپ کا سن وفات بھی ہو۔

دوراں کے مشاہیر اساتذہ و مشائخ

حضرت مولانا ملا محمد محمود دیوبندیؒ

حضرت مولانا ملا محمد محمود دیوبندی دارالعلوم کے پہلے مدرس تھے۔ آپ کا انتخاب حضرت نانوتویؒ کے ذریعہ عمل میں آیا تھا۔ قیام دارالعلوم سے آخر عمر تک دارالعلوم ہی سے وابستہ رہے۔ علوم فقہ و حدیث کے ماہر تھے۔ انھوں نے حدیث حضرت شاہ عبدالغنی مجددی دہلویؒ سے پڑھی تھی۔ سنن ابن ماجہ پر شاہ صاحب جو حاشیہ 'انجیح الحاجۃ' کے نام سے لکھتے تھے، اس میں آپ ان کے معاون رہے تھے۔

حضرت مولانا شرف علی تھانویؒ کے مندرجہ ذیل اشعار سے ان کے علم و فضل کا اندازہ ہوتا ہے:

مولوی محمود صاحب خوش سیر	سوئی آں متقی نام و
شہرتے کامل بدارد در فحول	در حدیث و فقہ و تفسیر و اصول
منج خلق و تواضع ، کان علم	زیلعی و لوزعی ، دریائے علم
ہست تقریرش چو بارندہ سحاب	برز بانس ہست مضمون کتاب

وفات: ۱۳۰۴ھ/۱۸۸۶ء میں دیوبند میں انتقال فرمایا اور قبرستان قاسمی کے شمال مغرب میں کہنی مسجد کے

احاطہ میں مدفون ہوئے۔

مآخذ: تاریخ دیوبند، ص ۷۷؛ دارالعلوم دیوبند کی صد سالہ زندگی ص ۱۰۸؛ کاروانِ رفتہ، مولانا

اسیر اوروی، ص ۲۲۹؛ ماہنامہ القاسم، دارالعلوم نمبر، محرم ۱۳۲۷ھ، ص ۲۰

حضرت مولانا میر باز خان تھانویؒ

دارالعلوم کے اولین فضلاء میں تھے۔ ۱۲۵۸ھ/۱۸۴۲ء میں بھوجپور ضلع مظفرنگر میں پیدا ہوئے۔ قیام دارالعلوم کے سال ہی دارالعلوم میں داخل ہوئے اور ۱۲۸۴ھ میں فارغ ہوئے۔ زمانہ طالب علمی ہی میں پڑھانے کی خدمات انجام دیتے تھے۔ فراغت کے بعد دارالعلوم ہی میں ۱۲۸۷ھ/تک تدریسی خدمات انجام دیں۔ تعلیم و تدریس کا اچھا ملکہ تھا۔

پھر مظاہر علوم میں مدرس مقرر کیے گئے۔ حضرت مولانا محمد مظہر صدر مدرس مدرسہ مظاہر علوم کی علالت کے زمانے میں انھوں نے دوسرے قائم مقام صدر مدرس کے فرائض انجام دیے۔ شیخ عبدالرحیم سہارن پوریؒ سے بیعت کا تعلق تھا۔ مولانا میر باز خان صاحب کا خودنوشت مجموعہ مکاشفات استدراک الامیر من اسرار اللطیف الجبیر بلالی اسٹیم

پریس سادھوڑہ میں طبع ہوا۔

۱۳۲۵ھ/۱۹۰۷ء میں انتقال ہوا۔

مآخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم، ص ۲۳؛ دارالعلوم دیوبند کی صد سالہ زندگی، ص ۱۰۸

حضرت مولانا فتح محمد تھانویؒ

مولانا فتح محمد تھانوی بھی قیام دارالعلوم کے پہلے سال ہی دارالعلوم میں داخل ہوئے اور دارالعلوم میں پڑھنے کے ساتھ پڑھانے کی خدمت بھی انجام دیتے تھے۔

دارالعلوم سے فراغت کے بعد اپنے وطن تھانہ بھون کی حوض والی مسجد میں حافظ عبدالرزاق صاحب کے قائم کردہ مدرسہ میں مدرس مقرر ہوئے۔ بعد میں مدرسہ جامع العلوم کانپور میں بھی تدریسی خدمات انجام دیں۔ مولانا فتح محمد تھانوی، تھانہ بھون کی چند ممتاز ہستیوں میں سے ایک تھے جن کی نسبت اس قصبہ کو شہرت حاصل ہوئی۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی خدمت میں سلوک کی تکمیل کی۔ نہایت متواضع، حلیم، زاہد و عابد اور بہترین مجتہد تھے۔ علوم ظاہری و باطنی دونوں سے بہرہ ور اور صاحب کشف و کرامات بزرگ تھے۔ انھوں نے حضرت مولانا شیخ محمد تھانوی کی مرتب کردہ شرح حزب البحر کا اردو ترجمہ کیا تھا۔

نزہۃ النواطر کے مطابق ستر (۷۰) سال کی عمر میں ۱۳۲۲ھ/۱۹۰۳ء میں تھانہ بھون میں انتقال ہوا۔

مآخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، جلد دوم، ص ۲۵ تا ۲۷؛ نزہۃ النواطر، مولانا حکیم سید عبدالحی، دار

ابن حزم بیروت، ج ۸، ص ۱۳۲۲

حضرت مولانا صدیق احمد انیسٹھویؒ

حضرت گنگوہیؒ کے مجازین بیعت میں تھے۔ حضرت مولانا خلیل احمد انیسٹھویؒ کے چچیرے بھائی تھے۔ صاحب بیعت و ارشاد اور صاحب کشف بزرگوں میں سے تھے۔ معاصرین میں صاحب اسرار و معارف سمجھے جاتے تھے۔ علوم عقلیہ و نقلیہ میں مہارت تامہ حاصل تھی، بالخصوص صرف و نحو میں ید طولی رکھتے تھے۔ مسیح الملک حکیم اجمل خان مرحوم بھی آپ کے شاگردوں میں سے تھے۔

۱۲۸۳ھ میں دارالعلوم میں داخل ہوئے اور ۱۲۹۲ھ میں یہاں سے فراغت حاصل کی۔ کچھ مدت تک دارالعلوم میں معین المدرسین رہے۔ ان کا طرز تعلیم بہت سہل اور آسان تھا؛ چنانچہ ایک ہفتہ میں نحو میر اپنے شاگردوں کو حفظ یاد کرا دیا کرتے تھے۔

مدرسہ منبع العلوم گلاؤنٹی بلند شہر اور مدرسہ عالیہ فتح پوری دہلی میں مدرس رہے۔ آخر میں مالیر کوٹلہ میں ریاست کی جانب سے افتاء کا عہدہ تفویض ہوا۔ مالیر کوٹلہ میں زندگی بھر افتاء کے منصب پر فائز رہے۔ ان کا شمار مشاہیر اہل افتاء میں ہوتا تھا۔

۲۸/صفر ۱۳۴۲ھ/ ۷ اکتبر ۱۹۲۵ء کو شب جمعہ میں مالیر کوٹلہ میں انتقال ہوا اور وہیں مدفون ہوئے۔
 ماخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم، ص ۳۸؛ دارالعلوم دیوبند کی پچاس مثالی شخصیات، ص ۷۶

حضرت مولانا عبدالعلی میرٹھیؒ

حضرت نانوتویؒ کے ارشد تلامذہ میں سے تھے۔ آپ کے تلامذہ میں حضرت تھانویؒ اور حضرت مفتی کفایت اللہ دہلویؒ جیسے اکابر شامل ہیں۔

حضرت مولانا عبدالعلی میرٹھی بن شیخ نصیب علی کا آبائی وطن میرٹھ سے کوئی چھ میل دور واقع شیخ پور تھا۔ آپ کے والد کا حضرت نانوتویؒ سے گہرا تعلق تھا۔

۱۲۹۳ھ/ ۱۸۷۷ء میں دارالعلوم میں چہارم مقرر ہوئے اور جمادی الاولیٰ ۱۲۹۸ھ/ ۱۸۸۱ء تک تدریسی خدمات انجام دیں، نسائی، ابن ماجہ، سبعمعلقہ، مقامات حریری وغیرہ کتابیں زیر درس رہیں۔ اس دوران حضرت تھانویؒ نے بھی آپ سے کچھ کتابیں پڑھیں۔ دارالعلوم میں دوبارہ ۱۳۱۴ھ میں مدرس دوم ہو کر تشریف لائے اور ۱۳۱۷ھ تک تدریسی خدمات انجام دیں۔

رجب ۱۲۹۸ھ میں مظاہر علوم میں مدرس دوم مقرر ہوئے، وہاں حضرت مولانا مظہر علی نانوتویؒ کی وفات کے بعد ۱۳۰۲ھ میں قائم مقام صدر مدرس مقرر ہوئے اور ۱۳۰۶ھ تک اس عہدہ پر قائم رہتے ہوئے بخاری، ہدایہ وغیرہ پڑھائی۔ ۱۳۰۶ھ/ ۱۸۸۸ء میں آپ مدرسہ شاہی مراد آباد کے صدر مدرس مقرر ہوئے اور ۱۳۱۴ھ تک وہاں قیام رہا۔ اس دوران مفتی کفایت اللہ دہلویؒ نے آپ کے سامنے زانوئے تلمذتہہ کیا۔ درمیان میں ایک سال مدرسہ حسین بخش دہلی منتقل ہو گئے تھے۔ ۱۳۱۷ھ میں دارالعلوم سے دوبارہ مدرسہ حسین بخش چلے اور بعد ازاں مدرسہ عبدالرب دہلی کے صدر مدرس اور شیخ الحدیث مقرر ہوئے اور تا عمر اسی مدرسہ میں حدیث کا درس دیتے رہے۔ متعدد مشاہیر آپ کے شاگردوں میں شامل ہیں۔

زہد و تقویٰ اور پرہیزگاری میں اپنی مثال آپ تھے۔ نہایت سادہ، متواضع، ملنسار، مہمان نواز اور خوشحال بزرگ تھے۔ آخری سانس تک جماعت کی نماز اور صرف اولیٰ ترک نہیں ہوئی۔ آخری عمر میں فالج کی وجہ سے نقل و حرکت سے معذور ہو گئے تھے، لیکن اسی حالت میں خدام آپ کو اٹھا کر صرف اول میں رکھ دیتے تھے اور آپ بیٹھ کر باجماعت نماز ادا کرتے تھے۔

آپ کا انتقال دہلی میں ۱۳۴۷ھ/ ۲۹ اکتوبر ۱۹۲۸ء کو ہوا اور مہندیان میں خانوادہ ولی اللہی کے پہلو میں سپرد خاک کیے گئے۔

ماخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، جلد دوم، ص ۳۲، ۳۳؛ تاریخ شاہی نمبر، ندائے شاہی نومبر و دسمبر

۱۹۹۲ء، ص ۳۰۴-۳۱۶؛ مشاہیر علمائے دیوبند، ص ۳۰۶

حضرت مولانا خلیل احمد سہارن پوریؒ

حضرت مولانا خلیل احمد انپٹھوئی ہندوستان کے مایہ ناز محدث، فقیہ اور شیخ وقت تھے۔ بذل الحجو دعربی شرح سنن ابوداؤد آپ کا علمی شاہ کار ہے۔ دارالعلوم کے اولین فضلاء میں تھے۔

آپ کا وطن انپٹھہ ضلع سہارن پور تھا، ۱۲۶۹ھ/۱۸۵۲ء میں پیدا ہوئے۔ سلسلہ نسب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ پر منتہی ہوتا ہے۔ استاذ الاساتذہ حضرت مولانا مملوک العلی نانوتویؒ کے نواسے اور حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتویؒ کے بھانجے تھے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد انگریزی تعلیم کے لیے سرکاری اسکول میں داخل کیے گئے۔ اسی زمانہ میں دارالعلوم قائم ہوا تھا، یہاں ان کے ماموں صدر مدرس تھے؛ چنانچہ ۱۲۸۵ھ/۱۸۶۸ء میں دارالعلوم میں داخل کیے گئے۔ شرح تہذیب وغیرہ کی تعلیم کے بعد مظاہر علوم سہارن پور میں داخل ہوئے اور ۱۲۸۸ھ/۱۸۷۱ء میں دارالعلوم سے فراغت حاصل کی۔

فراغت کے بعد مظاہر علوم میں مدرس ہو گئے۔ ریاست بھوپال کے مدارالمہام کے اصرار پر ۱۲۹۳ھ/۱۸۷۶ء بلائے گئے، مگر وہاں دل نہیں لگا اور چند ماہ کے بعد حج کے لیے چلے گئے۔ واپسی کے بعد حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتویؒ نے انھیں بہاول پور بھیج دیا۔ ۱۲۹۷ھ/۱۸۸۰ء میں دوسرا حج کیا اور اسی سفر میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکیؒ نے انھیں خلافت عطا فرمائی۔ حج سے واپسی کے بعد حضرت گنگوہیؒ نے ان کو مدرسہ مصباح العلوم بریلی کا صدر مدرس مقرر کیا۔

۱۳۰۸ھ/۱۸۹۰ء میں دارالعلوم میں مدرس مقرر ہوئے اور ۱۳۱۲ھ/۱۸۹۶ء تک تدریسی خدمات انجام دیں۔ ۱۳۱۳ھ/۱۸۹۶ء میں یہاں سے بہ حیثیت صدر مدرس مدرسہ مظاہر علوم سہارن پور تشریف لے گئے اور ۱۳۲۵ھ/۱۹۰۷ء میں مظاہر علوم کے ناظم منتخب کیے گئے۔ ۱۳۳۶ھ/۱۹۱۸ء میں مظاہر علوم سہارن پور کے سرپرست بنائے گئے۔ ۱۳۴۴ھ/۱۹۲۵ء میں ہجرت کی نیت سے مدینہ منورہ میں مقیم ہو گئے۔

بیعت اور تکمیل سلوک قطب وقت حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ سے کی۔ حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی خلافت حاصل تھی۔ سلوک و احسان کی اس نسبت سے آپ کے ذریعہ ایک عالم مستفید ہوا۔ حضرت مولانا بیگی کاندھلویؒ، حضرت مولانا الیاس کاندھلویؒ (بانی تبلیغ)، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا کاندھلویؒ، حضرت مولانا عبداللہ گنگوہیؒ اور حضرت مولانا فخر الحسن گنگوہیؒ جیسے شیوخ وقت کو آپ سے خلافت و اجازت حاصل تھی۔

اسی طرح مظاہر علوم اور دارالعلوم دیوبند سے فارغ التحصیل ہونے والے فضلاء جو بعد میں یگانہ روزگار علماء و فضلاء ہوئے ان کو آپ کی شاگردی کا شرف حاصل رہا، جن میں حضرت مولانا حسین احمد مدنیؒ، مولانا ظفر احمد تھانویؒ، مولانا بدر عالم میرٹھیؒ، مولانا عبدالرحمن کامل پوریؒ، مفتی جمیل احمد تھانویؒ، مولانا اشفاق الرحمن کاندھلویؒ، مولانا عبدالحق مدنیؒ، مولانا اسعد اللہ رامپوریؒ، حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلویؒ وغیرہ کا نام شامل ہے۔

حضرت مولانا خلیل احمد سہارن پوریؒ کو تمام علوم متدوالہ میں مہارت تامہ حاصل تھی، لیکن حدیث سے بہت زیادہ شغف تھا۔ اسی شغف کے سبب آپ نے ابوداؤد کی عربی زبان میں شرح لکھی جو بذل الجہود کے نام سے بڑی تقطیع کی پانچ جلدوں میں طبع ہوئی۔ بعد میں بیروت سے بیس جلدوں میں شائع ہوئی۔ بذل الجہود آپ کا وہ عظیم الشان کارنامہ ہے جس سے علمی دنیا میں آپ کا نام روشن ہوا۔ آپ کے فتاویٰ کا مختصر مجموعہ بھی فتاویٰ خلیلیہ کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ تشیع اور بدعت کے رد میں مختلف کتابیں تحریر فرمائیں جو حسب ذیل ہیں:

(۱) ہدایات الرشید الی انعام العنید (۲) مطرقة الکرامۃ علی مرآة الامامة (۳) تنسیط الاذان فی تحقیق محل الاذان (۴) المہند علی المہند معروف بنام التصدیقات لدفع التلبیسات (عقائد علمائے دیوبند) (۵) براہین قاطعہ علی ظلام الانوار الساطعة

تفصیلی حالات حضرت مولانا عاشق الہی میرٹھی کی کتاب ”تذکرۃ الخلیل“ میں مذکور ہیں۔

۱۵ ربیع الثانی ۱۳۳۶ھ / ۱۲ اکتوبر ۱۹۲۷ء کو مدینہ منورہ میں انتقال ہوا اور جنت البقیع میں حضرت عثمان بن

عفان رضی اللہ عنہ کے جوار میں مدفون ہوئے۔

ماخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، جلد دوم، ص ۳۱ تا ۳۳؛ مشاہیر علمائے دیوبند، ص ۱۶ تا ۱۷

حضرت مولانا عبد القدیر دیوبندیؒ

حضرت مولانا عبد القدیر دیوبندیؒ، دیوبند کے مشہور بزرگ شاہ رمزا الدین (وفات ۱۱۲۲ھ / ۱۷۱۰ء) کی اولاد میں سے تھے۔ ۱۲۸۷ھ / ۱۸۷۰ء میں دارالعلوم میں داخل ہوئے اور ۱۲۹۳ھ / ۱۸۷۶ء میں فراغت پائی۔ سہارن پور میں حضرت مولانا احمد علی سہارن پوریؒ سے بھی حدیث پڑھی۔

مولانا عبد القدیر صاحب کی پوری زندگی دین اور علوم دین کی خدمات میں گزری۔ ۱۳۰۷ھ / ۱۸۸۹ء سے ۱۳۰۹ھ / ۱۸۹۱ء تک دارالعلوم دیوبند کے نائب مہتمم بھی رہے۔ آپ دارالعلوم کے پہلے نائب مہتمم تھے۔

آخر میں لکھنؤ کے مشہور مطبع نول کشور سے متعلق ہو گئے تھے جہاں کتابوں کو ایڈٹ کرنے کے ساتھ عربی و فارسی کی اہم کتابوں کے ترجمہ کا کام بھی کرتے تھے۔ چنانچہ علم الحیوانات میں علامہ کمال الدین دمیری کی مشہور کتاب ”حیاء الحیوان“ کا دو جلدوں میں ترجمہ اسی زمانہ میں کیا جو مطبع نول کشور لکھنؤ سے چھپا۔

۱۳۳۷ھ / ۱۹۲۸ء میں لکھنؤ میں ہی انتقال ہوا اور وہیں سپرد خاک کیے گئے۔

ماخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، جلد دوم، ص ۳۹؛ دارالعلوم دیوبند کی صد سالہ زندگی، ص ۱۰۱

دورثانی کے علماء و اکابر دارالعلوم

۱۳۱۳ھ تا ۱۳۲۸ھ مطابق ۱۸۹۵ء-۱۹۳۰ء

دورثانی کے کلیدی عہدہ داران

شمار	اسمائے گرامی	عہدہ	کب سے کب تک	صفحہ
۱	حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب	مہتمم دارالعلوم	۱۳۱۳-۱۳۲۷ھ	۵۲۸
۲	حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانی	مہتمم دارالعلوم	۱۳۲۷-۱۳۲۸ھ	۵۳۲
۳	حضرت مولانا اشرف علی تھانوی	سرپرست دارالعلوم	۱۳۲۲-۱۳۵۲ھ	۵۳۵
۴	حضرت مولانا علامہ انور شاہ کشمیری	صدر المدرسین و شیخ الحدیث	۱۳۳۳-۱۳۳۶ھ	۵۴۰
۵	حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی	صدر المدرسین و شیخ الحدیث	۱۳۲۶-۱۳۷۷ھ	۵۴۵
۶	حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی	صدر مہتمم	۱۳۵۲-۱۳۶۲ھ	۵۵۰
۷	حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن دیوبندی	صدر مفتی	۱۳۱۰-۱۳۲۶ھ	۵۵۲
۸	حضرت مولانا اعزاز علی امرہوی	صدر مفتی	۱۳۲۷-۱۳۶۶ھ	۵۵۸
۹	حضرت مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندی	صدر مفتی	۱۳۵۰-۱۳۵۲ھ ۱۳۵۹-۱۳۶۱ھ	۵۶۱

دورثانی کے مشاہیر اراکین مجلس شوریٰ

شمار	اسمائے گرامی	کب سے کب تک	صفحہ
۱	حضرت مولانا احمد حسن امرہوی	۱۳۱۳-۱۳۲۹ھ	۵۶۳
۲	حضرت مولانا محمد عبدالحق پور قاضوی	۱۳۱۳-۱۳۳۱ھ	۵۶۵
۳	حضرت مولانا قاضی محمد فی الدین مراد آبادی	۱۳۱۳-۱۳۲۷ھ	۵۶۶

۵۶۶	۱۳۵۴-۱۳۴۴ھ	حضرت مولانا حکیم جمیل الدین گینوی	۴
۵۶۷	۱۳۷۳-۱۳۴۴ھ	حضرت مولانا حکیم محمد اسحاق کھوری	۵

دورثانی کے مشاہیر اساتذہ

صفحہ	کب سے کب تک	اسمائے گرامی	شمار
۵۶۸	۱۳۴۵-۱۳۰۲ھ	حضرت مولانا حکیم محمد حسن دیوبندی	۱
۵۶۸	۱۳۳۷-۱۳۰۷ھ	حضرت مولانا غلام رسول ہزاروی	۲
۵۶۹	۱۳۲۲-۱۳۱۹ھ دوبارہ ۱۳۳۱-۱۳۲۷ھ سہ بارہ ۱۳۳۹-۱۳۵۰ھ	حضرت مولانا سید مرتضیٰ حسن چاند پوری	۳
۵۷۰	۱۳۲۸-۱۳۲۴ھ	حضرت مولانا مفتی محمد سہول بھاگلپوری	۴
۵۷۱	۱۳۵۱-۱۳۲۷ھ	حضرت مولانا نبیہ حسن دیوبندی	۵
۵۷۲	۱۳۶۶-۱۳۲۹ھ	حضرت مولانا عبد السمیع دیوبندی	۶
۵۷۲	۱۳۶۴-۱۳۳۰ھ	حضرت مولانا سید اصغر حسین دیوبندی	۷
۵۷۴	۱۳۵۳-۱۳۳۳ھ	حضرت مولانا رسول خان ہزاروی	۸
۵۷۴	۱۳۴۶-۱۳۳۸ھ دوبارہ ۱۳۶۸-۱۳۵۸ھ	حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی	۹
۵۷۶	۱۳۴۴-۱۳۴۱ھ	حضرت مولانا سید میرک شاہ کشمیری	۱۰
۵۷۷	۱۳۴۶-۱۳۴۴ھ	حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی	۱۱

دورثانی کے کلیدی عہدہ داران

حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحبؒ

۱۲۷۹-۱۳۳۷ھ/۱۸۶۲-۱۹۲۸ء

حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحبؒ، حضرت نانوتویؒ کے فرزند رشید اور حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحبؒ کے والد ماجد تھے۔ آپ دارالعلوم دیوبند کے پانچویں مہتمم تھے اور ۳۴ سال تک اس عظیم منصب پر فائز رہے۔ حضرت حافظ محمد احمدؒ کا زمانہ اہتمام دارالعلوم کی ظاہری و باطنی ترقی اور استحکام کا دور ثابت ہوا اور اسی زمانہ میں یہ ادارہ مدرسہ سے دارالعلوم بنا۔ یہ دارالعلوم کا زریں دور تھا جس میں حضرت گنگوہیؒ دارالعلوم کے سرپرست اور حضرت شیخ الہندؒ دارالعلوم کے شیخ الحدیث اور صدر المدرسین تھے۔

ابتدائی حالات

حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب ۱۲۷۹ھ/۱۸۶۲ء میں نانوتہ میں پیدا ہوئے۔ قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گلاؤٹھی (ضلع بلند شہر یوپی) میں حضرت نانوتویؒ کے قائم کردہ مدرسہ تشریف لے گئے۔ حضرت نانوتویؒ کے بڑے داماد حضرت مولانا عبداللہ انپٹھوی اس مدرسہ میں مدرس تھے۔ بعد ازاں مزید تعلیم کے لیے مراد آباد کے مدرسہ شاہی گئے جہاں حضرت نانوتویؒ کے شاگرد رشید و خلیفہ خاص حضرت مولانا احمد حسن امر وہیؒ صدر مدرس تھے۔ وہاں مختلف علوم و فنون کی کتابیں پڑھنے کے بعد دیوبند تشریف لائے اور حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب اور حضرت شیخ الہندؒ کے سامنے زانوئے تلمذتہ کیا۔ آخر میں دورہ حدیث گنگوہ پہنچ کر حضرت گنگوہیؒ کے حلقہ درس میں پورا کیا اور وہیں سے سند حدیث حاصل کی۔

۱۲۹۷ھ میں حضرت نانوتویؒ کے انتقال کے بعد حضرت حافظ محمد احمد صاحب تھانہ بھون کے عربی مدرسہ میں جو حضرت نانوتویؒ کا ہی قائم فرمودہ تھا تشریف لے گئے اور کئی سال تک وہاں پڑھاتے رہے۔ ۱۳۰۳ھ/۱۸۸۵ء میں بحیثیت مدرس دارالعلوم میں تقرر ہوا۔ عموماً تمام علوم و فنون کی کتابیں پڑھانے کی نوبت آئی، خصوصیت سے مشکوٰۃ شریف، مختصر المعانی، جلالین شریف، میرزاہد وغیرہ کتابوں کا درس زیادہ مشہور تھا جس کی طرف طلبہ جوق در

جوق درس میں شرکت کرتے تھے۔

دارالعلوم کے مسند اہتمام پر

۱۳۱۰ھ مطابق ۱۸۹۲ء میں جب حضرت حاجی عابد حسینؒ اہتمام سے علیحدہ ہوئے تو یکے بعد دیگرے دو مہتمم (حاجی فضل حق دیوبندیؒ اور مولانا محمد منیر نانوتویؒ) مقرر ہوئے، مگر ایک ڈیڑھ سال سے زیادہ اہتمام نہ کر سکے۔ ہر سال کے تغیرات کی وجہ سے دارالعلوم کے نظام میں اختلال پیدا ہونے لگا تو ۱۳۱۳ھ مطابق ۱۸۹۵ء میں حضرت گنگوہیؒ نے اہتمام کے لیے حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحبؒ کا انتخاب فرمایا۔ حافظ صاحبؒ نہایت منتظم اور صاحب اثر تھے، چنانچہ وہ بہت جلد دارالعلوم کے انتظام پر قابو پایا۔ اور تقرر کے وقت ان سے جو توقعات قائم کی گئی تھیں بدرجہ اتم ان کے اہل ثابت ہوئے۔ حضرت حافظ محمد احمدؒ کے زمانہ اہتمام سے دارالعلوم کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے جسے دور ترقی و استحکام کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔

حافظ صاحبؒ کے زمانہ اہتمام میں دارالعلوم نے غیر معمولی ترقی کی، جب انہوں نے عنان اہتمام اپنے ہاتھ میں لی تھی تو دارالعلوم کی آمدنی کا اوسط ۵-۶ ہزار روپیہ سالانہ تھا، آپ کے عہد میں یہ اوسط ۹۰ ہزار تک ترقی کر گیا۔ اس وقت تک کتب خانے میں ۵ ہزار کتابیں تھی، آپ کے زمانے میں کتابوں کی تعداد ۴۰ ہزار تک پہنچ گئی۔ ۱۳۱۳ھ مطابق ۱۸۹۵ء تک عمارات دارالعلوم کی مالیت ۳۶ ہزار روپے تھی، آپ کے عہد میں یہ مالیت ۴ لاکھ تک پہنچ گئی تھی۔ دارالعلوم کی ترقی کے سلسلے میں حافظ صاحبؒ نے ملک کے مختلف شہروں کے سفر کر کے دارالعلوم کے لیے بہت سے دوامی چندے مقرر کرائے، خصوصاً سابق ریاست بھوپال، بہاول پور اور حیدرآباد کے سفر، دارالعلوم کی تاریخ میں ہمیشہ یادگار رہیں گے۔ حیدرآباد سے دارالعلوم کی آمد اور سو روپیہ ماہانہ مقرر تھی، حافظ صاحبؒ حیدرآباد تشریف لے گئے اور اپنے اثرات سے ڈھائی سو روپے مقرر کرائے، دوسرے سفر میں پانچ سو اور تیسرے میں ایک ہزار ماہانہ تک نوبت پہنچ گئی جو سقوط ریاست حیدرآباد تک جاری رہی۔

غرض کہ آپ کے دور اہتمام میں دارالعلوم نے معنوی اور صوری دونوں حیثیتوں سے نہایت عظیم الشان ترقی کی جو اس سے پہلے اس کو حاصل نہ ہو سکی تھی، آپ کے زمانہ اہتمام سے پہلے شعبہ جات اور دفاتر کا کوئی صاف ستھرا اور باقاعدہ نظام نہ تھا اور گودارالعلوم معنوی حیثیت سے ”دارالعلوم“ بن چکا تھا مگر اپنی عمارتوں اور ظاہری شکل و صورت کے لحاظ سے آپ ہی کے زمانہ اہتمام میں مدرسہ سے دارالعلوم بنا۔ شعبوں اور دفاتر کی تشکیل عمل میں آئی، حلقہ اثر میں بھی غیر معمولی اضافہ ہوا۔ غرض کہ ہر حیثیت سے دارالعلوم کا قدم روز افزوں ترقی کی جانب گامزن رہا، چنانچہ آپ کا دور اہتمام دارالعلوم کی تاریخ میں اس کی ترقیوں کا نہایت تابناک اور زریں دور سمجھا جاتا ہے۔ حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانیؒ آپ کے دانش مند مشیر اور نائب تھے جو ایک مانے ہوئے مدبر، عالم ربانی اور صاحب فراست بزرگ تھے۔

حضرت حافظ صاحب کے ہی کے دور اہتمام میں دارالحدیث حمیدی عظیم الشان عمارت کا سنگ بنیاد رکھا گیا اور حضرت مدوح کی طرف سے جب اس عمارت کی تجویز کا اعلان شائع ہوا تو چند گویا بارش کی طرح برسا شروع ہو گیا۔ پھر طلبہ کی اتنی کثرت ہوئی کہ تنگی مکان کی وجہ سے ایک عظیم الشان دارالاقامہ دارجدید کی بنیاد ڈالی گئی۔ لیکن ان دونوں عمارتوں کی تکمیل آپ کے دور میں نہ ہو سکی۔ آپ ہی کے دور اہتمام میں ۱۳۲۸ھ مطابق ۱۹۱۰ء میں وہ عظیم الشان جلسہ دستار بندی ہوا، جس میں ایک ہزار سے زائد فضلا کی دستار بندی ہوئی تھی اور ایک لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی تھی۔

برطانوی گورنمنٹ کی جانب سے آپ کو ”شمس العلماء“ کا خطاب دیا گیا تھا، مگر آپ نے دارالعلوم کے حریت پسندانہ مسلک کی بنا پر حکومت کا خطاب یافتہ ہونا پسند نہیں کیا، چنانچہ خطاب واپس کر دیا۔ یہ بھی آپ ہی کے زمانے کی خصوصیت ہے کہ دومرتبہ صوبہ متحدہ کے گورنر دارالعلوم میں آئے، دارالحدیث کی مجوزہ جگہ پر شہر کے پانی کا نالہ بہتا تھا، اس کے سبب سے دارالحدیث کی تعمیر میں رکاوٹ پڑی ہوئی تھی، نیز نالے کے قرب کے باعث دارالعلوم کی آب و ہوا بھی خراب رہتی تھی۔ اکابر دارالعلوم کی پیہم کوششوں کے باوجود مقامی حکام نالے کے ہٹائے جانے پر آمادہ نہ تھے۔ حضرت حافظ صاحب نے گورنر کو دعوت دے کر اس مشکل کا حل نکال لیا، چنانچہ صوبائی گورنمنٹ کے حکم سے سرکاری مصارف پر نالہ ہٹا دیا گیا۔ حافظ صاحب کی سب سے بڑی خوبی یہی تھی کہ دارالعلوم کی مشکل سے مشکل مہم کو آسانی سے سلجھا دیتے تھے۔

اوصاف و کمالات

طلبہ کی چھوٹی چھوٹی جزئیات پر جہاں ہر وقت نظر رہتی تھی، اور ان پر روک ٹوک اور ڈانٹ ڈپٹ رکھتے، وہیں ان پر بے حد شفیق اور مہربان تھے۔ طلبہ کی معمولی معمولی ضرورتوں پر مہربانہ نظر رہتی تھی، بیمار طلبہ کے علاج پر خاص توجہ فرماتے تھے، طلبہ اور مدرسین پر حافظ صاحب کا رعب و داب ضرب المثل تھا۔ دسترخوان نہایت وسیع تھا، دارالعلوم کے مہمانوں کا صرفہ بذات خود نہایت فراخ حوصلگی کے ساتھ برداشت کرتے تھے۔

شروع سے درس و تدریس کا جو مشغلہ قائم ہو گیا تھا وہ زمانہ اہتمام میں بھی کبھی بند نہیں ہوا، مشکوٰۃ المصابیح، جلالین، صحیح مسلم، ابن ماجہ، مختصر المعانی، رسالہ میرزاہد وغیرہ کتابیں نہایت شوق سے پڑھاتے تھے، تقریر نہایت صاف و مربوط اور سلجھی ہوئی ہوتی تھی، اپنے والد ماجد حضرت نانوتویؒ کے خاص علوم اور مضامین پر کافی عبور تھا۔

حضرت حافظ محمد احمد نہایت بارعب اور وجہ شخصیت کے مالک تھے۔ احاطہ دارالعلوم میں قدم رکھتے تو اساتذہ اور طلبہ میں ایک قسم کا سناٹا محسوس ہوتا۔ حضرت شیخ الہندؒ استاذ اور شیخ ہونے کے باوجود حضرت نانوتویؒ کی نسبت کا حد درجہ احترام فرماتے اور انتہائی نیاز مندی کے ساتھ پیش آتے۔ حضرت حافظ صاحب چلتے تو عموماً نگاہ نیچی کر کے چلتے تھے۔ چال میں وقار اور متانت ہوتی تھی۔ ان کے سامنے پہنچ کر ایک ہیبت محسوس ہوتی تھی۔ صاف

گوئی اور ظاہر و باطن میں یکسانی معروف و ممتاز تھی۔ ہر ایک سے نہایت صاف، بے لاگ اور بے جھجک گفتگو فرماتے۔ بہت سے مسائل اور مشکل مہمات آپ کی جرأت مندی اور خداداد جاہت و وقار کی وجہ سے بہت آسانی سے حل ہو جاتے تھے۔

زندگی کے آخری دن

نظام دکن نے حضرت حافظ صاحبؒ کو ریاست حیدرآباد میں مفتی اعظم کے عہدے پر مقرر فرمایا تھا۔ حکومت آصفیہ کے اس سب سے بڑے دینی منصب پر آپ ۱۳۴۱ھ مطابق ۱۹۲۲ء سے ۱۳۴۴ھ مطابق ۱۹۲۵ء تک فائز رہے۔ نظام حیدرآباد کو دارالعلوم میں آنے کی دعوت دی تھی جو منظور کر لی گئی تھی۔ پروگرام یہ تھا کہ نظام جب دہلی جائیں گے تو دارالعلوم کو بھی دیکھیں گے، ۱۳۴۷ھ مطابق ۱۹۲۸ء میں نظام کے دہلی آنے کی توقع تھی، وعدے کی یاد دہانی کے لیے آپ حیدرآباد تشریف لے گئے۔ جس وقت آپ حیدرآباد کا قصد فرما رہے تھے تو طبیعت ناساز تھی، ضعف پیری اور مسلسل علالت نے بہت کمزور کر دیا تھا مگر دارالعلوم کے مفاد کے لیے اپنی صحت کی پروا نہ کرتے ہوئے حیدرآباد روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ پہلے تو انتظار رہا کہ طبیعت سنبھلے تو نظام سے ملاقات کی جائے مگر جب مرض دن بدن بڑھتا ہوا معلوم ہوا تو متوسلین اور رفقاء سفر کی رائے قرار پائی کہ دیوبند واپس لے جایا جائے، چنانچہ واپسی کے قصد سے آپ حیدرآباد سے روانہ ہو گئے، مگر ابھی ٹرین حیدرآباد کی حدود میں ہی تھی کہ نظام آباد اسٹیشن پر حافظ صاحب نے جان، جاں آفریں کے سپردی۔ یہ واقعہ ۳ جمادی الاولیٰ ۱۳۴۷ھ مطابق ۱۸ اکتوبر ۱۹۲۸ء کا ہے۔ وفات کے وقت زبان پر ذکر اللہ جاری تھا۔

نظام آباد اسٹیشن پر نعش اتار کر جنازہ تیار کیا گیا، متعلقین اور نظام دکن کو تار کے ذریعے اطلاع دی گئی، نظام کا جواب آیا کہ حافظ صاحب کا جنازہ حیدرآباد ہی لایا جائے، نظام آباد اور حیدرآباد میں متعدد مرتبہ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ اگلے دن ۴ جمادی الاولیٰ کو سرکاری مصارف پر آپ کو مخصوص قبرستان میں جو ”محلہ صالحین“ کے نام سے موسوم ہے سپرد خاک کیا گیا، نظام دکن نے تعزیت کرتے ہوئے نہایت تأسف کے ساتھ یہ پر اثر جملہ فرمایا: ”افسوس وہ مجھے لینے آئے تھے مگر خود یہیں رہ گئے۔“

حضرت حافظ صاحبؒ نے ۴۵ رسال دارالعلوم کی خدمات انجام دیں، ابتدائی ۱۰ رسال تعلیم و تدریس میں گزرے اور ۳۵ رسال اہتمام کے فرائض انجام دیئے۔

مآخذ:

- تاریخ دارالعلوم دیوبند، جلد دوم، ص ۵۸۵ تا ۵۹۶، ۲۲۲ تا ۲۲۳
- دارالعلوم دیوبند کی پچاس مثالی شخصیات، حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمیؒ، ص ۱۱۶ تا ۱۱۸

حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانیؒ

وفات: ۱۳۳۸ھ مطابق ۱۹۲۹ء

آپ حضرت مولانا فضل الرحمنؒ کے خلف رشید تھے۔ حضرت مفتی عزیز الرحمن عثمانی اور علامہ شبیر احمد عثمانی آپ کے حقیقی بھائی ہیں۔ حق تعالیٰ نے آپ کو دین کا خاص فہم عطا فرمایا تھا۔ آپ کی دانش و تدبیر مشہور زمانہ تھی۔ ادبیات کے ماہر تھے، عربی نظم و نثر دونوں پر کمال قدرت رکھتے تھے۔ آپ کا تدبیر و انتظام دارالعلوم کی تاریخ میں مثالی سمجھا جاتا ہے۔ دارالعلوم کی ترقی میں ان کی خدمات اور خداداد صلاحیتوں کو بڑا دخل حاصل تھا۔

آپ کی تاریخ پیدائش محفوظ نہیں۔ شروع سے آخر تک دارالعلوم میں علوم کی تکمیل کی۔ آپ کی فراغت ۱۳۰۰ھ میں ہوئی۔ اسی سال دارالعلوم میں بطور مدرس رکھے گئے۔ آپ حضرت گنگوہیؒ کے متوسل اور طریقت کے معمولات کے پابند تھے۔ ۱۳۲۵ھ/۱۹۰۷ء میں حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب کی مصروفیتوں کے باعث نیز دارالعلوم کو ترقی دینے کے سلسلے میں ایک ایسے لائق اور منتظم شخص کی ضرورت پیش آئی جو انتظامی امور اور ترقی کی تجاویز میں حافظ صاحب کا ہاتھ بٹا سکے۔ اس کے لیے آپ سے زیادہ موزوں کوئی اور دوسرا شخص موجود نہ تھا، چنانچہ انکار کے باوجود آپ کو مجبور کر کے نیابت اہتمام کا منصب سپرد کر دیا گیا۔ یہ دارالعلوم کی خوش قسمتی تھی کہ اس کو مولانا حبیب الرحمن صاحب عثمانی جیسا کام کرنے والا بیدار مغز منتظم اور مخلص ہاتھ آ گیا۔ اہتمام کے کاموں میں ان کو اس قدر شغف تھا کہ شب و روز کا بیشتر حصہ اسی میں صرف ہوتا تھا۔

انہوں نے دارالعلوم کے شعبہ انتظام و انصرام کو اتنا منظم اور مستحکم کر دیا تھا کہ جب حکومت آصفیہ کی جانب سے نواب صدر یار جنگ بہادر دارالعلوم کے حسابات کی تنقیح کے لیے دیوبند آئے، تو ان کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ ایک ایک اور دو دو آنے تک کے حسابات کے کاغذات اور رسیدیں باضابطہ طور پر فائل میں موجود تھیں، نواب صدر یار جنگ بہادر کا بیان ہے کہ کوئی کاغذ ایسا نہ تھا کہ جو مانگا گیا ہو اور فوراً پیش نہ کر دیا گیا ہو، حافظ صاحب کے عہد اہتمام کی ترقی و درحقیقت آپ ہی کی رفاقت کا نتیجہ سمجھی جاتی ہے، آپ ان کے دست راست، معتمد علیہ اور نائب رہے۔

۱۳۳۳ھ مطابق ۱۹۲۵ء میں جب حافظ صاحبؒ اپنی پیرانہ سالی کے باعث حیدرآباد کے مفتی اعظم کے منصب سے سبکدوش ہوئے تو ان کی جگہ پر آپ کا تقرر عمل میں آیا لیکن دارالعلوم میں داخلی اختلافات رونما ہو جانے کے سبب آپ کو بہت جلد اس منصب سے دست کش ہو جانا پڑا۔ اسی طرح جب حضرت علامہ انور شاہ، حضرت مفتی عزیز الرحمن اور حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہم اللہ اور دوسرے چند اساتذہ، طلبہ کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ

دارالعلوم سے علاحدہ ہو گئے تھے، یہ بڑا نازک موقع تھا مگر آپ کے عزم و استقلال، ہمت و جرأت اور دانش و تدبیر نے دارالعلوم کی کشتی کو ڈمگانے سے بچالیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زبردست انتظامی صلاحیت اور سیاسی سوجھ بوجھ عطا فرمائی تھی۔ دارالعلوم پر سخت سے سخت وقت آئے، بڑی بڑی یورشیں ہوئیں لیکن آپ کو کبھی ہراساں و پریشان نہیں دیکھا گیا۔ سنگین سے سنگین حالات میں بھی ان کے اطمینان اور خود اعتمادی میں کوئی فرق نہیں آتا تھا۔

مولانا حبیب الرحمن جن کی شخصیت ہر حیثیت سے یگانہ روزگار تسلیم کی جاتی تھی عام خیال ہے کہ اگر آپ کو ملک کی سیاست میں بھی اتنا ہی شغف ہوتا جیسا کہ دارالعلوم کے ساتھ تھا، تو آپ ہندوستان کے نمایاں سیاسی لیڈر ثابت ہوتے۔ حضرت شیخ الہندؒ کی وصیت تھی کہ ارکان جمعیت علماء کے دو آدمیوں کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، ان میں پہلا نام آپ ہی کا تھا، چنانچہ آپ جمعیت علماء کے بہترین مشیر ثابت ہوئے۔ ۱۳۴۰ھ مطابق ۱۹۲۱ء میں جمعیت علماء کا اجلاس گیا (صوبہ بہار) میں ہوا تھا اس میں آپ کو صدر منتخب کیا گیا، آپ کا خطبہ صدارت نہ صرف عام طور پر پسند کیا گیا بلکہ اس کی سیاسی اہمیت کے پیش نظر ملک کے سیاسی حلقوں میں بھی سراہا گیا۔

مطالعے کی کثرت نے آپ کو نہایت وسیع المعلومات بنا دیا تھا، حضرت مولانا انور شاہ کشمیریؒ فرمایا کرتے تھے: ”اگر مجھ پر کسی کے علم کا اثر پڑتا ہے تو وہ مولانا حبیب الرحمن ہیں۔“

تصنیفات و تالیفات

عربی ادب اور تاریخ سے خاص ذوق تھا اور ان علوم میں ان کی وسیع النظری مشہور زمانہ تھی۔ مندرجہ ذیل تصانیف علمی یادگار ہیں:

(۱) قصیدۃ لامیۃ المعجزات: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عربی نعت میں تقریباً تین سو اشعار پر مشتمل ہے، جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سو معجزے نہایت فصیح و بلیغ انداز میں پیش کئے گئے ہیں۔ مولانا محمد اعزاز علی صاحب امر وہوئی (وفات ۱۳۷۲ھ) نے عربی اشعار کی سلیس اردو میں شرح فرمادی ہے۔

(۲) اشاعت اسلام: دنیا میں اسلام کیوں کر پھیلا؟ اس سوال کے جواب میں تقریباً پانچ سو صفحات پر مشتمل ان تاریخی واقعات کو پیش کیا گیا ہے جو اپنی نفسیاتی کشش کے اعتبار سے اشاعت اسلام کا باعث ہوئے۔ یہ کتاب پہلے قسط وار مضامین کی شکل میں ماہنامہ القاسم میں شائع ہوئی۔ اشاعت اسلام آپ کی معرکتہ الآراء تصنیف ہے جو خواص و عوام میں بہت مقبول ہوئی۔

(۳) تعلیمات اسلام: اس کتاب میں اسلام کے طرز حکومت کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ مشورہ امیر جماعت کے لیے کس قدر ضروری ہے۔ اس ضمن میں آپ نے بتلایا ہے کہ امیر کی ذات پر اگر کئی اعتماد ہو تو اکثریت و اقلیت کی رائے شماری کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر امیر کو یہ اعتماد حاصل نہ ہو تو پھر کام چلانے کے لیے اس کے سوا چارہ نہیں کہ اکثریت کا اعتبار کیا جائے۔

(۴) حاشیہ مقامات حریری: جل لغات کے ساتھ پہلی مرتبہ مطبع مجتہبائی دہلی سے شائع ہوا۔

(۵) حاشیہ تفسیر جلالین

(۶) رحمۃ اللعالمین (سید المرسلین): یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک نہایت گراں قدر تصنیف ہے، افسوس ہے کہ یہ نام تمام ہے، مگر جس قدر حصہ لکھا جا چکا ہے وہ سیرت نبوی کی تصانیف کی فہرست میں ایک عظیم الشان تصنیف کا اضافہ کرتا ہے۔

(۷) رسالہ القاسم والرشید: آپ کی کوششوں سے دارالعلوم میں صحافت کا آغاز ہوا۔ علمائے دیوبند کے علوم و معارف عام مسلمانوں تک پہنچانے اور عوام الناس کو دین کے صحیح عقائد و مسائل سے باخبر کرنے کے لیے آپ نے القاسم کے نام سے ماہانہ اردو رسالہ جاری کیا جس کو بعد میں دارالعلوم سے متعلق کر دیا گیا۔ اسی طرح دارالعلوم سے ماہنامہ الرشید بھی آپ کی سرپرستی میں جاری ہوا۔

وفات

مولانا حبیب الرحمن صاحب نہایت نحیف الجثہ تھے، خوراک حیرت انگیز طور پر کم تھی، مگر ضعف اور کمزوری کے باوجود بے پناہ ہمت کے مالک تھے، حضرت حافظ صاحب کے انتقال کے ٹھیک چودہ ماہ کے بعد ۳ رجب ۱۳۲۸ھ مطابق ۵ دسمبر ۱۹۲۹ء کی شب میں اس جہان فانی سے رحلت فرمائی اور ہمیشہ کے لیے دارالعلوم کو اپنا مداح چھوڑ گئے۔ نور اللہ مرقدہ!

آپ کے انتقال پر علامہ سید سلیمان ندوی نے رسالہ معارف کے تعزیتی نوٹ میں لکھا:
 ”اس مہینہ کا سب سے بڑا علمی اور تعلیمی حادثہ دارالعلوم دیوبند کے مہتمم حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانی کی وفات ہے۔ دیوبند کا مدرسہ عالیہ اگر ہمارے پرانے مدارس کی روح ہے تو اس میں شک نہیں کہ اس مدرسہ عالیہ کی روح حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب عثمانی تھے۔ مرحوم شاید اس مدرسہ کے مقدس بانیوں کی آخری یادگار تھے۔ وہ ایک عالم تبحر اور عربی کے ادیب تھے۔ دیگر علوم کے علاوہ عربی نظم و نثر پر ان کو یکساں قدرت حاصل تھی۔ اسلامی تاریخ سے بھی ان کو ذوق کامل تھا۔ اردو انشاء میں بھی ان کا سلیقہ خاصہ تھا۔“ (معارف، اعظم گڑھ، جمادی الثانیہ ۱۳۲۸ھ، دسمبر ۱۹۲۹ء، ذکر رفتگان)

مآخذ:

● تاریخ دارالعلوم دیوبند، جلد دوم، ص ۵۸ تا ۶۰، ۲۳۳ تا ۲۳۵

● دارالعلوم دیوبند کی پچاس مثالی شخصیات، ص ۱۲۱ تا ۱۲۳

حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ

۱۲۸۰-۱۳۶۲ھ/۱۸۶۳-۱۹۴۳ء

آپ حکیم الامت کے لقب سے مشہور عالم ربانی، عظیم ترین مصنف، سچ وقت اور خدا رسیدہ بزرگ تھے۔ دین کے ہر شعبہ اور ہر موضوع پر آپ نے نہایت قیمتی سرمایہ چھوڑا ہے۔ آپ کا شمار شریعت اسلامیہ کے تبحر علماء اور تاریخ اسلامی کے کثیر التصانیف بزرگوں میں ہوتا ہے اور علماء دیوبند میں تصانیف کی تعداد کے لحاظ سے آپ سب سے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ آپ طریقت و سلوک میں بھی مقام رفیع کے مالک تھے۔ آپ کی ذات علوم ظاہری و باطنی کا مخزن تھی۔ آپ کی تحریریں علم و فضل کا معدن ہوتی تھیں اور تقریر میں بھی بلا کی اثر انگیزی تھی۔ خود ایک درویش گوشہ نشین تھے لیکن ان کا آستانہ بڑے بڑے ارباب ثروت و دولت اور اصحاب علم و فضل کی عقیدت گاہ تھا۔ آپ کی خانقاہ علم معرفت و روحانیت کا ایک چشمہ صافی تھا کہ ہزاروں تشنہ کام آتے اور سیراب ہو کر جاتے تھے۔ زندگی اتباع سنت کا زندہ نمونہ اور گفتگو اسرار و رموز طریقت کا دفتر گراں مایہ تھی۔ مواظب حسنہ اور کثیر تصانیف کے ذریعہ حضرت نے اصلاح عقائد و اعمال اور ابطال رسوم و بدعات کی جو عظیم الشان خدمت انجام دی ہے وہ تمام ہم عمروں میں ان کا طہرائے امتیاز ہے۔ تقویٰ و طہارت، تفقہ فی الدین، شرعی علوم میں مہارت و بصیرت، راست گفتاری و مخلصانہ عمل کوشی، بے لوث خدمت دین اور بے غرضانہ تلقین رشد و ہدایت آپ کے وہ اوصاف عالیہ اور فضائل حمیدہ ہیں جو ہر موافق و مخالف کے نزدیک برابر مسلم رہے ہیں۔

ولادت اور تعلیم

۵ ربیع الثانی ۱۲۸۰ھ مطابق ۹ ستمبر ۱۸۶۳ء کو پیدا ہوئے۔ تاریخی نام کرم عظیم ہے، داوھیال والوں نے عبد الغنی نام تجویز کیا، لیکن حضرت حافظ غلام مرتضیٰ مجذوب پانی پٹی کے دیے ہوئے نام اشرف علی سے آپ مشہور خلاق ہوئے۔ تھانہ بھون کے شیوخ فاروقی میں سے تھے۔ پانچ سال کے تھے کہ والدہ محترمہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اس کے بعد مستقل والد محترم شیخ عبدالحق صاحب کی تربیت میں رہے۔ ذکاوت و ذہانت کے آثار بچپن سے ہی نمایاں تھے۔ قرآن شریف حافظ حسین علی سے حفظ کیا۔ فارسی اور عربی کی ابتدائی کتابیں وطن میں مولانا فتح محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھیں جو دارالعلوم کے اولین فارغین میں سے تھے۔ فارسی کی اعلیٰ کتابیں اپنے ماموں واجد علی صاحب سے پڑھیں۔ ۱۲۹۵ھ/۱۸۷۸ء کے اواخر میں تکمیل علوم کی غرض سے دارالعلوم میں داخلہ لیا اور

۱۳۰۱ھ/۱۸۸۴ء میں دارالعلوم سے فراغت حاصل کی۔ آپ نے حضرت مولانا محمد یعقوب اولین صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند سے زیادہ استفادہ کیا۔ حضرت نانوتوی سے بھی براہ راست بعض تفسیری درسوں میں مستفید ہوئے۔ آپ دارالعلوم دیوبند میں اُس سال بغرض حصول تعلیم تشریف لائے تھے جس سال حضرت نانوتوی کا وصال ہوا؛ اس لیے حضرت نانوتوی سے مزید استفادہ نہیں فرما سکے، بلکہ حضرت ملا محمود، حضرت مولانا سید احمد دہلوی، حضرت شیخ الہند، حضرت مولانا عبدالعلی صاحب وغیرہ سے مختلف کتابیں پڑھیں۔ تجوید و قرأت کی تعلیم مکہ مکرمہ میں قاری محمد عبداللہ مہاجرکی (استاذ مدرسہ صولتیہ، مکہ مکرمہ) سے حاصل کی۔

ابتدائی حالات اور نسبت باطنی کا حصول

۱۳۰۱ھ/۱۸۸۴ء میں اولاً مدرسہ فیض عام کان پور میں صدر مدرس مقرر ہوئے اور پھر مدرسہ جامع العلوم کان پور کی مسند صدارت کو زینت بخشی۔ کان پور میں آپ کے درس حدیث کی شہرت سن کر دور دور سے طلبہ کھینچے چلے آتے تھے۔ تدریسی خدمات کے علاوہ وعظ و ارشاد بھی فرمایا کرتے تھے جس کی وجہ سے لوگ آپ سے کافی قریب ہو گئے تھے۔ باوجودیکہ کانپور میں اہل بدعت کی خاصی تعداد اور زور تھا مگر حضرت تھانوی کی محبت اور آپ سے تعلق لوگوں کے دلوں میں جا گزریں ہو گیا تھا، جب کہ عمر بھی کچھ زیادہ نہ تھی۔

حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے ذریعہ سے بواسطہ خط غائبانہ بیعت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجرکی سے ۱۲۹۹ھ/۱۸۸۲ء میں ہو چکی تھی، پھر ۱۳۰۱ھ/۱۸۸۴ء کے حج میں حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اخذ فیض کیا۔ ۱۳۱۰ھ/۱۸۹۳ء میں دوبارہ حج کیا اور حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر دوبارہ ایک زمانہ خاص تک رہ کر استفادہ باطنی فرمایا اور خلعتِ خلافت سے بہرہ ور ہوئے۔

تھانہ بھون میں مستقل قیام اور علمی و دینی خدمات

حضرت حاجی صاحب کے مشورہ کے مطابق ۱۳۱۵ھ/۱۸۹۷ء میں کان پور چھوڑ کر خانقاہ امدادیہ تھانہ بھون میں متوکلانہ قیام فرمایا اور وہیں تادم واپس ۴۷ سال تک تبلیغ دین، تزکیہ نفس اور تصنیف و تالیف کی ایسی عظیم الشان اور گراں قدر خدمات انجام دیں کہ جس کی مثال اس دور کی کسی دوسری شخصیت میں نہیں ملتی۔ اللہ نے آپ کے وعظ میں بڑا اثر رکھا تھا، بڑے بڑے مجمع میں مخالفین کی اکثریت کے باوجود وعظ فرماتے تھے اور لوگ متاثر ہوتے تھے۔ کان پور میں تدریس چھوڑنے کے بعد وعظ کا شغل تاحیات باقی رہا۔ آپ کا شمار عظیم اصحاب طریقت اور اکابر تصوف میں ہوتا ہے۔ تھانہ بھون میں خانقاہ امدادیہ میں جو یان فیض اور طالبان حق کا تانا باندا رہتا۔ اس زمانہ کے بڑے بڑے علماء و افاضل آپ کی خدمت میں استفادہ کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ اس راہ سے آپ نے اسلام اور اہل اسلام کی جو خدمت کی، وہ کم ہی لوگوں کے نصیب میں آئی ہے۔

آپ کے مواعظ، تصانیف اور ملفوظات نے لاکھوں کو انسان، ہزاروں کو مسلمان اور سیکڑوں کو متقی کامل بنا دیا۔ آپ کی بدولت بے شمار بدعات اور غیر اسلامی رسوم کے دروازے بند ہوئے۔ آپ کی تصانیف و مواعظ سے لاکھوں افراد کو علمی و عملی فیض پہنچا۔ عوام اور خواص کا جتنا بڑا طبقہ بیعت و ارشاد کی راہ سے اس دور میں ان سے مستفیض ہوا اس کی مثال کم ہی ملے گی۔ ان کی رفعت و بلندی کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ غیر منقسم ہندوستان کے بڑے بڑے صاحب علم و فضل اور اہل کمال ان کے حلقہ بیعت میں شامل تھے۔ آپ کے مشہور خلفاء و متنبین میں برصغیر کے جلیل القدر علماء و فضلاء اور بزرگان دین کے نام آتے ہیں، مثلاً: حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیبؒ، مہتمم دارالعلوم دیوبند، حضرت مفتی محمد شفیع دیوبندیؒ، مفتی اعظم پاکستان و بانی دارالعلوم کراچی، مولانا ظفر احمد عثمانیؒ، مرتب اعلاء السنن، حضرت مولانا عبد الباری ندوی، حضرت مولانا سید سلیمان ندویؒ، حضرت مولانا عبد الماجد دریابادیؒ، حضرت مولانا محمد عیسیٰ الہ آبادیؒ، حضرت مولانا وصی اللہ الہ آبادیؒ، حضرت مولانا مسیح اللہ جلال آبادیؒ، حضرت مولانا عبد الغنی پھول پوریؒ، حضرت مولانا ابرار الحق ہر دوئیؒ وغیرہم۔

ان کی ذات والا صفات علم و حکمت اور معرفت و طریقت کا ایک ایسا سرچشمہ تھی جس سے نصف صدی تک بر صغیر کے مسلمان سیراب ہوتے رہے۔ دین کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں ان کی عظیم خدمات تقریری و تصنیفی صورت میں نمایاں نہ ہوں۔

تصنیفی خدمات

آپ کا علم نہایت وسیع اور گہرا تھا، جس کا ثبوت آپ کی تصانیف کا ہر صفحہ دے سکتا ہے۔ دین کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں تصانیف موجود نہ ہوں۔ وہ اپنی تصانیف کی کثرت اور افادیت کے لحاظ سے ہندوستانی مصنفین میں اپنا جواب نہیں رکھتے۔ آپ کی چھوٹی بڑی تصانیف کی تعداد ساڑھے تین سو کے قریب ہے۔ ان کے علاوہ تین سو سے زائد وہ مواعظ ہیں جو چھپ چکے ہیں۔ مجموعی طور پر حضرت تھانویؒ کی تصانیف و رسائل کی تعداد تقریباً آٹھ سو ہے۔ برصغیر کے پڑھے لکھے مسلمانوں کے کم گہرا لیے ہوں گے جہاں حضرت تھانویؒ کی کوئی تصنیف موجود نہ ہو۔ ان میں بہشتی زیور کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ ہر سال مختلف مقامات سے ہزاروں کی تعداد میں چھپتی ہے اور ہاتھوں ہاتھ نکل جاتی ہے۔

کل کی کل تصنیفات تحقیقات علمیہ اور نکات احسانیہ سے لبریز ہیں۔ ان میں تفسیر بیان القرآن، شرح مشنوی مولانا روم، امداد الفتاویٰ، التعرف الی التصوف وغیرہ کئی کئی جلدوں میں ہیں۔ ملفوظات، مواعظ اور خطبات کی تعداد سیکڑوں کی حد تک ہے۔ ان تصانیف میں مشکل آیات کریمہ کی تفسیر، احادیث شریف کی شرح اور فقہ کے مشکل مسائل کے جواب، سلوک و طریقت کے نکلتے، اخلاقی فضائل و رذائل کی حکیمانہ تحقیق اور ان کے حصول و ازالہ کی تدابیر اور زمانہ حال کے شکوک و شبہات کے جوابات سب کچھ ہیں۔ تصانیف میں متفرق علوم و

مسائل اس کثرت سے ہیں کہ اگر ان میں سے ہر موضوع کے مباحث کو علیحدہ علیحدہ کیا جائے تو ہر موضوع پر ایک ایک مستقل کتاب بن جائے۔ چنانچہ اس قسم کے درجنوں مجموعے آچکے ہیں اور اب تک اس کا سلسلہ جاری ہے۔ خطوط کے جوابات کا جن کے متعلق وفات کے دن تک یہ اہتمام رہا کہ آج کے خط کا جواب کل کے لیے نہ اٹھا رکھا جائے، عظیم الشان دفتر الگ ہے۔

تصنیفات میں بلکہ ہر تحریر میں اہل نظر کو معلوم ہوگا کہ گویا مصنف کے سامنے سارے مسائل و مواد یکجا ہیں اور وہ سب کو اپنی اپنی جگہ احتیاط سے رکھتا جاتا ہے۔ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ مصنف جس موضوع پر قلم اٹھاتا ہے اس میں اس کو ایسا غلو ہو جاتا ہے کہ دوسرے گوشوں سے اس کو ذہول ہو جاتا ہے۔ لیکن حضرت کی تصانیف کی خاص بات یہ ہے کہ آپ کا قلم مکمل احتیاط اور رعایت کے ساتھ غلو سے بچ کر اس طرح نکلتا ہے کہ جاننے والوں پر حیرت چھا جاتی ہے۔ آپ کا ترجمہ قرآن، تاثیر، سہولت بیان اور بیان مطالب میں اپنی نظیر آپ ہے۔ بیان القرآن آپ کا عظیم الشان کارنامہ ہے۔ اسی طرح حدیث میں اعلیٰ السنن کے نام سے فقہ حنفی کی مستدل احادیث کا جو زبردست ذخیرہ مرتب کیا گیا آپ ہی کی کوششوں سے وجود میں آیا۔

آپ کی زندگی بڑی منظم تھی۔ کاموں کے اوقات مقرر تھے اور ہر کام اپنے وقت پر انجام پاتا تھا۔ متوسلین کے بہت خطوط آتے تھے، مگر بقید وقت ہر ایک کا جواب خود اپنے قلم سے تحریر فرماتے تھے۔ سچ یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں برکت، تصانیف و مشاغل علمیہ کی کثرت و افادیت کا راز بھی بظاہر اسی نظم و ضبط اور وقت کے صحیح استعمال میں پوشیدہ ہے۔ ورنہ ۴۷ سال کی مدت میں تصوف و سلوک اور مسترشدین کی اصلاح و خانقاہ کے انتظام کے ساتھ دین کے تقریباً ہر شعبہ اور فن میں تقریباً آٹھ سو نہایت قیمتی، تحقیقی اور بلند پایہ علمی تصنیفات کا ذخیرہ جو ہزار ہا ہزار صفحات پر پھیلا ہوا، کوئی معمولی کارنامہ نہیں، بلکہ ایک زندہ کرامت ہے۔

اللہ تعالیٰ نے آپ کو استغناء کے ساتھ فیاضی کے جوہر سے بھی نوازا تھا۔ حضرت تھانوی کی یہ ایک امتیازی خصوصیت ہے کہ اپنی تصانیف سے کبھی ایک پیسہ کا فائدہ حاصل نہیں کیا۔ تمام کتابوں کے حقوق طبع عام تھے اور جس کا جی چاہے انھیں چھاپ سکتا تھا۔ حضرت تھانوی کی سیر چشمی اور فیاضی، خلوص و اللہیت کی دلیل اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ اپنی تصنیفات کی غیر معمولی مقبولیت کے باوجود آپ نے کبھی کسی کتاب کا حق اشاعت و طبع اپنے لیے محفوظ نہیں رکھا حالانکہ اس سے ان کو بلاشبہ لاکھوں کی آمدنی ہو سکتی تھی۔

دارالعلوم دیوبند کی سرپرستی

۱۳۲۰ھ/۱۹۰۲ء میں حکیم الامت کو دارالعلوم کا رکن شوریٰ بنایا گیا۔ ۱۳۴۴ھ/۱۹۲۵ء میں حکیم الامت حضرت تھانوی دارالعلوم دیوبند کے سرپرست ہوئے۔ آپ نے اپنی باطنی توجہات اور صرف ہمت کے ذریعہ دارالعلوم کو فتن و حوادث کے تھپڑوں سے محفوظ رکھا۔ ۱۳۵۴ھ/۱۹۳۵ء میں اپنی گونا گوں مشغولیات کی وجہ سے

آپ نے سرپرستی کے منصب سے استعفاء دے دیا۔ اس کے بعد دارالعلوم کے سرپرست کے نام سے کسی شخصیت کا انتخاب عمل میں نہیں آیا۔

وفات

۱۵-۱۶ رجب ۱۳۶۲ھ (مطابق ۱۹-۲۰ جولائی ۱۹۴۳ء) کی درمیانی شب کو تھانہ بھون میں آپ نے اس جہان فانی کو خیر باد کہا۔ تھانہ بھون ہی میں حافظ ضامن شہید کے مزار کے قریب اپنے ذاتی باغ میں جسے آپ نے خانقاہ امدادیہ کے نام وقف کر دیا تھا، مدفون ہوئے۔

حضرت مولانا سید سلیمان ندویؒ نے آپ کے انتقال کے موقع پر لکھا:

”اب اس دور کا بالکل خاتمہ ہو گیا جو حضرت شاہ امداد اللہ مہاجر کی، مولانا یعقوب نانوتوی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا شیخ محمد تھانوی رحمہم اللہ کی یادگار تھا اور جس کی ذات میں حضرات چشت اور حضرت مجدد الف ثانی اور حضرت سید احمد شہید کی نسبتیں یکجا تھیں، جس کا سینہ چشتی ذوق و عشق اور مجددی سکون و محبت کا مجمع البحرین تھا، جس کی زبان شریعت و طریقت کی وحدت کی ترجمان تھی جس کے قلم نے فقہ و تصوف کو ایک مدت کی ہنگامہ آرائی کے بعد باہم ہم آغوش کیا تھا اور جس کے فیض نے تقریباً نصف صدی تک اللہ تعالیٰ کے فضل و توفیق سے اپنی تعلیم و تربیت اور تزکیہ و ہدایت سے ایک عالم کو مستفید بنا رکھا تھا، اور جس نے اپنی تحریر و تقریر سے حقائق ایمانی، دقائق فقہی، اسرار احسانی اور رموز حکمت ربانی کو برملا فاش کیا تھا۔ اسی لیے دنیا نے اس کو حکیم الامت کہہ کر پکارا اور حقیقت یہ ہے کہ اس اشرف زمانہ کے لیے یہ خطاب عین حقیقت تھا۔“ (یاد رفتگان، ص ۲۵۳ تا ۲۵۴)

حکیم الامت کے تفصیلی احوال کے لیے دیکھئے: اشرف السوانح (خواجہ عزیز الحسن مجذوبؒ)، حکیم الامت

نقوش و تاثرات (مولانا عبدالمجاہد دریا بادی)

مآخذ:

- تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم، ص ۵۱ تا ۵۲
- یاد رفتگان، مولانا سید سلیمان ندویؒ، ص ۲۵۳ تا ۲۶۸
- مشاہیر علمائے دیوبند، ص ۶۶ تا ۸۳

حضرت مولانا علامہ محمد انور شاہ کشمیریؒ

۱۲۹۲-۱۳۵۲ھ/۱۸۷۵-۱۹۳۳ء

حضرت مولانا علامہ محمد انور شاہ کشمیریؒ کی مبارک ہستی نہ کسی تعارف کی محتاج ہے اور نہ کسی تعریف کی دست نگر۔ ان کی حقیقی تاریخ ان کے تلامذہ اور ماثر علمی کی صورت میں ہمہ وقت نمایاں اور چشم دید ہے۔ اس امت مرحومہ میں لاکھوں علماء و فضلاء پیدا ہوئے اور اپنے نوارانی آثار دنیا کے لیے چھوڑ گئے، لیکن ایسی ہستیاں معدودے چند ہیں جن کا فیض عالم گیر اور محبوبیت عام قلوب کی امانت ہو اور جن کے علم کے ساتھ ساتھ عمل سے بھی امت نے استفادہ کیا ہو۔ حضرت امام العصر علامہ انور شاہ صاحبؒ کی ہستی اُن ہی مبارک اور معدودے چند ہستیوں میں سے ایک ممتاز ہستی ہے جو صدیوں میں پیدا ہوتی ہے اور صدیوں کو علم و فضل سے رنگین کر جاتی ہے۔ حضرت کا علم اگر متقدمین کی یاد تازہ کرتا تھا تو ان کا عمل سلف صالحین کو زندہ کیے ہوا تھا۔ علم، حافظہ، تقویٰ و طہارت اور زہد و قناعت مثالی تھی۔ علمی حیثیت سے ان کے تلامذہ ان کو چلتا پھرتا کتب خانہ کہا کرتے تھے۔

ابتدائی حالات

حضرت شاہ صاحب لولاب کشمیر کے رہنے والے تھے۔ ۲۷ شوال ۱۲۹۲ھ مطابق نومبر ۱۸۷۵ء کو سادات کے ایک معزز علمی خاندان میں آپ کی ولادت ہوئی۔ یہ خاندان اپنے علم و فضل کے لحاظ سے کشمیر بھر میں ممتاز خاندان سمجھا جاتا ہے۔ ساڑھے چار سال کی عمر میں اپنے والد بزرگوار مولانا سید معظم شاہ سے قرآن مجید شروع کیا۔ غیر معمولی ذہانت و ذکاوت اور بے پناہ قوت حافظہ ابتدائے عمر سے موجود تھی، چنانچہ ڈیڑھ سال کی قلیل مدت میں کتاب اللہ کے ساتھ فارسی کی چند ابتدائی کتابیں ختم کر کے علوم متداولہ کی تحصیل میں مشغول ہو گئے۔

ابھی بمشکل ۱۴ سال کی عمر تھی کہ حصول علم کے جذبہ بے پایاں نے ترک وطن پر آمادہ کر دیا، تقریباً تین سال ہزارہ کے مدارس میں رہ کر مختلف علوم و فنون میں دسترس حاصل کی مگر دیوبند کی شہرت نے مزید تکمیل کے لیے بے چین بنا دیا۔ چنانچہ ۱۳۱۱ھ/۱۸۹۴ء میں دیوبند تشریف لائے، حضرت شیخ الہند مسند صدارت پر متمکن تھے۔ استاذ نے شاگرد کو شاگرد نے استاذ کو پہلی ہی ملاقات میں پہچان لیا، کتب موقوف علیہ کے بعد حدیث و تفسیر کی کتابیں شروع کیں اور چند ہی سال میں دارالعلوم دیوبند میں شہرت و مقبولیت کے ساتھ ایک امتیازی شان حاصل کی، پھر ۱۳۱۴ھ تک حدیث و تفسیر اور فنون کی اعلیٰ کتابوں سے فارغ ہو کر حضرت گنگوہیؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سند حدیث کے علاوہ باطنی فیوض سے بھی مستفیض ہوئے۔ حضرت گنگوہیؒ سے آپ کو شرف خلافت بھی حاصل ہوا۔

دارالعلوم سے فراغت کے بعد آپ نے مدرسہ امینیہ دہلی میں کچھ دنوں فرائض تدریس انجام دیئے، ۱۳۲۰ھ مطابق ۱۹۰۳ء میں کشمیر چلے گئے۔ وہاں اپنے علاقہ میں فیض عام کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا۔ ۱۳۲۳ھ مطابق ۱۹۰۵ء میں حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے، کچھ مدت تک حجاز میں قیام رہا اور وہاں کے کتب خانوں سے استفادہ کا موقع ملا۔ ۱۳۲۷ھ مطابق ۱۹۰۹ء میں آپ دیوبند تشریف لائے، حضرت شیخ الہند نے آپ کو یہاں روک لیا۔ ۱۳۳۳ھ مطابق ۱۹۱۵ء کے اواخر میں جب شیخ الہند نے سفر حجاز کا قصد کیا تو اپنی جانشینی کا فخر شاہ صاحب کو بخشا۔ دارالعلوم کی مسدود صدارت پر تقریباً بارہ سال تک جلوہ افروز رہے۔ ۱۳۳۶ھ مطابق ۱۹۲۷ء کے اوائل میں اہتمام دارالعلوم سے بعض اختلافات کے باعث آپ فرائض صدارت سے دست کش ہو کر گجرات کے مدرسہ ڈابھیل میں تشریف لے گئے اور ۱۳۵۱ھ مطابق ۱۹۳۲ء تک وہاں درس حدیث کا مشغلہ جاری رہا۔

ایک باکمال شخصیت

اگر حضرت شیخ الہند نے دارالعلوم کا غلغلہ چار دانگ عالم میں بلند کیا تو حضرت شاہ صاحب نے مسند تدریس پر رونق افروز ہو کر عالم اسلام کو علم دین کی روشنی سے منور کر دیا۔ وہ علم حدیث میں عدیم النظیر محدث، علوم فقہ میں فقیہ اعظم، اتباع شریعت میں صلحائے سلف کا نمونہ تھے، تو معرفت الہی میں جنید وقت اور شبلی عصر؛ ان کا وجود اسلام اور مسلمانوں کے لیے موجب تقویت تھا۔ اسلامی دنیا نے اس قدر وسیع العلم اور باعمل علما بہت کم پیدا کیے ہیں، شاہ صاحب اگر ایک طرف اپنے معاصرین میں تبحر علمی کے لحاظ سے عدیم النظیر تھے تو دوسری جانب زہد و تقویٰ میں بھی ان کی ذات بے مثل تھی۔ وہ ایک باکمال مفسر، محدث اور فلسفی تھے۔ آدمی کا ایک کمال کا ہونا بھی کم نہیں ہوتا مگر ان کی دستار کمال میں متعدد لعل آویزاں تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے وجود سے علمی دنیا میں ایک انقلاب پیدا ہو گیا تھا، تشنگانِ علوم کی جس کثیر تعداد نے اس بحر العلوم سے سیرابی حاصل کی وہ آپ اپنی مثال ہے۔ مشرق و وسطیٰ سے لے کر چین تک ان کے فیضانِ علم کا سیلاب موجیں مارتا رہا اور ہندو بیرون ہند کے ہزاروں تشنگانِ علوم نے اس سے اپنی پیاس بجھائی۔ غیر منقسم ہندوستان، عرب، ایران، عراق، افغانستان، چین، مصر، جنوبی افریقہ، انڈونیشیا اور ملیشیا میں بکثرت آپ کے تلامذہ پھیلے ہوئے ہیں۔ دارالعلوم میں آپ کے زمانہ قیام میں ۸۰۹ طلبہ نے دورہ حدیث سے فراغت حاصل کی۔

حضرت شاہ صاحب کو قدرت کی جانب سے ایسا عدیم النظیر حافظہ بخشا گیا تھا کہ ایک مرتبہ کی دیکھی ہوئی کتاب کے مضامین و مطالب تو درکنار عبارتیں تک مع صفحات و سطور کے یاد رہتی تھیں، جو بات ایک مرتبہ کان یا نگاہ کے راستے سے دماغ میں پہنچ گئی وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتی تھی، اور دورانِ تقریر بے تکلف حوالے پر حوالے دیتے چلے جاتے تھے۔ اسی کے ساتھ مطالعے کا اس قدر شوق تھا کہ جملہ علوم کے خزانے ان کے دامن جستجو کی وسعتوں کو مطمئن اور تشنگی علم کو سیراب نہ کر سکتے تھے۔ کثرتِ مطالعہ اور قوتِ حافظہ کے باعث گویا ایک متحرک کتب خانہ تھے۔

صحاب ستہ کے ساتھ ساتھ اکثر کتابیں تقریباً نوکِ زباں تھیں۔ تحقیق طلب مسائل جن کی جستجو اور تحقیق میں عمریں گذر جاتی ہیں مسائل کے استفسار پر چند لمحوں میں اس قدر جامعیت کے ساتھ جواب دیتے تھے کہ اس موضوع پر مسائل کو نہ تو شبہ باقی رہتا تھا اور نہ کتاب دیکھنے کی ضرورت، پھر مزید لطف یہ کہ کتابوں کے ناموں کے ساتھ صفحات و سطور تک کا حوالہ بھی بتلادیا جاتا تھا۔ وہ ہر ایک علم و فن پر اس طرح بر جستگی کے ساتھ تقریر فرماتے تھے گویا ان کو تمام علوم متحضر ہیں، دورانِ تقریر بے شمار کتابوں کے حوالے بلا تکلف دیتے چلے جاتے تھے، حتیٰ کہ اگر کسی کتاب کے پانچ پانچ اور دس دس حواشی ہوتے تو ہر ایک کی عبارت بقید صفحہ و سطر یاد ہوتی تھی۔ احادیث کا تمام ذخیرہ اور ان کی صحت و عدم صحت کے متعلق طویل و عریض بحثیں، رواۃ کے مدارج و مراتب نوکِ زباں تھے، مشہور و معروف کتب خانوں کے اکثر مخطوطات نظر سے گذر چکے تھے، اور ہر طرح حافظہ میں موجود تھے کہ گویا آج ہی ان کا مطالعہ کیا ہے۔

آپ کا مطالعہ محض علوم شرعیہ تک ہی محدود نہ تھا بلکہ جس فن کی بھی کتاب ہاتھ میں آتی اس کا شروع سے آخر تک ایک مرتبہ مطالعہ ضرور فرمایا لیتے تھے اور جب کبھی اس کے متعلق بحث چھڑ جاتی تو اس کتاب کے مندرجات کو اس طرح حوالوں کے ساتھ بیان فرمادیتے کہ سننے والے حیران و ششدر رہ جاتے۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے علم جفر کے مشکل ترین مسائل حل کرنے کے لیے پیش کیے، شاہ صاحب نے حسب معمول برجستہ جوابات کے ساتھ متعدد کتب کے حوالے دے کر بتلادیا کہ فلاں فلاں کتابوں کی جانب رجوع کیا جائے۔

شاہ صاحب کا حافظہ غضب کا تھا، شیخ ابن ہمام کی مشہور کتاب فتح القدر جو آٹھ ضخیم جلدوں میں ہے اس کا مطالعہ ۲۰ دن میں اس طرح کیا تھا کہ فتح القدر کی کتاب الحج کی تلخیص بھی ساتھ ساتھ کرتے گئے تھے، اور ابن ہمام نے صاحب ہدایہ پر جو اعتراضات کیے ہیں ان کے جوابات بھی لکھتے گئے۔ ایک مرتبہ دورانِ درس فرمایا کہ اب سے ۲۶ سال پہلے میں نے فتح القدر کا مطالعہ کیا تھا، اب تک دوبارہ دیکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی اور آج بھی اس کا جو مضمون اور بحث پیش کروں گا اگر تم مراجعت کرو گے تو تفاوت بہت کم پاؤ گے۔ یہ ایک واقعہ ہے، اس طرح کے واقعات ان کی زندگی میں بے شمار ہیں۔

شاعر مشرق علامہ اقبال مرحوم کو شاہ صاحب سے بڑا تعلق تھا اور اکثر علمی مباحث میں ان سے رجوع کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اسلامی مسائل کی تدوین جدید کے لیے شاہ صاحب سے بہتر کوئی دوسرا شخص نہیں ہے۔ علامہ اقبال مرحوم کو اپنی زندگی کے آخری ایام میں اسلام سے جو شغف پیدا ہو گیا تھا، اس میں شاہ صاحب کے فیضانِ صحبت کو بھی بڑا دخل حاصل ہے، علامہ موصوف نے اسلامیات میں شاہ صاحب سے بہت کچھ استفادہ کیا تھا، چنانچہ علامہ اقبال مرحوم آپ کا بے حد احترام کرتے تھے اور عقیدت و محبت کے جذبات کے ساتھ شاہ صاحب کی رائے کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے تھے۔

علوم نقلیہ و عقلیہ کے علاوہ علم تصوف پر بھی ان کی نظر مبصرانہ تھی، مولانا سید سلیمان ندوی نے شاہ صاحب کی وفات پر ”معارف“ میں لکھا تھا:

”ان کی مثال اس سمندر کی سی تھی جس کی اوپر کی سطح ساکن لیکن اندر کی سطح موتیوں کے گراں قیمت خزانوں سے معمور ہوتی ہے وہ وسعتِ نظر، قوتِ حافظہ اور کثرتِ حفظ میں اس عہد میں بے مثال تھے، علومِ حدیث کے حافظ و نکتہ شناس، علومِ ادب میں بلند پایہ، معقولات میں ماہر، شعر و سخن سے بہرہ مند اور زہد و تقویٰ میں کامل تھے، مرتے دم تک علم و معرفت کے اس شہید نے قال اللہ و قال الرسول کا نعرہ بلند رکھا۔“

مصر کے مشہور زمانہ عالم سید رشید رضا جب دیوبند تشریف لائے اور شاہ صاحبؒ سے ان کی ملاقات ہوئی تو بے ساختہ بار بار کہتے تھے: ”ما رأیت مثل هذا الأستاذ الجلیل“ میں نے اس جلیل القدر استاذ جیسا کوئی عالم نہیں دیکھا۔ بہر حال دارالعلوم کی یہ خوش قسمتی تھی کہ حضرت شیخ الہندؒ کے بعد صدارت تدریس کا کام آپ کے سپرد ہوا، بقول مولانا سید مناظر احسن گیلانی آپ کے زمانے میں طلبہ کی استعداد میں بڑا انقلاب ہوا اور اچھے اچھے مستعد طلبہ آپ کے حلقہٴ درس سے مستفید ہو کر اٹھے۔

ملکی سیاست میں شاہ صاحبؒ اپنے استاذ حضرت شیخ الہند کے مسلک کے پیروکار تھے، مسلمانان ہند میں صحیح اسلامی زندگی پیدا کرنا علماء کا اولین فریضہ سمجھتے تھے، جمعیۃ علمائے ہند کے آٹھویں سالانہ اجلاس منعقدہ پشاور کا بصیرت افروز خطبہٴ صدارت اس کا روشن ثبوت ہے۔

حضرت تھانویؒ نے نغمۃ العنبر کی تقریظ میں لکھا ہے: ”میرے نزدیک اسلام کی حقانیت کی بہت سی دلیلوں میں سے ایک دلیل حضرت مولانا انور شاہ کا وجود بھی ہے۔ اگر اسلام میں کوئی کجی ہوتی تو مولانا انور شاہ یقیناً اسلام کو ترک کر دیتے۔“

حضرت شاہ صاحبؒ کی وفات پر حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نے تعزیتی تقریر میں فرمایا تھا کہ: ”مجھ سے اگر مصر و شام کا کوئی آدمی پوچھتا کہ کیا تم نے حافظ ابن حجر عسقلانی، شیخ تقی الدین بن دینق العید اور سلطان العلماء شیخ عزالدین بن عبدالسلام کو دیکھا ہے؟ تو میں استعارہ کر کے کہہ سکتا تھا کہ ہاں! دیکھا ہے کیوں کہ صرف زمانے کا تقدیم و تاخر ہے، اگر شاہ صاحبؒ بھی چھٹی یا ساتویں صدی میں ہوتے تو ان خصوصیات کے حامل ہونے کی وجہ سے ان کے ہی مرتبہ میں ہوتے۔“

معروف تلامذہ

حضرت شاہ صاحبؒ نے ایک ہزار سے زائد طلبہ کو درسِ حدیث دیا اور جن میں ممتاز تلامذہ میں برصغیر کے درج ذیل مشاہیر علماء کے نام شامل ہیں: حضرت مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندی، حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب، حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی، مولانا سید بدر عالم میرٹھی، مولانا مناظر احسن گیلانی، مولانا حفیظ الرحمن سیوہاروی، علامہ محمد یوسف بنوری، مولانا عبدالقادر رائے پوری، مولانا عبدالرحمن کامل پوری، مولانا مفتی عتیق الرحمن عثمانی، مولانا حامد الانصاری غازی، مولانا سعید احمد اکبر آبادی، مولانا حمید الدین فیض آبادی، مولانا محمد میاں صاحب دیوبندی، مفتی محمد نعیم لدھیانوی، مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی، مولانا منظور احمد نعمانی وغیرہ رحمہم اللہ تعالیٰ۔

تصنیفات و تالیفات

حضرت علامہ کشمیریؒ نے متعدد علمی و تحقیقی تصنیفی یادگاریں بھی چھوڑی ہیں۔ درس حدیث کی تقریر کی جامعیت کا اندازہ فیض الباری سے کیا جاسکتا ہے جو صحیح بخاری کی تقریر ہے اور چار ضخیم جلدوں میں شائع ہو چکی ہے اور بخاری کی مشہور شروح میں سے ایک ہے۔ ترمذی کی شرح عرف الشذی بھی آپ کی درسی تقریر کا مجموعہ ہے۔ آپ کی کتاب مشکلات القرآن اپنے موضوع پر ایک نادر اور بے مثال کتاب سمجھی جاتی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی فتنہ انگیز تحریک کے خلاف حضرت مولانا انور شاہ کشمیریؒ اور ان کے لائق شاگردوں کی علمی و عملی مساعی قابل صد تحسین ہیں۔ ان حضرات نے ختم نبوت، تکفیر اور دیگر اسلامی فکری موضوعات پر قابل قدر مواد اکٹھا کر دیا اور علمی طور پر قادیانی کو جواب کر دیا۔ مختلف اسلامی مباحث پر عربی اور فارسی میں ایک درجن سے زائد تصانیف جو نہایت معرکہ الآرامسائل پر مشتمل ہیں زیور طبع سے آراستہ ہو چکی ہیں۔

ذیل میں آپ کی کچھ کتابوں کا نام ذکر کیا جاتا ہے:

(۱) فیض الباری شرح بخاری (۲) عرف الشذی علی جامع الترمذی (۳) مشکلات القرآن (۴) نیل الفرقدین فی مسئلہ رفع الیدین (۵) بسط الیدین لنیل الفرقدین (۶) فصل الخطاب فی مسئلہ أم الكتاب (۷) ضرب الخاتم علی حدود العالم (۸) خزائن الاسرار (۹) اکفار الملحدین (۱۰) انصریح بما تواتر فی نزول المسح (۱۱) تحیة الاسلام فی حیاة عیسی علیہ السلام (۱۲) عقیدہ السلام فی حیاة عیسی علیہ السلام (۱۳) خاتم النبیین (۱۴) کشف الستر عن صلاة الوتر وغیرہ۔

وفات

ڈابھیل میں چند سال قیام فرمانے کے بعد آخر میں امراض کی شدت سے مجبور ہو کر دیوبند جس کو آپ نے اپنا وطن بنا لیا تھا چلے آئے تھے۔ دیوبند ہی میں ۳ صفر المظفر ۱۳۵۲ھ / ۲۸ مئی ۱۹۳۳ء کو ۶۰ سال کی عمر میں رحلت فرمائی۔ قبر مبارک عید گاہ کے قریب ہے۔

مولانا محمد یوسف بنوری نے فقہ العنبر میں حضرت شاہ صاحبؒ کے تفصیلی حالات لکھے ہیں، یہ کتاب عربی میں ہے، دوسری کتاب حیات انور اردو میں ہے۔ حیات انور مختلف حضرات کے مضامین کا گراں قدر مجموعہ ہے۔ الانور اور نقش دوام بھی آپ کے حالات و واقعات پر مشتمل ہیں۔

مآخذ:

- تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم، ص ۲ تا ۶، ۷ تا ۱۰، ۲۰ تا ۲۱
- دارالعلوم دیوبند کی پچاس مثالی شخصیات، ص ۱۲۴ تا ۱۲۹
- اکابر علمائے دیوبند، حافظ اکبر شاہ بخاری، ص ۹۵ تا ۱۰۳

حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی

۱۲۹۶-۱۳۷۷ھ/۱۸۷۹-۱۹۵۷ء

شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین، جمعیتہ علمائے ہند کے صدر اور سیاست و طریقت کے امام تھے۔ آپ اپنی جامعیت کے اعتبار سے ان ابراہیم کان امۃ کی تفسیر تھے؛ کیوں کہ وہ بیک وقت علوم و معارف کے امام، مجلس ارشاد و سلوک کے صدر نشین، عزیمت و استقامت کے پہاڑ، فقر و تواضع کے نشان، بصائر و حکم کے سرچشمہ، زہد و قناعت کے مجسمہ، اخلاص و ایثار کے پیکر، سخاوت و شجاعت کے مخزن، میدان صبر و رضا کے شہسوار، قافلہ جہد و عمل کے تاجدار اور سلف صالحین کی مکمل و متحرک یادگار تھے۔

ابتدائی حالات

آپ کا وطن موضع الہ داد پور ٹانڈہ ضلع فیض آباد ہے۔ ۱۹ شوال ۱۲۹۶ھ مطابق ۶ اکتوبر ۱۸۷۹ء کو ضلع اناؤ کے قصبہ بانگر متو میں پیدا ہوئے جہاں آپ کے والد ماجد سید حبیب اللہ صاحب ہیڈ ماسٹر تھے اور ضلع اناؤ کے مشہور شیخ وقت حضرت مولانا فضل رحمن گنج مراد آبادی سے ان کا خصوصی تعلق تھا۔ اپنے علم و تقویٰ کے لحاظ سے سادات کا یہ خاندان ہمیشہ ایک خاص عظمت اور شاہی زمانہ میں ایک بڑی جاگیر کا مالک رہا ہے۔

ابتدائی تعلیم پرائمری اسکول میں حاصل کرنے کے بعد ۱۴ سال کی عمر میں آپ دیوبند تشریف لائے۔ میزان الصرف میں داخلہ لیا، یہاں حضرت شیخ الہند نے خاص شفقت و عنایت سے آپ کی تعلیم و تربیت فرمائی۔ دارالعلوم کے نصاب کی تکمیل اور سات سال یہاں کے علمی ماحول میں گزارنے کے بعد جب وطن مالوف تشریف لے گئے تو والد ماجد شوق ہجرت میں مدینۃ الرسول کے لیے رخت سفر باندھ چکے تھے۔ آپ بھی والدین کے ہمراہ روانہ ہو گئے۔ روانگی حجاز سے قبل آپ حضرت گنگوہی سے بیعت ہو چکے تھے اور انھیں کے حکم سے مکہ مکرمہ میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی سے کسب فیض کیا۔ پھر مدینہ منورہ میں والد ماجد کے ساتھ مقیم ہو گئے۔ ہر چند آپ نے ہندوستان سے ہجرت کا قصد نہیں فرمایا تھا تاہم والد صاحب کی حیات تک آغوشِ پدری کو چھوڑ کر ہندوستان واپس آنا پسند نہیں کیا۔

مسجد نبوی میں تدریس

قیام مدینہ کے زمانے میں تقریباً بارہ تیرہ سال تک مسجد نبوی میں درس حدیث کی خدمت تنگی و عمرت کے

باوجود تو کلا علی اللہ انجام دی۔ عموماً روزانہ بارہ بارہ گھنٹے تک مسلسل درس و تدریس کا مشغلہ جاری رہتا تھا، مختلف جماعتیں یکے بعد دیگرے حاضر ہو کر آپ کے فیضان علمی سے سیراب ہوتی تھیں۔ مسجد نبوی میں آپ کا درس حدیث وہاں کے تمام شیوخ حدیث سے زیادہ پسندیدہ اور مقبول تھا، اور اس کی شہرت نے مختلف اسلامی ممالک کے طالبان علم کی ایک بڑی تعداد آپ کے گرد جمع کر دیا تھا۔ حجاز کی مقدس سرزمین اور خاص مسجد نبوی میں ایک ہندوستانی عالم کی جانب اس قدر کشش اور قبول عام کا باعث آپ کے طریقہ درس کی اس خصوصیت کو سمجھنا چاہیے، جو آپ کو دارالعلوم کے اساتذہ سے ورثہ میں ملی تھی۔

مدینہ منورہ کے قیام کے زمانہ میں آپ کئی مرتبہ ہندوستان تشریف لائے۔ اسی درمیان آپ کو حضرت گنگوہیؒ سے خلعتِ خلافت حاصل ہوئی۔ ۱۳۲۹ھ مطابق ۱۹۱۱ء میں تقریباً ایک سال دیوبند میں قیام فرما کر تدریسی خدمات بھی انجام دیں۔ ۱۳۳۳ھ مطابق ۱۹۱۵ء میں جب حضرت شیخ الہندؒ حجاز تشریف لے گئے تو آپ کے یہاں قیام فرمایا، اور آپ ہی کے ذریعے سے ترکی کے وزیر جنگ انور پاشا اور کمال پاشا سے ملاقات فرما کر اپنی انقلابی اسکیم ان کے سامنے پیش کی تھی۔ جب عربوں نے ترکوں کے خلاف بغاوت کی اور شریف حسین نے حضرت شیخ الہندؒ کو گرفتار کر کے انگریزوں کے حوالے کیا تو آپ بھی حضرت شیخ الہندؒ کے رفقا میں شامل تھے، چنانچہ سواتین سال تک آپ کو بھی مالٹا میں جنگی قیدی کی حیثیت سے رہنا پڑا۔

۱۳۳۸ھ مطابق ۱۹۲۰ء میں جب مالٹا سے رہائی ہوئی تو آپ حضرت شیخ الہندؒ کی معیت میں ہندوستان تشریف لائے، مالٹا سے واپسی کا زمانہ تحریکِ خلافت کے آغاز کا زمانہ تھا، آپ یہاں پہنچ کر حضرت شیخ الہندؒ کی قیادت میں سیاست میں شریک ہو گئے۔ اس زمانہ میں آپ کی مجاہدانہ اور سرفروشانہ قربانیوں نے مسلمانوں کے دلوں کو آپ کی عظمت و محبت سے لبریز کر دیا تھا۔ حضرت شیخ الہندؒ کی وفات پر متفقہ طور سے آپ کو ان کا جانشین تسلیم کیا گیا۔ آپ حضرت شیخ الہندؒ کی سیاسی و علمی وراثت کے سب سے بڑے امین تھے۔ آپ کو حضرت شیخ الہندؒ سے طویل صحبت و ملازمت کا شرف حاصل رہا جس میں آپ کے رفقاء و معاصرین میں کوئی بھی آپ کا سہم و شریک نہیں تھا۔ اسی اتصال و یک نفسی نے حضرت مدنیؒ کی ذات کو ایک ایسا آئینہ بنا دیا تھا جس میں شیخ الہندؒ کے سراپا کو بخوبی دیکھا جاسکتا تھا۔

جنگِ آزادی میں شرکت و انہماک کے باعث آپ کو متعدد مرتبہ کئی سال تک جیل میں بھی رہنا پڑا۔ آپ کی زندگی کے تقریباً آٹھ سال قید فرنگ میں گزرے۔ آپ جہادِ حریت کے صفِ اول کے قائدین میں سے تھے اور آپ نے ملک کی آزادی کے لیے قید و بند کی بے انتہا صعوبتیں برداشت کیں۔ جمعیتِ علمائے ہند کے پلیٹ فارم سے آپ نے قوم و ملت کی پیش بہا خدمات انجام دیں اور ملتِ اسلامیہ ہند کی اس عظیم الشان جماعت کی تاعمر قیادت فرمائی۔

دارالعلوم میں مسند صدارت پر

۱۳۴۶ھ مطابق ۱۹۲۷ء میں حضرت شاہ صاحب دارالعلوم سے مستعفی ہوئے تو آپ کے سوا جماعت دارالعلوم میں کوئی ایسی شخصیت موجود نہ تھی جو دارالعلوم کی اس مہتمم بالشان جگہ کو اس کے شایان شان پر کر سکے؛ اس لیے اکابر کی نظر انتخاب آپ ہی پر پڑی۔ آپ کے زمانہ صدارت میں طلبہ کی تعداد میں دو گنے سے بھی زیادہ اضافہ ہوا اور خاص طور پر دورہ حدیث کی جماعت میں یہ اضافہ تین گنے سے بھی متجاوز ہو گیا۔ ۱۳۴۶ھ سے ۱۳۷۷ھ تک ۳۲ سال کی مدت میں آپ کے زمانہ صدارت میں ۴۲۸۳ طلبہ نے دورہ حدیث سے فراغت حاصل کی۔

آپ کا درس حدیث مضامین کے تنوع اور جامعیت کے لحاظ سے دنیائے اسلام میں اپنی نوعیت کا واحد درس سمجھا جاتا تھا، چنانچہ اس کی عظمت، شہرت اور کشش سال بسال طلبہ کی تعداد میں اضافے کا موجب ہوتی رہی، حدیث نبویؐ میں آپ کے تلامذہ کا حلقہ بہت وسیع ہے اور برصغیر کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں آپ کے شاگرد موجود نہ ہوں۔ برصغیر کے مدارس میں مسند حدیث پر فائز سربرآوردہ علمائے کرام میں اکثر کو آپ کی شاگردی کا شرف حاصل ہے۔ جس طرح آج دنیائے اسلام میں دارالعلوم کو علوم نبویہ کی تعلیم میں طغرائے امتیاز حاصل ہے اس طرح آپ کا علمی فیض بھی امتیاز خاص رکھتا ہے۔

جہادِ حریت کی قیادت

حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی ہندوستان کی جہادِ آزادی کے صف اول کے قائدین میں سے تھے۔ آپ کو بجا طور پر جانشین شیخ الہند کہا جاتا ہے۔ آپ نے حضرت نانوتویؒ اور حضرت شیخ الہندؒ وغیرہ اکابرین کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے ہندوستان کے آزادی کی تحریک میں بھرپور حصہ لیا اور جمعیتہ علمائے ہند کے پلیٹ فارم سے ہندوستانی مسلمانوں کی سیاسی قیادت کا فریضہ انجام دیا۔

آپ نے ملک کو آزاد کرانے، اس سلسلہ میں قید و بند کی مصیبتیں اٹھانے، قربانیاں دینے اور خلوص و استقامت سے کام کرنے کی ایسی مثال پیش کی جس کی وجہ سے ملت اسلامیہ اس سرزمین پر اعزاز و افتخار کے ساتھ سراونچا کر کے، نام نہاد دعویداروں سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے، اپنے دین و شریعت اور زبان و تہذیب نیز نظام تعلیم میں اپنے تشخص اور اپنی ضرورت کا احساس کرانے کی اہل بن سکی۔ حضرت حاجی امداد اللہ کی دعائے صبح گاہی، حضرت نانوتویؒ کی قلبی کیفیات اور حضرت شیخ الہند کی ملکی و ملی خدمات نے جو نقش قائم کیا ان کو عملی صورت میں آگے بڑھانے کے لیے آپ نے جمعیتہ علمائے ہند کے توسط سے گھر گھر آزادی کا صور پھونکا اور ایک پاک باز اور وفادار مجاہد کی حیثیت سے دینی و ملکی خدمات کا ایک لازوال نقش قائم کیا۔ آپ کی انقلابی فکر و عزیمت اور سیاسی بصیرت کا لوہا مخالفین نے بھی مانا۔ ملک کی تقسیم کے جن مضر اثرات کو آپ نے اپنی تقریروں میں واضح کیا، آج وہ کھل کر سامنے آچکے ہیں۔

ایک جامع شخصیت

حضرت مدنی کی ذات گرامی ایک ایسا جوہر قابل تھی جس میں عالم دین کی عظمت و رفعت، مجاہد کی جرات و عزیمت اور شیخ وقت کی کشش و مقبولیت جیسی ساری صفات محمودہ جمع تھیں۔ حضرت شیخ الاسلام مدنی کی تعلیمی، تربیتی، تصنیفی اور سیاسی خدمات اور کارنامے نصف صدی سے زیادہ عرصہ کو محیط ہیں۔ مدینہ منورہ، مدرسہ عالیہ کلکتہ اور سلہٹ و آسام کے علاوہ صرف دارالعلوم دیوبند میں چار ہزار سے زائد تلامذہ ہیں جنہوں نے آپ کی شمع علم سے اکتساب نور کیا۔ لاکھوں سے زیادہ طالبین حق ہیں جنہوں نے تربیت گاہ مدنی سے تصحیح عقائد، تحسین اخلاق اور تزکیہ باطن کا درس لیا جن میں ڈیڑھ سو سے زیادہ وہ خوش بخت اور جوان ہمت بھی ہیں جو احسان و سلوک کی منزلیں طے کر کے سند اجازت و خلافت سے مشرف ہوئے۔ اصلاح معاشرہ اور تبلیغ دین کے لیے اس وسیع و عریض ملک کے چبے چبے کا دورہ، اسلامی عنوانات پر ہزاروں سے زائد خطبات و تقریریں، علوم اسلامی کی اشاعت کی غرض سے ہزاروں مکاتب دینیہ اور مدارس اسلامیہ کی سرپرستی و نگرانی آپ کی خدمات کا روشن عنوان ہیں۔

استخلاص وطن، اتحاد قومی اور ملت کی سر بلندی کے لیے آپ نے وقت کی سب سے بڑی استعماری طاقت سے محاذ آرائی کی۔ آپ نے سیاست کے بحر مواج میں اپنے سفینہ کی تختہ بندی کی، مگر اس بصیرت کے ساتھ کہ اس کی چھینٹیں آپ کے دامن حیات کو نمناک نہ کر سکیں۔ آپ نے مذہب و سیاست کے جام و سندان کو باہم آمیز کر دیا، مگر اس کمال فراست کے ساتھ کہ دونوں کی نزاکتوں سے ایک لمحہ کے لیے بھی صرف نظر نہیں کیا۔ بسا اوقات پورا دن ٹرین، ٹانگہ اور بیل گاڑیوں کے تکلیف دہ سفر میں گزر جاتا اور رات کا بیشتر حصہ جلسہ، وعظ یا درس میں، لیکن کیا مجال کہ آہ نیم شبی اور آقائے بے نیاز سے عرض و نیاز کے محبوب مشغلہ میں ذرا بھی فرق آجائے۔

پھر ان ہمہ جہت اور مختلف النوع مشاغل کے ساتھ مختلف دینی، علمی، سیاسی اور تاریخی موضوعات پر کتب و رسائل کی تالیف و تصنیف، نیز ہزاروں صفحات پر پھیلے ہوئے ان مکاتیب کی تحریر جن میں تفسیر آیات، تشریح احادیث، تفصیل عقائد، توضیح مسائل فقہیہ، رموز احسان اور تاریخ و سیاست سے متعلق بیش بہا نادر معلومات کا عظیم ذخیرہ جمع کر دیا ہے جس کے بارے میں پورے اعتماد کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ مکتوبات و ملفوظات کی طویل فہرست میں مخدوم شرف الدین بیگی منیری (م ۸۲ھ)، مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی (م ۱۰۳۴ھ) اور شیخ حسام الدین مانک پوری کے مجموعہ مکاتیب کے بعد شیخ الاسلام کے مکتوبات اپنی افادیت، اپنی اثر آفرینی، کثرت معلومات اور جامعیت میں سب پر فوقیت رکھتے ہیں، اور جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ مکتوبات قلم برداشتہ اور بالعموم اسفار یا قید و بند کی حالت میں لکھے گئے ہیں جس سے حضرت شیخ الاسلام کے علمی استحضار و عبقریت کا کسی قدر اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ آپ کی خودنوشت سوانح حیات، نقش حیات، تاریخ آزادی ہند کی مستند دستاویز ہے۔

حضرت مولانا مدنی کی ذات بڑی اخلاقی خوبیوں اور مکارم عادات کا مجموعہ تھی۔ آپ کا حلم و تواضع اور

عاجزی و انکساری مثالی تھا۔ آپ کا دسترخوان نہایت وسیع تھا، عموماً کم از کم دس، پندرہ مہمان آپ کے دسترخوان پر روزانہ موجود رہتے تھے۔

تصنیفات و تالیفات

حضرت مدنی کی تصنیفات کی تعداد کم ہے؛ کیوں کہ مختلف تدریسی، سیاسی اور تبلیغی و اصلاحی مشغولیات کی وجہ سے آپ اس جانب توجہ نہ دے سکے۔ ذیل میں آپ کی کتابوں کی فہرست دی جا رہی ہے:

(۱) مکتوبات شیخ الاسلام (۲) نقش حیات (۳) الشہاب الثاقب (۴) سلاسل طیبہ (۵) اسپر مالٹا (۶) متحدہ قومیت اور اسلام (۷) مودودی دستور کی حقیقت (۸) ایمان و عمل (۹) خطبات صدارت (۱۰) الخلیفۃ المہدی فی الاحادیث الصحیحۃ (۱۱) الحالیۃ التعلیمیۃ فی الہند (عربی ترجمہ از مولانا نور عالم خلیل امینی) (۱۲) بحوث فی الدعوة والفکر الاسلامی (عربی ترجمہ از مولانا نور عالم خلیل امینی) (۱۳) درس بخاری (مرتب مولانا نعمت اللہ اعظمی)

وفات

محرم ۱۳۷۷ھ مطابق ۱۹۵۷ء میں حضرت مولانا مدنی پر مدراس کے سفر میں دل کا دورہ پڑا، دیوبند تشریف لانے پر ڈاکٹروں نے تشخیص کیا کہ قلب کا پھیلاؤ بڑھ گیا ہے۔ مقامی اور بیرونی ڈاکٹروں کا علاج ہوتا رہا، مگر افاقہ نہ ہوا، پھر یونانی علاج شروع کیا گیا، اس سے مرض میں قدرے تخفیف محسوس ہوئی۔ ۱۱/۱۰ جمادی الاول ۱۳۷۷ھ (۲۶/۳ دسمبر ۱۹۵۷ء) کو طبیعت کافی پرسکون رہی، ۱۲ جمادی الاولیٰ (۵ دسمبر) کی صبح کو طبیعت کافی بشاش ہو گئی، کئی دن کے بعد دوپہر کو غذا تناول فرمائی اور پھر لیٹ گئے۔ ۱۳ بجے کے قریب نماز ظہر کے لیے جب بیدار کرنا چاہا تو پتہ چلا کہ حضرت مدنی واصل بحق ہو چکے ہیں۔ ۹ بجے شب میں جنازہ دارالحدیث میں لا کر رکھا گیا، حضرت مولانا محمد زکریا صاحب شیخ الحدیث مظاہر علوم سہارن پور نے نماز جنازہ پڑھائی اور ۱۳/۱۲ جمادی الاولیٰ ۱۳۷۷ھ (۶/۵ دسمبر ۱۹۵۷ء) کی درمیانی شب میں اس خزنینہ علم و معرفت کو سپرد خاک کر دیا گیا۔

شیخ الاسلام حضرت مولانا مدنی کے تفصیلی حالات خود ان کی خودنوشت سوانح نقش حیات، الجمعۃ شیخ الاسلام نمبر، چراغ محمد (قاضی محمد زاہد حسینی)، آثار شیخ الاسلام (مولانا نجم الدین اصلاحی)، انفاس قدسیہ (مفتی عزیز الرحمن بجنوری) وغیرہ میں دیکھے جاسکتے ہیں۔

مآخذ:

- تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم، ص ۲۸۲ تا ۲۸۸، ۲۰۸ تا ۲۱۱
- روزنامہ الجمعۃ دہلی، شیخ الاسلام نمبر، اشاعت دوم ۱۹۹۸ء

حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی

۱۳۰۵-۱۳۶۹ھ / ۱۸۸۷-۱۹۴۹ء

حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی دارالعلوم دیوبند کے مایہ ناز فضلاء اور حضرت شیخ الہند کے معتمد علیہ تلامذہ میں سے تھے۔ ایک عرصہ تک آپ نے دارالعلوم میں تدریسی خدمات انجام دیں اور کچھ برسوں تک صدر مہتمم بھی رہے۔ قیام پاکستان کے بعد پاکستان کی سب سے زیادہ نمایاں شخصیات میں آپ کا شمار ہوتا تھا اور شیخ الاسلام کے لقب سے جانے جاتے تھے۔ پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کے رکن اور شرعی دستور ساز کمیٹی کے صدر بھی تھے۔ آپ غیر معمولی ذہانت و ذکاوت کے حامل تھے۔ علم بڑا مستحضر اور مستفح تھا۔ علوم عقلیہ سے خاص ذوق تھا، منطق و فلسفہ اور علم کلام میں غیر معمولی دسترس تھی۔ آپ حکمتِ قاسمیہ کے بہترین شارح تھے۔ علوم قرآنی اور حدیث میں بھی پید طولی حاصل تھا۔ حضرت شیخ الہند کے ترجمہ قرآن پر آپ کے تفسیری حواشی اور صحیح مسلم کی مشہور عربی شرح فتح الملہم آپ کے علمی کمالات کی آئینہ دار ہے۔

ابتدائی حالات

حضرت مولانا عثمانی ۱۰ محرم ۱۳۰۵ھ / ۲۸ ستمبر ۱۸۸۷ء کو بمقام بجنور پیدا ہوئے۔ آپ حضرت مولانا فضل الرحمن عثمانی دیوبندی کے فرزند رشید تھے۔ حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانی مہتمم دارالعلوم اور حضرت مفتی عزیز الرحمن دیوبندی مفتی اعظم دارالعلوم کے بھائی تھے۔ سات سال کی عمر میں حافظ محمد عظیم دیوبندی کے سامنے بسم اللہ ہوئی۔ فارسی کی کتابیں مولانا محمد یسین صاحب دیوبندی سے پڑھیں۔ ۱۰ ربیع الثانی ۱۳۱۹ھ / ۲۷ جولائی ۱۹۰۱ء کو دارالعلوم دیوبند میں عربی تعلیم کے لیے داخل ہوئے۔ آپ کے عربی کے اساتذہ میں حضرت شیخ الہند، حضرت مولانا غلام رسول ہزاروی، حضرت مولانا حکیم محمد حسن دیوبندی، حضرت مولانا محمد یسین صاحب شیرکوٹی وغیرہ علماء شامل تھے۔ ۱۳۲۵ھ / ۱۹۰۷ء میں سند فراغت حاصل کی۔

فراغت کے بعد مدرسہ فتح پوری دہلی میں صدر مدرس مقرر ہوئے۔ آپ نے دارالعلوم میں ۱۳۲۸ھ / ۱۹۱۰ء سے ۱۳۴۳ھ / ۱۹۲۴ء تک تدریسی خدمات انجام دیں۔ ۱۳۴۶ھ / ۱۹۲۸ء میں جامعہ اسلامیہ ڈابھیل (سورت، گجرات) تشریف لے گئے جہاں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کے انتقال کے بعد ۱۳۵۲ھ / ۱۹۳۳ء میں شیخ الحدیث مقرر ہوئے۔

دارالعلوم میں تدریس اور صدارت اہتمام

۱۳۲۸ھ/۱۹۱۰ء میں دارالعلوم میں تدریس کے لیے آپ کا تقرر ہوا۔ یہاں آپ نے ۱۳۲۳ھ/۱۹۲۴ء تک درجہ علیا کی مختلف کتابیں پڑھائیں۔ آپ کے درس صحیح مسلم کو بڑی مقبولیت و شہرت حاصل تھی۔ دارالعلوم میں ایک عرصہ تک تعلیمی خدمات انجام دینے کے بعد ۱۳۲۶ھ/۱۹۲۸ء میں دارالعلوم انتظامیہ سے بعض اختلافات کے سبب حضرت مولانا علامہ انور شاہ کشمیری اور حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن عثمانی وغیرہ کے ساتھ جامعہ اسلامیہ ڈابھیل (سورت، گجرات) تشریف لے گئے۔

۱۳۵۴ھ/۱۹۳۵ء میں حضرت تھانوی اور بعض دوسرے اکابر کے ارشاد پر دارالعلوم تشریف لائے اور ۱۳۶۲ھ/۱۹۴۴ء تک بہ حیثیت صدر مہتمم خدمات انجام دیتے رہے۔ اس دوران جامعہ اسلامیہ ڈابھیل سے بھی تعلق قائم رہا۔

اوصاف و کمالات

علم و فضل، فہم و فراست اور تدبر و اصابت رائے کے لحاظ سے علامہ عثمانی کا شمار ہندوستان کے چند مخصوص علماء میں ہوتا تھا۔ عجز و انکساری اور بزرگوں کا ادب و احترام آپ کی نمایاں خصوصیت تھی۔ اہل علم کے قدر دان اور خلوص کا مجسمہ تھے اور نہایت صاف شفاف قلب کے مالک تھے۔ غرباء و مساکین سے نہایت شفقت و محبت اور اخلاق کریمانہ کا برتاؤ فرماتے تھے۔ آپ کے ظاہر و باطن میں یکسانیت تھی، اپنے قلبی جذبات کے چھپانے یا ان کے برخلاف اظہار پر قدرت نہ رکھتے تھے۔ اگر کسی سے خوش ہوتے تو ظاہر و باطن سے خوش ہوتے اور اگر کسی سے ناراض ہوتے تو علانیہ اس کا اظہار ان کے چہرہ سے ہو جاتا تھا۔

آپ حالات حاضرہ پر بڑی گہری نظر رکھتے تھے۔ اسی لیے ان کی تحریر و تقریر عوام و خواص دونوں میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھی۔ بڑے بڑے جلسوں میں ان کی فصیح و بلیغ عالمانہ تقریریں اہل ذوق کے لیے باعث کشش ہوا کرتی تھیں۔

مزاج میں زہد و قناعت کا غلبہ تھا۔ آپ کو حیدرآباد دکن کی ریاست نے اپنی عربی درس گاہ مدرسہ نظامیہ کی صدر مدرس کے لیے پانچ سو ماہوار پر بلایا، لیکن آپ نے وہاں جانا قبول نہیں کیا۔ کراچی میں بھی کوئی سرکاری مراعات حاصل نہیں کی۔ انہوں نے پاکستان میں مستقل ہجرت کے باوجود نہ تو اپنا کوئی خاص گھر بنایا اور نہ ہی کسی کوٹھی پر قبضہ کیا، بلکہ بعض عقیدت مند اہل ثروت کے مکان میں رہے اور اسی مسافرت میں اپنی زندگی بسر کر دی۔

سیاسی خدمات

حضرت عثمانی تحریک شیخ الہند میں بھی شریک رہے۔ سیاسیات میں اولاً جمعیتہ علمائے ہند کے ساتھ شریک تھے۔

علامہ عثمانی سالہا سال تک جمعیتہ علمائے ہند کی مجلس عاملہ کے رکن رہے، جمعیتہ کے صفِ اول کے رہنماؤں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اس سے قبل وہ خلافت کمیٹی کے اہم رکن رہ چکے تھے۔ ۱۳۳۳ھ/۱۹۱۴ء میں جنگِ بلقان کے زمانے میں انھوں نے ترکوں کے لیے چندہ جمع کرنے میں بڑی سرگرمی سے حصہ لیا تھا۔

۱۹۲۵ء میں متحدہ قومیت کے مسئلہ پر جمعیتہ علمائے ہند سے اختلاف پیش آیا اور وہ مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ ۱۳۶۵ھ/۱۹۴۶ء میں جمعیتہ علمائے اسلام کی بنیاد ڈالی اور اس کے پہلے صدر منتخب کیے گئے۔ جمعیتہ علمائے اسلام کے ارکان نے تحریک پاکستان میں عملی حصہ لیا اور سرحد و سلہٹ ریفرنڈم میں اہم کردار ادا کیا۔ ۱۹۴۶ء میں جب ہندوستان کی مجلس دستور ساز کا انتخاب ہوا تو آپ بنگال سے مسلم لیگ کی جانب سے اس کے رکن منتخب ہوئے۔ ہندوستان کی تقسیم کے بعد آپ کو مشرقی بنگال کے نمائندے کی حیثیت سے دستور یہ پاکستان کا رکن منتخب کیا گیا۔

۶ اگست ۱۹۴۷ء کو تقسیم ملک سے قبل دیوبند سے 'افتتاحِ پاکستان' کی تقریب میں حصہ لینے کے لیے کراچی روانہ ہوئے۔ ۱۴ اگست ۱۹۴۷ء کو کراچی میں جشنِ آزادی میں شرکت فرمائی اور وہیں مقیم ہو گئے۔

پاکستان میں دستور ساز اسمبلی کی رکنیت کے ساتھ آپ شرعی دستور ساز کمیٹی کے صدر مقرر ہوئے۔ آپ پاکستان میں اس جماعت کے روحِ رواں تھے جو آئین کو اسلامی قالب میں ڈھالنا چاہتی تھی۔ اس راہ میں آپ کی ابتدائی کوششوں کی کامیابی کا وہ نتیجہ تھا جس کو پاکستان کی آئینی اصطلاح میں 'قرارداد مقاصد' کہا جاتا ہے۔

پاکستان کے اقتدارِ اعلیٰ پر آپ کی علمی و سیاسی خدمات کا خاص اثر تھا، خصوصاً عالمانہ اور مفکرانہ حیثیت سے خاص عظمت حاصل تھی۔ آپ کی دینی رہنمائی کے ساتھ سیاسی رہنمائی بھی مسلم سمجھی جاتی تھی۔ حکومت کے نزدیک مذہبی معاملات میں آپ کی حیثیت مشیرِ خاص کی تھی؛ اس لیے زبانِ خلق نے آپ کو شیخ الاسلام کہہ کر پکارا جو اسلامی سلطنتوں میں عموماً قاضی القضاة کا لقب رہا ہے۔

علمی خدمات

علامہ عثمانی زبان و قلم کے یکساں شہسوار تھے۔ اردو زبان کے بلند پایہ ادیب اور بڑی سحر انگیز خطابت کے مالک تھے۔ فصاحت و بلاغت، عام فہم دلائل، پُر اثر تشبیہات و اندازِ بیان اور نکتہ آفرینی کے لحاظ سے ان کی تحریر و تقریر کا اندازِ یگانہ و منفرد تھا۔ اپنی تقریر و تحریر میں قاسمی علوم کو بکثرت بیان فرماتے تھے۔ حضرت شیخ الہند نے اپنی حیات کے آخری دنوں میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کی تاسیس کے وقت جو خطبہ دیا تھا اس کے لکھنے اور جلسہ میں پیش کرنے کا شرف مولانا عثمانی کو ہی حاصل ہوا تھا۔

حضرت شیخ الہند کے ترجمہ قرآن پر آپ کے تفسیری حواشی کو بڑی شہرت حاصل ہے۔ یہ حواشی علامہ کی قرآنِ منہی، تفسیروں پر عبور اور دل نشیں اندازِ بیان پر قدرت کے غماز ہیں۔ ان حواشی کی افادیت ہی ہے کہ ۱۹۰۴ء میں حکومت افغانستان نے اپنے سرکاری مطبع سے قرآنی متن اور ترجمہ شیخ الہند کے ساتھ ان تفسیری حواشی کا فارسی

ترجمہ افغانی مسلمانوں کے لیے شائع کیا۔ خود سعودی حکومت نے مجمع الملک ہمدینہ سے ہزار ہا ہزار کی تعداد میں شائع کرا سے تقسیم کیا۔ ترجمہ شیخ الہند اور تفسیر عثمانی کا پشتو، بنگلہ، ہندی اور دیگر زبانوں میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ علم حدیث میں آپ کی گراں قدر تصنیف فتح الملہم حنفی نقطہ نظر سے صحیح مسلم کی پہلی شرح ہے۔ صحیح مسلم کی شرح لکھنے کا خیال آپ کو جوانی ہی سے تھا۔ حافظ بدرالدین العینی نے صحیح بخاری کی شرح لکھ کر احناف کی طرف سے حق ادا کر دیا تھا، مگر صحیح مسلم کی کوئی شرح حنفی نقطہ نظر سے اب تک نہیں لکھی گئی تھی۔ آخر آپ نے اس سلسلہ میں اپنے دست و بازو کو آزمایا اور فتح الملہم لکھنا شروع کیا جس کا سلسلہ تمام عمر جاری رہا۔ فتح الملہم آپ کا ایسا زندہ جاوید کارنامہ ہے کہ جس نے آپ کے علم و فضل کو تمام عالم اسلام میں روشناس کرایا ہے۔

علم الکلام، العقل والنقل، اعجاز القرآن، حجاب شرعی، الاسلام اور الشہاب لرحم الخاطب المرتاب وغیرہ آپ کی معرکہ الآراء تصانیف ہیں۔ آپ کے متعدد رسائل کا مجموعہ مقالات عثمانی، کے نام سے بھی شائع ہو چکا ہے۔ حضرت علامہ عثمانی کی کوئی صلیبی اولاد نہیں تھی، لیکن انھوں نے لائق و فائق تلامذہ کی ایک کھیپ چھوڑی جن میں زیادہ تر دیوبند اور بعض ڈابھیل میں آپ کے شرف تلمذ سے مشرف ہوئے؛ ان میں یہ نام بہت نمایاں ہیں: مولانا مناظر احسن گیلانی، مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندی، ابوالمآثر مولانا حبیب الرحمن اعظمی، مولانا محمد ادریس کاندھلوی، مولانا محمد یوسف بنوری۔

وفات

۲۱ صفر ۱۳۶۹ھ / ۱۳ دسمبر ۱۹۴۹ء کو بہاول پور (بغداد الحدید) میں چند گھنٹوں کی مختصر علالت کے بعد انتقال فرمایا جہاں آپ وزارت تعلیم کی درخواست پر ریاست بہاول پور کے جامعہ عباسیہ کی اصلاح و ترقی کے سلسلہ میں صلاح و مشورہ کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ جنازہ بہاول پور سے کراچی لایا گیا اور قیام گاہ واقع محمد علی روڈ کے قریب آپ کو سپرد خاک کر دیا گیا۔

مآخذ:

- تاریخ دارالعلوم دیوبند، جلد دوم، ص ۹۸ تا ۱۰۲، ۲۳۹، ۲۴۳ تا ۲۴۴
- دارالعلوم دیوبند کی پچاس مثالی شخصیات، ص ۱۴۵ تا ۱۵۱
- مشاہیر علمائے دیوبند، ۲۰۹ تا ۲۱۴

حضرت مفتی عزیز الرحمن عثمانی دیوبندیؒ

۱۲۷۵-۱۳۳۷ھ / ۱۸۵۸-۱۹۲۸ء

حضرت مفتی عزیز الرحمن عثمانی دیوبندیؒ، دارالعلوم دیوبند کے مفتی اول و مفتی اعظم، نائب مہتمم، ذی استعداد عالم دین اور صاحب نسبت بزرگ تھے۔ آپ نے تدریس کے علاوہ، فتویٰ نویسی کے خدمات انجام دیں اور دارالافتاء دارالعلوم کو علمی و دینی حلقوں میں وقار و اعتبار بخشا۔ مطبوعہ مکمل و مدلل فتاویٰ دارالعلوم دیوبند آپ ہی کے فتاویٰ کا مجموعہ ہے جو مکررات کو حذف کرنے کے بعد اٹھارہ جلدوں میں چھپ چکا ہے۔ آپ علم و عمل، اخلاق و ملکات، معرفت و بصیرت اور فقہت و درایت کی بے مثال شخصیتوں میں سے ایک بلند پایہ شخصیت تھے جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء کو زینت بخشی۔

ابتدائی حالات

حضرت مفتی صاحب کا سال ولادت ۱۲۷۵ھ / ۱۸۵۸ء ہے، تاریخی نام 'ظفر الدین' رکھا گیا۔ آپ کے والد ماجد حضرت مولانا فضل الرحمن عثمانی ہیں جو دارالعلوم کی بنا و قیام میں شریک رہے۔ ۱۲۸۴ھ / ۱۸۶۷ء کے اواخر میں جب دارالعلوم میں درجہ قرآن شریف جاری کیا گیا تو حضرت مفتی صاحب کو درجہ قرآن میں داخل کر دیا گیا۔ شعبان ۱۲۸۵ھ میں انہوں نے نصف قرآن مجید کے حفظ کا امتحان دیا اور ۱۲۸۷ھ میں پورا قرآن شریف حفظ کر لیا۔ اس وقت درجہ قرآن شریف کے استاد حافظ نامدار خاں صاحب تھے۔ ۱۲۹۵ھ / ۱۸۷۸ء میں انہوں نے بخاری شریف و مسلم شریف اور شرح عقاید کا امتحان دے کر دارالعلوم سے فراغت حاصل کی۔ اس وقت حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی، حضرت مولانا سید احمد دہلوی، حضرت شیخ الہند اور مولانا عبدالعلی رحمہم اللہ تعالیٰ دارالعلوم کے نمایاں اساتذہ تھے۔ ۱۲۹۸ھ / ۱۸۸۱ء کے جلسہ دستار بندی میں آپ کو سند و دستار حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ کے دست مبارک سے عطا ہوئی۔

فراغتِ تعلیم کے بعد کچھ عرصے دارالعلوم میں معین المدرس رہے اور اسی کے ساتھ فتویٰ نویسی کی خدمات بھی انجام دیتے رہے۔ پھر آپ کو میرٹھ بھیج دیا گیا، وہاں مدرسہ اسلامیہ اندر کوٹ میں کئی سال تک درس و تدریس میں مصروف رہے۔ ۱۳۰۹ھ میں اکابر دارالعلوم نے نائب مہتمم کے عہدے کے لیے ان کا انتخاب کیا۔ پھر ایک سال کے بعد ان کو مفتی و مدرس دارالعلوم مقرر کیا گیا۔ روداد دارالعلوم (۱۳۳۳ھ) میں لکھا ہے:

”مولوی عزیز الرحمن صاحب نے فراغت کے بعد بطور معین مدرسین دارالعلوم میں درس دیا اور حضرت مولانا یعقوب کی نگرانی میں افتاء کا کام بھی کیا۔ اسی زمانہ میں ان کو داعیہ طریقت پیدا ہوا، خاندان نقشبندیہ میں حضرت مولانا رفیع الدین کے ہاتھوں پر بیعت کی، چند سال ریاضت و مجاہدات کے بعد اجازت حاصل ہوئی۔ چند سال تک میرٹھ کے مدرسہ اسلامیہ واقع اندر کوٹ میں مدرس رہے، اس زمانے میں آپ کو دوبارہ حج کا شوق پیدا ہوا، اس سفر میں آپ کا حج کے ساتھ یہ بھی مقصد تھا کہ شیخ المشائخ حضرت حاجی امداد اللہ قدس سرہ کی خدمت میں قیام فرمائیں۔ چنانچہ ڈیڑھ سال آپ کا اس سفر میں صرف ہوا اور حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے بھی آپ کو مجاز فرمایا۔ شوال ۱۳۰۵ھ میں تشریف لے گئے تھے اور صفر ۱۳۰۷ھ میں واپس تشریف لائے۔ ۱۳۰۹ھ مطابق ۱۸۹۱ء میں آپ کو میرٹھ سے دیوبند بلا لیا گیا، اس وقت سے برابر دارالعلوم کی خدمت میں مصروف رہے۔“

مسند افتاء پر

دارالعلوم نے استفتاءات کی کثرت کی وجہ سے ۱۳۱۰ھ/۱۸۹۲ھ میں دارالافتاء قائم کیا اور فتویٰ نویسی کی خدمات مستقل طور پر حضرت مفتی عزیز الرحمن کو سونپی گئیں۔ مفتی صاحب نے اس فریضہ کو بحسن و خوبی انجام دیا۔ حضرت مفتی صاحب بڑے اہم اور معرکہ الآرا استفتاءات کا جواب قلم برداشتہ اور مراجعت و کتب کے بغیر بلا تکلف تحریر فرمادیا کرتے تھے۔ چالیس سال کے قریب آپ نے دارالعلوم کے دارالافتاء کی خدمات جلیلہ انجام دیں۔ اس دور میں بے شمار ایسے مشکل فتاویٰ بھی لکھے جو نہ صرف فتویٰ بلکہ معرکہ الآرا مہمات میں محاکمہ کی حیثیت رکھتے ہیں، مگر صرف چند لفظوں میں ان کا جواب تحریر فرمادیتے تھے۔ سفر میں دارالافتاء کی ڈاک ساتھ رہتی تھی، مراجعت کتب کے بغیر محض حذاقت و مہارت اور کمال استعداد سے بے تکلف فتاویٰ تحریر فرماتے رہتے تھے۔ نصوص فقہ اکثر و بیشتر حفظ یاد رہتی تھیں۔ آپ کے فتاویٰ کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ عام فہم بھی ہوتے تھے۔ فتاویٰ کی زبان سہل اور سلیس ہوتی تھی، یہ ایسی خصوصیت ہے جو اس دور کے فتاویٰ میں اور کہیں نہیں پائی جاتی۔ فتاویٰ نویسی میں حضرت مفتی صاحب کی ایک بڑی خصوصیت یہ بھی تھی کہ وہ زمانے کے تقاضوں سے کبھی صرف نظر نہیں کرتے تھے۔ اس پر ان کی نظر بہت گہری پڑتی تھی اور کسی مسئلہ کے دو مختلف مفتی بہ پہلو ہوتے تو ایسے موقع پر وہ آسان پہلو کو اختیار کرتے اور اسی پر فتویٰ دیتے تھے، ایسی صورت ہرگز اختیار نہیں کرتے جو عوام کے لیے مشکلات پیدا کرنے والی ہو، ان کے فتاویٰ میں جا بجا اس کی مثالیں موجود ہیں۔ آپ کے فتاویٰ کی یہ خصوصیت بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ آپ کے فتاویٰ ہندو بیرون ہند میں مسلمانوں کے معاملات و عبادات و اعتقادات میں فیصلہ کن سمجھے جاتے ہیں۔

فتویٰ نویسی علوم شرعیہ میں بڑا مشکل کام ہے، اس کام میں حالات کے بدلنے سے جس قدر نزاکتیں

پیدا ہو جاتی ہیں ان کو صرف اہل علم ہی سمجھ سکتے ہیں۔ یوں تو فتاویٰ ہر زمانے میں لکھے گئے ہیں۔ مگر فتاویٰ نویسی کا جو کمال حضرت مفتی صاحب کو حاصل تھا، وہ کم ہی دوسروں میں نظر آتا ہے۔ ۱۸۹۲ھ/۱۳۱۰ھ سے ۱۳۲۹ھ/۱۹۱۱ء تک حضرت مفتی صاحب نے جو فتاویٰ تحریر فرمائے ہیں افسوس ہے کہ ان کا ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ ۱۳۳۰ھ/۱۹۱۲ء سے ۱۳۴۶ھ/۱۹۲۷ء تک کے فتاویٰ کی تعداد بیالیس ہزار سے زائد ہے۔ مذکورہ بالا تعداد صرف وہ ہے جس کا ریکارڈ محفوظ ہے۔ حضرت مولانا محمد طیب صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند کے ایک سرسری اندازے کے مطابق حضرت مفتی صاحب کے فتاویٰ کی تعداد ایک لاکھ اٹھارہ ہزار کے لگ بھگ ہے۔ ان کا یہ زبردست کارنامہ عظیم الشان دینی خدمت ہے۔ ۱۳۳۳ھ سے ۱۳۴۶ھ تک کے فتاویٰ کو فتاویٰ دارالعلوم دیوبند کے عنوان سے اٹھارہ جلدوں میں فقہی ترتیب کے لحاظ سے مرتب کر کر دارالعلوم کی جانب سے شائع کیا جا چکا ہے۔

اخلاق و اوصاف

حضرت مفتی صاحب صرف عالم اور مفتی ہی نہیں تھے بلکہ عارف باللہ اور صاحب باطن بزرگ تھے۔ بیعت و ارشاد کا سلسلہ بھی مستقلاً قائم تھا اور ہزار ہا بندگان خدا اطراف ہندوستان سے آپ کی باطنی تلقین و تربیت سے فیضیاب ہو کر مراد کو پہنچے۔ علم و فضل کے ساتھ تواضع و کسر نفسی آپ کا خاص رنگ تھا، جو چھوٹی چھوٹی جزئیات تک میں نمایاں ہوتا تھا۔ روزانہ کا معمول تھا کہ بعد نماز عصر محلہ کے آس پاس کے گھروں کے دروازوں پر جا کر پوچھتے کہ بازار سے کسی کو کچھ سودا منگانا ہو تو بتلا دے۔ حضرت مفتی صاحب سب کے پیسے لے لیتے اور بازار جا کر ایک ایک کا فرمائشی سودا خریدتے، کسی کا نمک، کسی کی مرچ، کسی کا دھنیا؛ اور یہ سب سامان رومال کے الگ الگ کونوں میں باندھ کر خود ہی لاتے۔ یہ کبھی گوارا نہ کرتے کہ اس بوجھ کو کوئی دوسرا اٹھائے، خود ہی یہ سامان اپنے کندھوں پر لادتے، بعض اوقات بوجھ سے دہرے ہو جاتے تھے، مگر کسی حالت میں گوارا نہ تھا کہ اسے دوسرے کے حوالے فرما کر کچھ ہلکے ہو جائیں۔ پھر خود ہی گھر گھر جا کر یہ اشیاء فرمائش کنندوں کے سپرد فرماتے۔ بے نفسی اور خدمت خلق کے اس عمل میں ان کو کبھی تصور بھی نہ ہوتا تھا کہ میں کوئی خدمت کر رہا ہوں یا کوئی بڑا عمل ہے جو میرے ہاتھوں انجام پارہا ہے، یا میں کسر نفسی کا کوئی عظیم کارنامہ انجام دے رہا ہوں۔

ان عملی مجاہدات کے ساتھ درس کی علمی باریکیاں مستزاد تھیں۔ افتاء کے ساتھ درس کا شغل مستقل رہتا تھا۔ فقہ، حدیث اور تفسیر کے اونچے اسباق آپ کے یہاں ہوتے تھے۔ بڑی بڑی اہم تحقیقات جو آپ کے ذہن رسا کی پیداوار ہوتی تھیں کبھی بھی اپنی طرف منسوب کر کے دعوے کا انداز اختیار نہیں کرتے بلکہ بطور احتمال ارشاد فرماتے اور تقریر کے ضمن میں کہتے کہ اس مسئلہ میں ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے، حالاں کہ وہ ان کی تحقیق ہوتی تھی مگر کبھی بھی یوں نہیں فرماتے کہ اس مسئلے میں میری رائے اور تحقیق یہ ہے۔ غور کیا جائے تو یہ مقام اس علمی خدمت اور عملی بے نفسی کے مقام سے بھی زیادہ بلند اور نازک تر ہے جہاں تک پہنچنا ہر کسی کا حوصلہ نہیں۔ علمی دقات خود اپنا

ذہن پیش کرے اور اس ذہن کو کبھی بھی آگے نہ لایا جائے، بے نفسی اور فنا کا یہ نہایت ہی اونچا مقام ہے اور اسی کو میسر آ سکتا ہے جس کے رگ و پے میں تواضع اور کسر نفسی سماگئی ہو۔

۱۳۴۶ھ/۱۹۲۷ء میں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری صاحبؒ کے ساتھ حضرت مفتی صاحبؒ بھی دارالعلوم سے مستعفی ہو گئے تھے۔ ۱۳۴۷ھ/۱۹۲۸ء میں حضرت شاہ صاحبؒ علالت کے باعث جب دیوبند تشریف لائے تو بخاری شریف کے چودہ پارے باقی تھے۔ جامعہ اسلامیہ ڈابھیل کے ذمہ داروں کے اصرار پر حضرت مفتی صاحبؒ ہی ربیع الثانی ۱۳۴۷ھ میں ڈابھیل تشریف لے گئے اور بخاری شریف کا درس شروع کر دیا اور صرف ڈیڑھ ماہ کی قلیل مدت میں بخاری شریف کے باقی ماندہ چودہ پارے ختم کر دیے۔

وفات

جمادی الثانیہ ۱۳۴۷ھ/۱۹۲۸ء کے اوائل میں آپ دیوبند تشریف لائے۔ راستہ میں طبیعت علیل ہو گئی، دیوبند پہنچنے پر علاج شروع ہوا مگر افاقہ نہ ہو سکا، وقت موعود آچکا تھا، بالآخر ۱۳۴۷ھ مطابق ۳۰ نومبر ۱۹۲۸ء کی شب میں داعی اجل کو لبیک کہا۔ اگلے دن حضرت مفتی صاحبؒ کی جنازے کی نماز ہوئی اور دارالعلوم کے قبرستان میں سپرد خاک کیے گئے۔

ماخذ:

● تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم، ص ۲۸۵ تا ۲۸۶، ۲۵۱ تا ۲۵۲

حضرت مولانا اعزاز علی امر وہویؒ

۱۳۰۰-۱۳۷۲ھ/۱۸۸۲-۱۹۵۵ء

حضرت مولانا اعزاز علی صاحب امر وہویؒ، دارالعلوم دیوبند کے نہایت ممتاز فضلا میں سے تھے۔ شیخ الادب والفقہ کے لقب سے شہرت پائی۔ عربی زبان و ادب کا خاص ذوق رکھتے تھے اور متعدد عربی کتب و حواشی تحریر فرمائے۔ دارالافتاء دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی، استاذ حدیث اور نائب ناظم تعلیمات رہے۔ آپ نے اپنی علمی و انتظامی صلاحیتوں سے دارالعلوم کی بے انتہا خدمت فرمائی۔

ابتدائی حالات

یکم محرم ۱۳۰۰ھ/۱۰ نومبر ۱۸۸۲ء کو بدایوں میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد جناب محمد مزاج علی صاحب امر وہہ کے رہنے والے تھے اور ان دنوں ملازمت کے سلسلہ میں بدایوں مقیم تھے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم شاہجہاں پور میں ہوئی جہاں آپ کے والد ٹرانسفر ہو گئے تھے۔ وہیں حفظ قرآن کی تکمیل کی۔ پھر تلمذ ضلع سیتاپور کے مدرسہ گلشن فیض کے صدر مدرس مولانا مقصود علی خان صاحب شاہجہاں پوری سے شرح جامی تک کی کتابیں پڑھیں اور پھر شاہجہاں پور کے مدرسہ عین العلم میں مولانا بشیر احمد صاحب اور حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب سے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد میرٹھ کے مدرسہ قومی میں داخلہ لے کر مولانا عبدالمومن دیوبندی اور مولانا عاشق الہی میرٹھی سے کچھ کتابیں پڑھیں۔ پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے۔ یہاں ہدایہ، ابوداؤد، ترمذی اور بخاری حضرت شیخ الہند سے، فنون کی کتابیں حضرت مولانا غلام رسول ہزاروی اور حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب وغیرہ سے پڑھیں۔

۱۳۲۱ھ/۱۹۰۳ء میں دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد حضرت شیخ الہند کے حکم سے مدرسہ نعمانیہ پورینی ضلع بھاگلپور (بہار) تشریف لے گئے اور تقریباً سات سال اس علاقہ میں درس دیتے رہے۔ پھر آپ شاہجہاں پور تشریف لائے اور ایک مسجد میں افضل المدارس کے نام سے مدرسہ قائم کیا جس میں تقریباً تین سال آپ نے نہایت کامیابی کے ساتھ درس دیا۔

دارالعلوم میں

۱۳۳۰ھ/۱۹۱۲ء میں آپ کا تقرر دارالعلوم دیوبند میں بحیثیت مدرس ہوا اور پہلے سال آپ کو عربی کی ابتدائی

کتابیں علم الصیغہ اور نور الایضاح وغیرہ پڑھانے کے لیے دی گئیں۔ دارالعلوم کی روداد میں آپ کی نسبت لکھا ہے: ”مولوی اعزاز صاحب طبقہ وسطیٰ و آخریٰ کے درمیانی فارغ التحصیل حضرات میں سے ہیں۔ چند جگہ مدرس رہے۔ آپ ایک نوجوان با استعداد اور صاحب صلاح و تقویٰ عالم ہیں، صورت و سیرۃ اپنے سلف کی یادگار ہیں۔ علوم میں استعداد تام رکھتے ہیں، خصوصاً علم ادب میں خاص مہارت ہے، ابھی آپ نے حماسہ کا تحشیہ کیا ہے اور کنز الدقائق کا تحشیہ کر رہے ہیں، اس سے پہلے دیوان متنبی کا تحشیہ کر چکے ہیں۔ آپ دارالعلوم کے درجہ وسطیٰ میں درس دیتے ہیں، علم ادب کے اکثر اسباق آپ کے پاس رہتے ہیں، طلبہ کو عربی تحریر کی مشق بھی کراتے ہیں، خوش تقریر ہیں، طلبا آپ سے نہایت مانوس ہیں۔“

۱۳۴۰ھ/۱۹۲۱ء میں جب حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب کارِ ریاست حیدرآباد کے مفتی اعظم کے عہدہ پر انتخاب عمل میں آیا تو اپنی ضعیف العمری کی وجہ سے حضرت مولانا اعزاز علی صاحب کو اپنی معیت میں لے گئے، وہاں ایک سال قیام رہا۔ حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب کے ساتھ ہی آپ دیوبند تشریف لائے۔

۱۳۴۷ھ/۱۹۲۸ء میں مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب کے بعد صدر مفتی دارالعلوم دیوبند کا عہدہ سونپا گیا جس پر آپ ۱۳۴۸ھ/۱۹۲۹ء تک فائز رہے۔ دوسری مرتبہ ۱۳۶۳ھ/۱۹۴۵ء میں آپ کو افتاء کا منصب تفویض کیا گیا جس پر ۱۳۶۶ھ/۱۹۴۷ء تک فائز رہے۔ آپ کے دورِ صدارت میں کل ۲۴۸۵۵ فتاویٰ لکھے گئے۔

انتظامی امور میں بھی آپ کی قابلیت مسلم تھی اور وقتاً فوقتاً ادارہ اہتمام کے ذریعہ آپ کی انتظامی صلاحیتوں سے استفادہ کیا جاتا تھا۔ حضرت شیخ الاسلام کے عہدِ صدارت میں ۱۳۵۷ھ میں نائب ناظم تعلیمات بنائے گئے اور (درمیان میں ۱۳۶۴ھ تا ۱۳۶۷ھ کے علاوہ) تاحیات اس عہدہ پر قائم رہے۔ دارالاقامہ کی ذمہ داریاں بھی آپ سے متعلق رہیں۔ غرض آپ ایک بے نظیر استاذ، منتظم، ببحر عالم دین اور جامع شخصیت تھے۔ دارالعلوم میں آپ کی علمی و انتظامی خدمات کا دور چوالیس برس تک ممتد رہا۔

فقہ و ادب آپ کا خاص فن تھا، جس کی مہارت مشہور زمانہ ہے۔ آپ جب شروع میں دارالعلوم دیوبند تشریف لائے تو عربی کی ابتدائی کتابیں علم الصیغہ اور نور الایضاح وغیرہ آپ کو دی گئیں، مگر آپ کے درس نے بالآخر وہ مقبولیت حاصل کی کہ ”شیخ الادب والفقہ“ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ عمر کے آخری دور میں کئی سال ترمذی جلد ثانی اور تفسیر کی بلند پایہ کتابیں پڑھائیں۔ حضرت مولانا مدنی کی عدم موجودگی میں متعدد مرتبہ بخاری شریف کے پڑھانے کا بھی ان کو اتفاق پیش آیا۔ تعلیم کے ساتھ طلبہ کی تربیت اور نگرانی کا ان میں خاص ذوق تھا، جس سے طلبہ کو بے انتہا فائدہ پہنچا۔ آپ کی پابندی اوقات ضرب المثل تھی اور اوقات درس کی پابندی میں اپنی نظیر آپ تھے، یہاں تک کہ بعض اساتذہ دارالعلوم نے درس میں وقت کی پابندی کا سبق حضرت شیخ الادب ہی سے سیکھا۔ تدریس کے ابتدائی دور سے آخر عمر تک منٹوں اور سکنڈوں تک کی پابندی فرماتے رہے۔

بے نفسی اور تواضع میں اپنی مثال آپ تھے۔ بڑی سے بڑی کتابوں کے درس کے ساتھ چھوٹی سے چھوٹی

کتاب پڑھانے میں کبھی آپ کو عار نہ ہوا تھا، ترمذی و بخاری کے درس کے ساتھ بچوں کو میزان الصرف، علم الصیغہ، نور الایضاح وغیرہ بھی پڑھاتے تھے۔ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب طالب علم وہ ہوتا تھا جو یکسوئی کے ساتھ پڑھنے لکھنے میں لگا رہے اور سب سے زیادہ مبغوض وہ ہوتا تھا جو غیر تعلیمی مشاغل میں لگ کر پڑھنے میں تساہل کرے، خواہ وہ خود ان کی اولاد کیوں نہ ہو۔

تصنیفات و تالیفات

حضرت شیخ الادبؒ کو جس طرح عربی نظم و نثر پر قدرت حاصل تھی، اسی طرح وہ اردو نظم و نثر میں بھی کامل دستگاہ رکھے تھے۔ اردو نثر میں ان کا ایک خاص انداز تھا۔ آپ بہت اچھا شعری ذوق رکھتے تھے۔ آپ کے عربی زبان کے متعدد قصائد دارالعلوم کے ترجمان ماہنامہ القاسم میں شائع ہوتے رہے۔ آپ نے عربی و فارسی میں متعدد کتب و حواشی تحریر فرمائے، نیز اردو میں بعض کتابوں کا ترجمہ بھی فرمایا، جن کی تفصیل درج ذیل ہے:

(۱) عربی ادب میں نفیہ الیمن کے معیار کے مطابق 'نفیہ العرب' کے نام سے ایک کتاب مرتب فرمائی تھی، جس میں حکایات و قصص اور اخلاقی مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ یہ کتاب عربی مدارس کے نصاب میں داخل کی گئی۔ (۲) شرح دیوان حماسہ (۳) حاشیہ دیوان منتمی (۴) حاشیہ کنز الدقائق (۵) حاشیہ فارسی نور الایضاح (۶) حاشیہ عربی نور الایضاح (۷) حاشیہ عربی قدوری (۸) محمود الروایہ حاشیہ شرح الفقہ المصنوع لملا علی قاری (۹) حاشیہ شمائل ترمذی (۱۰) حاشیہ تلخیص المفتاح (۱۱) حاشیہ عروض المفتاح (۱۲) قصیدہ لامیہ مولانا حبیب الرحمن عثمانی کا ترجمہ (۱۳) علامہ ابن حجر کلبی کی کتاب الزواجر کا اردو ترجمہ (۱۴) مفید الطالبین وغیرہ

وفات

۱۴ رجب ۱۳۷۴ھ / ۸ مارچ ۱۹۵۵ء کو اس دارِ فانی سے رحلت فرمائی اور قبرستان قاسمی دیوبند میں مدفون ہوئے۔

مآخذ:

- تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم، ص ۹۳ تا ۹۶، ۲۵۱ تا ۲۵۴
- مشاہیر علمائے دیوبند، اول، ۹۱ تا ۹۳
- فہرست کتب اکابر، کتب خانہ دارالعلوم دیوبند
- نقشہ اسباق، دارالعلوم دیوبند

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندیؒ

۱۳۱۴-۱۳۹۶ھ/۱۸۹۶-۱۹۷۶ء

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندیؒ، دارالعلوم دیوبند کے ممتاز عالم و مفتی تھے۔ قوی الاستعداد اور استحضار علم کے ساتھ فقہ و ادب میں خاص امتیاز رکھتے تھے۔ آپ دیوبند کے زمانہ قیام میں دارالافتاء کی مسند افتاء پر کئی سال فائز رہے۔ قیام پاکستان کے بعد دستور ساز اسمبلی کے بورڈ آف تعلیمات اسلام کے رکن کی حیثیت سے اسلامی دستور کی ترتیب میں بھی حصہ لیا اور بعد میں مفتی اعظم پاکستان کے لقب سے مشہور ہوئے۔ پاکستان کی سب سے بڑی اسلامی درس گاہ دارالعلوم کراچی کا قیام آپ ہی کی کوششوں کا مرہون منت ہے۔

۱۳۱۴ھ/۱۸۹۶ء میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد مولانا محمد یاسین صاحب دیوبندی، دارالعلوم دیوبند میں فارسی کے مسلم استاذ اور حضرت گنگوہیؒ کے متوسلین میں تھے۔ اصلاً دیوبند کے رہنے والے تھے۔ حضرت گنگوہیؒ نے ہی آپ کا محمد شفیع نام تجویز فرمایا۔ دارالعلوم میں تعلیم کی تکمیل کی اور ۱۳۳۶ھ/۱۹۱۸ء میں ۲۲ سال کی عمر میں فراغت پائی۔

دارالعلوم دیوبند میں

تعلیم سے فراغت کے بعد ۱۳۳۷ھ/۱۹۱۹ء میں ہی دارالعلوم کے اساتذہ اور ذمہ داروں نے آپ کے علم و استعداد پر اعتماد کرتے ہوئے آپ کو دارالعلوم کے ابتدائی درجے کا مدرس مقرر کیا۔ پھر آپ اپنی علمی قابلیت و لیاقت کی وجہ سے بہت جلد تدریسی ترقی کی منزلیں طے کر کے طبقہ علیا کے اساتذہ میں شامل ہو گئے۔ فقہ و ادب سے شروع ہی سے مناسبت تھی۔

۱۳۵۰ھ/۱۹۳۲ء کو منصب افتا پر فائز ہوئے اور آپ کے کمال استعداد کی بنا پر آپ کو دارالعلوم کا صدر مفتی بنا دیا گیا۔ یہ سب آپ کی لیاقت اور قوت علمی کے آثار تھے۔ آپ دو بار اس عہدہ سے سرفراز ہوئے؛ پہلی مرتبہ ۱۳۵۰ھ/۱۹۳۱ء سے ۱۳۵۴ھ/۱۹۳۵ء تک اور دوسری مرتبہ ۱۳۵۹ھ/۱۹۴۰ء سے ۱۳۶۱ھ/۱۹۴۲ء تک۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحبؒ کے زمانے میں ۲۶ ہزار کے قریب فتاویٰ لکھے گئے۔ فتویٰ نویسی کے علاوہ دارالعلوم میں درجہ علیا کی کتابوں کی تدریس بھی آپ سے متعلق رہی۔

ابتداء میں حضرت شیخ الہندؒ سے بیعت ہوئے۔ حضرت شیخ الہندؒ کی وفات کے بعد حکیم الامت حضرت مولانا تھانویؒ سے رجوع کیا۔ حضرت تھانویؒ کو مفتی صاحب کے علم و فضل پر بڑا اعتماد تھا۔ حضرت تھانویؒ نے

آپ کو اجازت و خلافت سے بھی سرفراز فرمایا۔ آپ تعلیم ظاہر کے ساتھ تعلیم باطن میں بھی کمال کو پہنچے؛ اسی لیے آپ کے متوسلین اور عقیدت مند بکثرت موجود ہیں۔ ساری عمر دینی علوم کی تدریس و تصنیف کے ساتھ افاضہ باطنی میں بھی مصروف رہے۔

پاکستان میں

تقسیم ملک کے بعد آپ نے پاکستان کی قومیت اختیار کی اور ۱۳۶۸ھ/۱۹۴۹ء میں دیوبند سے ہجرت فرما کر پاکستان تشریف لے گئے۔ مملکت پاکستان کی اسلامی شناخت کے قیام و ترقی میں تاعمر کوشاں رہے۔ پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کے بورڈ آف تعلیمات اسلام کے رکن کی حیثیت سے اسلامی دستور کی ترتیب میں آپ کا تعاون لیا گیا۔ ۱۹۵۱ء میں کراچی میں دارالعلوم کے نام سے ایک دینی مدرسہ قائم کیا، جو اس وقت علوم اسلامیہ کا عظیم مرکز ہے۔ آپ نے افتاء و فقہ پر جتنا کام تنہا انجام دیا ہے وہ درحقیقت ایک جماعت کا کام تھا۔ آپ کی انہی خدمات کے باعث پاکستان میں آپ کو مفتی اعظم پاکستان کا لقب دیا گیا جو یقیناً آپ کے شایان شان تھا۔ حضرت مفتی صاحب پاکستان میں مسلک دیوبند کے عظیم داعی اور ترجمان تھے، دارالعلوم کے ایک قیمتی جوہر اور عظیم فرزند تھے۔ مفتی صاحب اپنی ذاتی خوبیوں اور لیاقتوں کی بنا پر سارے ہی طبقہ اہل علم کے معتمد تھے۔

حضرت مفتی صاحب کا علمی فیض

آپ کے سیکڑوں تلامذہ برصغیر کے علاوہ مختلف ممالک میں دینی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ مفتی صاحب کا علم وسیع اور گہرا تھا۔ تقریباً تمام متداول دینی علوم میں عمدہ صلاحیت کے مالک تھے اور بہت سی دینی کتابوں کے مصنف ہیں۔ آپ کو تصنیف کا ذوق ابتدا سے تھا۔ تفسیر، حدیث، فقہ اور مناظرے میں نہایت مفید تصانیف کا ذخیرہ آپ کے قلم سے نکلا اور خواص و عوام کے لیے نہایت مفید ثابت ہوا۔ شعر و شاعری کا ذوق بھی زمانہ طالب علمی سے تھا۔ عربی، فارسی اور اردو میں نہایت عمدہ قصائد، مراثی اور واقعاتی نظمیں لکھی ہیں جن کا مجموعہ شائع ہو چکا ہے۔ آخری دور میں تفسیر معارف القرآن لکھی جو علم تفسیر میں آپ کا عظیم الشان کارنامہ ہے۔ اگر آپ صرف ایک یہی خدمت انجام دیتے تو ان کی عظمت و رفعت اور عند اللہ مقبولیت کے لیے کافی تھی۔

حضرت مفتی محمد شفیع صاحب کی چھوٹی بڑی تصانیف کی تعداد ڈیڑھ سو سے زائد ہے جن میں اہم کتابوں کے نام یہ ہیں: (۱) تفسیر معارف القرآن آٹھ جلدوں میں (۲) امداد المقتبین آٹھ اجزاء میں (۳) جواہر الفقہ سات جلدوں میں (۴) احکام القرآن مولفہ حضرت مولانا ظفر عثمانی میں بھی تعاون کیا۔ (۵) آلات جدیدہ کے شرعی احکام (۶) اسلام کا نظام اراضی (۷) قرآن میں نظام زکوٰۃ (۸) احکام حج (۹) مسئلہ سود (۱۰) تنقیح المقال فی تصحیح الاستقبال (۱۱) الارشاد الی بعض احکام الالحاد (۱۲) مقادیر شرعیہ در اوزان ہندیہ (۱۳) عائلی قوانین پر مختصر تبصرہ

(۱۴) ختم النبوة فی القرآن (۱۴) ختم النبوة فی الحدیث (۱۵) ہدیۃ المہدیین فی آیت خاتم النبیین (۱۶) سیرت خاتم الانبیاء (۱۷) آداب المساجد (۱۸) آداب النبی صلی اللہ علیہ وسلم (۱۹) نجات المسلمین (۲۰) مقام صحابہ (۲۱) دستور قرآنی (۲۲) چند عظیم شخصیات (۲۳) فتوح الہند وغیرہ

آپ کی ایک بڑی علمی یادگار دارالعلوم کورنگی کراچی ہے۔ اس ادارہ نے بہت ہی قلیل عرصہ میں عالم اسلام میں دین کے مضبوط قلعہ کی شکل اختیار کر لی اور دیکھتے ہی دیکھتے طالبان علوم نبوت اور داعیان حق کا مرکز بن گیا۔ دارالعلوم کراچی اپنے وسیع رقبہ، شعبہ جات اور کارکردگیوں کے پیش نظر صحیح معنوں میں ایک بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی بن چکا ہے۔ اس ادارہ نے اب تک ہزاروں علماء و فضلاء، محدثین و مفسرین، فقہاء و ادباء اور مبلغین اسلام پیدا کیے ہیں۔

حضرت مفتی محمد شفیع صاحب کی ایک بڑی خوش نصیبی آپ کے لائق و فائق اور عالم و فاضل فرزند ان گرامی ہیں جنہوں نے آپ کی علمی وراثت کو نہ صرف یہ کہ جاری رکھا بلکہ اس میں مزید چار چاند لگا دیے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی، دارالعلوم کراچی کے مہتمم اور مختلف کتابوں کے مصنف ہیں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب عالم اسلام کے ممتاز عالم دین، قدیم و جدید علوم کے ماہر، اسلامی اقتصادیات پر سند اور درجنوں کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کے علاوہ دیگر صاحبزادے بھی بہترین عالم و فاضل ہوئے ہیں۔

وفات

حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے ۱۱ شوال ۱۳۹۶ھ / ۶ اکتوبر ۱۹۷۶ء کی شب میں داعی اجل کو لبیک کہا۔

مآخذ:

- تاریخ دارالعلوم دیوبند، جلد دوم، ۱۳۰ تا ۱۳۱
- اکابر علمائے دیوبند، حافظ اکبر شاہ بخاری، ص ۲۰۸ تا ۲۱۳
- فہرست کتب اکابر، کتب خانہ دارالعلوم دیوبند

دورثانی کے اہم اراکین مجلس شوریٰ

حضرت مولانا احمد حسن امر وہویؒ

حضرت مولانا سید احمد حسن امر وہویؒ، دارالعلوم کے ممتاز فاضل اور عظیم محدث تھے۔ حضرت نانوتویؒ کے معروف شاگردوں میں تھے اور انھیں حضرت نانوتویؒ کے علوم کا امین کہا جاتا تھا۔ ۱۳۱۳ھ/۱۸۹۵ء سے تا عمر دارالعلوم کی مجلس شوریٰ کے رکن رہے۔

امروہہ کے مشہور خاندان سادات رضویہ سے تعلق تھا۔ ۱۲۶۷ھ/۱۸۵۱ء میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم امر وہہ کے بلند پایہ علماء مولانا سیدرافت علی، مولانا کریم بخش اور مولانا محمد حسین جعفری صاحبان سے حاصل کی۔ طب کی کتابیں امر وہہ کے مشہور طبیب حکیم امجد علی خان سے پڑھیں۔ بعد ازاں، حضرت نانوتویؒ کی خدمت میں رہ کر علم حدیث اور دوسرے علوم و فنون کی تکمیل کر کے ۱۲۹۴ھ/۱۸۷۷ء میں فراغت حاصل کی۔ حضرت مولانا احمد علی محدث سہارن پوری اور مولانا عبدالقیوم بھوپالی سے بھی اجازت حدیث حاصل کی۔ آخر میں مدینہ منورہ حاضر ہو کر حضرت شاہ عبدالغنی مجددی دہلویؒ سے بھی سند حدیث حاصل کرنے کا شرف پایا۔ شیخ المشائخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکیؒ سے بیعت و اجازت بھی حاصل تھی۔

فراغت کے بعد اولاً خورجہ ضلع بلند شہر کے مدرسہ میں درس دیا۔ پھر سنبھل اور دہلی کے مختلف مدارس میں صدر مدرس رہے۔ مراد آباد میں مدرسہ شاہی قائم ہوا تو اس کے صدر مدرس بنائے گئے۔

۱۳۰۳ھ/۱۸۸۵ء میں مدرسہ شاہی سے مستعفی ہو کر اپنے وطن امر وہہ کی جامع مسجد میں ایک پرانے مدرسہ کی تشکیل جدید کی۔ یہ مدرسہ پہلے معمولی حالت میں تھا، آپ نے اس کو باقاعدہ طور پر قائم کر کے اس میں جملہ علوم و فنون کی تعلیم جاری کی۔ آپ کی شخصیت کی بنا پر بہت جلد دور و نزدیک کے طلبہ سے مدرسہ معمور ہو گیا۔ غرض مدرسہ کو ہر طرح کی ظاہری و باطنی ترقیات سے ہمکنار کرتے ہوئے امر وہہ کی قدیم دور کی علمی روایات کو از سر نو زندہ کیا۔

حضرت مولانا امر وہویؒ کی تقریر نہایت جامع، شستہ اور پر مغز ہوتی تھی جس سے طلبہ کا دامن گلہائے مقصود سے بھر جاتا تھا۔ تقریر میں وہ اپنے استاذ کا مکمل نمونہ تھے اور اپنی مخصوص صلاحیتوں کے لحاظ سے علوم قاسمی کے امین اور مجسم تصویر تھے۔ علوم قاسمی کی ترویج میں عمر بھر مشغول رہے۔ ان کا علمی فیضان دور و دور تک پہنچا اور سیکڑوں طالبان علم ان کے درس سے فاضل ہو کر نکلے۔

پوری عمر درس و تدریس، وعظ و پند، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں گزاری۔ علم کا وقار اور دین کی عظمت

کو قائم رکھنے کے لیے نہایت خودداری کے ساتھ رہتے تھے۔

ان کے مضامین کا مجموعہ 'افادات احمدیہ' کے نام سے شائع ہوا ہے۔ ۱۳۲۹ھ / ۱۹۱۱ء میں مؤتمر الانصار کا پہلا جلسہ مرادآباد میں آپ ہی کی صدارت میں منعقد ہوا۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نے حضرت مولانا امر و ہوی کی جامعیت کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے:

”ہر شخص جس کو کچھ بھی تجربہ ہو یہ جانتا ہے کہ دنیا میں بہت کم علماء ایسے ہوئے ہیں جن کو علمی شعبوں کی ہر شاخ میں پوری دست گاہ حاصل ہو۔ مثلاً جن حضرات کو وعظ کہنے میں ملکہ ہوتا ہے وہ تدریس میں پورے قادر نہیں ہوتے، جو تدریس کے کام میں مشغول ہوتے ہیں ان کو کسی مجمع میں وعظ یا تقریر کرنا مشکل ہوتا ہے۔ دینیات میں انہماک رکھنے والے اکثر معقول و فلسفہ سے نا آشنا ہوتے ہیں اور معقولات کے ماہرین کو علومِ دینیہ سے بے خبری ہوتی ہے۔ لیکن قدرت نے اپنی فیاضی سے ہمارے مولانا میں یہ سب اوصاف اعلیٰ طور پر جمع کر دیے ہیں۔ مولانا کی تقریر، تحریر، تبحر، اخلاق اور علوم عقلیہ و نقلیہ میں کامل دستگاہ ضرب المثل تھی۔ اور سب سے زیادہ قابل قدر اور ممتاز کمال مولانا کا یہ تھا کہ حضرت قاسم العلوم والخیرات کے دقیق اور عاوض علوم کو ان ہی کے لب و لہجہ اور طرز ادا میں صفائی اور سلاست کے ساتھ بیان فرماتے تھے۔“ (مجلد القاسم، ربیع الثانی ۱۳۳۰ھ)

۲۸-۲۹ ربیع الاول ۱۳۳۰ھ / ۱۷ مارچ ۱۹۱۲ء کو درمیانی شب میں بمرض طاعون انتقال ہوا اور جامع مسجد کے صحن کے جنوبی گوشے میں دفن کیے گئے۔

مآخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، جلد دوم، ص ۳۹ تا ۴۲؛ دارالعلوم کی صد سالہ زندگی، ص ۱۰۲

حضرت مولانا عبدالحق پور قاضوی

دارالعلوم کے اولین فضلاء میں تھے اور مجلس شوری کے اہم رکن تھے۔ علمائے سلف کا نمونہ تھے۔ حضرت مولانا عبداللطیف ناظم مظاہر علوم سہارن پور آپ کے داماد تھے، آپ نے اپنی لڑکی کی رخصتی کے وقت کچھ نصیحتیں قلم بند کر کے جہیز میں دی تھیں۔ حضرت تھانوی نے بعد میں اس تحریر کو طلب کر کے 'بہترین جہیز' کے نام سے اپنی مشہور کتاب بہشتی زیور میں شائع کر دیا۔

قصبہ پور قاضی ضلع مظفرنگر وطن تھا، تقریباً ۱۲۵۸ھ / ۱۸۴۲ء میں پیدا ہوئے۔ ۱۲۸۳ھ میں دارالعلوم میں داخل ہوئے اور ۱۲۸۶ھ میں فراغت حاصل کی۔ ۱۲۹۰ھ میں دستار بندی کے سب سے پہلے جلسہ میں ان کو حضرت شیخ الہند اور دیگر علمائے اکابر کے ساتھ دستار فضیلت باندھی گئی۔

محرم ۱۳۰۵ھ / ۱۸۸۷ء سے رجب ۱۳۰۶ھ / ۱۸۸۹ء تک جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مرادآباد میں صدر المدرسین رہے۔ پھر ریاست رتلام میں اکاؤنٹینٹ جنرل مقرر ہوئے اور اسی عہدہ پر پینشن یاب ہوئے۔ والی ریاست کی نظر میں ہمیشہ معتمد رہے۔ مولانا عبدالحق صاحب ۱۳۱۳ھ / ۱۸۹۵ء سے تاعمر دارالعلوم دیوبند کی مجلس

شوری کے رکن بھی رہے۔

آپ کی وفات ۸ صفر ۱۳۴۲ھ / ۲۰ ستمبر ۱۹۲۳ء کو تلام میں ہوئی۔

مآخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، جلد دوم، ص ۲۷، ۲۸؛ کاروانِ رفتہ، مولانا سیرادروی، ص ۱۵۵

حضرت مولانا قاضی محی الدین مراد آبادیؒ

حضرت نانوتویؒ کے مخصوص تلامذہ اور جلیل القدر علماء میں تھے۔ آپ عرصہ دراز تک ریاست بھوپال میں قضاء کے عہدہ پر فائز رہے اور نہایت وقار و حشمت کی زندگی گزاری۔

۱۳۱۳ھ / ۱۸۹۵ء میں مجلس شوری دارالعلوم دیوبند کے رکن بنائے گئے اور تا عمر اس مجلس شوری کو اپنے مفید مشوروں سے مستفید فرماتے رہے۔ مدرسہ شاہی مراد آباد کے عہدہ اہتمام پر بھی فائز ہوئے۔

آپ کے والد ماجد نواب شبیر علی خان صاحب مغل حکمراں بہادر شاہ ظفر کے مصاحبین خاص میں تھے۔ حضرت نانوتویؒ سے ان کو ارادت حاصل تھی۔ حضرت نانوتویؒ نے شامی کے معرکے میں انہی کے ذریعہ بہادر شاہ ظفر کو اپنی تجاویز پہنچائی تھیں۔

ذوالحجہ ۱۳۴۷ھ / جون ۱۹۲۹ء میں انتقال ہوا۔

مآخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، جلد دوم، ص ۲۷

قاسم العلوم حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ، مولانا نور الحسن راشد کاندھلوی، ص ۳۰۲ تا

۳۰۳

حضرت مولانا حکیم جمیل الدین ننگینویؒ

دہلی کے مشہور اطباء میں سے تھے۔ ایک عرصہ تک دارالعلوم کی مجلس شوری کے رکن بھی رہے۔ مطب کے مشغلہ کے ساتھ اور ادو وظائف کے بڑے پابند اور ذاکر و شاعری بزرگ تھے۔ علم نہایت راسخ اور پختہ تھا۔

نگینہ ضلع بجنور وطن تھا۔ دارالعلوم دیوبند میں ۱۲۹۸ھ / ۱۸۸۱ء سے ۱۲۹۹ھ / ۱۸۸۲ء تک تعلیم حاصل کی۔

ابتداء میں غازی پور میں قیام رہا۔ حضرت مولانا محمد ابراہیم بلیاویؒ کے استاذ تھے۔ حکیم صاحب کچھ عرصہ جون پور کے مدرسہ میں مدرس رہے۔ آخر میں دہلی کو وطن بنا لیا تھا۔

علوم دینیہ کے ساتھ طب میں بھی بڑی دستگاہ رکھتے تھے۔ حکیم عبدالحمید خان دہلوی سے طب پڑھی تھی۔ حکیم محمد اجمل خاں بھی ان کے سلسلہ تلمذ میں شامل تھے۔ دینیات اور طب کی تعلیم کا سلسلہ مدت العمر جاری رہا۔

۱۸ صفر ۱۳۵۵ھ / ۱۰ مئی ۱۹۳۶ء کی شب میں نماز تہجد سے فراغت کے بعد داعی اجل کو لبیک کہا۔

دہلی میں صدیقی دواخانہ ان کی یادگار ہے جو ان کے فرزند رشید مولانا حکیم عبدالجلیل صاحب کی نگرانی

میں جاری رہا۔

ماخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، جلد دوم، ص ۵۶۵ تا ۵۶۷

حضرت مولانا حکیم محمد اسحاق کٹھوریؒ

کٹھور ضلع میرٹھ کے خاندان سادات سے تھے۔ ۱۲۸۱ھ/۱۸۶۲ء میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم میرٹھ میں اپنے چچا مولانا کفایت علی سے حاصل کی، پھر مدرسہ عالیہ فتح پوری میں پڑھا۔ بعد ازاں امر وہہ میں حضرت مولانا احمد حسن امر وہویؒ کے سامنے زانوئے تلمذتہ کیا۔ آخر میں دارالعلوم دیوبند میں داخل ہو کر ۱۳۰۸ھ/۱۸۹۱ء میں علوم سے فراغت حاصل کی۔ حضرت شیخ الہندؒ کے دورِ صدارت کے اولین تلامذہ میں سے تھے۔

طب کی تعلیم حکیم عبدالجید خاں دہلوی اور حکیم عبدالعزیز خاں لکھنوی سے حاصل کی۔ شروع میں کچھ مدت تک کٹھور میں ان کا مطب رہا، پھر میرٹھ شہر منتقل ہو گیا۔ مطب کے ساتھ طب کی تدریس کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ بہت سے لوگوں نے ان سے طب پڑھی۔ نبض کے موضوع پر انہوں نے فارسی میں ایک ضخیم کتاب بھی لکھی جو طبع نہ ہو سکی۔ اپنے وطن کٹھور میں عید گاہ اور جامع مسجد کی تعمیر کرائی۔ میرٹھ شہر میں بھی ایک نہایت خوشنما سنگین مسجد بنوائی۔ میرٹھ کے اطراف میں عقد بیوگاں کو رواج دینے میں حکیم صاحب کی جدوجہد کا بڑا حصہ ہے۔ ملی اور سیاسی کاموں میں بھی شریک رہتے تھے۔ جمعیتہ علمائے ہند سے گہرا تعلق تھا۔

۱۳۲۷ھ/۱۹۰۹ء میں جب دارالعلوم کے لیے غلہ فراہمی کی تجویز طے ہوئی تو سب سے پہلے حکیم صاحب نے اس پر لبیک کہا اور کٹھور و اطراف سے غلہ فراہم کرنے پر توجہ دی۔ دارالعلوم کے معاملات میں فکر و تدبر اور بہی خواہی کا ایک خاص مقام رکھتے تھے۔

۱۳۴۴ھ/۱۹۲۵ء میں دارالعلوم کی مجلس شوریٰ کے رکن بنائے گئے اور تا عمر دارالعلوم کو اپنے مفید مشوروں اور تعاون سے نوازتے رہے۔

صاحب نسبت اور پابند اوقات بزرگ تھے۔ بڑے خوش اخلاق، خندہ جبیں اور متواضع شخصیت کے مالک تھے۔ حضرت گنگوہیؒ سے خلافت حاصل تھی۔

۱۳۷۴ھ/۱۹۵۴ء میں وفات پائی اور اپنے وطن مالوف میں مدفون ہوئے۔

ماخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم، ۷۱ تا ۷۲

دورثانی کے مشاہیر اساتذہ

حضرت مولانا حکیم محمد حسن دیوبندیؒ

شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندیؒ کے چھوٹے بھائی تھے اور حضرت گنگوہیؒ کے خاص اصحاب و خدام میں تھے۔

شروع سے آخر تک دارالعلوم میں پڑھا اور ۱۲۹۵ھ/۱۸۷۸ء میں فارغ التحصیل ہوئے۔ دہلی میں حکیم عبد المجید خان صاحب سے طب کی تعلیم حاصل کی۔

۱۳۰۲ھ/۱۸۸۵ء میں مدرس عربی اور طبیب کی حیثیت سے تقرر ہوا اور تعلیم و مطب کا کام تفویض ہوا۔ طلبہ دارالعلوم کو طب کی تعلیم کے ساتھ طلبہ کے علاج و معالجہ کا کام بھی سپرد تھا۔ اسی کے ساتھ تفسیر و حدیث اور فقہ کی اعلیٰ کتابوں کا بھی درس دیتے تھے۔

دارالعلوم میں ۴۳ سال تک تدریسی و طبی خدمات انجام دینے کے بعد ۱۵ ربیع الاول ۱۳۳۵ھ/ ستمبر ۱۹۲۶ء میں انتقال ہوا اور قبرستان قاسمی میں مدفون ہوئے۔

ماخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، جلد دوم، ص ۲۸ تا ۲۹

حضرت مولانا غلام رسول ہزارویؒ

علوم نقلیہ و عقلیہ کے حافظ اور جامع العلوم تھے۔ طبقہ علماء میں ان کی بڑی منزلت تھی۔ آپ کے تلامذہ میں حضرت کشمیری، حضرت مدنی، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی جیسے بڑے بڑے نامور علماء شامل ہیں۔

مولانا غلام رسول بن جناب عبدالرزاق صاحب ۱۸۵۴ء میں پیدا ہوئے۔ بفقہ ہزارہ (موجودہ پاکستان) کے رہنے والے تھے۔ ابتدائی تعلیم وطن میں پائی۔ ۱۳۰۳ھ/۱۸۸۵ء میں دارالعلوم سے دورہ حدیث پڑھ کر سند فراغت حاصل کی۔

۱۳۰۷ھ/۱۸۸۹ء میں دارالعلوم میں مدرس مقرر ہوئے اور ۱۳۳۳ھ/۱۹۱۸ء تک اعلیٰ تدریسی خدمات انجام دیں۔ طلبہ بڑے شوق سے ان کے درس میں شامل ہوتے تھے۔ ان کی غیر معمولی مقبولیت اور شہرت کے باعث مختلف مقامات سے ان کو گراں قدر مشاہروں پر طلب کیا گیا، مگر ان کو دارالعلوم سے اتنا تعلق تھا کہ اس کو کسی قیمت پر چھوڑنے کے لیے آمادہ نہ ہوئے۔

زندگی نہایت سادہ تھی۔ تیس سال تک دارالعلوم میں تدریسی خدمات انجام دیں۔
 ۱۸ محرم الحرام ۱۳۳۷ھ / ۲۳ اکتوبر ۱۹۱۸ء کو دارالعلوم میں وفات پائی۔ حضرت شیخ الہندؒ اس وقت مالٹا میں
 اسیر تھے، انھوں نے ان کی رحلت پر ایک طویل اور پرورد مرثیہ لکھا ہے جو کلیات شیخ الہند میں شائع ہو چکا ہے۔ اس
 نظم کے چند اشعار میں ان کی علمی و روحانی زندگی کا خلاصہ آ گیا ہے، شعر یہ ہے:

غلامِ رسول اوستاؤ افاضل کہ چشمِ جہاں مثل او دید کم تر
 گزاری یوں ہی مرحبا عمر ساری کہ دن مدرسہ میں، تو مسجد میں شب بھر
 مأخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم، ص ۶۱-۶۲؛ مشاہیر علماء دیوبند، ص ۳۷۶-۳۸۰

حضرت مولانا مرتضیٰ حسن چاند پوریؒ

ملک کے مشہور عالم دین اور بے باک مناظر تھے۔ دارالعلوم دیوبند میں ایک عرصہ تک ناظم تعلیمات اور ناظم
 تبلیغ رہے۔

چاند پور ضلع بجنور کے رہنے والے تھے، لگ بھگ ۱۲۸۵ھ / ۱۸۶۸ء سن پیدائش ہے۔ ۱۲۹۷ھ / ۱۸۸۰ء میں
 دارالعلوم میں داخل ہوئے اور ۱۳۰۴ھ / ۱۸۸۷ء میں دارالعلوم سے فارغ التحصیل ہوئے۔ حضرت مولانا محمد یعقوب
 نانوتویؒ کے ارشد تلامذہ میں تھے۔ حضرت گنگوہیؒ سے بھی گنگوہ جا کر حدیث پڑھی۔ فن معقولات سے خاص دلچسپی
 کے پیش نظر کانپور میں مولانا احمد حسن صاحب سے معقولات کی اعلیٰ کتابیں پڑھیں۔

حضرت مولانا چاند پوریؒ فراغت کے بعد سب سے پہلے مدرسہ امدادیہ درجہ تشریف لے گئے اور وہاں
 ایک عرصہ تک صدر مدرس رہے۔ اس دوران آپ نے آریہ سماج کے رد میں کئی رسائل لکھے اور بابورام چندر سے
 تاریخی مناظرہ کیا۔

دارالعلوم میں اولاً ۱۳۱۹-۱۳۲۲ھ (۱۹۰۱-۱۹۰۴ء) اور ثانیاً ۱۳۲۷-۱۳۳۱ھ (۱۹۰۹-۱۹۱۳ء) کے دوران
 تدریسی خدمات انجام دیں۔ پھر بالآخر ۱۳۳۹ھ / ۱۹۲۰ء میں اکابر کی نظر انتخاب نے اس کو ہرنایاب کو دارالعلوم
 کے لیے منتخب کر کے اولاً نظامتِ تعلیم کا شعبہ ان کے سپرد کیا۔ لیکن بعد میں تبلیغی اسفار کی کثرت کے پیش نظر میں ان
 کو شعبہ تبلیغ کی نظامت تفویض کی گئی۔ تبلیغ کے ساتھ ساتھ دارالعلوم میں درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری رہا۔

نہایت ذکی اور طباع تھے۔ مزاج میں ظرافت تھی۔ ان کے وعظ و تقریر کی بڑی شہرت تھی اور مناظرے میں تو
 ان کا پایہ بہت ہی بلند تھا۔ بدعات اور قادیانیت کے رد میں انھیں بڑا شغف تھا۔ ایک زمانے میں ان کی خطابت اور
 وعظ و تقریر سے ملک کا گوشہ گوشہ گونجنے لگا ہے۔

حضرت مولانا رفیع الدین دیوبندیؒ سے شرفِ بیعت حاصل تھا۔ آخر عمر میں حضرت تھانویؒ سے رجوع کیا

اور مجاز بیعت ہوئے۔

مطالعہ کتب کے ساتھ جو کتابیں خصوصاً نوادروں و مخطوطات جمع کرنے کا بڑا شوق تھا، چنانچہ ایک بڑا کتب خانہ جو تقریباً آٹھ ہزار قیمتی مخطوطات و مطبوعات پر مشتمل تھا، یادگار چھوڑا۔ کتب خانے کو ان کے صاحبزادہ نے دارالعلوم منتقل کر دیا ہے۔

مناظرے کے فن میں ان کی بہت سی کتابیں چھپ چکی ہیں جو اپنے موضوعات پر قابل قدر مباحث سے معمور ہیں۔ رد بدعت، رد قادیانیت اور رد آریہ میں انھوں نے درجنوں رسائل و کتب لکھیں جن میں کچھ کے نام درج ذیل ہیں:

- (۱) اشد العذاب علی مسیمة البنجاب (۲) صاعقہ آسمانی بر مذہب قادیانی (۳) فتح قادیانی کا مکمل نقشہ (۴) سبیل السداد فی مسئلۃ الاستمداد (۵) کفر و ایمان کی کسوٹی (۶) الطین اللآزب علی الاسود الکاذب (۷) توضیح البیان فی حفظ الایمان (۸) رد التکفیر علی الفحاش الشظیر (۹) الطامة الکبریٰ علی من کذب و توٹی (۱۰) کوب الیمانین علی الجعلان و الخراطین (۱۱) تزکیۃ الخواطر عما اُلقی فی اُمدیۃ الاکابر (۱۲) الحساب المدرار فی توضیح اقوال الاخیار (۱۳) تحقیق الکف والایمان بآیات القرآن (۱۴) لعنت کا طوق (۱۵) التعلل المعکوس (۱۶) الختم علی لسان الخصم (۱۷) توضیح المراد لمن تحب فی الاستمداد (۱۸) نار الغصافی جوارح الرضا (۱۹) بیس المہادلین مختلف المیعاد (۲۰) السہیل علی الجحیل (۲۱) قطع الوطنین ممن تقول علی الصالحین (۲۲) تحذیر الابرار عن مناکحہ الفجار (۲۳) اول السبعین علی الواحد من اثلاثین (۲۴) الابطال لاستدلال الدجال (۲۵) القسورہ علی الحجر المستقرہ (۲۶) الحساب المدرار فی توضیح اقوال الاخیار (۲۷) رد تناخ وغیرہ۔

رمضان ۱۳۵۰ھ / ۱۹۳۱ء میں دارالعلوم سے سبک دوش ہو کر وطن مالوف چاند پور میں قیام فرمایا اور وہیں ۲۱ ربیع الآخر ۱۳۷۱ھ / ۲۱ دسمبر ۱۹۵۱ء میں وفات پائی۔

ماخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم، ص ۶۳ تا ۶۴؛ دارالعلوم دیوبند کی صد سالہ زندگی، ص ۱۱۰ تا ۱۱۹؛ فہرست

کتب اکابر، کتب خانہ دارالعلوم دیوبند؛ اکابر علمائے دیوبند، حافظ اکبر شاہ بخاری، ص ۱۲۴

حضرت مولانا مفتی محمد سہول بھاگلپوریؒ

حضرت مولانا مفتی محمد سہول صاحب بھاگل پوریؒ، دارالعلوم دیوبند کے قدیم فضلاء میں سے ہیں۔ دارالعلوم میں صدر مفتی کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ مجلس شوریٰ دارالعلوم کے رکن بھی رہے اور متعدد مدارس میں بڑے عہدوں پر فائز ہوئے۔

پورنی ضلع بھاگلپور (بہار) آپ کا وطن تھا۔ ۱۲۸۷ھ / ۱۸۷۰ء میں پیدائش ہوئی۔ ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی۔ پھر شہر بھاگلپور میں مولانا شاہباز کی خانقاہ واقع ملاچک میں مولانا اشرف عالم کے حلقہ درس میں شامل ہو گئے۔ وہاں سے کان پور پہنچے اور مدرسہ جامع العلوم میں حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ اور مولانا محمد اسحاق

صاحب بردوانی سے تعلیم حاصل کی۔ پھر مدرسہ فیض عام میں رہ کر مولانا محمد فاروق چریا کوٹی، مولانا احمد حسن کانپوری اور مولانا نور محمد پنجابی سے تحصیل علم کی۔ کانپور سے طلب علم کا شوق ان کو حیدرآباد لے گیا۔ حیدرآباد کا سفر پیدل دو ماہ میں پورا کیا، حیدرآباد کے دوران قیام میں حضرت مفتی لطف اللہ علی گڑھی اور مولانا عبدالوہاب بہاری سے منطق، فلسفہ ہیئت، ادب اور اصول فقہ کی تحصیل کی۔ حیدرآباد سے دہلی پہنچ کر مولانا سید نذیر موگیبری صاحب کے درس میں شریک ہوئے۔

آخر میں دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا اور حضرت شیخ الہندؒ سے ۱۳۱۸ھ/۱۹۰۰ء میں حدیث کی تکمیل کی۔ دراز قد اور وجہیہ تھے۔ جب دیوبند آتے اور اپنے استاذ حضرت شیخ الہندؒ کی خدمت میں حاضری دیتے تو حضرت اٹھ کر معانقہ فرماتے، چوں کہ حضرت پستہ قد تھے اس لیے مزاحاً فرماتے: ”بھائی مولوی سہول آگئے، معانقہ کے لیے سیڑھی لگانی پڑے گی۔“ بے حد رقیق القلب تھے، صحابہ عظام اور اسلاف کرام کا ذکر آتا تو ان کی آنکھیں اشک بار ہو جاتیں اور بات کرنا مشکل ہو جاتا۔ حضرت شیخ الہندؒ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے اور انھیں سے خلافت حاصل کی۔

فراغت کے بعد ۱۳۲۲ھ/۱۹۰۶ء میں دارالعلوم میں ہی تدریسی خدمات انجام دیں۔ ۱۳۲۸ھ/۱۹۱۰ء تک یہیں مدرس رہے، پھر مدرسہ عزیز یہ بہار شریف، مدرسہ عالیہ کلکتہ، مدرسہ عالیہ سلہٹ میں صدر مدرس اور شیخ الحدیث رہے۔ ۱۹۲۰ء میں پٹنہ کے مدرسہ عالیہ شمس الہدیٰ میں پرنسپل مقرر ہوئے۔ ۱۳۵۰ھ/۱۹۳۱ء سے ۱۳۶۲ھ/۱۹۴۳ء تک دارالعلوم کی مجلس شوریٰ کے رکن رہے۔ غرض کہ ۲۶ برس تک یوپی، بہار، بنگال اور آسام کے بڑے بڑے مدارس میں تدریسی و انتظامی خدمات انجام دیتے رہے۔

حضرت مولانا محمد سہول صاحبؒ نے ۱۳۵۵ھ/۱۹۳۶ء سے ۱۳۵۷ھ/۱۹۳۸ء تک تقریباً تین سال دارالافتاء میں صدر مفتی کے فرائض انجام دیئے۔ آپ کے زمانے میں ۱۵۱۸۵ فتاویٰ دارالافتاء سے روانہ کیے گئے۔

۱۳۶۷ھ/۲۳ مئی ۱۹۴۸ء کو اپنے وطن پورنی میں وفات پائی اور وہیں مدفون ہوئے۔

ماخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، جلد دوم، ص ۲۵۶

حضرت مولانا نبیہ حسن دیوبندیؒ

دیوبند کے رہنے والے تھے۔ ۱۲۹۶ھ/۱۸۷۹ء کے لگ بھگ پیدا ہوئے۔ ۱۳۲۷ھ/۱۹۰۹ء میں حضرت شیخ الہندؒ سے دورہ حدیث کی تکمیل کی اور اسی سال دارالعلوم میں مدرس مقرر ہوئے۔ پوری زندگی دارالعلوم میں درس و تدریس میں گزاری۔ تفسیر و حدیث کے علاوہ علم ہیئت و فنون کی کتابیں آپ سے متعلق تھیں۔ ہزاروں فضلاء دیوبند نے آپ سے علمی استفادہ کیا۔

۱۳۵۱ھ/۱۹۳۳ء میں انتقال ہوا۔

ماخذ: دارالعلوم دیوبند کی صد سالہ زندگی، ص ۱۱۰؛ دارالعلوم اور دیوبند کی تاریخی شخصیات، مولانا خورشید حسن

قاسمی، ص ۳۲

حضرت مولانا عبدالمسیح دیوبندیؒ

دارالعلوم دیوبند کے مایہ ناز استاذ اور یگانہ روزگار عالم تھے۔
 ۱۲۹۵ھ/۱۸۷۸ء میں دیوبند میں پیدا ہوئے۔ چراغ محمد تاریخی نام تھا۔ شروع سے آخر تک دارالعلوم میں ہی تعلیم پائی اور ۱۳۱۸ھ/۱۹۰۰ء میں فراغت حاصل کی۔
 فتح گڑھ ضلع فرخ آباد میں کئی سال تک مدرس رہے۔ پھر مدرسہ اسلامیہ رڈ کی ضلع سہارن پور اور مدرسہ عالیہ مسجد فتح پوری میں مدرس مقرر ہوئے۔ ۱۳۲۸ھ/۱۹۱۰ء کے اواخر میں دارالعلوم کے ابتدائی درجات کی تعلیم کے لیے مامور کیے گئے۔ انھوں نے ابتدائی درجات سے لے کر دورہ حدیث کی کتابوں تک دارالعلوم میں درس و تدریس کی خدمات ۳۸ سال تک بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دیں۔ ان کے مشکاۃ المصابیح اور مختصر المعانی کے اسباق بڑی شہرت رکھتے تھے۔ طلبہ ان کے درس اور انداز بیان کو بہت پسند کرتے تھے۔ طلبہ پر بے حد شفیق تھے۔
 ان کا وعظ بھی بہت مؤثر اور پسندیدہ ہوتا تھا۔ مناظرہ کے فن میں بھی ان کو خوب درک تھا۔ فتنہ قادیانیت کے خلاف ابتدائی کام کرنے والوں میں ان کا نام بھی اہمیت سے لیا جاتا ہے۔ قادیانیوں سے مناظرہ بھی کیا اور ایک درجن کے قریب رسائل بھی تحریر کیے۔ تحریر پر ان کو اچھی قدرت حاصل تھی۔ بستان الحدیث مصنفہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا روض الریاحین کے نام سے اردو میں سلیس اور شستہ ترجمہ کیا ہے جو ۱۳۳۴ھ/۱۹۱۵ء میں مطبع قاسمی دیوبند سے طبع ہوئی۔ بعد میں ان کے فرزند حضرت مولانا عبدالاحد دیوبندیؒ بھی دارالعلوم کے طبقہ علیاء کے مدرس رہے۔

۱۱/صفر ۱۳۶۶ھ/۴/جنوری ۱۹۴۷ء کو دیوبند میں وفات پائی۔

ماخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم، ص ۸۷ تا ۸۷

حضرت مولانا سید اصغر حسین دیوبندیؒ

بلند مرتبہ عالم دین، ممتاز مدرس اور اپنے وقت کے بڑے بافیض بزرگ تھے۔
 ۱۲۹۴ھ/۱۸۷۷ء میں دیوبند میں پیدا ہوئے۔ دیوبند میں ان کا خاندان تقدس و بزرگی میں مسلم اور ممتاز رہا ہے۔ والد بزرگوار شاہ محمد حسن (وفات ۱۳۱۲ھ/۱۸۹۴ء) سے قرآن شریف اور فارسی میں گلستان تک پڑھ کر دارالعلوم میں داخل ہوئے اور ۱۳۱۰ھ/۱۸۹۲ء میں فارسی کی تکمیل کے بعد عربی شروع کی اور ۱۳۲۰ھ/۱۹۰۲ء تک دارالعلوم میں ان کا تعلیمی مشغلہ جاری رہا۔ حضرت شیخ الہندؒ سے حدیث کی تکمیل کی۔
 تعلیم سے فراغت کے بعد ۱۳۲۱ھ/۱۹۰۴ء کے اواخر میں حضرت شیخ الہندؒ نے جون پور کی اٹالہ مسجد کے مدرسہ کی صدر مدرس کے لیے ان کا انتخاب کیا جہاں سات سال تک تشنگان علوم دینیہ اور مسلمانان جون پور کو اپنے

علوم ظاہری و باطنی سے سرفراز فرماتے رہے۔

۱۳۳۰ھ/۱۹۱۲ء میں جب ارباب دارالعلوم نے ماہنامہ 'القاسم' کو دارالعلوم سے جاری کرنے کا فیصلہ کیا تو آپ کو جون پور سے بلا کر القاسم کے کام پر مامور کیا گیا۔ اسی کے ساتھ مختلف کتابوں کے اسباق بھی ان کے سپرد کیے گئے۔ ان کے درس میں عموماً تفسیر، حدیث اور فقہ کی کتابیں رہتی تھیں۔

حضرت مولانا میاں سید اصغر حسین صاحب کو علوم دینیہ حدیث، تفسیر، فقہ اور فرائض وغیرہ میں اعلیٰ درجہ کی لیاقت و استعداد حاصل تھی۔ علوم قرآن و حدیث کے بہت بڑے ماہر اور جملہ علوم و فنون کے کامل محقق تھے۔ آپ کا ابو داؤد شریف کا درس بہت مشہور تھا۔ درس نہایت مختصر مگر جامع ہوتا تھا۔ درسی تقریر ایسی ہوتی تھی کہ حدیث کا مفہوم دل میں اتر جائے اور تمام شبہات خود بہ خود کا فور ہو جائیں۔

علم و فضل، زہد و تقویٰ، نیکی اور پرہیزگاری میں ان کی ذات مرجع خلأق تھی۔ نہایت متواضع، منکسر المزاج اور خوش اخلاق تھے۔ اتباع سنت کے مجسم پیکر اور حق و صداقت کے علم بردار تھے۔ کم گوئی اور سادگی و انکساری آپ کی بڑی صفت تھی اور پابندی اوقات میں آپ کی ذات ضرب المثل کا درجہ رکھتی تھی۔

علم و عمل میں جامعیت کے ساتھ حضرت میاں صاحب کو تعویذات کے فن میں مہارت تامہ حاصل تھی، مسلمانوں کے علاوہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ان کے تعویذات سے فیض حاصل کرتے تھے۔ اس سلسلہ میں ان کی خدمات کا دائرہ بہت وسیع تھا۔

حضرت میاں صاحب کو اپنے بزرگ ماموں حضرت شاہ عبداللہ میاں جی منے شاہ اور شیخ المشائخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی سے اجازت و خلافت حاصل تھی۔

حضرت میاں صاحب نے دیوبند میں دارالمسافرین کے نام سے ایک مسافر خانہ کی تعمیر کرائی اور اپنے خاندانی مکتب کو جو ان کے والد کی وفات کے بعد بند ہو گیا تھا، دوبارہ جاری کیا۔ اب یہ مدرسہ اصغر یہ کے نام سے ایک بڑی تعلیم گاہ میں تبدیل ہو گیا ہے اور حفظ و قرأت کی ممتاز درس گاہ ہے۔

آپ صاحب تصانیف بھی ہیں۔ اردو زبان میں فقہ و فرائض اور تاریخ وغیرہ کے موضوعات پر ان کی چھوٹی بڑی تقریباً ۳۶ کتابیں شائع ہوئیں جن میں فن فرائض میں 'مفید الوارثین' نہایت جامع اور اہم کتاب ہے۔ اسی طرح احادیث میں موجود حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فتاویٰ کو جمع کر کے اس کی شرح لکھی جو فتاویٰ محمدی مع شرح دیوبندی کے نام سے شائع ہوئی۔ حضرت شیخ الہند کی سوانح حیات 'شیخ الہند' بھی لکھی۔

۱۳۶۳ھ/۱۹۴۴ء کے اواخر میں اپنے متوسلین کی دعوت پر گجرات تشریف لے گئے۔ راندر میں قیام تھا کہ اچانک حرکت قلب بند ہو گئی اور ۲۲ محرم ۱۳۶۴ھ/۸ جنوری ۱۹۴۵ء کو بروز دوشنبہ داعی اجل کو لبیک کہا اور وہیں دفن ہوئے۔

ماخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم، ص ۹۰-۹۱؛ دارالعلوم دیوبند کی صد سالہ زندگی، ص ۱۱۱؛

دارالعلوم دیوبند کی پچاس مثالی شخصیات، ص ۱۴۰-۱۴۱

حضرت مولانا رسول خان ہزارویؒ

دارالعلوم دیوبند کے ممتاز اساتذہ میں تھے۔ معقولات کے ساتھ منقولات میں بھی کامل دستگاہ رکھتے تھے۔ عمر عزیز کے تقریباً ۷۰ سال درس و تدریس میں گزارے۔ سیکڑوں مشاہیر علماء نے آپ سے استفادہ کیا۔ ۱۲۸۸ھ/۱۸۷۱ء میں اچھڑیاں ضلع ہزارہ (موجودہ پاکستان) میں صواتی پٹھان خاندان میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے وطن ضلع ہزارہ کے مدارس میں حاصل کی۔ ۱۳۲۰ھ/۱۹۰۲ء میں دارالعلوم میں داخلہ لیا۔ منطق و فلسفہ میں حضرت مولانا غلام رسول خان ہزاروی سے خاص طور سے استفادہ کیا۔ ۱۳۲۳ھ/۱۹۰۵ء میں دارالعلوم دیوبند سے سند فراغت حاصل کی۔ دارالعلوم سے فراغت کے بعد مدرسہ امداد الاسلام میرٹھ میں صدر مدرس مقرر ہوئے۔ ۱۳۳۳ھ/۱۹۱۵ء میں انھیں دارالعلوم میں مدرس بنایا گیا۔ یہاں ۱۳۵۳ھ/۱۹۳۴ء تک منطق و فلسفہ کے علاوہ دوسرے علوم اور حدیث کا درس دیتے رہے۔ پھر لاہور چلے گئے اور وہاں اورینٹل کالج میں شعبہ عربی کے استاذ مقرر ہوئے۔ ۱۳۷۳ھ/۱۹۵۴ء تک اورینٹل کالج لاہور میں تعلیم دیتے رہے۔ کالج سے ریٹائر ہونے کے بعد جامعہ اشرفیہ لاہور کے صدر مدرس مقرر ہوئے اور تا دم آخر جامعہ اشرفیہ سے وابستہ رہے۔

حضرت مولانا رسول خان صاحب معقولات کے ساتھ منقولات میں بھی کامل دستگاہ رکھتے تھے۔ علوم نقلیہ و عقلیہ کو طالب علم کی استعداد کے مطابق اس طرح سمجھاتے تھے کہ مسئلہ شاگرد کے ذہن نشین ہو جاتا تھا۔ ان کا درس تفہیم کے لحاظ سے ممتاز سمجھا جاتا تھا۔ درسی تقریر جامع اور پر مغز ہوتی تھی۔ وجیہ اور پروقار تھے۔ تقریر کے وقت چہرے پروقار برستا تھا۔ طرز بیان صاف اور مؤثر ہوتا تھا۔ ہر علم و فن کی کتابیں انھیں گویا از بر تھیں۔ طلبہ ذوق و شوق سے ان کے درس میں شریک ہوتے تھے۔

حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ سے بیعت تھے اور خلافت سے بھی سرفراز ہوئے۔

۳ رمضان ۱۳۹۱ھ/۲۳ اکتوبر ۱۹۷۱ء کو ۱۰۳ سال کی عمر میں اپنے وطن اچھڑیاں میں وفات پائی اور وہیں آسودہ خواب ہیں۔

ماخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم، ص ۹۷-۹۸؛ پچاس مثالی شخصیات، ص ۱۷۵

حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ

ممتاز علمائے دین اور بلند پایہ ارباب تدریس میں ان کا شمار تھا۔ ایک عظیم محدث، مؤرخ اور کثیر التصانیف مصنف تھے۔

۱۳۱۸ھ/۱۹۰۰ء میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم خانقاہ اشرفیہ تھانہ بھون میں ہوئی۔ پھر مظاہر علوم میں پڑھا اور دورہ حدیث تک تعلیم حاصل کی۔ مزید تعلیم کا شوق دارالعلوم دیوبند میں لے آیا اور دوبارہ دورہ حدیث میں داخلہ

لیا۔ ۱۳۳۷ھ/۱۹۱۹ء میں دارالعلوم سے فراغت حاصل کی۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کے ممتاز تلامذہ میں تھے۔ مدرسہ امینیہ دہلی سے انھوں نے تدریسی زندگی کا آغاز کیا۔ مگر چند ماہ کے بعد دارالعلوم دیوبند میں آگئے اور یہاں ان کو مختلف کتابیں پڑھانے کا موقع ملا۔ ۱۳۳۸ھ/۱۹۱۹ء سے ۱۳۴۶ھ/۱۹۲۷ء تک دارالعلوم میں مدرس رہے۔ پھر حیدرآباد چلے گئے اور دس بارہ سال تک وہاں مقیم رہ کر درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ ۱۳۵۸ھ/۱۹۳۹ء پھر انھیں دارالعلوم بلا لیا گیا اور تفسیر و حدیث کے اسباق ان کے سپرد کیے گئے۔ ان کا درس تفسیر و حدیث اہل علم میں مشہور و مقبول تھا۔ اس طرح اٹھارہ سال تک انھوں نے دارالعلوم میں مسند تدریس کو رونق بخشی۔

۱۳۶۸ھ/۱۹۴۸ء میں لاہور چلے گئے، وہاں جامعہ عباسیہ بہاول پور میں شیخ الجامعہ مقرر ہوئے۔ پھر ۱۹۵۲ء سے آخر تک جامعہ اشرفیہ لاہور میں بہ حیثیت شیخ الحدیث ۲۲ سال تک فرائض تدریس انجام دیتے رہے۔ لاہور میں ہر جمعہ کو ان کا وعظ ہوتا تھا جس میں بڑے ذوق و شوق سے لوگ شریک ہوا کرتے تھے۔ وہ پاکستان کے ممتاز اور بلند پایہ عالم سمجھے جاتے تھے۔

تفسیر و حدیث، کلام اور عربی ادب سے انھیں خاص شغف تھا۔ عربی اور فارسی میں برجستہ اشعار لکھنے کا انھیں اچھا ملکہ حاصل تھا۔ علم و فضل، زہد و تقویٰ اور اتباع سلف میں ان کا بڑا مقام تھا۔ تقویٰ اور خشیت الہی کے آثار نمایاں طور پر ان کے چہرے پر محسوس ہوتے تھے۔ نہایت سادہ زندگی بسر کرتے تھے، حق گوئی میں نہایت جری اور بے باک تھے، سچی بات بلا خوف و لومۃ لائم بر ملا کہنے میں انھیں کبھی تاثر نہیں ہوتا تھا اور اس میں کسی کی رورعایت نہیں کرتے تھے۔ علم و عمل میں سلف صالح کا نمونہ تھے۔ علم سے ان کے اشتغال کا یہ عالم تھا کہ تمام علوم و فنون میں استحضار تام رکھتے تھے۔ ہر وقت درس و تدریس اور تصنیف و تالیف میں مشغول رہتے تھے۔ یہ ذوق یہاں تک بڑھا ہوا تھا کہ دنیوی ساز و سامان سے ہمیشہ بے نیاز رہے۔

درس و تدریس کے ساتھ تصنیف و تالیف سے بھی کافی دل چسپی تھی۔ ایک روایت کے مطابق تفسیر، حدیث اور عقائد وغیرہ میں ان کی جملہ تصانیف کی تعداد سو کے قریب ہے۔ دارالعلوم کے کتب خانہ میں ان کی تین درجن سے زائد تصنیفات موجود ہیں: (۱) مشکوٰۃ المصابیح کی عربی شرح التعلیق الصبح کے نام سے انھوں نے آٹھ جلدوں میں لکھی ہے جو بہت مشہور ہوئی۔ (۲) علم حدیث میں ان کی دوسری کتاب تحفۃ القاری فی حل مشکلات البخاری (تین جلد) ہے۔ (۳) معارف القرآن کے نام سے انھوں نے اردو میں قرآن کریم کی تفسیر بھی لکھی جو آٹھ جلدوں میں شائع ہوئی۔ (۴) سیرت نبوی کے موضوع پر تین جلدوں میں سیرۃ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اہم اور مقبول عام تصنیف ہے۔ (۵) مقامات حریری پر عربی میں حاشیہ لکھا تھا جو صاحب درس و تدریس علماء و طلبہ میں بہت مقبول اور مشہور ہے۔ (۶) عقائد الاسلام (۷) علم الکلام (۸) بشارۃ النبیین (۹) اثبات صانع عالم و ابطال دہریت و مادیت (۱۰) اسلام اور اشتراکیت یعنی فنا فی اللہ اور فنا فی حکومت (۱۱) تائید القضا و القدر مع شرحہا (۱۲) حدود مادہ و روح (۱۳) عقل اور مذہب اسلام (۱۴) نظام اسلام مع دستور اسلام (۱۵) اعجاز القرآن

(۱۶) دعوت اسلام (۱۷) اسلام اور جدید شبہات (۱۸) دعوت الفلاح (۱۹) محاسن اسلام (۲۰) اسلام اور نصرانیت (۲۱) کلمۃ اللہ فی حیات روح اللہ (۲۲) احسن الحدیث فی ابطال التکلیف (۲۳) حجیت حدیث (۲۴) مسلک الختم فی ختم النبوة (۲۵) شرائط نبوت (۲۶) حیات عیسیٰ علیہ السلام (۲۷) القول المحکم فی نزول عیسیٰ بن مریم مع اسلام و مرزائیت کا اصولی اختلاف (۲۸) حضرت نانوتوی پر مرزائیوں کا بہتان (۲۹) دعاوی مرزا (۳۰) دلائل نبوت (۳۱) النبوة والرسالة (۳۲) اجتهاد اور تقلید کی بے مثال تحقیق (۳۳) حیات نبوی (۳۴) مقالات سیرت (۳۵) عصمت انبیاء علیہم السلام، وغیرہ۔

۷/۱۳۹۴ھ / ۲۸ جولائی ۱۹۷۴ء کو لاہور میں وفات پائی اور وہیں شادمان کالونی کے قبرستان میں آسودہ خواب ہیں۔

مآخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم، ص ۱۳۷-۱۳۸؛ مشاہیر علمائے دیوبند، ص ۴۳۶-۴۳۳

حضرت مولانا میرک شاہ کشمیریؒ

معقولات و منقولات کے ذی استعداد عالم، بہترین محدث، مفسر اور محقق تھے۔

مولانا میرک شاہ اندرابی ابن سید شاہ مصطفیٰ صفر ۱۳۰۶ھ مطابق اکتوبر ۱۸۸۸ء میں کشمیر کے معروف روحانی و علمی خانوادے میں پیدا ہوئے۔ حفظ قرآن، فارسی اور عربی کی تعلیم کشمیر میں حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے دیوبند آئے اور حضرت علامہ کشمیریؒ اور دیگر اساتذہ سے پڑھ کر ۱۳۳۶ھ / ۱۹۱۸ء میں فارغ ہوئے۔ پنجاب یونیورسٹی لاہور سے مولوی فاضل اور منشی فاضل کے امتحانات اعلیٰ ترین نمبرات سے پاس کیے۔

فراغت کے بعد درجہ تک، جامعہ امدادیہ مراد آباد اور دارالعلوم مئو میں درس و تدریس اور افتاء وغیرہ کی خدمات انجام دیں۔ علاوہ ازیں، تبلیغ کالج کرنال میں بھی صدر شعبہ اسلامیات رہے۔

۱۳۳۱ھ / ۱۹۲۲ء میں ان کو دارالعلوم دیوبند میں مدرس مقرر کیا گیا۔ تدریس کے علاوہ شہمی و سنگٹھن کی تحریک کے موقع پر ان کو دارالعلوم کی جانب سے ملکانہ راجپوتوں میں تبلیغ کے لیے مامور کیا گیا۔ اس زمانہ میں دارالعلوم کی جانب سے آگرہ کے قرب و جوار میں جو مبلغ بھیجے گئے وہ آپ ہی کی نگرانی میں کام کرتے تھے۔ اس سلسلے میں آپ نے گراں قدر دینی و دعوتی خدمات انجام دیں۔

۱۳۳۴ھ کے اواخر (۱۹۲۶ء) میں لاہور اور نیشنل کالج میں بہ حیثیت پروفیسر وابستہ ہو گئے۔ کالج سے سبک دوشی کے بعد ڈیڑھ دو سال تک سکھر (سندھ) کے کسی مدرسے میں شیخ الحدیث رہے۔ آخر میں جامعہ مدنیہ لاہور کے شیخ الحدیث ہوئے۔

تبلیغ و اصلاح کا خاص ذوق حاصل تھا۔ آپ کا درس قرآن بہت مقبول تھا۔ تحریک آزادی میں بھی حصہ لیا۔ عربی زبان کے بلند پایہ ادیب اور شاعر تھے۔ فن طب سے بھی آپ کو خصوصی لگاؤ تھا اور اس میں استادانہ مہارت

کے حامل تھے۔ طب میں آپ کے شاگردوں میں اچھے اچھے کامل اطباء ہوئے۔

علمی و تدریسی اور سیاسی و سماجی مصروفیات کے ساتھ آپ کو تصنیف و تالیف کا بھی اعلیٰ ذوق تھا۔ اردو، فارسی اور عربی زبان میں آپ نے درجنوں چھوٹی بڑے رسائل اور کتابیں لکھیں جن میں تفسیر قرآن کریم اردو، ترجمہ قرآن کریم کشمیری، موطا امام مالک اور صحیح مسلم کی عربی شرح، فوائد القرآن، سببہ معلقہ کی عربی شرح، قصیدہ بانٹ سعادت کی فارسی شرح، قصیدہ غوثیہ کی فارسی شرح، لغات جدیدہ (اردو سے عربی)، حاشیہ محیط الدائرہ (عروض) وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن کے لیے صدر الدین شیرازی کی دقیق کتاب اسفار اربعہ کی جلد چہارم (فلسفہ) اور علامہ کشمیری کی کتاب اکفار الملحدین کا اردو ترجمہ بھی کیا۔

۲۶ جمادی الثانیہ ۱۳۹۳ھ مطابق ۲۷ جولائی ۱۹۷۳ء کو لاہور میں انتقال ہوا اور ماڈل ٹاؤن کے شہر خوشاں میں دفن کیے گئے۔

مآخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم، ص ۱۳۲-۱۳۳

تذکرہ علمائے اہل سنت و جماعت، محمد نذیر انجھا، دارالکتب لاہور ۲۰۰۹ء، ص ۲۲۷ تا ۲۳۳

حضرت مولانا بدر عالم میرٹھیؒ

عظیم محدث، قابل مدرس، فقیہ فی الدین، عابد و زاہد اور صاحب معرفت فاضل تھے۔

وطن میرٹھ تھا، ۱۳۱۶ھ/۱۸۹۸ء میں بدایوں میں پیدا ہوئے جہاں ان کے والد حاجی تہور علی مرحوم محکمہ پولیس میں انسپکٹر تھے۔ ابتدائی تعلیم الہ آباد کے انگریزی اسکول میں پائی۔ دورانِ تعلیم حضرت تھانویؒ کا ایک وعظ سننے کے بعد انھیں علومِ دینیہ کی طرف توجہ ہوئی تو والد صاحب نے انھیں حضرت مولانا خلیل احمد انپٹھویؒ کی خدمت میں سہارن پور بھیج دیا۔ آپ نے مظاہر علوم سے ۱۳۳۶ھ/۱۹۱۸ء میں حدیث کی تکمیل کی اور اگلے سال وہیں معین مدرس مقرر ہو گئے، مگر جلد ہی مدرسہ چھوڑ کر مزید طلب علم کے لیے دارالعلوم دیوبند آ گئے اور یہاں دورہ حدیث میں شریک ہو کر ۱۳۳۹ھ/۱۹۲۱ء میں صحیح بخاری حضرت کشمیریؒ سے پڑھی۔ اوائل ۱۳۴۲ھ/۱۹۲۵ء سے دارالعلوم میں تدریسی خدمات کے لیے تقرر ہوا۔ ۱۳۴۶ھ/۱۹۲۷ء میں حضرت علامہ کشمیریؒ کے ساتھ جامعہ اسلامیہ ڈابھیل چلے گئے۔ وہاں درس و تدریس کے ساتھ پانچ سال تک حضرت شاہ صاحبؒ کے درس بخاری میں پورے التزام کے ساتھ شریک ہوتے رہے۔ ۷۱ سال تک جامعہ اسلامیہ ڈابھیل میں علم حدیث کی خدمات انجام دیں۔ آخر میں جامعہ کے صدر مدرس بنائے گئے، مگر صحت کی خرابی کی وجہ سے ڈابھیل سے بہاول پور چلے گئے۔

راہِ سلوک و احسان کو طے کرنے کے لیے پہلے حضرت مولانا خلیل احمد انپٹھویؒ سے بیعت ہوئے، پھر حضرت مفتی عزیز الرحمن دیوبندیؒ سے منسلک ہوئے اور آخر میں حضرت مفتی صاحب کے جانشین حضرت قاری محمد اسحاق میرٹھیؒ سے خلافت حاصل ہوئی۔ صدق و صفا کا مجسمہ، ورع و تقویٰ اور استغناء کے پیکر تھے۔ خلوص و للہیت

میں اسلاف کی یادگار تھے۔

مولانا میرٹھی ۱۹۲۷ء میں تقسیم ملک کے بعد پاکستان چلے گئے۔ وہاں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نے ان کو ٹنڈوالہار میں علوم اسلامیہ کا ایک دارالعلوم قائم کرنے کا کام سپرد فرمایا۔ چنانچہ انھوں نے بڑی محنت سے ان کا نظام عمل تیار کیا اور اس میں ماہر فن اساتذہ کو جمع کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ مگر چند ہی سال بعد عشق نبوی کی کشش نے انھیں مدینہ منورہ کھینچ لیا۔ ارض مقدس میں وہ پوری جمعیت خاطر کے ساتھ علمی و عملی مشاغل میں مصروف ہو گئے۔ قیام مدینہ کے دوران بکثرت افریقی حضرات ان کے سلسلہ بیعت میں داخل ہوئے اور ساتھ افریقہ میں ان کا خوب فیض پھیلا۔

مدینہ منورہ میں بھی درس حدیث کا سلسلہ جاری رہا۔ مسجد نبوی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تیرہ سال تک آپ نے علوم قرآن و حدیث کی شمع روشن رکھی۔

عربی کے ادیب و شاعر بھی تھے۔ جامعہ اسلامیہ ڈابھیل میں حضرت کشمیری کی وفات کے بعد انھوں نے اپنے استاذ کے علوم و معارف کو فیض الباری علی صحیح البخاری کے نام سے چار جلدوں میں مرتب کیا، جس میں اپنے استاذ علامہ کشمیری کی نادر علمی تحقیقات اور تفردات کو پیش کر کے ایک عظیم الشان علمی کارنامہ انجام دیا۔

۱۳۶۲ھ/۱۹۴۳ء میں ندوۃ المصنفین دہلی سے وابستہ ہو گئے۔ آپ نے ترجمان السنۃ کے نام سے اردو زبان میں حدیث کی ایک جامع کتاب کی ترتیب کا کام بڑی شان سے شروع کیا، چار جلدیں لکھ چکے تھے کہ حیات مستعار کی مدت پوری ہو گئی۔

ان دو عظیم الشان کتابوں کے علاوہ ان کی کتابیں یہ ہیں: (۳) جواہر الحکم (۴) خلاصۃ المناسک خلاصہ زبدۃ المناسک از حضرت گنگوہی (۵) نزول عیسیٰ علیہ السلام (۶) الجواب الفصیح لمنکر حیات المسیح (۷) صدائے ایمان (۸) نور ایمان (۹) آواز حق۔

۵/۱۳۸۵ھ/۳۰ اکتوبر ۱۹۶۵ء کو طویل علالت کے بعد مدینہ منورہ میں انتقال ہوا اور جنت البقیع میں امہات المؤمنین کے عین قدموں میں آخری آرام گاہ میسر آئی۔

ماخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم، ص ۱۴۱-۱۴۳

پچاس مثالی شخصیات، ص ۱۶۶-۱۶۷

فہرست کتب اکابر، کتب خانہ دارالعلوم دیوبند

دور ثالث کے علماء و اکابر دارالعلوم

۱۳۲۸ھ تا ۱۴۰۱ھ / ۱۹۳۰ء تا ۱۹۸۱ء

دور ثالث کے کلیدی عہدہ داران

شمار	اسمائے گرامی	عہدہ	کب سے کب تک	صفحہ
۱	حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحبؒ	مہتمم دارالعلوم	۱۳۲۸-۱۴۰۱ھ	۵۸۲
۲	حضرت مولانا علامہ محمد ابراہیم بلیاویؒ	صدر المدرسین	۱۳۷۷-۱۳۸۷ھ	۵۸۷
۳	حضرت مولانا سید فخر الدین احمد صاحبؒ	شیخ الحدیث صدر المدرسین	۱۳۷۷-۱۳۹۲ھ ۱۳۸۷-۱۳۹۲ھ	۵۹۰
۴	حضرت مفتی سید مہدی حسن شاہ جہانپوریؒ	صدر مفتی		۵۹۴
۵	حضرت مولانا فخر الحسن مراد آبادیؒ	صدر المدرسین	۱۳۹۲-۱۴۰۱ھ	۵۹۷
۶	حضرت مولانا شریف حسن دیوبندیؒ	شیخ الحدیث	۱۳۹۲-۱۳۹۷ھ	۵۹۸

دور ثالث کے مشاہیر اراکین مجلس شوریٰ

شمار	اسمائے گرامی	کب سے کب تک	صفحہ
۱	حضرت مولانا محمد صادق کراچیؒ	۱۳۵۰-۱۳۶۷ھ	۵۹۹
۲	حضرت مولانا مناظر احسن گیلانیؒ	۱۳۵۰-۱۳۶۷ھ / ۱۹۳۱-۱۹۴۸ء	۶۰۰
۳	حضرت مولانا محمد الیاس کاندھلویؒ	۱۳۵۱-۱۳۵۳ھ / ۱۹۳۲-۱۹۳۴ء	۶۰۱
۴	حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلویؒ	۱۳۵۵-۱۳۷۳ھ / ۱۹۳۶-۱۹۵۴ء	۶۰۲
۵	حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رانپوریؒ	۱۳۶۰ھ / ۱۹۴۱ء	۶۰۴
	دوبارہ	۱۳۷۷-۱۳۸۱ھ / ۱۹۵۷-۱۹۶۱ء	
۶	حضرت مولانا حفظ الرحمن سیوہارویؒ	۱۳۶۲-۱۳۸۲ھ / ۱۹۴۳-۱۹۶۲ء	۶۰۴
۷	حضرت مولانا خیر محمد جالندھریؒ	۱۳۶۳-۱۳۶۷ھ / ۱۹۴۴-۱۹۴۸ء	۶۰۶

۶۰۷	۱۳۶۳-۱۳۶۷ھ/۱۹۴۴-۱۹۴۸ء	حضرت مولانا شبیر علی تھانویؒ
۶۰۸	۱۳۶۳-۱۳۶۷ھ/۱۹۴۴-۱۹۴۷ء	حضرت مولانا محمد منظور نعمانیؒ
۶۰۹	۱۳۶۳-۱۳۷۷ھ/۱۹۴۵-۱۹۵۷ء	حضرت مولانا احمد سعید دہلویؒ
۶۱۰	۱۳۶۸-۱۳۷۰ھ/۱۹۴۹-۱۹۸۴ء	حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمن عثمانیؒ
۶۱۱	۱۳۶۹-۱۳۷۰ھ/۱۹۵۰-۱۹۵۱ء	حضرت مولانا سید سلیمان ندویؒ
۶۱۲	۱۳۷۰-۱۳۹۵ھ/۱۹۵۱-۱۹۶۵ء	حضرت مولانا سید محمد میاں دیوبندیؒ
۶۱۳	۱۳۷۰-۱۳۷۱ھ/۱۹۵۱-۱۹۸۱ء	حضرت مولانا ڈاکٹر مصطفیٰ حسن علویؒ
۶۱۴	۱۳۷۰-۱۳۸۲ھ/۱۹۵۱-۱۹۶۲ء	حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلویؒ
۶۱۵	۱۳۷۳-۱۳۷۴ھ/۱۹۵۴-۱۹۹۱ء	حضرت مولانا حبیب الرحمن محدث اعظمیؒ
۶۱۶	۱۳۷۳-۱۳۸۸ھ/۱۹۵۴-۱۹۶۸ء	حضرت مولانا مفتی محمود احمد نانوتویؒ
۶۱۷	۱۳۷۴-۱۳۷۴ھ/۱۹۵۵-۱۹۹۱ء	حضرت مولانا سید منت اللہ رحمانیؒ
۶۱۹	۱۳۷۷-۱۳۸۰ھ/۱۹۵۷-۱۹۶۰ء	حضرت مولانا ڈاکٹر سید عبدالعلی لکھنویؒ
۶۱۹	۱۳۸۲-۱۳۸۰ھ/۱۹۶۲-۱۹۹۹ء	حضرت مولانا ابوالحسن علی ندویؒ
۶۲۰	۱۳۸۲-۱۳۰۵ھ/۱۹۶۲-۱۹۸۵ء	حضرت مولانا حامد الانصاری غازیؒ
۶۲۱	۱۳۸۲-۱۳۸۷ھ/۱۹۶۲-۱۹۶۷ء	حضرت مولانا سید حمید الدین فیض آبادیؒ
۶۲۲	۱۳۸۲-۱۳۷۴ھ/۱۹۶۲-۱۹۹۱ء	حضرت مولانا قاضی زین العابدین سجاد میرٹھیؒ
۶۲۳	۱۳۸۲-۱۳۰۵ھ/۱۹۶۲-۱۹۸۵ء	حضرت مولانا سعید احمد کبر آبادیؒ
۶۲۴	۱۳۹۲-۱۳۱۹ھ/۱۹۷۲-۱۹۹۸ء	حضرت مولانا عبدالحلیم جون پوریؒ

دور ثالث کے مشاہیر اساتذہ و مشائخ

شمار	اسمائے گرامی	کب سے کب تک	صفحہ
۱	حضرت مولانا قاضی مسعود احمد دیوبندیؒ	۱۳۳۲-۱۳۸۴ھ	۶۲۶
۲	حضرت مولانا سید اختر حسین دیوبندیؒ	۱۳۴۴-۱۳۹۷ھ	۶۲۶
۳	حضرت مولانا مفتی ریاض الدین بجنوریؒ	۱۳۴۷-۱۳۶۲ھ	۶۲۷

۶۲۷	۱۳۲۹-۱۳۶۲ھ	حضرت مولانا ظہور احمد دیوبندی	۴
	۱۳۶۷-۱۳۸۳ھ	دوبارہ	
۶۲۸	۱۳۵۰-۱۳۸۸ھ	حضرت مولانا محمد جلیل کیرانوی	۵
۶۲۸	۱۳۵۲-۱۳۶۶ھ	حضرت مولانا عبدالحق عرف نافع گل پشاوروی	۶
۶۲۹	۱۳۵۴-۱۳۵۷ھ	حضرت مولانا شمس الحق افغانی پشاوروی	۷
۶۳۰	۱۳۵۷-۱۳۸۱ھ	حضرت مولانا سید حسن دیوبندی	۸
۶۳۰	۱۳۵۸-۱۳۶۳ھ	حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ گنگوہی	۹
۶۳۱	۱۳۵۸-۱۴۰۰ھ	حضرت مولانا عبدالحق دیوبندی	۱۰
۶۳۱	۱۳۶۲-۱۳۸۶ھ	حضرت مولانا بشیر احمد خاں بلند شہری	۱۱
۶۳۲	۱۳۶۲-۱۳۶۶ھ	حضرت مولانا عبدالحق اکوڑوی	۱۲
۶۳۲	۱۳۶۲-۱۳۶۳ھ	حضرت مولانا مفتی فاروق ایٹھوی	۱۳
۶۳۴	۱۳۶۳-۱۳۶۷ھ	حضرت مولانا عبدالشکور دیوبندی	۱۴
۶۳۴	۱۳۶۶-۱۴۰۲ھ	حضرت مولانا محمد نعیم دیوبندی	۱۵
۶۳۵	۱۳۷۰-۱۴۰۲ھ	حضرت مولانا محمد سالم قاسمی	۱۶
۶۳۵	۱۳۷۳-۱۴۰۲ھ	حضرت مولانا سید انظر شاہ کشمیری	۱۷
۶۳۶	۱۳۸۰-۱۳۹۲ھ	حضرت مولانا اسلام الحق اعظمی	۱۸
۶۳۷	۱۳۸۳-۱۴۰۲ھ	حضرت مولانا خورشید عالم دیوبندی	۱۹
۶۳۸	۱۳۶۶-۱۳۹۹ھ	حضرت سید محبوب رضوی (ناظم محافظ خانہ)	۲۰

دور ثالث کے کلیدی عہدہ داران

حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمیؒ

۱۳۱۵-۱۴۰۳ھ / ۱۸۹۷-۱۹۸۳ء

حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمیؒ ممتاز عالم ربانی، بے مثل خطیب اور دارالعلوم کے مایہ ناز مہتمم تھے۔ آپ حضرت نانوتویؒ کے پوتے اور حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب مہتمم دارالعلوم کے فرزند ہیں۔ آپ اپنے جد امجد حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کے علوم و معارف کے شارح و امین تھے۔ آپ ایک باکمال مصنف اور عظیم اخلاقی و انسانی صفات کے مالک تھے۔ آپ کی بے پناہ مساعی اور خدمات کی بدولت دارالعلوم کی عظمت و شہرت کو چار چاند لگے۔ آپ کے دور اہتمام میں دارالعلوم دیوبند پورے عالم اسلام میں از ہر الہند کے نام سے مشہور ہوا۔ آپ نے ایشیا، یورپ، امریکہ، افریقہ اور مشرق وسطیٰ وغیرہ میں دارالعلوم اور اس کی خدمات کو روشناس کرایا۔ منصب اہتمام پر ۵۵ سال متمکن رہے جو اب تک کی سب سے لمبی مدت ہے۔

ابتدائی احوال

محرّم ۱۳۱۵ھ مطابق جون ۱۸۹۷ء میں پیدا ہوئے، تاریخی نام مظفر الدین ہے۔ ۷ سال کی عمر میں دارالعلوم میں داخل ہوئے، ممتاز بزرگوں کے عظیم الشان اجتماع میں مکتب نشینی کی تقریب عمل میں آئی۔ دو سال کی قلیل ترین مدت میں قرآن مجید قرأت و تجوید کے ساتھ حفظ کیا۔ پانچ سال فارسی اور ریاضی کے درجات میں تعلیم حاصل کر کے عربی کا نصاب شروع کیا جس سے ۱۳۳۷ھ مطابق ۱۹۱۸ء میں فراغت اور سند فضیلت حاصل کی۔ دوران تعلیم آپ کی آبائی نسبت کے سبب سے اساتذہ نے اعلیٰ پیمانے اور مخصوص طریق پر تعلیم و تربیت میں حصہ لیا، حدیث کی خصوصی سند آپ کو وقت کے مشاہیر علماء و اساتذہ سے حاصل ہوئی۔ آپ نے ۱۳۳۹ھ میں شیخ الہند سے بیعت کی تھی، تزکیہ و احسان کی منزلیں طے ہی کر رہے تھے کہ شیخ الہند کی وفات ہو گئی۔ ۱۳۴۳ھ میں حکیم الامت حضرت تھانویؒ کی طرف رجوع کیا اور انہی کے زیر تربیت سلوک و معرفت کی منزلیں طے کیں۔ ۱۳۵۰ھ میں حضرت تھانویؒ نے آپ کو خلافت و اجازت سے نوازا۔

دارالعلوم سے وابستگی

علوم کی تکمیل کے بعد آپ نے دارالعلوم میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ ذاتی علم و فضل، ذہانت و ذکاوت اور آبائی نسبت کے باعث بہت جلد طلبہ کے حلقے میں آپ کے ساتھ گرویدگی پیدا ہو گئی۔ اوائل ۱۳۴۴ھ مطابق ۱۹۲۶ء میں نائب مہتمم کے منصب پر آپ کا تقرر کیا گیا، جس پر ۱۳۴۸ھ مطابق ۱۹۲۸ء تک آپ اپنے والد ماجد اور حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب کی نگرانی میں ادارہ اہتمام کے انتظامی معاملات میں حصہ لیتے رہے۔ ۱۳۴۸ھ مطابق ۱۹۲۸ء میں حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانی کے انتقال کے بعد آپ کو مہتمم بنایا گیا۔ سابقہ تجربہ، اہلیت کار اور آبائی نسبت کے پیش نظر یہ ثابت ہو چکا تھا کہ آپ کی ذات میں اہتمام دارالعلوم کی صلاحیت بدرجہ اتم موجود ہے، چنانچہ مہتمم ہونے کے بعد آپ کو اپنے علم و فضل اور خاندانی وجاہت و اثر کی بنا پر ملک میں بہت جلد مقبولیت اور عظمت حاصل ہو گئی، جس سے دارالعلوم کو کافی فائدہ پہنچا۔

دارالعلوم نے آپ کے زمانہ اہتمام میں نمایاں ترقی حاصل کی۔ ۱۳۴۸ھ مطابق ۱۹۲۸ء میں جب آپ نے انتظام دارالعلوم کی باگ ڈور ہاتھ میں لی تو اس کے انتظامی شعبے آٹھ تھے جن کی تعداد آپ نے ۲۳ تک پہنچادی، اس وقت دارالعلوم کی سالانہ آمدنی کا بجٹ ۵۰۲۶۲ روپیہ سالانہ تھا، آپ کے زمانے میں ۲۶ لاکھ تک پہنچ گیا۔ ۱۳۴۸ھ مطابق ۱۹۲۹ء میں ملازمین دارالعلوم کے عملے میں ۲۵ افراد تھے، آپ نے ان کی تعداد دو سو تک پہنچادی، اس وقت اساتذہ کی تعداد ۱۸ تھی جو بڑھ کر ۵۹ ہو گئی، طلبہ کی تعداد ۲۸۰ تھی جو آپ کے زمانہ اہتمام میں دو ہزار تک پہنچ گئی۔ اسی طرح عمارتوں میں بھی نمایاں اضافہ ہوا، دارالنفیس، دارالافتاء، دارالقرآن، مطبخ جدید، فوٹانی دارالحدیث، بالائی مسجد، باب الظاہر، جامعہ طیبہ جدید، دو منزلہ دارالاقامہ، مہمان خانہ کی قدیم عمارت، کتب خانے کا وسیع و عریض ہال، دارالاقامہ جدید، افریقی منزل، مطبخ کے قریب تین درسگاہوں کا اضافہ حضرت ممدوح ہی کے دور اہتمام کی تعمیرات ہیں۔

غرض کہ دارالعلوم کے ہر شعبے نے آپ کے دور اہتمام میں نمایاں ترقی کی۔ دارالعلوم کی مجالس انتظامیہ و شوریٰ نے مختلف اوقات میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف اور اظہار قدر دانی کے سلسلے میں متعدد مرتبہ تجاویز پاس کیں۔ دارالعلوم کی شمع کو روشن رکھنے کے لیے پیرانہ سالی میں بھی جوانوں کی طرح سرگرم عمل رہے۔ عالمی پیمانے پر اسلام اور مسلمانوں کے تئیں دارالعلوم کی خدمات کو متعارف کرانے میں بھی آپ پیش پیش رہے۔ آپ کے دور اہتمام میں دنیا کے گوشہ گوشہ سے حصول علم کے لیے آنے والے طلبہ کا سلسلہ روز افزوں رہا۔

خدمات و کارنامے

درس و تدریس کے علاوہ فن خطابت میں آپ کو خدا داد ملکہ حاصل تھا اور زمانہ طالب علمی ہی سے آپ کی تقریریں پبلک جلسوں میں شوق کے ساتھ سنی جاتی تھیں، اہم سے اہم مسائل پر دو دو تین تین گھنٹے مسلسل تقریر کرنے میں

آپ کو کوئی رکاوٹ اور تکلف نہیں ہوتا تھا۔ حقائق اور اسرار شریعت کے بیان اور ایجاد مضامین میں آپ کو خاص قدرت حاصل تھی، جدید تعلیم یافتہ طبقہ آپ کے علمی اور حکیمانہ اسلوب بیان سے خاص طور پر محظوظ ہوتا۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ اور دوسری یونیورسٹیوں میں آپ کی تقریریں خاص طور پر مقبول تھیں، بعض معرکہ الآرا تقریریں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے شائع ہو چکی ہیں۔ ملک کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جس میں آپ کی تقریروں کی گونج نہ پہنچی ہو، آپ کی رواں دواں اور دل کش تقریر جب علم کے گہرے سمندر سے گزرتی تھی تو لہروں کا سکوت قابل دید ہوتا تھا۔ آپ کے منتخب علمی خطبات دس جلدوں میں شائع ہو چکے ہیں۔

آپ کی علمی تقریروں سے ایک خاص حلقہ اثر پیدا ہوا اور بیرون ہند کے علمی حلقوں میں بھی آپ کی خطابت کے اثرات پہنچے۔ ۱۳۵۳ھ مطابق ۱۹۳۴ء میں بسلسلہ سفر حجاز آپ نے ہندوستان کے ایک موقر وفد کے صدر کی حیثیت سے سلطان ابن سعود کے دربار میں جو تقریر فرمائی اس نے سلطان کو بہت متاثر کیا، سلطان ابن سعود نے شاہی خلعت اور بیش قیمت کتب کے عطیہ سے اعزاز بخشا۔

۱۳۵۸ھ مطابق ۱۹۳۹ء میں آپ کا سفر افغانستان علمی خدمات کی ایک مستقل تاریخ ہے، آپ نے دارالعلوم کے نمائندے کی حیثیت سے دارالعلوم اور حکومت افغانستان کے درمیان علمی و عرفانی روابط قائم کرنے کے لیے یہ سفر اختیار فرمایا تھا۔ افغانستان کے علمی، ادبی، سرکاری اور غیر سرکاری انجمنوں اور سوسائٹیوں نے مدعو کیا تھا۔ آپ کی عالمانہ تقریروں سے وہاں کے علمی اور ادبی حلقے بہت متاثر ہوئے۔ اسی طرح آپ نے پاکستان، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، ملیشیا، برما، عالم عرب، حبش (ایتھوپیا)، کینیا، مڈغاسکر، جنوبی افریقہ، زنجبار، روڈیشیا، ری یونین، انگلینڈ، فرانس، جرمنی، کناڈا، امریکہ وغیرہ ممالک کا دورہ کیا۔

حضرت قاری صاحب ہندوستان کے موقر ادارہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے مؤسس اور بانی بھی ہیں۔ حکومت ہند کے ذریعہ مسلمانوں کے شرعی قوانین کے تبدیل کرنے یا اس سے چھیڑ چھاڑ کرنے کے خلاف ممبئی میں ۱۹۷۲ء میں ایک عمومی کنونشن بلا یا گیا جس میں ہندوستان میں امت مسلمہ کے تمام گروہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئے اور اس کے بعد آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی تشکیل عمل میں آئی۔ حضرت قاری صاحب اس بورڈ کے بانی اور صدر اول مقرر ہوئے اور تا عمر بالاتفاق اس بورڈ کے صدر رہے۔

حقیقت یہ ہے کہ آپ کی دل کش شخصیت کے بے شمار پہلو ہیں، شرافت و انسانیت، سراپا انکسار، پاک باطنی، علم و فضل، خطابت و تقریر اور وعظ و تلقین، سادگی اور عجز و انکساری، حکیمانہ گفتگو، فصاحت و بلاغت، غرض کہ ان کی شخصیت کردار و اعمال اور جلال و جمال کا ایک حسین امتزاج تھی۔

علمی یادگاریں

دارالعلوم کے انتظامی امور کے علاوہ تصنیف و تالیف سے آپ کو طبعی دلچسپی تھی۔ آپ کا یہ مشغلہ دارالعلوم کے

انتظامی معاملات اور اوقات درس و تدریس کے علاوہ ہمیشہ جاری رہا، بالخصوص دوران سفر کے فارغ اوقات اسی میں صرف ہوتے تھے۔ اردو شاعری سے اچھی مناسبت تھی، آپ کا مجموعہ 'کلام عرفان عارف' کے نام سے چھپ چکا ہے۔ آپ کی تصانیف کی تعداد کافی ہے، چند کتابوں کے نام درج ذیل ہیں: (۱) التنبہ فی الاسلام (۲) مشاہیر امت (۳) کلمات طیبات (۴) مقامات مقدسہ (۵) اطیب الثمر فی مسئلۃ القضاء والقدر (۶) سائنس اور اسلام (۷) اسلام اور مسیحی اقوام (۸) مسئلہ زبان اردو ہندوستان میں (۹) دین و سیاست (۱۰) اسباب عروج و زوال اقوام (۱۱) اسلامی آزادی کا مکمل پروگرام (۱۲) الاجتہاد و التقليد (۱۳) اصول دعوت اسلام (۱۴) اسلامی مساوات (۱۵) تفسیر سورہ فیل (۱۶) فطری حکومت (۱۷) فلسفہ نماز (۱۸) نظریہ و قرآن کا تحقیقی جائزہ (۱۹) اسلام میں اخلاق کا نظام (۲۰) خاتم النبیین ﷺ (۲۱) حدیث کا قرآنی معیار (۲۲) علمائے دیوبند کا دینی رخ اور مسلکی مزاج (۲۳) اسلام اور مغربی تہذیب، وغیرہ۔

جلسہ صد سالہ

۱۹۸۰ء میں آپ کے زمانہ اہتمام میں دارالعلوم کے صد سالہ اجلاس کی چہل پہل آج تک لوگوں کے قلوب میں تازہ ہے، اس تاریخ ساز اجلاس سے دنیا نے دیکھ لیا کہ نہ صرف برصغیر بلکہ عالم انسانیت پر دارالعلوم دیوبند کے علمی و روحانی فیض کا دائرہ کس قدر وسیع ہے۔ آپ نے کبر سنی اور انتہائی ضعف کے باوجود اپنی وسعت فکری اور انتظامی چنگلی کو بروئے کار لاتے ہوئے اس عالم گیر اجلاس کے ذریعہ فکر دیوبندیت کو عام کیا اور قومی و بین الاقوامی شہرت یافتہ دنیا بھر کی شخصیتوں سمیت عوام و خواص کے ٹھاٹھیں مارتے سمندر کی لہروں کے ذریعہ یہ ثابت کر دیا کہ دارالعلوم دیوبند ایک تعلیمی ادارہ ہی نہیں بلکہ پوری ملت اسلامیہ کی تمناؤں کا مرکز بھی ہے۔

۱۹۸۰ء کے بعد جب کبر سنی کی وجہ سے اہتمام کی ذمہ داریاں آپ پر گراں ثابت ہونے لگیں تو آپ نے مجلس شوریٰ میں ایک معاون کی ضرورت کا اظہار فرمایا، چنانچہ حسب درخواست مجلس شوریٰ نے معاون کے طور پر حضرت مولانا مرغوب الرحمان بجنوریؒ کو منتخب فرمایا، لیکن اس کے بعد ہی دارالعلوم میں اہتمام اور مجلس شوریٰ کے درمیان ٹکراؤ کی صورت پیدا ہو گئی۔ آخر کار حضرت قاری صاحبؒ نے منصب اہتمام سے از خود کنارہ کشی مناسب سمجھی اور اگست ۱۹۸۲ء میں دارالعلوم سے قلبی لگاؤ کے اظہار کے باوجود اہتمام کی ذمہ داریوں سے سبک دوش کر دیئے جانے کی درخواست کی۔ آپ کی پیرانہ سالی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ارباب مجلس شوریٰ نے آپ کا استعفا قبول فرمایا۔ (محافظ خانہ میں حضرت قاری صاحبؒ کا تحریر کردہ استعفا نامہ محفوظ ہے اور رجسٹر کارروائی اجلاس مجلس شوریٰ منعقدہ شوال ۱۴۰۲ھ کے ذیل میں دیگر تفصیلات موجود ہیں۔)

وفات

۱۹۸۲ء کے اوائل ہی سے آپ کی صحت دن بہ دن گرتی چلی گئی۔ ۶ شوال ۱۴۰۳ھ مطابق ۷ جولائی

۱۹۸۳ء میں بالآخر دارالعلوم دیوبند اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے پلیٹ فارم سے قوم و ملت کی عظیم خدمت انجام دے کر آپ اس دارفانی سے رخصت ہوئے۔ نماز جنازہ احاطہ موسسری میں ادا کی گئی اور قبرستان قاسمی میں حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کے پہلو میں مدفون ہوئے۔

۷/صفر ۱۴۰۴ھ مطابق ۱۳ نومبر ۱۹۸۳ء کی مجلس شوریٰ میں تعزیت کی تجویز پاس کی گئی جس میں کارناموں کو سراہتے ہوئے آپ کی روح کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ تجویز کا ایک اقتباس یہ ہے:

”مرحوم و مغفور کو اللہ نے لاتعداد محاسن و مناقب اور فضائل و مکارم سے نوازا تھا، علوم ظاہری میں وہ امام العصر علامہ انور شاہ کشمیریؒ کے مایہ ناز تلمیذ رشید تھے اور علوم باطنی میں ان کو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ جیسے عظیم المرتبت شیخ کی خلافت حاصل تھی، انہوں نے اپنے سرچشمہ فیض سے درس و تدریس، مواعظت و دعوت اور رشد و صحبت کے مختلف ذرائع سے اپنی طویل عمر میں نہ صرف ہندوستان بلکہ عالم اسلام کو سیراب کیا۔“ (تجویز تعزیت، اجلاس مجلس شوریٰ، ۷/صفر ۱۴۰۴ھ مطابق ۱۳ نومبر ۱۹۸۳ء)

مآخذ:

- تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم، ص ۱۳۳ تا ۱۳۶ و ۲۳۵ تا ۲۳۹
- فہرست کتب اکابر، کتب خانہ دارالعلوم دیوبند
- کارروائی رجسٹر اجلاس مجلس شوریٰ، ۱۴۰۲ھ، ۱۴۰۴ھ

حضرت مولانا علامہ محمد ابراہیم بلیاویؒ

۱۳۰۴ھ - ۱۳۸۷ھ / ۱۸۸۷ - ۱۹۶۷ء

آپ دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین اور شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسنؒ کے مخصوص تلامذہ میں سے تھے۔ معقولات میں خصوصاً اور دیگر علوم میں عموماً ایک تسلیم شدہ ماہر استاذ مانے جاتے تھے۔ بہت سے اساتذہ دارالعلوم اور دیگر مدارس دینیہ کے اکثر بڑے اساتذہ آپ کے شاگرد رہے ہیں۔ معقولات کے علاوہ درس حدیث میں بھی خاص امتیاز رکھتے تھے۔

ابتدائی حالات

حضرت علامہ محمد ابراہیم بلیاویؒ ۱۳۰۴ھ / ۱۸۸۷ء میں مشرقی یوپی کے شہر بلیا کے ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کا خاندان پنجاب کے ضلع جھنگ سے جون پور آیا اور پھر کچھ مدت کے بعد بلیا میں آباد ہو گیا۔ آپ کے والد مولانا حافظ عبدالرحیم صاحب مدرسہ دارالعلوم جون پور کے تعلیم یافتہ تھے جو اس دور کا مشہور علمی مرکز تھا جس میں ملا محمود جون پوری صاحب شمس بازنہ جیسے فاضل اور یگانہ روزگار مدرس رہ چکے تھے۔

آپ نے جون پور میں فارسی اور عربی کی ابتدائی تعلیم مشہور طبیب مولانا حکیم جمیل الدین نگیںویؒ (سابق رکن شوری دارالعلوم دیوبند) سے حاصل کی اور معقولات کی کتابیں مولانا فاروق احمد چریا کوٹی (استاذ مولانا شبلی اعظمی) اور مولانا ہدایت اللہ خاں (تلمیذ مولانا فضل حق خیر آبادی) سے پڑھیں۔ دینیات کی تعلیم کے لیے مولانا عبدالغفار کے سامنے زانوئے تلمذ تہ کیا، جو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ کے ارشد تلامذہ میں تھے۔

۱۳۲۵ھ / ۱۹۰۷ء میں دارالعلوم دیوبند میں داخل ہو کر اولاً ہدایہ اور جلالین وغیرہ کتابیں پڑھیں اور پھر ۱۳۲۷ھ / ۱۹۰۹ء میں دورہ حدیث سے فارغ ہوئے۔ طحاوی، ابوداؤد، نسائی، موطا امام مالک اور موطا امام محمد حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحبؒ سے پڑھیں، صحیح مسلم اور ابن ماجہ حضرت مولانا حکیم احمد حسن صاحبؒ (برادر حضرت شیخ الہند) سے اور صحیح بخاری و ترمذی حضرت شیخ الہندؒ سے پڑھیں۔ حضرت شیخ الہندؒ سے تلمذ کے علاوہ بیعت کاشرف بھی حاصل تھا۔

تعلیم سے فراغت کے بعد اسی سال مدرسہ عالیہ فتح پوری دہلی کے مدرس دوم بنائے گئے۔ پھر عمری ضلع مراد آباد کے مدرسہ میں کچھ عرصے تک درس و تدریس میں مشغول رہے۔

دارالعلوم دیوبند میں

۱۳۳۱ھ میں آپ کو دارالعلوم میں تدریس کے لیے مقرر کیا گیا۔ ۱۳۳۳ھ کی رواداد میں آپ کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا گیا ہے:

”مولوی محمد ابراہیم صاحب تمام علوم میں کامل الاستعداد ہیں، محقول و فلسفہ کی تمام کتابیں نہایت خوبی سے پڑھاتے ہیں، فلسفہ و منطق اور کلام کے انتہائی اسباق صدر، شمس بازغہ، قاضی مبارک، حمد اللہ، امور عامہ کے علاوہ شرح مطالع، شرح اشارات وغیرہ پڑھاتے ہیں، طلبہ کا بہت زیادہ میلان ان کی طرف رہتا ہے، نہایت خوش تقریر ہیں، غرض یہ ایک نہایت قابل قدر اور شہرت و وقعت حاصل کرنے والے مدرس ہیں۔“

۱۳۴۰ھ سے ۱۳۴۳ھ مدرسہ دارالعلوم متو اور مدرسہ امدادیہ در بھنگہ میں صدارت تدریس کی خدمات انجام دیں۔ ۱۳۴۳ھ میں آپ کو پھر دارالعلوم دیوبند میں بلا لیا گیا۔ ۱۳۶۲ھ میں پھر دارالعلوم سے علیحدگی اختیار کی، اولاً جامعہ اسلامیہ ڈابھیل میں مسند صدارت کو رونق بخشی، وہاں کے بعد کچھ عرصے تک مدرسہ عالیہ فتحپوری میں بھی صدر مدرس کی خدمات انجام دیں۔ اس کے بعد بنگال میں ہاٹ ہزاری ضلع چائنگام کے مدرسہ میں صدر مدرس رہے اور بالآخر ۱۳۶۶ھ میں پھر دارالعلوم دیوبند میں واپس آ گئے۔ ۱۳۷۷ھ میں حضرت مدنی کی وفات کے بعد آپ دارالعلوم کی مسند صدارت پر فائز ہوئے اور تادم واپس اس پر متمکن رہے۔

عظیم علمی شخصیت

آپ کے تلامذہ کی تعداد ہزاروں سے متجاوز ہے جو برصغیر کے علاوہ افریقہ کے بہت سے ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ حضرت علامہ ابراہیم بلیاویؒ ہر علم و فن خصوصاً علم کلام و عقائد میں یگانہ روزگار تھے۔ انھوں نے تفسیر وحدیث، عقائد و کلام اور دوسرے علوم کی نمایاں خدمات انجام دیں۔ ان کے درس و تدریس کی مدت ۱۳۲۷ھ سے ۱۳۸۷ھ تک ۶۰ سال ہوتی ہے۔ طلبہ ان کے درس میں بڑے شوق اور انہماک سے شریک ہوتے اور ان کے افادات عالیہ سے مستفید ہونے کے متمنی رہتے تھے۔ درس میں اختصار کے ساتھ بڑی جامعیت کی شان تھی۔ درس کا انداز نہایت باوقار ہوتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لطائف و ظرائف کے پیرائے میں دقیقہ سنجی اور بالغ نظری سے اہم مسائل کو حل کرنے کا خاص ملکہ اور کمال حاصل تھا۔ قصص و حکایات کو مسائل پر اس طرح منطبق کر دیتے تھے کہ مسئلے کے تمام پہلو واضح اور منقح ہو جاتے تھے۔ آپ کے درس کی ایک اور خصوصیت یہ بھی تھی کہ تلامذہ میں فن سے گہری مناسبت پیدا ہو جاتی تھی اور ان پر علم و دانش کی راہیں کھل جاتی تھیں۔ وہ اپنے عہد میں عقائد و کلام و منطق و فلسفہ میں اپنی نظیر نہیں رکھتے تھے۔ حدیث میں روایت سے زیادہ درایت سے کام لیتے تھے۔ حضرت نانوتوی کے علوم پر ان کی گہری نظر تھی۔

علامہ بلیاویؒ نے غیر مقلدین کے رد میں ایک رسالہ مصافحہ اور رسالہ تراویح اردو میں لکھا۔ اسی طرح فارسی میں رسالہ انوار الحکمتہ لکھا جس کے ابواب بطرز شفاء ابن سینا لفظ نور سے معنون ہیں۔ یہ رسالہ فلسفہ و منطق کے مسائل پر مشتمل ہے۔ سلم العلوم پر آپ کا حاشیہ ضیاء النجوم ہے جو عربی میں ایک بہترین شاہ کار ہے۔ یہ چاروں کتابیں طبع ہو چکی ہیں۔ ان کے علاوہ میبذی اور خیالی پر بھی انہوں نے حواشی لکھے تھے لیکن مسودات کا یہ علمی ذخیرہ ضائع ہو گیا۔ آخری عمر میں جامع ترمذی پر حاشیہ لکھ رہے تھے جس کے پورے ہونے کی نوبت نہ آسکی۔

اخیر عمر میں اپنے تلمیذ خاص عالم ربانی حضرت مولانا وصی اللہ فتح پوریؒ ثم الہ آبادی سے بیعت ہو گئے تھے اور اوراد و اشغال میں انہماک بڑھ گیا تھا۔ حضرت کو مولانا وصی اللہ صاحبؒ سے اجازت بیعت بھی حاصل تھی۔

وفات

حضرت علامہ بلیاویؒ ۲۴ رمضان ۱۳۸۷ھ / ۲۶ دسمبر ۱۹۷۶ء کو ۸۴ سال کی عمر میں داعی اجل کو لبیک کہا۔ قبرستان قاسمی دیوبند میں آسودہ خواب ہیں۔

مآخذ:

- تاریخ دارالعلوم دیوبند، جلد دوم، ص ۲۱۵ تا ۲۱۷
- دارالعلوم دیوبند کی پچاس مثالی شخصیات، ص ۱۷۰
- مشاہیر علمائے دیوبند، ص ۴۲۵-۴۳۰

حضرت مولانا سید فخر الدین احمد صاحبؒ

۱۳۰۷-۱۳۹۲ھ/۱۸۸۹-۱۹۷۲ء

حضرت مولانا سید فخر الدین احمد مراد آبادی دارالعلوم کے شیخ الحدیث اور صدر مدرس تھے۔ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی کے بعد شیخ الحدیث کے مسند کو آپ نے زینت بخشی۔ آپ ایک جلیل القدر محدث، محقق عالم اور باخدا بزرگ تھے۔ حضرت شیخ الہند کے تلامذہ کی آخری کڑی تھے جن سے دارالعلوم میں مسند حدیث کا وقار و تمکنت قائم تھا۔

ابتدائی حالات

آپ کا وطن مالوف ہاپوڑ (ضلع میرٹھ) ہے، آپ کے آباؤ اجداد میں سید قطب اور سید عالم اپنے دوسرے دو بھائیوں کے ساتھ عہد شاہجہاں میں ہرات سے دہلی آئے۔ یہ حضرات اپنے زمانے کے ممتاز علما میں سے تھے، شاہ جہاں نے ان کے درس و تدریس کے لیے ہاپوڑ میں ایک مدرسہ تعمیر کرا دیا، سید عالم کا سلسلہ ۲۶ واسطوں سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر منتہی ہوتا ہے۔

۱۳۰۷ھ مطابق ۱۸۸۹ء میں آپ کی ولادت اجیر میں ہوئی جہاں آپ کے دادا سید عبدالکریم محکمہ پولیس میں تھانہ دار تھے۔ چار سال کی عمر میں تعلیم کا آغاز ہوا۔ قرآن شریف والدہ ماجدہ سے پڑھا، فارسی کی تعلیم اپنے خاندان کے بزرگوں سے حاصل کی۔ عمر کے بارہویں سال اپنے خاندانی بزرگ اور عالم مولانا خالد سے عربی صرف و نحو شروع کی۔ اسی دوران میں آپ کی والدہ ماجدہ کو اپنے آبائی مدرسہ کے احیاء کا خیال پیدا ہوا، جو ۱۸۵۷ء کی داروگیر کی نذر ہو گیا تھا۔ چند سال اس میں تعلیم پانے کے بعد آپ کو گلاؤٹھی کے مدرسہ منبع العلوم میں بھیج دیا گیا، وہاں مولانا ماجد علی جون پوری سے مختلف کتابیں پڑھیں۔ بعد ازاں اپنے استاذ مولانا ماجد علی کے ساتھ دہلی چلے گئے، دہلی کے مدارس میں معقولات کی کتابیں پڑھیں۔

اعلیٰ تعلیم کے لیے ۱۳۲۶ھ مطابق ۱۹۰۸ء میں دارالعلوم دیوبند آئے۔ حضرت شیخ الہند نے امتحان داخلہ لیا، امتحان میں امتیازی نمبروں سے سرفراز ہوئے۔ مشکوٰۃ شریف سے آخر تک دارالعلوم میں تعلیم پائی۔ ۱۳۲۸ھ مطابق ۱۹۱۰ء میں شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسنؒ سے دورہ حدیث پڑھ کر سند فراغت حاصل کی۔ حضرت شیخ الہند کی ہدایت کے مطابق دوسرے سال بھی دورہ حدیث کی تکمیل کی۔ آپ کے دوسرے اساتذہ میں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری، مولانا مرتضیٰ حسن چاند پوری، مولانا غلام رسول ہزاروی رحمہم اللہ وغیرہ خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔

دارالعلوم کے زمانہ طالب علمی ہی میں طلبہ کو معقولات کی کتابیں پڑھانے لگے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد مدرسہ شاہی مرادآباد کے مہتمم صاحب کی درخواست پر حضرت شیخ الہندؒ اور مولانا حافظ محمد احمدؒ نے شوال ۱۳۲۹ھ مطابق ۱۹۱۱ء میں آپ کو مدرسہ شاہی مرادآباد میں بھیج دیا جہاں تقریباً ۲۸ سال قیام رہا۔ تقریباً نصف صدی کی اس طویل مدت میں بہت سے طلبہ حدیث نے آپ سے اکتساب فیض کیا ہے۔

دارالعلوم دیوبند میں

حضرت مولانا حسین احمد مدنیؒ نے اپنے مرض و وفات میں باصرار آپ کو مرادآباد سے بلا کر اپنی جگہ صحیح بخاری کے درس کے لیے مامور کیا تھا۔ اس سے پہلے بھی دو مرتبہ حضرت مولانا مدنیؒ کی گرفتاری اور رخصت کے زمانے میں آپ دارالعلوم میں صحیح بخاری کا درس دے چکے تھے۔ چنانچہ ۱۳۷۷ھ مطابق ۱۹۵۷ء میں شیخ الاسلام حضرت مولانا مدنیؒ کی وفات کے بعد دارالعلوم کی مجلس شوریٰ کے اراکین نے دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث کے منصب کے لیے آپ کا انتخاب کیا جب کہ صدر المدرسین کے عہدہ پر حضرت مولانا ابراہیم صاحب بلیاویؒ فائز کیے گئے۔

۱۳۸۷ھ/۱۹۶۷ء میں حضرت مولانا ابراہیم صاحب بلیاویؒ کے انتقال کے بعد صدارت تدریس کا منصب بھی آپ سے متعلق کر دیا گیا۔ اس طرح آپ پندرہ سال تک دارالعلوم کے شیخ الحدیث اور پانچ سال تک صدر المدرسین رہے۔ آپ کے زمانے میں دورہ حدیث کے طلبہ کی تعداد تقریباً ڈھائی سو سے تین سو تک ہوا کرتی تھی۔ دارالعلوم دیوبند میں صحیح بخاری کے درس کا یہ عظیم تعلیمی منصب تقریباً ۶۰ سال سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں مسلسل چلا آ رہا تھا۔

مولانا ممدوح چونکہ حضرت شیخ الہندؒ اور حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیریؒ کے خاص تلامذہ میں سے تھے، اس لیے آپ کے درس حدیث میں دونوں جلیل القدر اساتذہ کے رنگ کی آمیزش پائی جاتی تھی، چنانچہ آپ کا درس بخاری نہایت مبسوط اور مفصل ہوتا تھا، جس میں حدیث کے تمام پہلوؤں پر سیر حاصل بحث ہوتی تھی۔ فقہاء کے مذاہب کو بیان کرنے کے بعد احناف کے فقہی مسلک کی تائید و ترویج میں ایسے پرزور دلائل پیش فرماتے تھے جس کے بعد سامع کے ذہن میں کوئی ادنیٰ خلجان باقی نہیں رہتا تھا۔ اثنائے درس میں صحیح بخاری کی مختلف شروح کے ساتھ ساتھ اپنے اساتذہ کے علوم و معارف بھی جا بجا پیش فرماتے۔ درس حدیث میں آپ کی تقریر مبسوط و مفصل ہونے کے علاوہ سہل اور دل نشین ہوتی تھی، اس لیے کم استعداد کے طلبہ کو بھی استفادے کا پورا پورا موقع مل جاتا تھا۔ انداز بیان نہایت پاکیزہ اور شستہ ہوتا تھا، جس میں آپ کے جمال ظاہری کی تمام خصوصیات بدرجہ اتم پائی جاتی تھیں۔ آپ کے درس بخاری شریف کو شہرت تام اور قبول عام حاصل تھی۔ اپنے دور میں وہ یگانہ روزگار عالم اور درس حدیث کے بے مثل استاذ تھے اور طلبہ ان سے تلمذ پر فخر محسوس کرتے تھے۔

علمی و قومی خدمات

کثرت مشاغل کے علاوہ ملکی سیاست سے بھی آپ کو تحریک خلافت کے زمانے سے تعلق رہا۔ اس کے نتیجے میں قید و بند کی صعوبتیں بھی جھیلنی پڑیں۔ شیخ الاسلام حضرت مدنی کی جمعیت علمائے ہند کی صدارت کے زمانے میں آپ دو مرتبہ نائب صدر بھی رہے اور بعد ازاں مسند صدارت پر فائز ہوئے اور تادم و الپسین جمعیت علمائے ہند کے صدارت کے فرائض انجام دیتے رہے۔

آپ کی تصنیفات میں القول الفصیح فیما يتعلق بنضد ابواب الصحیح (عربی) مطبوعہ ہے، اس میں بخاری شریف کے ابواب کا آپس میں ربط بیان کیا گیا ہے۔ علامہ محمد یوسف بنوریؒ اس کتاب کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ توفد اور ذکاء کا ایک عمدہ نمونہ ہے۔ آپ کی دوسری تالیف ’کتاب التراجم‘ اور ’الرعیین‘ ہے۔ ایضاً البخاری آپ کے درس بخاری کی تقاریر کا مجموعہ ہے جو حضرت مولانا ریاست علی بجنوری استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند نے مرتب فرمایا ہے اور اب تک اس کی دس جلدیں منظر عام پر آچکی ہیں۔

وفات

آخری عمر میں خرابی صحت کی بنیاد پر بغرض علاج مراد آباد لے جائے گئے جہاں کچھ عرصہ علیل رہ کر ۲۰ صفر ۱۳۹۲ھ (۵ اپریل ۱۹۷۲ء) کو نصف شب کے بعد انتقال فرمایا۔ حضرت مولانا محمد طیب صاحب سابق مہتمم دارالعلوم دیوبند نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ سرزمین مراد آباد میں ہی مدفون ہوئے۔

علامہ سید محمد یوسف بنوریؒ آپ کے انتقال پر لکھتے ہیں:

”افسوس کہ مسلمانان ہند اور علمائے اسلام کا ایک درخشندہ تارا ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ آپ دارالعلوم دیوبند کے جلیل القدر محدث، محقق عالم اور باخدا بزرگ تھے۔ اکابر مشائخ اور مسند صدارت حدیث کے ممتاز افراد جس کا سلسلہ حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتویؒ سے شروع ہوا تھا وہ سلسلہ حضرت مولانا فخر الدین احمد پر بظاہر ختم ہو گیا۔ کامل ایک صدی میں علوم نبوت کے آفتاب و ماہتاب جن سے دارالعلوم کی چار دیواری میں بلکہ تمام عالم اسلام میں علم کی شعائیں پہنچتی رہیں، آپ اس سلسلہ کی آخری کڑی تھے اور اب تک اکابر دیوبند اور خصوصاً مسند مشیخت حدیث پر جو حضرات متمکن تھے وہ علم و معرفت کے دونوں چشموں سے سیراب تھے اور ظاہر و باطن دونوں نسبتوں کے حامل تھے، موصوف اس حلقہ کے آخری فرد تھے۔ اب ایسی شخصیت جو اس مسند کو زینت دے ہماری نظروں میں نہیں۔ موصوف نے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندیؒ اور امام العصر مولانا انور شاہ کشمیریؒ دونوں سے فیض حاصل کیا، اور دونوں کے چشموں سے سیرابی نصیب ہوئی۔... اکابر محدثین اور ممتاز اکابر مدرسین کا نمونہ تھے جن کی زندگی کے پورے باسٹھ

سال درس و تدریس میں گزرے۔ درس حدیث میں حافظ بدرالدین عینیؒ اور حافظ ابن حجر عسقلانیؒ کے علوم کا نچوڑ اپنی تقریر میں پیش کرتے تھے اور حضرت دیوبندی اور حضرت کشمیری کے خصائص کی جھلکیاں نظر آتی تھیں۔ غفر اللہ لہ ورحمہ رحمۃ الابرار الصالحین و حشرہ فی زمرۃ العلماء الربانیین!“
(بینات، کراچی، ربیع الثانی ۱۳۹۲ھ / جون ۱۹۷۲ء)

مآخذ:

● تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم، ص ۱۰۵ تا ۱۰۸، ۲۱۲، ۲۱۵

● مشاہیر علمائے دیوبند، ص ۳۹۳ تا ۳۹۴

حضرت مفتی مہدی حسن شاہ جہا پوریؒ

۱۳۰۱-۱۳۹۶ھ/۱۸۸۴-۱۹۷۶ء

حضرت مولانا مفتی سید مہدی حسن شاہ جہا پوریؒ، دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی تھے۔ آپ ایک بلند پایہ عالم دین اور ژرف نگاہ فقیہ و مفتی تھے۔ مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحبؒ کے جلیل القدر تلامذہ میں سے تھے۔ عربی و اردو میں متعدد تحقیقی و علمی کتابوں کے مصنف اور شارح بھی ہیں۔ دارالعلوم دیوبند میں تقریباً پندرہ سال تک مسند صدارت افتاء پر رونق افروز رہے۔

ابتدائی حالات

حضرت مفتی صاحب کا وطن شاہ جہا پور ہے۔ حضرت مفتی صاحب کے جد امجد شیخ ابواسحاق ابراہیم شاہ جہا پور کے عہد میں بغداد سے ہندوستان آئے۔ حضرت مفتی صاحب ۱۳۰۱ھ/۱۸۸۴ء میں شاہ جہا پور میں پیدا ہوئے۔ قرآن کریم والد ماجد جناب سید کاظم حسن صاحب سے پڑھا۔ گیارہ بارہ سال کی عمر میں حفظ کی تکمیل کی۔ فارسی کی ابتدائی کتابیں والد اور بڑے بھائی سے پڑھیں۔ پھر شہر کے مدرسہ عین العلم میں داخل ہوئے اور صرف و نحو کی کتابیں پڑھیں، آپ کے اساتذہ میں بانی مدرسہ مولانا شیخ عبدالحق خلیفہ و مجاز حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ تھے۔ نحو اور فقہ کی کچھ کتابیں حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاہ جہا پوری سے پڑھیں۔ جب حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب مدرسہ امینیہ دہلی منتقل ہو گئے تو آپ کے والد نے آپ کو بھی وہیں بھیج دیا۔ چنانچہ ادب فارسی، ادب عربی، علوم عقلیہ منطق و فلسفہ، علم فقہ، اصول فقہ اور علم حدیث وغیرہ تمام علوم و فنون کی کتابیں حضرت مفتی کفایت اللہ اور دیگر اساتذہ سے پڑھیں اور ۱۳۲۶ھ/۱۹۰۸ء میں سند فراغ حاصل کی۔ صحیح بخاری و سنن ترمذی کے اطراف سنا کر حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسنؒ سے حدیث کی اجازت حاصل کی اور ۱۳۲۸ھ/۱۹۱۰ء میں دارالعلوم دیوبند کے جلسہ دستار بندی میں آپ کی بھی دستار بندی ہوئی۔

تعلیم سے فراغت کے بعد حضرت مفتی کفایت اللہ صاحبؒ نے انہیں مدرسہ اشرفیہ راندر ضلع سورت بھیج دیا، وہاں سات سال صحاح ستہ کی تدریس اور افتاء کی خدمات انجام دیتے رہے۔ پھر چار سال تک مدرسہ محمدیہ راندر میں صدر مدرس کی حیثیت سے صحاح ستہ کی تدریس کے فرائض انجام دیے۔ اہل گجرات پران کے علم و فضل کا بڑا اثر تھا۔ فقہ حنفی میں بے نظیر مہارت کے ساتھ حدیث اور اسماء الرجال پر بھی ان کی نظر بڑی گہری تھی۔ ۱۳۳۸ھ/۱۹۲۰ء سے ۱۳۶۶ھ/۱۹۴۷ء تک صوبہ بمبئی میں افتاء میں مشغول رہے۔

دارالعلوم دیوبند میں

۱۳۶۷ھ/۱۹۲۸ء میں دارالعلوم دیوبند کی نظر انتخاب آپ پر پڑی اور دارالافتاء میں صدر مفتی کے منصب پر فائز کیا گیا۔ ۱۳۸۷ھ/۱۹۶۷ء میں اپنی طویل علالت اور ضعف و کمزوری کی وجہ سے دارالعلوم سے سبکدوش ہو کر وطن مالوف شاہ جہاں پور چلے گئے۔ آپ کے زمانہ صدارت میں دارالافتادارالعلوم سے ۵۳۲۴ ارفاوی جاری ہوئے۔ دارالعلوم میں کئی سال تک طحاوی شریف کا درس بھی دیا۔ آپ کا درس محققانہ اور عالمانہ ہوا کرتا تھا۔

حضرت مفتی صاحب جید الاستعداد عالم دین اور دور بین مفتی تھے۔ ساتھ ہی علوم دینیہ میں بڑی عمیق نظر رکھتے تھے۔ فقہ و فتاویٰ سے طبعی مناسبت تھی۔ کتب فتاویٰ میں وسعت معلومات میں اپنی نظیر نہیں رکھتے تھے۔ بڑی خوبی یہ تھی کہ حتمی رائے رکھتے تھے اور تذبذب اور اگر مگر کے چکر میں کبھی نہیں الجھتے تھے۔ جو رائے ہوتی اسے بڑی مضبوطی سے کہتے اور لکھتے تھے۔ ایک مفتی کے جو اوصاف ہونے چاہئیں وہ آپ میں بدرجہ اتم موجود تھے۔ الجھے ہوئے مسائل میں مشورہ کرتے تھے اور دلائل سے جس پہلو کو راجح سمجھتے تھے اس پر عمل کرتے تھے۔ سخت ہونے کے باوجود مسائل و احکام میں ضد نہیں تھی۔ افتاء میں کسی کا دباؤ ہرگز قبول نہیں کرتے تھے اور نہ مصلحت کے نام پر مدہنت کو پسند کرتے تھے۔

فقہ و فتاویٰ کے علاوہ علم حدیث سے بڑا عمدہ لگاؤ تھا۔ صحاح ستہ اور دیگر کتب حدیث کے متخصص اور ممتاز عالم تھے۔ علم حدیث کا مطالعہ کافی وسیع تھا اور اختلافی مسائل پر گہری نظر تھی۔ علمائے حنفیہ سے خصوصی شغف اور کتب الرجال اور طبقات و تراجم کے اوراق سے علمائے احناف کے انقاط کا خصوصی اہتمام فرماتے۔ ابتدائی زندگی میں غیر مقلدین کے بحث مباحثے ہوتے رہتے تھے اس لیے تمام مسائل از بر تھے۔ غیر مقلدین کے رد میں متعدد رسائل بھی تحریر فرمائے۔

اوصاف و کمالات

حضرت مفتی مہدی حسن صاحب زاہد و متقی، متواضع اور فیاض طبع تھے، اس کے ساتھ ساتھ صاف گو اور اظہار حق میں بیباک تھے۔ شاعری سے ذوق رکھتے تھے اور آزاد، تخلص تھا۔ اردو میں بہت ادیبانہ شعر کہتے تھے۔ تحریر میں بڑے طویل النفس تھے، جکان اور اکتاہٹ آپ کے قریب بھی نہیں پہنکتی تھی۔ آپ کا عربی اسلوب تحریر بہت آسان اور صاف ستھرا تھا۔ کثیر المطالعہ، شب بیدار، انتہائی مہمان نواز، کریم النفس، فراخ دست اور کشادہ دل تھے۔ اللہ کے دین کے معاملہ میں حمیت و غیرت ان پر غالب آجاتی تھی اور پھر کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔

زمانہ طالب علمی میں حضرت گنگوہیؒ سے بیعت ہو گئے تھے، بعد میں حضرت گنگوہیؒ کے خلیفہ حضرت مولانا شفیع الدین کئی سے اجازت و خلافت حاصل ہوئی۔

تصنیفات و تالیفات

حضرت مفتی مہدی حسن صاحب کئی اہم کتابوں کے مصنف و مرتب ہیں جن میں حدیث کی (۱) شرح معانی الآثار للطحاوی کی عربی شرح فلائد الاذہار کے نام سے ۶ جلدوں میں ہے، اس کی دو جلدیں طبع ہو چکی ہیں۔ (۲) آپ نے سب سے زیادہ محنت فقہ میں امام محمد شیبانیؒ کی کتاب الحجۃ لاہل المدینۃ پر کی ہے جو ۴ جلدوں میں ہے، اس کی تصحیح اور تعلق کی ہے۔ دائرۃ المعارف حیدرآباد سے اس کی ابتدائی دو جلدیں چھپی ہیں۔ یہ کتاب بڑی نایاب تھی، اس کا ایک نسخہ استنبول میں موجود تھا۔ یہ فقہ حنفی کی بنیادی کتابوں میں سے ہے۔ مفتی صاحب نے اس کے مسودے کی تصحیح و تعلق میں ۲۰ سال صرف کیے۔ (۳) امام محمدؒ کی کتاب الآثار پر آپ کی تعلیقات گراں قدر علمی سرمایہ ہیں جو تین جلدوں میں مطبوعہ ہیں۔

علاوہ ازیں، دیگر کتب جیسے (۴) الدر الثمین (۵) رجال کتاب الآثار (۶) شرح بلاغات محمد فی کتاب الآثار (۷) الایہتداء فی رد البعدۃ عربی زبان میں ہیں۔ (۸) نخبۃ الفکر کی شرح بھی آپ نے لکھی جو ہنوز غیر مطبوعہ ہے۔ ان کے علاوہ اردو میں دو درجن سے زائد رسائل بھی تصنیف فرمائے جن میں سے کچھ کے نام درج ذیل ہیں: (۹) القاء اللعۃ علی حدیث لاجمعة (۱۰) اقامۃ البرہان (۱۱) قطع الوتین (۱۲) بنس القرین (۱۳) الاختلاف المبین (۱۴) مفید القاری والسامع (۱۵) التوضیحات (۱۶) کشف الغمۃ عن سراج الائمة (۱۷) فراسة العریف (۱۸) التحقیق التام فی ما اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام (۱۹) رفع الارتیاب (۲۰) شمیم حیدری (۲۱) ضربۃ الصمصام (۲۲) اظہار دجل المرید (۲۳) اظہار الصواب (۲۴) اظہار اسرار المتحدثین (۲۵) الاسعاف (۲۶) التثویر فی حکم الحجر بالتکبیر (۲۷) القول الصواب (۲۸) طلوع بدر الرشاد (۲۹) ابن حزم کی مشہور کتاب پر استدراک مسیحی السیف الجلی علی الجلی وغیرہ۔

وفات

مفتی صاحب ۱۳۸۷ھ/۱۹۶۷ء میں علالت اور ضعف و کمزوری کی وجہ سے دیوبند سے اپنے وطن شاہ جہاں پور منتقل ہو گئے تھے اور طویل علالت کے بعد وہیں ۹۴ سال کی عمر میں ۲۷ ربیع الثانی ۱۳۹۶ھ/۲۸ اپریل ۱۹۷۶ء کو وفات پائی۔

مآخذ:

- تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم، ص ۲۵۷ تا ۲۵۸
- مشاہیر علمائے دیوبند، ص ۶۱۰ تا ۶۱۳
- فہرست کتب اکابر، کتب خانہ دارالعلوم دیوبند

حضرت مولانا فخر الحسن مراد آبادیؒ

۱۳۲۳-۱۳۰۰ھ/۱۹۰۵-۱۹۸۰ء

حضرت مولانا سید فخر الدین احمد مراد آبادیؒ کے (م ۱۳۹۲ھ/۱۹۷۲ء) کے انتقال کے بعد حضرت مولانا فخر الحسن مراد آبادیؒ دارالعلوم کے صدر مدرس ہوئے۔ آپ ایک عظیم عالم دین، تفسیر و حدیث کے ماہر استاذ اور بہترین مقرر تھے۔ ۱۰ رجب ۱۳۲۳ھ/ ۸ ستمبر ۱۹۰۵ء کو اپنے آبائی وطن قصبہ عمری ضلع مراد آباد میں پیدا ہوئے۔ قرآن شریف، اردو، دینیات اور ابتدائی فارسی کی تعلیم حافظ نسیم الدین اور حافظ عبدالقادر امر وہی سے حاصل کی۔ آپ کے والد ماجد مدرسہ شاہی مراد آباد میں کتب خانہ کے ناظم تھے، اس لیے تقریباً ۱۳۳۵ھ/ ۱۹۱۷ء میں مدرسہ شاہی مراد آباد میں داخل ہو گئے۔ یہاں فارسی کی تکمیل کی، درس نظامی کی ابتدائی کتابیں اپنے والد ماجد سے پڑھیں۔ پھر مظاہر علوم سہارنپور میں داخلہ لیا اور متوسطات کی تحصیل کی۔ ۱۳۳۳ھ/ ۱۹۲۵ء میں دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے اور ۱۳۳۷ھ/ ۱۹۲۹ء میں دورہ حدیث کی تکمیل کر کے فارغ التحصیل ہوئے۔

تعلیم سے فراغت کے بعد مدرسہ عالیہ فتح پوری دہلی میں مدرس مقرر ہوئے، پھر وہاں سے آپ بہار چلے گئے اور مدرسہ شمس الہدی پٹنہ میں صحاح ستہ کی بعض کتابیں پڑھانے پر مامور کیے گئے، مگر ڈیڑھ سال کے بعد پھر مدرسہ عالیہ فتح پوری دہلی میں واپس آ گئے اور صحیح مسلم و امور عامہ وغیرہ کتابیں دی گئیں۔

۱۳۶۲ھ/ ۱۹۴۳ء میں دارالعلوم میں آپ کا تقرر ہوا۔ دارالعلوم دیوبند میں آپ کے درس صحیح مسلم اور تفسیر بیضاوی کو خاص شہرت حاصل ہوئی، چنانچہ تفسیر بیضاوی کی آپ کی درسی تقریر 'التقریر الجاوی' کے نام سے شائع ہو کر مقبول عام ہوئی۔ وعظ و تقریر میں بھی آپ کو کامل دستگاہ حاصل تھی۔

آپ حضرت مولانا سید فخر الدین احمدؒ کے زمانے میں دارالعلوم کے نائب صدر المدرسین رہے اور ان کے انتقال کے بعد ۱۳۹۲ھ/ ۱۹۷۲ء میں صدر المدرسین بنا دیے گئے جس پر آپ اخیر عمر تک فائز رہے۔

تصوف و سلوک میں آپ کو حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوریؒ سے اجازت و خلافت حاصل تھی۔

۷ ذوالقعدہ ۱۴۰۰ھ (۱۷ ستمبر ۱۹۸۰ء) کی شب آپ کا انتقال ہوا۔

مآخذ:

تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم، ص ۱۶۱ تا ۱۶۲، ۱۱۹ تا ۱۲۰؛ ریکارڈ محافظ خانہ و تعلیمات

حضرت مولانا شریف حسن دیوبندیؒ

۱۳۳۸-۱۳۹۷ھ/۱۹۲۰-۱۹۷۷ء

حضرت مولانا شریف حسن دیوبندیؒ دارالعلوم کے شیخ الحدیث تھے۔ آپ علم و عمل، تقویٰ و طہارت اور فضائل اخلاق میں علمائے سلف کی یادگار تھے۔ نیز اپنے علمی تبحر اور علم حدیث سے خصوصی تعلق و شغف اور اپنی پاکیزہ نفسی کے باعث اپنے معاصر علماء میں ممتاز سمجھے جاتے تھے۔

آپ دیوبند کے رہنے والے تھے۔ ۴ ذوالحجہ ۱۳۳۸ھ/۱۹ اگست ۱۹۲۰ء کو دیوبند میں پیدا ہوئے۔ یہیں حافظ عبدالحق مرحوم سے قرآن شریف حفظ کیا، پھر تین سال تک فارسی اور عربی کی ابتدائی کتابیں بیٹ (ضلع سہارنپور) کے مدرسہ میں رہ کر پڑھیں۔ بعد ازاں دارالعلوم دیوبند میں داخل ہو کر درس نظامی کے نصاب کی تکمیل کی۔ ۱۳۵۸ھ/۱۹۳۹ء میں دورہ حدیث سے فارغ التحصیل ہوئے۔

تعلیم سے فراغت کے بعد شوال ۱۳۶۰ھ مطابق ۱۹۴۱ء میں مدرسہ امداد العلوم خانقاہ امدادیہ تھانہ بھون میں صدر مدرس مقرر ہوئے۔ آپ کو جملہ علوم و فنون میں کامل دست گاہ حاصل تھی۔ حکیم الامت حضرت تھانویؒ کے فیض صحبت سے حدیث اور افتاء سے خاص مناسبت پیدا ہوئی۔ ۱۳۶۴ھ میں مدرسہ اشاعت العلوم بریلی کے صدر المدرسین بنائے گئے، وہاں درس حدیث کے ساتھ افتاء کے فرائض بھی انجام دیئے۔ ۹ سال کے بعد ڈابھیل (ضلع سورت) میں شیخ الحدیث مقرر ہوئے، وہاں صحیح بخاری اور جامع ترمذی زیر درس رہیں۔

۱۳۸۳ھ/۱۹۶۳ء میں آپ کو دارالعلوم بلا لیا گیا۔ آپ کو علم حدیث سے خاص شغف تھا۔ حضرت مولانا سید فخر الدین احمدؒ کے بعد بخاری شریف کے درس کو سنبھالنا آپ کا بڑا علمی کارنامہ ہے۔ تادم واپس شیخ الحدیث کے فرائض انجام دیتے رہے۔ آپ کی پوری زندگی درس و تدریس اور علوم دینیہ کے طلبہ کی خدمت میں گزری۔ درس علمی مواد سے بھرپور ہوتا تھا اور طلبہ آپ کے درس سے مطمئن ہو کر اٹھتے تھے۔ وفات سے چند گھنٹے قبل تک ان کا علمی فیضان جاری رہا۔ مولانا شریف حسن صاحب علم و عمل، تقویٰ و طہارت اور فضائل اخلاق میں علمائے سلف کی یادگار تھے۔ وہ اپنے علمی تبحر اور علم حدیث سے خصوصی تعلق و شغف اور اپنی پاکیزہ نفسی کے باعث اپنے معاصر علماء میں ممتاز سمجھے جاتے تھے۔ ہر چھوٹے بڑے سے خندہ پیشانی سے ملتے تھے۔

۱۵/۱۲ جمادی الثانی ۱۳۹۷ھ/ یکم جون ۱۹۷۷ء کو تقریباً ۵۸ سال کی عمر میں بعارضہ قلب چند گھنٹوں کی مختصر علالت کے بعد واصلِ جنت ہوئے۔ قبر سان قاسمی دیوبند آپ کی ابدی آرام گاہ ہے۔

ماخذ:

دور ثالث کے مشاہیر اراکین مجلس شوریٰ

حضرت مولانا محمد صادق کراچویؒ

جلیل القدر اور ممتاز علماء میں شمار تھا۔ تحریک ریشمی رومال کے سرگرم رکن تھے۔ جمعیتہ علمائے ہند کے بانیوں میں آپ کا نام بھی شامل ہے۔ نہایت جوشیلی، رازدار اور مستقل مزاج شخصیت کے مالک تھے۔

مولانا محمد صادق بن مولانا عبداللہ بن عبدالکریم کراچی کے باشندے تھے۔ ۲۵ محرم ۱۲۹۱ھ / ۱۵ مارچ ۱۸۷۴ء میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد کے قائم کردہ مدرسہ مظہر العلوم کھڈہ میں حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے دارالعلوم میں داخل ہوئے اور ۱۳۱۲ھ / ۱۸۹۴ء میں حضرت شیخ الہندؒ سے حدیث کی تکمیل کی۔

حضرت شیخ الہندؒ کی تحریک آزادی کے اہم اور سرگرم رکن تھے۔ مولانا عبید اللہ سندھیؒ سے ان کے بہت گہرے اور مخلصانہ تعلقات تھے۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران جب انگریزوں نے عراق پر حملہ کیا جو ترکی کے قلمرو میں شامل تھا تو انہوں نے سندھ میں لس بیلا کے بلوچی قبائل میں بغاوت کرا دی جس کی وجہ سے انگریز عراق میں بروقت کمک نہ پہنچا سکے اور وہاں انگریزی فوجوں کو محصور ہو کر ترکوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہونا پڑا۔ مولانا محمد صادق کو بغاوت برپا کرنے کے جرم میں گرفتار کر کے کاڑواڑ مہاراشٹر میں نظر بند کر دیا گیا۔ جنگ ختم ہو جانے پر رہا کیے گئے۔ جنود بانیہ کی فہرست میں ان کا عہدہ کرنل کا تھا۔

تحریک خلافت کے زمانے میں اہم سیاسی خدمات انجام دیں۔ خلافت کمیٹی اور جمعیتہ علمائے سندھ کے مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ جمعیتہ علمائے ہند کی ورکنگ کمیٹی کے آخر تک رکن رہے۔ تقسیم پاکستان کے بعد ۱۹۴۸ء میں جمعیتہ علمائے اسلام کا قیام عمل میں آیا تو آپ اس کے صدر مقرر ہوئے۔

۱۳۵۰ھ / ۱۹۳۱ء سے ۱۳۶۷ھ / ۱۹۴۷ء تک دارالعلوم کی مجلس شوریٰ کے رکن رہے۔

انہوں نے کراچی کے کھڈہ محلہ میں اپنے والد کے قائم کردہ مدرسہ کو جامعہ مظہر العلوم میں تبدیل کر دیا اور دورہ حدیث کی تعلیم شروع کی۔ آپ اس مدرسہ کے مہتمم اور شیخ الحدیث تھے۔

تدریسی مشغلہ کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ ۱۹۲۲ء میں شدھی تحریک کے مقابلہ کے لیے آپ نے انجمن نو مسلمانان سندھ قائم کی اور اس کے تحت ہزاروں ہندوؤں اور غیر مسلموں کو دائرۃ اسلام میں داخل کیا۔

کراچی میں ۱۸ جون ۱۹۵۳ء / ۵ شوال ۱۳۷۲ھ میں انتقال ہوا۔

ماخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم، ص ۷۸؛ مشاہیر علمائے دیوبند، ص ۵۱۷-۵۲۲

حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی

مشہور عالم دین، صاحب طرز ادیب، مؤرخ، محقق، مصنف اور جامع علمی شخصیت کے مالک تھے۔ بہار کی مردم خیز سرزمین کے دُر شہوار تھے۔

۹ رجب الاول ۱۳۱۰ھ / یکم اکتوبر ۱۸۹۲ء کو اپنے نہال استھانواں میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے وطن گیلانی میں اپنے چچا حکیم سید ابوالنصر سے پائی۔ ان کے خاندانی بزرگوں پر معقولات کا رنگ غالب تھا، اس لیے مزید تعلیم کے لیے ۱۳۲۲ھ / ۱۹۰۶ء میں مولانا برکات احمد مرحوم سے پڑھنے کے لیے ٹونک راجستھان بھیج دیا گیا۔ مولانا برکات احمد معقولات کے ایک نامور عالم تھے۔ سات سال تک ان سے معقولات کی چھوٹی بڑی کتابیں پڑھیں۔

ٹونک میں معقولات کی تعلیم کے بعد انھوں نے والدین سے اصرار کیا کہ دیوبند جانا چاہتے ہیں جس کی بالآخر انھیں اجازت مل گئی۔ انھوں نے جب دارالعلوم دیوبند میں قدم رکھا تو ان کے ذہن و فکر پر اپنے خاندان اور اپنے استاذ مولانا برکات احمد ٹونکی کی معقولیت کی گہری چھاپ تھی۔ ۱۳۳۱ھ / ۱۹۱۳ء میں انھوں نے داخلہ لیا اور ۱۳۳۲ھ / ۱۹۱۴ء میں دورہ حدیث میں شریک رہ کر دارالعلوم سے کتب حدیث کی سند حاصل کی۔ دارالعلوم میں حضرت شیخ الہند، حضرت علامہ کشمیری اور حضرت علامہ عثمانی رحمہم اللہ اور دیگر اساتذہ کے علمی و روحانی فیضان تربیت سے ان کی زندگی کا رخ معقولات کے بجائے تفسیر و حدیث اور سلوک و معرفت کی طرف مڑ گیا اور فکر و نظر کی وہ تمام بنیادیں متزلزل ہو گئیں جو خاندان، تعلیم اور گرد و پیش نے ان کے گرد چنی تھیں۔

مولانا گیلانی تعلیم سے فراغت کے بعد کچھ مدت تک رسالہ 'القاسم' اور 'الرشید' میں معاون مدیر کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ اس زمانے میں انھوں نے اپنے علمی اور تحقیقی مضامین اور والہانہ طرز نگارش سے علمی حلقوں میں نمایاں مقام حاصل کر لیا تھا۔

حضرت مولانا حافظ محمد احمد کی سفارش سے مولانا گیلانی کا حیدرآباد میں جامعہ عثمانیہ میں تقرر ہو گیا جہاں بالآخر وہ شعبہ دینیات میں صدر مقرر ہوئے۔ انھوں نے تقریباً ۲۵ سال تک حیدرآباد میں علمی خدمات انجام دیں۔ ان کے درس و تربیت سے جامعہ عثمانیہ میں دین داری کا ماحول پیدا ہو گیا اور ان کے تلامذہ میں بعض نامور اہل قلم ہوئے۔

آپ صاحب طرز مصنف، نیز ذہن و ذکاؤ اور طباعی میں منفرد تھے۔ آپ اپنے علم و فضل، کثرت معلومات، وقت نظر، نکتہ رسی اور دقیقہ سنجی میں نادرہ روزگار تھے۔ اپنے علمی اور تحقیقی مضامین اور والہانہ طرز نگارش سے علمی حلقوں میں نمایاں مقام حاصل کر لیا تھا۔ حضرت مولانا گیلانی کے سلسلہ میں حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی لکھتے ہیں:

”مولانا عالموں میں عالم، ادیبوں میں ادیب، مورخوں میں مورخ، فقیہوں میں فقیہ، محدثوں میں محدث اور مفسروں میں مفسر تھے۔ فارسی اور اردو کا یکساں مذاق تھا۔ شعر و شاعری کا ذوق اور سخن

شناشی و سخن سنجی دونوں سے حصہ وافر ملا تھا..... بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ وسعت نظر، وسعت مطالعہ، رسوخ فی العلم اور ذکاوت میں ان کی نظیر اس وقت ممالک اسلامیہ میں ملنی مشکل ہے والغیب عند اللہ۔ تصنیف و تالیف کے لحاظ سے وہ عصر حاضر کے عظیم مصنفین میں شمار کئے جانے کے مستحق ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں جو مواد جمع کر دیا ہے وہ بیسیوں آدمیوں کو محقق اور مصنف بنا سکتا ہے اس ایک آدمی نے تنہا وہ کام کیا ہے جو یورپ میں پورے پورے ادارے اور منظم جماعتیں کرتی ہیں، ان جیسا آدمی برسوں میں پیدا ہوتا ہے۔ اور اب ان جیسا آدمی شاید برسوں میں بھی پیدا نہ ہو۔ (پرانے چراغ، جلد اول، ص ۶۲، ۹۳)

مولانا گیلانی کی اہم تصنیفات و تالیفات حسب ذیل ہیں:

- (۱) سوانح قاسمی، تین جلدیں (۲) ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم، دو جلدیں (۳) مقالات احسانی
- (۴) اسلامی معاشیات (۵) تدوین حدیث (۶) تدوین قرآن (۷) تدوین فقہ (۸) سوانح عمری ابوذر غفاریؓ
- (۹) کائنات روحانی (۱۰) ہزار سال پہلے (۱۱) تذکیر بسورۃ الکہف (۱۲) الدین القیم (۱۳) امام ابوحنیفہؒ کی سیاسی زندگی (۱۴) النبی الخاتم صلی اللہ علیہ وسلم (۱۵) تذکرہ شاہ ولی اللہؒ (۱۶) مسلمانوں کی فرقہ بندیوں کا افسانہ
- (۱۷) مکاتیب گیلانی (۱۸) احاطہ دارالعلوم میں بیتے ہوئے دن، وغیرہ۔

ان کے علاوہ آپ نے سیکڑوں علمی و تحقیقی مقالات لکھے جو اس وقت کے مشہور رسائل (جیسے معارف، الفرقان وغیرہ) میں شائع ہوئے۔

۱۳۵۰ھ/۱۹۳۱ء سے ۱۳۶۷ھ/۱۹۴۸ء تک دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے رکن رہے۔

آخر میں جامعہ عثمانیہ سے وظیفہ یاب ہو کر اپنے وطن گیلانی میں مقیم ہو گئے تھے۔ وہیں طویل علالت کے بعد ۲۵ ر شوال ۱۳۷۵ھ/۵ جون ۱۹۵۶ء کو وفات پائی۔

ماخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم، ص ۱۱۸-۱۲۱؛ پچاس مثالی شخصیات، ص ۱۵۶-۱۵۷

حضرت مولانا محمد الیاس کاندھلویؒ

تبلیغی جماعت کے بانی، حضرت شیخ الہند کے شاگرد اور دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے رکن تھے۔

۱۳۰۳ھ/۱۸۸۵ء میں کاندھلہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی تعلیم مظاہر علوم سہارن پور میں ہوئی، حضرت مولانا خلیل احمد انیسٹھوئیؒ سے دورہ حدیث کی تکمیل کی۔ سلوک کی تکمیل بھی حضرت مولانا خلیل احمدؒ سے کی۔ ۱۳۲۶ھ مطابق ۱۹۰۸ء میں حضرت شیخ الہند کے درس میں شرکت کے لیے دارالعلوم دیوبند آئے اور ترمذی و بخاری کی سماعت کی۔

فراغت کے بعد اپنے والد مولانا محمد اسماعیل کاندھلویؒ کی جگہ بستی نظام الدین دہلی کی بنگلہ والی مسجد میں سکونت پذیر ہو گئے اور وہیں سے وہ انقلاب آفریں کارنامہ انجام دیا کہ جس کے دائرہ کار میں آج دنیا کے سارے

اہم ممالک شامل ہیں اور اسلام کی دعوت و تبلیغ کا پیغام لے کر دنیا کے گوشے گوشے میں قافلے رواں دواں ہیں۔ آپ نے تبلیغ کا آغاز میواتیوں کی آبادی سے کیا جو دہلی کے نواح میں واقع ہے۔ وہاں کی تیس لاکھ کی آبادی جو میوقوم پر مشتمل تھی جو خود کو مسلمان کہتی تھی لیکن کسی رخ سے مسلمان نظر نہیں آتی تھی، آپ کی انتھک جدوجہد نے ان میں انقلاب عظیم پیدا کیا اور انھیں صراطِ مستقیم پر لگا دیا۔ آپ کی کوششوں سے نہ صرف ان کی اصلاح ہوئی بلکہ وہ اسلام کے داعی بن گئے۔ ان میں اتنی صلاحیتیں پیدا ہو گئیں کہ اب وہ ملکوں ملکوں گھوم پھر کر اسلام کا پیغام پہنچانے والے بن گئے۔ دہلی میں ہستی حضرت نظام الدین کی بنگلہ والی مسجد آپ کا مستقر بنی رہی جو آج عالمی تبلیغی جماعت کا مرکز ہے جس کی سربراہی میں پوری دنیا میں تبلیغی جماعت کے کارواں شب و روز رواں دواں ہیں؛ حتیٰ کہ یورپ و امریکہ کی سرزمین تک ان کی سرگرمیاں جاری ہیں۔ آپ کے بے پایاں خلوص و للہیت کی وجہ سے اللہ نے اس تحریک کو ایسی کامیابی دی کہ قرونِ اولیٰ کے علاوہ پوری اسلامی تاریخ میں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔

آپ ۱۳۵۱ھ/۱۹۳۲ء سے ۱۳۵۳ھ/۱۹۳۴ء تک دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے رکن رہے۔ ۱۲ جولائی ۱۹۴۴ء/۲۱ رجب ۱۳۶۳ھ کی شب کو دہلی میں انتقال ہوا۔

مآخذ: پچاس مثالی شخصیات، ص ۱۳۲؛ کاروانِ رفتہ، ص ۳۱-۳۲؛ اکابر علمائے دیوبند، ص ۱۴۱-۱۴۵؛ دارالعلوم دیوبند کی صد سالہ زندگی، ص ۱۰۵

حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلویؒ

مفتی اعظم ہند، فقیہ دوراں اور مدبر سیاست داں تھے۔ جمعیۃ علمائے ہند کی تاسیس میں پیش پیش رہے اور مسندِ صدارت پر بھی فائز ہوئے۔ علم و فضل، تقویٰ و طہارت اور اخلاق و کمالات کے لحاظ سے طبقہ علماء کی ایک بے نظیر شخصیت تھے۔ وہ وقت کے ان چیدہ اور منتخب روزگار علماء میں تھے جو بیک وقت عالم و فاضل، فقیہ و محدث، ادیب و شاعر اور غیر مجاہد تھے۔ ان کی شخصیت نہ صرف معاصرین بلکہ اساتذہ و اکابرین میں قابل اعتماد تھی اور سب ہی ان کے علم و فضل، اعتدالِ مزاج اور رعایتِ حدود کے قائل تھے۔

۱۲۹۲ھ/۱۸۷۵ء میں شاہجہاں پور میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام شیخ عنایت اللہ تھا۔ ابتدائی تعلیم وطن میں مختلف اساتذہ سے حاصل کی۔ پھر کچھ کتابیں مدرسہ اعزازیہ شاہجہاں پور میں پڑھیں۔ بعد ازاں مدرسہ شاہی مراد آباد میں داخل ہو گئے۔ وہاں مولانا عبدالعلی میرٹھی اور دوسرے اساتذہ سے پڑھا۔ آخر میں دارالعلوم میں داخل ہوئے اور ۱۳۱۳ھ/۱۸۹۶ء میں حضرت شیخ الہند سے حدیث کی تکمیل کر کے فارغ التحصیل ہو گئے۔

دارالعلوم سے فراغت کے بعد آپ مدرسہ عین العلم شاہجہاں پور میں مدرس مقرر ہوئے۔ اسی زمانے میں آپ نے فتویٰ نویسی کا آغاز کیا اور قادیانیت کی تردید کے لیے ۱۳۲۱ھ/۱۹۰۳ء میں ایک ماہانہ رسالہ البرہان جاری کیا۔

۱۳۲۱ھ/۱۹۰۴ء کے اواخر میں مولانا امین الدین دہلوی کے اصرار پر مدرسہ امینیہ دہلی تشریف لے گئے اور وہاں تا دم واپس صدرا مدرسین اور شیخ الحدیث کے عہدہ پر قائم رہے۔ حضرت مفتی صاحب کا ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے مدرسہ امینیہ دہلی کو اپنی جدوجہد سے غیر معمولی ترقی دی اور اس کا ہندوستان کے مشہور دینی مدارس میں شمار ہونے لگا۔

۱۳۵۵ھ/۱۹۳۶ء سے دارالعلوم کی مجلس شوریٰ کے رکن منتخب ہوئے اور آخر عمر تک اپنے فہم و تدبر سے دارالعلوم کے ارباب انتظام کو مستفید کرتے رہے۔

حضرت مفتی صاحب کو اپنے استاذ حضرت شیخ الہند سے بڑی ارادت تھی، اس لیے شروع ہی سے آپ سیاسیات میں دل چسپی لینے لگے۔ آپ کی ملی و قومی خدمات کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ ۱۹۱۹ء میں آپ نے دیگر علماء کے ساتھ مل کر جمعیتہ علمائے ہند قائم کی۔ ۱۹۲۰ء سے ۱۹۲۰ء تک جمعیتہ علمائے ہند کے صدر مقرر ہوتے رہے۔ جمعیتہ علمائے ہند اور کانگریس کی تحریکوں میں ہمیشہ پیش پیش رہے۔ تحریک ترک موالات کا فتویٰ آپ نے ہی مرتب کیا تھا۔ سیاسی سرگرمیوں کے سلسلہ میں آپ کو قید و بند سے بھی دوچار ہونا پڑا۔ شدھی اور سنگٹھن کے خطرناک فتنہ سے لے کر ہندوستان کی آزادی تک آپ کی زندگی بے انتہا سرفروشیوں، جاں سپاریوں اور قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔

آل سعود نے حجاز پر قبضہ کے بعد دنیائے اسلام کے علماء کو حجاز میں نظام حکومت پر غور کرنے کے لیے جو کانفرنس بلائی تھی، اس کانفرنس میں چند علماء کے ساتھ ہندوستان کی طرف سے بہ طور رئیس الوفد شریک ہوئے تھے اور متعدد اہم امور میں علمائے حجاز اور ملک عبدالعزیز سے تبادلہ خیال کیا تھا۔ اسی طرح قاہرہ مصر میں جب فلسطین کانفرنس بین الاقوامی پیمانے کی منعقد ہوئی تو ہندوستانی مسلمانوں کی طرف آپ نے ہی نمائندگی کا فریضہ انجام دیا۔

آپ ایک عظیم مفتی اور فقیہ تھے۔ آپ کے فتاویٰ کی ایک اہم خصوصیت یہ تھی کہ بہت مختصر فتاویٰ لکھتے تھے اور ان کی زبان بہت صاف اور واضح ہوتی تھی۔ آپ کے فتاویٰ کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ آپ کے فرزند مولانا حفیظ الرحمن واصف نے آپ کے فتاویٰ کو مرتب کر کے 'کفایت المفتی' کے نام سے نو جلدوں میں شائع کیا۔ آپ کی ایک دوسری مشہور تصنیف 'تعلیم الاسلام' ہے جو سوال و جواب کے طرز پر بچوں کے لیے نہایت سلیس چار حصوں میں لکھی گئی۔ یہ کتاب اتنی مقبول ہوئی کہ انگریزی، ہندی اور دنیا کے بہت سی زبانوں میں اس کے ترجمے ہو چکے ہیں اور مدارس وغیرہ کے نصاب تعلیم میں داخل ہے۔ عربی کے قادر الکلام شاعر تھے، ان کی عربی شاعری کا ایک مختصر رسالہ 'روض الریاحین' شائع بھی ہوا۔

۳۱ دسمبر ۱۹۵۲ء کو انتقال ہوا اور مہرولی (دہلی) کے ظفر محل میں دفن کیے گئے۔

تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم، ص ۷۹-۸۱؛ کاروانِ رقتہ، مولانا اسیر ادروی، ص ۲۱۷؛

مفتی اعظم ہند، ڈاکٹر ابوسلمان شاہ جہاں پوری

حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوریؒ

مشہور خانقاہ رائے پور کے شیخ طریقت اور بہت سے علمائے دیوبند کے مقتدا و شیخ تھے۔
موضع ڈھڈیاں ضلع سرگودھا میں ۱۲۹۵ھ/ ۱۸۷۸ء میں پیدا ہوئے۔ تعلیم کی تکمیل حضرت نانوتویؒ کے
شاگرد رشید حضرت مولانا عبدالعلی میرٹھیؒ سے مدرسہ عبدالرب دہلی میں کیا۔ اسی دوران حضرت علامہ انور شاہ کشمیریؒ
کے درس حدیث میں شرکت کی۔

تصوف و سلوک کی تکمیل حضرت مولانا عبدالرحیم رائے پوریؒ سے کی اور پھر پوری زندگی اپنے شیخ کے قدموں
میں گزار دی۔ شیخ نے آپ کو اپنا خلیفہ و جانشین بنایا۔

آپ زندگی بھر یا حق اور خدمتِ خلق میں لگے رہے۔ ہمیشہ صبر و استقامت کے ساتھ ذکر و فکر اور ریاضت
و مجاہدہ میں مشغول رہے۔ چنانچہ ۱۳۳۷ھ/ ۱۹۱۹ء میں اپنے شیخ کے انتقال کے بعد مسند ارشاد پر جلوہ افروز
ہوئے اور پورے ۳۵ سال تک تلقین و ارشاد کی مسند سجائے رکھی۔ اپنے عمل و اخلاص سے شریعت و طریقت کو دنیا
میں عام کیا اور سینکڑوں علماء و مشاہیر کو روحانی منازل طے کرائے اور لاکھوں مسلمانوں کو فسق و فجور اور رسوم و
بدعات سے توبہ کرائی۔ آپ نہایت متواضع، خوش اخلاق اور سادہ طبیعت کے مالک تھے۔ فنائیت کے اعلیٰ مقام پر
فائز تھے اور اپنے متوسلین کو بھی سادگی و فنائیت کی ہدایت فرماتے تھے۔ حضرت مولانا محمد منظور نعمانیؒ، حضرت مولانا
ابوالحسن علی ندویؒ وغیرہ جیسے بہت سے مشاہیر آپ کے خلفاء و مجازین میں شامل ہیں۔

آپ دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے رکن تھے۔ پہلے ۱۳۶۰ھ/ ۱۹۴۱ء میں ایک سال تک اور پھر
۱۳۷۷ھ/ ۱۹۵۷ء سے ۱۳۸۲ھ/ ۱۳۶۲ھ تک۔

۱۴ ربیع الاول ۱۳۸۲ھ/ ۱۵ اگست ۱۹۶۲ء کو انتقال ہوا اور ڈھڈیاں سرگودھا کی مسجد کے قریب تدفین عمل
میں آئی۔

ماخذ: دارالعلوم دیوبند کی پچاس مثالی شخصیات، ص ۱۶۴؛ دارالعلوم دیوبند کی صد سالہ زندگی،
ص ۱۰۵؛ مشاہیر علمائے دیوبند، ص ۳۱۴-۳۲۷

حضرت مولانا حفظ الرحمن سیوہارویؒ

مجاہد ملت، جنگ آزادی کے ممتاز رہنما، سابق ممبر پارلیمنٹ، سابق ناظم عمومی جمعیت علمائے ہند، متعدد علمی
و تحقیقی کتابوں کے مصنف، شعلہ بیان مقرر اور بے باک سیاست داں کے طور پر جانے جاتے تھے۔

۱۳۱۸ھ/ ۱۹۰۰ء میں اپنے وطن سیوہارہ ضلع بجنور میں ایک زمیندار گھرانے میں پیدا ہوئے۔ 'حفظ الرحمن'
ان کا تاریخی نام ہے۔ ان کے والد جناب شمس الدین صاحب بھوپال اور پھر بیکانیر کے ریاستوں میں اسٹنٹ

انجینئر کے عہدہ پر مامور تھے۔ مولانا کے دو بھائی اور تھے جن کو انگریزی تعلیم دلائی گئی۔ دینی علوم کے حصول کی سعادت اپنے خاندان میں صرف انہی کے حصہ میں آئی۔ ان کی تعلیم زیادہ تر سیوہارہ کے مدرسہ فیض عام اور مدرسہ شاہی مراد آباد میں ہوئی۔

۱۳۴۱ھ/۱۹۲۲ء میں دارالعلوم میں داخل ہوئے اور ۱۳۴۲ھ/۱۹۲۳ء میں دورہ حدیث کی تحصیل سے فراغت حاصل کی۔ مدراس سے ایک مدرس کی طلب آنے پر دارالعلوم کی جانب سے ان کو مدراس بھیج دیا گیا۔ وہاں پر نامیٹ میں ایک سال درس و تدریس اور تبلیغی کاموں میں گزارا۔ اسی زمانے میں حج و زیارت کی سعادت سے بہرہ ور ہوئے۔

۱۳۴۲ھ/۱۹۲۶ء میں دارالعلوم دیوبند میں درس و تدریس کی خدمات انجام دیں۔ بعد ازاں حضرت علامہ کشمیری کے ساتھ جامعہ اسلامیہ ڈابھیل سے وابستہ ہو گئے۔ وہاں تقریباً پانچ سال تک درس و تدریس میں مشغول رہے۔ ۱۳۵۲ھ/۱۹۳۳ء میں آپ انجمن تبلیغ الاسلام کلکتہ کی دعوت پر، جس کے سرپرست مولانا ابوالکلام آزاد تھے، کلکتہ چلے گئے۔ وہاں پانچ سال تک درس قرآن کی خدمت انجام دی۔ انہوں نے وہاں جس دل نشیں انداز میں قرآن شریف کے مطالب و معارف کو لوگوں تک پہنچایا اس سے کلکتہ میں بہت جلد ان کی عظمت قائم ہو گئی۔ کلکتہ میں ان کی مقبولیت آخر تک باقی رہی۔

۱۳۵۷ھ/۱۹۳۸ء میں جب ندوۃ المصنفین کا قیام عمل میں آیا، تو آپ اپنے دیرینہ رفیق حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمن عثمانی کے ساتھ دہلی چلے آئے۔

۱۹۴۲ء میں آپ کو جمعیت علمائے ہند کا ناظم اعلیٰ منتخب کیا گیا۔ درس و تدریس اور تصنیف و تالیف کے علمی شغف کے ساتھ ساتھ انہیں سیاست کے خارزار سے بھی گہری دل چسپی تھی۔ چنانچہ ان کی عمر کا بیشتر حصہ ملک و ملت کی خدمت اور تحریک آزادی کی جدوجہد میں بسر ہوا۔ اس سلسلہ میں انہیں متعدد بار قید و بند کے مرحلوں سے بھی گزرنا پڑا۔ ۱۹۴۷ء میں ہندوستان کی آزادی کے بعد ملک میں ہر طرف فسادات پھوٹ پڑے اور کشت و خون کا بازار گرم ہو گیا۔ جب دہلی میں بھی اس آگ کے شعلے پوری شدت سے بھڑک اٹھے تو مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ ایسے نازک حالات میں انہوں نے غیر معمولی جرأت و ہمت اور پامردی سے اس وقت کے سنگین ترین حالات کا مقابلہ کیا۔ لیڈروں کو جھنجھوڑا اور حکام پر زور دے کر امن و امان کو بحال کرانے کا زبردست کارنامہ انجام دیا اور خوف زدہ مسلمانوں کے دلوں سے خوف و ہراس دور کیا۔ غرض ان کی انتھک جدوجہد سے مسلمانوں کے اکھڑے ہوئے قدم پھر جم گئے۔ درحقیقت ان کا یہ ایسا امتیازی اور زبردست کارنامہ ہے جو آپ زر سے لکھے جانے کے لائق ہے۔ انہوں نے ۱۹۴۷ء کے بعد ہندوستان میں مسلمانوں کی جو عظیم الشان خدمت انجام دی ہے اس کو تاریخ کبھی بھلا نہیں سکتی۔

اس زمانے میں جب دہلی میں ہر طرف کشت و خون اور لوٹ مار کی گرم بازاری تھی، مولانا کے ہندو دوستوں نے ان سے بڑے اصرار کے ساتھ کہا کہ شہر میں آپ کی حفاظت مشکل ہو گئی ہے، ہماری درخواست ہے کہ آپ پناہ

گزینوں کے حفاظتی کیمپ میں منتقل ہو جائیں، مگر انھوں نے بڑی جرأت اور سختی کے ساتھ کیمپ میں چلے جانے کے مشورہ کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ ”ہمارے لیے اس ملک میں اس سے زیادہ شرم اور بزدلی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ خود اپنے وطن میں ہم پناہ گزین بن کر رہیں، بے شک یہ آزمائش کا وقت ہے مگر ہمیں اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔“

مولانا حفظ الرحمن کی ان ہی خدمات سے متاثر ہو کر ملت کی بارگاہ سے ان کو ’مجاہد ملت‘ کے لقب سے نوازا گیا۔ انھوں نے پورے ملک میں دورے کر کے ملی شعور کو بیدار کیا اور اس کو وقت کے تقاضوں سے روشناس کرایا۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے تحفظ کی زبردست کوشش کی۔ ان کی ایک بڑی خصوصیت یہ بھی تھی کہ ایک طرف تو انھیں ملت کا اعتماد حاصل تھا اور دوسری طرف حکومت بھی انھیں عظمت کی نظر سے دیکھتی تھی۔

آپ امر وہہ سے تین بار ممبر پارلیمنٹ منتخب ہوئے۔ بہت سے دینی مدارس، اسکولوں اور کالجوں کے رکن رکین تھے۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی ایگزیکٹو کونسل اور کورٹ کے عرصہ تک ممبر رہے۔ دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے ۱۳۶۲ھ/۱۹۴۳ء سے تا وفات رکن رہے۔

مولانا سیوہاروی کو تصنیف و تالیف سے بھی دل چسپی تھی۔ اپنی ابتدائی زندگی میں جامعہ اسلامیہ ڈابھیل ہی سے تصنیفی زندگی کا آغاز کر دیا تھا اور انھوں نے دو کتابچے لکھے تھے: ’حفظ الرحمن لہذہب النعمان‘ اور ’مالا بار میں اسلام‘۔ بعد میں ندوۃ المصنفین میں انھوں نے بڑی گراں قدر تصنیفی خدمات انجام دیں۔ ’اسلام کا اقتصادی نظام‘، ’اخلاق اور فلسفہ اخلاق‘ اور ’قصص القرآن‘ جیسی بلند پایہ اور محققانہ کتابیں لکھیں۔ ندوۃ المصنفین کے قیام سے پہلے وہ سیرت نبوی میں ’رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم‘ اور ۱۹۳۲ء میں دہلی کی ڈسٹرکٹ جیل میں ’بلاغ مبین‘ لکھ چکے تھے۔

۱۹۴۷ء کے بعد جن گراں بار ذمہ داریوں سے انھیں دوچار ہونا پڑا اس نے ان کی صحت کو خراب کر دیا۔ غیر معمولی مصروفیتوں کے ساتھ ساتھ مرض بڑھتا رہا۔ ڈاکٹروں کی تشخیص سے پتہ چلا کہ کینسر ہے۔ علاج کے لیے بمبئی لے جایا گیا، مگر مرض کا ازالہ نہ ہو سکا۔ بالآخر علاج کی آخری کوشش یہ کی گئی کہ ان کو امریکہ لے جایا گیا، وہاں ڈھائی مہینے کے علاج سے افاقہ محسوس ہونے پر واپس آ گئے۔ مگر وقت موعود آچکا تھا، یکم ربیع الاول ۱۳۸۲ھ مطابق ۲ اگست ۱۹۶۲ء کو ملت اسلامیہ کا یہ جاں باز مجاہد اپنے رب کے حضور میں حاضر ہو گیا۔ نئی دہلی میں حضرت شاہ ولی اللہ کے مشہور قبرستان ’مہندیان‘ میں ان کی آخری آرام گاہ ہے۔

مآخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم، ص ۱۴۷-۱۵۱؛ ہفت روزہ الجمعۃ، اکتوبر ۱۹۹۵ء،
جمعیتہ علماء نمبر، ص ۲۷۱-۲۷۵

حضرت مولانا خیر محمد جالندھریؒ

جلیل القدر اور ممتاز علماء میں شمار ہوتے تھے۔ دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے رکن تھے۔ پنجاب میں جالندھر کے رہنے والے تھے۔ ۱۳۱۳ھ/۱۸۹۵ء سال پیدائش ہے۔ اپنے وطن اور پھر مدرسہ منبع

العلوم گلاؤٹھی میں تعلیم پائی۔ پھر ۱۳۳۵ھ/ ۱۹۱۷ء حضرت مولانا محمد یاسین صاحب سرہندی سے مدرسہ اشاعت العلوم بریلی میں حدیث کی تکمیل کی۔

۱۳۶۳ھ/ ۱۹۴۴ء سے ۱۳۶۷ھ/ ۱۹۴۷ء تک دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے رکن رہے۔ حضرت تھانویؒ کے خلیفہ و مجاز تھے، علم و فضل، زہد و تقویٰ اور دین و دیانت کی اعلیٰ صلاحیتیں ان کی ذات میں بدرجہ اتم جمع تھیں۔ ہزاروں لوگ ان کے درس اور رشد و ہدایت سے فیض یاب ہوئے۔ فتنہ قادیانیت کی تردید و تعاقب میں بھی نمایاں خدمات انجام دیں۔

جالندھر میں اپنی جدوجہد سے ۱۳۴۹ھ/ ۱۹۳۲ء میں خیر المدارس جاری کیا۔ تقسیم ملک کے زمانے میں جالندھر سے ملتان چلے گئے اور وہاں خیر المدارس کو از سر نو جاری کیا جو اب بھی پاکستان کا بڑا دینی اور مرکزی مدرسہ ہے اور کتاب و سنت اور فقہ کی اشاعت میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔

مولانا جالندھری کا عظیم کارنامہ یہ ہے کہ انھوں نے پاکستان کے مدارس دینیہ کا بورڈ بنام وفاق المدارس قائم فرمایا اور تمام مدارس کو ایک کڑی میں منسلک کر دیا۔ مولانا ہی اس کے صدر تسلیم کیے گئے جس کو انھوں نے کمال دیانت و راست بازی اور صدق و اخلاص سے انجام دیا۔ اس سے جہاں ان کا علم و فضل ملک پر واضح ہوا، وہیں کمال ذہن و ذکاؤ بھی نمایاں ہوا۔

۲۰ شعبان ۱۳۹۰ھ/ ۲۱ اکتوبر ۱۹۷۰ء کو ملتان میں انتقال ہوا۔

ماخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم، ص ۱۲۲-۱۲۳؛ کاروان رفتہ، مولانا اسیر ادروی، ص ۹۱

حضرت مولانا شبیر علی تھانویؒ

حضرت تھانویؒ کے حقیقی بھتیجے تھے۔ مظاہر علوم سہارن پور کے سرپرست اور دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے رکن بھی رہے۔

آپ کے والد جناب اکبر علی صاحب تھے۔ اپنے وطن تھانہ بھون میں ۱۳۱۲ھ/ ۱۸۹۴ء میں پیدا ہوئے۔ مولانا عبد اللہ گنگوہی مصنف تیسیر المبتدی سے ابتدائی تعلیم اپنے وطن کے مدرسہ امداد العلوم میں پائی۔ کچھ دن تک اپنے والد کے پاس رہ کر انگریزی پڑھی۔ پھر مظاہر علوم سہارن پور پڑھا اور حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سے علمی و روحانی فیض حاصل کیا۔ آخر میں ۱۳۳۰ھ/ ۱۹۱۲ء میں دارالعلوم دیوبند سے علوم کی تکمیل کی۔ مثنوی مولانا روم اپنے عم بزرگوار حضرت تھانویؒ سے سبقاً سبقاً پڑھی۔

تعلیم سے فراغت کے بعد تھانہ بھون میں حضرت تھانویؒ کی تصانیف کی اشاعت کے لیے اشرف المطالع کے نام سے ایک پریس قائم کیا۔ 'التبلیغ' اور 'النور' کے نام سے ماہانہ رسائل جاری کیے۔ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی کے ساتھ مل کر تفسیر بیان القرآن کا خلاصہ تلخیص البیان کے نام سے شائع کیا۔ اسی طرح حضرت تھانویؒ کی کلید مثنوی

کے کچھ بقایا حصے مکمل کر کے انھیں 'شرح شبیری' کے نام سے شائع کیا۔ حضرت تھانویؒ کی تصانیف، مواعظ و ملفوظات، اعلیٰ السنن اٹھارہ جلدوں کی ضخیم کتاب اور احکام القرآن وغیرہ کتب کی اولین طباعت آپ ہی کا کارنامہ ہے۔ خانقاہ امدادیہ میں ابتدائی عربی کتب کی تدریس کے ساتھ ۱۳۳۷ھ/۱۹۱۸ء سے ۱۳۶۹ھ/۱۹۴۹ء تک خانقاہ امدادیہ کے منتظم بھی رہے۔ حضرت تھانویؒ کے انتقال کے بعد مظاہر علوم کی مجلس شوریٰ نے آپ کو ۲۳ ربیع الثانی ۱۳۶۳ھ/۱۷ اپریل ۱۹۴۴ء کو مظاہر علوم کا سرپرست منتخب کیا اور پاکستان ہجرت تک اس منصب پر فائز رہے۔ ۱۳۶۳ھ/۱۹۴۴ء سے ۱۳۶۷ھ/۱۹۴۷ء تک دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے رکن بھی رہے۔ آپ علم و عمل میں بے نظیر تھے۔ نہایت متواضع، منکسر المزاج، صبر تحمل کے پیکر، مہمان نواز اور سادہ طبیعت کے مالک تھے۔

قیام پاکستان کے بعد مکہ مکرمہ چلے گئے، وہاں ایک دو سال قیام کے بعد پاکستان منتقل ہو گئے۔ ۲۸ رجب ۱۳۸۸ھ/۲۰ اکتوبر ۱۹۶۸ء کو کراچی میں وفات پائی اور ناظم آباد قبرستان میں حضرت ظفر احمد عثمانی اور حضرت مولانا عبدالغنی پھول پوریؒ کے پہلو میں دفن ہوئے۔

مآخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم، ص ۱۱۵-۱۱۶؛ مشاہیر علمائے دیوبند، ص ۲۱۵-۲۱۹

حضرت مولانا محمد منظور نعمانیؒ

مشہور عالم دین، کثیر التصانیف مصنف، مناظر، صحافی اور صاحب نسبت بزرگ تھے۔ دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ اور رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے رکن رہے ہیں۔

آپ کا وطن سنبھل ہے، وہیں ۱۸ شوال ۱۳۲۳ھ/۱۶ دسمبر ۱۹۰۵ء میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم پہلے سنبھل میں اور کچھ دن مدرسہ عبدالرب دہلی میں پائی۔ پھر دارالعلوم سنو (ضلع اعظم گڑھ) میں پڑھا۔ آخر میں دارالعلوم دیوبند میں دو سال رہ کر ۱۳۴۵ھ/۱۹۲۷ء میں دورہ حدیث کے امتحان میں سب سے زیادہ کامیابی کے نمبر حاصل کیے۔

فراغت کے بعد امر وہہ کے مدرسہ چلہ میں تین سال درس و تدریس میں گزارے۔ پھر چار سال تک ندوۃ العلماء لکھنؤ میں بہ حیثیت شیخ الحدیث کے درس دیا۔

مولانا نعمانیؒ ابتدا ہی سے تبلیغی جماعت سے وابستہ رہے اور حضرت مولانا محمد الیاس کاندھلویؒ کے ساتھ تبلیغی جماعت کی تشکیل میں نمایاں کردار ادا کیا۔ سلوک و تصوف میں حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوریؒ سے وابستہ تھے اور ان سے خلافت بھی ملی۔

۱۳۶۲ھ/۱۹۴۳ء سے ہی دارالعلوم کی مجلس شوریٰ کے رکن منتخب ہوئے اور تاحین حیات تقریباً ۵۵ سال تک مجلس شوریٰ کے رکن رہے۔ بہت باقاعدگی کے ساتھ مجلس شوریٰ و مجلس عاملہ وغیرہ کے اجلاسات میں شریک ہوتے تھے۔ ۸۲-۱۹۸۱ء میں دارالعلوم کے شورائی نظام کی بحالی اور اس کے تحفظ میں انتھک جدوجہد آپ کی زندگی

کا ایک عظیم کارنامہ ہے۔

۱۳۵۳ھ/۱۹۳۲ء میں بریلی سے 'الفرقان' کے نام سے ایک ماہنامہ جاری کیا۔ ابتدا میں الفرقان کا رخ مناظرے کی جانب رہا، پھر ۱۹۴۲ء/۱۳۶۱ھ سے الفرقان ایک علمی و دینی پرچے میں تبدیل ہو گیا۔ الفرقان کی دو خاص اشاعتیں مجدد الف ثانی نمبر اور شاہ ولی اللہ نمبر کے نام سے بہت مقبول ہوئیں۔ الفرقان اپنے وقت کے اہم اور معیاری رسائل میں تھا اور آج تک برابر شائع ہو رہا ہے۔

مولانا نعمانی اردو کے بڑے مضمون نگار اور مصنف ہیں۔ ان کی زبان عام فہم ہوتی ہے اور طرز نگارش سادہ سلیس اور شگفتہ ہے۔ عوام و خواص دونوں حلقوں میں ان کی کتابیں مقبول اور پسندیدہ ہیں۔ مولانا نعمانی کی تصنیفات کی فہرست حسب ذیل ہے: (۱) معارف الحدیث: چھ جلدوں میں احادیث نبوی کا ایک جامع انتخاب اور شاہ کار ہے جس میں احادیث کی تشریح میں اس دور کی نفسیات کا پورا لحاظ رکھا گیا ہے۔ (۲) اسلام کیا ہے؟ (۳) دین و شریعت (۴) قرآن آپ سے کیا کہتا ہے؟ (۵) کلمہ طیبہ کی حقیقت (۶) نماز کی حقیقت (۷) آپ حج کیسے کریں؟ (۸) برکات رمضان (۹) تحقیق مسئلہ ایصال ثواب (۱۰) تصوف کیا ہے؟ (۱۱) تذکرہ امام ربانی (۱۲) ملفوظات مولانا محمد الیاس (۱۳) بوارق الغیب: دو جلدوں میں (۱۴) معرکہ القلم (۱۵) حضرت شاہ اسماعیل شہید پر معاندین کے الزامات (۱۶) خاکسار تحریک (۱۷) قرآن علم کی روشنی میں (۱۸) اسلام اور کفر کے حدود (۱۹) قادیانیت (۲۰) سیفِ یمانی بر مکائد فرقہ رضا خانی (۲۱) مولانا مودودی کے ساتھ میری رفاقت کی سرگزشت اور اب میرا موقف (۲۲) شیخ محمد ابن عبدالوہاب کے خلاف پروپیگنڈہ اور ہندوستان کے علمائے حق پر اس کے اثرات (۲۳) ایرانی انقلاب، خمینی اور شیعیت (۲۴) آسان حج (۲۵) فتوحات نعمانیہ، وغیرہ۔

۵ مئی ۱۹۹۷ء / ۲۷ ذوالحجہ ۱۴۱۷ھ کو لکھنؤ میں انتقال ہوا۔

مآخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم، ص ۱۵۵-۱۵۶؛ ذکر رفتگان، مفتی سلمان منصور پوری،

ص ۲۸۸؛ فہرست کتب اکابر، کتب خانہ دارالعلوم دیوبند

حضرت مولانا احمد سعید دہلویؒ

دہلی کے رہنے والے معروف خطیب اور سحر البیان واعظ تھے۔ سجان الہند سے مشہور تھے اور عرصہ تک جمعیتہ علمائے ہند کے ناظم اعلیٰ اور دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے رکن رہے۔

دہلی میں ۱۸۸۸ء میں پیدا ہوئے۔ تعلیم بھی دہلی میں ہی حاصل کی اور مدرسہ امینیہ دہلی سے ۱۳۳۶ھ مطابق ۱۹۱۸ء میں فراغت حاصل کی۔

۱۹۲۰ء میں جمعیتہ علمائے ہند کے پہلے ناظم اعلیٰ منتخب ہوئے۔ اس دور میں نان کو آپریشن مومنٹ (تحریک عدم موالات) شباب پڑھی۔ آپ نے اس تحریک میں حصہ لیا اور پہلی بار گرفتار ہو کر جیل گئے، پھر تو جیل جانے کا سلسلہ

چل پڑا، چالیس سال کی سیاسی زندگی میں آٹھ بار جیل گئے اور ۱۵ سال پر محیط زندگی کا بیش قیمت زمانہ برطانوی ہند کی جیلوں میں گزارا۔

۱۹۴۷ء میں تقسیم ہندو پاک کے بعد مسلمانوں پر جو قیامت ٹوٹی اور بالخصوص دہلی کے مسلمانوں پر جو تباہی و بربادی اور قتل و غارت گری کا عذاب آیا، اس خطرناک دور میں آپ نے اپنے رفقاء کے ساتھ جان ہتھیلیوں پر رکھ کر مسلمانوں کی حفاظت میں مثالی اور ناقابل فراموش کارنامہ انجام دیا اور دہلی میں مسلمانوں کے اکھڑے قدم جمانے میں اہم کردار ادا کیا۔ حضرت مدنی کے انتقال کے بعد جمعیتہ علمائے ہند کے صدر منتخب ہوئے۔

آپ بہترین داعی اور خطیب تھے، مؤثر اور دل کش انداز بیان کے مالک تھے۔ کچھ کتابیں بھی یادگار چھوڑی ہیں جن میں 'جنت کی کنجی' اور 'دوزخ کا کھٹکا' بہت مشہور ہیں۔ قرآن پاک کی ایک تفسیر دو جلدوں میں 'کشف القرآن' کے نام سے لکھی۔

۱۳۶۳ھ/۱۹۴۵ء سے ۱۳۷۷ھ/۱۹۵۷ء تک دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے رکن رہے۔
۳ جمادی الثانیہ ۱۳۷۹ھ/۴ دسمبر ۱۹۵۹ء کو دہلی میں انتقال اور مہرولی میں حضرت مفتی کفایت اللہ کے پہلو میں دفن ہوئے۔

مآخذ: کاروانِ رفتہ، ص ۲۰-۲۱؛ ہفت روزہ الجمعیتہ اکتوبر ۱۹۹۵ء، جمعیتہ علماء ہند ص ۳۶۳-۳۶۵

حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمن عثمانی

دارالعلوم دیوبند کے مایہ ناز فاضل، باشعور سیاست داں اور مفکر و مدبر تھے۔ حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن کے خلف رشید اور ندوۃ المصنفین کے بانی تھے۔

۱۳۱۹ھ/۱۹۰۱ء میں دیوبند میں پیدا ہوئے۔ تاریخی نام ظفر الحق ہے۔ ۹ سال کی عمر میں قرآن شریف حفظ کیا۔ شروع سے آخر تک دارالعلوم کے اساتذہ سے پڑھا۔ ۱۳۴۱ھ/۱۹۲۳ء میں فارغ التحصیل ہوئے۔

۱۳۴۴ھ/۱۹۲۶ء میں دارالعلوم میں معین المدرسین ہوئے اور اسی کے ساتھ افتاء کا کام بھی کرتے رہے۔
۱۳۴۶ھ/۱۹۲۸ء میں جامعہ اسلامیہ ڈابھیل چلے گئے۔ وہاں پانچ سال تک مفتی اور مدرس رہے۔

۱۹۳۰ء میں انڈین نیشنل کانگریس کی تحریک نمک سازی کے زمانے میں سیاسی دل چسپی کے باعث اپنے رفیق حضرت مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی کے ساتھ جامعہ اسلامیہ ڈابھیل سے مستعفی ہو گئے اور پانچ سال تک کلکتہ میں تفسیر، افتاء اور تبلیغ کی خدمات انجام دیں۔ وہاں مفتی صاحب کو بڑی مقبولیت حاصل ہو گئی تھی۔ اسی زمانے میں انھوں نے ندوۃ المصنفین کا خاکہ تیار کیا۔

۱۳۶۸ھ/۱۹۴۹ء سے ۱۴۰۱ھ/۱۹۸۱ء تک دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے رکن رہے۔
۱۳۵۷ھ/۱۹۳۸ء میں ان کی جدوجہد سے قرول باغ دہلی میں دارالمصنفین قائم ہوا۔ اس ادارے کے قیام

کا مقصد یہ تھا کہ اسلامی علوم کی نشر و اشاعت کی خدمات انجام دی جائیں۔ چنانچہ ندوۃ المصنفین سے سیکڑوں گراں قدر کتابیں شائع ہوئیں جو تفسیر و حدیث، تاریخ، لغت، اخلاق، سیاسیات کے موضوعات پر مشتمل ہیں۔ ندوۃ المصنفین سے ایک بلند پایہ اور معیاری ماہنامہ 'برہان' بھی نکلتا تھا۔

حضرت مفتی صاحب تاحیات ندوۃ المصنفین کے ناظم اور روح رواں رہے۔ ان کا ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ ۱۹۴۷ء کی قیامت خیز تباہی کے باوجود نہ صرف اس ادارہ کو زندہ رکھا بلکہ اپنی ہمتِ مردانہ سے اس میں از سر نو جان ڈالی اور اجڑے ہوئے گلستان کو دوبارہ چمنستان بنا دیا۔

مفتی صاحب کا شمار ملک کے ممتاز اور بالغ نظر اربابِ علم و فضل میں ہوتا تھا۔ بہت سے علمی و دینی اداروں کے ممبر بھی رہے۔ ایک عرصہ تک مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے کورٹ ممبر رہے۔ جمعیتِ علمائے ہند کے کاموں میں حضرت مولانا حفیظ الرحمن سیوہاروی کے ہمیشہ دستِ راست رہے۔ ان کے انتقال کے بعد جمعیتِ علمائے ہند کے ورکنگ صدر بنائے گئے۔ پھر مجلس مشاورت کے صدر ہوئے اور قومی و ملی کارناموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ تحریر و تقریر دونوں پر انھیں یکساں قدرت حاصل تھی۔ ندوۃ المصنفین اور قومی و ملی کاموں کی مصروفیت کے باعث اگرچہ خود ان کی خود کوئی تصنیف سامنے نہیں آسکی، مگر ندوۃ المصنفین سے شائع ہونے والی کتابیں درحقیقت انہی کے ذوقِ تصنیف اور حسنِ تدبیر کی آئینہ دار ہیں۔ خود داری، آزادیِ ضمیر، حریتِ نفس، معاملہ فہمی، نکتہ رسی اور فقہی دسیسہ سخی ان کے مخصوص اوصاف ہیں۔

۱۰ شعبان ۱۴۰۲ھ / ۱۲ مئی ۱۹۸۴ء کو دہلی میں انتقال ہوا اور منہدیان میں دفن کیے گئے۔

مآخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم، ص ۱۴۴-۱۴۶؛ پچاس مثالی شخصیات، ص ۱۹۹-۲۰۰

حضرت مولانا سید سلیمان ندویؒ

دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے قابلِ فخر عالم و فاضل، علامہ شبلی نعمانی مرحوم کے جانشین، بلند پایہ مصنف و مؤرخ اور حضرت تھانویؒ کے خلیفہ و مجاز تھے۔ دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے رکن رہے۔

۱۲ دسمبر ۱۸۸۴ء (صفر ۱۳۰۲ھ) کو دینہ بہار میں پیدا ہوئے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد کچھ دنوں مولانا ابوالکلام آزاد کے اخبار 'الہلال' سے متعلق ہو کر کلکتہ رہے۔ کچھ دن بھوپال میں گزرے۔ پھر اعظم گڑھ میں رہے۔ تقسیم ملک کے کئی سال بعد پاکستان چلے گئے۔

ہندوستان کے مشاہیر اور جلیل القدر علماء میں شمار تھا اور محققِ مصنفین میں ان کا درجہ بہت بلند تھا۔ زندگی کا بیشتر حصہ تصنیف و تالیف میں گزارا۔ دارالعلوم اعظم گڑھ کو ایک ستارے سے آفتاب و ماہتاب بنا دیا اور علمی دنیا پر اس کی دھاک بٹھادی۔ ان کا علم و فضل اور زہد و تقویٰ مثالی تھا۔ ہند و پاک میں ان کی خدماتِ جلیلہ قابلِ قدر ہیں۔ پاکستان میں علامہ شبیر احمد عثمانی کے بعد ان کی ذاتِ گرامی سرمایہٴ افتخار و نازش تھی۔

ان کی کتابوں میں سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم (پانچ آخری جلدیں)، ارض القرآن، عربوں کی جہاز رانی، خطبات مدراس، سیرت عائشہؓ، خیام، حیات شبلی، بہادر خواتین اسلام، یاد رفتگاں وغیرہ ہیں۔ آپ کی ادارت میں نکلنے والا ماہنامہ معارف ہندو پاک کے اہم ترین رسالوں میں تھا۔

۱۳۶۹ھ تا ۱۳۷۰ھ مطابق ۱۹۵۰ء تا ۱۹۵۱ء دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے رکن رہے۔

۲۲ نومبر ۱۹۵۳ء کو کراچی میں رحلت فرمائی اور وہیں اسلامیہ کالج میں علامہ عثمانی کے پہلو میں مدفون ہیں۔

مآخذ: دارالعلوم دیوبند کی پچاس مثالی شخصیات ص ۱۵۴؛ کاروانِ رفتہ: ص ۱۱۱؛ دارالعلوم

دیوبند کی صد سالہ زندگی: ص ۱۰۶

حضرت مولانا سید محمد میاں دیوبندیؒ

مشہور مصنف، نیشنلسٹ رہ نما، جمعیتہ علمائے ہند کے ناظم عمومی، اس کی مالیاتی کمیٹی کے چیئرمین، مدرسہ شاہی مراد آباد کے صدر مہتمم اور مدرسہ امینیہ دہلی کے شیخ الحدیث و مفتی تھے۔

تاریخی نام مظفر میاں ہے، دیوبند کے مشہور خاندان سادات رضویہ سے تھے۔ ۱۳۲۱ھ/۱۹۰۳ء میں ضلع بلند شہر میں پیدا ہوئے جہاں ان کے والد بہ سلسلہ ملازمت محکمہ نہر میں تعینات تھے۔ تعلیم کا آغاز گھر سے ہوا۔ قرآن شریف ضلع مظفرنگر کے ایک میاں جی سے پڑھا۔ ۱۳۳۱ھ/۱۹۱۳ء میں دارالعلوم دیوبند میں درجہ فارسی میں داخل ہوئے اور ۱۳۴۳ھ/۱۹۲۵ء میں فراغت حاصل کی۔

اولاً صوبہ بہار کے مقام آ رہ شاہ آباد میں مدرس رہے، پھر مدرسہ شاہی مراد آباد میں مدت تک مدرس اور مفتی کی حیثیت سے کام کیا۔ بعد ازاں جمعیتہ علمائے ہند کے ناظم مقرر ہوئے اور ایک سال تک ناظم اعلیٰ کے عہدے پر فائز رہے۔ جمعیتہ کے مخلص اور کارگزار لیڈروں میں تھے۔ انھیں برطانوی دور میں کئی مرتبہ قید و بند سے گزرنا پڑا۔

۱۳۴۴ھ/۱۹۲۶ء میں چند ماہ دارالعلوم دیوبند میں تدریسی خدمات انجام دیں۔ ۱۳۷۰ھ/۱۹۵۱ء سے تا وفات دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ دارالعلوم دیوبند کے رکن رہے۔

مولانا سید محمد میاں صاحب چالیس سے زائد چھوٹی بڑی کتابوں کے مصنف ہیں۔ فقہ اور تاریخ پر ان کی گہری نظر تھی۔ وہ نامور مصنف اور مورخ تھے۔ جمعیتہ علمائے ہند کی تاریخ میں ان کی سیاسی اور تصنیفی خدمات ہمیشہ یادگار رہیں گی۔ علمائے ہند کا شاندار ماضی، علمائے حق کے مجاہدانہ کارنامے، سیرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاریخ الاسلام، عہد زریں، پانی پت اور بزرگان پانی پت، تحریک شیخ الہند، اسیران مالٹا، جمعیتہ العلماء کیا ہے؟، خدمات جمعیتہ علمائے ہند، شواہد تقدس، ہندوستان عہد مغلیہ میں، تعلیم اور طریقہ تعلیم، حیات شیخ الاسلام، اسلامی تقریبات اور حدیث میں مشکوٰۃ الآثار، جو دارالعلوم دیوبند کے نصاب میں شامل ہے، ان کی اہم تصانیف ہیں۔ جمعیتہ علمائے ہند کا تعلیمی نصاب جو دینی تعلیم کا رسالہ کے نام سے موسوم ہے ان ہی کے رشحاتِ قلم کا

نتیجہ ہے۔ یہ رسالے اسلامی مدارس و مکاتب کے نصاب میں شامل ہیں۔ جمعیت علماء کی سیاسی تاریخ اور اس کے ریکارڈ پر ان کی نظر بڑی وسیع تھی۔ علمائے ہند کی سیاسی خدمات سے عوام کو روشناس کرانے کے لیے انہوں نے عظیم تصنیفی کارنامہ انجام دیا۔

ہندوستان کے آخری عہد اسلامی پر ان کی بڑی گہری نظر تھی۔ خاندان ولی اللہی اور اکابر دیوبند کی علمی و سیاسی اور دینی و تبلیغی خدمات پر ان کی تحریریں بڑی مستند سمجھی جاتی ہیں۔ یورپ و امریکہ کے مصنفین بھی ان کے حوالے دیتے ہیں۔ ان کی تصانیف کو قبول عام حاصل ہے۔

سیاسی ہنگاموں میں شرکت کے باوجود اپنی سادگی، خلوت نشینی، اور دو وظائف کی پابندی اور علم و فضل میں کامل دست گاہ کے ساتھ تواضع و انکسار، زہد و قناعت، ریاضت و عبادت اور صلاح و تقویٰ میں بزرگان سلف کا نمونہ تھے۔ زندگی کے آخری دور میں مدرسہ امینیہ دہلی کے شیخ الحدیث اور جمعیت علماء ہند کے ادارہ مباحث فقہیہ کے معتمد رہے۔

۱۶ شوال ۱۳۹۵ھ / ۲۲ اکتوبر ۱۹۷۵ء کو اس عالم فانی سے عالم جاودانی کو رحلت فرمائی اور دہلی میں مدفون ہوئے۔

تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم، ص ۱۵۱-۱۵۲؛ فہرست کتب اکابر، کتب خانہ دارالعلوم دیوبند

حضرت مولانا ڈاکٹر مصطفیٰ حسن علویؒ

۱۳۱۵ھ / ۱۸۹۷ء میں کاکوری نواح لکھنؤ کی مردم خیز سر زمین میں ولادت ہوئی۔ بچپن میں اپنے نانا حضرت محسن کاکوری کے پاس مین پوری میں رہ کر ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ پھر دارالعلوم ندوۃ العلماء میں داخل کیے گئے۔ ۱۳۳۰ھ / ۱۹۱۱ء میں دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا۔ دارالعلوم کے زمانہ طالب علمی میں مولانا تاجور نجیب آبادی کی صحبت میں شعر گوئی کا ذوق پیدا ہوا، خود ان کے نانا محسن کاکوری نعت کے مشہور شاعر تھے۔ اسی زمانے میں حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی کی صحبت میں نثر نگاری کی طرف متوجہ ہوئے۔ ۱۳۳۳ھ / ۱۹۱۶ء میں دارالعلوم دیوبند سے فارغ التحصیل ہو کر دارالعلوم میں معین المدرس ہو گئے۔

پھر مدرسہ امدادیہ میں کچھ دنوں پڑھا کر لکھنؤ چلے گئے۔ پنجاب یونیورسٹی سے منشی فاضل کیا۔ پہلے اٹاواہ مسلم ہائی اسکول میں دینیات کے معلم اور بعد ازاں بنارس کالج میں فارسی کے استاذ مقرر ہوئے۔ پھر اگست ۱۹۲۳ء میں لکھنؤ کالج میں تقرر ہو گیا۔ دوران ملازمت ۱۹۳۲ء میں فارسی میں ایم اے کیا اور بالآخر ۱۹۴۴ء میں مملک شاہ سلجوقی اور اس کے عہد پر مقالہ لکھ کر ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔

۱۳۷۰ھ / ۱۹۵۱ء میں دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے رکن منتخب ہوئے۔

۱۹۶۰ء میں انھیں صدر جمہوریہ ہند کی جانب سے ہندوستان میں عربی کی ممتاز شخصیت کے عنوان سے سند اعزاز (Certificate of Honour) سے نوازا گیا۔ ۱۹۶۳ء میں لکھنؤ یونیورسٹی سے ریٹائر ہونے پر آپ کو

ریسرچ پروفیسر مقرر کیا گیا۔

ڈاکٹر صاحب نے تین درجن سے زیادہ عربی، فارسی اور اردو کتابیں لکھیں جن میں سے متعدد کتابیں اسکولوں اور کالجوں کے نصاب اور السنہ شرقیہ کے امتحانات میں شامل ہیں۔ آپ کی غیر مطبوعہ کتابیں بھی ایک درجن سے زائد ہیں۔ عالم و فاضل ہونے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ ذوق کے شاعر بھی تھے۔

دارالعلوم دیوبند کے کتب خانہ میں ان کی درج ذیل کتابیں محفوظ ہیں: (۱) گلبن ادب تین حصے (۲) قصص ہند (۳) تزانہ ادب (۴) سبل السلام (۵) نعمات نظیری (۶) قصائد ذوق (۷) فقیہ مصر (۸) محاسب اسلام (۹) خطبہ استقبالیہ جمعیت مرکزیہ جمعیتہ العلماء ہند منعقدہ لکھنؤ مئی ۱۹۴۷ء۔

۱۴۰۱ھ/۱۹۸۰ء میں انتقال ہوا۔

مآخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم، ص ۱۲۶-۱۲۷؛ فہرست کتب اکابر، کتب خانہ دارالعلوم دیوبند

حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلویؒ

اسلامی دنیا کی مشہور علمی شخصیت، شیخ الحدیث سے ملقب، شیخ طریقت اور عظیم مصنف تھے۔ ایک مدت تک مظاہر علوم سہارن پور کے شیخ الحدیث کے منصب جلیل پر فائز رہے۔ دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے رکن بھی تھے۔ ۱۱ رمضان ۱۳۱۵ھ/۲ فروری ۱۸۹۸ء کو پیدا ہوئے۔ پوری تعلیم مظاہر علوم سہارن پور میں حاصل کی۔ بہت سے حضرات اکابر سے فیض حاصل کیا، خصوصاً حضرت مولانا خلیل احمد انیسٹھویؒ سے آپ کا علمی و روحانی رشتہ بہت مستحکم اور قریبی تھا۔

آپ شریعت و طریقت کے جامع، علم و عمل اور زہد و تقویٰ کے مینار تھے۔ زندگی بھر درس و تدریس، تبلیغ و ارشاد اور اصلاح و تربیت میں مصروف رہے۔ ہزاروں نے آپ سے کسب فیض کیا۔ آپ کے یہاں اتباع سنت اور عظمت سلف کا خاص اہتمام تھا۔ آخری دور میں آپ کی ذات مرجع خلأق تھی۔ تبلیغ و دعوت کے سلسلہ میں ہندوستان سے باہر بہت سے ایشیائی، افریقی اور یورپی ملکوں میں کا سفر کیا۔ ہر جگہ آپ کے شاگرد اور عقیدت مند موجود تھے۔

۱۳۷۰ھ/۱۹۵۰ء سے ۱۳۸۲ھ/۱۹۶۲ء تک دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے رکن رہے۔ ۱۳۸۸ھ مطابق ۱۹۶۸ء سے مستقلاً مدینہ منورہ میں مقیم ہو گئے تھے۔ مدینہ کے زمانہ قیام میں امراض و اعذار کی وجہ سے درس و تدریس کا سلسلہ تو قائم نہ کر سکے لیکن آپ سے سند حدیث لینے والوں کا سلسلہ جاری رہا، سیکڑوں علمائے عرب نے آپ سے اجازت حدیث حاصل کی۔

علم حدیث سے ان کا خصوصی لگاؤ تھا۔ اس فن میں انھوں نے لازوال کارنامے انجام دیے ہیں۔ موطا امام مالک کی شرح اوجز المسالک، الابواب والترجم صحیح البخاری، جزء حجۃ الوداع اور خصائل نبوی وغیرہ کتب سے آپ

کے علم کے بحر ناپیدا کنار کا اندازہ ہوتا ہے۔ بذل الحجو و شرح سنن ابی داؤد کی تیاری میں بھی اپنے شیخ حضرت مولانا خلیل احمد کا مکمل تعاون کیا۔ آپ کے والد محترم مولانا محمد یحییٰ کاندھلوی نے حضرت گنگوہی کے درسی افادات کو عربی زبان میں ضبط فرمایا تھا، حضرت شیخ نے ان پر حواشی لکھے اور جہاں ایجاز و اختصار تھا وہاں تفصیل کی اور انھیں 'لامع الدراری علی جامع البخاری' اور 'الکوکب الدرری علی جامع الترمذی' کے نام سے اعلیٰ پیمانہ پر شائع کرایا۔

اس کے علاوہ اردو میں مسائل حاضرہ اور دیگر موضوعات پر بہت سی کتابیں ہیں۔ آپ کی خودنوشت سوانح 'آپ بیتی' قابل ذکر کتابوں میں ہے۔ تبلیغی جماعت کے نصاب کے طور پر آپ کی مشہور زمانہ کتاب 'فضائل اعمال' کسی تعارف کی محتاج نہیں۔

یکم شعبان ۱۴۰۲ھ / ۲۳ مئی ۱۹۸۲ء کو مدینہ منورہ میں رحلت فرمائی اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔

مآخذ: علمائے مظاہر علوم اور ان کی علمی و تصنیفی خدمات، سوم، ص ۱۱۹ تا ۱۳۵؛ دارالعلوم دیوبند

کی پچاس مثالی شخصیات، ص ۱۹۸؛ کاروانِ رفتہ: ص ۱۰۴

حضرت مولانا حبیب الرحمن محدث اعظمیؒ

عصر جدید کے عظیم محدث، اسماء الرجال کے ماہر کامل، مستند فقیہ، عربی ادیب و شاعر اور قدیم مخطوطات حدیث کے عظیم محقق اور نکتہ شناس تھے۔

سنو میں ۱۳۱۹ھ / ۱۹۰۱ء میں پیدا ہوئے۔ اپنے وطن مؤصلع اعظم گڑھ کے مشہور مدرسہ دارالعلوم منو میں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ پھر حضرت گنگوہی کے مشہور شاگرد حضرت مولانا عبدالغفار صاحب سے گورکھپور اور بنارس میں رہ کر متوسطات کی تعلیم حاصل کی۔ اسی کے ساتھ علوم شرقیہ کے مختلف عربی کے امتحانوں میں شریک ہو کر کامیابی حاصل کی۔ فاضل ادب کا امتحان الہ آباد سے پاس کیا۔ ۱۳۳۷ھ / ۱۹۱۹ء میں دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا، لیکن دیوبند میں فصلی بیماری کے سبب تعلیم چھوڑ کر گھر چلے گئے۔ پھر ۱۳۳۹ھ / ۱۹۲۱ء میں دوبارہ دارالعلوم دیوبند میں داخل ہو کر دورہ حدیث کی کتابیں پڑھیں۔ حدیث کا ذوق حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کے درس سے پیدا ہوا۔ ان کے علاوہ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی، حضرت مولانا کریم بخش سنبھلی وغیرہ علماء سے بھی حدیث پڑھی۔

تعلیم سے فراغت کے بعد مدرسہ مظہر العلوم بنارس میں مدرس مقرر ہوئے۔ ۱۳۳۹ھ / ۱۹۲۰ء کے اوائل تک مظہر العلوم بنارس میں درس و تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے۔ ۱۳۴۰ھ / ۱۹۲۱ء میں دارالعلوم منو میں صدر مدرس ہوئے جہاں آپ دو سال تک دورہ حدیث اور فنون کی دوسری اونچی کتابیں پڑھاتے رہے۔ پھر دارالعلوم منو سے علیحدہ ہو کر بہ حیثیت صدر مدرس مظہر العلوم بنارس آ گئے۔ یہاں کئی سال انھوں نے درس و تدریس کی خدمت انجام دی۔ وہاں سے دوبارہ ۱۳۴۷ھ / ۱۹۲۸ء میں اپنے وطن منو آ گئے، یہاں ان کو مفتاح العلوم منو کا شیخ الحدیث اور صدر مدرس بنا دیا گیا جسے آپ نے ایک مکتب سے مرکزی مدرسہ بنا دیا۔ ۱۳۶۹ھ / ۱۹۴۹ء تک وہ مفتاح العلوم منو

کے شیخ الحدیث اور صدر مدرس رہے۔ آخر میں تصنیفی شغف کی وجہ سے مفتاح العلوم سے علیحدگی اختیار کر لی، البتہ بہ حیثیت سرپرست نگرانی فرماتے رہے۔

۱۳۷۳ھ/۱۹۵۳ء میں دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے رکن منتخب ہوئے اور تاحیات اس پر فائز رہے۔ متعدد بار حکومت کویت اور جامعہ ازہر وغیرہ کی طرف سے اعلیٰ عہدوں کی پیشکش کی گئی لیکن آپ نے ہندوستان میں قیام کو ترجیح دی۔

مولانا اعظمیؒ نے دینی علوم کی گراں قدر خدمات انجام دیں۔ آپ ان محققین میں سے تھے جن کے علم و فضل کا سکہ پوری علمی دنیا پر چھایا رہا۔ اپنے وقت میں فن حدیث، رجال حدیث اور متعلقات حدیث میں آپ امتیازی مقام کے حامل تھے۔ آپ کی شہرت و عظمت کی بنیاد وہ اہم اور نادر کتابیں ہیں جن کے مخطوطات کو آپ نے تحقیق و ترتیب کے رائج علمی اصول کے مطابق ایڈٹ کر کے پہلی بار شائع کیا۔

(۱) تحقیق و تعلیق مصنف عبدالرزاق، گیارہ ضخیم جلدوں میں (۲) تحقیق و تعلیق مسند الحمیدی، ۲ جلد (۳) تحقیق و تعلیق المطالب العالیہ بزوائد المطالب الثمانیہ، ۴ جلد (۴) تحقیق و تعلیق کتاب الزہد و الرقاق لعبد اللہ بن مبارک (۵) تحقیق و تعلیق سنن سعید بن منصور، ۲ جلد (۶) تحقیق و تعلیق مصنف ابن ابی شیبہ، ۱۵ جلد (۷) تحقیق و تعلیق فتح المغیث للسخاوی (۸) تحقیق کشف الاستار عن زوائد مسند المزہر، ۲ جلد (۹) تحقیق مجمع بحار الانور (۱۰) استدراک و تعلیق شرح مسند امام احمد بن حنبل (۱۱) تحقیق و تعلیق مختصر کتاب الترغیب والترہیب لابن حجر العسقلانی (۱۲) تحقیق و تعلیق التذیل العجیب علی نہایۃ الغریب للسیوطی (۱۳) تحقیق و تعلیق مسند اسحاق بن راہویہ (۱۴) تحقیق و تعلیق مسند الامام محمد حارث بن ابی اسامہ (۱۵) تحقیق و تعلیق نزہۃ الالباب فی الالقاب وغیرہ۔

ان کے علاوہ اردو کتابیں یہ ہیں: (۱) نصرۃ الحدیث (۲) تحقیق اہل حدیث (۳) الاعلام المرفوعۃ فی الطلقات المجموعۃ (۴) الازہار المربوعۃ (۵) رکعات تراویح (۶) التتقید السدید علی التفسیر المجدید (۷) دفع الجادلہ (۸) تنبیہ الکاذبین (۹) ارشاد الثقلین (۱۰) ابطال عزا اداری (۱۱) رد رجال بخاری (۱۲) شارح حقیقی (۱۳) احکام التذلل اولیاء اللہ (۱۴) اعیان الحجاج (۱۵) رہبر حجاج (۱۶) اہل دل کی دل آویز باتیں، وغیرہ۔

۱۰ رمضان ۱۴۱۲ھ/۱۶ مارچ ۱۹۹۲ء مؤ میں انتقال ہوا۔

ماخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم، ص ۱۲۴-۱۲۶؛ کاروانِ رفتہ، مولانا اسیر ادروی، ص ۷۳؛ اودھ میں افتاء کے مراکز، مولانا اشتیاق احمد اعظمی، ص ۳۷۹-۳۸۳

حضرت مولانا مفتی محمود احمد نانوتویؒ

ممتاز صاحب علم تھے، دارالعلوم کے رکن شوریٰ اور اعزازی مفتی رہے۔ نانوتہ کے صدیقی شیوخ میں سے تھے۔ ۱۲ ذوالحجہ ۱۳۱۰ھ/۲۹ جون ۱۸۹۳ء کو نانوتہ میں پیدا ہوئے۔

۱۳۳۷ھ/۱۹۱۹ء میں دارالعلوم دیوبند سے فارغ التحصیل ہوئے۔

عمر کا بڑا حصہ مہو چھاؤنی (ریاست مالوہ) میں گزرا، وہیں دارالافتاء قائم کر کے مسلمانوں کی علمی اور دینی رہ نمائی کی خدمت انجام دیتے رہے۔ مالوہ اور راجپوتانہ میں ان کے فتاویٰ بڑی اہمیت رکھتے تھے۔ تفسیر، فقہ اور افتاء پر گہری دسترس تھی۔ اسی کے ساتھ سیاست اور قومی مسائل سے بھی پوری دل چسپی تھی۔ اپنی سادہ مزاجی کے لحاظ سے بڑی عظمتوں کے حامل تھے۔ ان اطراف میں ان کا بڑا علمی فیض پہنچا۔ مفتی مالوہ کے لقب سے ملقب تھے۔ مدھیہ پردیش میں ان کا وجود علم و ہدایت کا نشانِ راہ تھا۔

۱۳۷۳ھ/۱۹۵۳ء سے تادم آخر دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے رکن رہے۔ اسی درمیان کچھ برسوں تک دارالافتاء میں اعزازی مفتی کے طور پر فتاویٰ بھی لکھتے رہے۔

ان کی ایک کتاب سیرت نبوی کے موضوع پر ہے۔ اس کتاب میں انھوں نے سیرت نبوی کو ایسے عام فہم انداز سے لکھا ہے کہ کم استعداد کے لوگ بھی اس سے کما حقہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کتاب میں کم سے کم الفاظ میں سیرت نبوی کے زیادہ سے زیادہ گوشوں کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

۱۲ شوال ۱۳۸۸ھ/۴ جنوری ۱۹۶۹ء کو وفات پائی اور مہو میں آسودہ خواب ہیں۔

ماخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم، ص ۱۳۹؛ الخیر الکثیر شرح الفوز الکبیر ضمن حالات حضرت مولانا مفتی سعید احمد پانپوری

حضرت مولانا منت اللہ رحمانی

امیر شریعت بہار و اڑیسہ، وبانی و اولین جنرل سکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے رکن، خانقاہ رحمانیہ موگیئر کے سجادہ نشین اور معروف عالم دین تھے۔

۹ جمادی الاخریٰ ۱۳۳۲ھ/۵ مئی ۱۹۱۴ء کو خانقاہ رحمانی موگیئر میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ماجد حضرت مولانا سید محمد علی موگیئرؒ اپنے وقت کے یگانہ روزگار عالم اور حضرت مولانا فضل رحمن گنج مراد آبادیؒ کے اجلہ خلفاء میں سے تھے۔ قرآن شریف اور فارسی و عربی کی ابتدائی تعلیم وطن میں پائی۔ ۱۱ سال کی عمر میں حیدرآباد دکن چلے گئے اور وہاں ایک سال رہ کر مفتی عبداللطیف صاحب سے عربی صرف و نحو اور منطق کی کتابیں پڑھیں۔ پھر دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں داخل ہو کر چار سال تک زیر تعلیم رہے۔ اسی دوران میں اس وقت کے نامور عالم مولانا حفیظ اللہ سے حجۃ اللہ البالغۃ کا درس لیا۔ ندوۃ العلماء کے ممتاز طلبہ میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ۱۳۴۹ھ/۱۹۳۰ء میں تکمیل علوم کے لیے دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا اور ۱۳۵۲ھ/۱۹۳۳ء میں سند فراغ حاصل کی۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا ندویؒ کے مخصوص تلامذہ میں تھے۔

۱۳۵۵ھ/۱۹۳۶ء میں بہار اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے۔ ۱۳۶۱ھ/۱۹۴۲ء میں خانقاہ رحمانی کے سجادہ نشین بنائے گئے۔ خانقاہ رحمانی کو ان کے والد ماجد نے مشرقی ہندوستان میں ایک بڑا علمی، دینی اور تبلیغی مرکز بنا دیا تھا۔

مسجد سجادگی پر متمکن ہونے کے بعد خلقِ خدا کی اصلاح پر متوجہ ہو گئے۔ بہار، اڑیسہ اور بنگال میں ان کے مریدین و مسترشدین کا ایک وسیع حلقہ ہے۔

۱۳۷۴ھ/۱۹۵۴ء سے ۱۴۱۱ھ/۱۹۹۱ء تک دارالعلوم دیوبند کی مجلسِ شوریٰ کے رکن رہے۔ مجلس میں ان کی اصابتِ رائے کو اہم مقام حاصل تھا۔

۱۳۷۶ھ/۱۹۵۶ء میں ان کو امارتِ شرعیہ صوبہ بہار و اڑیسہ کا امیر شریعت منتخب کیا گیا۔ افادہٴ باطنی کے ساتھ ساتھ درس و تدریس کا مشغلہ بھی جاری رہتا تھا۔ ان کی ذات شریعت و تصوف کے ایک حسین سنگم کی حیثیت رکھتی تھی۔ مولانا رحمانی کے زمانے میں امارتِ شرعیہ کو بڑا فروغ حاصل ہوا۔ بہار اور اڑیسہ میں جاہِ جااس کی شاخیں قائم ہوئیں۔ یہ ادارہ شرعی قوانین کو اپنے حلقہٴ اثر میں قائم کیے ہوئے ہے۔

جامعہ رحمانی کا از سر نو قیام اور اس کی غیر معمولی ترقی ان کا ایک اہم علمی اور انتظامی کارنامہ ہے۔ جامعہ رحمانی کا شمار اس وقت بہار کے بڑی دینی مدارس میں ہوتا ہے۔ جامعہ رحمانی کے کتب خانے میں ان کے زمانے میں بڑی ترقی کی، کتب خانے میں قدیم و جدید علوم کی منتخب کتابوں کا گراں قدر ذخیرہ جمع ہو گیا۔

مولانا رحمانی نے ۱۳۸۳ھ/۱۹۶۴ء کی موتمر عالم اسلامی قاہرہ میں ہندوستان کے نمائندے کی حیثیت سے شرکت کی۔ سفرِ مصر و حجاز اسی علمی اور ثقافتی سفر کی تاریخی یادگار ہے۔

مسلم پرسنل لا بورڈ کے قیام اور اس کی پہلے جنرل سکرٹری کی حیثیت سے مسلمانوں کے عائلی قوانین کے سلسلہ میں ان کی زبردست خدمات ہیں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے تحت جو مختلف المسالک نمائندگان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئے تھے، مولانا رحمانی کو ان سب جماعتوں کا اعتماد حاصل تھا۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمات آپ کی زندگی کا تاب ناک باب ہے۔

تقریر و تحریر دونوں میں بہرہ وافر رکھتے تھے۔ انگریزی زبان سے بھی بہ قدر ضرورت واقفیت تھی۔ متعدد کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کا طرزِ نگارش سادہ، عام فہم اور دلکش ہوتا ہے۔ انھیں زبان و بیان پر پوری طرح قدرت حاصل تھی۔ انھوں نے متعدد رسائل اور کتابیں لکھیں، جن میں کچھ اہم کتابیں یہ ہیں: (۱) کتابت حدیث (۲) مکاتیب گیلانی جلد اول (۳) نسبت اور ذکر و شغل (۴) مسلم پرسنل لاء (۵) قانون شریعت کے مصادر اور نئے مسائل کا حل (۶) سفرِ مصر و حجاز (۷) مذہب اخلاق اور قانون (۸) یونیفارم سول کوڈ (۹) منشی بل ۱۹۷۲ء ایک جائزہ، وغیرہ۔

۱۹ مارچ ۱۹۹۱ء/۳ رمضان ۱۴۱۱ھ کو آپ کی وفات ہوئی۔

ماخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم، ص ۱۶۶-۱۶۷؛ ذکرِ رفتگان، ص ۱۰۲؛

فہرست کتب اکابر، کتب خانہ دارالعلوم دیوبند

حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالعلی لکھنویؒ

ندوۃ العلماء لکھنؤ کے ناظم، حکیم و ڈاکٹر اور مشہور عالم دین تھے۔ حضرت مولانا حکیم عبدالحی صاحب ناظم ندوۃ العلماء لکھنؤ و مصنف نزہۃ الخواطر کے فرزند اکبر اور حضرت مولانا ابوالحسن علی ندویؒ کے برادر اکبر اور مربی تھے۔ وطن رائے بریلی میں تکیہ شاہ علم اللہ تھا، مگر لکھنؤ میں قیام تھا۔ ۲۲ جمادی الاولیٰ ۱۳۱۱ھ / یکم دسمبر ۱۸۹۳ء کو پیدا ہوئے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں تعلیم پائی۔ طب اپنے والد بزرگوار سے پڑھی۔ ۱۳۲۹ھ / ۱۹۱۱ء میں دارالعلوم دیوبند آ کر حضرت شیخ الہندؒ اور حضرت علامہ انور شاہ کشمیریؒ وغیرہ سے صحاح ستہ کی تکمیل کی۔ بعد ازاں انگریزی کی جانب متوجہ ہوئے اور کیننگ کالج لکھنؤ سے ۱۳۳۷ھ / ۱۹۱۹ء میں بی ایس سی کے امتحان میں فرسٹ آئے۔ دہلی میں حکیم اجمل خاں صاحب سے بھی استفادہ کیا، آخر میں لکھنؤ میڈیکل کالج میں داخلہ لیا اور ۱۳۴۴ھ / ۱۹۲۵ء میں ڈاکٹری کا امتحان پاس کر کے لکھنؤ میں مطب شروع کیا۔

انگریزی تعلیم اور ڈاکٹر ہونے کے باوجود ان کی زندگی سادہ اور اپنے اسلاف کا نمونہ تھی۔ مغربی تہذیب کو قریب سے دیکھنے اور اس نظام تعلیم میں برسوں تک رہنے کے باوصف اس کے سخت ناقد تھے۔ ان میں قدیم و جدید تہذیب و ثقافت اور مشرقی و مغربی علوم کا نہایت حسین اور دل آویز امتزاج تھا۔ انگریزی اور ڈاکٹری کی تعلیم کے دوران بھی ان کی وضع قطع اور معاشرت میں کوئی فرق نہیں آیا۔

جون ۱۹۳۱ء میں دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے ناظم منتخب کیے گئے اور نظامت کے فرائض تادم واپس انجام دیتے رہے۔ مسلسل تیس سال تک ناظم کے منصب پر فائز رہے، ان کے عہد میں ندوہ نے نمایاں ترقی کی۔

۱۳۷۷ھ / ۱۹۵۸ء سے ۱۳۸۰ھ / ۱۹۶۱ء تک دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے رکن رہے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنیؒ سے بیعت کا تعلق تھا اور ملکی و سیاسی امور میں جمعیتہ علمائے ہند سے وابستہ رہے۔

۲۲ رذوالقعدہ ۱۳۸۰ھ / ۷ مئی ۱۹۶۱ء کو لکھنؤ میں وفات پائی اور تکیہ شاہ علم اللہ رائے بریلی میں اپنے آبائی قبرستان میں سپرد خاک کیے گئے۔

ماخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم، ص ۱۱۳-۱۱۴؛ تذکرہ مولانا حکیم ڈاکٹر سید عبدالعلیؒ،

مولانا ابوالحسن علی ندوی، مطبوعہ سید احمد شہید اکیڈمی

حضرت مولانا ابوالحسن علی ندویؒ

عالم اسلام کے مشہور عالم دین، مصنف و مفکر، عربی و اردو کے ادیب، صاحب نسبت شیخ اور عظیم قائد تھے۔ دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے رکن رکین تھے۔

۱۳۳۳ھ / ۱۹۱۴ء میں تکیہ شاہ علم اللہ رائے بریلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد حکیم سید عبدالحی حسنی ایک

نامور مصنف اور مؤرخ تھے۔ اپنے بڑے بھائی مولانا ڈاکٹر عبدالعلی کی تربیت میں رائے بریلی اور ندوۃ العلماء لکھنؤ میں تعلیم حاصل کی۔ عربی کی تعلیم شیخ خلیل بن محمد الیمنی اور شیخ تقی الدین ہلالی مراکشی سے حاصل کی۔ حدیث کی تعلیم کے لیے دارالعلوم دیوبند آئے اور شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے درس میں شرکت کی۔

۱۹۳۴ء میں دارالعلوم ندوۃ العلماء میں مسند تدریس سنبھالا اور عربی رسالہ الضیاء کی مجلس ادارت میں شریک ہوئے۔ بعد میں خود کو تصنیفی و تبلیغی خدمات کے لیے وقف کر دیا۔

۱۳۶۰ھ/۱۹۴۱ء میں حضرت مولانا محمد الیاس کاندھلوی سے ملاقات ہوئی اور تبلیغی جماعت سے وابستہ ہوئے۔ تبلیغی تحریک کی توسیع و ترقی میں نمایاں خدمات انجام دیں۔ اسی دوران حضرت مولانا عبدالقادر رائے پوری سے بیعت ہوئے اور منازل سلوک طے کر کے چاروں سلسلوں میں خلافت حاصل کی۔

۱۳۸۲ھ/۱۹۶۲ء سے تاحیات دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے رکن رکین رہے۔ حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی عالم اسلام کی وہ عظیم علمی و ادبی شخصیت ہیں جن کی علمی و ادبی تحقیقی اور تصنیفی خدمات اور عظمت کا لوہا عرب و عجم میں مانا گیا۔ آپ نے سینکڑوں علمی و ادبی اور تاریخی کتابیں تصنیف کیں۔ آپ کی علمی و ادبی خدمات کے اعتراف میں آپ کو بڑے بڑے اعزازات اور ایوارڈوں سے نوازا گیا۔ بے شمار ممالک کے دورے کئے۔ آپ جس ملک میں بھی جاتے وہاں کی علمی و ادبی شخصیات کے علاوہ سربراہان مملکت بھی آپ سے ملاقات کو اپنے لیے باعث فخر و سعادت سمجھتے۔ رابطہ عالم اسلامی سمیت درجنوں عالمی تنظیموں اور مشہور اداروں کے ممبر و سرپرست تھے۔

۳۱ دسمبر ۱۹۹۹ء/۲۳ رمضان ۱۴۲۰ھ بروز جمعہ تکیہ شاہ علم اللہ رائے بریلی میں انتقال ہوا اور وہیں مدفون ہوئے۔

ماخذ: دارالعلوم دیوبند کی صد سالہ زندگی، ص ۱۰۷؛ مشاہیر علمائے دیوبند، ص ۱۹-۳۱؛ سوانح

مفکر اسلام، بلال عبدالحی حسنی، سید احمد شہید اکیڈمی، ط ۱۳۳۵ھ

حضرت مولانا حامد الانصاری غازیؒ

آپ مشہور مجاہد آزادی حضرت مولانا منصور انصاری نواسہ حضرت نانوتویؒ کے خلف الرشید ہیں۔ مشہور صحافی، انشاء پرداز اور جید عالم تھے۔

۱۳۲۷ھ/۱۹۰۹ء میں انیٹھ ضلع سہارن پور میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم مالیر کوٹلہ میں اپنے وقت کے مشہور استاذ اور اپنے نانا حضرت مولانا صدیق احمد انیٹھویؒ سے حاصل کی۔ ۱۳۴۱ھ/۱۹۲۲ء سے ۱۳۴۶ھ/۱۹۲۷ء تک دارالعلوم دیوبند میں پڑھا۔

اروڑ بان کے شگفتہ نثر نگار، صاحب طرز ادیب اور ممتاز صحافی و مقرر تھے۔ الجمعیت، دہلی اور مدینہ، بجنور وغیرہ اخبارات کے مدیر مسئول رہے۔ ۱۹۵۳ء میں بمبئی چلے گئے اور وہیں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ بمبئی سے

’جمہوریت‘ کے نام سے ایک اخبار بھی نکالا۔

مضمون نگاری کے ساتھ، شاعری پر بھی اچھی قدرت ہے۔ سیاسیات پر اُن کی نظر بڑی گہری تھی۔ مدت تک جمعیتہ علمائے ہند سے وابستہ رہے۔ جمعیتہ علمائے مہاراشٹر کے صدر بھی رہے۔

۱۳۸۲ھ/۱۹۶۲ء سے ۱۴۰۵ھ/۱۹۸۴ء تک دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے رکن رہے۔ اجلاس صد سالہ کی تیاریوں کے سلسلے میں دفتر اجلاس صد سالہ کے ذمہ دار بھی مقرر ہوئے تھے۔

’اسلام کا نظام حکومت‘ ان کی مشہور تصنیف ہے جو ندوۃ المصنفین دہلی سے شائع ہوئی۔ سیرت نبوی پر ’خلق عظیم‘ کے نام سے بھی ایک قابل قدر کتاب ہے۔

بمبئی میں ۱۶ اکتوبر ۱۹۹۲ء کو انتقال ہوا۔

مآخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم، ص ۱۵۷؛ کاروانِ رفتہ، مولانا اسیر اروی، ص ۷۱

حضرت مولانا سید حمید الدین فیض آبادیؒ

مشہور محدث، ندوۃ العلماء لکھنؤ اور مدرسہ عالیہ کلکتہ کے شیخ الحدیث اور دارالعلوم دیوبند میں شیخ التفسیر اور اس کی مجلس شوریٰ کے رکن تھے۔

اپنے وطن ہنسور ضلع فیض آباد (موجودہ ضلع امبیڈ کرنگر) میں ۱۹۱۰ء میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم مدرسہ اشاعت العلوم ہنسور میں پائی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے، لیکن یہاں تعلیم مکمل نہ ہوئی تھی کہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیریؒ دارالعلوم چھوڑ کر ڈابھیل تشریف لے گئے۔ استاذ محترم کے ساتھ ڈابھیل جانے والوں میں آپ بھی تھے۔ چنانچہ ڈابھیل ہی سے ۱۳۴۷ھ/۱۹۲۸ء میں آپ کی فراغت ہوئی۔

فراغت کے بعد کچھ دنوں اپنے وطن ہنسور میں حسبہ اللہ تدریسی خدمات انجام دیں۔ اس کے بعد پیر جھنڈا کلاں سندھ کے ایک مدرسہ میں شیخ الحدیث کے منصب پر فائز ہوئے۔ آب و ہوا کی ناموافقیت کی وجہ سے زیادہ دن قیام نہ رہ سکا۔ پھر ۱۳۵۳ھ میں جامعہ مسعودیہ نور العلوم میں بحیثیت صدر المدرسین اور شیخ الحدیث تشریف لائے اور ۱۳۶۰ھ تک بہرائچ میں مقیم رہے۔ پھر شوال ۱۳۶۰ھ/ نومبر ۱۹۴۱ء میں دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں بہ حیثیت محدث بلائے گئے اور ۱۹۴۵ء تک اس منصب پر فائز رہے۔ پھر کچھ برسوں تک جامعہ مسعودیہ نور العلوم میں خدمات انجام دیں۔

۱۹۴۹ء میں مدرسہ عالیہ کلکتہ میں شیخ الحدیث کے منصب پر آپ کا تقرر ہوا۔ ۱۳۷۴ھ/۱۹۵۵ء میں ایک سال کے لیے دارالعلوم دیوبند میں شیخ التفسیر کی حیثیت سے آپ کا تقرر عمل میں آیا۔ اسی درمیان آپ نے دارالعلوم دیوبند میں مسلم شریف کا درس بھی دیا۔ لیکن مدرسہ عالیہ کلکتہ کے اصرار پر پھر کلکتہ تشریف لے گئے اور وہیں قیام کیا۔ حضرت مولانا حمید الدینؒ نہایت قوی الاستعداد، کامل الفن، صاحب علم و فضل اور صاحب تقویٰ بزرگ

تھے۔ نہایت سادہ مزاج اور پاکیزہ اخلاق تھے۔ حسن صورت اور حسن سیرت کا مرقع تھے۔ حدیث و تفسیر اور فقہ میں خصوصی درک حاصل تھا۔ آپ نے پوری زندگی کتاب و سنت کی تدریس میں گزاری۔ مختلف جامعات و مدارس میں ہزاروں علماء و طلبہ نے آپ سے فیض پایا۔

آپ ۱۳۸۲ھ/۱۹۶۲ء سے ۱۳۸۸ھ/۱۹۶۸ء تک دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے رکن بھی رہے۔ ۲۴ شعبان ۱۳۸۸ھ/۱۵ نومبر ۱۹۶۸ء کی شب کو دہلی سے بذریعہ کاردارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے اجلاس میں شرکت کے لیے دیوبند آرہے تھے کہ راستے میں مظفرنگر کے قریب حادثہ پیش آیا اور اسی میں آپ کا انتقال ہوا۔ اگلے دن دیوبند میں مزار قاسمی میں دفن کیے گئے۔

مآخذ: مشاہدات و تاثرات، مرتبہ مفتی محمد سلمان منصور پوری؛ دارالعلوم دیوبند کی صد سالہ زندگی، ص ۱۰۷، ۱۱۵

حضرت مولانا قاضی زین العابدین سجاد میرٹھیؒ

شہر میرٹھ کے خاندان قضاة سے تعلق رکھتے تھے، ان کا خاندان محمد تعلق کے عہد (۷۲۵-۷۵۲ھ مطابق ۱۳۲۴-۱۳۵۱ء) سے میرٹھ میں قضا کے اہم منصب پر فائز اور علم و عمل میں ممتاز رہا ہے۔ قاضی صاحب اسی خاندان کے چشم و چراغ اور اپنی آبائی روایات کے حامل رہے ہیں۔

تقریباً ۱۳۲۸ھ/۱۹۱۰ء میں میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم مدرسہ دارالعلوم میرٹھ میں پائی۔ مولانا عبد المومن دیوبندیؒ سے مشکوٰۃ اور بیضاوی تک پڑھا۔ عربی ادب کا ذوق مدرسہ امداد الاسلام کے استاذ مولانا اختر شاہ خاں صاحب کی صحبت میں پیدا ہوا۔ اسی زمانہ میں فاضل ادب عربی کا امتحان الہ آباد یونیورسٹی سے پاس کیا اور ہائی اسکول تک انگریزی پڑھی۔ حدیث کی تکمیل کے لیے ۱۳۳۵ھ/۱۹۲۶ء میں دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا۔ حضرت علامہ کشمیریؒ اور حضرت مولانا حسین احمد مدنیؒ سے حدیث کا فیض حاصل کیا اور ۱۳۳۶ھ/۱۹۲۷ء میں امتیاز کے ساتھ دورہ حدیث سے فراغت پائی۔

زمانہ طالب علمی ہی میں انھیں عربی قصائد لکھنے اور عربی سے اردو ترجمہ کرنے کی مہارت حاصل ہو گئی تھی اور اردو کے معیاری جرائد میں ان کے ترجمے شائع ہونے لگے تھے۔ مولانا تاجور نجیب آبادی جو اس زمانے میں لاہور سے 'ادبی دنیا' کے نام سے ایک ماہنامہ نکالتے تھے، 'ادبی دنیا' کے جوائنٹ ایڈیٹر کے لیے ان کی نظر انتخاب قاضی صاحب پر پڑی اور وہ لاہور چلے گئے۔

۱۳۵۷ھ/۱۹۳۸ء میں جب دہلی میں ندوۃ المصنفین قائم ہوا تو اس کے رفقاءے تحریر میں قاضی صاحب بھی شامل تھے۔ اسی زمانے میں انھوں نے تاریخ ملت کے تین حصے نبی عربی، خلافت راشدہ اور خلافت بنی امیہ لکھے۔ ان کے علاوہ قاضی صاحب اور بھی بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کی اہم تصانیف یہ ہیں: (۲) بیان اللسان

(عربی اردو لغت) اس کتاب میں مادہ سے قطع نظر ہر لفظ کو اپنی اصل صورت میں لکھ کر مکمل صرفی و نحوی تشریح کی گئی ہے۔ (۳) قاموس القرآن (الفاظ قرآنی کی لغت) اس میں الفاظ قرآنی کی تحقیق لغوی کے علاوہ تمام اہم الفاظ پر جامع و مکمل نوٹ لکھے گئے ہیں۔ یہ بہت مقبول لغت ہے۔ (۴) قصص القرآن (۵) انتخاب صحاح ستہ (۶) سیرت طیبہ (۷) شہید کربلا (۸) کلام عربی (۹) خلافت راشدہ کا عہد زریں، وغیرہ۔

ایک زمانے میں میرٹھ سے الحرم کے نام سے ایک موقر ماہنامہ بھی نکالتے رہے۔ قاضی صاحب کا طرز نگارش سادہ، شگفتہ، عام فہم اور دل گش ہوتا ہے۔ عربی سے اردو میں ترجمہ کرنے میں انھیں کامل دسترس حاصل تھی۔

۱۹۵۷ء میں پروفیسر محمد مجیب وائس چانسلر جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی نے یونیورسٹی میں تاریخ اور تفسیر کی پروفیسری کے لیے آپ کو دعوت دی، جہاں ایک عرصہ تک آپ اس منصب پر فائز رہے اور شعبہ دینیات کو ترقی دی۔

۱۳۸۲ھ/۱۹۶۲ء سے تاحیات دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے رکن رہے۔ اس کے علاوہ مجلس منظمہ ندوۃ العلماء، فیکلٹی آف دینیات مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، مجلس عاملہ جمعیتہ علمائے ہند وغیرہ کے رکن اور آل انڈیا دینی تعلیمی بورڈ کے صدر رہے ہیں۔

۱۵ رمضان ۱۴۱۱ھ/۳۱ مارچ ۱۹۹۱ء کو میرٹھ وفات ہوئی۔

مآخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم، ص ۱۵۹-۱۶۰؛ کاروانِ رفتہ، مولانا اسیر ادروی، ص ۱۰۵؛ ذکر رفتگان، ص ۱۰۲

حضرت مولانا سعید احمد اکبر آبادیؒ

دارالعلوم دیوبند کے مشہور فاضل، ذہین و فطین عالم اور مشہور مصنف ہیں۔ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ دینیات کے ناظم، مجلس شوریٰ دارالعلوم دیوبند کے رکن، ندوۃ المصنفین کے بانیوں میں سے ہیں اور اس کے معیاری رسالہ 'برہان' کے مدیر رہے ہیں۔

۷ نومبر ۱۹۰۸ء/یکم شوال ۱۳۲۵ھ میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ آبائی وطن پتھراویوں ضلع مراد آباد ہے۔ ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ پھر مدرسہ شاہی مراد آباد میں پڑھا اور آخر میں دارالعلوم دیوبند سے ۱۳۴۴ھ/۱۹۲۶ء میں تکمیل کی۔ بعد ازاں اورینٹل کالج لاہور سے مولوی فاضل پاس کیا۔ پھر جامعہ اسلامیہ ڈابھیل میں دو سال تک مدرس رہے۔ وہاں سے دہلی جا کر مدرسہ عالیہ فتح پوری میں السنہ شرقیہ کے استاذ مقرر ہوئے۔ اسی دوران سینٹ اسٹیفن کالج سے ایم اے کیا اور شمس العلماء مولانا عبدالرحمن کی جگہ اسٹیفن کالج میں لکچرار مقرر ہوئے۔ پھر ۱۹۴۹ء میں مدرسہ عالیہ کلکتہ کے پرنسپل بنائے گئے۔

۱۹۵۸ء میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں شعبہ دینیات کے صدر کے منصب کے لیے ان کا انتخاب کیا گیا۔ یونیورسٹی میں دینیات کا شعبہ بہت معمولی حالت میں تھا، مولانا اکبر آبادی نے کمال جدوجہد سے اپنے زمانے میں

علمی اور انتظامی دونوں حیثیتوں سے اس شعبے کو ترقی دے کر یونیورسٹی کے دوسرے اعلیٰ معیار کے شعبوں کے برابر پہنچانے کا زبردست کارنامہ انجام دیا۔ دینیات (فیکلٹی آف تھیولوجی) میں پی ایچ ڈی کے شعبہ کا اجراء بھی مولانا اکبر آبادی ہی کی جدوجہد کا نتیجہ ہے۔

اسی دوران کناڈا کی مشہور آفاق میک گل یونیورسٹی میں وزیٹنگ پروفیسر بھی رہے۔ ایشیا، روس، افریقہ اور یورپ کے مختلف ملکوں کے دورے کیے اور متعدد بین الاقوامی سیمیناروں میں شرکت بھی کی۔ موتمر عالم اسلامی قاہرہ میں بھی شرکت کی۔

علی گڑھ میں اپنے عہدے کی مدت پوری کرنے کے بعد مولانا اکبر آبادی تعلق آبادی دہلی میں تحقیقات علمیہ (ریسرچ انسٹی ٹیوٹ) نام کا ایک ادارہ قائم کر کے علمی کاموں میں مصروف ہو گئے۔

مولانا موصوف نے ۱۳۵۷ھ/۱۹۳۸ء سے ندوۃ المصنفین کے بلند پایہ علمی ماہنامہ 'برہان' کے مدیر مقرر ہوئے۔ ان کے رشحاتِ قلم بڑے مدلل، پر مغز اور فکر انگیز ہوتے تھے اور جدید و قدیم حلقوں میں بڑے شوق سے پڑھے جاتے تھے۔ وہ کئی اہم اور محققانہ کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ صاحبِ قلم ہونے کے علاوہ وہ ایک کامیاب مقرر بھی تھے۔ آپ کی تصنیفات کچھ اس طرح ہیں: (۱) اسلام میں غلامی کی حقیقت (۲) غلامان اسلام (۳) فہم القرآن (۴) وحی الہی (۵) صدیق اکبر رضی اللہ عنہ (۶) عثمان ذوالنورین (۷) مسلمانوں کا عروج اور زوال (۸) ہندوستان کی شرعی حیثیت (۹) اسلامی عبادات اور اخلاقی تعلیمات (۱۰) کتاب دینیات (۱۱) مولانا عبید اللہ سندھی اور ان کے ناقد (۱۲) چار علمی مقالات۔

۱۳۸۲ھ/۱۹۶۲ء سے دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے رکن منتخب ہوئے۔ ۱۴۰۳ھ/۱۹۸۳ء میں آپ کو شیخ الہند اکیڈمی کا ڈائریکٹر بنایا گیا۔

کراچی میں ۲۴ مئی ۱۹۸۵ء/۳ رمضان ۱۴۰۵ھ کو انتقال ہوا۔

ماخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم، ص ۱۵۴-۱۵۵؛ کاروانِ رفتہ، مولانا اسیر ادروی، ص ۱۰۹

حضرت مولانا عبدالحلیم جون پوریؒ

مشرقی یوپی کے نامور عالمِ دین، بافیض بزرگ اور صاحبِ نسبت شیخ تھے۔ دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے رکن تھے۔

موضع دیور یا ضلع فیض آباد (موجودہ امبیڈ کرنگر) میں لگ بھگ ۱۳۲۵ھ/۱۹۰۷ء میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم مدرسہ عین العلوم ٹانڈہ میں تلمیذِ شیخ الہند مولانا محمد اسماعیل فیض آبادی سے حاصل کی۔ ۱۳۶۳ھ/۱۹۴۸ء میں مظاہر علوم سہارن پور میں داخل ہوئے اور وہیں سے فارغ التحصیل ہوئے۔

فراغت کے بعد مظاہر علوم میں معین مدرس کی حیثیت سے دو سال تدریسی خدمات انجام دیں۔ ۱۹۳۵ء میں مانی

کلاں ضلع جون پور تشریف لے گئے اور وہاں کے معمولی مکتب کو ایک مشہور مدرسہ میں تبدیل کر دیا۔ ۱۹۷۳ء میں چونکہ گورنمنٹی ضلع جون پور میں ریاض العلوم کے نام سے ایک ادارہ کی بنیاد ڈالی۔ اس ادارہ نے حیرت انگیز طور پر آپ کی سرپرستی و نگرانی میں ترقی کے منازل طے کیے اور دیکھتے دیکھتے وہ علاقہ کا بڑا ادارہ بن گیا۔ آپ کی ذات سے لا تعداد لوگوں کو دینی و روحانی فیض پہنچا۔ مولانا محمد یونس جون پوری شیخ الحدیث مظاہر علوم سہارن پور آپ ہی کے شاگرد اور تربیت یافتہ ہیں۔ مشرقی یوپی اور بمبئی و گجرات میں آپ کے شاگردوں اور مریدین کی بڑی تعداد پائی جاتی ہے۔

حضرت مولانا شاہ وحی اللہ فتح پوری ثم الہ آبادیؒ سے بیعت ہوئے اور سلوک و احسان کے منازل طے کرنے کے بعد اجازت و خلافت سے سرفراز ہوئے۔ شیخ کے انتقال کے بعد اپنے استاذ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا کاندھلویؒ سے بیعت ہوئے اور خلافت کی سعادت حاصل کی۔

۱۳۹۲ھ/۱۹۷۲ء میں دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے رکن منتخب ہوئے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء اور مظاہر علوم سہارن پور کی مجالس شوریٰ کے بھی رکن تھے۔

۱۰ محرم ۱۴۲۰ھ/۲۷ اپریل ۱۹۹۹ء کو گورنمنٹی میں انتقال ہوا اور وہیں مدفون ہوئے۔

مآخذ: ماہنامہ ریاض الجنۃ گورنمنٹی، مرشد امت نمبر: اودھ میں افتاء کے مراکز، ص ۲۸۹

دور ثالث کے مشاہیر اساتذہ و مشائخ

حضرت مولانا قاضی مسعود احمد دیوبندیؒ

ممتاز عالم دین اور مفتی تھے۔ دیوبند کے معروف قاضی خاندان سے تھے۔
 ۱۳۳۲ھ/۱۹۱۴ء میں تقرر ہوا اور پھر ۱۳۳۸ھ/۱۹۲۰ء میں نائب مفتی اور مدرس عربی بنائے گئے اور تا عمر افتاء
 و تدریس کی خدمات انجام دیں۔ علم الفرائض سے غیر معمولی مناسبت تھی۔ چھیالیس سال تک دارالعلوم میں فتویٰ
 نویسی کی اہم خدمت انجام دی۔
 حضرت شیخ الہند کے داماد اور معتمد تھے۔ تحریک ریشمی رومال میں شریک رہے اور اس سلسلہ میں گرفتار بھی کیے
 گئے۔ ۱۳۸۴ھ/۱۹۶۴ء میں انتقال ہوا اور مزار قاسمی میں دفن کیے گئے۔
 ماخذ: دارالعلوم دیوبند کی صد سالہ زندگی، ص ۱۱۱؛ تحریک ریشمی رومال، ص ۳۳۲، ۴۰۲؛ دارالعلوم
 اور دیوبند کی تاریخی شخصیات، ص ۶۵

حضرت مولانا سید اختر حسین دیوبندیؒ

دارالعلوم دیوبند کے استاذ اور ناظم تعلیمات تھے۔ آپ حضرت مولانا اصغر حسین دیوبندیؒ کے بڑے صاحب
 زادے تھے۔
 دیوبند میں ۲۳ رجب ۱۳۱۶ھ/۸ دسمبر ۱۸۹۸ء کو پیدا ہوئے۔ تعلیمی زندگی کا بڑا حصہ دارالعلوم میں گزرا اور
 ۱۳۳۱ھ/۱۹۲۳ء میں دورہ حدیث سے فارغ ہوئے۔
 محرم ۱۳۳۲ھ/ جولائی ۱۹۲۵ء میں دارالعلوم دیوبند میں معین المدرسین مقرر کئے گئے اور ۱۳۳۸ھ/۱۹۳۰ء میں
 درجہ عربی کے مدرس مقرر ہوئے۔ رجب ۱۳۸۳ھ/ نومبر ۱۹۶۳ء میں ترقی کر کے درجہ علیا میں پہنچے اور نائب ناظم
 تعلیمات بنائے گئے۔ ۱۳۸۷ھ میں ناظم تعلیمات بنائے گئے اور تا عمر اس عہدہ پر فائز رہے۔
 پوری زندگی تعلیم و تدریس میں گزاری اور ہزار ہا ہزار طالب علموں نے آپ سے استفادہ کیا۔ آپ نے
 سوانح حیات مولانا سید اصغر حسین کے نام سے اپنے والد کے حالات لکھے ہیں۔
 ۲ شعبان ۱۳۹۷ھ/ ۱۸ جولائی ۱۹۷۷ء بروز یکشنبہ وفات پائی اور دیوبند میں اپنے آبائی قبرستان میں سپرد
 خاک کیے گئے۔

ماخذ: مشاہیر علمائے دارالعلوم دیوبند، ص ۹۶؛ کاروانِ رفتہ، ص ۶۹؛ مشاہیر علماء دیوبند، ص ۱۱۶؛ روداد سن ۱۳۹۷ھ

حضرت مولانا مفتی ریاض الدین بجنوریؒ

حضرت مولانا مفتی ریاض الدین صاحب بجنوری دارالعلوم کے مفتی اور مدرس اعلیٰ تھے۔ مفتی ریاض الدین ابن میاں جی ایزد بخش قصبہ افضل گڑھ ضلع بجنور کے رہنے والے تھے۔ ابتدائی تعلیم وطن میں حاصل کی، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے مدرسہ شاہی مراد آباد شریف لے گئے اور وہیں سے ۱۳۰۵ھ میں فارغ التحصیل ہوئے۔ مدرسہ شاہی میں حضرت مولانا محمد حسن مغل پوری مراد آبادیؒ سے زیادہ استفادہ کیا۔

فراغت کے بعد دان پور، روڑکی، گلاؤنھی اور میرٹھ میں تدریسی خدمات انجام دیں۔ حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب کے بعد ۱۳۳۷ھ / ۱۹۲۹ء کے اواخر میں آپ کو دارالعلوم دیوبند بلا یا گیا اور دارالافتا کی خدمات تفویض کی گئیں۔ دارالافتاء میں آپ اواخر ۱۳۴۹ھ تک بہ طور مفتی خدمات انجام دیتے رہے۔ کم و بیش دو سال کی اس مدت میں تقریباً ۷ ہزار استفتاءات کے جوابات دارالافتاء سے دیئے گئے۔ دارالافتاء کی خدمات کے علاوہ معقولات و منقولات کی کتابیں بھی آپ سے متعلق رہیں۔

صفر ۱۳۵۰ھ / ۱۹۳۱ء میں آپ کو دارالافتاء سے شعبہ تدریس میں منتقل کر دیا گیا۔ مدرس اعلیٰ کے طور پر آپ تاحمد دارالعلوم سے وابستہ رہے اور سیکڑوں تشنگان علم نے آپ سے استفادہ کیا۔

حضرت مولانا مفتی ریاض الدین صاحب بڑے خوش خلق انسان تھے۔ بہت نیک طبع، سادہ دل اور مرنجاں مرنج طبیعت کے مالک تھے۔ اسی کے ساتھ بڑے ذی استعداد اور صاحب صلاحیت عالم تھے۔ تفسیر مظہری کے کچھ پاروں کا اردو ترجمہ بھی کیا تھا، چار پاروں کا ترجمہ تفسیر سعادت ازہری ترجمہ تفسیر مظہری کے نام سے مطبع شمس الانوار میرٹھ سے شائع ہوا تھا۔

۲۱ رزی الحجہ ۱۳۶۲ھ بروز دوشنبہ مطابق ۲۰ دسمبر ۱۹۴۳ء کو اپنے وطن میں وفات پائی اور وہیں قدم رسول قبرستان میں دفن کیے گئے۔

مآخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم، ص ۲۵۴؛ دارالعلوم دیوبند کی صد سالہ زندگی، ص ۱۰۰، ۱۱۳؛ مضمون: 'فضل گڑھ کا مولوی خاندان' از ڈاکٹر رضوان الدین علی گڑھ (حفید حضرت مفتی صاحب)

حضرت مولانا ظہور احمد دیوبندیؒ

دارالعلوم میں درجہ علیاء کے استاذ تھے۔ حضرت مولانا خورشید عالم دیوبندیؒ آپ کے صاحبزادے تھے۔ دیوبند میں ۱۹ ربیع الاول ۱۳۱۸ھ / ۱۷ جولائی ۱۹۰۰ء کو پیدا ہوئے۔ پوری تعلیم دارالعلوم دیوبند میں حاصل کی اور ۱۳۳۷ھ / ۱۹۱۹ء میں فارغ التحصیل ہوئے۔

فراغت کے بعد مدرسہ شاہ بہلول سہارن پور میں صدر مدرس بنائے گئے۔ اس کے بعد مدرسہ قاسمیہ گلینہ ضلع

بجنور، مدرسہ سعیدیہ شاہ جہاں پور وغیرہ مختلف مدارس میں تدریسی خدمات انجام دیں۔ ۱۳۴۹ھ/۱۹۳۱ء میں دارالعلوم دیوبند میں مدرس بنائے گئے، پھر زندگی بھر یہیں درس و تدریس میں مشغول رہے۔ درمیان میں ۱۳۶۲ھ/۱۹۴۳ء سے ۱۳۶۷ھ/۱۹۴۷ء تک چند سال بعض وجوہ کی بنیاد پر دارالعلوم سے باہر رہے، مگر پھر واپس آ گئے۔ ۲۹ ربیع الاول ۱۳۸۳ھ/۲۱ اگست ۱۹۶۳ء کو انتقال ہوا اور مزارِ قاسمی میں تدفین ہوئی۔

ماخذ: مشاہیر علماء دارالعلوم دیوبند، ص ۹۱؛ دارالعلوم اور دیوبند کی تاریخی شخصیات، ص ۷۰۔

حضرت مولانا محمد جلیل علوی کیرانویؒ

باصلاحیت عالم دین تھے اور دارالعلوم کے درجہ علیا کے استاذ تھے۔ اپنے وطن کیرانہ ضلع مظفرنگر میں ۱۳۱۸ھ/۱۹۰۰ء میں پیدا ہوئے۔ ۱۳۳۱ھ میں دارالعلوم دیوبند میں حضرت شیخ الہندؒ کی سرپرستی میں تعلیم شروع کی اور ۱۳۳۹ھ/۱۹۲۱ء میں فراغت حاصل کی۔ جب حضرت شیخ الہندؒ حجاز میں گرفتار کر کے مالٹا بھیجے گئے تو ہندوستان کی انگریزی حکومت نے جہاں دوسرے علماء کو گرفتار کیا ان میں مولانا کیرانوی بھی شریک تھے، ان پر سختیاں کیں کہ کچھ راز کا پتہ لگے، مگر مولانا مضبوط ثابت ہوئے۔ فراغت کے بعد مدرسہ مظہر العلوم کراچی میں مدرس ہوئے۔ ۱۳۵۰ھ/۱۹۳۲ء میں دارالعلوم میں مدرس عربی مقرر ہوئے اور بہت جلد درجہ علیا کے مدرسین میں شامل ہو گئے۔ حضرت مولانا اعزاز علی امرہویؒ کے انتقال کے بعد ۱۳۷۴ھ/۱۹۵۵ء میں نائب ناظم تعلیمات کے عہدہ پر بھی فائز ہوئے۔ آپ کے تلامذہ کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ۷ جمادی الاولیٰ ۱۳۸۸ھ/۲ اگست ۱۹۶۸ء کو کئی سال بیمار رہ کر وفات پائی اور قبرستان قاسمی میں دفن کیے گئے۔

ماخذ: مشاہیر علماء دارالعلوم دیوبند، ص ۹۲؛ کاروانِ رفتہ، ص ۶۹؛ مشاہیر علماء دیوبند، ص ۱۱۶۔

حضرت مولانا عبدالحق نافع گل پشاوریؒ

بلند پایہ محقق و مدقق، جامع منقول و معقول اور کثیر المطالعہ عالم دین تھے۔ ۹ محرم الحرام ۱۳۱۳ھ/۲ جولائی ۱۸۹۵ء کو زیارت کا صاحب تحصیل نوشہرہ ضلع پشاور میں میاں شاہد گل کے گھر پیدا ہوئے۔ عبدالحق نام تھا، لیکن نافع گل سے مشہور ہوئے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے دیوبند آئے جہاں آپ کے بڑے بھائی مولانا عزیز گل صاحب زیر تعلیم تھے۔ تعلیم کی تکمیل حضرت کشمیریؒ سے کی۔ فراغت کے بعد ہندوستان کے بعض مدارس میں تدریسی خدمات انجام دیں۔ صوبہ بنگال کے ضلع نواکھالی (اب بنگلہ دیش) میں بھی درس دیا۔

۱۳۵۲ھ/۱۹۳۳ء میں دارالعلوم دیوبند میں تدریس کے لئے بلائے گئے اور ۱۳۶۶ھ/۱۹۴۷ء (تقریباً پندرہ سال) تک اعلیٰ تدریسی خدمات انجام دیں۔ اسی درمیان تقسیم ہندو پاک کا سانحہ پیش آ گیا۔ ۱۹۵۰ء میں مدرسہ

مظہر العلوم کھڈہ کراچی میں بطور صدر مدرس تشریف لے گئے اور وہاں دورہ حدیث کی تعلیم شروع کی۔ ۱۹۵۳-۵۴ء میں مدرسہ اسلامیہ چارسدہ ضلع پشاور میں شیخ الحدیث رہے۔ ۱۹۵۶ء میں علامہ محمد یوسف بنوری کے اصرار پر مدرسہ عربیہ اسلامیہ نیوٹاون کراچی کے شیخ الحدیث کا منصب قبول کیا۔

تصانیف میں دو کتابیں 'نفع المہندی' اور 'ایضاح الفتاویٰ' ہیں؛ اول الذکر حضرت مولانا ظفر عثمانی کے سیاسی مسلک کا علمی جائزہ ہے جب کہ ثانی الذکر مولانا مودودی کا علمی رد ہے۔

۱۳/۱۳۹۳ھ / ۸ جنوری ۱۹۷۴ء میں سخاکوٹ میں انتقال ہوا۔

ماخذ: مشاہیر علمائے دیوبند، ص ۲۵۴-۲۵۵

حضرت مولانا شمس الحق افغانی پشاوری

آپ وقت کے بڑے عالم، مشہور مدرس، مبلغ اور کثیر التصانیف اہل قلم میں سے تھے۔

ضلع پشاور کے قصبہ ترنگ زئی کے ایک علمی خاندان میں ۷ رمضان ۱۳۱۸ھ / ۲۹ دسمبر ۱۹۰۰ء کو پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد مولانا غلام حیدر صاحب سے حاصل کی۔ پھر صوبہ سرحد اور افغانستان کے مختلف علماء کی خدمت میں رہ کر علوم معقول و منقول کی تکمیل کر کے کامل دست گاہ حاصل کی۔ بعد ازاں دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا اور حضرت علامہ کشمیری وغیرہ سے دورہ حدیث پڑھ کر ۱۳۳۹ھ / ۱۹۲۱ء میں فارغ التحصیل ہوئے۔

مولانا افغانی زمانہ طالب علمی ہی میں اپنے شغف اور ذہانت و ذکاوت میں اپنے معاصرین میں ممتاز تھے۔ دارالعلوم سے فراغت کے بعد پنجاب، سرحد اور سندھ کے مختلف مدارس (مظہر العلوم کھڈہ، مدرسہ دارالرشاد لاڑکانہ سندھ، مدرسہ دارالفیوض سندھ اور قاسم العلوم لاہور وغیرہ) میں برسوں درس و تدریس میں مشغول رہے۔

۱۳۵۴ھ / ۱۹۳۵ء میں انھیں دارالعلوم دیوبند میں تدریس کے لیے بلا یا گیا اور ترجمہ قرآن، تفسیر و حدیث کے اسباق دیے گئے۔ ۱۳۵۷ھ / ۱۹۳۸ء تک یہاں مدرس رہے۔

۱۳۵۸ھ / ۱۹۳۹ء میں آپ کو ریاست قلات کا وزیر تعلیم مقرر کیا گیا۔ کچھ مدت کے بعد وہ وزارت سے مستعفی ہو کر ۱۹۴۴ء میں جامعہ اسلامیہ ڈابھیل چلے گئے اور وہاں صدر مدرس بنائے گئے۔ ۱۳۶۶ھ / ۱۹۴۷ء میں تقسیم ملک کے بعد پاکستان چلے گئے۔ ۱۹۶۳ء میں جامعہ اسلامیہ بہاول پور میں شیخ التفسیر مقرر کیے گئے۔

تفسیر و حدیث کے علاوہ معقولات میں بھی کامل دستگاہ حاصل تھی۔ وہ جید عالم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے مصنف بھی تھے۔ آپ کی اردو تقریر و تحریر نہایت صاف اور شگفتہ ہوتی تھی۔ آپ کی تصانیف کچھ اس طرح ہیں: (۱) معین القضاة و المفتی، عربی (۲) شرعی ضابطہ دیوانی، اس کتاب میں فقہ کے تمام دیوانی قوانین کو قانونی دفعات کی صورت میں مرتب کیا ہے۔ (۳) علوم القرآن (۴) احکام القرآن (۵) مفردات القرآن (۶) ترقی اور اسلام (۷) سوشلزم اور اسلام (۸) سرمایہ دارانہ اور اشتراکی نظام کا موازنہ اسلام سے (۹) کمیونزم اور اسلام

(۱۰) اسلام دین فطرت ہے (۱۱) اسلام عالم گیر مذہب ہے (۱۲) عالمی مشکلات اور ان کا قرآنی حل (۱۳) آئینہ آریہ (۱۴) تصوف اور تعمیر کردار (۱۵) اسلامی جہاد (۱۶) حقیقت زمان و مکان (۱۷) تنقیح الہندی علی جامع الترمذی وغیرہ۔

۱۶ اگست ۱۹۸۳ء میں انتقال ہوا اور دارالعلوم کراچی کے قبرستان میں مدفون ہیں۔
 ماخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم، ص ۱۲۳-۱۲۴؛ مشاہیر علمائے دیوبند، ص ۲۲۷-۲۲۹؛
 دارالعلوم دیوبند کی پچاس مثالی شخصیات، ص ۳۱۴-۳۱۶

حضرت مولانا سید حسن دیوبندیؒ

دارالعلوم دیوبند کے استاذ اور حضرت تھانویؒ کے خلیفہ تھے۔

آپ حضرت مولانا نبیہ حسن دیوبندیؒ کے صاحب زادے تھے۔ دیوبند میں ۱۳۳۲ھ/۱۹۱۶ء میں پیدا ہوئے۔ پوری تعلیم دارالعلوم میں حاصل کی ۱۳۵۲ھ/۱۹۳۵ء میں دورہ حدیث کی تکمیل کی۔ فراغت کے بعد نینی تال میں پڑھانا شروع کیا۔ ۱۳۵۷ھ/۱۹۳۸ء میں دارالعلوم میں شعبہ فارسی کے استاذ بنائے گئے اور ۱۳۶۷ھ میں درجات عربی کے مدرس بنائے گئے۔ حدیث کی کتابیں بھی زبردس رہیں۔ تدریس کے علاوہ تصنیف سے بھی شغف رہا۔ تقریباً بیس سے زیادہ چھوٹی بڑی کتابیں لکھیں جن میں کچھ درسی کتابوں کی شروح ہیں جب کہ کچھ عقائد و مسائل کے موضوعات پر ہیں۔ المنجد کے اردو ترجمہ میں بھی شریک رہے۔ یکم نومبر ۱۹۶۱ء/۲۱ جمادی ۱۳۸۱ھ کو دیوبند میں انتقال ہوا۔
 ماخذ: مشاہیر علماء دارالعلوم دیوبند، ص ۱۰۴، دارالعلوم اور دیوبند کی تاریخی شخصیات، ص ۶۰-۶۳

حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ گنگوہیؒ

حضرت مفتی کفایت اللہ گنگوہیؒ، دارالعلوم کے مفتی تھے۔ حضرت شیخ الہندؒ کے خاص شاگردوں میں تھے۔ عرصہ تک رمضان المبارک میں آپ نے تراویح میں حضرت شیخ الہند کو قرآن سنایا۔ آپ نہایت خوش خلق اور متواضع تھے، زندگی بہت سادہ تھی۔ مسائل فقہیہ میں نظر بہت عمیق اور فقہی مذاہب میں آپ کی واقفیت بہت وسیع تھی۔ آپ کی فقہی بصیرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے دارالعلوم دیوبند میں مفتی کی حیثیت سے آپ کا انتخاب ہوا تھا۔ آپ کے ہی کے ہم نام مفتی کفایت اللہ شاہجہاں پوری ثم دہلوی مشہور مفتی و عالم ہوئے ہیں، وہ بھی دارالعلوم کے فاضل اور حضرت شیخ الہندؒ کے خصوصی شاگرد تھے۔

آپ نے ۱۳۲۳ھ/۱۹۰۵ء میں دارالعلوم سے فراغت حاصل کی۔ مختلف مدارس میں تدریسی خدمات انجام دیں۔ ۱۳۵۸ھ/۱۹۳۹ء میں دارالعلوم کے دارالافتاء کے لیے آپ کو منتخب کیا گیا جہاں ایک سال تک فتویٰ نویسی کی

خدمات انجام دیتے رہے۔ آپ کے زمانہ میں دارالافتاء سے ۵۸۴۰/فتاویٰ روانہ کیے گئے۔
 ۱۳۵۹ھ/۱۹۴۰ء کے اوائل میں آپ کو دارالافتاء سے شعبہ تدریس میں منتقل کر دیا گیا۔ ۱۳۶۳ھ/۱۹۴۴ء
 میں مولانا کفایت اللہ صاحب دارالعلوم سے مستعفی ہو کر میرٹھ چلے گئے۔ وہاں درس و تدریس کا مشغلہ رہا۔
 ماخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، جلد دوم، ص ۲۵۷

حضرت مولانا عبدالاحد دیوبندیؒ

دارالعلوم دیوبند کے حدیث و فقہ کے استاذ اور حضرت مولانا عبدالسمیع دیوبندیؒ کے صاحب زادے تھے۔
 ۱۱ رمضان ۱۳۲۹ھ/۵ ستمبر ۱۹۱۱ء میں پیدا ہوئے۔ آپ کی تعلیم از اول تا آخر دارالعلوم میں ہوئی، ۱۳۵۵ھ/
 ۱۹۳۶ء میں فارغ التحصیل ہوئے اور اگلے سال فنون کی تکمیل کی۔
 ۱۳۵۷ھ/۱۹۳۸ء میں دارالعلوم میں عربی کے ابتدائی مدرس مقرر ہوئے اور بتدریج ترقی کر کے بہت جلد
 درجہ علیا کے استاذ حدیث ہو گئے۔ اخیر میں کئی سال تک مسلم شریف کا درس دیا۔ بیالیس سال تک مدرس رہے۔
 آپ کے تلامذہ کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ جامع مسجد دیوبند کے خطیب بھی تھے، زہد و تقویٰ اور سنت نبویؐ کا عملی
 نمونہ تھے۔ آپ نے 'کنز الفرائد' کے نام سے شرح عقائد کی شرح بھی لکھی۔
 ۱۰ ارذوالقعدہ ۱۳۹۹ھ/۳ اکتوبر ۱۹۷۹ء میں انتقال فرمایا۔
 ماخذ: مشاہیر علماء دارالعلوم دیوبند، ص ۱۰۵؛ دارالعلوم اور دیوبند کی تاریخی شخصیات، ص ۷۸

حضرت مولانا بشیر احمد خان بلند شہریؒ

دارالعلوم دیوبند کے درجہ علیا کے استاذ اور نائب مہتمم تھے۔
 آبائی وطن ضلع بلند شہر تھا، حضرت مولانا نصیر احمد خان بلند شہریؒ کے برادر اکبر اور استاذ و مربی تھے۔ مدرسہ منبع
 العلوم گلاؤٹھی ضلع بلند شہر میں تعلیم حاصل کی اور ۱۳۴۰ھ میں فراغت حاصل کی۔ فراغت کے بعد اسی مدرسے میں
 مدرس مقرر ہوئے۔
 ۱۳۶۲ھ/۱۹۴۳ء میں دارالعلوم دیوبند میں استاذ مقرر ہوئے اور تا وفات مختلف تدریسی و انتظامی خدمات
 انجام دیں۔ دورہ حدیث کے مقبول استاذ تھے، حدیث کی متعدد اہم کتابیں آپ سے متعلق رہیں۔ علوم عقلیہ میں
 آپ کی مہارت مشہور و معروف تھی۔ فن ہیئت کے امام سمجھے جاتے تھے۔
 ایک کامیاب مدرس ہونے کے ساتھ بہترین منتظم و مدبر بھی تھے؛ ۱۳۶۴ھ سے ۱۳۶۷ھ تک نائب ناظم
 تعلیمات رہے۔ نظامت امتحان اور نظامت دارالافتاء میں بھی آپ سے متعلق رہی۔ ۱۳۸۴ھ/۱۹۶۴ء میں نائب مہتمم
 بنائے گئے اور آخر تک اس اہم ذمہ داری کو بحسن و خوبی انجام دیا۔

۸ جمادی الثانیہ ۱۳۸۶ھ/ ۲۴ ستمبر ۱۹۶۶ء کو انتقال ہوا۔ مزارِ قاسمی میں مدفون ہیں۔
 ماخذ: دارالعلوم اور دیوبند کی تاریخی شخصیات، ص ۷۲؛ نقوش حیات: سوانح مولانا نصیر احمد خان،
 خلیل الرحمن برنی قاسمی، ص ۷۷-۷۸؛ ماہنامہ دارالعلوم، نومبر ۱۹۶۶ء؛ نقشہ اسباق دارالعلوم دیوبند

حضرت مولانا عبدالحق اکوڑویؒ

دارالعلوم میں استاذ حدیث، دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک کے بانی و شیخ الحدیث اور معروف عالم دین تھے۔
 مولانا عبدالحق ابن حاجی معروف گل، اکوڑہ خٹک ضلع پشاور میں ۷ محرم ۱۳۲۷ھ/ ۳۱ جنوری ۱۹۰۹ء کو پیدا
 ہوئے۔ ابتدائی تعلیم علاقہ میں حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے میرٹھ اور امر وہہ میں زیر تعلیم رہے، پھر ۱۳۴۷ھ
 مطابق ۱۹۲۹ء میں دارالعلوم میں داخل ہوئے اور ۱۳۵۲ھ/ ۱۹۳۳ء میں فارغ التحصیل ہوئے۔

۱۳۶۲ھ/ ۱۹۴۳ء سے ۱۳۶۶ھ/ ۱۹۴۷ء تک دارالعلوم دیوبند میں اعلیٰ تدریسی خدمات انجام دیں۔ تقسیم
 ملک کے بعد اکوڑہ خٹک میں دارالعلوم حقانیہ کی بنیاد رکھی۔ اسی سال پاکستان کے جو طلبہ ہندوستان کے مختلف
 مدارس میں زیر تعلیم تھے، دورہ حدیث کی تکمیل کے لیے آپ کے پاس پہنچ گئے۔ آپ کی مخلصانہ مساعی سے اللہ تعالیٰ
 نے اس مدرسہ کو بڑی مقبولیت عطا فرمائی اور وہ پاکستان کے ممتاز اداروں میں شمار ہونے لگا جہاں افغانستان وغیرہ
 کے طلبہ کی ایک بڑی تعداد زیر تعلیم رہتی ہے۔

۱۹۷۰ء کے بعد متعدد مرتبہ قومی اسمبلی کے ایکشن میں منتخب ہوئے۔ آپ کے تلامذہ کی تعداد ہزاروں میں
 ہے۔ تبلیغ و دعوت اور معاشرتی اصلاح کے سلسلہ میں بھی آپ نے نمایاں خدمات انجام دیں۔
 آپ کی تصانیف میں مقام صحابہ و مسئلہ خلافت و شہادت، دعواتِ حق، علم کے تقاضے اور اہل علم کی ذمہ
 داریاں، صیام رمضان، ناموس رسالت وغیرہ ہیں۔ قومی اسمبلی میں کی گئی آپ کی تقاریر دلیلِ سحر کے نام سے شائع
 ہوئی ہیں۔ آپ کی درس ترمذی کا ایک حصہ 'حقائق السنن' کے نام سے طبع ہوا ہے۔

۲۴ محرم ۱۴۰۹ھ/ ۶ ستمبر ۱۹۸۸ء کو انتقال ہوا۔

ماخذ: مشاہیر علمائے دیوبند، ص ۲۵۲؛ اکابر علمائے دیوبند، ص ۴۱۷؛ نقوش رفتگاں، ص ۳۰۳

حضرت مولانا مفتی محمد فاروق انبیٹھویؒ

حضرت مولانا حکیم مفتی محمد فاروق صاحب انبیٹھوی شم بھاو پوری، دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی کے منصب
 پر فائز ہوئے اور بعد میں جامعہ عباسیہ بھاو پور کے شیخ الحدیث بھی ہوئے۔ آپ جماعت دیوبند کے مشہور عالم و
 بزرگ حضرت مولانا صدیق احمد انبیٹھویؒ کے فرزند ہیں۔

حضرت مفتی فاروق احمد صاحب کی پیدائش انبیٹھہ ضلع سہارن پور میں ۱۳۰۱ھ/ ۱۸۸۴ء میں ہوئی۔ آپ کا

نسب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ نے شروع سے لے کر آخر تک تمام درسی کتب اپنے والد حضرت مولانا صدیق احمد انپٹھوی صاحب سے پڑھیں۔ علم حدیث کی تکمیل حضرت مولانا احمد حسن امر وہوئی سے کی۔

۱۳۲۵ھ/ ۱۹۰۷ء میں دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا اور حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب سے دوبارہ حدیث پڑھ کر سند فراغ حاصل کی۔ علامہ شبیر احمد عثمانی آپ کے ہم جماعت تھے۔ علم طب کی تعلیم بھی حاصل کی جس میں آپ کے استاذ حکیم اجمل خان کے چھوٹے بھائی حکیم عبدالجید خان صاحب تھے۔ کچھ عرصہ تک کامیاب مطب کیا مگر جب یہ تدریس میں حائل ہوا تو اسے چھوڑ کر آپ تدریس میں مشغول ہو گئے۔

۱۵ فروری ۱۹۱۵ء/ ربیع الثانی ۱۳۳۳ھ کو بھاو پور تشریف لے گئے اور تدریس کا آغاز کیا۔ تدریس کے ساتھ انسپکٹر مدارس دینیات کے منصب پر بھی کام کرتے رہے۔ ۱۹۲۵ء میں جب جامعہ عباسیہ بھاو پور کی بنیاد رکھی گئی تو مولانا غلام محمد گھوٹوی شیخ الجامعہ اور آپ شیخ الحدیث کے منصب پر فائز ہوئے اور ۱۹۳۳ء تک اعلیٰ تدریسی خدمات انجام دیں۔ جامعہ عباسیہ بھاو پور میں درس و تدریس کے ساتھ افتاء کی خدمات بھی انجام دیں۔

۱۳۶۲ھ/ ۱۹۴۳ء میں دارالافتاء دارالعلوم کے صدر مقرر ہوئے جہاں آپ نے ایک سال سے زائد مدت تک دارالافتاء کے فرائض انجام دیے۔ دارالعلوم میں آپ کے زمانے میں دارالافتاء سے ۸۴۷ فتاویٰ لکھے گئے۔

۱۳۶۳ھ/ ۱۹۴۴ء میں ریاست بھاو پور کی وزارت تعلیم کی جانب سے مولانا فاروق احمد صاحب پر زور ڈالا گیا کہ وہ اپنی سابقہ جگہ پر بھاو پور تشریف لے آئیں، چنانچہ مولانا بھاو پور چلے گئے اور وہاں جامعہ عباسیہ بھاو پور کے شیخ الحدیث مقرر ہوئے۔ کچھ دنوں تک مدرسہ قاسم العلوم فقیر والی ضلع بھاو پور میں بھی صدر مدرس رہے۔ ۱۳۸۰ھ/ ۱۹۶۰ء میں اپنے ضعف و نقاہت کی وجہ سے سبکدوش ہو کر خانہ نشین ہو گئے تھے۔

تدریس میں اس قدر مشغولیت رہتی تھی کہ جامعہ کے بعد گھر پر بھی بیسیوں طلبہ کو مختلف علوم و فنون کی کتابیں پڑھایا کرتے تھے۔ آپ نے بخاری شریف کی اسناد کو ایک نقشہ کی صورت میں مرتب کیا تھا جسے اہل علم نے نہایت قدر کی نگاہوں سے دیکھا۔ آپ نے بخاری شریف پر تحقیقی کام بھی کیا تھا، اس کے علاوہ کچھ اور کتابیں بھی لکھیں جو مسودہ کی شکل میں ورثہ کے پاس محفوظ ہیں اور طبع نہ ہو سکیں۔

اخیر عمر میں مستقل طور پر بھاو پور میں رہنے لگے تھے۔ ۲۷ رمضان ۱۳۹۵ھ/ یکم اکتوبر ۱۹۷۵ء کو آپ کا انتقال

ہوا۔

حضرت مولانا عبدالشکور دیوبندیؒ

آپ ایک بلند پایہ عالم دین، مقبول مدرس اور با فیض استاذ تھے۔
دیوبند کے شیوخ خاندان سے تھے، آپ کے والد مولانا نور الحسن نقشبندی تھے، آپ کے دادا مولانا شمس الدین حضرت سید احمد شہیدؒ کے حلقہ بیعت میں شامل تھے۔ مولانا عبدالشکور صاحب نے دارالعلوم میں تعلیم پائی اور ۱۳۲۹ھ/۱۹۱۱ء میں فارغ التحصیل ہوئے۔

مدرسہ صدیقیہ دہلی اور مدرسہ حسین بخش دہلی میں مدتوں تدریس کی خدمات انجام دیں۔ ۱۳۶۳ھ/۱۹۴۴ء میں دارالعلوم میں تدریس کے لیے ان کا تقرر ہوا۔ شوال ۱۳۶۷ھ/۱۹۴۸ء میں حجاز چلے گئے اور مدرسۃ العلوم الشرعیۃ مدینہ منورہ میں مدرس مقرر ہو گئے۔ حجاز میں اللہ تعالیٰ نے ان کے درس کو بڑی مقبولیت بخشی اور ہزار ہا عرب و عجم کے طلبہ ان کے درس سے فیض یاب ہوئے۔

مولانا موصوف کی شخصیت اپنے علم و فضل، زہد و تقویٰ، ایثار و انکسار اور اخلاص و سادگی کا ایک پرکشش مجموعہ تھی۔ ان کی ساری عمر قرآن کریم، تفسیر اور حدیث کے درس اور خدمت میں گزری۔ قرآن کریم کے جید حافظ تھے، ایسے دل گداز اور تاثیر میں ڈوبے ہوئے لہجے میں قرأت کرتے کہ سننے والوں پر وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی۔
جمادی الاولیٰ ۱۳۸۳ھ/ستمبر ۱۹۶۳ء میں مدینہ منورہ میں انتقال فرمایا اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔

ماخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم، ص ۱۱۲-۱۱۳؛ مشاہیر علمائے دیوبند، ص ۲۹۸

حضرت مولانا محمد نعیم دیوبندیؒ

دارالعلوم دیوبند کے استاذ حدیث تھے۔
۷ ذوالحجہ ۱۳۳۷ھ/۶ اگست ۱۹۱۹ء کو دیوبند میں پیدا ہوئے۔ پوری تعلیم دارالعلوم میں حاصل کی اور ۱۳۵۱ھ/۱۹۳۲ء میں فارغ التحصیل ہوئے۔

فراغت کے بعد فیضان القرآن سہارن پور اور قاسم العلوم فقیر والی بہاول پور میں تدریسی خدمات انجام دیں۔ ذوالقعدہ ۱۳۶۶ھ/ستمبر ۱۹۴۷ء میں دارالعلوم میں مدرس مقرر ہوئے اور تقریباً ۳۵ سال تک اعلیٰ تدریسی خدمات انجام دیں۔ ۱۴۰۲ھ/۱۹۸۲ء میں دارالعلوم وقف دیوبند میں شیخ الحدیث مقرر ہوئے اور تیرہ سال تک اس منصب پر فائز رہے۔

تدریس کے علاوہ، آپ نے مشہور تفسیر جلالین کی ایک مکمل شرح لکھی جو کمالین کے نام سے چھ جلدوں میں شائع ہوئی ہے اور علمی حلقوں میں کافی مقبول ہے۔

۹ شعبان ۱۴۲۸ھ/۲۳ اگست ۲۰۰۷ء کو شیکاگو (امریکہ) میں انتقال ہوا۔

ماخذ: ماہنامہ الداعی، ذوالحجہ ۱۴۲۸ھ

حضرت مولانا محمد سالم قاسمی

آپ برصغیر کے مشہور علمی و مذہبی قاسمی خاندان کے چشم و چراغ اور حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی سابق مہتمم دارالعلوم دیوبند کے صاحب زادے تھے۔ جید عالم دین اور بہترین خطیب و متکلم تھے۔

۲۲ جمادی الثانیہ ۱۳۲۴ھ / ۸ جنوری ۱۹۲۶ء میں دیوبند پیدا ہوئے۔ ۱۳۵۱ھ / ۱۹۳۳ء میں دارالعلوم میں داخل ہوئے اور پوری تعلیم یہیں حاصل کی۔ ۱۳۶۷ھ / ۱۹۴۸ء میں شیخ الاسلام حضرت مدنی و دیگر اساتذہ سے دورہ حدیث کی تکمیل کی۔

۱۳۷۰ھ / ۱۹۵۱ء سے دارالعلوم میں تدریس کا آغاز کیا اور ترقی کرتے ہوئے درجہ علیا تک پہنچے۔ دارالعلوم دیوبند میں تین دہائیوں تک تدریسی و انتظامی خدمات انجام دیں اور ابتدائی درجات سے دورہ حدیث کی کتابیں کامیابی کے ساتھ پڑھائیں۔

۱۴۰۳ھ / ۱۹۸۳ء میں دارالعلوم وقف کے مہتمم بنائے گئے اور پھر سرپرست مہتمم ہوئے۔ اس کے علاوہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے نائب صدر، آل انڈیا مجلس مشاورت کے صدر اسلامک فقہ اکیڈمی کے سرپرست اور فقہ کونسل از ہر مصر کے مستقل رکن بھی رہے۔ خطابت کا بہترین ملکہ حاصل تھا، ملک و بیرون ملک کے اہم جلسوں میں شریک ہوتے تھے۔ آپ کی تقاریر کا مجموعہ شائع ہو چکا ہے۔

۱۴ اپریل ۲۰۱۸ء کو دیوبند میں انتقال ہوا اور قبرستان قاسمی میں حضرت نانوتویؒ کی قبر مبارک کے پاس دفن کیے گئے۔

ماخذ: ماہنامہ دارالعلوم، مئی و جون ۲۰۱۸ء؛ دارالعلوم دیوبند کی صد سالہ زندگی، ص ۱۱۴

حضرت مولانا سید انظر شاہ کشمیریؒ

حضرت مولانا علامہ انور شاہ کشمیریؒ کے فرزند ارجمند، دارالعلوم دیوبند کے استاذ حدیث اور دارالعلوم وقف کے شیخ الحدیث تھے۔

۱۴ شعبان ۱۳۳۷ھ / ۲۶ جنوری ۱۹۲۹ء کو دیوبند میں پیدا ہوئے۔ صغریٰ ہی میں والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ حضرت مولانا اعزاز علی امر و ہوائی اور دیگر اساتذہ کی سرپرستی میں تعلیمی مراحل طے کیے اور ۱۳۷۲ھ / ۱۹۵۳ء میں شیخ الاسلام حضرت مدنی سے دورہ حدیث پڑھا۔

تعلیم سے فراغت کے بعد ۱۳۷۳ھ / ۱۹۵۴ء میں دارالعلوم دیوبند میں تدریس کا سلسلہ شروع کیا جو مسلسل چوبیس سالوں تک جاری رہا۔ اس مدت میں آپ نے بخاری جلد دوم کے ساتھ ساتھ نصاب میں شامل بعض کتابوں کے علاوہ تقریباً سبھی کتابوں کا درس دیا۔ شاہ صاحب قوت حافظہ، یادداشت اور ذہانت و ذکاوت میں

اپنے ہم عصروں میں ممتاز تھے، اسی کے ساتھ زبان و بیان پر انھیں پوری قدرت حاصل تھی۔ اس لئے ان کا درس طلبہ میں ہمیشہ مقبول رہا۔ دارالعلوم میں مختلف انتظامی امور کی انجام دہی کے ساتھ ساتھ ۱۳۹۸ھ سے ۱۴۰۱ھ تک ناظم تعلیمات بھی رہے۔

دارالعلوم دیوبند سے رسمی تعلق منقطع ہو جانے کے بعد ۱۹۸۲ء میں دارالعلوم وقف میں تدریس کا سلسلہ جاری رہا۔ اس مدت میں دیگر کتابوں کے علاوہ صرف بخاری شریف کے طلبہ کی تعداد جنھوں نے دونوں جگہوں میں شاہ صاحب سے پڑھا سات ہزار سے اوپر ہے۔

حضرت شاہ صاحب مرحوم نہایت خوش اخلاق، نرم گفتار اور باغ و بہار طبیعت کے مالک تھے۔ وہ بیک وقت ایک کامیاب و مقبول مدرس، اعلیٰ درجہ کے خطیب و مقرر اور بلند پایہ صاحب قلم و مصنف تھے۔ ان کی تحریروں دو اور ادب کی چاشنی کا نمونہ ہوتی تھیں۔ اسلامیات میں تفسیر و حدیث ان کا محبوب موضوع تھا اور ان میں وہ اپنی نمایاں پہچان رکھتے تھے۔ چنانچہ انھوں نے اپنے اس طویل علمی سفر میں تلامذہ کی کثیر جماعت کے ساتھ قرآن، حدیث، تذکرہ و سوانح وغیرہ مختلف موضوعات پر دو درجن سے زائد تصنیفی یادگار بھی چھوڑی ہیں۔ تعلیم و تدریس اور تالیف و تصنیف کے مشغلہ سے مضبوط و مستحکم وابستگی کے ساتھ ملکی سیاست سے بھی عملاً وابستہ تھے، اور سیاسی حلقوں میں ان کی مقبولیت اور پذیرائی علمی و دینی دائروں سے کم نہیں تھی۔

۱۸ ربیع الثانی ۱۴۲۹ھ / ۲۶ اپریل ۲۰۰۸ء بروز شنبہ انتقال ہوا اور عید گاہ کے قریب اپنے والد ماجد کے پہلو میں مدفون ہوئے۔

ماخذ: ماہنامہ دارالعلوم دیوبند، مئی ۲۰۰۸ء

حضرت مولانا اسلام الحق اعظمیؒ

اپنے وطن کو پانچ ضلع اعظم گڑھ (اب منو) میں ۱۳۲۲ھ / ۱۹۰۴ء میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی اور متوسطات کی تعلیم اپنے وطن، جون پور اور کان پور میں حاصل کی۔ ۱۳۳۱ھ / ۱۹۲۳ء میں مینڈھو میں مشکاۃ اور ہدایہ وغیرہ کتابیں پڑھیں۔ ۱۳۳۳ھ / ۱۹۲۵ء میں دارالعلوم دیوبند آگئے اور ۱۳۴۵ھ / ۱۹۲۷ء میں حضرت انور شاہ کشمیریؒ وغیرہ اساتذہ سے پڑھ کر دورہ حدیث کی تکمیل کی۔

فراغت کے بعد دارالعلوم منو میں مدرس ہوئے۔ پھر اپنے وطن کو پانچ ضلع میں مدرسہ مصباح العلوم میں مدرس بنائے گئے۔ اس کے بعد جامعہ اسلامیہ ڈابھیل، مدرسہ تعلیم الاسلام آئند گجرات اور مدرسہ احیاء العلوم مبارک پور میں بہ حیثیت استاذ حدیث و صدر المدرسین تعلیمی فرائض انجام دیے۔

۱۳۸۰ھ / ۱۹۶۱ء میں دارالعلوم دیوبند بلائے گئے اور اخیر عمر تک یہیں درس و تدریس میں منہمک رہے۔ ذی استعداد، یکسو مزاج اور خالص علمی رنگ کے عالم تھے۔ دیوبند ہی کے زمانہ قیام میں التوضیح الاحسن شرح ملاحسن،

شرح قطبی اور فیض الملہم شرح مقدمہ مسلم لکھیں جو طبع ہوئیں۔ اس کے علاوہ نبراس شرح شرح عقائد نسفی کا سلیس ترجمہ بھی کیا جو طبع نہ ہو سکا۔

۲۴ ربیع الثانی ۱۳۹۲ھ / ۷ جون ۱۹۷۲ء کو اپنے وطن میں وفات پائی۔

ماخذ: تذکرہ علمائے اعظم گڑھ، ص ۹۶-۱۰۱

حضرت مولانا خورشید عالم دیوبندیؒ

دارالعلوم دیوبند کے استاذ حدیث، دارالعلوم وقف کے شیخ الحدیث اور صدر مفتی تھے۔

۱۳۵۳ھ / ۱۹۳۵ء میں دیوبند میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد دارالعلوم دیوبند میں درجہ علیا کے کامیاب مدرس تھے۔ پوری تعلیم دیوبند میں حاصل کی اور ۱۳۷۶ھ / ۱۹۵۶ء میں دارالعلوم دیوبند میں حضرت مدنی سے دورہ حدیث کی تکمیل کی۔

درس و تدریس کا آغاز دارالعلوم کراچی پاکستان سے کیا، وہاں تقریباً پانچ چھ سال قیام رہا، اس مدت میں اکثر فنون کی متوسطات تک کتابیں پڑھائیں، پھر پاکستان سے واپس وطن لوٹ آئے اور ۱۳۸۳ھ / ۱۹۶۴ء میں دارالعلوم میں مدرس مقرر ہوئے اور ترقی کرتے ہوئے درجہ علیا تک پہنچے۔ ۱۹۸۲ء میں دارالعلوم وقف سے وابستہ ہوئے اور تادم آخریں حدیث کی اعلیٰ کتابیں پڑھاتے رہے۔ دارالعلوم وقف میں صدر مفتی ہونے کے علاوہ آخر کے چند سال شیخ الحدیث بھی رہے۔

آپ پاک طینت، نیک طبیعت اور خاموش مزاج انسان تھے، شہرت طلبی اور نام و نمود سے گریزاں، یکسوئی کے ساتھ طلبہ علوم کی تعلیم و تربیت میں منہمک رہتے تھے۔ اپنی سلامتی طبع، حسن اخلاق، اور ممتاز علمی صلاحیت کی بنا پر جہاں رہے مقبول و نیک نام اور ہر دل عزیز رہے۔ تقریباً پچاس سالوں تک آپ نے علوم و معارف کی روشنی بکھیری۔ وہ ایک بلند پایہ معلم و مدرس تھے اور درس و تدریس ہی اُن کا ذوق و مزاج تھا۔ اس وقت برصغیر ہندو پاک میں ان کے ہزاروں تلامذہ پھیلے ہوئے ہیں۔

۱۴ ربیع الاول ۱۴۳۳ھ / ۷ فروری ۲۰۱۲ء یوم سہ شنبہ کو دیوبند میں انتقال ہوا۔

ماخذ: ماہنامہ دارالعلوم، اپریل ۲۰۱۲ء، ص ۱۰۶

حضرت سید محبوب رضویؒ

تاریخ دارالعلوم دیوبند کے مصنف اور مشہور صاحب قلم ہیں۔

سید محبوب رضوی صاحب، دیوبند کے خاندان سادات (رضویہ) سے تعلق رکھتے تھے اور آپ کے آباء واجداد دیوبند کے تاریخی محلہ سرانے پیرزادگان کے باشندے تھے۔ ۱۳۲۹ھ / ۱۹۱۱ء میں پیدا ہوئے۔ مدرسہ منبع

العلوم گلاؤٹھی اور دارالعلوم دیوبند میں متوسطات تک تعلیم حاصل کی، لیکن تکمیل نہ کر سکے۔
 ۱۹۳۳ء سے ہی دارالعلوم سے وابستہ ہو گئے۔ مختلف شعبوں سے تعلق رہا۔ اسی درمیان کتب خانہ دارالعلوم
 کی ترتیب اہم کارنامہ انجام دیا۔ ۱۳۶۶ھ/۱۹۴۷ء میں محافظ خانہ کے ناظم مقرر ہوئے اور اور تادم واپس اس عہدہ
 پر فائز رہے۔ علماء کی صحبت اور مطالعہ کی کثرت کی وجہ سے تحریر و تالیف کا بہترین ملکہ حاصل تھا اور آپ کے قلم پر
 دارالعلوم کے ارباب حل و عقد کو پورا اعتماد تھا۔ فن تاریخ و سیرت سے آپ کو گہری دل چسپی تھی۔
 دو ضخیم جلدوں میں 'تاریخ دارالعلوم دیوبند' کی تالیف آپ کا عظیم الشان علمی کارنامہ ہے۔ آپ کی دوسری اہم
 اور تحقیقی کتاب 'تاریخ دیوبند' ہے۔ اس کے علاوہ 'مکتوبات نبوی' اور 'تذکرہ سادات رضویہ' وغیرہ کتابیں بھی لکھیں۔
 آپ نے مختلف علمی و دینی مضامین بھی لکھے جو ماہنامہ دارالعلوم، ماہنامہ برہان، ماہنامہ معارف اعظم گڑھ، الجمعیت
 دہلی وغیرہ میں شائع ہوئے ہیں۔

۲۵ مارچ ۱۹۷۹ء/ ۲۵ ربیع الاول ۱۳۹۹ھ کو دیوبند میں انتقال ہوا۔

ماخذ: دارالعلوم اور دیوبند کی تاریخی شخصیات، ص ۱۲۶-۱۲۷

دارالعلوم دیوبند کا صحافتی منظر نامہ، نایاب حسن قاسمی، ص ۱۶۷-۱۷۰

موجودہ دور کے علماء و اکابر دارالعلوم

ابتدا: ۱۳۰۱ھ / ۱۹۸۱ء

موجودہ دور کے کلیدی عہدہ داران

شمار	اسمائے گرامی	عہدہ	کب سے کب تک	صفحہ
۱	حضرت مولانا مرغوب الرحمن بجنوریؒ	مہتمم دارالعلوم	۱۳۰۲-۱۳۳۲ھ	۵۴۲
۲	حضرت مولانا معراج الحق دیوبندیؒ	صدر المدرسین	۱۳۰۱-۱۳۱۲ھ	۶۴۷
۳	حضرت مولانا نصیر احمد خان بلند شہریؒ	شیخ الحدیث صدر المدرسین	۱۳۹۷-۱۳۲۹ھ ۱۳۱۲-۱۳۲۹ھ	۶۴۹
۴	حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہیؒ	مفتی	۱۳۸۵-۱۳۱۷ھ	۶۵۲
۵	حضرت مولانا مفتی نظام الدین اعظمیؒ	مفتی	۱۳۸۵-۱۳۲۰ھ	۶۵۵
۶	حضرت مولانا غلام رسول خاموش گجراتیؒ	کار گزار مہتمم	۱۳۲۲-۱۳۳۱ھ	۶۵۷
۷	حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالنپوریؒ	شیخ الحدیث و صدر المدرسین	۱۳۲۹ھ تا ۱۳۴۱ھ	۶۵۹
۸	حضرت مولانا غلام محمد وستانویؒ	مہتمم دارالعلوم	۱۳۳۲ھ	۶۶۱
۹	حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانیؒ	مہتمم دارالعلوم شیخ الحدیث	۱۳۳۲ھ تا حال از: ۱۳۳۲ھ	۶۶۲
۱۰	حضرت مولانا سید ارشد مدنیؒ	صدر المدرسین	از: ۱۳۳۲ھ	۶۶۴

مشاہیر و موجودہ اراکین مجلس شوری (تا ۱۳۴۰ھ)

شمار	اسمائے گرامی	کب سے کب تک	صفحہ
۱	حضرت مولانا محمد عثمان دیوبندیؒ نواسہ شیخ الہند	۱۳۰۱-۱۳۰۵ھ / ۱۹۸۱-۱۹۸۵ء	۶۶۵
۲	حضرت مولانا قاری صدیق احمد باندویؒ	۱۳۰۱-۱۳۰۵ھ / ۱۹۸۱-۱۹۸۵ء	۶۶۵
۳	حضرت مولانا سید محمد اسعد مدنیؒ	۱۳۰۵-۱۳۲۷ھ / ۱۹۸۵-۲۰۰۶ء	۶۶۶

۶۶۷	۱۴۰۵-۱۴۳۱ھ/۱۹۸۵-۲۰۱۹ء	حضرت مولانا مفتی منظور احمد مظاہریؒ	۴
۶۶۸	۱۴۰۶-۱۴۳۰ھ/۱۹۸۶-۲۰۱۹ء	حضرت مولانا محمد یعقوب مدرسیؒ	۵
۶۶۸	۱۴۱۳-۱۴۳۸ھ/۱۹۹۲-۲۰۱۷ء	حضرت مولانا نازہر نعمانی رانچویؒ	۶
۶۶۹	۱۴۱۳ھ/۱۹۹۲ء تا حال	حضرت مولانا بدرالدین اجمل قاسمیؒ	۷
۶۷۰	۱۴۱۹-۱۴۳۷ھ/۱۹۹۸-۲۰۱۵ء	حضرت مولانا نظام الدین صاحبؒ	۸
۶۷۰	۱۴۱۹ھ/۱۹۹۸ء تا حال	حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقیؒ	۹
۶۷۱	۱۴۲۸-۱۴۳۴ھ/۲۰۰۷-۲۰۱۳ء	حضرت مولانا سید خلیل حسین دیوبندیؒ	۱۰
۶۷۱	۱۴۲۸-۱۴۳۰ھ/۲۰۰۷-۲۰۱۹ء	حضرت مولانا محمد طلحہ کاندھلویؒ	۱۱
۶۷۲	۱۴۲۸ھ/۲۰۰۷ء تا حال	حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندویؒ	۱۲
۶۷۲	۱۴۲۸ھ/۲۰۰۷ء تا حال	حضرت مولانا محمد اسماعیل مالیکانویؒ	۱۳
۶۷۳	۱۴۲۸ھ/۲۰۰۷ء تا حال	حضرت مولانا محمد اشتیاق مظفر پوریؒ	۱۴
۶۷۳	۱۴۲۸ھ/۲۰۰۷ء تا حال	حضرت مولانا ملک محمد ابراہیم مدرسیؒ	۱۵
۶۷۴	۱۴۳۳ھ/۲۰۱۲ء تا حال	حضرت مولانا حکیم کلیم اللہ علی گڑھیؒ	۱۶
۶۷۴	۱۴۳۳ھ/۲۰۱۲ء تا حال	حضرت مولانا مفتی احمد خان پوریؒ	۱۷
۶۷۵	۱۴۳۳ھ/۲۰۱۲ء تا حال	حضرت مولانا محمد رحمت اللہ کشمیریؒ	۱۸
۶۷۵	۱۴۳۳ھ/۲۰۱۲ء تا حال	حضرت مولانا انوار الرحمن بجنوریؒ	۱۹
۶۷۶	۱۴۳۹-۱۴۴۰ھ/۲۰۱۷-۲۰۱۸ء	حضرت مولانا اسرار الحق قاسمیؒ	۲۰
۶۷۶	۱۴۳۹ھ/۲۰۱۷ء تا حال	حضرت مولانا محمود حسن راجستھانیؒ	۲۱
۶۷۷	۱۴۳۹ھ/۲۰۱۷ء تا حال	حضرت مولانا عبدالصمد کالیکا پوریؒ	۲۲
۶۷۷	۱۴۳۹ھ/۲۰۱۷ء تا حال	حضرت مولانا نظام الدین خاموشؒ	۲۳
۶۷۸	۱۴۳۹ھ/۲۰۱۷ء تا حال	حضرت مولانا سید انظر حسین دیوبندیؒ	۲۴

موجودہ دور کے مشاہیر اساتذہ و مشائخ

شمار	اسمائے گرامی	کب سے کب تک	صفحہ
۱	حضرت مولانا محمد حسین بہاریؒ	۱۳۶۷-۱۴۱۲ھ	۶۷۹

۶۷۹	۱۳۶۷-۱۴۲۹ھ	حضرت مولانا مفتی ظفر الدین مفتاحی	۲
۶۸۱	۱۳۸۳-۱۴۱۰ھ	حضرت مولانا وحید الزماں کیرانوی	۳
۶۸۲	۱۳۸۶ھ تا حال	حضرت مولانا قمر الدین گورکھپوری	۴
۶۸۲	۱۴۱۸-۱۳۸۹ھ	حضرت مولانا زبیر احمد دیوبندی	۵
۶۸۳	۱۳۹۱-۱۴۳۸ھ	حضرت مولانا ریاست علی بجنوری	۶
۶۸۴	۱۳۹۳ھ تا حال	حضرت مولانا عبدالحق مدرسی	۷
۶۸۴	۱۴۰۲-۱۴۳۸ھ	حضرت مولانا عبدالحق اعظمی	۸
۶۸۵	۱۴۰۲ھ تا حال	حضرت مولانا نعمت اللہ اعظمی	۹
۶۸۶	۱۴۰۲ھ تا حال	حضرت مولانا قاری محمد عثمان منصور پوری	۱۰
۶۸۶	۱۴۰۲ھ تا حال	حضرت مولانا حبیب الرحمن قاسمی اعظمی	۱۱
۶۸۷	۱۴۰۲ھ تا حال	حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی	۱۲
۶۸۷	۱۴۰۲ھ تا حال	حضرت مولانا مجیب اللہ گونڈوی	۱۳
۶۸۸	۱۴۰۲ھ تا حال	حضرت مولانا مفتی محمد امین پالن پوری	۱۴
۶۸۸	۱۴۰۲ھ تا حال	حضرت مفتی حبیب الرحمن خیر آبادی	۱۵
۶۸۹	۱۴۰۳ھ تا حال	حضرت مولانا عبدالحق سنہلی	۱۶
۶۸۹	۱۴۰۶ھ تا حال	حضرت مولانا مفتی محمد یوسف تادولوی	۱۷
۶۹۰	۱۴۱۱-۱۴۳۹ھ	حضرت مولانا محمد احمد فیض آبادی	۱۸
۶۹۰	۱۴۱۳-۱۴۱۷ھ	حضرت مولانا قاضی اطہر مبارکپوری (اعزازی ڈائریکٹر شیخ الہند اکیڈمی)	۱۹
۶۹۱	۱۴۲۰-۱۴۴۰ھ ۱۳۹۹-۱۴۰۲ھ	حضرت مولانا جمیل احمد سکروڈوی پہلی بار	۲۰

موجودہ دور کے کلیدی عہدہ داران

حضرت مولانا مرغوب الرحمن بجنوریؒ

۱۳۳۳-۱۴۳۲ھ/۱۹۱۴-۲۰۱۰ء

حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمیؒ کے بعد دارالعلوم کی زمامِ اہتمام حضرت مولانا مرغوب الرحمن بجنوریؒ کے سپرد ہوئی۔ آپ دارالعلوم دیوبند کے آٹھویں مہتمم تھے۔ آپ نے تقریباً نصف صدی تک دارالعلوم کی خدمت کی؛ جس میں ابتدائی بیس سال مجلس شوری کے موقر اور متحرک رکن کی حیثیت سے دارالعلوم کی آبیاری میں وافر حصہ لیا اور پھر دارالعلوم کے مسندِ اہتمام سے تقریباً تیس سال دارالعلوم کی بے بہا خدمات انجام دیں۔ آپ نے بڑے حوصلہ شکن، صبر آزما اور اضطراب انگیز حالات میں دارالعلوم کا انتظام و انصرام سنبھالا، مگر نہ صرف دارالعلوم کے سفینہ کو موجِ بلاخیز سے نکال کر بحفاظت تمام ساحل پر لگا دیا بلکہ بتوفیقِ ایزدی اپنی دل سوزی، اولوالعزمی، حکمت و تدبیر اور شبانہ روز کی انتھک اور بے لوث جدوجہد کی وجہ سے اسے حیات تازہ بخش کرنی جو لانیوں سے ہم کنار کیا۔

ابتدائی حالات

آپ شہر بجنور کے محلہ قاضی پاڑہ کے ایک دینی و علمی، ذی وجاہت زمیندار گھرانے کے چشم و چراغ تھے اور بڑی فارغ البالی بلکہ تعتم اور امارت و ریاست کے ماحول میں آنکھیں کھولی تھیں اور زندگی کا بیشتر حصہ اسی حال میں گزرا تھا۔ آپ کے رشتہ کے نانا حضرت مولانا حکیم رحیم اللہ بجنوریؒ (وفات ۱۳۴۷ھ/۱۹۲۹ء) دارالعلوم کے عہد آغاز کے فارغین اور حضرت حجۃ الاسلام مولانا نانوتویؒ کے آخری دور کے ارشد تلامذہ میں سے تھے جنہوں نے بموقع حج بیت اللہ، سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکیؒ سے بیعت کا شرف بھی حاصل کیا تھا، فن طبابت کے ساتھ علم کلام اور مناظرہ میں کامل دستگاہ رکھتے تھے اور بہت سی کتابوں کے مصنف تھے، بڑے باضع اور اوراد و وظائف کے نہایت پابند تھے۔

آپ کے والد ماجد حضرت مولانا حکیم مشیت اللہ بجنوریؒ (وفات ۱۳۷۲ھ/۱۹۵۲ء) فاضل دارالعلوم دیوبند، حضرت شیخ الہند کے تلمیذ رشید اور حضرت محدث عصر علامہ انور شاہ کشمیریؒ کے رفیق درس اور یارِ غار تھے۔ اسی تعلق

سے حضرت شاہ صاحب سال میں ایک دو بار حضرت حکیم صاحب کے یہاں ضرور تشریف لے جاتے تھے۔ حکیم صاحب مرحوم ۱۳۴۲ھ میں دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے رکن منتخب ہوئے اور تاحیات اس اعزاز سے متصف رہے۔ نیز حضرت مولانا مرغوب الرحمنؒ کے بڑے بھائی مولانا حکیم مطلوب الرحمنؒ بجنوری (وفات ۱۴۰۸ھ/۱۹۸۸ء) بھی دارالعلوم دیوبند سے فارغ التحصیل تھے، یہ حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنیؒ کے ابتدائی زمانہ صدارت کے تلامذہ میں تھے اور حضرت مدنی سے والہانہ تعلق رکھتے تھے۔

دارالعلوم دیوبند کے عہد آغاز ہی سے دارالعلوم اور اس کے اکابر سے وابستہ اس خاندان میں ۱۳۳۳ھ/۱۹۱۴ء میں آپ کی ولادت ہوئی۔ سن شعور کو پہنچنے تو مدرسہ رحیمیہ مدینۃ العلوم جامع مسجد بجنور میں داخل کر دیئے گئے یہ مدرسہ حضرت مولانا حکیم رحیم اللہ صاحب کی وصیت کے مطابق انہی کے پس ماندہ سرمایہ سے جاری کیا گیا تھا اور آپ کے والد مولانا مشیت اللہ کی زیر سرپرستی چل رہا تھا۔ ۱۳۴۸ھ/۱۹۳۰ء میں دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے اور تین سال میں نصاب کی تکمیل کر کے ۱۳۵۲ھ/۱۹۳۳ء میں حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنیؒ سے صحیح بخاری، اور جامع ترمذی اور دیگر اساتذہ سے بقیہ کتب حدیث پڑھ کر فارغ التحصیل ہو گئے۔ ۱۳۵۳ھ میں شعبہ افتاء میں داخل ہو کر صدر شعبہ حضرت مولانا محمد سہول بھاگلپوری اور مفتی محمد شفیع دیوبندیؒ وغیرہ سے فتویٰ نویسی کی مشق کی اور متعلقہ کتابیں پڑھیں اور فتویٰ نویسی کے ایک سالہ نصاب کی تکمیل کر کے گھر چلے گئے۔ دارالعلوم میں حضرت مدنیؒ کے علاوہ آپ نے حضرت شیخ الادب مولانا اعزاز علی امرہوی، حضرت مولانا عبدالسمیع دیوبندیؒ، حضرت علامہ محمد ابراہیم بلیاویؒ، حضرت مولانا اصغر حسین دیوبندیؒ، حضرت مولانا نبیہ حسن دیوبندیؒ، مولانا رسول خاں ہزارویؒ، حضرت مولانا مفتی محمد سہول بھاگلپوریؒ، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندیؒ وغیرہ سے استفادہ کیا۔

تعلیم سے فراغت کے بعد والد محترم کے ایما پر اپنی ابتدائی تعلیم گاہ مدرسہ رحیمیہ مدینۃ العلوم میں تدریسی سلسلہ شروع کر دیا، لیکن یہ سلسلہ تادیر قائم نہ رہ سکا، جائیداد کے انتظام و انصرام، اور قومی و ملی خدمات نے آپ کو اس قدر مصروف و مشغول بنا دیا کہ تدریس کے لئے وقت نہ نکال سکے؛ اس لئے درس و افادہ کے مشغلہ کو مجبوراً ترک کرنا پڑا۔

دارالعلوم دیوبند سے وابستگی

۱۳۸۲ھ/۱۹۶۲ء میں مجلس شوریٰ دارالعلوم دیوبند کے رکن منتخب ہوئے، اسی سال مفکر اسلام مولانا ابوالحسن علی ندوی، مولانا قاضی زین العابدین سجاد میرٹھی، مولانا سعید احمد اکبر آبادی، مولانا حامد الانصاری غازی اور مولانا سید حمید الدین فیض آبادی شیخ الحدیث مدرسہ عالیہ کلکتہ رحمہم اللہ تعالیٰ جیسے مشاہیر علماء بھی مجلس شوریٰ کے رکن منتخب ہوئے۔ آپ مجلس شوریٰ کے مقرر رکن تھے۔ مجلس شوریٰ میں آپ کی رائے اور مشورے اہمیت کی نظر سے دیکھے

جاتے تھے، مجلس شوریٰ جب بوقت ضرورت دارالعلوم کے کسی معاملہ میں تحقیق و تفتیش کی غرض سے ذیلی مجلس تشکیل کرتی تو اس میں بطور خاص آپ کو شامل کرتی تھی جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے فکر و عمل کے اعتدال اور اصابت رائے پر مجلس کو پورا اعتماد تھا۔

دارالعلوم کے سابق مہتمم حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نے مجلس شوریٰ منعقدہ ۲۵ رجب ۱۴۰۱ھ میں ایک تحریر پیش کی جس میں انہوں نے پیرانہ سالی اور امراض کے باعث جو اب وہی کے بار کو ہلکا کرنے کی درخواست کی۔ آپ کی اس تحریر کے پیش نظر مجلس شوریٰ نے حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب کو مددگار مہتمم بنا دیا حالانکہ اس وقت کی مجلس شوریٰ میں بھی اہل علم و کمال کی کوئی کمی نہ تھی۔ بعد میں جب دارالعلوم کے حالات خراب ہوئے اور حضرت حکیم الاسلام نے کاراہتمام سے استعفاء پیش کر دیا تو مجلس شوریٰ منعقدہ ۲۴ شوال ۱۴۰۲ھ مطابق ۱۵ اگست ۱۹۸۲ء نے آپ کو مستقل مہتمم مقرر کر دیا۔ اس انتخاب پر اگرچہ بعض حلقوں میں حیرت و استعجاب کا اظہار کیا گیا لیکن جنہیں دارالعلوم سے ان کے پشتینی رشتہ اور تعلق کے پس منظر سے واقفیت تھی، انہوں نے مجلس شوریٰ کے اس فیصلہ کو بخیر استحسان دیکھا اور بعد کے حالات و واقعات نے بھی دنیا پر آشکارا کر دیا کہ یہ فیصلہ بالکل بر محل اور زباں زد مقولہ "حق بحق دار رسید" کی سچی تعبیر تھا۔

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب نے دارالعلوم کی زمام اہتمام ایسے وقت میں سنبھالی جب وہ شدید خلفشار کے طویل دور سے پوری طرح نکل نہیں سکا تھا؛ کیوں کہ اس کے منفی اثرات کا تسلسل ہنوز باقی تھا۔ ایسے حالات میں سارے انتظامی شعبوں کو از سر نو استوار کر کے انھیں سرگرم سفر کرنا، ملازمین و مدرسین کا اعتماد بحال کرنا اور طلبہ کو اپنے مقصد کی راہ پر سرگرم عمل ہونے کے لیے قدرتی فضا بنانا جوئے شیر لانے سے کم نہیں تھا۔ آپ نے اپنی خدا ترسی و شب بیداری، دل سوزی و عالی حوصلگی، غیر معمولی تدبیر و فکر مندی کی وجہ سے نہ صرف حالات کی نزاکتوں پر قابو پالیا بلکہ سکون و اطمینان کی ایسی فضا بنانے میں کامیاب رہے کہ آپ کے تیس سالہ دور اہتمام میں کبھی کوئی بڑا انتشار رونما نہ ہوا، جس کی وجہ سے دارالعلوم نے تعلیمی و تعمیراتی سطحوں پر لائق ذکر ترقی کی۔

دور اہتمام کے اہم کارنامے

آپ کے دور اہتمام میں تعلیمی معیار کی بلندی اور بہتری پر خصوصی توجہ دی گئی۔ اسی پس منظر میں عربی چہارم تک تعلیم کے لیے مدرسہ ثانویہ کا مضبوط نظم قائم کیا گیا اور ٹھوس بنیادی تعلیم کی طرف توجہ دی گئی جس کا ثمرہ ہے کہ دارالعلوم کے عربی اول سے عربی چہارم تک کا نظام بھی مثالی بن گیا۔ اسی طرح حفظ و ناظرہ اور درجات پر انگریزی کی تعلیم پر بھی خصوصی توجہ مرکوز کی گئی۔ دارالقرآن کے نام سے علیحدہ تعلیم گاہ کی تعمیر ہوئی اور اساتذہ کی تعداد میں اضافہ کیے گئے۔ اسی دور میں دارالعلوم میں احادیث مبارکہ پر ریسرچ و تحقیق اور اعلیٰ ٹریننگ کے لیے شعبہ

تخصّص فی الحدیث کا شعبہ بھی قائم ہوا۔ آپ کے تیس سالہ دورِ اہتمام میں بیس ہزار سے زائد فضلاء تیار ہوئے۔ طلبہ کی تعداد دو ہزار سے بڑھ کر تقریباً چار ہزار تک پہنچ گئی اور دارالعلوم کا بجٹ تینتیس لاکھ سے سترہ کروڑ تک پہنچ گیا۔

اس عرصہ میں کئی اہم شعبہ جات بھی وجود میں آئے خصوصاً فکرِ اسلامی کے تحفظ و اشاعت پر خاص توجہ کی گئی۔ اسی پس منظر میں کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت، شعبہ مطالعہ عیسائیت اور شعبہ تحفظ سنت اور شعبہ محاضرات علمیہ کا سلسلہ شروع ہوا۔ ان شعبہ جات کے ذریعہ طلبہ کو متعلقہ موضوع پر تیاری و تربیت کے علاوہ پورے ملک میں دینی و دعوتی اور دفاعِ اسلام کی اہم سرگرمیاں انجام دی گئیں۔ اسی طرح دارالعلوم کی دینی و دعوتی خدمات کو عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے شیخ الہند اکیڈمی، شعبہ کمپیوٹر، شعبہ کمپیوٹر برائے کتابت، شعبہ انگریزی زبان و ادب اور شعبہ انٹرنیٹ و آن لائن فتویٰ کا قیام عمل میں آیا۔ چنانچہ صحافت، کمپیوٹر اور انگریزی میں ڈپلومہ کورس شروع کیے گئے اور طلبہ کو عصر حاضر کے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے بھرپور اقدامات کیے گئے۔

پورے ہندوستان کے مدارس اسلامیہ عربیہ کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے کل ہند رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ کا قیام اسی زمانہ میں ہوا۔ آپ اس رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ کے تاحیات صدر رہے۔ حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب کے دورِ اہتمام کا ایک اہم کام شعبہ تنظیم و ترقی کا استحکام اور فعالیت ہے۔ آپ نے اس شعبہ میں کارکنان کے اضافہ کے ساتھ طریقہ کار میں تبدیلی پیدا کی اور اس کی وجہ سے یہ شعبہ بہت فعال ہو گیا۔ اندرونی آمد و صرف کے نظام کے درستی کے سلسلہ میں آپ ہی کے دور میں شعبہ خریداری اور اسٹاک روم بھی قائم ہوا۔

آپ کے دورِ اہتمام میں کئی اہم اور شاندار عمارتیں بھی تعمیر ہوئیں اور دارالعلوم کا زمینی رقبہ دو گنے سے زیادہ ہو گیا۔ مسجد رشید، دارالترتیب، مدرسہ ثانویہ، دارالمدرّسین، رواق خالد، شیخ الہند منزل (اعظمی منزل) شیخ الاسلام منزل (آسامی منزل)، حکیم الامت منزل (تحفیظ القرآن منزل) وغیرہ عمارتیں اسی دور میں تعمیر ہوئیں۔ سنگ مرمر کی عظیم الشان پرشکوہ مسجد رشید اسی دور میں تعمیر ہوئی۔ دارالاقامہ دار جدید کے از سر نو انہدام کے بعد اس کی سہ منزلہ دوبارہ تعمیر شروع کی گئی۔

اس دور میں دارالعلوم کو بین الاقوامی شہرت و مقبولیت ملی اور الحمد للہ دارالعلوم اپنے شاندار ماضی کی تابندہ روایات کے ساتھ پوری دنیا میں مسلکِ حقہ کی بھرپور نمائندگی کی۔ اس عرصہ میں پوری دنیا سے بڑے بڑے وفود اور غیر ملکی مہمان، حکومتوں کے سفراء و ذمہ داران، غیر ملکی صحافی بکثرت ہندوستان آئے اور دارالعلوم کے سلسلہ میں اچھے تاثرات کا اظہار کیا۔ آپ نے دارالعلوم و جمعیتہ علمائے ہند کی متعدد اہم کانفرنسوں اور سیمیناروں کی صدارت و قیادت بھی فرمائی۔ امیر الہند حضرت مولانا سید اسعد مدنی صدر جمعیتہ علمائے ہند کے بعد آپ متفقہ طور پر امیر الہند ثالث منتخب ہوئے اور ہندوستان کی ملت اسلامیہ کی قیادت و امارت کا فریضہ انجام دیا۔ مختلف کانفرنسوں اور اجلاسات میں آپ کے پیش کردہ خطبات صدارت کا مجموعہ طبع ہو چکا ہے جو ہندوستانی مسلمانوں کی ملی، تعلیمی اور

سیاسی مسائل میں آپ کی اعلیٰ بصیرت اور بلند نگاہی کا آئینہ دار ہے۔ آپ فہم و فراست، حکمت و دانائی، مکارم اخلاق اور انسانی شرافت کے نمونہ تھے۔ ان کی بے نفسی، صلہ رحمی، ایثار اور توازن و اعتدال نے انھیں ہر دلعزیز بنا دیا تھا اور ہر شخص انھیں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ مہمان نوازی اور وار دین و صادرین کی خاطر و مدارات ایسی کرتے تھے کہ جس کی مثال مشکل سے ملے گی۔ اپنے خوردوں سے نہایت شفقت اور نوازش کا معاملہ فرماتے تھے۔

وفات

سن ہجری کے اعتبار سے آپ نے تقریباً سو سال کی عمر پائی۔ یکم محرم الحرام ۱۴۳۲ھ مطابق ۸ دسمبر ۲۰۱۰ء کو بجنور میں آپ کا انتقال ہوا۔ مزار قاسمی دیوبند میں آپ کی تدفین عمل میں آئی۔

تفصیل کے لیے دیکھیں:

- ماہنامہ دارالعلوم، جنوری و فروری ۲۰۱۱ء
- امیر الہند نمبر، ہفت روزہ الجمعیت، مارچ ۲۰۱۱ء

حضرت مولانا معراج الحق دیوبندیؒ

۱۳۲۸-۱۳۱۲ھ / ۱۹۱۰-۱۹۹۱ء

حضرت مولانا معراج الحق دیوبندیؒ، دارالعلوم کے نائب مہتمم، صدر المدرسین اور مقبول ترین استاذ تھے۔ علمی و انتظامی صلاحیتوں میں بہت ممتاز تھے۔ آپ نے تقریباً چالیس سال تک دارالعلوم میں تدریسی و انتظامی خدمات انجام دیں۔

ابتدائی حالات

مولانا معراج الحق صاحب ۱۳۲۸ھ / ۱۹۱۰ء میں مرکز علم فن دیوبند میں پیدا ہوئے اور یہاں کی علمی و روحانی فضا میں پرورش و پرداخت ہوئی۔ آپ کے والد منشی نور الحق صاحب نہایت دیندار اور خدا ترس انسان تھے، انہوں نے ابتدا ہی سے آپ کی اچھی تربیت کی طرف مکمل توجہ دی، جس کے نتیجے میں آپ نے ایک ممتاز طالب علم کی حیثیت سے دارالعلوم دیوبند میں رہ کر علوم و معارف کے سمندر میں خوب غواصی کی اور اپنی علمی تشنگی بجھائی۔ ۱۳۵۱ھ میں دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے اور اساتذہ کرام کے مشورہ سے ریاست حیدرآباد دکن کے گلبرگہ شہر میں واقع ایک مدرسہ میں تدریسی خدمت انجام دینا شروع کیا۔ آپ نے وہاں اپنی فطری ذہانت کو بروئے کار لاتے ہوئے درس و تدریس میں خوب کمال حاصل کیا اور ایک کامیاب مدرس کی شکل میں ابھر کر سامنے آئے۔

دارالعلوم دیوبند میں

دارالعلوم کے ارباب حل و عقد نے آپ کے اندر چھپے گوہر کو پہچان کر تدریسی خدمات کے لیے آپ کو دارالعلوم بلا لیا۔ یکم محرم ۱۳۶۳ھ سے آپ نے دارالعلوم دیوبند کو علم فن کی جولان گاہ بنایا اور بہت ہی کم عرصہ میں اپنی بے پناہ صلاحیتوں کی بنیاد پر طلبہ اور اساتذہ میں مقبولیت حاصل کر لی۔ فقہ میں خاص طور سے آپ کو مکمل درک حاصل تھا۔ ہدایہ آخرین کا سبق آپ کا بے حد مقبول ہوا کرتا تھا۔ زندگی کے آخری لمحات تک ہدایہ آپ سے متعلق رہی، پیچیدہ اور مشکل مسائل کو آسان طریقہ سے حل کر کے طلبہ کو مطمئن کر دینا آپ کے درس کا خصوصی امتیاز ہوا کرتا تھا۔ تفسیر بیضاوی جیسی مشکل ترین کتاب کو بھی بہت آسان طریقہ سے حل کر کے طلبہ کے سامنے پیش فرمادیتے تھے۔

آپ کے اندر انتظامی صلاحیت بھی بدرجہ اتم موجود تھی۔ ایک طویل عرصہ تک آپ ناظم دارالاقامہ رہے اور طلبہ کے ضروری مسائل کا حل بحسن و خوبی نکالتے رہے، گرچہ آپ کے چہرہ پر ہمہ وقت بشاشت و رعنائی رہا کرتی تھی لیکن پھر بھی طلبہ پر رعب و اثر اس قدر تھا کہ آپ کی آواز سننے ہی طلبہ پر سناٹا چھا جاتا تھا۔ علمی و فنی صلاحیتوں کی بنیاد پر طلبہ و اساتذہ میں یکساں طور پر آپ کے تئیں جذبہ احترام پایا جاتا تھا۔

آپ کی ہمہ جہت صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے دارالعلوم کی مجلس شوری نے ۱۱ شوال ۱۳۸۶ھ کو حضرت مولانا بشیر احمد صاحبؒ کے انتقال کے بعد نیابت اہتمام کے باوقار عہدہ پر آپ کو مقرر کیا۔ آپ نے حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحبؒ کی نیابت کا بھرپور حق ادا کیا اور ہر موڑ پر حضرت قاری صاحبؒ کے بہترین معاون ثابت ہوئے۔ آپ کی حسن کارکردگی سے دارالعلوم کے ارباب شوری بہت متاثر ہوئے اور ۱۴۰۱ھ میں (حضرت مولانا فخر الحسن مراد آبادیؒ کے انتقال کے بعد) باضابطہ طور پر آپ کو صدر مدرس کے عہدہ پر فائز کر دیا۔ آپ زندگی کے آخری لمحہ تک اس موقر عہدہ پر برقرار رہے اور اپنے فرائض انجام دیتے رہے۔

یہ آپ کے خلوص و للہیت کی علامت تھی کہ آپ دارالعلوم میں درس و تدریس کے ساتھ مفوضہ انتظامی امور بھی ہمیشہ انجام دیتے رہے اور کبھی کسی عنوان سے آپ کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ آئے دن طلبہ، اساتذہ اور منتظمین میں آپ کی قدر و منزلت بڑھتی ہی گئی۔ آپ ہمیشہ دوسروں کے کام آتے، خاص طور سے طلبہ کے مسائل کو حل کرنے میں آپ کو خاص دلچسپی تھی۔

وفات

زندگی کی ۸۳ بہاریں دیکھنے کے بعد یہ آفتاب علم و فن ۷ صفر ۱۴۱۲ھ / ۱۸ اگست ۱۹۹۱ء کو ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ قبرستان قاسمی دیوبند میں تدفین عمل میں آئی۔

حضرت مولانا نصیر احمد خاں بلند شہریؒ

۱۳۳۷-۱۳۳۱ھ / ۱۹۱۹-۲۰۱۰ء

حضرت مولانا نصیر احمد خاں صاحب بلند شہریؒ، دارالعلوم کے شیخ الحدیث اور صدر المدرسین تھے۔ آپ نے دارالعلوم میں چھ دہائیوں سے زائد مدت تک تدریسی خدمات انجام دیں اور تقریباً ۳۲ سال تک بخاری شریف کا درس دیا۔ اس دوران صرف دورہ حدیث کے تقریباً بیس ہزار طلبہ آپ سے بخاری شریف کا درس لے کر فارغ التحصیل ہوئے۔ آپ کا درس حدیث کافی مقبول تھا۔ آپ کی درسی تقریریں عام فہم، مربوط اور مدلل ہوتی تھیں۔ فن ہیئت میں آپ کو بڑا درک حاصل تھا۔ طبیعت میں سادگی، تواضع و انکساری اور ظاہر و باطن میں یکسانیت پائی جاتی تھی۔ خوش مزاج اور خوش خلق تھے۔

ابتدائی حالات

۲۱ ربیع الاول ۱۳۳۷ھ / ۲۲ جنوری ۱۹۱۹ء کو ضلع بلند شہر کے موضع بسئی میں پیدا ہوئے۔ حفظ قرآن مجید کے بعد فارسی اور عربی کی جملہ درسیات شروع سے آخر تک مدرسہ منبع العلوم گلاؤنھی ضلع بلند شہر میں پڑھیں۔ دارالعلوم دیوبند میں ۱۳۶۱ھ / ۱۹۴۲ء میں دورہ حدیث میں داخل ہوئے اور ۱۳۶۲ھ میں فراغت حاصل کی۔ آپ کی تعلیم و تربیت میں آپ کے برادر اکبر حضرت مولانا بشیر احمد خاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زیادہ حصہ ہے جو اولاً مدرسہ منبع العلوم گلاؤنھی میں اور پھر دارالعلوم دیوبند میں استاذ ہوئے۔ ان دنوں جنگ آزادی کی جدوجہد میں مصروف ہونے کی پاداش میں شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنیؒ نینی جیل میں قید تھے، اس لئے مولانا نصیر احمد خاں صاحب نے اس سال بخاری شریف اور ترمذی شریف شیخ الادب حضرت مولانا اعزاز علی صاحبؒ سے پڑھی تھی، مگر حضرت مدنی سے استفادہ کی لگن اور خواہش برقرار تھی، اس لئے اگلے سال ۱۳۶۳ھ میں حضرت مدنی سے بخاری، ترمذی شریف کی سماعت کی۔ نیز، اپنے علم و فن میں مزید جلا پیدا کرنے کی خاطر کچھ دیگر فنون کی کتابیں بھی پڑھیں۔ اس کے بعد مزید دو سال علوم میں پختگی پیدا کرنے کی غرض سے مختلف کتابیں پڑھتے رہے۔ اسی دوران تجوید میں حفص اور سبہ و عشرہ کی تکمیل بھی کی۔

دارالعلوم دیوبند میں آپ کے اساتذہ میں خاص طور پر شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنیؒ، شیخ الادب حضرت مولانا اعزاز علی صاحبؒ، حضرت مولانا بشیر احمد خاں صاحب بلند شہریؒ، حضرت مولانا عبدالحق صاحب

ملتان، حضرت مولانا عبدالحق صاحب اکوڑہ خٹک، حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب گجرانوالا، حضرت مولانا قاری حفظ الرحمن صاحب پرتا پگڑھی صدر شعبہ قرأت دارالعلوم دیوبند، حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند قابل ذکر ہیں۔ حضرت مولانا حکیم محمد عمر صاحب سے آپ نے طب کی کتابیں پڑھی تھیں۔ حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب امرہ ہوئی سے آپ کو اجازت حدیث حاصل تھی اور ان کی سند عالی تھی۔

دارالعلوم میں مسند تدریس پر

ذی الحجہ ۱۳۶۵ھ / نومبر ۱۹۴۶ء میں اعزازی ابتدائی مدرس کی حیثیت سے آپ کا تقرر ہوا۔ آپ نے تدریس کا آغاز بالکل ابتدائی کتابوں سے کیا اور میزان سے لے کر آخر تک کی درس نظامی کی تقریباً تمام کتب آپ سے متعلق رہیں۔ آپ نہایت محنت اور دلچسپی سے پڑھاتے اور آپ کے بعض کتابوں کے درس کو کافی مقبولیت ملی۔ مقامات حریری، میبذی، مسامرہ، شرح جامی، جلالین شریف، الفوز الکبیر، اور مشکوٰۃ شریف وغیرہ مختلف کتابوں کا درس تو آپ سے کافی طویل عرصہ تک متعلق رہا۔ مختلف فنون کے ساتھ علم ہیئت کا درس بھی آپ سے متعلق رہتا، اس فن کی اہم کتاب التصریح ہمیشہ آپ کے زیر درس رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اس فن میں آپ کو مخصوص ملکہ اور مہارت عطا فرمائی تھی۔ ہیئت کے رسالہ فحیہ پر حاشیہ بھی لکھا تھا۔

نہایت محنت اور پابندی کی وجہ سے آپ ابتدائی درجہ سے ترقی کرتے ہوئے درجہ علیا تک پہنچ گئے اور ۱۳۹۱ھ میں دورہ حدیث شریف کی کتابوں کی تدریس بھی آپ سے متعلق ہو گئی۔ ۱۳۹۱ھ سے ۱۳۹۷ھ تک آپ طحاوی شریف، مسلم شریف، جلد ثانی، موطا امام مالک کا درس دیتے رہے، اور طالبان علوم نبوت کو فیضیاب کرتے رہے۔ ۱۳۹۷ھ میں جب دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا شریف الحسن صاحب دیوبندی وفات پا گئے تو بخاری شریف کا درس آپ سے متعلق ہو گیا۔ اس کے بعد سے آپ مسلسل بخاری شریف کا درس دینے لگے۔ ایک سال مکمل بخاری شریف کا درس آپ سے متعلق رہا، اس کے بعد ہمیشہ آپ جلد اول پڑھاتے رہے۔ آپ بڑی شان و شوکت سے بخاری شریف کا درس دیتے تھے۔ اخیر عمر تک اسی فریضہ کو انجام دیتے رہے اور ہزاروں طالبان علوم نبوت کو سیراب کرتے رہے۔ ۱۳۲۹ھ / ۲۰۰۸ء میں مختلف عوارض کی وجہ سے درس اور مدرسہ کی حاضری سے معذوری ظاہر فرمادی۔ اس طرح ۱۳۹۱ھ سے ۱۳۲۹ھ تک تقریباً ۴۰ سال تک آپ مسند حدیث پر رونق افروز ہو کر تشنگان علوم کو سیراب کرتے رہے، اس دوران آپ سے ہزاروں طلبہ نے شرف تلمذ حاصل کیا۔ آپ کی شخصیت میں علمی اور انتظامی دونوں صلاحیتوں کا امتزاج پایا جاتا تھا۔ درس و تدریس کے ساتھ ساتھ انتظامی ذمہ داریاں بھی آپ نے بحسن و خوبی انجام دیں۔ ایک طویل عرصہ تک آپ ناظم دارالاقامہ رہے۔ ۶ صفر ۱۳۹۱ھ کو مجلس شوریٰ نے آپ کو دارالعلوم دیوبند کا نائب مہتمم تجویز فرمایا اور ایک عرصہ تک آپ اس منصب پر کام کرتے رہے۔ حضرت مولانا معراج الحق صاحب دیوبندی صدر مدرس دارالعلوم دیوبند کی وفات کے بعد

۱۳۱۲ھ میں آپ کو باتفاق اراکین شوری صدر المدرسین منتخب کر لیا گیا۔ ایک طویل عرصہ تک آپ نے اس منصب کو بھی زینت بخشی اور اخیر عمر میں تدریس سے معذرت کیساتھ اس منصب جلیل سے بھی سبک دوش ہو گئے۔

اوصاف حمیدہ

حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب فطرتاً انتہائی نیک و صالح انسان تھے، بزرگوں کے علم و اخلاق کا نمونہ اور ان کی علمی یادگار تھے۔ آپ بہترین مدرس اور بے مثال عالم تھے۔ آپ کے اوصاف میں ایک خصوصی وصف یہ تھا کہ آپ انتہائی متواضع اور منکسر المزاج تھے۔ شفقت و رحم دلی، خیر خواہی اور محبت و اخلاص جیسے جذبات کوٹ کوٹ کر اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات میں بھر دیئے تھے۔ آپ کے یہاں کوئی چھوٹا بھی چھوٹا نہیں تھا، سب کا احترام بڑوں کی طرح فرماتے تھے، آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی تھی۔ نماز باجماعت کے انتہائی پابند تھے۔ جمعہ کو کافی پہلے مسجد پہنچنے اور صلوٰۃ التسبیح وغیرہ کا معمول تھا۔ نماز اس طرح خشوع خضوع اور رکوع اور سجود کامل طمانینت کے ساتھ پڑھتے کہ دیکھنے والا یہ سمجھتا کہ اس سے بہتر کوئی نماز نہیں ہو سکتی۔ باطنی کمالات کے ساتھ وجاہت ظاہری اور حسن صوت سے بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی فیاضی کے ساتھ نوازا تھا۔ آپ کی آواز بلند مگر انتہائی دل کش تھی، گفتگو کا لب و لہجہ نہایت عمدہ تھا۔ وقار و سنجیدگی اور متانت آپ کے درس کا خصوصی امتیاز تھا۔

حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی سے آپ کو الہامانہ تعلق تھا۔ احسان و سلوک میں حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے اور خلافت بھی حاصل تھی۔

وفات

آپ نے ۹۶ برس کی طویل عمر پائی اور تقریباً پینسٹھ سال دارالعلوم دیوبند میں تدریسی و انتظامی خدمات انجام دیں۔ ۱۳۲۹ھ میں مختلف عوارض و امراض کی وجہ سے درس اور مدرسہ کی حاضری سے معذوری ظاہر فرمادی۔ ۱۹ صفر ۱۳۳۱ھ مطابق ۲۴ فروری ۲۰۱۰ء جمعرات کی شب میں آپ کا انتقال ہوا۔ اگلے دن آپ کو قبرستان قاسمی دیوبند میں سپرد خاک کر دیا گیا۔

تفصیل کے لیے دیکھیں:

- ماہنامہ دارالعلوم، مارچ و اپریل ۲۰۱۰ء
- نقوش حیات: سوانح حضرت مولانا نصیر احمد خان، خلیل الرحمن برنی قاسمی

حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہیؒ

۱۳۲۵-۱۳۱۷ھ / ۱۹۰۷-۱۹۹۶ء

فقیر الامت حضرت مفتی محمود حسن گنگوہیؒ ایک عظیم صاحب نسبت بزرگ، عالم ربانی، مفتی بے مثل اور جامع علمی شخصیت کے مالک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سے کمالات و خصوصیات سے نوازا تھا۔ آپ دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی رہے اور مظاہر علوم سہارن پور میں بھی افتاء کے فرائض انجام دیے۔ مسند افتاء پر فائز ہونے کے علاوہ، دارالعلوم میں صحیح بخاری، سنن نسائی و دیگر کتب حدیث و فقہ کی تدریس بھی آپ سے متعلق رہی۔

ابتدائی حالات

۸-۹ جمادی الثانی ۱۳۲۵ھ / ۱۹ جولائی ۱۹۰۷ء کو شب جمعہ میں گنگوہ میں پیدا ہوئے۔ والد محترم مولانا حامد حسن حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے۔ مفتی صاحب نے ابتدائی تعلیم گنگوہ میں حاصل کی۔ ۱۳۴۱ھ / ۱۹۲۳ء میں مظاہر علوم سہارن پور تشریف لے گئے۔ پھر ۱۳۴۸ھ / ۱۹۲۹ء میں دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے اور ۱۳۵۰ھ مطابق ۱۹۳۲ء میں دارالعلوم میں حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی و دیگر اساتذہ سے تکمیل حدیث کی۔ پھر ۱۳۵۱ھ / ۱۹۳۳ء میں مظاہر علوم سہارن پور جا کر شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا کاندھلویؒ اور حضرت مولانا عبد الرحمن کامل پوریؒ اور حضرت مولانا منظور احمد خانؒ سے استفادہ کیا۔ آپ نے دارالعلوم دیوبند اور مظاہر علوم سہارن پور کے ماہر فن اساتذہ و مشائخ سے علمی و روحانی فیض حاصل کیا۔

۱۳۵۱ھ / ۱۹۳۳ء ہی سے مظاہر علوم ہی میں تقرر ہو گیا جہاں آپ تقریباً ۲۰ سال تک افتاء اور درس و تدریس کی خدمات انجام دیتے رہے۔ پھر مدرسہ جامع العلوم کانپور میں ۱۳۷۱ھ / ۱۹۵۲ء سے ۱۳۸۴ھ / ۱۳۶۴ھ تک تقریباً ۱۴ سال مسند صدارت و افتاء پر فائز رہے۔ کانپور کے لوگوں پر آپ کے علم و فضل، زہد و تقویٰ اور بزرگی کا بڑا اثر رہا اور آپ نے وہاں کے مسلمانوں کو بڑا علمی و روحانی فیض پہنچایا۔ وہاں کا قدیم مدرسہ جامع العلوم عرصہ سے تنزلی اور گمنامی میں پڑا ہوا تھا، حضرت مفتی صاحب کی برکت سے دوبارہ ترقی اور شہرت کی بلندی پر پہنچ گیا۔

دارالعلوم دیوبند میں

۱۳۸۵ھ / ۱۹۶۵ء میں آپ کو دارالافتاء دارالعلوم دیوبند میں مفتی کے منصب کے لیے منتخب کیا گیا۔ دارالعلوم دیوبند میں فتویٰ نویسی کے علاوہ صحیح بخاری جلد دوم، سنن نسائی اور حدیث و فقہ کی دیگر کتابوں کا درس بھی مختلف

اوقات میں آپ سے متعلق رہا، خصوصاً شعبہ افتاء کے طلبہ کی تربیت بھی فرماتے تھے۔
 ۱۴۰۱ھ/۱۹۸۱ء میں دارالعلوم میں اختلافات کے وقت مستعفی ہو کر مظاہر علوم چلے گئے تھے۔ بعد میں ارباب دارالعلوم کی درخواست پر دیوبند میں قیام پر راضی ہو گئے تھے، البتہ مختلف عوارض کی وجہ سے دارالافتاء سے باضابطہ متعلق نہیں رہے۔ اس زمانے میں بھی اہم استفتاءات کی جواب نویسی اور درس حدیث (خصوصاً نسائی شریف کی تدریس) کا سلسلہ برابر قائم رہا۔

۱۳۸۶ھ/۱۹۶۶ء میں آپ مظاہر علوم کے سرپرست بنائے گئے۔ علاوہ ازیں، ملک و بیرون ملک کے مختلف مدارس اور اداروں کی سرپرستی بھی فرماتے تھے۔ پاکستان، بنگلہ دیش، ساؤتھ افریقہ، زامبیا و دیگر ممالک میں آپ کے مسترشدین کافی تعداد میں موجود ہیں۔ نہایت منکسر المزاج، متواضع، کثیر المطالعہ، ذاکر و شاعر، روشن دماغ اور حاضر جواب بزرگ تھے۔

یادگار اسلاف شخصیت

مفتی صاحب کو شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب سے خلافت و اجازت حاصل تھی۔ آپ کی قیام گاہ ذاکرین سے معمور رہتی تھی۔ دارالعلوم میں مسجد چھتہ میں قیام رہتا جو بڑے بڑے علماء و مشائخ کی قیام گاہ رہ چکی ہے۔ آپ کے پاس ہمہ وقت علماء و طلبہ اور عام مسلمانوں کا اجتماع رہتا تھا۔ کوئی علمی پیاس بجھانے آتا، کوئی زیارت و ملاقات کے لیے حاضر ہوتا اور کوئی بیعت و اصلاح کے مقصد سے۔ مسجد چھتہ میں ہر وقت چہل پہل رہتی اور علم و ذکر کی نورانی مجلس قائم رہتی تھی۔ مسجد چھتہ کی رونق گم گشتہ حضرت مفتی صاحب کی برکت سے ایک بار پھر لوٹ آئی تھی اور بازار معرفت ایک بار پھر گرم ہو گیا تھا۔ آپ کو دیکھ کر علمائے سلف کی یاد تازہ ہو جاتی تھی۔ آپ کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی تھی کہ دارالعلوم سے انہیں جو مشاہرہ ملتا تھا اس کو وہ ہر ماہ نہ صرف یہ کہ دارالعلوم میں داخل کر دیتے تھے، بلکہ اس میں مزید کچھ اور روپے بھی شامل فرمادیتے تھے، ان کا یہ عمل بلا ناغہ جاری رہا۔

حضرت مفتی صاحب کو علم تفسیر و حدیث، فقہ و کلام اور دیگر تمام علوم دینیہ میں کامل مہارت تھی۔ فقہی کلیات و جزئیات کا کافی استحضار تھا۔ آپ کا حافظہ بہت قوی اور مطالعہ بہت وسیع تھا۔ آپ کی ذات روشن ذہن اور مجتہدانہ بصیرت کی حامل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی جامعیت عطا فرمائی تھی۔ علم و عمل، خلوص و للہیت، تقویٰ و طہارت، خدمت خلق، تزکیہ نفس، تعبیر خواب، فتویٰ نویسی اور اتباع سنت وغیرہ تمام اوصاف و کمالات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلند مقام عطا فرمایا تھا۔

فرق باطلہ کی تردید میں حضرت مفتی صاحب ید طولی رکھتے تھے۔ قادیانیت، رضا خانیت اور مودودیت کا مطالعہ کافی گہرا تھا۔ فرق باطلہ کے خلاف مناظروں میں بھی شرکت فرماتے تھے اور مخالفین کو جواب کرنے میں بے مثال تھے۔ علمائے زمانہ آپ کی فقیہانہ بصیرت اور علمی گہرائی کی معترف و مداح رہے ہیں۔ آپ کی حکمت

و بصیرت سے لائیکل مسائل لمحوں میں حل ہو جاتے تھے اور اندازِ تکلم ایسا تھا کہ مشکل سے مشکل بات مخاطب کے دل نشیں ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوش طبعی اور بذلہ سنجی سے بھی وافر حصہ عطا فرمایا تھا۔

حضرت مفتی صاحب کی علمی یادگاروں میں سب سے ممتاز فتاویٰ محمودیہ ہے جو بیس جلدوں میں شائع ہو چکی ہے۔ ان فتاویٰ میں بعض جوابات ایسے ہیں جو مستقل رسائل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ کے لکھے ہوئے بعض اہم فتاویٰ مختلف رسالوں میں شائع ہوتے رہے ہیں، کان پور کا ماہانہ رسالہ 'نظام' برسہا برس سے آپ کی سرپرستی میں شائع ہوا۔ آپ کا طرزِ تحریر اختصار پسندانہ تھا۔ علاوہ ازیں، 'ارمغانِ اہل دل'، 'حقوقِ مصطفیٰ'، 'وصفِ شیخ وغیرہ دیگر کتابیں بھی شائع ہو چکی ہیں۔ آپ کے مکتوبات، مجلس کے ملفوظات اور خطبات بھی شائع ہو چکے ہیں۔

آپ کا روحانی فیض آپ کے خلفاء کے ذریعہ جاری ہے۔ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ساؤتھ افریقہ، انگلینڈ، فرانس وغیرہ کے تقریباً ڈیڑھ سو علماء و سالکین کو آپ نے خلافت سے نوازا۔ دارالعلوم کے موجودہ مہتمم حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی آپ کے ممتاز خلفاء میں ہیں۔

وفات

اپریل ۱۹۹۶ء / ذی الحجہ ۱۴۱۶ھ کو آپ کا افریقہ کا سفر ہوا۔ وہاں طبیعت خراب ہوئی تو جوہانسبرگ کے پارک لین ہسپتال میں ایڈمٹ ہوئے اور بالآخر ۲ ستمبر ۱۹۹۶ء / ۱۸ ربیع الثانی ۱۴۱۷ھ کو انتقال ہوا۔ ساؤتھ افریقہ کے شہر ہیزل ڈین (Hazel Dene) سے چار کلومیٹر کی دوری پر ایلسبرگ (Elsburg) کے قبرستان میں آپ کی تدفین عمل میں آئی۔

حضرت مفتی نظام الدین اعظمیؒ

۱۳۲۸ھ/۱۹۱۰ء - ۱۴۲۰ھ/۲۰۰۰ء

حضرت مولانا مفتی نظام الدین اعظمیؒ، دارالعلوم دیوبند کے ایک مایہ ناز مفتی اور عالم دین تھے۔ جدید مسائل کی تحقیق و استخراج میں آپ کو خصوصی ملکہ حاصل تھا۔ مسند افتاء پرفائز ہونے کے ساتھ آپ نے شعبہ دارالافتاء کے طلبہ کی تدریس و تربیت بھی فرمائی۔ آپ متعدد اہم علمی کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔

ابتدائی حالات

۱۳۲۸ھ/۱۹۱۰ء میں موضع اوندر ضلع اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم وطن کے مکاتب میں ہوئی۔ پھر مدرسہ احیاء العلوم مبارک پور (ضلع اعظم گڑھ) میں پڑھا۔ بعد ازاں مدرسہ عزیز بہار شریف اور مدرسہ عالیہ مسجد فتح پوری دہلی میں ثانوی درجات تک تحصیل علم کی۔ آخر میں دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا اور ۱۳۵۲ھ/۱۹۳۳ء میں دورہ حدیث شریف سے فراغت حاصل کی۔ دورہ حدیث سے فراغت کے بعد علوم و فنون کی کتابیں بھی پڑھیں۔ فراغت اور علوم و فنون کی تکمیل کے بعد اولاً مدرسہ جامع العلوم جین پور ضلع اعظم گڑھ اور جامع العلوم دھال ضلع گورکھپور میں تدریسی خدمات انجام دیں۔ پھر حضرت شاہ وحی اللہ آبادیؒ کے حکم پر دارالعلوم منوناتھ بھنجن میں مدرس اور مفتی کی حیثیت سے تشریف لے گئے جہاں تقریباً پچیس سال تک ان مناصب پرفائز رہے۔ وہاں فتویٰ نویسی کے ساتھ درس و تدریس کا سلسلہ بھی رہا۔ اس مدرسہ میں حدیث، تفسیر، فقہ وغیرہ کی اہم کتابیں زبردس رہیں۔

دارالعلوم دیوبند میں

۱۳۸۵ھ/۱۹۶۵ء میں دارالافتاء دارالعلوم دیوبند میں آپ کو مفتی کا منصب تفویض کیا گیا جس پر اخیر عمر تک فائز رہے۔ فتویٰ نویسی کے ساتھ آپ نے شعبہ دارالافتاء کے طلبہ کی تدریس و تربیت بھی فرمائی۔ اس طرح تقریباً ۳۵ سال تک افتاء اور درس و تدریس کی مشغولیت رہی۔ اس دوران تقریباً پچتر ہزار (۷۵۰۰۰) سوالات کے جوابات تحریر فرمائے۔ آپ کے فتاویٰ کی نقل تقریباً سو سو کلاں سائزر جسٹروں میں دارالافتاء کے اندر محفوظ ہے۔

فتویٰ نویسی کا اچھا ملکہ حاصل تھا۔ فتاویٰ میں آپ کے جوابات مفصل ہوتے تھے۔ فقہی قواعد پر آپ کی گہری نگاہ تھی۔ استفتا کے لیے آئے سوالات کا باریک بینی سے مطالعہ کرتے پھر ان مسائل کے بارے میں ان کے

ماہرین سے پوری جانکاری حاصل کرتے اور تب جا کر ان کے بارے میں کوئی حتمی رائے دیتے۔ جدید مسائل سے متعلق آپ کے فتاویٰ اجتہادی حیثیت کے حامل ہوتے تھے۔

آپ اپنی فقہی بصیرت اور فطری صلاحیتوں کی بنیاد پر ایک طویل مدت تک رابطہ فقہ اسلامی کے رکن رہے ہیں۔ حضرت مولانا شاہ وصی اللہ قدس سرہ سے بیعت و خلافت کا شرف حاصل تھا۔ طبیعت میں سادگی اور وقار نمایاں تھا۔ بہت خوش اخلاق اور نرم دل تھے۔ طبیعت میں یکسوئی اور اختلاف و انتشار سے بے حد دوری تھی۔ زندگی کے آخری لمحہ تک پوری یکسوئی کے ساتھ آپ فقہ و فتاویٰ کی خدمت انجام دیتے رہے۔

تصانیف

آپ کے فتاویٰ کی اہمیت اور ضرورت کو دیکھتے ہوئے آپ کے عقیدت مندوں نے بارہا ان سے اصرار کیا کہ وہ انھیں کتابی شکل میں شائع کر دیں تاکہ عام لوگ بھی ان سے مستفیض ہو سکیں۔ فتاویٰ نظامیہ اندرونیہ کے نام سے دو جلدیں شائع بھی ہوئیں، لیکن یہ سلسلہ جاری نہ رہ سکا۔ اس کے بعد مفتی صاحب کے قابل فخر شاگرد مولانا مجاہد الاسلام قاسمی نے آپ کے منتخب فتاویٰ کو دو جلدوں میں 'منتخبات نظام الفتاویٰ' کے نام سے تحقیق و تحشیہ کے ساتھ شائع کیا۔ آپ کے فتاویٰ کے اس مجموعہ میں بے شمار جدید مسائل پر فقہی تحقیقات اور موجودہ حالات کے پس منظر میں مسائل کا حل پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ نظام الفتاویٰ کے نام سے بھی آپ کے فتاویٰ کی طباعت کا سلسلہ شروع ہوا تھا جو مکمل نہ ہو سکا۔

فتاویٰ کے علاوہ آپ کے علمی کمالات کی ایک یادگار حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب فتح المنان فی اثبات مذہب النعمان کی تحقیق و طباعت ہے۔ آپ نے نہایت عرق ریزی کے ساتھ کتاب کی دریافت، ترتیب و تدوین اور تصحیح فرمائی اور اس کے بعض مقامات پر نوٹس بھی تحریر فرمائے۔ اس کتاب میں فقہ حنفی کی تائیدی احادیث مشکاۃ کے طرز پر جمع کی گئی ہیں۔ اس کتاب کا ایک نسخہ نہایت خستہ حالت میں حضرت مفتی صاحب کو ملا، چنانچہ آپ نے اس کا دوسرا صاف نسخہ تلاش بسیار کے بعد جامعہ ملیہ کی لائبریری کے شعبہ مخطوطات سے حاصل کیا۔ ڈھائی سال کی محنت شاقہ کے بعد اس کتاب کی ترتیب اور تحقیق مکمل ہوئی اور یہ کتاب نہایت اعلیٰ معیار کی کتابت و طباعت کے ساتھ کلاں سائز کی تین جلدوں میں شائع ہوئی۔ احادیث کا یہ معتبر ذخیرہ اور نادر مجموعہ حضرت مفتی صاحب کی کوششوں سے منظر عام پر آسکا۔

وفات

۲۰/۱۲/۲۰۰۰ھ / ۲۶ فروری ۲۰۰۰ء کی شب میں ۸۶ سال کی عمر میں انتقال فرمایا اور مزار قاسمی دیوبند میں مدفون ہوئے۔

حضرت مولانا غلام رسول خاموشؒ

۱۳۵۹ھ/۱۹۴۰ء - ۱۴۳۱ھ/۲۰۱۰ء

حضرت مولانا غلام رسول خاموش گجراتی معروف عالم دین، داعی الی اللہ اور صاحب عزیمت و تقویٰ بزرگ تھے۔ حضرت مولانا مرغوب الرحمن بجنوری کے آخری دور میں آپ دارالعلوم دیوبند کے کارگزار مہتمم تھے۔

مولانا غلام رسول خاموش ابن الحاج حبیب اللہ صوبہ گجرات کے بناس کا نٹھال ضلع میں واقع مشہور قصبہ چھاپی کے قریب ایک گاؤں میتا کے باشندے تھے، جہاں ۹ جمادی الثانیہ ۱۳۵۹ھ مطابق ۱۶ جون ۱۹۴۰ء بروز شنبہ پیدا ہوئے۔ فارسی و عربی کی تعلیم مدرسہ اسلامیہ دارالعلوم چھاپی میں حاصل کی، آپ اس مدرسہ کے اولین طلبہ میں تھے۔ مشکوٰۃ شریف کی تکمیل کے بعد آپ اپنی والدہ کے ساتھ کراچی (پاکستان) تشریف لے گئے، وہاں الجامعۃ الاسلامیہ بنوری ٹاؤن میں ۱۳۷۷ھ مطابق ۱۹۵۷ء میں دورہ حدیث کی تکمیل کی۔ بخاری و ترمذی حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری کے تلمیذ رشید حضرت مولانا یوسف صاحب بنوری سے پڑھیں، مسلم شریف حضرت مولانا لطف اللہ صاحب پشاور سے، ابوداؤد حضرت مولانا فضل حق صاحب سے اور طحاوی شریف حضرت مولانا عبدالرشید صاحب نعمانی صاحب لغات القرآن سے پڑھیں۔ دورہ حدیث کی تکمیل کر کے ہندوستان واپس ہوئے۔

فراغت کے بعد بمبئی گئے جہاں حصول معاش کے ساتھ مدرسہ دارالعلوم امدادیہ ممبئی میں بلا معاوضہ تدریسی خدمت انجام دیں۔ تدریس کا سلسلہ نو سال تک قائم رہا جس میں آپ نے اونچے عربی درجات کی اہم کتابیں بھی پڑھائیں۔ بمبئی میں آپ نے چائے کی تجارت شروع کی جس میں اللہ نے خوب برکت دی اور رفتہ رفتہ ایک بڑے تاجر بن گئے۔

تجارت کے ساتھ ساتھ اکابر علماء اور جماعت تبلیغ کے اکابرین سے بھی وابستہ رہے۔ ۱۹۶۸ء میں پہلی مرتبہ جماعت میں وقت لگایا۔ دعوت و تبلیغ کی نسبت سے آپ نے مصر، تونس، الجزائر، سعودی عربیہ، امریکہ، کینیڈا، فیجی، جنوبی افریقہ، جاپان، انگلینڈ، برما، تھائی لینڈ، فلپائن، کویت، آسٹریلیا وغیرہ ممالک کے طویل اسفار کئے۔

آپ کو مسلمانوں کی اصلاح اور دینی ترقی کی فکر ہمیشہ دامن گیر رہتی۔ جماعت تبلیغ سے وابستگی کے ساتھ علاقہ میں مقامی سطح پر دینی کام کے لیے اصلاحی کمیٹیاں قائم کر رکھی تھیں۔ دینی مراکز و معاہد کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیتے۔ تازنگی آپ نے دارالعلوم چھاپی کی خدمت کی۔ آپ کو دارالعلوم چھاپی کے ذمہ داران کا اتنا اعتبار و اعتماد حاصل تھا کسی عہدہ پر نہ ہوتے ہوئے بھی مہتمم کی موجودگی میں اہتمام و انصرام کے تمام امور خود ہی انجام دیتے تھے۔ مولانا خاموش کے خلوص و للہیت کا یہ عالم تھا سارا سارا کام آپ انجام دیتے اور نام مہتمم صاحب کا رہتا۔ چنانچہ دارالعلوم چھاپی کے مہتمم مولانا حبیب اللہ صاحب کے بعد آپ کو دارالعلوم چھاپی کا مہتمم بنایا گیا۔

مدرسہ دارالعلوم چھاپی کے مہتمم اور دارالعلوم دیوبند کے کار گزار مہتمم ہونے کے علاوہ گجرات کے کئی مدارس کے یا تو رکن رکین تھے یا سرپرست۔ علاوہ ازیں راجوسی، اجمیر، جے پور، ٹونک، جوڈھپور، جیسلمیر، باڑمیر، میوات کے اطراف میں چار سو سے زائد مکاتب کی سرپرستی کرتے تھے اور اپنے بھائیوں نیز دیگر رفقاء کے مالی تعاون سے ان کی کفالت اور نگرانی کرتے تھے۔

دارالعلوم دیوبند سے تعلق

بمبئی کے حضرت حاجی علاء الدین صاحب دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے رکن رکین تھے، ۱۰/۱۱ جون ۱۹۸۸ء کو ان کا انتقال ہوا۔ حاجی صاحب کی جگہ پر مجلس شوریٰ صفر ۱۴۰۹ھ مطابق ۱۹۸۹ء میں دارالعلوم کی مجلس شوریٰ کی رکنیت کے لئے آپ کا انتخاب عمل میں آیا۔ دارالعلوم کے مفاد کے پیش نظر مسلسل پابندی کے ساتھ مجلس شوریٰ کی تمام مجالس میں شرکت فرماتے تھے اور حسب موقع مخلصانہ مشورہ دیتے تھے۔

مولانا خاموش کی دارالعلوم کے امور سے گہری دل چسپی اور تعلق خاطر سے متاثر ہو کر مجلس شوریٰ نے ۱۴۲۴ھ/۲۰۰۳ء میں حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند کے ضعف و پیرانہ سالی کی پیش نظر آپ کو دارالعلوم کے با اختیار کار گزار مہتمم کے عہدہ جلیلہ پر سرفراز فرمایا۔ گو مولانا دارالعلوم دیوبند سے رسمی طور پر فیض یافتہ نہیں تھے، مگر آپ کے اندر موزن دارالعلوم کی بے پناہ محبت اور بے لوث جذبہ خدمت کی برکت تھی کہ درجنوں لائق و فائق بنائے دارالعلوم دیوبند کی موجودگی میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس منصب کے لیے آپ کا انتخاب فرمایا۔

دارالعلوم دیوبند کی ظاہری و معنوی ترقی کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتے۔ انتظامی اصلاحات اور طلبہ کی تعلیم و سہولیات کو لے کر ہمیشہ کوشاں رہتے۔ دارالعلوم کے لیے مالیات کی فراہمی پر خاص توجہ دیتے اور خود بھی اس سلسلہ میں کوششیں کرتے۔ دارالعلوم سے تنخواہ نہ لیتے تھے اور قیام و طعام حتیٰ کہ بجلی کا صرفہ بھی اپنے جیب خاص سے دیتے تھے۔

مولانا کی خصوصیت تھی کہ بڑی سے بڑی ذمہ داریوں کو نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ خاموشی سے انجام دیا کرتے تھے۔ مولانا بڑوں چھوٹوں سب کا خیال رکھتے، ہر ایک کی ضروریات، مسائل اور شکایتیں سنتے اور نہایت سنجیدگی سے ان کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے۔ تمام معاملات میں صبر و تحمل، وسعت نظری اور حکمت و مصلحت کو مدنظر رکھتے ہوئے قدم اٹھاتے اور کبھی کسی معاملہ میں جذباتی نہ ہوتے۔ ستائش کی تمنا اور صلہ کے پرواہ کیے بغیر اپنے کاموں میں لگے رہتے۔ بڑے صاف گو تھے اور سیدھی سادی بات پسند بھی کرتے۔ چاچلوسی، تہملق اور لاگ لپیٹ کو پسند نہ فرماتے۔

وفات

۲۸ شوال ۱۴۳۱ھ/ ۸ اکتوبر ۲۰۱۰ء بروز جمعہ بعد نماز عصر دارالعلوم دیوبند کے مہمان خانہ میں محض چند گھنٹے کی علالت کے بعد انتقال ہوا۔ اگلے دن قبرستان قاسمی میں دفن کیے گئے۔

حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالن پوری

۱۳۶۰ھ/۱۹۴۱ء - ۱۴۴۱ھ/۲۰۲۰ء

حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری، دارالعلوم کے شیخ الحدیث اور صدر المدرسین، ایک مستند محدث، کامیاب استاذ، متعدد اہم کتابوں کے مصنف اور جید الاستعداد اور با بصیرت مفتی و فقیہ تھے۔

۱۳۶۰ھ/۱۹۴۱ء میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کا وطن موضع کالیزہ، بناس کانٹھا (شمالی گجرات) ہے۔ آپ پالن پوری کی نسبت سے معروف ہوئے جو آزادی سے پہلے ایک مسلم نواب اسٹیٹ تھا اور اس ضلع کا مرکزی شہر ہے۔ آپ کی بسم اللہ آپ کے والد محترم نے کرائی۔ وطن ہی میں مکتب میں ناظرہ و دینیات کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد دارالعلوم چھاپی میں داخل ہوئے جہاں آپ کے ماموں مولانا عبدالرحمن صاحب تدریسی خدمات انجام دے رہے تھے۔ پھر مولانا نذیر احمد پالن پوری کے مدرسہ میں داخل ہوئے اور شرح جامی تک کی کتابیں وہیں پڑھیں۔ آپ کے اساتذہ میں محمد اکبر میاں پالن پوری اور مولانا ہاشم بخاری قابل ذکر ہیں۔

۱۳۷۷ھ/۱۹۵۸ء میں مظاہر علوم سہارن پور آگئے۔ وہاں نحو، منطق اور فلسفہ کی اکثر کتابیں پڑھیں۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ نے ۱۳۸۰ھ/۱۹۶۱ء میں دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا۔ علم حدیث و فقہ و تفسیر کے علاوہ دیگر علوم و فنون کتابیں بھی آپ نے یہیں پڑھیں۔ ۱۳۸۲ھ/۱۹۶۲ء میں آپ نے دورہ حدیث کی تکمیل کی اور سالانہ امتحان میں امتیازی نبرات حاصل کیے۔ فراغت کے بعد ایک سال تک شعبہ افتاء میں زیر تعلیم رہے اور حضرت مفتی محمود احمد نانوتوی (رکن مجلس شوریٰ و اعزازی مفتی دارالعلوم دیوبند) کے ساتھ تربیت معین مفتی کے طور پر بھی فتویٰ نویسی کی خدمات انجام دیں۔

تعلیم سے فراغت کے بعد ۱۳۸۴ھ/۱۹۶۵ء میں دارالعلوم اشرفیہ راندر (سورت) میں درجہ علیا کے مدرس مقرر ہوئے اور ۱۳۹۳ھ/۱۹۷۳ء تک وہاں بہ حسن و خوبی تدریسی خدمات انجام دیتے رہے۔ اسی زمانے میں العون الکبیر عربی شرح الفوز الکبیر، علامہ طاہر پٹنی کی کتاب 'المغنی' کی عربی شرح 'تہذیب المغنی' (غیر مطبوعہ)، حرمت مصاہرت وغیرہ کتابیں بھی تصنیف فرمائیں۔

دارالعلوم دیوبند میں

حضرت مولانا منظور احمد نعمانی کی تحریک پر ۱۳۹۳ھ/۱۹۷۳ء میں دارالعلوم دیوبند میں تدریس کے لیے آپ

کا انتخاب عمل میں آیا۔ دارالعلوم میں اس وقت سے اب تک متعدد اہم کتابیں آپ سے متعلق رہیں۔ تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ، منطق و فلسفہ وغیرہ کی کتابیں آپ نے حسن و خوبی کے ساتھ پڑھائیں۔ دورہ حدیث میں آپ نے ایک طویل عرصہ تک ترمذی شریف کا درس دیا جو طلبہ کے درمیان کافی مقبول تھا۔ کچھ مواقع پر آپ نے دارالعلوم کے موقر شعبہ دارالافتاء میں بہ طور مفتی فتویٰ نویسی کے خدمات بھی انجام دی ہیں۔ آپ کی علمی سرپرستی میں فتاویٰ دارالعلوم کی ترتیب جدید کا عمل بھی انجام پایا۔

آپ فتنہ قادیانیت کے تعاقب کے سلسلہ میں دارالعلوم میں قائم کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت کے ناظم اعلیٰ بھی تھے۔ دارالعلوم کے اجلاس اور عمومی جلسوں میں آپ کی پر مغز اور علمی تقریریں بہت دل چسپی کے ساتھ سنی جاتی تھیں۔ ۱۴۲۹ھ/۲۰۰۸ء میں حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب بلند شہریؒ کے علالت کی وجہ سے مستعفی ہونے کے بعد آپ کو دارالعلوم کے صدر المدرسین اور شیخ الحدیث کے باوقار عہدہ کے لیے منتخب کیا گیا۔

تصنیفات و تالیفات

آپ کامیاب مدرس ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے منصف بھی تھے۔ آپ کی چھوٹی بڑی تقریباً تین درجن کتابیں منظر عام پر آچکی ہیں۔ آپ کی کتابوں میں تحفۃ الامعی شرح سنن ترمذی، تحفۃ القاری شرح بخاری، العون الکبیر عربی شرح الفوز الکبیر، حاشیہ امداد الفتاویٰ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کی شہرہ آفاق کتاب حجۃ اللہ البالغۃ کی اردو شرح رحمۃ اللہ الواسعۃ آپ کی علمی تحقیقات کا شاہکار اور آپ کے بلند پایہ علمی مقام کا آئینہ دار ہے۔ قاسم العلوم حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کے علوم و معارف سے آپ کو گہرا لگاؤ اور مناسبت تھی۔ حضرت نانوتویؒ کی متعدد کتابیں آپ کی تسہیل و تشریح کے ساتھ شائع ہوئیں۔ افادات نانوتویؒ کے نام سے ایک قیمتی مضمون بھی لکھا جو ملک کے موقر اردو رسالہ الفرقان لکھنؤ میں قسط وار شائع بھی ہوا۔ آپ کی علمی خدمات کے اعتراف میں حکومت ہند نے آپ کو ۲۰۱۱ء میں صدر جمہوریہ ایوارڈ سے نوازا۔ تدریس اور دارالعلوم کے تعلیمی امور کی سرپرستی کے ساتھ، ملک و بیرون ملک میں دارالعلوم کی نمائندگی کا فریضہ بھی حسن و خوبی کے ساتھ انجام دیا۔

وفات

۱۶ رجب ۱۴۳۱ھ کو بخاری شریف کے آخری سبق کے دوران ہی طبیعت خراب ہوئی۔ اس کے بعد مہمی علاج کے لیے تشریف لے گئے جہاں ۲۵ رمضان المبارک مطابق ۱۹ مئی ۲۰۲۰ء بروز منگل وفات کا سانحہ پیش آیا اور وہیں جوگیشوری کے اوشیوارہ مسلم قبرستان میں تدفین عمل میں آئی۔

ماخذ: حیات سعید، مولانا مفتی محمد امین پالن پوری، مکتبہ مجاز دیوبند، ۲۰۲۰ء

حضرت مولانا غلام محمد وستانوی

ولادت: ۱۳۷۰ھ / ۱۹۵۰ء

حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی، جامعہ اشاعت العلوم اکل کو (مہاراشٹر) کے سابق مہتمم اور ملک کے متعدد اداروں کے سرپرست و نگران ہیں۔ آپ کا وطن وستان، ضلع سورت ہے۔ آپ کی ولادت یکم جون ۱۹۵۰ء کو ہوئی۔ آپ کے والد کا نام حاجی محمد اسماعیل ہے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم کوساری کے مدرسہ قوۃ الاسلام میں ہوئی، بعد ازاں ۱۹۶۳ء میں اعلیٰ تعلیم کے لیے دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر میں داخلہ لیا اور مفتی احمد بیات، مولانا ذوالفقار قاسمی اور مولانا عبد اللہ کا پودروی وغیرہ حضرات علمائے کرام سے استفادہ کیا۔ پھر ۱۳۹۲ھ / ۱۹۷۲ء میں مدرسہ مظاہر علوم سہارن پور تشریف لائے اور شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا کاندھلوی اور حضرت مولانا محمد یونس جون پوری وغیرہ اساتذہ فن سے دورہ حدیث کی تکمیل کی۔

حضرت مولانا وستانوی نے اپنی تدریسی زندگی کا آغاز ضلع سورت کے قصبہ ادھانا سے کیا۔ بعد میں کچھ دنوں تک دارالعلوم کنتھاریہ سے بھی منسلک رہے۔ آخر میں مہاراشٹر کے ایک پس ماندہ علاقہ اکل کو ضلع تندوربار میں مدرسہ اشاعت العلوم کی داغ بیل ڈالی جو ترقی کرتے ہوئے ایک آج ایک شجر سایہ دار بن چکا ہے اور اس کی سیکڑوں شاخیں قائم ہو چکی ہیں۔ مدرسہ سے ہزاروں حفاظ اور علماء پیدا ہوئے۔ حضرت مولانا نے دینی علوم کے مدارس و مراکز کے علاوہ مسلم نوجوانوں کے لیے عصری تعلیم گاہوں کا سلسلہ بھی شروع کیا جس میں پرائمری اسکول، ہائر سیکنڈری اسکول، بی ایڈ کالج، انجینئرنگ کالج، میڈیکل کالج وغیرہ شامل ہیں۔

۱۴۱۹ھ میں آپ کو دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کا رکن بنایا گیا۔ حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب کے انتقال کے بعد مجلس شوریٰ کے اجلاس منعقدہ ۵ صفر ۱۴۳۲ھ مطابق ۱۱-۱۰ جنوری ۲۰۱۱ء میں آپ کو عہدہ اہتمام کے لیے منتخب کیا گیا۔ آپ ۲۱ شعبان ۱۴۳۲ھ / ۲۳ جولائی ۲۰۱۱ء تک اس منصب پر فائز رہے۔ اس طرح از صفر تا شعبان ۱۴۳۲ھ / جنوری تا جولائی ۲۰۱۱ء (یعنی کل سات) ماہ آپ دارالعلوم دیوبند کے مہتمم رہے۔

حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی

ولادت: ۱۳۶۶ھ / ۱۹۴۷ء

حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی، دارالعلوم دیوبند کے موجودہ مہتمم اور شیخ الحدیث ہیں۔ دارالعلوم کے منصب اہتمام سے قبل آپ دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے رکن رکیں، جامعہ اسلامیہ ریوڑی تالاب بنارس کے شیخ الحدیث اور مفتی، جمعیتہ علمائے ہند کے نائب صدر اور رکن مجلس عاملہ رہے ہیں۔

ابتدائی حالات

حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی بن الحاج محمد حنیف بن قاری محمد نظام الدین صاحب مشہور شہر بنارس (وارانسی) کے محلہ مدن پورہ میں ۲۲ صفر ۱۳۶۶ھ / ۱۴ جنوری ۱۹۴۷ء کو پیدا ہوئے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی والدہ اور دادا کے زیر نگرانی ہوئی اور پھر شوال ۱۳۷۵ھ / ۱۹۵۶ء میں جامعہ اسلامیہ مدن پورہ وارانسی میں پرائمری درجہ دوم میں داخل ہوئے۔ شوال ۱۳۷۹ھ / ۱۹۶۰ء میں عربی تعلیم کے لیے اس علاقہ کے مشہور ادارہ دارالعلوم منو ناتھ بھنجن میں عربی درجہ اول میں داخلہ لیا۔ پھر ۱۳۸۱ھ / ۱۹۶۲ء میں مفتاح العلوم منو میں ایک سال پڑھ کر اعلیٰ تعلیم کے لیے دارالعلوم دیوبند آگئے اور یہاں شوال ۱۳۸۲ھ / ۱۹۶۳ء درجہ عربی چہارم (کنز الدقائق کی جماعت) میں داخل ہوئے، یہ دارالعلوم کے قیام کا سواں سال تھا۔ دارالعلوم دیوبند میں چھ سال تک تعلیم حاصل کی۔ ۱۳۸۷ھ / ۱۹۶۷ء میں دورہ حدیث سے فراغت حاصل کی اور سالانہ امتحان میں اول پوزیشن سے کامیاب ہوئے۔

فراغت کے بعد ایک سال شعبہ افتاء میں داخل رہ کر فتویٰ نویسی کی مشق کی۔ آپ کے اساتذہ میں حضرت مولانا سید فخر الدین صاحب، حضرت علامہ ابراہیم بلیاوی، فقیہ الامۃ حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی اور حضرت مولانا وحید الزمان کیرانوی جیسے عباقرہ وائمہ فن شامل ہیں۔ حضرت مولانا کیرانوی کو آپ کی صلاحیت و لیاقت پر اتنا اعتماد تھا کہ طالب علمی کے زمانے میں ہی صف عربی کی تدریس آپ سے متعلق کر دی تھی۔

آپ نے پہلے شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب سے بیعت کی، لیکن فقیہ الامۃ حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی سے روحانی طور پر مستفید ہونے کا موقع زیادہ ملا کیوں کہ حضرت مفتی صاحب آپ کے استاذ بھی تھے۔ آپ پر فقیہ الامۃ حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی کی خصوصی توجہ تھی، اس طرح آپ کو خلعت خلافت و اجازت سے بھی نوازا اور حضرت مفتی صاحب کے خاص معتمد اور قریبی حلقہ میں آپ کا شمار ہونے لگا۔ ۱۹۹۶ء میں جب ساوتھ افریقہ میں فقیہ الامۃ حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی صاحب کا انتقال ہوا، اس وقت حضرت مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب بھی ساوتھ افریقہ میں حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں حاضر تھے، چنانچہ آپ

نے ہی حضرت کی نماز جنازہ پڑھائی۔

حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب نے دارالعلوم سے فراغت کے بعد اپنے آبائی شہر بنارس کے قدیم مدرسہ جامعہ اسلامیہ ریوڑی تالاب میں تدریس شروع کر دی جس میں آپ دارالعلوم کے منصب اہتمام پر فائز ہونے تک شیخ الحدیث اور دارالافتاء کے صدر مفتی رہے۔ اس کے علاوہ معاشرہ میں پھیلی ہوئی رسومات و بدعات اور اخلاقی برائیوں کی اصلاح کے لیے آپ نے اپنے محلہ کی تنظیم انجمن اصلاح المسلمین کو از سر نو زندہ کیا جو کہ کام نہ ہونے کی وجہ سے کالعدم ہو گئی تھی۔ حضرت مفتی صاحب تقریباً بیس سالوں سے مسجد بلال (مالتی باغ بنارس) میں رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کے ساتھ حدیث کا درس دے رہے ہیں۔ آپ کے دروس و مواعظ کا مجموعہ 'سباق حدیث' اور 'مواعظ نعمانی' کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔

دارالعلوم دیوبند میں

۱۴۱۳ھ/۱۹۹۲ء میں آپ مجلس شوری دارالعلوم کے رکن منتخب کیے گئے۔ دارالعلوم کی مجلس عاملہ اور مجلس شوری کی طرف سے بنائی جانے والی دیگر ذیلی کمیٹیوں کے رکن بھی نامزد ہوتے رہے۔ مجلس شوری کی کارروائیوں میں بڑی سرگرمی کے ساتھ شرکت فرماتے اور آپ کو اکابر اراکین کا بھرپور اعتماد حاصل رہا۔ دوسری طرف جمعیۃ علمائے ہند کی قومی مجلس عاملہ کے رکن بھی رہے اور ۱۴۲۹ھ/۲۰۰۸ء میں نائب صدر کے عہدہ پر بھی فائز کیے گئے۔

یکم محرم الحرام ۱۴۳۲ھ مطابق ۸ دسمبر ۲۰۱۰ء کو حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب بجنوری کے انتقال کے بعد مجلس شوری کا اجلاس ہونے تک آپ کو کارگزار مہتمم بنایا گیا۔ پھر مجلس شوری کے ہنگامی اجلاس میں ۱۹ ربیع الاول ۱۴۳۲ھ/۲۳ فروری ۲۰۱۱ء کو آپ کو دوبارہ کارگزار مہتمم بنایا گیا اور مجلس شوری کے اجلاس ۲۱ شعبان ۱۴۳۲ھ/۲۳ جولائی ۲۰۱۱ء میں آپ کو مستقل مہتمم بنا دیا گیا۔

آپ کی ذات سے دارالعلوم کے عظیم منصب اہتمام پر فائز ہونے سے لوگوں کو بڑی توقعات وابستہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ اس عظیم الشان مسند سے دارالعلوم کی نمائندگی اور امت مسلمہ کی قیادت کا فریضہ بہ حسن و خوبی انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ میں بلندی نگاہ، دل نوازی سخن، پرسوزی جان کی اعلیٰ قائدانہ صلاحیتیں ودیعت فرمائی ہیں۔ دارالعلوم کے نظم و انتظام کی دیکھ ریکھ کے ساتھ ملک و بیرون ملک میں ہر دینی و علمی پلیٹ فارم سے دارالعلوم کے مسلک حقہ کی نمائندگی فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زبان و بیان کی عمدہ صلاحیت، نفیس و اعلیٰ ذوق اور اعلیٰ علمی و سیاسی بصیرت سے حظ وافر عطا فرمایا ہے۔

بے پناہ مشغولیات کے باوجود دارالعلوم میں دورہ حدیث کے طلبہ کو ترمذی شریف کا درس بھی دیتے تھے جس میں طلبہ بڑے ذوق و شوق سے شرکت کرتے تھے۔ مجلس شوری کے اجلاس صفر ۱۴۳۲ھ مطابق اکتوبر ۲۰۲۰ء میں بخاری شریف کی تدریس کی ذمہ داری آپ سے متعلق کی گئی۔

حضرت مولانا سید ارشد مدنی

دارالعلوم دیوبند کے موجودہ صدر المدرسین، جمعیتہ علمائے ہند کے قومی صدر اور مسلمانان ہند کے مقبول و محبوب قائد ہیں۔

آپ کا سن پیدائش ۱۳۶۰ھ/۱۹۴۱ء ہے۔ ابتدائی تعلیم دیوبند میں حاصل کی۔ آپ کے معلم خصوصی مولانا قاری اصغر علی سہسپورگی ہیں۔ دارالعلوم دیوبند میں باضابطہ طور پر ۱۹۵۹ء میں داخلہ لیا اور ۱۹۶۳ء میں دورہ حدیث سے فارغ ہوئے۔

۱۹۶۵ء میں بہار کے مرکزی ادارہ جامعہ قاسمیہ گیا سے تدریسی زندگی کا آغاز کیا۔ ۱۹۶۹ء سے جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد میں مدرس مقرر ہوئے اور مختلف ذمہ دارانہ مناصب پر فائز ہوئے۔

۱۴۰۳ھ/۱۹۸۳ء میں دارالعلوم دیوبند میں مدرس مقرر ہوئے۔ ۱۹۸۷ء سے ۱۹۹۰ء تک نائب ناظم تعلیمات رہے۔ ترمذی شریف، مشکاۃ المصابیح وغیرہ حدیث کی کتابوں کے اسباق آپ سے متعلق رہے ہیں۔ ۱۹۹۶ء سے ۲۰۰۸ء تک دارالعلوم کے ناظم تعلیمات کے عہدہ پر فائز رہے۔ آپ کے زمانے میں نہایت اہم تعلیمی اصلاحات عمل میں آئیں اور تعلیمی کارکردگی میں نمایاں ترقی ہوئی۔

مجلس شوریٰ کے اجلاس صفر ۱۴۲۲ھ مطابق اکتوبر ۲۰۲۰ء میں صدر المدرسین دارالعلوم کے باوقار منصب کے لیے آپ کا انتخاب عمل میں آیا۔

۲۰۰۶ء میں جمعیتہ علمائے ہند کے قومی صدر منتخب کیے گئے اور حضرت مولانا سید اسعد مدنی کے بعد ملک کی سیاست اور مسلمانان ہند کی قیادت کے حوالہ سے عظیم الشان خدمات انجام دے رہے ہیں۔ رابطہ عالم اسلامی کے رکن بھی ہیں اور ہندو بیرون ہند فکر دیوبند کی نمائندگی کرتے ہیں۔ متعدد اہم مدارس کے سرپرست ہیں، خاص طور پر ہریانہ اور پنجاب میں ایک قابل قدر دینی تعلیمی تحریک آپ کی سرپرستی میں چل رہی ہے۔

تدریسی اور سیاسی و سماجی مشغولیات کے ساتھ آپ کی متعدد اہم علمی خدمات بھی منظر عام پر آچکی ہیں۔ تفصیل عقد الفرائد فی تکمیل قید الشرائد معروف بہ منظومہ ابن وہبان کے مخطوطہ کو اپنی تحقیق و تعلیق کے ساتھ دو جلدوں میں شائع کیا۔ علامہ بدرالدین عینی کی کتاب نخب الافکار فی تنقیح مبانی الاخبار فی شرح معانی الآثار کے مخطوطہ کو مصر سے حاصل کر کے اپنی تحقیق و تعلیق کے ساتھ ۲۳ جلدوں میں عالم عرب سے شائع کرایا۔ آپ کی کوششوں سے حضرت شیخ الہند کے ترجمہ قرآن اور تفسیر عثمانی کا ہندی ترجمہ منظر عام پر آیا۔

مشاہیر و موجودہ اراکین مجلس شوری

حضرت مولانا محمد عثمان دیوبندیؒ

خاندان شیخ الہند کے چشم و چراغ تھے اور متعدد علمی و عملی خصوصیات کے مالک تھے۔ مدرسہ عبدالرب دہلی میں تعلیم حاصل کی، پھر دارالعلوم دیوبند میں حضرت مولانا اعزاز علی امر دہویؒ وغیرہ اساتذہ سے استفادہ کیا۔

۱۳۵۲ھ/۱۹۳۶ء میں دارالعلوم دیوبند میں مدرس مقرر ہوئے اور ۱۴۰۱ھ/۱۹۸۱ء تک اس منصب پر فائز رہے۔ ۱۴۰۱ھ/۱۹۸۱ء میں دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوری کے رکن اور نائب مہتمم منتخب کئے گئے۔ مولانا بہت حق گو، راست باز اور بے باک شخصیت کے مالک تھے۔ مدت تک قصبہ دیوبند کی میونسپلٹی کے چیرمین رہے اور بلا لحاظ مذہب و برادری تمام اہل شہر آپ کی دیانت داری اور خدمتِ خلق کے گرویدہ و قائل تھے۔ ۲۲ اپریل ۱۹۸۵ء/۳۰ رجب ۱۴۰۵ھ کو دیوبند میں انتقال ہوا۔

ماخذ: دارالعلوم دیوبند کی صد سالہ زندگی، ص ۱۱۳؛ دارالعلوم اور دیوبند کی تاریخی شخصیات، ص ۸۳-۸۷

حضرت مولانا قاری صدیق احمد باندویؒ

مشہور صاحب نسبت شیخ اور بزرگ عالم دین تھے۔ دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوری کے رکن تھے۔ آپ اپنے وطن ہتھورا ضلع باندہ یوپی میں ۱۳۴۱ھ/۱۹۲۳ء میں پیدا ہوئے۔ کان پور اور پانی پت میں تعلیم حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے مظاہر علوم سہارن پور میں ۱۳۵۹ھ/۱۹۴۰ء میں داخل ہوئے اور ۱۳۶۲ھ/۱۹۴۳ء میں دورہ حدیث کی تکمیل کی۔

مظاہر علوم کے زمانہ قیام میں ہی آپ کا روحانی تعلق حضرت مولانا اسعد اللہ ناظم مظاہر علوم سے قائم ہوا اور ۱۹۵۶ء میں ان ہی کی جانب سے اجازت و خلافت حاصل ہوئی۔

فراغت کے بعد درس و تدریس کا مشغلہ اختیار کیا۔ اس کے بعد اپنے علاقہ میں فتنہ ارتداد کا مقابلہ کیا اور مرتد ہونے والوں کو دوبارہ اسلام میں داخل کیا۔ آپ کی تبلیغی و اصلاحی کوشش تا عمر جاری رہی اور خلق خدا کو ان کی ذات سے بہت فائدہ پہنچا۔ تبلیغ و اصلاح کے ساتھ مکاتب قرآنیہ کا سلسلہ شروع کیا اور سیکڑوں مقامات پر مکاتب و مدارس قائم کیے۔

۱۳۷۱ھ/۱۹۵۲ء میں جامعہ عربیہ ہتھورا قائم کیا جس نے بہت جلد ترقی کرتے ہوئے مرکزی اہمیت حاصل کر لی۔ آپ اس مدرسہ کے ناظم اعلیٰ اور شیخ الحدیث بھی تھے۔ مدرسہ میں ابتدا سے لے کر بخاری تک کی تمام کتابیں زیر درس رہیں۔ تصنیف و تالیف کا بھی ذوق تھا۔ آپ نے چھوٹی بڑی تقریباً بیس کتابیں لکھیں جس میں متعدد درسی کتابوں کی اہم شروح ہیں۔

تواضع و انکساری اور سادگی و خلوص میں ممتاز اور اسلاف کی سچی یادگار تھے۔ اخیر زمانے میں آپ کا فیض خوب پھیلا اور مسلم و غیر مسلم عوام میں یکساں مقبولیت و محبوبیت حاصل کی۔

۱۴۰۱ھ/۱۹۸۱ء سے ۱۴۰۵ھ/۱۹۸۵ء تک دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے رکن رہے۔

۲۳ ربیع الثانی ۱۴۱۸ھ/۲۸ اگست ۱۹۹۷ء بروز جمعرات لکھنؤ میں انتقال ہوا اور باندہ میں تدفین عمل میں آئی۔

ماخذ: علمائے مظاہر علوم سہارن پور اور ان کی علمی و تصنیفی خدمات، جلد سوم، ص ۲۴۴-۲۵۱

حضرت مولانا سید اسعد مدنی

فدائے ملت، امیر الہند ثانی، ہندوستانی مسلمانوں کے عظیم قائد، ممبر پارلیمنٹ، شیخ الاسلام حضرت مدنی کے جانشین، جمعیتہ علمائے ہند کے صدر اور دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے رکن رہیں تھے۔

۶ ذوالقعدہ ۱۳۴۶ھ/۲۷ اپریل ۱۹۲۸ء بروز جمعہ دیوبند میں پیدا ہوئے۔ مولانا قاری اصغر علی سہسپوری کی زیر نگرانی تعلیم حاصل کی اور ۱۳۶۸ھ/۱۹۴۹ء میں دارالعلوم دیوبند سے فارغ التحصیل ہوئے۔

دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد عرصہ تک مدینہ منورہ میں قیام کیا۔ شوال ۱۳۷۰ھ/اگست ۱۹۵۱ء میں دارالعلوم میں تدریس کے لیے تقرر ہوا اور ۱۹۶۲ء تک تدریسی خدمات انجام دیتے رہے۔ اس بارہ سال کے عرصہ میں درجات متوسطہ کی کتابیں زیر درس رہیں۔

ابتدا ہی سے جمعیتہ علماء سے وابستہ رہے۔ ۱۹۶۰ء میں آپ کو جمعیتہ علماء اتر پردیش کا صدر منتخب کیا گیا۔ ۹ اگست ۱۹۶۳ء کو حضرت مولانا فخر الدین مراد آبادی کی زیر صدارت آپ کو جمعیتہ علمائے ہند کا ناظم عمومی بنایا گیا۔ ۱۱ اگست ۱۹۷۳ء کو آپ جمعیتہ علمائے ہند کے صدر منتخب گئے اور پھر تاحیات اس منصب پر فائز رہے۔

۱۹۶۸ء میں راجیہ سبھا سے ممبر پارلیمنٹ منتخب ہوئے اور ۱۹۹۴ء تک ممبر رہ کر پارلیمنٹ میں ملک و ملت کے تمام مسائل کی پوری جرأت و بے باکی کے ساتھ ترجمانی کی۔

۱۴۰۵ھ/۱۹۸۵ء میں دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے رکن منتخب ہوئے اور تا عمر دارالعلوم دیوبند کی تعمیر و ترقی میں بنیادی کردار ادا کیا۔ دارالعلوم دیوبند میں شورائی نظام کی بحالی و بالادستی میں انھوں نے نمایاں خدمات انجام دیں۔ دارالعلوم دیوبند کی نشاۃ ثانیہ کے بعد اس کی تعلیمی و تبلیغی خدمات کی توسیع و ترقی میں ان کا بڑا ہاتھ تھا۔ جمعیتہ علمائے ہند کے پلیٹ فارم سے آپ نے ہندوستانی مسلمانوں کی مثالی قیادت کی اور بے لوث خدمات

کی ایک روشن تاریخ رقم کی۔ ملک میں مسلمانوں کو پیش آنے والے تمام چیلنجوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ہر موڑ پر ملت اسلامیہ کی شاندار قیادت کی۔ آزاد ہند میں مسلم اقلیت کی خدمات کے حوالے سے ان کا نام تاریخ میں جلی حروف سے لکھا جائے گا۔

۷/ محرم ۱۴۲۷ھ / ۶ فروری ۲۰۰۶ء کو دہلی میں انتقال ہوا اور مزار قاسمی دیوبند میں دفن کئے گئے۔

تفصیلی معلومات کے لیے دیکھیں:

- ماہنامہ دارالعلوم دیوبند، مارچ ۲۰۰۶ء؛ ہفت روزہ الجمعیتہ اکتوبر ۱۹۹۵ء؛ جمعیتہ علماء نمبر ص ۴۳۸-۴۵۵؛ تذکرہ فدائے ملت، (مجموعہ مقالات)، مرتبہ مفتی محمد سلمان منصور پوری؛ یادگار مجلہ، ہفت روزہ الجمعیتہ، فروری ۲۰۰۶ء؛ فدائے ملت نمبر، ہفت روزہ الجمعیتہ، اپریل ۲۰۰۷ء

حضرت مولانا مفتی منظور احمد مظاہریؒ

قاضی شہرکان پور اور ملک کے معروف عالم تھے۔ دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ اور جمعیتہ علماء ہند کی مجلس عاملہ کے سینئر رکن تھے۔

۳ ربیع الثانی ۱۳۵۰ھ / ۱۸ اگست ۱۹۳۱ء میں پوٹریا ضلع جون پور میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام مولانا حکیم عبد السلام ہے۔ ابتدائی تعلیم مدرسہ بیت العلوم سرانے میر میں حاصل کی۔ ۱۳۷۰ھ / ۱۹۵۱ء میں مظاہر علوم سہارن پور میں داخلہ لیا اور ۱۳۷۳ھ / ۱۹۵۴ء میں صحاح ستہ پڑھ کر فارغ التحصیل ہوئے۔ اگلے سال فنون کی کتابیں بھی پڑھیں۔

شوال ۱۳۷۴ھ / جون ۱۹۵۵ء میں آپ جامع العلوم کان پور میں مدرس مقرر ہوئے اور اب تک کان پور ہی میں قیام ہے۔ جامع العلوم کان پور سے وابستہ رہ کر درس و تدریس اور وعظ و افتاء کے ذریعہ اہم خدمات انجام دیں۔ جامع العلوم میں حضرت مفتی محمود حسن گنگوہیؒ کے بعد افتاء اور نظامت کی ذمہ داری آپ کو سپرد کی گئی۔ کان پور میں نصف صدی سے زائد عرصہ تک آپ نے ابتدائی عربی کتب سے لے کر بخاری و مسلم اور دیگر کتب حدیث بھی پڑھائیں۔ آپ کی علمی و فقہی خدمات نے جامع العلوم کان پور کو بڑا استحکام اور وقار بخشا اور ہزاروں طلبہ فیض یاب ہوئے۔ کان پور میں آپ نے نصف صدی سے زائد مدت تک مختلف اہم علمی و دینی اور سیاسی و سماجی خدمات انجام دیں۔ حضرت مولانا محمد احمد پرتاب گڑھی سے اجازت و خلافت حاصل تھی۔

۱۴۰۵ھ / ۱۹۸۵ء میں دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے رکن منتخب ہوئے اور تا حیات اس عہدہ پر فائز رہے۔ جب تک صحت رہی بڑی پابندی کے ساتھ اجلاسات میں شریک ہوتے تھے اور اپنے صاحب مشوروں اور مضبوط رائے کے ذریعہ ہر موڑ پر دارالعلوم کے استحکام و ترقی میں مدد و معاون رہے۔ مظاہر علوم کی مجلس شوریٰ کے بھی

رکن تھے۔ نیز ایک عرصہ تک جمعیتہ علمائے ہند کی قومی مجلس عاملہ کے ممبر رہے۔
طویل علالت کے بعد ۵ ربیع الاول ۱۴۳۱ھ مطابق ۴ نومبر ۲۰۱۹ء بروز یکشنبہ کان پور میں انتقال ہوا اور وہیں مدفون ہوئے۔

حضرت مولانا محمد یعقوب مدراسیؒ

تمل ناڈو کے نمایاں اور فعال علماء میں تھے۔ دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے رکن تھے۔
مولانا محمد یعقوب صاحب بن جناب محمد اسماعیل صاحب میل و شارم تمل ناڈو کے رہنے والے تھے۔
۲۷ رجب ۱۳۵۳ھ / ۲۱ نومبر ۱۹۳۴ء میں پیدا ہوئے۔ پہلے اپنے وطن میں تعلیم پائی اور عربی کی ابتدائی تعلیم جامعہ الباقیات الصالحات ویلور میں حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے اور کئی سال زیر تعلیم رہ کر ۱۳۷۹ھ / ۱۹۵۹ء میں فارغ التحصیل ہوئے۔

فراغت کے بعد سبیل الرشاد بنگلور، مظاہر علوم سلیم، جامعۃ الباقیات الصالحات، مدرسہ حسینیہ کایم کولام کیرالہ وغیرہ میں تدریسی و انتظامی خدمات انجام دیں۔ ۱۴۰۵ھ / ۱۹۸۵ء سے تاحیات مدرسہ کاشف الہدیٰ مدراس (چنئی) میں مدرس رہے جہاں آخر میں صدر مدرس کے طور پر خدمات انجام دیں۔

۱۴۰۶ھ / ۱۹۸۶ء میں دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے رکن منتخب ہوئے۔ اس کے علاوہ تمل ناڈو کے امیر شریعت اور صوبائی مجلس تحفظ ختم نبوت و مجلس تحفظ شریعت کے صدر رہے۔ ریاست کے مختلف مدارس کے سرپرست تھے اور فرق باطلہ کی تردید اور مسلک حق کی اشاعت میں سرگرمی سے حصہ لیتے تھے۔

آپ نے بانی الباقیات الصالحات حضرت مولانا عبدالوہاب ویلوری کے فتاویٰ کی ترتیب و تبویب بھی انجام دی۔ آپ کے خطبات کا مجموعہ 'خطبات و شارم' کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ نہایت تقویٰ شعرا اور فعال شخصیت کے مالک تھے۔ تمل ناڈو میں دینی و روحانی، سماجی و معاشرتی اصلاح اور خدمت خلق کے حوالے سے اہم خدمات انجام دیں۔

۳۱ فروری ۲۰۱۹ء مطابق ۲۷ جمادی الاولیٰ ۱۴۴۰ھ بروز یکشنبہ چنئی میں انتقال ہوا اور آبائی وطن میل و شارم میں مدفون ہوئے۔

حضرت مولانا ازہر نعمانیؒ

دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے رکن، جامعہ حسینیہ رانچی کے مہتمم اور شیخ الاسلام حضرت مدنی کے خلیفہ تھے۔
آپ کے والد مولانا شرف الدین صاحب مدرسہ محمود العلوم دملہ ضلع مدھوبنی (بہار) کے بانی تھے۔ اپنے وطن رتھوس، وایا کھول، ضلع مدھوبنی (بہار) میں ۷ جولائی ۱۹۲۴ء کو پیدا ہوئے۔ عربی تعلیم مدرسہ محمود العلوم دملہ مدھوبنی

اور مدرسہ مفتاح العلوم مؤ میں حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے ۱۹۵۰ء میں دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے اور ۱۹۵۳ء میں فارغ ہوئے۔

دارالعلوم سے فراغت کے بعد شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی کی خدمت میں سفر و حضر میں ساتھ رہے اور خلافت سے بھی سرفراز ہوئے۔ ۱۹۵۸ء میں مدرسہ حسینہ رانچی کی بنیاد ڈالی اور تاحیات اس کے مہتمم رہے۔ قیام مدرسہ کے ساتھ علاقے میں سو سے زیادہ مکاتب قائم کیے جن میں سے بیشتر اب مدرسہ میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ ۱۴۱۳ھ/۱۹۹۲ء میں دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے رکن منتخب ہوئے۔ جمعیتہ علمائے ہند سے وابستہ رہے اور اس کی مجلس عاملہ کے رکن اور نائب صدر بھی منتخب کیے گئے۔

۱۶ شعبان ۱۴۳۸ھ/مطابق ۱۳ مئی ۲۰۱۷ء کو رانچی میں انتقال ہوا۔

حضرت مولانا بدرالدین اجمل قاسمی

صدر جمعیتہ علمائے آسام، صدر مرکز المعارف، اے آئی یو ڈی ایف پارٹی کے چیرمین، لوک سبھا کے ایم پی اور دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے رکن ہیں۔

مولانا بدرالدین اجمل قاسمی بن جناب حاجی اجمل علی، ہو جائی ضلع نوگاؤں آسام کے رہنے والے ہیں۔ ۱۲ فروری ۱۹۵۵ء میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی اسکولی تعلیم آسام اور بمبئی (موجودہ ممبئی) میں حاصل کی۔ عربی کی تعلیم مدرسہ امدادیہ بمبئی میں حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے اور ۱۹۷۵ء میں فراغت حاصل کی۔

آپ ایک ممتاز عالم دین ہونے کے ساتھ کامیاب صنعتکار، تاجر، سیاست داں اور ایک ممتاز سماجی کارکن بھی ہیں۔ متعدد اہم مدارس، اسلامی تنظیموں اور اداروں کے سرپرست اور صدر ہیں۔

آپ نے ۱۹۸۲ء میں مشہور این جی او مرکز المعارف کی بنیاد ڈالی جس کے تحت اسکول، یتیم خانے اور ہسپتال کے علاوہ دیگر سیکڑوں سماجی، تعلیمی اور معاشی ترقیاتی سرگرمیاں انجام پارہی ہیں۔ آپ مرکز المعارف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر، ممبئی کے بھی چیرمین ہیں جو اپنی نوعیت کا مشہور اور منفرد ادارہ ہے جو علماء کو انگریزی زبان و ادب کے ساتھ جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کراتا ہے۔ اسی ادارہ کے سیکڑوں فضلاء آج ملک اور بیرون ملک مختلف میدانوں خاص کر انگریزی زبان میں دین اسلام اور ملک و ملت کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔

ایک عرصہ سے آپ جمعیتہ علماء ہند کی مجلس عاملہ کے رکن ہیں اور متعدد ڈٹرم سے جمعیتہ علمائے آسام کے صدر منتخب ہوئے ہیں۔ اسی طرح آپ تنظیم مدارس قومیہ آسام کے صدر بھی ہیں جو کہ پورے آسام میں پھیلے ہوئے ۴۰۰ سے زائد مدارس کا متحدہ پلیٹ فارم ہے۔

۱۴۱۳ھ/۱۹۹۲ء میں آپ کو دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کا رکن منتخب کیا گیا۔ دارالعلوم کے شعبہ انگریزی اور

شعبہ انٹرنیٹ و آن لائن فتویٰ کی نگرانی کے ساتھ مجلس شوریٰ نے آپ کو شیخ الہند اکیڈمی کا ڈائریکٹر بھی مقرر کیا ہے۔
آسام میں اقلیتوں، پسماندہ اور حقوق سے محروم طبقات کو ان کا حق دلانے کے لیے آپ نے ۲۰۰۶ء میں
آل انڈیا یونائیٹڈ میموکریٹک فرنٹ (AIUDF) کی بنیاد ڈالی۔ اس پارٹی نے پہلے اسمبلی انتخابات اور پھر لوک سبھا
انتخابات میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ ۲۰۰۹ء اور ۲۰۱۵ء کے عام انتخابات میں آپ ڈھوبڑی سے لوک سبھا
ایم پی منتخب ہوئے۔

حضرت مولانا نظام الدین پٹنوی

دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے رکن، مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سکریٹری اور امارت شرعیہ بہار جھارکھنڈ و
اڑیسہ کے امیر شریعت تھے۔

۳۱ مارچ ۱۹۲۷ء کو گیا میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد مولانا قاضی سید حسین صاحب حضرت علامہ انور شاہ
کشمیری کے شاگرد تھے۔ ابتدائی تعلیم وطن میں حاصل کی اور پھر مدرسہ امدادیہ درجنگہ میں داخل ہوئے۔ ۱۹۴۲ء میں
دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا اور ۱۹۴۶ء میں سند فراغت حاصل کی۔

فراغت کے بعد ریاض العلوم ساٹھی چمپارن میں تدریس سے وابستہ ہو گئے اور ۱۹۶۲ء تک بہ طور صدر مدرس
خدمات انجام دیں۔ ۱۹۶۵ء میں آپ کو امارت شرعیہ بہار و اڑیسہ کا ناظم بنایا گیا اور ۱۹۹۸ء میں آپ کو امیر شریعت
منتخب کیا گیا۔ وہ ایک صاحب بصیرت عالم دین، سنجیدہ مقرر اور خوش تدبیر قائد تھے۔
۱۴۱۹ھ / ۱۹۹۸ء میں دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے رکن منتخب کیے گئے۔

آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ساتھ آپ کو ہمیشہ گہری وابستگی رہی۔ حضرت مولانا منت اللہ رحمانی کے بعد
مئی ۱۹۹۱ء میں آپ کو جنرل سکریٹری بنایا گیا جس پر آپ تاحیات قائم رہے اور بورڈ کو ترقی و کامیابی سے ہمکنار
کرنے کے لیے اپنی صلاحیتیں وقف کر دیں۔ اس کے علاوہ ندوۃ العلماء، اسلامک فقہ اکیڈمی اور دیگر اہم اداروں
سے بھی وابستہ رہے۔

۱۷ اکتوبر ۲۰۱۵ء کو پٹنہ میں انتقال ہوا۔

حضرت مولانا عبد العظیم فاروقی

مشہور خطیب، دارالمبلغین لکھنؤ کے صدر، جمعیتہ علمائے ہند کے جنرل سکریٹری اور دارالعلوم دیوبند کی مجلس
شوریٰ کے رکن ہیں۔

آپ امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور فاروقی لکھنوی کے پوتے اور حضرت مولانا عبدالسلام فاروقی کے
صاحب زادے ہیں۔ ۱۳۶۷ھ / ۱۹۴۸ء سال پیدائش ہے۔ ابتدائی تعلیم لکھنؤ میں حاصل کی۔ عربی درجات کی تعلیم

جامعہ حسینہ محمدی لکھنؤ پور میں حاصل کی۔ پھر دارالعلوم دیوبند آگئے اور یہیں سے ۱۹۶۹ء میں فراغت حاصل کی۔ رافضیت و شیعیت کے موضوع پر اختصاص رکھتے ہیں۔ لکھنؤ جیسے شہر میں دارالمبلغین کے پلیٹ فارم سے دین اسلام اور مسلک حقہ کی حفاظت اور اشاعت کے سلسلہ میں بہترین خدمات انجام دے رہے ہیں۔

۱۴۱۹ھ/۱۹۹۸ء میں دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے رکن منتخب کیے گئے۔

جمعیتہ علمائے ہند کے ممتاز قائدین میں ہیں۔ اپریل ۱۹۹۵ء سے کچھ برسوں تک جنرل سکریٹری رہے۔ ۲۰۰۸ء میں دوبارہ جنرل سکریٹری بنائے گئے۔

حضرت مولانا سید خلیل حسین دیوبندیؒ

دیوبند کے خاندان سادات کے ممتاز عالم دین اور بزرگ تھے۔ آپ کے جد امجد حضرت مولانا سید اصغر حسین دیوبندیؒ دیوبند کے مشہور عالم اور بزرگ تھے۔

جمادی الثانیہ ۱۳۳۷ھ/۱۹۲۹ء میں پیدا ہوئے۔ تعلیم دارالعلوم دیوبند میں حاصل کی اور ۱۳۶۹ھ/۱۹۵۰ء میں فارغ التحصیل ہوئے۔

جماعت تبلیغ سے وابستہ رہے اور ملک و بیرون ملک دور دراز کے اسفار کیے۔ سلوک و احسان کا سلسلہ ان کے خاندان میں تھا، تاہم اس سلسلہ میں حضرت تھانویؒ، حضرت مدنیؒ وغیرہ سے بھی مکمل وابستگی رکھتے تھے اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندھلویؒ کی خلافت سے بھی سرفراز ہوئے۔ مدرسہ اصغریہ دیوبند کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کیا اور بہ طور مہتمم اس کی ذمہ داریاں انجام دیں۔ ۱۴۲۸ھ/۲۰۰۷ء سے دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے رکن رہے۔

آپ نے بیعت و ارشاد اور تبلیغ و دعوت کے علاوہ تصنیفی یادگار بھی چھوڑیں جن میں 'الانصاف فی حدود الاختلاف' اور حضرت مدنیؒ کی تقریر ترمذی المسک الذی علی جامع الترمذی شامل ہے۔ ثانی الذکر کتاب ابھی شائع نہیں ہوئی ہے۔

۱۵ رمضان ۱۴۳۴ھ/۲۵ جولائی ۲۰۱۳ء کو دیوبند میں انتقال ہوا۔

حضرت مولانا محمد طلحہ کاندھلویؒ

مظاہر علوم سہارن پور کے سرپرست اور دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے رکن تھے۔

آپ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلویؒ کے صاحب زادے ہیں۔ ۲ جمادی الاولیٰ ۱۳۶۰ھ/۲۸ مئی ۱۹۴۱ء کو نظام الدین دہلی میں پیدا ہوئے۔ مدرسہ کاشف العلوم ہستی حضرت نظام الدین دہلی اور مظاہر علوم میں تعلیم حاصل کی اور فراغت مدرسہ کاشف العلوم سے ۱۳۸۳ھ/۱۹۶۳ء میں ہوئی جہاں حضرت مولانا محمد یوسف

صاحب امیر تبلیغ، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب وغیرہ حدیث کی اعلیٰ کتابیں پڑھاتے تھے۔
حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری سے بیعت ہوئے اور اجازت و خلافت حضرت شیخ الحدیث نے عطا فرمائی۔
۱۴۰۲ھ/۱۹۸۲ء میں مظاہر علوم سہارن پور کے رکن شوریٰ و سرپرست منتخب کیے گئے۔ ۱۴۰۸ھ/۱۹۸۸ء میں
جامعہ مظاہر علوم کے امین عام کا عہدہ شروع ہونے کی بعد آپ پہلے امین عام (جنرل سکرٹری) مقرر ہوئے اور
اس منصب پر ۱۴۱۳ھ/۱۹۹۳ء تک فائز رہے۔

۱۴۲۸ھ/۲۰۰۷ء میں دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے رکن منتخب کیے گئے۔ اس کے علاوہ آپ بہت سے
اہم مدارس و معابد کے سرپرست اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کے شیخ و مرشد رہے۔
کیم ذوالحجہ ۱۴۲۰ھ/۱۲ اگست ۲۰۱۹ء کو انتقال ہوا اور سہارن پور میں دفن کیے گئے۔

حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی

دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے ناظم، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر اور دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ
کے رکن ہیں۔

تکلیف کلاں رائے بریلی میں کیم اکتوبر ۱۹۲۹ء کو پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم وطن میں حاصل کی، اعلیٰ تعلیم کے لیے
دارالعلوم ندوۃ العلماء میں داخل ہوئے اور ۱۹۴۸ء میں سند فضیلت حاصل کی۔ اس دوران ۱۹۴۷ء میں ایک سال
دارالعلوم دیوبند میں بھی قیام رہا۔

تعلیم مکمل کرنے کے بعد ندوۃ العلماء میں معاون مدرس مقرر ہوئے۔ پھر دعوت و تعلیم کے لیے ۵۱-۱۹۵۰ء
میں سعودی عرب قیام رہا۔ ۱۹۵۵ء میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کے کلیۃ اللغۃ العربیۃ کے وکیل اور ۱۹۷۰ء میں عمید
منتخب کیے گئے۔ ۱۹۹۳ء میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کے مہتمم اور حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی کے انتقال کے بعد
۲۰۰۰ء میں ناظم ندوۃ العلماء بنائے گئے۔ ۲۰۰۲ء میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سابق صدر قاضی مجاہد الاسلام
قاسمی کے انتقال کے بعد متفقہ طور پر اس کے صدر منتخب کیے گئے۔

۱۴۲۸ھ/۲۰۰۷ء سے دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے رکن ہیں۔

آپ عربی و اردو کے ایک کامیاب مصنف بھی ہیں۔ اب تک دو درجن سے زائد کتابیں معرض وجود میں
آچکی ہیں جن میں پندرہ عربی زبان میں اور بارہ اردو زبان میں ہیں جن میں جزیرۃ العرب، الادب العربی بین
عرض و نقد، رہبر انسانیت وغیرہ قابل ذکر ہیں۔

حضرت مولانا محمد اسماعیل مالیرگانوی

دارالعلوم محمدیہ مالیرگانوں کے شیخ الحدیث اور دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے رکن ہیں۔

مولانا محمد اسماعیل بن مولانا عبدالخالق ۳ اگست ۱۹۶۲ء کو مالیگاؤں ضلع ناسک (مہاراشٹر) میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم وطن میں اور عربی تعلیم مدرسہ تعلیم الدین ڈابھیل ضلع سورت گجرات میں حاصل کی۔ پھر دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے اور ۱۴۰۵ھ/۱۹۸۵ء میں دورہ حدیث کی تکمیل کی۔ ۱۴۰۶ھ/۱۹۸۶ء تکمیل افتاء میں داخل رہے۔ فراغت کے بعد دارالعلوم محمدیہ مالیگاؤں میں تدریسی خدمات کا آغاز کیا اور ترقی کرتے ہوئے شیخ الحدیث کے منصب پر فائز ہوئے۔ شہر مالیگاؤں کی جامع مسجد اور عید گاہ کی امامت و خطابت کا عہدہ بھی آپ سے متعلق ہے۔ مراٹھواڑہ میں مسلمانوں کی دینی و تعلیمی اور سیاسی و سماجی مسائل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ ۲۰۰۹ء کے مہاراشٹر اسمبلی الیکشن میں مالیگاؤں حلقہ انتخاب سے ایم ایل اے بھی منتخب ہوئے۔

۱۴۲۸ھ/۲۰۰۷ء میں دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے رکن منتخب کیے گئے۔ دارالعلوم کی مجلس عاملہ کے رکن بھی ہیں اور پوری دل چسپی اور انہماک سے شرکت کرتے ہیں۔

حضرت مولانا محمد اشتیاق مظفر پوری

صوبہ بہار کے ممتاز علماء میں ہیں اور دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے رکن ہیں۔ آپ کا وطن موضع مبارک پور، سمری بختیار پور ضلع سہرسہ (بہار) ہے۔ آپ کے والد مولانا حصیر الدین دارالعلوم دیوبند کے قدیم فضلاء میں سے تھے۔ ۱۳۶۰ھ/۳ دسمبر ۱۹۴۱ء کو بھاگل پور میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم والد محترم سے حاصل کی اور عربی تعلیم کے لیے شوال ۱۳۷۲ھ/ جولائی ۱۹۵۳ء میں مفتاح العلوم منوآ گئے۔ شوال ۱۳۷۶ھ/ مئی ۱۹۵۷ء میں دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے اور چار سال تک زیر تعلیم رہ کر ۱۳۸۰ھ مطابق ۱۹۶۱ء میں فراغت حاصل کی۔

فراغت کے بعد دہلی اور مدرسہ رحمانیہ سپول میں کچھ برسوں تک تدریسی خدمات انجام دیں۔ پھر ذوالحجہ ۱۳۸۵ھ/ مارچ ۱۹۶۶ء میں مدرسہ اسلامیہ جامع العلوم چندوارہ ضلع مظفر پور میں تقرر ہوا اور اس وقت سے اب تک وہیں مختلف اعلیٰ تدریسی اور انتظامی امور کی انجام دہی میں مصروف ہیں۔

۱۴۲۸ھ/۲۰۰۷ء میں دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے رکن منتخب کیے گئے۔

حضرت مولانا ملک محمد ابراہیم مدراسی

دارالعلوم دیوبند کے رکن شوریٰ ہیں۔

مولانا نام ملک محمد ابراہیم بن حاجی ملک محمد ہاشم میل و شارم ضلع شمالی آرکات (تمل ناڈو) کے رہنے والے ہیں۔ ۲۴ رذوالقعدہ ۱۳۸۸ھ/ ۷ دسمبر ۱۹۶۹ء کو پیدا ہوئے۔ مدرسہ مفتاح العلوم میل و شارم میں حفظ کیا اور مدرسہ رفیق العلوم آمبور میں موقوف علیہ تک کی تعلیم حاصل کی۔ ۱۴۰۹ھ/۱۹۸۹ء میں دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے

اور ۱۴۱۱ھ/۱۹۹۱ء میں فارغ التحصیل ہوئے۔

چمڑے کے بڑے تاجر ہونے کے ساتھ ساتھ علاقہ کی دینی و علمی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں۔
۱۴۲۸ھ/۲۰۰۷ء میں دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے رکن منتخب کیے گئے۔ دارالعلوم کی مجلس عاملہ کے رکن بھی ہیں اور پوری دل چسپی اور انہماک سے شرکت کرتے ہیں۔

حضرت حکیم محمد کلیم اللہ علی گڈھی

دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے رکن، مجلس دعوت الحق ہردوئی کے ناظم اعلیٰ اور مظاہر علوم سہارن پور کی مجلس شوریٰ کے رکن ہیں۔

حکیم محمد کلیم اللہ بن حضرت حکیم افہام اللہ علی گڈھی انہونہ ضلع رائے بریلی کے رہنے والے ہیں۔ کھجور گاؤں ضلع رائے بریلی میں ۳ جولائی ۱۹۴۴ء کو پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم وطن میں حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کی تحصیل علی گڈھی مسلم یونیورسٹی میں کی۔

آپ اپنے خاندانی پیشہ طبابت سے وابستہ ہیں اور طب یونانی کے مشہور اور حاذق طبیبوں میں شمار ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق ہردوئی کے انتقال کے بعد آپ کو مجلس دعوت الحق اور مدرسہ اشرف المدارس ہردوئی کا ناظم اعلیٰ بنایا گیا۔

۱۴۳۳ھ/۲۰۱۲ء میں دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے رکن منتخب کیے گئے۔

حضرت مولانا مفتی احمد خان پوری

جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابھیل (گجرات) کے شیخ الحدیث اور صدر مفتی ہیں اور ہندوستان کے موقر علماء میں شمار ہوتے ہیں۔

مولانا مفتی احمد غنشی بن جناب محمد صاحب ڈابھیل ۲۴ ستمبر ۱۹۴۶ء مطابق ۲۷ ذوالقعدہ ۱۳۶۵ھ کو پیدا ہوئے۔ عربی کی اعلیٰ تعلیم گجرات کی قدیم دینی درس گاہ دارالعلوم اشرفیہ راندر ضلع سورت میں حاصل کی اور ۱۳۸۶ھ/۱۹۶۶ء میں وہاں سے فارغ ہوئے۔ اس کے بعد دارالعلوم دیوبند میں دو سال مختلف علوم و فنون کی کتابیں پڑھیں اور افتاء کا کورس مکمل کیا۔

تعلیم سے فراغت کے بعد جامعہ اسلامیہ ڈابھیل کو دینی خدمات کا مستقر بنایا اور ۱۳۸۸ھ/۱۹۶۸ء سے اب تک علوم عربیہ، حدیث و تفسیر اور فقہ و فتاویٰ کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ متعدد کتب حدیث کی تدریس کے علاوہ، ۱۴۰۵ھ/۱۹۸۵ء سے بخاری شریف کا درس آپ سے متعلق ہے۔

آپ ماہر و جید مفتی ہیں، آپ نے ہزاروں فتاویٰ لکھے، آپ کے اردو اور گجراتی فتاویٰ کا مجموعہ چھ جلدوں میں

شائع ہو چکا ہے۔

۱۳۳۳ھ/۲۰۱۲ء میں دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے رکن منتخب کیے گئے۔ اس کے علاوہ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا کے رکن ہیں۔
شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلویؒ سے اصلاحی تعلق تھا۔ بعد میں حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہیؒ سے اصلاح و تربیت حاصل کی اور انہی سے اجازت و خلافت حاصل ہوئی۔

حضرت مولانا محمد رحمت اللہ کشمیری

دارالعلوم رحیمہ بانڈی پورہ کشمیر کے بانی و مہتمم ہیں۔

محمد رحمت اللہ میر بن جناب محمد سیف اللہ میر اپنے وطن بانڈی پورہ (کشمیر) میں ۲۲ جولائی ۱۹۵۷ء / ۲۴ رذوالحجہ ۱۳۷۶ھ کو پیدا ہوئے۔ ابتداءً اسکول کی تعلیم حاصل کی اور پھر ۱۹۷۰ء میں مدرسہ شمس العلوم ٹنڈھیرہ ضلع مظفرنگر میں ابتدائی حفظ اور ابتدائی عربی کی تعلیم حاصل۔ ۱۹۷۵ء / ۱۳۹۴ھ میں دارالعلوم دیوبند میں عربی پنجم میں داخل ہوئے اور ۱۳۹۸ھ / ۱۹۷۸ء میں دورہ حدیث کی تکمیل کی۔

حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہیؒ سے خصوصی تعلق تھا اور سلوک و تصوف کی تکمیل انہی کے پاس کی اور خلافت سے نوازے گئے۔

۱۳۹۹ھ / ۱۹۷۹ء میں اپنے وطن بانڈی پورہ میں دارالعلوم رحیمہ کے نام سے ادارہ قائم کیا جو اس وقت کشمیر کے نمایاں مدارس میں شمار ہوتا ہے اور دورہ حدیث تک کی تعلیم دیتا ہے۔

۱۳۳۳ھ/۲۰۱۲ء میں دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے رکن منتخب کیے گئے۔ جموں و کشمیر رابطہ مدارس اسلامیہ کے صدر اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن بھی ہیں۔ کشمیر میں عام مسلمانوں کے عقیدہ و عمل کی اصلاح اور مسلمان بچوں کی تعلیم کے تئیں اہم خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں آپ نے ایک درجن سے زائد کتب و رسائل بھی تیار کیے ہیں جو اردو کے علاوہ مقامی زبانوں میں شائع ہوئے ہیں۔ علاوہ ازیں مدرسہ رحیمہ بانڈی پورہ کی جانب سے تیس برسوں سے شائع ہونے والے ماہنامہ النور (اردو) کے مدیر ہیں۔ یہ رسالہ اب انگریزی میں بھی شائع ہو رہا ہے۔

حضرت مولانا انوار الرحمن بجنوری

قاضی پاڑہ شہر بجنور کے رہنے والے ہیں۔ حضرت مولانا مرغوب الرحمن بجنوری سابق مہتمم دارالعلوم دیوبند کے فرزند ہیں۔

۱۴ اپریل ۱۹۵۷ء میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے وطن میں حاصل کی۔ عربی تعلیم کے لیے مدرسہ شاہی

مراد آباد گئے۔ ۱۳۹۴ھ/۱۹۷۴ء میں دارالعلوم دیوبند عربی ہفتم میں داخل ہوئے اور ۱۳۹۵ھ/۱۹۷۵ء میں فراغت پائی۔ دورہ حدیث سے فراغت کے بعد تکمیل ادب عربی اور تخصص فی الادب العربی کے کورسز کی بھی تکمیل کی۔ ۱۴۳۳ھ/۲۰۱۲ء میں دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے رکن منتخب کیے گئے۔ بعد میں اس کی مجلس عاملہ کے رکن بھی منتخب کیے گئے۔ مجلس شوریٰ و عاملہ کے اجلاس میں پابندی سے شرکت کرتے ہیں اور دارالعلوم کی خدمت اور فلاح و بہبود میں پیش پیش رہتے ہیں۔

حضرت مولانا اسرار الحق قاسمیؒ

مشہور عالم دین، ملی و سیاسی رہ نما اور رکن پارلیمنٹ تھے۔ موضع ٹپو، تارا باڑی ضلع کشن گنج (بہار) کے رہنے والے تھے۔ ۱۹۴۲ء میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم علاقہ کے مدارس میں حاصل کرنے کے بعد دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے اور ۱۳۸۴ھ/۱۹۶۴ء میں دورہ حدیث شریف پڑھ کر فارغ ہوئے۔

فراغت کے بعد جمعیتہ علمائے ہند سے وابستہ ہو گئے اور سیاسی و ملی میدانوں میں فعالیت و خلوص و محنت کی وجہ سے انھیں ۱۹۸۱ء میں جمعیتہ علمائے ہند کے جنرل سکرٹری کے موقر عہدہ پر فائز کیا گیا جس پر ۱۹۹۱ء تک متمکن رہے۔ اس کے بعد آپ نے پسماندہ علاقوں میں تعلیمی و سماجی خدمات انجام دینے کے مقصد سے آل انڈیا تعلیمی و ملی فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی اور اس کے تحت بہار کے ضلع کشن گنج وغیرہ میں سیکڑوں مکاتب، متعدد اسکول وغیرہ قائم کیے۔ آپ پارلیمانی حلقہ کشن گنج سے عام انتخابات ۲۰۰۹ء اور ۲۰۱۴ء میں انڈین نیشنل کانگریس پارٹی کے ٹکٹ سے کامیاب ہوئے۔ آپ کی جدوجہد سے کشن گنج میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شاخ، اگر پیکچر کالج، آئی ٹی کالج اور متعدد ہائی اسکولوں کا قیام بھی عمل میں آیا۔ تعلیمی، سیاسی اور سماجی ذمہ داریوں کے ساتھ آپ حالات حاضرہ پر سنجیدہ اور مفکرانہ مضامین بھی لکھتے تھے جو ملک کے مشہور اخبارات و رسائل میں شائع ہوتے تھے۔

صفر ۱۴۳۹ھ کی مجلس شوریٰ میں آپ کو دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کا رکن منتخب کیا گیا۔

۷ دسمبر ۲۰۱۸ء مطابق ۲۸ ربیع الاول ۱۴۴۰ھ جمعہ کو آبائی وطن میں انتقال ہوا۔

حضرت مولانا محمود حسن راجستھانی

جامعہ برکات الاسلام کھیروارا راجستھان کے مہتمم اور دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے رکن ہیں۔ مولانا محمود حسن قاسمی ابن حاجی عبدالجید خان اپنے وطن کھیروارا، تحصیل کچھمن گڑھ ضلع سیکر صوبہ راجستھان میں ۲۷ اپریل ۱۹۶۳ء/۳ ذوالحجہ ۱۳۸۲ھ کو پیدا ہوئے۔

ابتدائی تعلیم مدرسہ تعلیم الاسلام کھیروارا، مدرسہ تجوید القرآن دہلی اور مدرسہ اصغر یہ دیوبند میں حاصل کی۔ عربی

کی تعلیم کے لیے ۱۴۰۲ھ میں جامعہ عربیہ خادم الاسلام ہاپوڑ میں داخل ہوئے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے ۱۴۰۸ھ/۱۹۸۲ء میں دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے اور اگلے سال ۱۴۰۹ھ/۱۹۸۹ء میں حضرت مفتی محمود حسن گنگوہیؒ اور حضرت مولانا نصیر احمد خان بلند شہریؒ وغیرہ اساتذہ سے پڑھ کر فارغ التحصیل ہوئے۔

فراغت کے بعد تدریسی مشغلہ اختیار کیا اور ۱۹۹۲ء میں جامعہ برکات الاسلام کھروا کے مہتمم بنائے گئے۔ یہ راجستھان کانمایاں اور بڑا مدرسہ ہے جہاں موقوف علیہ تک کی تعلیم کا نظم ہے۔ آپ نہایت فعال اور محترم شخصیت کے مالک ہیں۔

صفر ۱۴۳۹ھ کی مجلس شوریٰ میں آپ کو دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کا رکن منتخب کیا گیا۔

حضرت مولانا عبدالصمد کالیکا پوری

جامعہ دارالعلوم کالیکا پور کے بانی و مہتمم اور دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے رکن ہیں۔

مولانا عبدالصمد صاحب موضح کالیکا پور ضلع چوہیس پرگنہ، صوبہ مغربی بنگال کے رہنے والے ہیں۔ یکم جنوری ۱۹۵۹ء میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم جامعہ اسلامیہ مالتی پور بشیر ہاٹ ضلع چوہیس پرگنہ میں حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے مظاہر علوم سہارن پور آگئے جہاں سے ۱۹۸۲ء میں فارغ التحصیل ہوئے۔

فراغت کے بعد ۱۹۸۳ء سے جامعہ اسلامیہ مالتی پور میں چار سال تک تدریسی خدمات انجام دیں۔ ۱۹۸۷ء میں جامعہ اسلامیہ دارالعلوم کالیکا پور قائم کیا جس میں ۲۰۰۹ء سے دورہ حدیث کا درجہ جاری ہوا اور اس میں اس وقت مجموعی طور پر چودہ سو سے زائد طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ ۲۰۱۰ء میں ملت گرلس اسکول کی بنیاد ڈالی۔ علاوہ ازیں ۲۰۰۳ء میں طاہریہ اسپتال کا آغاز کیا جہاں پسماندہ علاقے کے لوگوں کی علاج و معالجہ کی بہترین خدمات میسر ہیں۔ مغربی بنگال کے مختلف اضلاع میں دیہی علاقوں میں صباچی و مسائی مکاتب کے ساتھ تعلیم بالغان و مستورات کے لیے مکاتب قائم کیے۔

صفر ۱۴۳۹ھ کی مجلس شوریٰ میں آپ کو دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کا رکن منتخب کیا گیا۔

حضرت مولانا نظام الدین خاموش

دارالعلوم چھاپی کے مہتمم اور دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے رکن ہیں۔

حضرت مولانا نظام الدین خاموش دارالعلوم دیوبند کے سابق کارگزار مہتمم حضرت مولانا غلام رسول خاموش کے صاحبزادے ہیں۔ اپنے وطن میتاؤڈ گام ضلع بناس کانٹھا میں ۷ اگست ۱۹۶۷ء کو پیدا ہوئے۔ عربی کی ابتدائی تعلیم مدرسہ جامعہ نذیریہ کاوسی ضلع پٹن میں حاصل کی اور دارالعلوم چھاپی سے ۱۹۸۵ء میں فراغت حاصل کی۔ فراغت کے بعد مدرسہ حنفیہ مرغاگرین میں ۲۲ سال تک تدریسی خدمات انجام دیں۔ والد محترم حضرت

مولانا غلام رسول خاموشؒ سابق مہتمم دارالعلوم چھاپی کے ۲۰۱۰ء میں انتقال کے بعد آپ کو دارالعلوم چھاپی کا مہتمم مقرر کیا گیا۔ علاوہ ازیں، دیگر متعدد مدارس و مکاتب آپ کی سرپرستی میں چل رہے ہیں۔
 صفر ۱۴۳۹ھ کی مجلس شوریٰ میں آپ کو دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کا رکن منتخب کیا گیا۔

حضرت مولانا سید انظر حسین میاں دیوبندی

مدرسہ اصغریہ دیوبند کے ناظم تعلیمات اور دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے رکن ہیں۔
 دیوبند کے مشہور خاندان سادات کے فرد ہیں۔ حضرت مولانا سید اصغر حسین میاں دیوبندی کے پوتے اور سابق استاذ و ناظم تعلیمات حضرت مولانا میاں اختر حسین دیوبندی کے صاحب زادے ہیں۔ ۲۱ جون ۱۹۴۶ء کو پیدا ہوئے۔ ۱۳۷۲ھ سے ۱۳۸۰ھ تک دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کی۔ پھر مدرسہ عالیہ فتح پوری دہلی میں داخل ہوئے اور ۱۳۸۳ھ/۱۹۶۳ء میں قاضی سجاد حسین صاحب وغیرہ اساتذہ سے پڑھ کر فارغ التحصیل ہوئے۔
 ۱۹۶۷ء میں مدرسہ اصغریہ دیوبند میں تدریس و انتظام کی ذمہ داری سنبھالی اور اب تک یہ سلسلہ جاری ہے۔
 ۱۹۹۴ء سے ناظم تعلیمات ہیں۔ ۲۰۰۸ء میں اختر المدارس کے نام سے دیوبند میں ایک مدرسہ بھی قائم کیا۔ بہت سے مقامی اور بیرونی مدارس کے سرپرستی فرماتے ہیں۔
 صفر ۱۴۳۹ھ کی مجلس شوریٰ میں آپ کو دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کا رکن منتخب کیا گیا۔

نوٹ: ۱۴۴۰ھ تک کے اراکین مجلس شوریٰ کے حالات شامل کتاب ہیں۔

موجودہ دور کے مشاہیر اساتذہ و مشائخ

حضرت مولانا محمد حسین بہاریؒ

دارالعلوم دیوبند کے درجہ علیا کے مشہور استاذ تھے۔

۱۳۲۱ھ/۱۹۰۳ء میں ضلع سیتامڑھی بہار میں پیدا ہوئے۔ مکتبی تعلیم وطن میں ہوئی۔ فارسی عربی کی تعلیم مدرسہ اسلامیہ ڈھا کہ ضلع چمپارن میں حاصل کی۔ پھر دارالعلوم منو وغیرہ مدارس میں تعلیم پانے کے بعد ۱۳۳۶ھ/۱۹۲۸ء دارالعلوم دیوبند میں شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی سے دورہ حدیث پڑھ کر فارغ التحصیل ہوئے۔ فراغت کے بعد مدرسہ شاہ بہلول سہارن پور، مدرسہ اشرفیہ راندیر اور مدرسہ صدیقیہ پھانک جیش خان دہلی میں پڑھاتے رہے۔ ۱۳۶۷ھ/۱۹۴۸ء میں دارالعلوم دیوبند میں استاذ مقرر ہوئے اور زندگی کے اخیر لمحہ تک یہیں رہے۔ آپ کی تدریسی زندگی آدھی صدی پر مشتمل ہے۔ منطق و فلسفہ سے خاص دل چسپی رکھتے تھے۔ آخر میں آپ سے دورہ حدیث کی بعض کتابوں کا درس بھی متعلق رہا۔

۶ رجب ۱۴۱۲ھ/۱۲ جنوری ۱۹۹۲ء کو انتقال ہوا اور قبرستان قاسمی میں تدفین ہوئی۔

ماخذ: ماہنامہ دارالعلوم دیوبند، فروری ۱۹۹۲ء؛ کاروانِ رفتہ، ص ۲۷

حضرت مفتی ظفر الدین مفتاحیؒ

ممتاز اہل قلم، مصنف، مفتی اور عالم دین تھے۔

آپ کا وطن پورہ نوڈیہ ضلع دربھنگہ بہار ہے۔ ۲۱ شعبان ۱۳۴۴ھ/۷ مارچ ۱۹۲۶ء کو ولادت ہوئی۔ آپ کے والد کا نام منشی شمس الدین صاحب تھا۔ ابتدائی تعلیم مدرسہ محمودیہ راجپور نیپال اور ثانوی تعلیم مدرسہ وارث العلوم چھپرہ بہار میں حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم جامعہ مفتاح العلوم منو یوپی میں حضرت مولانا عبداللطیف نعمانیؒ اور حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمیؒ وغیرہ جیسے اساتذہ علم و فن سے حاصل کی اور وہیں سے ۱۳۶۳ھ/۱۹۴۳ء میں دورہ حدیث مکمل کیا۔

فراغت کے بعد سب سے پہلے جامعہ مفتاح العلوم منو میں تدریس و افتاء کے لیے تقرر ہوا۔ پھر ندوۃ العلماء

میں تکمیل کی غرض سے داخلہ لیا، لیکن درمیان ہی میں اسے چھوڑ کر معدن العلوم نگرام لکھنؤ میں درس و تدریس کی ذمہ داری سنبھالی جہاں ۱۹۴۷ء تک مدرس رہے۔ اس کے بعد دارالعلوم معینیہ سانحہ بیگوسرائے میں صدر مدرس رہے۔ اس کے بعد کچھ دنوں مدرسہ تعلیم الدین ڈابھیل میں بھی تدریسی فرائض انجام دیے۔

۱۳۷۶ھ/۱۹۵۶ء میں آپ کی گونا گوں علمی صلاحیتوں کی وجہ دارالعلوم میں تقرر ہوا جہاں آپ نے نصف صدی تک متعدد شعبوں میں گونا گوں علمی و انتظامی خدمات انجام دیں۔ دارالعلوم میں پہلے آپ شعبہ تبلیغ سے وابستہ رہے جہاں آپ نے جماعت اسلامی کے دینی رجحانات نام کی کتاب لکھی۔ ۱۳۷۶ھ کے اواخر میں آپ کو دارالافتاء منتقل کر دیا گیا جہاں ترتیب فتاویٰ کے ساتھ آپ نے فتویٰ نویسی کی خدمات بھی انجام دیں۔ دارالعلوم کے مفتی اول حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن کے فتاویٰ کی 'فتاویٰ دارالعلوم' کے نام سے بارہ جلدوں میں ترتیب و تدوین آپ ہی کی شبانہ روز کاوشوں کا ثمرہ ہے۔

۱۳۸۲ھ/۱۹۶۲ء میں مجلس شوریٰ نے دارالعلوم کے عظیم الشان کتب خانہ کی ترتیب اور فہرست سازی کے لیے آپ کو کتب خانہ میں منتقل کیا۔ آپ نے بڑی دیدہ ریزی اور جگر کاوی سے فہرست تیار کی اور نئے طریقہ کے مطابق حروف تہجی کے اعتبار سے کتابوں کے کارڈ تیار کیے جس سے کتابوں کی تلاش میں بڑی آسانی پیدا ہو گئی۔ اسی دوران آپ نے دو جلدوں میں کتب خانہ کے مخطوطات کا تعارف لکھا جو شائع بھی ہو چکا ہے۔

آپ کو ۱۳۸۴ھ/۱۹۶۲ء میں 'مطالعہ علوم قرآنی' کے شعبہ کی نگرانی دی گئی۔ اسی دوران آپ نے بہت دنوں تک ماہنامہ دارالعلوم کے ادارے لکھے۔ صد سالہ اجلاس دارالعلوم کے موقع پر مختلف تعارفی کتابچوں کی ترتیب بھی آپ سے متعلق رہی۔ حضرت مولانا ابوالحسن ندوی کے تقاضہ پر ندوۃ العلماء لکھنؤ کے پچاسی سالہ جشن کے موقع پر ندوہ کے مخطوطات کو مرتب کیا۔ دارالافتاء میں دوسری بار ۱۴۰۳ھ/۱۹۸۳ء میں مستقل طور پر منتقل کیے گئے اور ۱۴۲۹ھ/۲۰۰۸ء تک یہ طور مفتی خدمات انجام دیتے رہے۔

آپ نے چھوٹی بڑی تقریباً پچاس کتابیں اور تین سو سے زائد مضامین و مقالات تحریر فرمائے۔ نئے دور کے ذہن کے مطابق شریعت اسلامی کی تشریح و تفہیم میں متعدد کتابیں لکھیں۔ آپ کی پہلی تصنیف 'اسلام کا نظام مساجد' ہے جو ۱۹۵۰ء میں طبع ہوئی۔ اس کے علاوہ، اسلام کا نظام امن، اسلام کا نظام عصمت و عفت، اسلام کا نظام جرم و سزا وغیرہ کتابیں بھی لکھیں جن میں سے متعدد کتابوں کا ترجمہ مختلف زبانوں میں شائع ہو چکا ہے۔ قرآن کریم کی مکمل تفسیر لکھی جو کئی جلدوں میں شائع ہوئی۔ مفتی صاحب کی تحریر بہت سادہ و سستہ، شگفتہ اور ہر خاص و عام کے لیے قابل فہم ہوتی تھی۔ آپ نے درمختار کا اردو ترجمہ بھی کیا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے تحت مجموعہ قوانین اسلامی کی ترتیب میں بھی حصہ لیا۔

دارالعلوم دیوبند میں مفتی کے عہدہ پر فائز ہونے کے علاوہ، آپ امارت شرعیہ بہار و اڑیسہ کی مجلس شوری کے رکن، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور بورڈ آف اسٹڈیز شعبہ سنی دینیات علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ممبر بھی رہے۔ اسلامک فقہ اکیڈمی نئی دہلی کے بانی ممبر ہونے کے ساتھ ساتھ ۲۰۰۲ء سے تاحیات (۲۰۱۱ء) اس کے صدر کے عہدہ پر بھی فائز رہے۔

اپنے وطن مالوف میں ۲۵ ربیع الثانی ۱۴۳۲ھ / ۳۱ مارچ ۲۰۱۱ء کو وفات پائی اور مدرسہ شمس العلوم کے احاطہ میں مدفون ہوئے۔

مآخذ: ماہنامہ دارالعلوم مئی و جون ۲۰۱۱ء، تفصیلات کے لیے دیکھئے: حیاتِ ظفیر، پروفیسر محمد سعود عالم قاسمی

حضرت مولانا وحید الزماں کیرانوی

عربی زبان کے مایہ ناز ادیب و مصنف اور دارالعلوم دیوبند کے مشہور رجال ساز استاذ و مربی، معاون مہتمم اور ناظم تعلیمات تھے۔

کیرانہ ضلع مظفرنگر کے ایک علمی خاندان میں ۷ فروری ۱۹۳۰ء کو پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کیرانہ اور حیدرآباد میں ہوئی۔ ۱۹۴۸ء میں دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے اور ۱۹۵۲ء میں حضرت مدنی سے دورہ حدیث کی تکمیل کی۔ زمانہ طالب علمی ہی سے عربی زبان سے دل چسپی تھی۔

۱۳۸۳ھ / ۱۹۶۳ء میں دارالعلوم دیوبند میں استاذ عربی مقرر ہوئے اور ترقی کرتے ہوئے درجہ علیا تک پہنچے۔ ادب عربی کی کتابوں کے علاوہ دورہ حدیث کی دو مشہور کتابوں نسائی اور طحاوی کا درس بھی دیا۔ تدریس کے دوران 'النادی الادبی' کے نام سے طلبہ کی عربی انجمن قائم کی جس سے دارالعلوم میں عربی زبان و ادب کے تیس انقلاب پیدا ہو گیا اور اس پلیٹ فارم سے بے شمار لائق و فائق افراد تیار ہوئے۔

اجلاس صد سالہ کی تیاری میں پیش پیش رہے اور دارالعلوم کی تزئین و ترمیم اور تعمیر جدید کا کام انجام دیا۔ دارالعلوم کیمپ کے زمانے میں تعلیمی تسلسل کو قائم رکھنے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ ۱۹۸۲ء میں آپ مجلس تعلیمی (تعلیمات) کے ناظم مقرر ہوئے۔ ۱۹۸۵ء میں آپ کو معاون مہتمم بنایا گیا۔ ۱۹۹۰ء تک دارالعلوم میں مختلف تدریسی و انتظامی ذمہ داریاں انجام دیں۔

درس و تدریس اور تربیت طلبہ کے علاوہ انھوں نے قابل قدر علمی ورثہ چھوڑا۔ آپ کی عربی لغات 'القاموس الوحید'، 'القاموس الجدید'، 'القاموس الاصطلاحی' مشہور و مقبول عام ہیں۔ عربی زبان کی تعلیم کے لیے آپ کی مرتب کردہ 'القرأة الواضحة' سیریز کو غیر معمولی مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس کے علاوہ ایک درجن کے قریب دوسری کتابیں لکھیں اور ترجمہ کیں۔

آپ دارالعلوم دیوبند کے عربی سہ ماہی رسالہ 'دعوت الحق'، پھر پندرہ روزہ 'الداعی' اور جمعیتہ علمائے ہند کے عربی ترجمان 'الکفاح' کے ایڈیٹر بھی رہے۔ اس کے علاوہ، دارالفکر اور دارالمؤلفین کے نام سے تصنیفی اور علمی ادارے بھی قائم کیے جن سے قابل قدر علمی کتابیں شائع ہوئیں۔

۱۴ ارذوالقعدہ ۱۴۱۵ھ / ۱۵ اپریل ۱۹۹۵ء کو دیوبند میں انتقال ہوا۔

ماخذ: وہ کوہ کن کی بات، مولانا نور عالم ظہیل امینی، ص ۱۵۵-۱۶۱

حضرت مولانا قمر الدین گورکھپوری

دارالعلوم دیوبند کے استاذ حدیث اور مشہور عالم دین ہیں۔

مشرقی یوپی کے ضلع گورکھپور کے قصبہ بڑیل گنج میں ۲۸ فروری ۱۹۳۸ء کو پیدا ہوئے۔ والد کا نام حاجی بشیر الدین ہے۔ عربی کی ابتدائی و متوسط تعلیم مدرسہ احیاء العلوم مبارک پور اور دارالعلوم منو میں حاصل کی۔ ۱۹۵۴ء میں دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے اور ۱۹۵۷ء میں شیخ الاسلام حضرت مدنی، حضرت مولانا محمد ابراہیم بلیاویؒ وغیرہ اساتذہ سے دورہ حدیث کی تکمیل کی۔ فراغت کے بعد مدرسہ عبدالرب دہلی میں تدریسی سلسلہ کا آغاز کیا۔

۱۳۸۶ھ / ۱۹۶۶ء میں دارالعلوم دیوبند میں تدریس کے لیے تقرر ہوا۔ ترقی کرتے ہوئے درجہ علیا تک پہنچے۔ حدیث کی مشہور کتابیں مسلم شریف اور نسائی شریف وغیرہ زبردس رہیں، اس وقت بخاری شریف جلد ثانی کا سبق بھی آپ سے متعلق ہے۔

حضرت مولانا شاہ ابرار الحق ہردوی خلیفہ حکیم الامت حضرت تھانویؒ سے اصلاحی تعلق تھا اور ان سے اجازت و خلافت بھی حاصل ہے۔

حضرت مولانا زبیر احمد دیوبندیؒ

دارالعلوم کے انتہائی بزرگ اور مقبول استاذ تھے۔

۱۹۳۵ء میں دیوبند میں پیدا ہوئے۔ دارالعلوم میں تعلیم پائی اور ۱۳۸۱ھ / ۱۹۶۱ء میں دورہ حدیث سے فارغ ہوئے۔ فراغت کے بعد دارالعلوم ناگ پور میں عرصہ تک صدر المدرسین رہے۔

۱۳۸۹ھ میں دارالعلوم میں مدرس مقرر ہوئے۔ ترقی کرتے ہوئے درجہ علیا تک پہنچے اور تا عمر تدریسی خدمات انجام دیتے رہے۔ مولانا موصوف انتہائی شریف، باوقار و سنجیدہ، کم گو اور نرم خو شخصیت کے مالک تھے۔ آپ کا درس عام فہم اور مقبول تھا۔

۷ ارذوالحجہ ۱۴۱۸ھ / ۱۵ اپریل ۱۹۹۸ء کو دیوبند میں انتقال ہوا۔

ماخذ: دارالعلوم اور دیوبند کی تاریخی شخصیات، ص ۸۰-۸۱

حضرت مولانا ریاست علی بجنوری

دارالعلوم کے ممتاز استاذ حدیث اور اردو زبان کے بہترین ادیب و شاعر تھے۔
۹ مارچ ۱۹۴۰ء کو علی گڑھ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا آبائی وطن موضع حبیب والا ضلع بجنور تھا۔ ابتدائی تعلیم مکمل کر کے اپنے پھوپھا مولانا سلطان الحق بجنوری (ناظم کتب خانہ دارالعلوم دیوبند) کے ہم راہ ۱۹۵۱ء میں دارالعلوم دیوبند آئے اور داخلہ لیا۔ ۱۹۵۸ء میں دورہ حدیث سے فراغت حاصل کی۔

فراغت کے بعد بھی حضرت مولانا فخر الدین مراد آبادی صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند کے دامن علم سے وابستہ ہو کر برسوں استفادہ کرتے رہے اور اپنے استاذ محترم کے درس بخاری کی تقریروں کو مرتب کر کے ایضاً البخاری کے نام سے شائع کرنا شروع کیا۔

۱۳۹۱ھ/۱۹۷۲ء میں دارالعلوم دیوبند میں مدرس مقرر ہوئے۔ کچھ برسوں تک تدریس کے ساتھ ساتھ ماہنامہ دارالعلوم کی ادارت کی ذمہ داری بھی انجام دی۔ ۱۴۰۵ء میں مجلس شوریٰ نے آپ کو مجلس تعلیمی کا ناظم مقرر کیا۔ ۱۴۰۸ھ میں آپ کو شیخ الہند اکیڈمی کانگراں مقرر کیا گیا۔ دورہ حدیث میں ابن ماجہ اور ترمذی وغیرہ کتابیں آپ کے زیر درس رہیں۔

آپ کی ایک دوسری اہم تصنیف 'شوریٰ کی شرعی حیثیت' ہے۔ علاوہ ازیں، آپ نے شیخ محمد علی تھانویؒ کی مشہور زمانہ کتاب 'کشاف اصطلاحات الفنون' کو نئے سرے سے جدید ترتیب کے ساتھ مرتب کیا۔ اسی طرح مولانا فتح محمد تائب لکھنویؒ (وفات ۱۳۲۷ھ/۱۹۰۹ء) کی کتاب 'خلاصۃ التفاسیر' پر بھی تحقیقی کام شروع کیا تھا جو پایہ تکمیل کو نہ پہنچ سکا۔ آپ نے اصول فقہ کے موضوع پر حضرت مولانا نعمت اللہ اعظمی کے ساتھ مشترکہ طور پر 'تسهیل الاصول' لکھی جو دارالعلوم میں سال چہارم میں داخل درس ہے۔ اسی طرح 'مقدمہ تفہیم القرآن کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ' مکتبہ دارالعلوم سے شائع ہو چکی ہے۔

علم و عمل میں بلند مقام پر فائز ہونے کے ساتھ ساتھ شعر و ادب میں اعلیٰ ذوق کے حامل تھے جس کا زندہ ثبوت دارالعلوم دیوبند کا شہرہ آفاق 'ترانہ' ہے جو ایک لازوال ادبی شہہ پارہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ کا مجموعہ 'کلام نغمہ سحر' کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ ظفر مخلص فرماتے تھے۔ اسی طرح مولانا محمد عثمان کاشف الہاشمی کا شعری مجموعہ بھی آپ کی کاوشوں سے منظر عام پر آیا۔

۲۳ شعبان ۱۴۳۸ھ/۲۰۱۷ء بروز شنبہ دیوبند میں مختصر علالت کے بعد انتقال ہوا اور قبرستان قاسمی میں مدفون ہوئے۔

تفصیلی حالات کے لیے دیکھیں:

مولانا ریاست علی ظفر بجنوری نمبر، ہفت روزہ الجمعیۃ، اکتوبر ۲۰۱۷ء؛ ماہنامہ دارالعلوم، اگست و ستمبر ۲۰۱۷ء

حضرت مولانا عبدالحق مدرسی

دارالعلوم کے مشہور استاذ حدیث، نائب مہتمم اور دارالعلوم کی متعدد نئی اور اہم عمارات کے معمار اعظم ہیں۔ ۱۰ مارچ ۱۹۵۳ء کو شمالی آرکٹ (تمل ناڈو) کی جدوال نامی بستی میں پیدا ہوئے۔ عربی کی تعلیم الباقیات الصالحات ویلور، دارالعلوم سبیل الرشاد بنگلور اور مدرسہ داؤدیہ تمل ناڈو میں حاصل کی۔ ۱۹۶۹ء میں دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے اور دورہ حدیث کی تکمیل کی۔ فراغت کے بعد افتاء و ادب کا نصاب بھی پورا کیا۔

رجب ۱۳۹۳ھ / اگست ۱۹۷۳ء میں دارالعلوم میں مدرس مقرر ہوئے۔ تدریس کے ساتھ متعدد اہم انتظامی ذمہ داریاں بھی آپ سے متعلق کی گئیں۔ ۱۴۰۸ھ / ۱۹۸۷ء سے دارالعلوم کے شعبہ تعمیرات کی نظامت آپ سے متعلق ہے۔ ۱۴۱۸ھ / ۱۹۹۸ء میں دارالعلوم کے نائب مہتمم بنائے گئے۔

آپ سے شمال ترمذی، مشکاة المصابیح اور ادب عربی کی کتابیں متعلق رہی ہیں۔ تدریس اور نیابت اہتمام کے ساتھ دارالعلوم کو مادی اور تعمیری لحاظ سے ترقی دینے میں آپ کا اہم کردار رہا ہے۔ مسجد رشید آپ کے تعمیری ذوق اور فنی مہارت کا شاہ کار ہے۔ شیخ الہند لاہوری جیسی عظیم الشان اور تاریخی عمارت کی تعمیر بھی آپ کی نگرانی میں جاری ہے۔ اس کے علاوہ شیخ الہند منزل، شیخ الاسلام منزل، حکیم الامت منزل، مدرسہ ثانویہ اور متعدد چھوٹی بڑی عمارتیں آپ کی شبانہ روز محنتوں کا نتیجہ ہیں۔

حضرت مولانا عبدالحق اعظمی

دارالعلوم دیوبند کے استاذ حدیث اور مشہور عالم دین تھے۔ ۱۹۲۸ء میں جگدیش پور ضلع اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے وطن میں حاصل کی اور پھر مدرسہ بیت العلوم سرائے میر میں فارسی و عربی کی ابتدائی کتابیں پڑھیں۔ پھر دارالعلوم مؤ میں داخل ہو کر عربی ہفتہ تک تعلیم حاصل کی۔ ۱۳۷۴ھ / ۱۹۵۵ء میں دارالعلوم دیوبند میں دورہ حدیث کی تکمیل کی۔

تعلیم سے فراغت کے بعد متعدد مقامات پر تدریسی خدمات انجام دیں، خاص طور پر مطبع العلوم بنارس، جامعہ حسینیہ گریڈیہ جھارکھنڈ اور دارالعلوم مؤ میں تدریسی خدمات انجام دیں اور شیخ الحدیث و صدر المدرسین کے عہدوں پر فائز رہے۔

۱۴۰۲ھ / ۱۹۸۲ء میں دارالعلوم دیوبند درجہ علیا کے مدرس کے طور پر بلائے گئے اور بخاری شریف جلد دوم

اور مشکاة المصابیح کا درس آپ سے متعلق کیا گیا۔ پوری زندگی حدیث کی تدریس میں گزاری، ہزاروں طلبہ نے آپ سے حدیث کی سند حاصل کی۔

۳۰ ربیع الاول ۱۴۳۸ھ / ۳۰ دسمبر ۲۰۱۶ء کو دیوبند میں انتقال ہوا اور قبرستان قاسمی میں دفن کیے گئے۔

حوالہ: ماہنامہ دارالعلوم، جنوری و فروری ۲۰۱۷ء، اودھ میں افتاء کے مراکز، ۴۰۹

تفصیل کے لیے دیکھیں: تذکرہ قطب زمان، محمد شا کر شاردنی، جولائی ۲۰۱۸ء، اعظم گڑھ

حضرت مولانا نعمت اللہ اعظمی

دارالعلوم کے مشہور و معروف استاذ حدیث ہیں۔ وسعت مطالعہ، کثرت معلومات اور علمی و تحقیقی ذوق میں اپنی مثال نہیں رکھتے۔

پورہ معروف ضلع اعظم گڑھ (اب متو) میں ۲۴ دسمبر ۱۹۳۶ء کو پیدا ہوئے۔ دینیات اور عربی کی اکثر کتابیں وطن میں پڑھیں۔ اس کے بعد دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا اور ۱۳۷۲ھ / ۱۹۵۳ء میں دورہ حدیث کی تکمیل کی۔ فراغت کے بعد دو سال علوم و فنون کی تحصیل میں گزارے۔

۱۳۷۵ھ میں مدرسہ حسینیہ تاؤلی میں مدرس مقرر ہوئے۔ اس کے بعد ملک کے مختلف مدارس میں تدریسی خدمات انجام دیں جن میں مصباح العلوم کو پانچ ضلع متو، جامعۃ الرشاد اعظم گڑھ اور مفتاح العلوم متو قابل ذکر ہیں۔ آسام اور گجرات میں بھی کچھ دنوں تک پڑھایا۔ شوال ۱۴۰۲ھ / ۱۹۸۲ء میں دارالعلوم دیوبند میں درجہ علیا کے مدرس مقرر ہوئے۔ مسلم شریف، ابوداؤد شریف وغیرہ کے اسباق آپ سے متعلق رہے ہیں۔ تخصص فی الحدیث کا شعبہ آپ کی نگرانی میں قائم ہے۔ مجلس شوری کے اجلاس صفر ۱۴۴۲ھ میں بخاری شریف کے ایک حصے کی تدریس آپ سے متعلق کی گئی۔ نہایت وسیع المطالعہ، کثیر المعلومات اور علمی شخصیت کے مالک ہیں۔ دارالعلوم میں آپ کی ذات مرجع کی حیثیت رکھتی ہے۔

درس و تدریس کے علاوہ آپ نے اردو و عربی زبانوں میں متعدد کتابوں تصنیف فرمائی ہیں۔ آپ کی اہم کتابوں میں تقریب شرح معانی الآثار، نعمۃ المعلم شرح مقدمہ مسلم اور درس بخاری وغیرہ ہیں۔ تخصص فی الحدیث سے سنن ترمذی کی حدیث حسن، حدیث غریب اور حدیث حسن غریب پر نہایت وقیع اور تحقیقی کام کئی جلدوں میں آپ کی نگرانی میں پورا ہوا ہے۔ ردیہ سائیت اور ردیہ ہودیت پر نہایت قیمتی محاضرات بھی لکھے جو دارالعلوم میں تکمیلیات کے طلبہ کو پیش کیے جاتے ہیں۔

حضرت مولانا قاری محمد عثمان منصور پوری

دارالعلوم دیوبند کے استاذ حدیث اور معاون مہتمم ہیں۔

اپنے وطن منصور پور ضلع مظفرنگر میں ۱۲ اگست ۱۹۴۴ء کو پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم وطن میں حاصل کی اور فارسی عربی کی پوری تعلیم دارالعلوم دیوبند میں حاصل کی۔ ۱۹۶۵ء میں دورہ حدیث سے فارغ ہوئے اور ۱۹۶۶ء میں دیگر فنون کی تکمیل کے ساتھ تجویذ و قرأت اور ادب عربی کی تربیت حاصل کی۔

اولاً جامعہ قاسمیہ گیا میں پانچ سال تک تدریسی خدمات انجام دیں۔ پھر جامعہ اسلامیہ جامع مسجد امر وہہ میں گیارہ سال تک مختلف علوم و فنون کی کتابیں پڑھائیں۔

شوال ۱۴۰۲ھ/۱۹۸۲ء میں دارالعلوم دیوبند میں مدرس مقرر ہوئے۔ درس و تدریس کے ساتھ مختلف انتظامی ذمہ داریاں بھی آپ سے متعلق رہیں۔ ۱۹۸۶ء میں عالمی اجلاس تحفظ ختم نبوت کے موقع پر آپ کو کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت کا ناظم مقرر کیا گیا۔ ۱۹۹۹ء میں تدریس کے ساتھ نائب مہتمم مقرر ہوئے اور ۲۰۰۸ء تک اس اہم عہدہ پر فائز رہے۔ موطا امام مالک، مشکاۃ المصابیح وغیرہ کتابیں زبردس رہیں۔ ردقادیانیت کے موضوع پر تکمیلات کے طلبہ کو محاضرہ بھی پیش کرتے ہیں۔

مجلس شوریٰ کے اجلاس صفر ۱۴۴۲ھ مطابق اکتوبر ۲۰۲۰ء میں آپ کو دارالعلوم کا معاون مہتمم مقرر کیا گیا۔ ۲۰۰۶ء میں جمعیۃ علمائے ہند کے قومی صدر منتخب کیے گئے۔ اس کے بعد امیر الہند کے باوقار منصب پر بھی فائز ہوئے۔

حضرت مولانا حبیب الرحمن قاسمی اعظمی

دارالعلوم دیوبند کے استاذ حدیث، محقق اور متعدد کتابوں کے مصنف ہیں۔

اپنے وطن جگدیش پور ضلع اعظم گڑھ میں ۱۳۶۵ھ/۱۹۴۵ء میں پیدا ہوئے۔ عربی کی تعلیم مطلع العلوم بنارس اور دارالعلوم منو میں حاصل کی۔ ۱۳۸۲ھ/۱۹۶۲ء میں دارالعلوم دیوبند میں داخل ہو کر دورہ حدیث سے فراغت حاصل کی۔

۱۹۶۵ء میں جامعہ اسلامیہ بنارس میں مدرس مقرر ہوئے۔ مئی ۱۹۸۰ء میں موتمر فضلاء دارالعلوم دیوبند کی طلب پر دیوبند آئے اور عالمی موتمر کی نظامت اور ماہنامہ القاسم کی ادارت کے فرائض انجام دینا شروع کیا۔ ۱۴۰۲ھ/۱۹۸۲ء میں دارالعلوم میں مدرس مقرر ہوئے۔ ماہ صفر ۱۴۰۵ھ میں تدریس کے ساتھ ماہنامہ دارالعلوم کی ادارت کی ذمہ داری آپ کو سونپی گئی جسے نومبر ۲۰۱۶ء تک بحسن و خوبی انجام دیتے رہے۔ ۱۴۲۰ھ میں

رد عیسائیت کمیٹی کے نگران اور پھر ناظم مقرر کیے گئے، اس عہدہ پر ۱۴۳۸ھ تک فائز رہے۔
 ابو داؤد، مشکاۃ المصابیح وغیرہ کتابیں زیر درس ہیں۔ آپ کا علمی و تحقیقی درس طلبہ میں بہت مقبول ہے۔
 ملک کے مشہور اور صاحب قلم علماء میں شمار کیے جاتے ہیں، متعدد اہم کتابوں کے مصنف ہیں۔ آپ کے
 مضامین کا مجموعہ 'مقالات حبیب' کے عنوان سے تین جلدوں میں شائع ہو چکا ہے۔ آپ کی دیگر کتابوں میں نور القمر
 فی توضیح نزہۃ النظر شرح نخبۃ الفکر، شرح مقدمہ شیخ عبدالحق، شیوخ الامام ابی داؤد السجستانی (عربی)، تذکرہ علمائے
 اعظم گڑھ، اجودھیہ کے اسلامی آثار، حرمت مصاہرت، سرسید احمد خان اور حجیت حدیث کے علاوہ چھوٹی بڑی تقریباً
 تیس کتب و رسائل ہیں۔

حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی

عربی زبان کے مشہور ادیب، مصنف اور دارالعلوم کے عربی مجلہ الداعی کے ایڈیٹر ہیں۔
 ۱۸ دسمبر ۱۹۵۲ء / ۳۰ ربیع الثانی ۱۳۷۲ھ مظفر پور بہار میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم وطن اصلی رائے پور ضلع
 سینٹ ماٹھی اور ثانوی تعلیم مدرسہ امدادیہ در بھنگہ اور دارالعلوم منو میں حاصل کی۔ ۱۹۶۵ء میں دارالعلوم میں داخل
 ہوئے لیکن تکمیل مدرسہ امینیہ دہلی سے ۱۹۷۰ء میں ہوئی۔

۱۹۷۲ء میں دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں مدرس ادب عربی مقرر ہوئے۔ ۱۴۰۲ھ / ۱۹۸۲ء میں دارالعلوم
 دیوبند میں استاذ ادب عربی مقرر ہوئے اور دارالعلوم کے عربی ترجمان 'الداعی' کے ایڈیٹر بنائے گئے۔
 آپ مسلسل چار دہائیوں سے عربی ادب و صحافت سے وابستہ ہیں اور آج انھیں عربی زبان کے نمایاں ادیب
 اور با بصیرت صحافی کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ عربی کے ساتھ اردو سے بھی گہری وابستگی ہے۔ آپ کے اردو مضامین
 بھی ملک کے اخبارات و رسائل میں اہتمام کے ساتھ شائع ہوتے ہیں۔ اب تک آپ کی متعدد کتابیں عربی اور
 اردو میں شائع ہو کر قبول عام حاصل کر چکی ہیں جن میں 'وہ کوہ کن کی بات'، 'پس مرگ زندہ'، 'فلسطین فی انتظار
 صلاح الدین'، 'متی تکون الكتابات مؤثرۃ وغیرہ اہم اور قابل ذکر ہیں۔

حضرت مولانا مجیب اللہ گونڈوی

دارالعلوم کے استاذ حدیث اور سابق ناظم تعلیمات ہیں۔
 موضع جوڑھا ضلع گونڈہ میں ۱۸ فروری ۱۹۵۲ء میں پیدا ہوئے۔ عربی کی تعلیم مدرسہ نورالعلوم بہرائچ میں
 حاصل کی۔ ۱۹۶۷ء میں دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے اور ۱۹۷۳ء میں دورہ حدیث سے فراغت حاصل کی۔
 ۱۹۷۴ء میں افتاء کا کورس مکمل کیا۔

اولاً مدرسہ اسلامیہ جو دھپور را جستھان میں صدر مدرس مقرر ہوئے۔ ۱۹۷۵ء میں مدرسہ فرقانیہ گوئڈہ منتقل ہو گئے اور پھر ۱۹۷۹ء میں جامع العلوم پڑکا پور کان پور میں مدرس مقرر ہوئے۔
شوال ۱۴۰۲ھ/۱۹۸۲ء میں دارالعلوم دیوبند میں تدریس کے لیے تقرر ہوا۔ ۲۰۰۸ء میں درجہ علیا میں ترقی ہوئی اور مجلس تعلیمی کے ناظم (ناظم تعلیمات) مقرر کیے گئے اور اس عہدہ پر ۱۴۳۵ھ تک قائم رہے۔
شرح عقائد کی شرح 'بیان الفوائد' لکھی جو مقبول و معروف ہے۔

حضرت مولانا مفتی محمد امین پالن پوری

دارالعلوم دیوبند کے استاذ حدیث و فقہ ہیں۔

۱۹۵۲ء میں پیدا ہوئے۔ پالن پور گجرات کے رہنے والے اور حضرت مفتی سعید احمد پالن پوری کے برادر خورد ہیں۔ ابتدائی فارسی و عربی کی تعلیم راندر میں حاصل کی۔ کچھ سال مظاہر علوم سہارن میں بھی پڑھا اور ۱۳۹۳ھ/۱۹۷۳ء میں دارالعلوم دیوبند میں دورہ حدیث سے فارغ ہوئے۔ ۱۳۹۴ھ میں تکمیل ادب اور ۱۳۹۵ھ میں تکمیل افتاء کیا۔

شوال ۱۳۹۵ھ میں مدرسہ کنز مرغوب پٹن (شمالی گجرات) سے تدریسی زندگی کا آغاز کیا۔ کچھ دنوں تک تارا پور ضلع کھیڑہ (گجرات) اور امداد العلوم و ڈالی سا برکانٹھا گجرات میں بھی رہے۔
شوال ۱۴۰۲ھ/۱۹۸۲ء میں دارالعلوم دیوبند میں مدرس مقرر ہوئے۔ اس وقت درجہ علیا کے استاذ ہیں اور نسائی شریف کا درس آپ سے متعلق ہے۔

درس و تدریس کے علاوہ تصنیف و تالیف کے ذریعہ بھی دینی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اہم تصانیف میں الخیر الکثیر شرح الفوز الکبیر، اصلاح معاشرہ، اذان و اقامت، محاضرہ رد رضا خانیت شامل ہیں۔ فتاویٰ دارالعلوم کی جدید ترتیب بھی آپ سے متعلق ہے اور اب تک چھ جلدیں شائع ہو کر منظر عام پر آچکی ہیں۔ فتاویٰ دارالعلوم کی پرانی بارہ جلدوں پر نظر ثانی کا کام بھی انجام دے رہے ہیں۔

حضرت مفتی حبیب الرحمن خیر آبادی

دارالعلوم دیوبند کے ممتاز مفتی اور مشہور عالم دین ہیں۔

مفتی حبیب الرحمن بن مولانا نذیر احمد اپنے وطن خیر آباد ضلع اعظم گڑھ (موجودہ ضلع منو) میں ۱۸ ربیع الثانی ۱۳۵۲ھ/۱۱ اگست ۱۹۳۳ء میں پیدا ہوئے۔ عربی کی تعلیم مدرسہ اعیاء العلوم مبارک پور اور دارالعلوم منو میں حاصل کی۔ ۱۳۷۳ھ/۱۹۵۳ء میں مظاہر علوم سہارن پور سے دورہ حدیث سے فارغ ہوئے اور ایک سال مزیدہ کرفنون

کی تکمیل کی۔

معہد ملت مالیکوٹس سے تدریس کا آغاز کیا۔ پھر مدرسہ حیات العلوم مراد آباد میں ۲۳ سال تک اعلیٰ تدریسی اور فتویٰ نویسی کی خدمات انجام دیں۔

شوال ۱۴۰۲ھ/۱۹۸۴ء میں دارالعلوم میں مفتی مقرر ہوئے۔ فتویٰ نویسی کے ساتھ افتاء کے طلبہ کی تدریس و تربیت آپ کے ذمہ ہے۔ تیس سال سے زائد عرصہ میں آپ کے فتاویٰ کی تعداد لاکھ سے زائد ہوگی۔ آپ کے فتاویٰ کا مجموعہ 'فتاویٰ حبیبیہ' کے نام سے مرتب ہو کر شائع ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ دو درجن سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں جن میں سب سے اہم جامع ترمذی کی عربی شرح 'المسک الشذی' ہے جو تقریباً چودہ جلدوں پر مشتمل ہوگی اور اب تک اس کی سات جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔ آپ نے فتاویٰ رشیدیہ کو تحقیق و تخریج کے ساتھ شائع کرایا ہے۔

حوالہ جات: اودھ میں افتاء کے مراکز ص ۲۱۶؛ فضلاء دیوبند کی فقہی خدمات ۳۵۰

حضرت مولانا عبدالخالق سنبھلی

دارالعلوم کے استاذ حدیث و ادب اور نائب مہتمم ہیں۔

قصبہ سنبھل ضلع مراد آباد میں ۴ جنوری ۱۹۵۰ء کو پیدائش ہوئی۔ ابتدائی تعلیم اپنے وطن میں حاصل کی اور ۱۹۶۸ء میں دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے۔ ۱۹۷۲ء میں دورہ حدیث سے فراغت حاصل کی۔ اگلے سال ادب عربی کی تکمیل کی۔

۱۹۷۳ء میں آپ نے تدریسی زندگی کا آغاز مدرسہ خادم الاسلام ہاپوڑ سے کیا۔ ۱۹۷۹ء میں مدرسہ جامع الہدیٰ مراد آباد میں تدریسی خدمات انجام دیں۔

شوال ۱۴۰۳ھ میں دارالعلوم دیوبند میں تدریس کے لیے آپ کا تقرر ہوا۔ تدریس کے ساتھ آپ اہم انتظامی ذمہ داریوں پر بھی فائز رہے۔ ۲۰۰۸ء میں نائب مہتمم بنائے گئے۔

آپ کی تصنیفات میں 'مودودیت' کے موضوع پر پانچ اجزا پر مشتمل محاضرات، 'عبدالحمید الزندان الیمنی کی کتاب التوحید' کا اردو ترجمہ، فتاویٰ عالم گیری کے جز ۱۵ کتاب الایمان کا اردو ترجمہ وغیرہ شامل ہیں۔

حضرت مولانا مفتی محمد یوسف تاو لوی

دارالعلوم دیوبند کے استاذ حدیث و فقہ ہیں۔

آپ کے والد کا نام حاجی عظیم الدین ہے، تاو لوی ضلع مظفر نگر کے رہنے والے ہیں۔ ۹ ستمبر ۱۹۵۴ء کو پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم دارالعلوم حسینیہ تاو لوی میں حاصل کی۔ ۱۳۹۲ھ/۱۹۷۲ء میں دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا اور ۱۳۹۴ھ/۱۹۷۴ء میں دورہ حدیث سے فراغت حاصل کی۔ اگلے سال دارالعلوم میں حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی

سے افتاء کی تکمیل کی۔

تعلیم سے فراغت کے بعد مدرسہ مرادیہ مظفرنگر میں تین سال تک تدریسی خدمات انجام دیں۔ پھر دارالعلوم چلہ امروہہ میں سات سال تک درجہ علیا کے مدرس رہے۔ شوال ۱۴۰۵ھ میں دارالعلوم دیوبند میں مدرس مقرر ہوئے۔ تدریس کے ساتھ دارالاقامہ کی نظامت بھی برسوں آپ سے متعلق رہی۔ ترقی کرتے ہوئے درجہ علیا کے استاذ ہوئے۔ صفر ۱۴۳۸ھ میں ناظم تعلیمات مقرر کیے گئے اور ذوالقعدہ تک اس عہدہ پر فائز رہے۔

حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی سے اصلاحی تعلق تھا اور خلافت و اجازت سے بھی سرفراز ہوئے۔ آپ نے مختلف موضوعات پر چھوٹی بڑی درجنوں کتابیں بھی لکھیں، جن میں سے بعض مقبول شروح و حواشی میں شمار ہوتی ہیں۔

حضرت مولانا محمد احمد فیض آبادی

دارالعلوم کے استاذ حدیث اور سابق ناظم تعلیمات ہیں۔

پریم پور ضلع امبیڈکرنگر (سابق ضلع فیض آباد) کے رہنے والے ہیں۔ ۱۰ نومبر ۱۹۳۷ء کو پیدا ہوئے۔ والد کا نام جناب حاجی عبدالرحمن ہے۔ ابتدائی تعلیم وطن میں اور عربی کی تعلیم مدرسہ فرقانیہ گونڈہ اور ضیاء العلوم مانی کلاں ضلع جون پور میں حاصل کی۔ ۱۳۷۴ھ میں دارالعلوم میں داخلہ لیا اور ۱۳۷۸ھ میں دورہ حدیث سے فراغت حاصل کی۔ فراغت کے بعد فنون کی تکمیل کی اور جامعہ طیبہ سے 'طب یونانی' کا کورس بھی مکمل کیا۔

فراغت کے بعد جامعہ قاسمیہ گیا صوبہ بہار، مدرسہ انوار العلوم بھولے پور ہنسور ضلع امبیڈکرنگر اور مدرسہ فرقانیہ گونڈہ میں تدریسی خدمات انجام دیں۔ ۱۳۹۵ھ میں مدرسہ شاہی مراد آباد میں مدرس ہوئے اور ترقی کرتے ہوئے ناظم تعلیمات اور شیخ الحدیث کے عہدوں پر فائز ہوئے۔

۱۴۱۱ھ میں دارالعلوم میں تدریسی خدمات کے لیے تقرر ہوا۔ ہدایہ اور مشکوٰۃ المصابیح وغیرہ کتابیں زیر درس رہیں۔ برسوں حضرت مولانا سید ارشد مدنی کے ساتھ نائب ناظم تعلیمات کی حیثیت سے کام کیا اور مدرسہ ثانویہ میں تعلیمی اصلاحات کیں۔ ۱۴۳۵ھ میں ناظم تعلیمات مقرر کیے گئے اور صفر ۱۴۳۸ھ تک اس عہدہ پر فائز رہے۔

صفر ۱۴۳۹ھ میں تدریسی خدمت سے استعفاء دے دیا اور اب دارالشفاء میں بہ طور یونانی معالج خدمات انجام دے رہے ہیں۔

حضرت مولانا قاضی اطہر مبارک پوری

مشہور مؤرخ اسلام، صحافی، متعدد اہم تحقیقی کتابوں کے مصنف اور شیخ الہند اکیڈمی دارالعلوم دیوبند کے اعزازی نگران تھے۔

مولانا عبدالحفیظ قاضی اطہر ابن حاجی محمد حسن اپنے وطن مبارک پور ضلع اعظم گڑھ میں ۲۴ رجب ۱۳۳۴ھ/۷ مئی

۱۹۱۶ء کو پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے وطن اور مدرسہ احیاء العلوم میں حاصل کی اور ۱۳۵۸ھ/۱۹۳۹ء میں مدرسہ قاسمیہ شاہی مراد آباد میں حضرت مولانا سید فخر الدین احمدؒ سے دورہ حدیث کی تکمیل کی۔

تکمیل تعلیم کے بعد اولاً مدرسہ احیاء العلوم مبارک پور میں کچھ عرصہ تدریسی خدمات انجام دیں۔ پھر صحافت اور تصنیف و تالیف سے وابستہ ہو گئے۔ ۱۹۴۷ء میں روزنامہ 'زمزم' لاہور کے نائب ایڈیٹر ہوئے۔ تقسیم ہند کے بعد بہرائچ میں ہفتہ وار اخبار 'انصار' کے مدیر ہوئے۔ پھر ۱۹۵۰ء میں روزنامہ 'جمہوریت' بمبئی کے نائب مدیر مقرر ہوئے۔ فروری ۱۹۵۱ء میں روزنامہ 'انقلاب' بمبئی میں نائب مدیر ہوئے اور چالیس سال تک وابستہ رہے۔ مولانا کے مضامین اور قلمی نوادری کی وجہ سے انقلاب کو بہت فروغ ملا۔ انقلاب کے مختلف کالموں میں شائع شدہ آپ کے احوال و معارف کو اگر کتابی شکل دی جائے تو متعدد اہم کتابیں معرض وجود میں آسکتی ہیں۔ اسی طرح ۱۹۵۴ء میں ماہنامہ البلاغ جاری کیا اور ۲۶ سال تک اس کے ادارے لکھتے رہے۔

دارالعلوم دیوبند کی شیخ الہند اکیڈمی کے ڈائریکٹر حضرت مولانا سعید احمد اکبر آبادیؒ کے انتقال کے بعد ۱۴۰۶ھ میں حضرت قاضی صاحب کو ان کے علمی مقام و مرتبہ اور دارالعلوم سے تعلق خاطر کے پیش نظر اس ادارہ کی سرپرستی کی درخواست کی گئی جسے آپ نے قبول کیا۔ چنانچہ سال میں کئی بار دارالعلوم تشریف لاتے اور کئی کئی ہفتے قیام فرماتے۔ کارکنان اکیڈمی کو مفید اور قیمتی مشورے دیتے اور طلبہ عزیز کی رہنمائی کرتے۔ اسی دوران آپ نے اپنی متعدد تحقیقی کتابیں شیخ الہند اکیڈمی کو طباعت کے لیے پیش کیں۔

قاضی صاحب کا سب سے بڑا کارنامہ آپ کی وہ تاریخی و تحقیقی کتابیں ہیں جنہوں نے ان کو علمی و تحقیقی دنیا میں ان کا تعارف کرایا اور انہیں بلند و بالا مقام عطا کیا۔ آپ نے مختلف موضوعات پر عربی و اردو زبانوں میں تقریباً پچاس کتابیں تصنیف کیں جن میں العقد الثمین فی فتوح الہند و من ورد فیہا من الصحابۃ و التابعین، الحرب والہند فی عہد الرسالة، رجال السنہ والہند الی القرن السابع، الحکومات العربیۃ فی الہند و السنہ، تاریخ اسماء الثقات، الہند فی عہد العباسیین، تدوین سیر و مغازی، خیر القرون کی درس گاہیں، دیار پورب میں علم اور علماء سوانح ائمہ اربعہ وغیرہ مشہور کتابیں ہیں۔

۲۷ صفر ۱۴۱۷ھ/۱۴ جولائی ۱۹۹۶ء کو مبارک پور میں انتقال ہوا۔

ماخذ: تذکرہ علمائے مبارک پور، ص ۲۱-۳۰

حضرت مولانا جمیل احمد سکروڈوی

دارالعلوم دیوبند کے استاذ حدیث و فقہ تھے۔

حضرت مولانا جمیل احمد ابن جان محمد، سکروڈہ ضلع ہریدوار (اتراکھنڈ) کے رہنے والے تھے۔ ۱۰ اپریل ۱۹۵۰ء کو پیدا ہوئے۔ جامعہ کاشف العلوم چھٹل پور اور مدرسہ خلیلیہ سہارن پور میں تعلیم حاصل کی اور ۱۳۸۵ھ/

۱۹۶۶ء میں دارالعلوم میں داخل ہوئے۔ ۱۳۹۰ھ/۱۹۷۰ء میں حضرت مولانا سید فخر الدینؒ سے دورہ حدیث پڑھ کر فارغ التحصیل ہوئے۔

فراغت کے بعد جامعہ رحمانیہ ہاپوڑ میں مدرس مقرر ہوئے۔ پھر مدرسہ کاشف العلوم چھٹمل پور اور مدرسہ قاسم العلوم گاگل ہیڑی ضلع سہارن پور میں رہے جہاں صدر مدرس اور ناظم تعلیمات کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ ۱۳۹۹ھ/۱۹۷۹ء میں دارالعلوم میں تدریس کے لیے تقرر ہوا۔ ۱۹۸۲ء میں دارالعلوم وقف سے وابستہ ہو گئے تھے۔ پھر ۱۴۲۰ھ/۲۰۰۰ء میں دوبارہ دارالعلوم میں مدرس مقرر کیے گئے اور دورہ حدیث و افتاء کی کتابیں پڑھائیں۔ تدریس آپ کا خصوصی ذوق تھا اور آپ کا درس طلبہ میں بہت مقبول تھا۔

آپ کی درسی کتابوں کی اردو شروحات مقبول ہیں جن میں ہدایہ کی شرح اشرف الہدایہ اور تفہیم الہدایہ کے نام سے کافی مشہور ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے فیض سبحانی شرح حسامی، اجمل الحواشی شرح اصول الشاشی، قوت الاخیار شرح نور الانوار، تکمیل الامانی شرح مختصر المعانی اور درس طحاوی شرح طحاوی بھی تحریر کی۔ مولانا شکیل احمد سیتا پوری کے ساتھ تفسیر بیضاوی کی شرح التقریر الحواشی لکھی۔ اجماع و قیاس کی حجیت کے نام سے ایک رسالہ بھی لکھا جو تحفظ سنت سیٹ کے ساتھ شائع ہوا ہے۔

۳۱ مارچ ۲۰۱۹ء مطابق ۲۳ رجب ۱۴۴۰ھ بروز یکشنبہ دہلی میں انتقال ہوا اور مزار قاسمی دیوبند میں دفن کیے گئے۔

مشاہیر علماء و فضلاء دارالعلوم

دارالعلوم دیوبند کے ان مشہور علماء و فضلاء کے حالات آپ نے ملاحظہ فرمایا جنہوں نے دارالعلوم میں کسی نہ کسی حیثیت (عہدہ، رکنیت مجلس شوری، تدریس و ملازمت) سے خدمات انجام دیں۔
اب ذیل میں ہم ان مشاہیر کا ذکر کر رہے ہیں جنہوں نے دارالعلوم سے پڑھنے کے بعد دیگر اداروں اور علاقوں میں علمی و دینی خدمات انجام دیں اور شہرت کی بلندیوں تک پہنچے۔

شمار	نام (بترتیب وفات)	وفات ہجری/عیسوی	صفحہ
۱	حضرت مولانا فخر الحسن گنگوہیؒ	۱۳۱۵ھ/۱۸۹۷ء	۶۹۶
۲	حضرت مولانا محمد مراد فاروقی مظفرنگریؒ	۱۳۳۲ھ/۱۹۱۳ء	۶۹۶
۳	حضرت مولانا منصور علی خاں مراد آبادیؒ	۱۳۳۷ھ/۱۹۱۸ء	۶۹۷
۴	حضرت مولانا امین الدین دہلویؒ	۱۳۳۸ھ/۱۹۲۰ء	۶۹۷
۵	حضرت مولانا ناظر حسن دیوبندیؒ	۱۳۴۱ھ/۱۹۲۳ء	۶۹۸
۶	حضرت مولانا عبداللہ انصاری انیسٹھویؒ	۱۳۴۴ھ/۱۹۲۵ء	۶۹۹
۷	حضرت مولانا عبدالمومن دیوبندیؒ	۱۳۴۷ھ/۱۹۲۸ء	۶۹۹
۸	حضرت مولانا حکیم رحیم اللہ بجنوریؒ	۱۳۴۷ھ/۱۹۲۹ء	۷۰۰
۹	حضرت مولانا ماجد علی جون پوریؒ	۱۳۵۳ھ/۱۹۳۵ء	۷۰۱
۱۰	حضرت مولانا شاہ وارث حسن کوڑہ جہان آبادیؒ	۱۳۵۵ھ/۱۹۳۶ء	۷۰۲
۱۱	حضرت مولانا سید احمد فیض آبادی مدنیؒ	۱۳۵۸ھ/۱۹۳۹ء	۷۰۲
۱۲	حضرت مولانا مظہر الدین شیرکوٹیؒ	۱۳۵۸ھ/۱۹۳۹ء	۷۰۳
۱۳	حضرت مولانا عبدالعزیز سہالوی گوجرانوالویؒ	۱۳۵۹ھ/۱۹۴۰ء	۷۰۳
۱۴	حضرت مولانا حکیم عبدالوہاب غازی پوریؒ	۱۳۶۰ھ/۱۹۴۱ء	۷۰۴
۱۵	حضرت مولانا کریم بخش سنہلیؒ	۱۳۶۱ھ/۱۹۴۲ء	۷۰۵
۱۶	حضرت مولانا مبارک حسین سنہلیؒ	۱۳۶۱ھ/۱۹۴۲ء	۷۰۶

۷۰۷	۱۳۶۳ھ/۱۹۴۴ء	حضرت مولانا محمد الیاس سرہندی ثم بریلوی	۱۷
۷۰۷	۱۳۶۳ھ/۱۹۴۴ء	حضرت مولانا عبید اللہ سندھی	۱۸
۷۰۹	۱۳۶۵ھ/۱۹۴۶ء	حضرت مولانا محمد میاں منصور انصاری	۱۹
۷۱۰	۱۳۶۷ھ/۱۹۴۷ء	حضرت مولانا عبدالرحمن امر وہوی	۲۰
۷۱۱	۱۳۶۷ھ/۱۹۴۸ء	حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری	۲۱
۷۱۲	۱۳۶۹ھ/۱۹۵۰ء	حضرت مولانا سیف الرحمن کابلی	۲۲
۷۱۲	۱۳۷۱ھ/۱۹۵۱ء	حضرت مولانا احمد بزرگ سورتی	۲۳
۷۱۳	۱۳۷۱ھ/۱۹۵۱ء	حضرت مولانا احسان اللہ خان تاجور	۲۴
۷۱۴	۱۳۷۱ھ/۱۹۵۲ء	حضرت مولانا نجم الدین جہلمی	۲۵
۷۱۴	نام معلوم	حضرت مولانا عبدالجید سنہلی	۲۶
۷۱۵	نام معلوم	حضرت مولانا محمد یحییٰ سہسراوی	۲۷
۷۱۵	نام معلوم	حضرت مولانا عبدالرزاق پشاوری	۲۸
۷۱۶	۱۳۷۲ھ/۱۹۵۶ء	حضرت مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی	۲۹
۷۱۷	۱۳۷۹ھ/۱۹۵۹ء	حضرت مولانا مفتی اسماعیل بسم اللہ سورتی	۳۰
۷۱۷	۱۳۸۰ھ/۱۹۶۱ء	حضرت مولانا مفتی محمد حسن امرتسری	۳۱
۷۱۸	۱۳۸۲ھ/۱۹۶۳ء	حضرت مولانا محمد بن موسیٰ افریقی	۳۲
۷۱۹	۱۳۸۴ھ/۱۹۶۵ء	حضرت مولانا خواجہ عبدالحی فاروقی	۳۳
۷۲۰	۱۳۸۵ھ/۱۹۶۵ء	حضرت مولانا عبدالرحمن کیمل پوری	۳۴
۷۲۱	نام معلوم	حضرت مولانا فضل ربی پشاوری	۳۵
۷۲۱	۱۳۸۷ھ/۱۹۶۷ء	حضرت مولانا شاہ وصی اللہ فتح پوری ثم الہ آبادی	۳۶
۷۲۳	۱۳۸۸ھ/۱۹۶۹ء	حضرت مولانا شمس الحق فرید پوری	۳۷
۷۲۳	۱۳۸۹ھ/۱۹۶۹ء	حضرت مولانا محمد یوسف شاہ میر واعظ کشمیری	۳۸
۷۲۵	۱۳۹۱ھ/۱۹۷۱ء	حضرت مولانا عبدالحفیظ بلیاوی	۳۹
۷۲۵	۱۳۹۲ھ/۱۹۷۶ء	حضرت مولانا اطہر علی سلہی	۴۰

۷۲۶	۱۳۹۷ھ/۱۹۷۷ء	حضرت مولانا محمد یوسف بنوریؒ	۴۱
۷۲۷	۱۳۹۸ھ/۱۹۷۸ء	حضرت مولانا شائق احمد عثمانیؒ	۴۲
۷۲۸	۱۴۰۰ھ/۱۹۸۰ء	حضرت مولانا مفتی محمود سرحدیؒ	۴۳
۷۲۹	۱۴۰۱ھ/۱۹۸۱ء	حضرت مولانا غلام غوث ہزارویؒ	۴۴
۷۳۰	نامعلوم	حضرت مولانا محمد چراغ گجرانوالویؒ	۴۵
۷۳۰	۱۴۰۹ھ/۱۹۸۸ء	حضرت مولانا نسیم احمد فریدی امر وہویؒ	۴۶
۷۳۱	۱۴۱۰ھ/۱۹۸۹ء	حضرت مولانا عزیز گل پشاورویؒ	۴۷
۷۳۲	۱۴۱۱ھ/۱۹۹۰ء	حضرت مولانا قاضی سجاد حسین کراچیویؒ	۴۸
۷۳۲	۱۴۱۳ھ/۱۹۹۲ء	حضرت مولانا مسیح اللہ خان جلال آبادیؒ	۴۹
۷۳۳	۱۴۱۵ھ/۱۹۹۴ء	حضرت مولانا محمد طاہر کلکتویؒ	۵۰
۷۳۳	۱۴۱۵ھ/۱۹۹۵ء	حضرت مولانا مفتی ولی حسن ٹوکیؒ	۵۱
۷۳۳	نامعلوم	حضرت مولانا شرف علی کمر لائیؒ	۵۲
۷۳۵	۱۴۱۸ھ/۱۹۹۷ء	حضرت مولانا قاضی محمد زاہد الحسینیؒ	۵۳
۷۳۵	۱۴۱۸ھ/۱۹۹۷ء	حضرت مولانا محمد عمر پالن پوریؒ	۵۴
۷۳۶	۱۴۲۱ھ/۲۰۰۰ء	حضرت مولانا احمد علی آسامیؒ	۵۵
۷۳۷	۱۴۲۱ھ/۲۰۰۱ء	حضرت مولانا عبدالشکور ترمذیؒ	۵۶
۷۳۷	۱۴۲۲ھ/۲۰۰۲ء	حضرت مولانا مفتی رشید احمد لدھیانویؒ	۵۷
۷۳۸	۱۴۲۳ھ/۲۰۰۲ء	حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمیؒ	۵۸
۷۳۹	۱۴۲۴ھ/۲۰۰۳ء	حضرت مولانا قاضی مظہر حسین چکواٹیؒ	۵۹
۷۳۹	۱۴۳۰ھ/۲۰۰۹ء	حضرت مولانا سرفراز خان صفدرؒ	۶۰
۷۴۰	۱۴۳۴ھ/۲۰۱۳ء	حضرت مولانا زین العابدین اعظمیؒ	۶۱
۷۴۱	۱۴۳۸ھ/۲۰۱۷ء	حضرت مولانا سلیم اللہ خان کراچیویؒ	۶۲
۷۴۲	۱۴۳۹ھ/۲۰۱۷ء	حضرت مولانا ڈاکٹر محمد مصطفیٰ اعظمیؒ	۶۳

مشاہیر علماء و فضلاء دارالعلوم کے حالات

حضرت مولانا فخر الحسن گنگوہیؒ

حضرت مولانا فخر الحسن بن عبدالرحمن گنگوہیؒ دارالعلوم کے اولین فضلاء اور حضرت نانوتویؒ و حضرت گنگوہیؒ کے خاص تلامذہ میں تھے۔ مناظرے سے بہت دلچسپی تھی اور بہت شیریں اور دلکش تقریر کرتے تھے۔

وطن گنگوہ تھا۔ ۱۲۸۳ھ / ۱۸۶۷ء میں دارالعلوم میں داخل ہوئے اور ۱۲۹۰ھ / ۱۸۷۳ء میں فراغت حاصل کی۔ دہلی میں حکیم محمود بن صادق شریفی خان دہلوی سے طب کی تعلیم بھی حاصل کی تھی۔

۱۲۹۳ھ / ۱۸۷۷ء میں خوجہ کے مدرسہ میں صدر مدرس مقرر ہوئے۔ پھر دہلی کے مدرسہ عبدالرب چلے گئے۔ بعد میں کچھ خانگی مجبوریوں کے باعث گنگوہ کی سکونت ترک کر کے کان پور چلے گئے تھے اور وہیں مطب اور مستقل سکونت اختیار کر لی تھی۔

حضرت نانوتویؒ سے خاص مناسبت تھی۔ سفر اور حضر میں ان کے ساتھ رہتے تھے۔ حضرت نانوتویؒ کے ساتھ مباحثہ شاہ جہانپور عرف میلہ خدا شناسی میں شریک ہوئے تھے اور بعد میں اس کی مکمل روداد مرتب کی جو مباحثہ شاہ جہان پور کے نام سے شائع ہوئی۔ حضرت نانوتویؒ کی ایک مفصل سوانح حیات بھی لکھی تھی جو کم و بیش ایک ہزار صفحات پر مشتمل تھی۔ کان پور میں ان کے مکان میں آگ لگ گئی تھی جس میں کتابوں کے ساتھ سوانح حیات کا مسودہ بھی جل گیا تھا۔

حدیث ابوداؤد کا ایک مبسوط حاشیہ التعلیق المحمود کے نام سے لکھا ہے، یہ حاشیہ مطبع مجیدی کان پور میں چھپا تھا اور اب عام طور پر متداول ہے۔ اس کے علاوہ انھوں نے ابن ماجہ کا بھی حاشیہ لکھا تھا جو مطبع نامی کان پور سے شائع ہوا تھا۔ آپ کا ایک حاشیہ تلخیص المفتاح پر بھی ہے۔

۱۳۱۵ھ / ۱۸۹۷ء کان پور میں انتقال ہوا اور وہیں مدفون ہوئے۔

مآخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، جلد دوم، ص ۳۷؛ نزہۃ الخواطر، الجزء الثامن، فخر الحسن الکنکوہی

حضرت مولانا محمد مراد فاروقی مظفرنگریؒ

دارالعلوم کے اولین فضلاء میں تھے۔ مدرسہ مراد یہ مظفرنگر کے تاجر صدر مدرس تھے۔ حضرت بابا فرید گنج شکرؒ کی اٹھارہویں پشت میں تھے۔

۱۲۶۲ھ/۱۸۴۵ء میں پاک پٹن کے قریب ایک گاؤں امب میں پیدا ہوئے۔ لاہور میں اردو اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ دہلی میں حافظ غلام رسول ویراں سے عربی ابتدائی کتابیں پڑھیں اور پھر علی گڑھ جا کر حضرت مولانا لطف اللہ کے حلقہٴ درس میں شامل ہو گئے۔ رام پور میں مولانا ارشاد حسین سے بھی کچھ کتابیں پڑھیں۔ آخر میں دارالعلوم دیوبند میں پانچ سال رہ کر علوم کی تکمیل کی اور ۱۲۸۸ھ/۱۸۷۱ء میں فراغت حاصل کی۔ انھوں نے زمانہ طالب علمی ہی میں اپنی خداداد ذہانت، حصول علم میں غیر معمولی محنت اور علمی استعداد کے لحاظ سے ممتاز حیثیت حاصل کر لی تھی۔ ۱۲۹۰ھ/۱۸۷۳ء میں ایک سال تک دارالعلوم میں تدریسی خدمات بھی انجام دیں۔ حضرت نانوتویؒ کے ذریعہ مظفرنگر کی جامع مسجد حوض والی میں قائم ہونے والے مدرسہ میں صدر مدرس مقرر کیے گئے۔ آپ نے پوری زندگی درس و تدریس میں گزاری، مظفرنگر میں آپ کی مسند تدریس چالیس سال تک چمکھی رہی۔ یہ مدرسہ آپ ہی کی طرف منسوب ہو کر مدرسہ مرادیہ کے نام سے معروف ہوا۔

۳ رجب ۱۳۳۲ھ/مئی ۱۹۱۴ء کو عین جمعہ کی اذان کے وقت وفات پائی اور مسجد شاہ اسلام مظفرنگر کے احاطہ میں مدفون ہوئے۔

مآخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم، ص ۳۰؛ دارالعلوم دیوبند کی صد سالہ زندگی، ص ۱۰۸

حضرت مولانا منصور علی خاں مراد آبادیؒ

ہندوستان کے مشہور علماء میں تھے۔ حضرت نانوتویؒ کے شاگرد تھے اور ایک عرصہ تک ان کے ساتھ رہے۔ مراد آباد کے رہنے والے تھے۔ ۱۲۹۵ھ/۱۸۷۸ء میں دارالعلوم سے فراغت حاصل کی۔ حدیث کی تعلیم حضرت مولانا احمد علی سہارن پوریؒ سے بھی حاصل کی۔

جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد میں صدر المدرسین مقرر ہوئے۔ پھر دکن چلے گئے اور جامعہ طیبہ حیدرآباد میں تدریس پر مامور ہوئے۔ ایک مدت تک وہاں رہے۔ عیسائیوں سے مناظرے کیے اور رد عیسائیت کے موضوع پر کتابیں لکھیں۔ آخر میں مکہ مکرمہ چلے گئے اور وہیں مقیم ہو گئے۔

دارالعلوم کے کتب خانہ میں آپ کی تین کتابیں محفوظ ہیں: (۱) مذہب منصور ۲ جلدوں میں (۲) الفتح المبین (۳) معیار الادویہ

مکہ مکرمہ میں ۱۳۳۷ھ/۱۹۱۸ء میں انتقال ہوا۔

مآخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، جلد دوم، ص ۴۴؛ کاروانِ رفتہ، اسیر اوروی، ص ۲۷

حضرت مولانا امین الدین دہلویؒ

دہلی کے مشہور و ممتاز مدرسہ امینیہ کے بانی اور ممتاز عالم دین تھے۔ ۱۲۸۳ھ/۱۸۶۶ء میں اورنگ آباد (دکن)

میں پیدا ہوئے۔

۱۳۰۴ھ/۱۸۸۶ء میں دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا۔ ۱۳۰۷ھ/۱۸۸۹ء میں شاہجہان پور چلے گئے، وہاں مولانا نادر الدین سے معقولات کی کچھ کتابیں پڑھیں۔ مولانا موصوف منطق و فلسفہ میں مولانا عبدالحق خیر آبادی کے شاگرد خاص تھے۔ ۱۳۰۹ھ/۱۸۹۱ء میں پھر دیوبند واپس آ کر درس نظامی کی تکمیل کی اور ۱۳۱۲ھ/۱۸۹۴ء میں فارغ التحصیل ہوئے۔

پہلے ایولہ ضلع ناسک میں سکونت اختیار کی اور آخر میں مستقل طور پر دہلی میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ ۱۳۱۵ھ/۱۸۹۷ء میں آپ نے سنہری مسجد چاندنی چوک دہلی میں مدرسہ امینہ جاری کیا۔ اس مدرسہ کے پہلے صدر مدرس حضرت مولانا انور شاہ کشمیری مقرر ہوئے۔ پھر حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی نے اس کی مسند صدارت کو زینت بخشی۔ بعد میں یہ مدرسہ کشمیری دروازہ کی طرف منتقل ہو گیا۔ دہلی کے تمام دینی مدارس میں اپنی جلالت علمی اور مرکزیت کے لحاظ سے یہ مدرسہ ہمیشہ ممتاز رہا۔

دہلی اور اس کے اطراف میں اپنے زہد و تقویٰ کے باعث ان کی بڑی شہرت تھی۔ عملیات کے فن میں بھی دست گاہ رکھتے تھے۔ اس سبب سے ان کے عقیدت مندوں کا حلقہ بہت وسیع تھا۔ ان کے دل میں فیض رسانی کا جذبہ موج زن رہتا تھا۔ دینی معاملات اور مدرسہ کے انتظامات کے سلسلہ میں کسی کی رُو رعایت نہیں کرتے تھے۔ سیاسی ہنگاموں سے ہمیشہ دامن کش رہے۔ طلبہ کو اولاد کی طرح عزیز رکھتے تھے اور ان سے بڑی شفقت و محبت سے پیش آتے تھے۔

۱۹ رمضان ۱۳۳۸ھ/۶ جون ۱۹۲۰ء کو وفات پائی اور مہندیان میں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے مزار کے قریب دفن کیے گئے۔

ماخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم، ص ۷۶-۷۷

حضرت مولانا ناظر حسن دیوبندیؒ

حضرت مولانا ناظر حسن دیوبندی بن امیر بخش ابن ظہور عالم دیوبند کے عثمانی خاندان سے تھے اور ملک کے مشہور علماء و اساتذہ میں ان کا شمار تھا۔

۱۲۸۷ھ/۱۸۷۰ء سے ۱۲۹۶ھ/۱۸۷۸ء تک دارالعلوم میں تعلیم حاصل کی۔ حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی سے حدیث پڑھی۔ حضرت مولانا احمد علی سہارن پوری سے بھی کتب حدیث کی تحصیل کی۔ ۱۳۰۱ھ/۱۸۸۳ء میں دستار بندی ہوئی۔

جید عالم تھے۔ صورتاً وجیبہ اور سیرۃ فقیہ تھے۔ سلسلہ نقشبندیہ سے منسلک تھے۔ اولاً مدرسہ عربیہ چھتاری ضلع بلند شہر کے مدرسہ میں کچھ عرصہ پڑھایا، پھر مدرسہ عالیہ فتح پوری دہلی کے صدر مدرس رہے۔ بعد ازاں ۱۳۳۸ھ

۱۹۱۹ء میں مدرسہ عالیہ ڈھا کہ میں صدر المدرسین کے منصب پر فائز ہوئے۔
 اردو میں چند کتابیں بھی لکھیں۔ قرأت خلف الامام کے موضوع پر ایک ضخیم کتاب 'الفرقان فی قرآۃ ام القرآن' تصنیف فرمائی۔ آپ کی دوسری کتاب کشف الغطاء عن مسئلۃ الربا کے نام سے ہے۔
 یکم ذوالحجہ ۱۳۳۱ھ / ۱۶ جولائی ۱۹۲۳ء میں ڈھا کہ میں انتقال ہوا اور وہیں مدفون ہوئے۔
 آپ کے صاحبزادے مولانا محمد تقی صاحب مشہور عالم ہوئے، انھوں نے ڈابھیل اور بیت العلوم مالیر گاؤں میں تدریسی خدمات انجام دیں اور آخر میں مدرسہ شاہی میں ناظم مقرر ہوئے۔
 مأخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، جلد دوم، ص ۴۹، ۵۰؛ مشاہیر علمائے دیوبند، ص ۶۴۳؛
 نزہۃ الخواطر، جلد ہشتم، مولانا ناظر حسن الدیوبندی

حضرت مولانا عبداللہ انصاری انیسٹھوی

دارالعلوم کے اولین فضلاء میں تھے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پہلے ناظم دینیات اور حضرت نانوتوی کے داماد تھے۔

انیسٹھ ضلع سہارن پور وطن تھا۔ ۱۲۸۵ھ / ۱۸۶۸ء میں دارالعلوم میں داخل ہوئے اور ۱۲۸۷ھ / ۱۸۷۰ء میں یہاں سے فراغت حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی سے حاصل کی۔ مکہ مکرمہ میں شیخ المشائخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی خدمت میں ایک عرصہ تک مقیم رہے اور خلافت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت نانوتوی کی بڑی صاحبزادی محترمہ اکرام النساء آپ سے منسوب تھیں۔

۱۲۸۷ھ / ۱۸۷۰ء میں گلاؤٹھی میں منشی مہربان علی صاحب کے قائم کردہ مدرسہ منبع العلوم کے پہلے صدر مدرس مقرر ہوئے۔ ۱۲۹۱ھ / ۱۸۷۳ء سے ۱۲۹۲ھ / ۱۸۷۵ء تک دارالعلوم میں تدریسی خدمات بھی انجام دیں۔ بعد ازاں ۱۳۱۱ھ / ۱۸۹۳ء میں سرسید مرحوم نے ان کو علی گڑھ بلا کر ایم اے او کالج (موجودہ مسلم یونیورسٹی) میں شعبہ دینیات کا ناظم مقرر کیا۔

نزہۃ الخواطر جلد ہشتم میں لکھا ہے کہ بمبئی میں ۱۳۴۴ھ / ۱۹۲۵ء میں وفات ہوئی، تاریخ دارالعلوم کے مطابق انیسٹھ میں انتقال ہوا اور آبائی قبرستان میں مدفون ہیں۔

مأخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، جلد دوم، ص ۲۹؛ دارالعلوم دیوبند کی صد سالہ زندگی، ص ۱۰۸

حضرت مولانا عبدالمومن دیوبندی

دیوبند کے ممتاز علمی خاندان شیوخ عثمانی کے رکن تھے اور حضرت شیخ الہند کے برادر نسبتی۔ بڑے ذہین و ذکی اور وسیع النظر عالم تھے۔ صاحب نسبت تھے اور زندگی کا انداز متوکلانہ تھا۔

۱۲۹۲ھ/۱۸۷۵ء میں دارالعلوم میں داخل ہوئے اور ۱۲۹۹/۱۸۸۲ء میں حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتویؒ سے دورہ حدیث پڑھا۔ ۱۳۰۱ھ/۱۸۸۳ء کے جلسہ دستار بندی میں حضرت گنگوہیؒ کے دست مبارک سے دستار فضیلت حاصل کی۔

اہل میرٹھ کی خواہش پر آپ وہاں تشریف لے گئے اور تمام عمر وہیں درس و افتاء کی خدمات میں گزاری۔ پہلے مدرسہ قومیہ کے صدر مدرس ہوئے، پھر مدرسہ امداد العلوم صدر میرٹھ میں صدر مدرس ہوئے۔ آخر عمر میں تفسیر و حدیث اور فقہ کی اعلیٰ کتابیں نوکِ زبان ہو گئی تھیں۔ اپنے استاذ حضرت مولانا محمد یعقوبؒ کے انداز پر مختصر، جامع اور دل نشیں تقریر فرماتے تھے۔

میرٹھ میں ان سے بڑا علمی فیض جاری ہوا۔ حضرت مولانا عاشق الہی میرٹھی مترجم قرآن کریم نے از اول تا آخر ان سے پڑھا۔ حضرت مولانا اعجاز علی امرہویؒ اور حضرت مولانا سراج احمد میرٹھیؒ بھی ان کے شاگرد تھے۔ مولانا قاضی زین العابدین سجاد میرٹھیؒ نے بھی ان سے پڑھا ہے۔ دارالعلوم کے درجات حدیث کے ممتحن ہوتے تھے۔ ۱۳۲۷ھ/۱۹۲۸ء میں دہلی میں جہاں بغرض علاج مقیم تھے وفات پائی اور درگاہ حضرت خواجہ باقی باللہ میں دفن کیے گئے۔

ماخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، جلد دوم، ص ۵۴-۵۵

حضرت مولانا حکیم رحیم اللہ بجنوریؒ

حضرت مولانا حکیم رحیم اللہ بجنوری ایک جید عالم دین، مصنف اور مناظر تھے۔ حضرت نانوتویؒ کے ارشد تلامذہ میں تھے۔ آپ کے والد مولانا علیم اللہ بجنوری نے دہلی میں حضرت مولانا مملوک العلی نانوتویؒ سے پڑھا تھا اور حضرت نانوتویؒ کے ساتھیوں میں تھے۔

بجنور کے رہنے والے تھے۔ نصاب کی تکمیل دارالعلوم سے ۱۲۹۵ھ/۱۸۷۸ء میں کی۔ اس سے پہلے منطق، فلسفہ، کلام اور ریاضی کی تعلیم مولانا عبدالعلی رام پوری سے حاصل کی تھی۔ طب کی کتابیں حکیم ابراہیم لکھنوی سے پڑھیں اور طویل عرصہ تک لکھنؤ میں استاذ کی خدمت میں حاضر رہے۔

باوضع اور اوراد و وظائف کے بڑے پابند تھے۔ گھر پر مطب کرتے تھے اور خدمتِ خلق کے طور پر اس مشغلہ کو اختیار کیا تھا۔ عقائد و کلام اور مناظرے میں خاص دستگاہ حاصل تھی۔

ان علوم میں انھوں نے اردو، عربی اور فارسی زبانوں میں ایک درجن سے زائد کتابیں لکھی ہیں۔ حضرت نانوتویؒ سے والہانہ تعلق تھا، ان کی شان میں انھوں نے عربی میں کئی قصیدے لکھے ہیں۔

آپ کی تصانیف کے نام یہ ہیں: (۱) الاقتصاد فی الضاد (۲) جوابات الاعتراضات الواہیہ (فارسی)

(۳) تہدید المنکرین لقدرة رب العالمین (فارسی) (۴) احسن الکلام فی اصول عقائد الاسلام (عربی) (۵) اظہار الحقیقۃ (۶) زجر المناع لکشف القناع عن وجه الوجوب والامتناع (عربی) (۷) الکانفی للاعتقاد الصانی (عربی) (۸) اثبات القدرة الالہیہ باقامہ الحجۃ الالہامیہ (فارسی) (۹) الخط المقسوم من قاسم العلوم (۱۰) کشف القناع عن وجوب الامتناع (۱۱) ابطال اصول الشیعۃ بدلائل العقلیۃ والنقلیۃ۔

دارالعلوم دیوبند کے سابق مہتمم حضرت مولانا مرغوب الرحمن بجنوری آپ کے عزیزوں میں تھے۔

۱۳۳۷ھ/۱۹۲۹ء میں انتقال ہوا۔

ماخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، جلد دوم، ص ۴۳، ۴۴؛ فہرست کتب اکابر، کتب خانہ دارالعلوم دیوبند

حضرت مولانا ماجد علی جون پوریؒ

مشرقی ہندوستان کے مشاہیر علم و فضل میں تھے اور اپنے دور کے زبردست معقولی و منقولی عالم سمجھے جاتے تھے۔ حضرت گنگوہیؒ کے مایہ ناز تلامذہ میں شمار ہوتے تھے۔

مانی کلاں ضلع جون پور کے رہنے والے تھے۔ ۱۳۱۲ھ/۱۸۹۶ء میں دارالعلوم آئے۔ حضرت گنگوہیؒ کے درس حدیث میں دو سال تک شریک رہے۔ قیام گنگوہ کے زمانے میں رات رات بھر حضرت گنگوہیؒ کی تقریر قلم بند کرتے، بعض دفعہ اس میں اتنا استغراق ہوتا کہ فجر کی اذان ہو جاتی۔ مولانا عبدالحق خیر آبادی، مفتی لطف اللہ علی گڑھی، قاضی عبدالحق کابلی اور مولانا احمد حسن کان پوری سے بھی علوم و فنون کی تحصیل کی تھی۔

شروع میں مینڈھو (علی گڑھ) اور گلاؤٹھی (بلند شہر) میں مدرس رہے، کچھ مدت تک دہلی کے مدارس میں بھی درس دیا۔ آخر میں مدرسہ عالیہ کلکتہ میں صدر مدرس مقرر ہوئے۔ اخیر عمر میں مدرسہ بیت العلوم سرائے میر میں وہاں کے اساتذہ کو بخاری کا درس دیتے تھے جس میں مدرسۃ الاصلاح کے بعض اساتذہ بھی شریک ہوتے تھے۔ حضرت مولانا عبد الغنی پھول پوری خلیفہ اجل حضرت تھانویؒ اور حضرت مولانا سید فخر الدین احمد شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند آپ کے تلامذہ میں تھے۔

تدریس کے ساتھ آپ نے متعدد کتابیں اور مختلف مسائل پر رسالے تصنیف کیے، مگر اب تک کوئی تصنیف طبع نہ ہو سکی۔ ان کی تحریر کی ہوئی حضرت گنگوہیؒ کی تقریر بخاری اب تک ان کے خاندان میں محفوظ ہے۔ سنن ابوداؤد، سنن ترمذی اور شامی پر آپ نے مفید حواشی لکھے تھے، مگر طبع نہ ہو سکے۔

یکم شوال ۱۳۵۳ھ/۷ جنوری ۱۹۳۵ء کو انتقال ہوا۔

ماخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم، ص ۸۱-۸۲؛ نزمۃ الخواطر، جلد ہشتم، مولانا ماجد علی الجونپوری؛

تذکرہ علمائے اعظم گڑھ، مولانا حبیب الرحمن قاسمی اعظمی، ص ۱۶۰

حضرت مولانا شاہ وارث حسن کوڑہ جہان آبادیؒ

کوڑہ جہان آباد ضلع فتح پور وطن تھا۔ ۱۳۱۰ھ/۱۸۹۲ء میں دارالعلوم میں داخل ہوئے اور ۱۳۱۲ھ/۱۸۹۴ء میں تعلیم سے فراغت حاصل کی۔

فراغت کے بعد حضرت گنگوہیؒ کی خدمت میں رہے اور خلافت سے سرفراز ہوئے۔ پھر حجاز چلے گئے اور وہاں کچھ دن حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی خدمت میں رہے۔

کچھ مدت تک بنارس اور مظفر پور میں صدر مدرس رہے، پھر ترک ملازمت کر کے لکھنؤ میں اقامت اختیار کر لی اور مخلوق کی رشد و ہدایت میں مشغول ہو گئے۔ انگریزی داں طبقہ ان سے زیادہ مستفید ہوا۔ استفادہ کرنے والوں میں بیچ، وکیل، بڑے بڑے افسر اور رؤساء شامل تھے۔

۱۶ جمادی الاولیٰ ۱۳۵۵ھ/۵ اگست ۱۹۳۶ء کو وفات پائی اور جامع مسجد ٹیلہ شاہ پیر محمد (لکھنؤ) کے قریب مدفون ہیں۔

ماخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم، ص ۷۶

حضرت مولانا سید احمد فیض آبادی مدنیؒ

مدینہ منورہ میں مدرسۃ العلوم الشرعیہ کے بانی اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے برادر بزرگ تھے۔ ۲۱ ربیع الثانی ۱۲۹۳ھ/۱۶ مئی ۱۸۷۶ء ہانگرمو (اتاؤ) میں پیدا ہوئے جہاں ان کے والد بسلسلہ ملازمت مقیم تھے۔ وطن الہداد پور ٹانڈہ ضلع فیض آباد تھا۔ ابتدائی تعلیم والد صاحب سے حاصل کی۔ الہ آباد بورڈ سے اردو میں مڈل اسکول پاس کیا۔ بعد ازاں دارالعلوم میں داخل ہو کر درس نظامی کی تکمیل کر کے ۱۳۱۵ھ/۱۸۹۷ء میں حضرت شیخ الہندؒ سے حدیث پڑھ کر فارغ ہوئے۔

حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ سے غیر معمولی عقیدت تھی، گنگوہہ میں طویل قیام فرماتے تھے۔ حضرت شیخ الہندؒ سے خلافت حاصل تھی۔

۱۳۱۶ھ/۱۸۹۸ء میں والد ماجد کے ہمراہ مدینہ منورہ چلے گئے۔ وہاں ساری عمر علوم دینیہ کی تعلیم و تدریس میں مشغول رہے۔ ۱۳۴۰ھ/۱۹۲۱ء میں انھوں نے مسجد نبوی سے متصل بہ جانب مشرق مدرسۃ العلوم الشرعیہ قائم کیا۔ اس وقت مدینہ منورہ میں دینی تعلیم کا کوئی مدرسہ نہیں تھا۔ مدرسہ کے اخراجات ایک عرصہ تک برصغیر کے اہل خیر مسلمانوں کی امداد و تعاون سے پورے ہوتے رہے۔ ایک زمانے تک حجاز کے بڑے دینی مدارس میں اس کا شمار ہوتا تھا اور اس سے پڑھ کر نکلنے والے حکومت میں اہم مناصب پر فائز ہوتے رہے۔

۱۱ شوال ۱۳۵۸ھ / ۲۴ نومبر ۱۹۳۹ء کو وفات پائی اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔
 مأخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم، ص ۸۴-۸۵؛ مدرسۃ العلوم الشرعیۃ کی ویب سائٹ
<http://www.oloumsharia.edu.sa>

حضرت مولانا مظہر الدین شیرکوٹی

ملک کے مشہور مقرر، صحافی اور مجاہد آزادی تھے۔ کئی اخبارات کے ایڈیٹر اور بانی تھے۔
 شیرکوٹ ضلع، بجنور وطن تھا۔ والد کا نام شیخ علی بخش تھا۔ مدرسہ الہیات کانپور میں تعلیم پائی۔ ۱۳۲۶ھ / ۱۹۰۸ء میں
 دارالعلوم سے فراغت حاصل کی۔ ۳۲-۱۳۳۱ھ / ۱۴-۱۹۱۳ء کے دوران کچھ دنوں تک دارالعلوم میں مدرس بھی رہے۔
 ملک کے مشہور اخبار 'مدینہ' بجنور کے ایڈیٹر رہے۔ بعد ازاں دہلی سے 'سہ روزہ' الاماں جاری کیا۔ الاماں
 اپنے دور میں ایک مقبول اخبار سمجھا جاتا تھا۔ ایک دوسرا اخبار 'روزنامہ وحدت' بھی جاری کیا۔ انہوں نے کئی تاریخی
 ناول بھی لکھے جو اس زمانے میں بڑے مقبول تھے۔

مدرسہ الہیات میں بھی خدمات انجام دیں۔ تحریک خلافت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جمعیت الانصار سے بھی
 متعلق رہے۔ جنگ بلقان کے زمانے میں کلکتہ میں قاسم المعارف سے وابستہ رہے اور ہلال احمر کے لیے چندہ جمع
 کیا۔ مسلم لیگ کے زبردست حامیوں میں سے تھے۔
 ریشمی رومال سازش کیس کی رپورٹ میں ان کی نسبت لکھا ہے:

”اس نے کلکتہ میں مولانا ابوالکلام آزاد کے تحت دارالارشاد میں بہ حیثیت استاد اور البلاغ میں بہ
 حیثیت ایڈیٹر ملازمت قبول کر لی۔ وہ مولانا محمود حسن کامرید ہے اور دیوبند کے خفیہ اجلاسوں میں
 شامل ہوا کرتا تھا۔“

۱۳۵۸ھ / ۱۹۳۹ء میں ان کے اخبار الاماں کے دفتر میں ان پر قاتلانہ حملہ ہوا اور اسی میں جاں بحق ہوئے۔
 مأخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم، ص ۱۰۲؛ تحریک شیخ الہند، ص ۴۰۵-۴۰۶

حضرت مولانا عبدالعزیز سہالوی گجرانوالوی

پنجاب کے مشہور عالم اور محدث تھے۔

مولانا عبدالعزیز بن قاضی نور محمد ۱۸۸۴ء میں پنڈ سہال ضلع راولپنڈی میں پیدا ہوئے۔ اسی لیے وطن کی
 طرف نسبت کرتے ہوئے انہیں محدث سہالوی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند سے ۱۳۱۸ھ /
 ۱۹۰۰ء میں دورہ حدیث کی تکمیل کی۔

جامع مسجد گجرانوالہ میں امام و خطیب تھے۔ وہیں مدرسہ انوار العلوم کی بنیاد رکھی اور تدریس حدیث میں

مشغول رہے۔ پنجاب کے علمی اور دینی حلقوں اپنے علم و فضل کے لحاظ سے بڑی قدر و منزلت رکھتے تھے۔ علوم حدیث میں بڑا گہرا مطالعہ اور بڑا استحضار تھا۔ اپنے علاقہ میں علمائے حق کے ترجمان تھے۔ اختلافی مسائل میں اہل بدعت اور غیر مقلدین سے ان کا مقابلہ رہا کرتا تھا۔

علم حدیث میں نبراس الساری علی اطراف البخاری دو جلدوں میں ان کی مشہور تالیف ہے۔ اس میں مقیاس الواری کے نام سے حاشیہ بھی ہے۔ حضرت مولانا نور شاہ کشمیری ان کے علم و فضل کے مداح تھے اور ان کی تصنیف نبراس الساری کو بہت پسند فرماتے تھے۔

’بغیۃ اللمعی‘ کے نام سے نصب الرایۃ للزیلعی (تا کتاب الحج) پر حاشیہ بھی لکھا۔ مسند احمد کے اطراف اور طحاوی کے رجال وغیرہ پر بھی تحقیقی کام کیا، لیکن شائع نہ ہو سکا۔ ان کے علاوہ مسئلہ تقلید، قرأت خلف الامام وغیرہ پر کچھ رسائل بھی تحریر کیے۔

۳ رمضان ۱۳۵۹ھ / ۵ اکتوبر ۱۹۴۰ء کو اپنے آبائی وطن سہال میں انتقال کیا اور وہیں دفن کیے گئے۔

مآخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم، ص ۸۷؛ مشاہیر علمائے دیوبند، ص ۳۰۱-۳۰۲

حضرت مولانا حکیم عبدالوہاب غازی پوریؒ

منقول اور معقول کے ممتاز علماء اور ماہر اطباء میں سے تھے۔ ہندوستان کے مشہور سیاسی رہنما ڈاکٹر مختار احمد انصاری کے بڑے بھائی تھے۔ فراست، سرعت اور اک اور قوت حفظ میں یگانہ روزگار تھے۔ امراض کی تشخیص اور نبض کی پہچان میں ایک یادگار اور نشانی تھے۔ بڑے وجیہہ، نورانی صورت اور باوقار شخصیت کے حامل تھے۔

حضرت مولانا حکیم عبدالوہاب بن عبدالرحمن انصاری، مشرقی یوپی کے ضلع غازی پور میں قصبہ یوسف پور کے رہنے والے تھے۔ دس سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ ابتدائی صرف و نحو کی تعلیم وطن میں پائی۔ ۱۵ سال کی عمر میں ۱۳۰۰ھ / ۱۸۸۳ء میں دارالعلوم سے فراغت حاصل کی۔ تکمیل سے پہلے چیک کا شکار ہوئے اور پیدائشی سے محروم ہو گئے۔ حضرت مولانا فیض الحسن سہارن پوریؒ اور مولانا ذوالفقار علی دیوبندیؒ سے ادب عربی پڑھا۔ طب کی تعلیم دہلی میں حکیم محمود خاں بن صادق شریفی سے حاصل کی۔

تعلیم سے فارغ ہو کر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کی اور مرشد کی صحبت میں رہ کر باطنی کمال حاصل کیا۔ ان کا بیان ہے کہ: ”ایک مرتبہ میں نے حضرت گنگوہیؒ سے عرض کیا کہ اگرچہ میں نے ذریعہ معاش کے لیے طب پڑھ لی ہے لیکن اطباء نبض کے علاوہ مریض کا چہرہ، قارورہ اور دوسرے مشاہدات کی مدد سے مرض کی تشخیص کرتے ہیں اور میں بوجہ عدم بصارت اس سے محروم ہوں؛ میرے لیے دعا فرمادیجیے کہ اللہ تعالیٰ میری اس مشکل کو آسان فرمادے۔ اس پر حضرت نے فرمایا: اللہ تعالیٰ تمہیں نباضی کی مہارت عطا فرمائے گا، جس سے تم اس مریض کے امراض پر مطلع ہو جاؤ گے، جن کو دوسرے اطباء مشاہدات سے معلوم کرتے ہیں۔“

حکیم صاحب کا بیان ہے کہ میں شیخ کی اس کرامت کا روز آنہ مشاہدہ کرتا ہوں۔ نبض پر ہاتھ رکھتے ہی مجھ کو مریض اور مرض کی تمام کیفیتیں منکشف ہو جاتی ہیں۔

بہمی اور شولا پور میں مطب کیا۔ ایک مدت تک نظام دکن کے معالج خصوصی رہے۔ آخر میں دہلی میں مقیم ہو گئے تھے، جامع مسجد کے قریب ان کا مطب تھا۔ بعد میں کناٹ پلیس میں منتقل ہو گئے تھے۔

ان کی نبض شناسی کی عجیب و غریب واقعات سننے میں آئے ہیں۔ تشخیص مرض اور تجویز دونوں میں مہارت تامہ رکھتے تھے۔ علم نبض پر ان کی ایک معرکہ الآراء تصنیف اسرار شریانیہ کے نام سے ہے جس میں نبض کے موضوع پر بڑی حکیمانہ بحث کی گئی ہے۔ ہندوستان بھر میں ان کے مطب کی شہرت تھی۔ دور دور سے لوگ ان کے مطب میں آتے تھے اور شفا یاب ہوتے تھے۔ ان کے سامنے دواؤں کا ایک بڑا صندوق رکھا رہتا تھا جس میں بہت سے خانے تھے، بے تامل اس میں سے دوا نکال لیتے تھے، ان کا ہاتھ اسی دوا کے خانے میں پڑتا جس کی ضرورت ہوتی تھی۔

مطب میں مریضوں کے بے پناہ ہجوم کے باوجود دینی علوم سے برابر شغف رہا۔ نہایت عبادت گزار اور پرہیزگار تھے۔ دیوبند، گنگوہ اور یوسف پور کے کسی مریض سے خواہ وہ ہندو ہو یا مسلمان، قیمتی سے قیمتی دوا کے پیسے نہیں لیتے تھے۔ یوسف پور وطن تھا، دیوبند میں تعلیم پائی تھی اور گنگوہ میں تربیت باطنی حاصل کی تھی۔ اسی طرح علماء و صوفیاء سے بھی قیمت نہیں لیتے تھے۔

۷ ربیع الثانی ۱۳۶۰ھ (مئی ۱۹۴۱ء) کو دہلی میں وفات پائی۔ وصیت کے مطابق ان کا جنازہ دہلی سے گنگوہ لایا گیا اور حضرت گنگوہی کے مزار کے قریب ان کو دفن کیا گیا۔

ماخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم، ص ۶۱، ۶۲؛ نزہۃ الخواطر، جلد ہشتم، الحکیم عبدالوہاب الغازی پوری المعروف حکیم نابینا

حضرت مولانا کریم بخش سنبلہ

جید الاستعداد عالم تھے۔ متوسطات تک کتابیں اپنے وطن میں سنبلہ میں پڑھ کر امر وہ گئے اور وہاں حضرت مولانا احمد حسن امر وہوئی سے بعض اسباق پڑھے۔ بعد ازاں دارالعلوم دیوبند میں داخل ہو کر ۱۳۱۷ھ/۱۸۹۹ء میں حضرت شیخ الہند سے دورہ حدیث کی تکمیل کی۔

مختلف مدارس میں مدرس رہے۔ ہاپوڑ کے زمانہ تدریس میں حضرت مولانا سید فخر الدین احمد نے بھی ان سے پڑھا تھا۔ مدرسہ جامع العلوم کان پور میں بھی صدر مدرس رہے، پھر مدرسہ دارالعلوم منو کے صدر مدرس مقرر ہوئے۔ اس زمانے میں مولانا حبیب الرحمن محدث اعظمی، مولانا مفتی عبداللطیف اعظمی وغیرہ نے حدیث کی کچھ کتابیں ان سے پڑھیں۔ مولانا منظور احمد نعمانی بھی آپ کے خصوصی شاگردوں میں ہیں۔

مولانا مرحوم کی تحصیل علم کے بعد پوری زندگی درس و تدریس ہی میں گزری، اس لیے تلامذہ کا دائرہ خاصا وسیع

ہے۔ علم و تدریس میں مقام بہت بلند تھا، پھر کم ایسا دیکھا گیا ہے کہ جن کو دینی علوم (حدیث، تفسیر وغیرہ) میں مہارت کا مقام حاصل ہو وہ معقولات (منطق و فلسفہ وغیرہ) میں بھی کوئی اچھی دست گاہ رکھتے ہوں، لیکن مولانا انہی مستثنیات میں سے تھے؛ تفسیر و حدیث اور فقہ کا طالب علم ان کو ان علوم میں ماہر سمجھتا تھا اور منطق و فلسفہ اور علم کلام کے طلبہ ان کو ان فنون کا خصوصی استاذ جانتے اور مانتے تھے۔

۱۷ شوال ۱۳۶۱ھ / ۲۸ اکتوبر ۱۹۴۲ء میں وفات پائی۔

ماخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم، ص ۸۵-۸۶؛ ماہنامہ الفرقان، مولانا محمد منظور نعمانی

رمضان و شوال ۱۳۶۱ھ

حضرت مولانا مبارک حسین سنبھلی

۱۲۹۶ھ / ۱۸۷۸ء میں سنبھل ضلع مراد آباد میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم وطن میں پائی۔ ان کے والد صاحب نے ایک پشاورى عالم کو مکان پر رکھ کر تعلیم کا انتظام کیا۔ استاذ کو چوں کہ معقولات پر زیادہ عبور تھا، اس لیے وہی رنگ شاگرد میں سرایت کر گیا۔ منطق و فلسفہ کی سبھی چھوٹی بڑی کتابیں پڑھیں۔ ۱۳۲۸ھ / ۱۹۱۰ء میں دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے اور ۱۳۲۹ھ / ۱۹۱۱ء میں فراغت حاصل کی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد کچھ عرصہ تک حضرت شیخ الہند کے ساتھ اسفار میں رہے۔ مناظرہ اور مجاہدانہ سرگرمیوں کا ذوق زمانہ طالب علمی سے ہی تھا، علمی ترقی کے ساتھ اس میں بھی ترقی ہوتی گئی۔ ۱۳۳۰ھ / ۱۹۱۲ء میں بریلی کے ایک مناظرہ میں مولانا ثناء اللہ امرتسری کے ساتھ شریک ہو کر زبردست کامیابی حاصل کی اور شیر اسلام کے لقب سے نوازے گئے۔

۱۳۳۲ھ / ۱۹۱۵ء میں انھوں نے میرٹھ میں قاسم العلوم کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا۔ ۱۳۳۸ھ مطابق ۱۹۱۹ء میں جب مولانا قاضی بشیر الدین اور حاجی تہور علی صاحبان نے دیوبندی مسلک کی اشاعت کے لیے دارالعلوم کے نام سے مدرسہ قائم کیا تو حضرت مولانا خلیل احمد انپٹھوی کے مشورہ سے صدر مدرس کی حیثیت سے ان کا انتخاب کیا گیا۔ یہ تحریک خلافت کا زمانہ تھا، مولانا مبارک حسین میرٹھ میں درس و تدریس کے ساتھ ضلع میرٹھ کی خلافت کمیٹی کی نظامت کے فرائض بھی انجام دیتے رہے۔ ملک کی آزادی کی جدوجہد میں وہ ہمیشہ جمعیۃ علمائے ہند کے سرگرم کارکن رہے۔ مدرسہ دارالعلوم میں ان کی وجہ سے دن بدن جب طلبہ کی تعداد بڑھنے لگی تو ۱۹۲۵ء میں انھوں نے وسط شہر میں مدرسہ کے دارالاقامہ کی عمارت بنوائی اور اس کا سنگ بنیاد حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کے ہاتھوں رکھوایا۔ یہ عمارت یادگار شیخ الہند کے نام سے موسوم ہے اور یہ مدرسہ میرٹھ کی شاہی جامع مسجد میں ہے۔

جمادی الاولیٰ ۱۳۶۱ھ / جون ۱۹۴۲ء میں وفات پائی اور مدرسہ دارالعلوم میرٹھ کے صحن میں دفن کیے گئے۔

زینت آستان دارالعلوم سے ان کی وفات کا سن نکلتا ہے۔

ماخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم، ص ۱۱۴-۱۱۵

حضرت مولانا محمد یسین سرہندی ثم بریلویؒ

سرہند کے قریب موضع بسی کے رہنے والے تھے۔ دارالعلوم سے فراغت حاصل کی، حضرت شیخ الہند کے تلامذہ میں تھے۔ پہلے مدرسہ فیض عام کانپور میں تدریسی خدمات انجام دیں، پھر ۱۳۱۲ھ/۱۸۹۴ء میں بریلی تشریف لے گئے اور وہاں مدرسہ اشاعت العلوم کی بنیاد ڈالی۔ ساری عمر درس و تدریس میں مصروف رہے۔ روہیل کھنڈ میں ان کا علمی فیض مدتوں جاری رہا۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی نے بھی ابتدائی کتب ان سے پڑھی تھیں۔ مولانا خیر محمد جالندھری بھی آپ کے حلقہ تلامذہ میں شامل تھے۔

نہایت نیک نفس اور مرعبان مرنج مگر بے حد صاف گو عالم تھے۔

بریلی ہی کو وطن بنا لیا تھا۔ وہیں ۷ صفر ۱۳۶۳ھ/۳ مارچ ۱۹۴۴ء کو انتقال کیا اور مدرسہ میں مدفون ہوئے۔

ماخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم، ص ۶۴

حضرت مولانا عبید اللہ سندھیؒ

مشہور قائد جہاد حریت اور انقلابی عالم دین تھے۔ بہترین متکلم اور مفسر تھے۔ حضرت شیخ الہند کی تحریک ریشمی رومال کے اساسی اراکین میں تھے اور پوری عمر جہاد آزادی میں کھپادی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے علوم کے شارح اور ان کی انقلابی فکر کے ترجمان سمجھے جاتے تھے۔

مغربی پنجاب کے ضلع سیالکوٹ کے ایک گاؤں چیلانوالی میں مارچ ۱۸۷۲ء/محرّم ۱۲۸۹ھ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ہندو سے سکھ ہو گئے تھے۔ ابتدائی تعلیم جام پورڈل اسکول میں پائی اور دوران تعلیم ہی اپنے مطالعہ سے صداقت اسلام سے متاثر ہو کر مشرف باسلام ہو گئے تھے۔ قبول اسلام کے بعد جام پور سے سندھ چلے گئے اور وہاں حافظ محمد صدیق کی خدمت میں کچھ مدت قیام کیا۔ حافظ صاحب ایک صاحب نسبت بزرگ اور درویش کامل تھے، انھوں نے مولانا سندھی کی شخصیت کی تشکیل میں بڑا اثر ڈالا۔

۱۳۰۶ھ/۱۸۸۸ء میں دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے اور اگلے سال دورہ حدیث میں شریک ہوئے۔ لیکن تکمیل کی نوبت نہیں آئی، کچھ عرصہ بعد سندھ چلے گئے۔ ۱۳۱۵ھ/۱۸۹۷ء میں پھر دیوبند آئے اور حضرت شیخ الہند سے کتب حدیث کی اجازت حاصل کی۔

تعلیمی امور کے ساتھ سیاسی مشاغل میں بھی حضرت شیخ الہند سے وابستہ ہو گئے۔ ۱۳۲۷ھ/۱۹۰۹ء میں جمعیت الانصار کا قیام آپ کی ہی کوششوں کا نتیجہ تھا، آپ اس کے ناظم بنائے گئے۔ جمعیت الانصار کے دو بڑے جلسے جو مراد آباد اور میرٹھ میں منعقد ہوئے، ان میں مولانا سندھی ہی کی کوششیں کارفرما تھیں۔ آپ دارالعلوم کو سیاسی انداز میں ملی تنظیم کا مرکز بنانا چاہتے تھے جس کا پہلا نقش جمعیت الانصار کا قیام تھا۔ اسی دوران مولانا سندھی اور دارالعلوم

کے بعض اساتذہ کے درمیان بعض علمی مسائل میں شدید اختلاف پیدا ہو گیا جس کے سبب انھوں نے دیوبند چھوڑ دیا اور حضرت شیخ الہند نے انھیں دہلی بھیج دیا۔ وہاں انھوں نے نظارۃ المعارف القرآنیہ کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا جس میں مدراس کے فضلاء اور کالج کے گریجویٹ طلبہ کو تعلیم و تربیت دی جاتی تھی۔ اس ادارہ کا مقصد جدید تعلیم یافتہ اصحاب اور علمائے کرام کے درمیان روابط کو بڑھانا اور جدید و قدیم کی درمیان خلیج کو پر کرنا تھا۔

۱۳۳۳ھ/۱۹۱۵ء میں حضرت شیخ الہند نے مولانا سندھی کو ایک مشن پر افغانستان بھیجا۔ اس وقت یہ خیال عام تھا کہ طاقت کے بغیر انگریزوں کو ہندوستان سے نکال دینا ممکن نہیں ہے، اس کے لیے سپاہ اور اسلحہ کی ضرورت ہے۔ حضرت شیخ الہند کے اس مشن کا مرکز پاکستان کے آزاد علاقے تھے۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے کابل پہنچ کر متعدد اہم سیاسی کام انجام دیے۔ کابل میں کانگریس کمیٹی قائم کر کے انڈین نیشنل کانگریس سے اس کا الحاق کیا۔ برطانوی مقبوضات سے باہر یہ پہلی کانگریس کمیٹی تھی۔ افغانستان میں انھوں نے کچھ انقلابیوں کے ساتھ مل کر ہندوستان کی آزاد حکومت قائم کی جس کے سربراہ راجہ مہندر پرتاپ سنگھ، وزیراعظم مولانا بکرکت اللہ بھوپالی اور وزیر داخلہ وہ خود تھے۔ اسی کے ساتھ انھوں نے حزب اللہ کے نام سے ایک فوج مرتب کی جس میں عالم اسلام کے اہم افراد شریک تھے۔

حجاز میں حضرت شیخ الہند کے گرفتاری کے بعد روس چلے گئے اور وہاں رہ کر سوشل ازم کا قریب سے مشاہدہ کیا۔ ۱۳۴۲ھ/۱۹۲۳ء میں ترکی کا سفر کیا اور وہاں سے ۱۳۴۴ھ/۱۹۲۵ء میں حجاز چلے گئے جہاں چودہ سال تک مقیم رہے۔ ۱۳۵۶ھ/۱۹۳۷ء میں جب صوبوں میں کانگریس کی حکومت قائم ہوئی تو یوپی کی حکومت نے مولانا سندھی سے برطانوی دور کی پابندی کو اٹھالیا اور بالآخر ۲۴ برس کی جلاوطنی کے بعد ۱۳۵۸ھ/۱۹۳۹ء میں ہندوستان واپس آ گئے۔

ہندوستان واپسی کے بعد جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی میں انھوں نے بیت الحکمت نامی ایک ادارہ قائم کیا۔ اس ادارہ کا مقصد حکمت ولی اللہی کی روشنی میں کتاب و سنت کی تشریح اور عہد حاضر کے مسائل کا حل نکالنا تھا۔

مولانا سندھی اپنے عہد میں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے فلسفہ کے سب سے بڑے داعی اور علمبردار تھے۔ قرآن و حدیث اور فقہ و تصوف کے متعلق علوم میں شاہ صاحب نے جو تجدید فرمائی ہے، مولانا سندھی اس کے ایک عظیم شارح تھے۔ قرآن کریم کی تفسیر اور عصری تطبیق سے ان کو خاص مناسبت تھی۔ ہر چند ان کے بعض افکار سے اہل علم کو اختلاف بھی رہا، مگر اختلاف رائے کے باوجود ان کی علمی فضیلت اور سیاسی بالغ نظری کے سب سے ہی قائل تھے۔

غیر معمولی ذکاوت و ذہانت اور حافظہ کے مالک تھے۔ دماغ منطقی طور پر سیاسی تھا۔ ابتداء طبعی اور علمی انداز میں اور بعد میں مشاہداتی انداز میں یورپ اور ایشیا کے بہت سے انقلابات آپ کی آنکھوں کے سامنے گزرے؛ اس لیے سیاسی اسکیموں کی ساخت و پرداخت میں آپ کو خاص ملکہ حاصل تھا۔

آپ نے متعدد اہم کتابیں بھی تصنیف کیں جن میں چند حسب ذیل ہیں:

(۱) ولی اللہی حکمت کا اجمالی تعارف (۲) شاہ ولی اللہ اور ان کی سیاسی تحریک (۳) شاہ ولی اللہ اور ان کا فلسفہ (۴) اردو شرح حجۃ اللہ البالغہ (۵) التہمید تعریف ائمتہ التجدید (۶) قرآنی دستور انقلاب (۷) محمودیہ

(۸) ذاتی ڈائری (۹) سبیل الرشاد (۱۰) مجموعہ تفاسیر امام سندھی وغیرہ۔

آخری عمر میں وہ ریاست بہاول پور کے قصبہ دین پور میں مقیم ہو گئے تھے۔ وہیں ۲۲ اگست ۱۹۴۴ء/ یکم رمضان ۱۳۶۳ھ کو انتقال فرمایا۔

مآخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم، ص ۶۵-۶۷؛ فہرست کتب اکابر، کتب خانہ دارالعلوم دیوبند؛
دارالعلوم دیوبند کی پچاس مثالی شخصیات، ص ۱۳۸

حضرت مولانا محمد میاں منصور انصاریؒ

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کے نواسے اور مولانا عبداللہ انصاری کے فرزند اکبر تھے۔ نہایت صائب الرائے اور ذی استعداد عالم تھے۔ تحریک ریشمی رومال کے اہم اراکین میں سے تھے۔ انیسٹھ ضلع سہارن پور وطن تھا۔ ابتدائی تعلیم گلاؤٹھی کے مدرسہ منج العلوم میں پائی جہاں ان کے والد صدر مدرس تھے۔ ۱۳۲۱ھ/ ۱۹۰۳ء میں دارالعلوم سے سند فراغت حاصل کی۔

فراغت کے بعد مختلف مقامات میں درس و تدریس کی خدمات انجام دیں۔ دارالعلوم معینیہ اجمیر میں کچھ مدت تک صدر مدرس رہے۔ پھر حضرت شیخ الہندؒ نے اپنے ترجمہ قرآن کے کام میں اعانت کے لیے ان کو دیوبند بلا لیا تھا۔ ۱۳۲۷ھ/ ۱۹۰۹ء میں جب دارالعلوم میں جمعیت الانصار قائم ہوئی تھی تو مولانا سندھی کے ساتھ اس کے نائب ناظم مقرر ہوئے۔ حضرت شیخ الہندؒ کے خاص اور معتمد تلمیذ تھے۔ ان کے ساتھ سیاسی منصوبوں میں شریک ہوئے اور آخر کار حضرت کے امین اور رازدار رفقہاء میں شمار ہوئے۔

مدینہ منورہ کے گورنر غالب پاشا سے حضرت شیخ الہندؒ نے ہندوستان کی تحریک آزادی میں حصہ لینے کے واسطے جو ترغیبی خط ہندوستان اور آزاد قبائل کے عوام کے لیے لکھوایا تھا اور جو ہندوستان کی سیاسی تاریخ میں غالب نامہ کے نام سے مشہور ہے، اس کو جاز سے ہندوستان اور آزاد قبائل تک پہنچانے کا نہایت اہم کام انہی کے سپرد ہوا تھا، جسے انھوں نے کمال ہوشیاری کے ساتھ انجام دیا اور ہندوستان کی خفیہ پولیس کی نظروں سے بچ کر یاغستان کے آزاد علاقہ میں پہنچ گئے۔ حضرت شیخ الہندؒ کی حجاز میں گرفتاری کے وقت چوں کہ مولانا منصور انصاری وہاں سے یاغستان روانہ ہو چکے تھے، اس لیے وہ گرفتاری سے بچ گئے۔ ان کا اصل نام محمد میاں تھا، لیکن جب غالب نامہ لے کر ہندوستان آئے تو برطانوی پولیس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے منصور انصاری نام رکھ لیا۔ پھر آئندہ اسی نام سے مشہور ہوئے۔ ہندوستان کی سیاسی تاریخ میں ریشمی خطوط کے نام سے جو خطوط مشہور ہیں ان میں مولانا منصور انصاری کا خط بھی شامل تھا، جو زرد ریشمی کپڑوں پر لکھا گیا تھا۔ جنود ربانیہ میں ان کا عہدہ لفٹیننٹ جنرل کا تھا۔

حجاز میں حضرت شیخ الہندؒ کی گرفتاری کے بعد افغانستان چلے گئے اور وہیں مستقل طور پر مقیم ہو گئے تھے۔ حکومت افغانستان پر ان کے علم و فضل اور سیاست و تدبیر کا بڑا اثر تھا۔ چنانچہ حکومت افغانستان نے جو سفارتی

مشن ترکی بھیجا تھا، اس میں مولانا منصور انصاری کو وزیر مختار کا عہدہ تفویض کیا تھا۔ اسی طرح ماسکو کے سیاسی مشن میں ان کو سیاسی مشیر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ بچہ سقہ نے برسرِ اقتدار آنے کے بعد ان کو جلاوطن کر دیا تھا۔ اس کے دور حکومت میں چند ماہ کے لیے روس چلے گئے اور جب نادر خان سقہ بچہ کو شکست دے کر افغانستان کے حکمراں بنے تو مولانا منصور انصاری کو واپس بلا لیا گیا۔ افغانستان میں مختلف اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے۔

قیامِ افغانستان کے زمانے میں آپ نے متعدد سیاسی کتابیں تصنیف فرمائیں۔ حکومتِ الہی، اساسِ انقلاب، دستورِ امامت، انواع الدول ان کی اعلیٰ ذہنی اور فکری صلاحیتوں کی آئینہ دار ہیں۔ آخر عمر میں افغانستان کے مشہور مقام جلال آباد میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ وہیں ۶ صفر ۱۳۶۵ھ مطابق ۱۱ جنوری ۱۹۴۶ء کو وفات پائی۔

مولانا ابوالکلام آزاد کی بڑی خواہش تھی کہ ہندوستان کے آزاد ہوتے ہی وہ مولانا منصور انصاری کو ہندوستان واپس بلا لیں گے، لیکن افسوس کہ ہندوستان کی آزادی سے قبل ہی وہ سفرِ آخرت پر روانہ ہو گئے اور جس ملک کی آزادی کے لیے انھوں نے ۳۱ سال جلاوطنی کی زندگی گزاری اس کی آزادی کو نہ دیکھ سکے۔ مولانا حامد الانصاری غازی سابق ایڈیٹر اخبار مدینہ، بجنور جو ہندوستان کی صحافت میں اپنا مقام رکھتے تھے، انہی کے بڑے صاحب زادے ہیں۔ ان کے دوسرے فرزند جمید انصاری جلال آباد میں مقیم ہیں۔

مآخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم، ص ۹۱-۹۳؛ دارالعلوم دیوبند کی پچاس مثالی شخصیات، ص ۱۲۲

حضرت مولانا عبد الرحمن مروہویؒ

حدیث و فقہ کے ممتاز علماء میں سے تھے۔ حضرت نانوتویؒ کے آخری شاگردوں میں سے تھے۔ تفسیر اور علم کلام و عقائد میں ان کو خاص کمال حاصل تھا۔ شیخ المشائخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کئی سے اجازت بیعت حاصل تھی۔ آپ کا سن ولادت تقریباً ۱۲۷ھ/۱۸۶۰ء ہے، بمبئی میں پیدا ہوئے۔ مکہ مکرمہ میں قرآن شریف حفظ کیا۔ ابتدائی تعلیم بھی مکہ مکرمہ میں پائی۔ پھر حضرت مولانا احمد حسن مروہویؒ سے تحصیلِ علوم کیا۔ اخیر میں دیوبند آ کر تفسیر و حدیث کے کچھ اسباق حضرت نانوتویؒ سے پڑھے۔ ان دونوں بزرگوں کے علمی فیوض سے ان کے تفسیر و حدیث کے اسباق میں متکلمانہ رنگ غالب تھا۔ ان کی ذات ہر علم و فن خصوصاً علم کلام و عقائد میں یگانہ روزگار تھی۔ اکثر و بیشتر حضرت نانوتویؒ کے علوم و معارف کے حوالے دیتے تھے۔

مدرسہ شاہی مراد آباد، بمبئی، جامعہ اسلامیہ ڈابھیل، مدرسہ جامعہ اسلامیہ مروہہ میں ۶۰ سال تک علوم دینیہ کی خدمت میں گزارے۔ اس لیے ان کے فیض یافتگان کی کثیر تعداد پائی جاتی ہے۔

۱۳۶۳ھ/۱۹۴۳ء میں کچھ عرصہ کے لیے دارالعلوم دیوبند میں بھی تفسیر و حدیث کے اسباق پڑھائے۔ آخر میں جامعہ اسلامیہ مروہہ کے شیخ الحدیث و التفسیر ہو گئے تھے۔

تفسیر بیضاوی پر آپ کا ایک حاشیہ ہے۔ مطول اور مختصر المعانی پر بھی حواشی لکھے ہیں۔
 امر وہہ میں ۹۰ سال کی عمر میں ۲۲ جمادی الثانیہ ۱۳۶۷ھ / مئی ۱۹۴۷ء کو واصل بحق ہوئے اور اپنے استاذ
 مولانا احمد حسن امر وہوی کے پہلو میں آسودہ خواب ہوئے۔
 ماخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، جلد دوم، ص ۵۰

حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسریؒ

مشہور عالم، مصنف اور مناظر تھے۔ قادیانیت کے خلاف قابل قدر خدمات انجام دیں۔
 ۱۲۸۲ھ / ۱۸۶۵ء میں پیدا ہوئے۔ امرتسر (پنجاب) میں پروان چڑھے، مگر اصلاً کشمیری تھے اور ان کے آباء
 واجداد قدیم زمانے میں مشرف بہ اسلام ہو گئے تھے۔ کچھ دنوں مولانا احمد اللہ امرتسری سے تعلیم حاصل کی۔ حدیث
 کی کتابیں شیخ عبدالحنان وزیر آبادی سے پڑھیں۔ پھر ۱۳۰۸ھ / ۱۸۹۰ء میں دارالعلوم دیوبند آ کر منطق، حکمت،
 اصول اور فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ کانپور میں مولانا احمد حسن کانپوری سے کچھ کتابیں پڑھیں، مگر اکابر دیوبند سے
 وابستگی میں کوئی فرق نہ آیا۔ فراغت کے بعد امرتسر میں تصنیف و تالیف میں مشغول ہو گئے۔

مسلاگا اہل حدیث تھے، ایک مطبع 'اہل حدیث پریس' کے نام سے قائم کیا اور ۱۳۲۱ھ / ۱۹۰۳ء میں ایک ہفت
 روزہ اخبار 'اہل حدیث' کے نام سے جاری کیا جو ۴۴ سال تک شائع ہوتا رہا۔

آپ قوی الحفظ اور سریع الجواب تھے۔ قادیانیت کے خلاف شمشیر برہنہ تھے۔ مناظرہ میں ہمیشہ کامیاب
 رہے۔ فریق مخالف کو شکست دینے میں انھیں خاص ملکہ حاصل تھا۔ شیر پنجاب کے لقب سے ملقب تھے۔ تصنیف
 و تالیف سے بڑا لگاؤ تھا۔ اوقات کے پابند، بلند اخلاق اور وسیع المعلومات تھے۔ صحت کے تحفظ اور کپڑوں کی
 ستھرائی کا خاص اہتمام کرتے تھے۔

ہندوستان کی تحریک آزادی کی جدوجہد میں ہمیشہ شریک رہے۔ جنوری بانیہ کی فہرست میں انھیں میجر جنرل کا
 عہدہ دیا گیا تھا۔ جمعیتہ علمائے ہند کی تاسیس میں بھی آپ کا حصہ ہے۔ ملک کی آزادی کی تحریک میں جمعیتہ علمائے
 ہند کے رفیق کار رہے۔ اختلاف مسلک کے باوجود اکابر دیوبند کے ہمیشہ گرویدہ رہے۔

انھوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو ۱۳۲۶ھ / ۱۹۰۸ء میں چیلنج دیا تھا کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہوگا وہ پہلے
 مرجائے گا جسے مرزا نے منظور کر لیا تھا؛ چنانچہ مرزا غلام احمد ہیضہ میں مبتلا ہو کر ۱۹۰۸ء میں ہی انتقال کر گیا اور
 مولانا اس کے بعد ۴۰ سال مزید زندہ رہے۔

تقسیم ہند کے بعد آپ امرتسر سے گوجرانوالہ (پاکستان) منتقل ہو گئے تھے۔ ۴ جمادی الاولیٰ ۱۳۶۷ھ / ۱۵
 مارچ ۱۹۴۸ء کو سرگودھا میں انتقال ہوا۔

حضرت مولانا سیف الرحمن کابلیؒ

بڑے عالی ہمت، ذہین و ذکی اور مجاہد عالم تھے۔ تحریک ریشمی رومال کے اہم اراکین میں تھے اور یاغستان کے آزاد علاقہ میں جہاد کے ایک بڑے داعی۔

۱۸۶۰ء سن پیدائش ہے۔ آپ مقرر علاقہ ہشتنگر تحصیل چارسدہ ضلع پشاور کے رہنے والے تھے جہاں ان کے آباء واجداد قدہار سے آکر آباد ہو گئے تھے۔ آپ کے والد کا نام غلام خان تھا۔

ابتدائی تعلیم اپنے علاقہ میں حاصل کی۔ مولانا لطف اللہ علی گڑھی سے علوم ریاضی کی تکمیل کی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ کی خدمت پہنچے اور صحاح ستہ کی تکمیل کر کے سند حدیث حاصل کی۔

مدت تک مدرسہ ناصر یوٹونک میں تعلیم و تدریس کی خدمت انجام دی، پھر مدرسہ عالیہ فتح پوری دہلی میں صدر مدرس ہو گئے۔ ہندوستان میں ان کے بہت سے شاگرد تھے۔

حضرت شیخ الہند سے وابستہ اور ان کی تحریک کے سرگرم رکن تھے۔ حضرت شیخ الہند کی ہدایت پر ہجرت کر کے یاغستان کے آزاد علاقہ میں چلے گئے، وہاں کے لوگوں کو وعظ و تبلیغ کے ذریعہ سے ہندوستان کی آزادی کے لیے تیار کرتے رہے۔ بہت اچھے مقرر تھے، ان کے وعظ و تقریر سے یاغستان کے لوگوں میں غیر معمولی جوش و خروش پیدا ہو گیا تھا۔ جنودر بانیہ کی فہرست میں ان کا عہدہ میجر جنرل کا تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے آغاز میں جب ۱۹۱۴ء میں حاجی ترنگ زئی نے انگریزوں کے خلاف علم جہاد بلند کیا تو مولانا سیف الرحمن نے اس میں شریک ہو کر نمایاں خدمات انجام دیں۔ جنگ کی اس کوشش میں ناکام ہونے کے بعد افغانستان چلے گئے۔ امیر امان اللہ خان کے عہد حکومت میں افغانستان میں بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے۔ پاکستان بننے کے بعد پشاور آ گئے۔

۷/ جمادی الاولیٰ ۱۳۶۹ھ / ۲۶ فروری ۱۹۵۰ء میں اپنے آبائی وطن میں وفات پائی۔

ماخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم، ص ۶۷-۶۹؛ مشاہیر علمائے دیوبند، ص ۲۰۳

حضرت مولانا احمد بزرگ سورنیؒ

گجرات کے مشہور عالم دین اور جامعہ اسلامیہ ڈابھیل کے مہتمم تھے۔

مقام سملک میں پیدا ہوئے۔ ۱۲۹۸ھ / ۱۸۸۰ء کے آس پاس پیدا ہوئے۔ احمد نام تھا، بچپن ہی میں بزرگ لقب پڑ گیا تھا۔ وطن میں قرآن شریف ختم کر کے اولاً اردو پڑھی، پھر فارسی اور عربی کی تعلیم لاج پور کے مدرسہ میں چار سال رہ کر حاصل کی۔ مشکوٰۃ المصابیح اور ہدایہ اولین وغیرہ کتابیں پڑھنے کے بعد ۱۳۱۸ھ / ۱۹۰۰ء میں دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے اور ۱۳۲۱ھ / ۱۹۰۳ء میں سند فراغت حاصل کی۔

تعلیم سے فراغت کے بعد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ سے بیعت کا شرف حاصل کیا اور تقریباً ایک سال

تک مرشد کی خدمت میں رہ کر ذکر و شغل اور ریاضت و مجاہدہ میں مشغول رہے۔ مرشد کی وفات (۱۹۰۵ء) کے بعد وطن مراجعت کی۔ پھر کچھ مدت کے بعد ساؤتھ افریقہ چلے گئے۔

۱۳۳۵ھ/۱۹۱۶ء میں جامع مسجد سورتی رنگون میں مفتی مقرر ہوئے اور تین سال تک وہاں افتاء کے ساتھ وعظ اور درس قرآن کا فیض پہنچایا۔ رنگون سے واپسی کے بعد ۱۳۳۹ھ/۱۹۲۰ء میں جامعہ اسلامیہ ڈابھیل کے مہتمم بنائے گئے۔ ۱۳۴۶ھ/۱۹۲۷ء میں حضرت علامہ محمد انور شاہ کشمیریؒ اور دوسرے حضرات کو ڈابھیل لے جانے کا کارنامہ انھوں نے ہی انجام دیا تھا۔

مولانا احمد بزرگ اگرچہ سیدھے سادے بزرگ تھے، مگر ان میں انتظامی صلاحیتیں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ ڈابھیل کے معمولی مدرسہ تعلیم الدین کو جامعہ اسلامیہ میں تبدیل کر دینا ان کا عظیم کارنامہ ہے۔ ان کے دور اہتمام میں برصغیر کے مختلف مقامات کے علاوہ افغانستان، بخارا اور یمن و حجاز تک کے طلبہ جامعہ اسلامیہ ڈابھیل میں جمع ہو گئے تھے۔

آپ کے صاحب زادے مولانا محمد سعید بزرگ بعد میں جامعہ اسلامیہ ڈابھیل کے مہتمم ہوئے اور دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے رکن بھی رہے۔

۵ ربیع الاول ۱۳۷۱ھ/۴ دسمبر ۱۹۵۱ء کو ۷۲ سال کی عمر میں وفات ہوئی۔

ماخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم، ص ۹۶-۹۷

مولانا احسان اللہ خان تاجورؒ

اردو کے مایہ ناز ادیب، استاد شاعر اور مشہور صحافی تھے۔

۱۳۱۱ھ/۱۸۹۲ء میں نجیب آباد میں پیدا ہوئے۔ روہیلہ افغان خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ابتدائی تعلیم اپنے وطن نجیب آباد میں پائی۔ بعد ازاں مزید تعلیم کے لیے دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا اور ۱۳۳۱ھ/۱۹۱۳ء میں فراغت حاصل کی۔

زمانہ طالب علمی ہی سے عربی اور اردو زبان و ادب سے شغف تھا۔ اسی وقت سے شعر کہنا شروع کر دیا تھا۔ اردو شاعری میں انھیں اگرچہ سارام پوری سے تلمذ تھا، مگر دارالعلوم کے زمانہ طالب علمی میں حبیب وحشی دیوبندی سے بھی اصلاح لیتے تھے۔

دارالعلوم سے فراغت کے بعد لاہور چلے گئے۔ وہاں اس زمانے کے مشہور رسالہ 'مخزن' کی ادارت میں شریک ہو گئے جس کے مالک سر عبدالقادر تھے۔ لاہور سے جب ہمایوں جاری ہوا تو مولانا تاجور اس رسالہ سے وابستہ ہو گئے۔ اسی زمانے میں لاہور کے دیال سنگھ کالج میں اردو اور فارسی کے لیکچرار مقرر ہو گئے۔ لاہور میں جلد

ہی نوجوان شعراء اُن کے گرد جمع ہو گئے۔ ان میں سے بہت سوں نے آگے چل کر شہرت اور ناموری حاصل کی۔ مولانا تاجور نے لاہور میں 'انجمن ارباب ادب' قائم کی جس کے اہتمام میں جگہ جگہ مشاعرے ہوتے تھے۔ انہوں نے اردو شاعری میں بعض اجتہادات بھی کیے ہیں۔ انجمن ارباب ادب کے علاوہ انہوں نے 'اردو مرکز' کے نام سے تصنیف و تالیف کا ایک ادارہ قائم کیا جس میں ان کی نگرانی میں اصغر گونڈوی، گویا جہان آبادی، مجنوں گورکھپوری، جگر مراد آبادی، اختر شیرانی اور طالب میرٹھی جیسے باکمال شعراء نے اردو کے تمام مشہور نثر نگاروں اور شعراء کے کلام کا انتخاب کئی جلدوں میں ترتیب دیا۔ ۱۹۳۱ء کے اواخر میں انہوں نے 'ادبی دنیا' کے نام سے ایک معیاری رسالہ جاری کیا اور کچھ عرصہ کے بعد ایک اور رسالہ 'شاہکار' کے نام سے نکالا۔

مولانا تاجور کو نظم و نثر دونوں پر قدرت حاصل تھی۔ ان کے ادبی کمالات کا شہرہ پنجاب سے گزر کر پورے ملک میں پھیلا ہوا تھا۔ آخر میں انہیں برطانوی حکومت کی جانب سے 'شمس العلماء' کا خطاب دیا گیا اور ہندوستان کے ادبی حلقوں نے انہیں 'ادیب الملک' کے خطاب سے سرفراز کیا۔

۳۰ جنوری ۱۹۵۱ء (۱۳۷۱ھ) میں لاہور میں انتقال ہوا۔

ماخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم، ص ۱۱۶-۱۱۷

حضرت مولانا نجم الدین جہلمیؒ

پنجاب میں جہلم کے رہنے والے تھے۔ ۱۳۳۸ھ/۱۹۲۰ء میں دارالعلوم دیوبند سے فراغت حاصل کی۔ عرصہ تک اورینٹل کالج لاہور میں عربی زبان کے استاذ رہے۔ پنجاب کے علمی حلقوں میں ان کے علم و فضل اور نیکی و تقویٰ کی بڑی شہرت تھی۔ عربی ادب کے ساتھ تفسیر و حدیث میں بھی دست گاہ رکھتے تھے۔ ۱۹۵۲ء میں وفات پائی۔

ماخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم، ص ۱۴۱

حضرت مولانا عبدالمجید سنہجلیؒ

ابتدائی تعلیم اپنے وطن سنہجلی میں مولانا مفتی عبدالسلام اسرائیلی سے حاصل کی۔ حدیث کی تعلیم کے لیے دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا اور ۱۳۱ھ/۱۸۹۹ء میں دورہ حدیث سے فراغت حاصل کی۔

دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے ابتدائی ادوار میں وہاں مدرس رہے۔ اس زمانے میں مولانا سید سلیمان ندویؒ نے بھی ان سے کچھ کتابیں پڑھیں۔ پھر سنہجلی کے مدرسۃ الشرع میں صدر مدرس ہو گئے اور آخر عمر تک اسی سے وابستہ رہے۔ آپ سے ہیئت اور معقولات کی کتابیں پڑھنے کے لیے طلبہ بخارا جیسے دور دراز مقامات سے آتے

تھے۔ مولانا محمد منظور نعمانی نے معقولات کی تکمیل انھیں سے حاصل کی تھی۔

سن وفات معلوم نہ ہو سکا۔

ماخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم، ص ۸۶

حضرت مولانا محمد یحییٰ سہسرامیؒ

مشہور عالم اور ذی استعداد فاضل تھے۔

۱۳۱۸ھ/۱۹۰۰ء میں دارالعلوم دیوبند سے فراغت حاصل کی۔

ابتدا میں سہسرام اور پھر مظاہر علوم سہارن پور میں کچھ مدت تک مدرس رہے۔ پھر ۱۳۲۷ھ/۱۹۰۹ء میں مدرسہ عالیہ کلکتہ میں عربی زبان کے استاذ مقرر ہوئے۔ مدرسہ عالیہ کلکتہ میں قیام سے ان کا علمی فیضان بنگال میں بہت زیادہ پھیلا۔

ماخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم، ص ۸۸

حضرت مولانا عبدالرزاق پشاوریؒ

حضرت شیخ الہند کے خاص شاگردوں میں سے تھے۔ ۱۳۱۸ھ/۱۹۰۰ء میں دارالعلوم دیوبند سے فارغ التحصیل ہوئے۔

افغانستان میں قاضی القضاة کے منصب پر فائز رہے۔ افغانستان میں ان کا خاص وقار تھا، وہاں کی پریویو کونسل کے صدر بھی تھے۔ شرعی احکام میں ان کا فیصلہ آخری درجہ رکھتا تھا اور پورے افغانستان پر ان کے علمی اثرات چھائے ہوئے تھے۔

تحریک ریشمی رومال کے سرگرم رکن تھے۔ ریشمی رومال سازش کیس کی رپورٹ میں ان کے متعلق لکھا ہے:

”کابل یونیورسٹی کا سربراہ ہے جس میں وہ فلکیات پر لیکچر دیتا ہے۔ وہ کچھ عرصہ تک سردار عنایت

اللہ کا اتالیق رہا ہے۔ سردار نصر اللہ خان کا ناظر اور معتمد خاص ہے۔ سردار اسی کے ذریعہ سرحد کے

دوسرے ممتاز ملاؤں سے خط و کتابت کرتا ہے۔ تمام بڑے ملاؤں کا خاص دوست ہے۔ کابل میں

ہندوستانی انقلابی پارٹی کا پشت پناہ ہے۔ سرحد پار برطانوی حکومت کے خلاف جتنی بھی

کارروائیاں ہوتی ہیں ان سب کی ڈور اسی کے ہاتھ میں ہے۔“

ماخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم، ص ۸۸، تحریک شیخ الہند، مولانا محمد میاں دیوبندی،

حضرت مولانا حبیب الرحمن لدھیانویؒ

حضرت مولانا لدھیانوی کا خاندان اپنے علم و فضل کے لحاظ سے پنجاب میں مرجع خواص و عوام رہا ہے۔ ۱۸۵۷ء سے اس خاندان کے علماء ہر دور میں انگریزوں کے خلاف صف آرا رہے ہیں۔ ملک کی آزادی کی جدوجہد میں وہ ہمیشہ پیش پیش رہے اور اس سلسلہ میں ہر قسم کے مصائب کو انگیز کرتے رہے۔

مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی ۱۱ صفر ۱۳۱۰ھ / ۴ ستمبر ۱۸۹۲ء لدھیانہ میں پیدا ہوئے۔ قرآن مجید اور اردو کی تعلیم لدھیانہ کے مدرسہ میں پائی۔ پھر نکودر ضلع جالندھر اور امرتسر کے مدرسوں میں پڑھا۔ ۱۳۳۵ھ / ۱۹۱۶ء میں دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا۔ یہاں حضرت کشمیریؒ کی خدمت میں انھیں فہم قرآن کا شغف پیدا ہوا جو سیاسی مصروفیات کے باوجود ساری عمر جاری رہا۔

مزان شروع ہی سے سیاست آشنا واقع ہوا تھا۔ ۱۹۱۹ء میں تحریک خلافت کے دور میں حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی کے ساتھ تحریک خلافت کے جلسوں میں شرکت کرنے لگے۔ اسی زمانے میں امرتسر میں جلیاں والہ باغ کا مشہور خونیں واقعہ پیش آیا جس نے ان کے جذبہ حریت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔

۱۹۲۱ء میں پہلی مرتبہ سول نافرمانی کے جرم میں گرفتار ہوئے اور پھر ہندوستان کے آزاد ہونے تک قید و بند کا سلسلہ چلتا رہا۔

۱۹۲۹ء میں جب پنجاب میں مجلس احرار قائم ہوئی تو وہ اس میں شامل ہو گئے اور کچھ ہی عرصہ بعد انھیں مجلس احرار کا صدر منتخب کر لیا گیا۔ مولانا لدھیانوی مختلف سیاسی تحریکوں میں سرگرمی سے حصہ لیتے رہے۔ وہ شروع ہی میں جمعیتہ علمائے ہند سے وابستہ ہو گئے تھے اور ۱۹۵۰ء تک برابر جمعیتہ علمائے ہند کے رکن رہے۔ ان کی پوری زندگی سیاسی مشاغل میں گزری۔

۱۹۴۷ء میں تقسیم ملک کے بعد انھیں انتہائی مجبوری کے عالم میں لدھیانہ چھوڑنا پڑا اور پناہ گزینوں کے ساتھ لاہور چلے گئے۔ پھر وہاں سے دہلی آ کر مستقل طور پر دہلی میں مقیم ہو گئے اور عمر کے آخری دس سال ان کے وہیں گزرے۔ اس مدت میں فرقہ وارانہ اتحاد کے لیے وہ مسلسل جدوجہد کرتے رہے۔ مشرقی پنجاب میں مساجد اور اوقاف کی واگزاری کی کوشش میں لگے رہے۔ مظلوموں اور ضرورت مندوں کی خدمت گزاری ان کا عزیز ترین مشغلہ تھا۔

۱۱ صفر ۱۳۷۶ھ مطابق ۱۷ ستمبر ۱۹۵۶ء کو انتقال ہوا اور جامع مسجد شاہ جہانی کے ملحقہ قبرستان میں سپرد خاک کیے گئے۔

حضرت مولانا مفتی اسماعیل بسم اللہ سورتی

گجرات کے ممتاز عالم دین اور جید مفتی تھے۔

۱۳۱۶ھ/۱۸۹۸ء میں ڈابھیل ضلع سورت میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے وطن اور قریبی قصبہ کٹھور میں پائی۔ پھر دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا۔ دورانِ تعلیم میں شادی کی وجہ سے وطن چلے گئے۔ ۱۳۳۶ھ/۱۹۱۸ء میں دوبارہ دارالعلوم میں داخل ہو کر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری اور دیگر اساتذہ سے دورہ حدیث کی تکمیل کی۔ حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی سے بھی وابستہ رہے اور مدرسہ امینیہ دہلی میں رہ کر ان سے فتویٰ نویسی کی مشق کی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد کچھ عرصہ تک وطن میں تدریسی خدمات انجام دیں۔ پھر جوہانسرگ (جنوبی افریقہ) چلے گئے۔ مگر جلد ہی وہاں سے واپس آ کر مدرسہ تعلیم الدین (موجودہ جامعہ اسلامیہ ڈابھیل) میں مدرس مقرر ہو گئے۔ ۱۳۵۳ھ/۱۹۳۳ء میں برما میں مفتی بنائے گئے۔ وہاں فتویٰ نویسی کے علاوہ انھوں نے مولانا احمد اشرف راندیری کی معیت میں جمعیۃ علمائے برما قائم کی اور کئی دینی مدرسے مختلف مقامات میں قائم کیے۔ اس طرح انھیں برما کے مسلمانوں میں دینی و سیاسی خدمات انجام دینے کا موقع ملا۔

۱۳۵۹ھ/۱۹۴۰ء میں صحت کی خرابی کے باعث وطن واپس آ گئے۔ وہاں جامعہ اسلامیہ ڈابھیل میں تعلیمی امور کے نگران بنائے گئے اور پھر جلد ہی مہتمم مقرر ہو گئے۔

آپ مرنجاں مرنج، سادگی پسند اور اردو و ظائف اور معمولات کے پابند تھے۔ روزانہ قرآن کریم کی ایک منزل تلاوت کا معمول تھا۔ گجرات میں ان کی ذات مرجعِ خلائق تھی۔ گجرات کے نہ صرف عوام بلکہ علماء میں آپ کے فتاویٰ کو قدر و منزلت حاصل تھی۔ ان کے فتاویٰ تقریباً ۲۳ رسالے تک گجرات کے ہفتہ وار اخبار 'مسلم گجرات' میں شائع ہوتے رہے۔ ان فتاویٰ کا مجموعہ 'مسلم گجرات فتاویٰ سنگرہ' کے نام سے پانچ جلدوں گجراتی زبان میں شائع ہو چکا ہے۔ ان کے فتاویٰ کی تعداد ۳۵ ہزار بتائی جاتی ہے۔ اب تک اردو زبان میں ان فتاویٰ کی دو جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔

۱۶ شوال ۱۳۷۸ھ/۲۴ اپریل ۱۹۵۹ء میں وفات پائی۔

ماخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم، ص ۱۳۱-۱۳۲؛ نقوش بسم اللہ، ص ۲۹۵

حضرت مولانا مفتی محمد حسن امرتسری

علوم ظاہری و باطنی کے جامع اور معقولات و منقولات کے ماہر عالم دین تھے۔ حضرت کشمیری کے تلمیذ رشید،

حضرت تھانویؒ کے خلیفہ اجل اور جامعہ اشرفیہ لاہور کے بانی تھے۔
۱۸۷۸ء کے لگ بھگ حسن ابدال کے قریب موضع مل پور میں پیدا ہوئے۔ اعلیٰ تعلیم دارالعلوم دیوبند میں حاصل کی اور حضرت علامہ انور شاہ کشمیریؒ سے دورہ حدیث کی تکمیل کی۔
فراغت کے بعد تقریباً چالیس سال تک امرتسر میں علمی و تدریسی خدمات انجام دیں۔ علماء و فضلاء آپ کے درس میں شرکت کرتے تھے۔

آپ حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے خاص خلفاء میں تھے۔ امرتسر اور لاہور کے دوران قیام درس قرآن کا معمول رہا۔ اسی کے ساتھ فتویٰ نویسی بھی آپ کا مستقل شغل تھا۔
تقسیم ہند کے بعد ستمبر ۱۹۴۷ء میں لاہور میں جامعہ اشرفیہ کے نام سے ایک عظیم دینی مدرسہ قائم فرمایا جو اس وقت پاکستان کے مرکزی مدارس میں شمار کیا جاتا ہے۔

یکم جون ۱۹۶۱ء / ۱۵ ذوالحجہ ۱۳۸۰ھ کو کراچی میں آپ کا انتقال ہوا اور وہیں دفن کیے گئے۔
مآخذ: دارالعلوم دیوبند پچاس مثالی شخصیات، ص ۱۶۱؛ مشاہیر علمائے دیوبند، ص ۲۸۸-۲۹۱

حضرت مولانا محمد بن موسیٰ افریقیؒ

آبائی وطن ضلع سورت میں قصبہ سملک تھا۔ مگر چند پشتوں سے ان کے خاندان نے جنوبی افریقہ کے شہر جوہانسبرگ کو وطن اقامت بنا لیا تھا۔ وہیں تقریباً ۱۳۲۲ھ / ۱۹۰۳ء میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے لیے ہندوستان آگئے۔ پہلے پالن پور میں مولانا نذیر احمد پالن پوری سے پڑھا، پھر ۱۳۳۲ھ / ۱۹۲۳ء میں دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا اور ۱۳۳۴ھ / ۱۹۲۶ء میں دارالعلوم دیوبند سے فراغت حاصل کی۔

دارالعلوم میں آنے کے ساتھ ہی حضرت علامہ کشمیریؒ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے اور حضرت شاہ صاحب کی زندگی کا رنگ ان پر ایسا غالب آیا کہ نشست و برخاست، چال ڈھال، بات چیت اور تمام طور و طریق میں ہو، ہوا اپنے استاذ کا نمونہ بن گئے۔ دولت مند ہونے کے باوجود مزاج اور رہن سہن میں انتہائی سادگی اور تواضع تھی۔ عام طلبہ کی طرح نہایت سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ مگر امور خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے اور نہایت فیاضی سے خرچ کرتے تھے۔ عربی، فارسی اور اردو کے علاوہ انگریزی اور فرانسیسی زبانیں بھی بہ خوبی جانتے تھے۔

تعلیم سے فارغ ہو کر جوہانسبرگ چلے گئے۔ وہاں اپنے وسیع ترین تجارتی کاروبار کے ساتھ بڑے پیمانے پر دینی خدمات بھی انجام دیتے رہے۔ اسلامی اور عصری علوم کی تعلیم کے لیے جوہانسبرگ میں واٹر وال اسلامی انسٹی ٹیوٹ قائم کیا۔ اس کے لیے عالیشان عمارت تعمیر کرائی۔ انسٹی ٹیوٹ کے تمام مصارف اپنے پاس سے پورا کرتے تھے۔ دارالعلوم دیوبند کے طریقہ کے مطابق مفت تعلیم کے ساتھ طلبہ کے خورد و نوش کا انتظام بھی ان کی جانب سے تھا۔ جمعیتہ علمائے ٹرانسوال کے ہمیشہ صدر رہے۔ جامعہ اسلامیہ ڈابھیل کی تعمیر و ترقی میں ان کی

زبردست مالی امداد کا بڑا حصہ رہا ہے۔ علمی کاموں سے بھی ہمیشہ شغف رہا۔ ڈابھیل کی مجلس علمی کے نام سے ایک تصنیفی ادارہ قائم کیا جس میں اہم علمی کتابوں کے شائع کرنے کا انتظام کیا اور اس کے تمام مصارف اپنے ذمہ رکھے۔ علامہ ظہیر احسن شوق نیوی (م ۱۳۲۲ھ/ ۱۹۰۵ء) کی کتاب آثار السنن پر علامہ محمد انور شاہ کشمیری کے دستِ خاص سے لکھے ہوئے حواشی کی مائیکروفلم لیکر اہل علم کے لیے اس کے نسخے شائع کیے۔ حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی نے مصنف ابن عبدالرزاق کو انہی کے صاحب زادوں کی مالی اعانت سے ایڈٹ کر کے شائع کیا۔

۱۶ اپریل ۱۹۶۳ء/ ۲۱ رذوالقعدہ ۱۳۸۲ھ کو جوہانسبرگ میں وفات پائی۔

ماخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم، ص ۱۵۲-۱۵۳

حضرت مولانا خواجہ عبدالحمیٰ فاروقی

مشہور عالم دین، مصنف اور ماہر سیاسیات تھے۔

والد کا نام خواجہ عبدالرحیم تھا۔ پنجاب میں ضلع گرداسپور کے رہنے والے تھے۔ ابتدائی تعلیم وطن میں حاصل کی۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے تعلیم حاصل کی اور وہاں کے قابل گریجویٹ تھے۔

۱۳۲۹ھ/ ۱۹۱۱ء میں دارالعلوم میں حضرت شیخ الہند سے حدیث کی تکمیل کی۔

فراغت کے بعد میرٹھ کالج میں عربی کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ اسی درمیان نظارۃ المعارف القرآنیہ میں حضرت مولانا عبید اللہ سندھی سے وابستہ رہے۔ یہاں تین سال پڑھانے کے بعد کلکتہ چلے گئے اور مولانا ابوالکلام آزاد سے دارالارشاد میں استفادہ کیا۔

اس کے بعد لاہور میں قیام کیا اور درس قرآن دینے کا سلسلہ شروع کیا۔ ان کے درس میں جدید تعلیم یافتہ طبقے کے افراد شریک ہوتے تھے۔ ان کے درس قرآن کا انداز یہ تھا کہ نوجوان طبقے کو قرآن حکیم کی تعلیم اس طرح دی جائے کہ وہ صحیح اسلامی روح سے روشناس ہو جائیں اور اسلامی شعائر کے ایسے پابند ہو جائیں کہ وہ خود فیصلہ کریں کہ انھیں کس طرح اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اور اسی کے ساتھ وطن کی آزادی کی جدوجہد کو وہ اپنے اوپر لازم کر لیں۔

تحریک عدم تعاون کے زمانے میں آپ جامعہ ملیہ اسلامیہ علی گڑھ اور دہلی سے بھی وابستہ ہوئے اور وہاں تفسیر کے استاذ اور شعبہ دینیات کے ناظم رہے۔ تدریس کا یہ مشغلہ تقسیم ہند تک جاری رہا۔

حضرت شیخ الہند کی تحریک آزادی ہند سے آپ کو گہرا تعلق تھا۔ ۱۳۳۶ھ/ ۱۹۱۷ء میں تحریک آزادی سے وابستگی کی وجہ سے لاہور میں نظر بند کر دیا گیا جس سے دو سال بعد رہائی ملی۔ جنور بانیہ میں ان کا نام کرنل کی فہرست میں شامل تھا۔

تقسیم کے بعد اسلامیہ کالج لاہور میں اسلامیات کے پروفیسر مقرر ہوئے اور آخر دم تک یہ فرائض انجام دیتے رہے۔ انھیں قرآن مجید کی تفسیر سے خاص شغف تھا۔ یہیں علماء کا ایک بورڈ بنا کر درس قرآن کے نام سے قرآن مجید کی

مختلف سورتوں کی علیحدہ علیحدہ حصوں میں تفسیر لکھی ہے۔ یہ تفسیر زبان و بیان کے لحاظ سے بہت سہل، آسان اور طرز نگارش سلیس اور شگفتہ ہے۔ مختلف سورتوں کی تفسیرات کی تفصیل یوں ہے: (۱) بصائر بنی اسرائیل کے واقعات و حوادث اور فرعون کے طرز عمل پر روشنی ڈالتے ہوئے قرآن مجید کا فلسفہ تاریخ بیان کیا ہے، ان حالات کو اپنی غلامی اور برطانوی حکومت کے طرز عمل پر منطبق کیا ہے۔ (۲) الخلافۃ الکبریٰ: یہ سورہ بقرہ کی تفسیر ہے، اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کے موجودہ تنزل کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے مجاہدانہ زندگی ترک کر دی ہے، حالاں کہ دنیا میں ان کا وجود خداوند تعالیٰ کے کلام کی نشر و اشاعت اور مجاہدانہ قوت کے لیے ہے۔ (۳) بیان: سورہ آل عمران کی تفسیر ہے، اس میں الوہیت مسیح، معجزات ابن مریم اور وفات و حیات مسیح پر حکیمانہ بحث ہے۔ (۴) سبیل الرشاد، تفسیر سورہ حجرات (۵) برہان: تفسیر سورہ النور (۶) عبرت: تفسیر سورہ یوسف (۷) صراط مستقیم: تفسیر سورہ انفال و توبہ (۸) سبل السلام: تفسیر سورہ مجادلہ تا سورہ التحریم (۹) ذکرئی: تفسیر پارہ عم (۱۰) اسباب النزول۔

مکتبہ جامعہ ملیہ دہلی کے لیے ادب اطفال پر حسب ذیل کتابیں لکھیں: (۱) حالات قرآن مجید (۲) نبیوں کے قصے (۳) ارکان اسلام (۴) ہمارے نبی (۵) پیارے رسول (۶) خلفائے اربعہ۔

۵ رمضان ۱۳۸۴ھ / ۸ جنوری ۱۹۶۵ء کو لاہور میں انتقال ہوا۔

مآخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم، ص ۱۱۰-۱۱۱؛ مشاہیر علمائے دیوبند، ص ۲۶۲-۲۶۳

حضرت مولانا عبدالرحمن کیمیل پوریؒ

مظاہر علوم سہارن پور کے صدر المدرسین اور شیخ الحدیث تھے۔ ساری زندگی قرآن و حدیث کی خدمت اور تبلیغ و ارشاد میں گزاری۔

پنجاب میں کیمیل پور کے رہنے والے تھے جہاں ۲۷ اگست ۱۸۷۲ء کو پیدا ہوئے۔ وہیں ابتدائی تعلیم پائی، پھر مظاہر علوم سہارن پور میں پڑھنے کے بعد ۱۳۳۳ھ / ۱۹۱۵ء میں دارالعلوم دیوبند سے فراغت حاصل کی۔ حضرت شیخ الہند کے آخری تلامذہ میں سے تھے۔

فراغت کے بعد مظاہر علوم سہارن پور میں مدرس مقرر ہوئے اور بڑی کامیابی اور نام وری کے ساتھ درس و تدریس کے فرائض انجام دیے۔ ۱۳۴۴ھ / ۱۹۲۵ء میں جب حضرت مولانا خلیل احمد نے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا قصد فرمایا تو ان ہی کا مظاہر علوم میں اپنی جگہ صدارت تدریس کے لیے انتخاب کیا۔

۱۹۴۷ء میں ملک کی تقسیم کے بعد وطن واپس چلے گئے تھے، وہاں ٹنڈوالہ یار، جامعہ اسلامیہ اکوڑہ خٹک وغیرہ کی بڑی درس گاہوں میں شیخ الحدیث رہے۔

علوم عقلیہ و نقلیہ پر کامل دست گاہ رکھتے تھے، علم حدیث میں ان کی نظر بڑی گہری تھی۔ مولانا کیمیل پوریؒ کے تلامذہ کی تعداد ہندو بیرون ہند میں ہزاروں تک پہنچی ہوئی ہے۔ تقریباً پچاس برس علوم دیدیہ اور حدیث کی درس

و تدریس میں گزارے۔

تقویٰ میں منفرد اور نہایت زاہدانہ زندگی کے خوگر تھے۔ حضرت تھانویؒ سے اجازت و خلافت حاصل تھی۔ درس و تدریس کے ساتھ ارشاد و سلوک میں بھی خاص مقام رکھتے تھے۔ بہت سے لوگوں نے ان سے سلوک و طریقت کی منزلیں طے کیں۔

اسبال الازار کے موضوع پر ایک جامع کتاب بھی لکھی، جو چھپ نہ سکی، لیکن اس کا کچھ حصہ ماہنامہ نظام کانپور میں بالاقساط طبع ہوا۔

۲۷ شعبان ۱۳۸۵ھ / ۲۱ دسمبر ۱۹۶۵ء کو اپنے وطن میں وفات پائی۔

ماخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم، ص ۱۶۱-۱۶۲؛ پچاس مثالی شخصیات، ص ۱۶۸؛

اکابر علمائے دیوبند، ص ۲۳۶-۲۴۰

حضرت مولانا فضل ربی پشاوریؒ

تحریک شیخ الہند کے اہم اراکین میں تھے۔ افغانستان میں اہم عہدوں پر فائز رہے۔

ضلع پشاور کے رہنے والے تھے۔ ۱۳۲۷ھ / ۱۹۰۹ء میں دارالعلوم سے فراغت حاصل کر کے اپنے وطن میں درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔

پہلی جنگ عظیم کے شروع میں حضرت شیخ الہندؒ کے حکم سے یاغستان چلے گئے اور وہاں کے لوگوں کو برطانوی حکومت کے خلاف جنگ آزادی کے لیے تیار کرتے رہے۔ جب حاجی ترنگ زئی نے انگریزوں کے خلاف علم جہاد بلند کیا تو یہ بھی ان کے ساتھ جنگ میں شریک رہے۔

تحریک ختم ہونے کے بعد افغانستان چلے گئے۔ وہاں اپنی علمی استعداد کی بنیاد پر حکومت افغانستان کے محکمہ تعلیمات میں ملازم ہو گئے اور مختلف اعلیٰ سرکاری عہدوں پر فائز رہے۔ مولانا موصوف جمعیتہ علمائے افغانستان کے ایک ممتاز رکن تھے۔ ان کی عمر کا بیشتر حصہ علمی اور سیاسی خدمات میں گزارا۔

ریشمی رومال سازش کیس میں لکھا ہے:

”مولانا محمود حسن نے اسے مولوی سیف الرحمن کے ہمراہ جہاد کی تبلیغ کے لیے آزاد علاقہ میں بھیجا

تھا۔ ۱۹۱۵ء کی بہت سی لڑائیوں کے لیے ذمہ دار ہے۔ جنود بانیہ کی فہرست میں کرنل ہے۔“

ماخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم، ص ۱۰۲؛ تحریک شیخ الہند، ص ۳۸۴

حضرت مولانا شاہ وصی اللہ فتح پوریؒ ثم الہ آبادی

اپنے وقت کے جلیل القدر شیخ و مرشد تھے، آپ کو صلح الامتہ کہا جاتا تھا۔

۱۳۱۰ھ/۱۸۹۲ء میں اپنے وطن موضع تال نر جات پور ضلع اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے۔ قرآن شریف وطن ہی میں حافظ ولی محمد سے حفظ کیا۔ پھر مدرسہ جامع العلوم کان پور میں فارسی اور ابتدائی عربی کی کتابیں پڑھیں۔ بعد ازاں دارالعلوم میں داخل ہو کر ۱۳۳۵ھ/۱۹۱۷ء میں دورہ حدیث کی تکمیل کی۔ یہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیریؒ کی صدارت تدریس کا ابتدائی زمانہ تھا۔

دارالعلوم سے فراغت کے بعد حکیم الامتہ حضرت تھانویؒ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے اور بالکلید وہیں کے ہو رہے۔ زمانہ طالب علمی سے ہی اصلاح اعمال اور ذوق عبادت سے سرشار تھے۔ زمانہ طالب علمی میں خلوت نشینی کے عادی تھے۔ خانقاہ امدادیہ میں وہ اپنے قیام کے زمانے میں منقطع عن الخلق رہے اور متوکل علی اللہ ہو کر سیر سلوک اور تحصیل نسبت میں اپنے آپ کو غرق کر دیا، اور بہت جلد تربیت باطنی اور تصوف کے مراحل طے کر کے خلعت خلافت و اجازت سے آراستہ پیراستہ ہو گئے۔

۱۳۵۱ھ/۱۹۳۲ء میں وطن پہنچ کر تعلیم و تربیت اور اصلاح خلق میں مشغول ہو گئے۔ ان کا شمار حضرت تھانویؒ کے اجلہ خلفاء میں تھا۔ ان کا طرز اصلاح و تربیت ہو بہو اپنے مرشد کے طرز پر تھا۔ ۱۳۷۴ھ/۱۹۵۴ء میں گورکھ پور چلے گئے۔ اور آخر میں الہ آباد قیام فرمایا اور وہاں خانقاہ تعمیر کرائی۔

بڑے بڑے علماء اور اصحاب جاہ و ثروت ان کے حلقہ ارادت میں شامل تھے۔ ہزاروں بندگانِ خدا نے ان سے روحانی فیض حاصل کیا۔ الہ آباد کے زمانہ قیام میں انہوں نے اپنے طریق مشائخ پر احیائے سنت کی زبردست خدمات انجام دیں۔ اس دورِ آخر میں ان کی ذات گرامی معتنات میں سے تھی۔ آخر کے چند سال بمبئی آمد و رفت رہی، وہاں مریدین کا ایک حلقہ قائم ہو گیا اور کتنے ہی لوگ مسلک صالح پر مستقیم ہو گئے۔

آپ کا حافظہ بہت قوی تھا اور تمام علوم مستحضر رہتے تھے۔ مگر تعلیمی اور روحانی مشاغل کی وجہ سے باضابطہ کوئی تصنیفی کام نہیں کیا، البتہ جو مضامین قلب پر وارد ہوتے تھے ان کا املا کرا دیا کرتے تھے۔ چنانچہ تین درجن سے زائد یہی املائی تصانیف بطور یادگار باقی رہ گئی ہیں جو آپ کے وسعت علمی کی دلیل ہیں۔

دارالعلوم کے کتب خانے میں آپ کی درج ذیل کتابیں محفوظ ہیں:

- (۱) وصیۃ السالکین (۲) شرعی معیار (۳) مفتاح الرحمتہ (۴) النصیۃ للمشرشدین (۵) الافادات الوصیۃ (۶) وصیۃ الاحسان (۷) دیباچہ معرفت (۸) تصوف و نسبت صوفیہ (۹) وصیۃ الاخلاق (۱۰) گلستان معرفت (۱۱) اعتقاد و انکار (۱۲) مفتاح الرحمتہ (۱۳) ملفوظ طریق کار (۱۴) تلاوت قرآن (۱۵) نخبانہ باطن (۱۶) مضمون نیمہ (۱۷) اخوت (۱۸) نعم الامیر علی باب الفقیر (۱۹) نعم علی خیر الامم (۲۰) اصلاح مضمون (۲۱) الامر الفارق بین المخلص و المنانق (۲۲) وصیۃ الاخلاص (۲۳) توقیر العلماء (۲۴) جنت (۲۵) طریقہ اصلاح (۲۶) راہ صفا (۲۷) الاصول النادرہ (۲۸) تعلیم و تربیت اولاد (۲۹) التذکیر بالقرآن (۳۰) تحذیر العلماء (۳۱) عاقبۃ الانکار مع تلاش مرشد (۳۲) الافادات الوصیۃ (۳۳) مضمون ذکر، وغیرہ۔

آپ کی کتابوں اور مکتوبات وغیرہ کا مجموعہ 'تالیفات مصلح الامة' کے نام سے اور آپ کی سوانح 'حیات مصلح الامة' کے نام سے شائع ہو چکی ہے۔

۲۲ شعبان ۱۳۸۷ھ / ۲۵ نومبر ۱۹۶۷ء کو سفر حجاز کے دوران جہاز میں وفات پائی اور بحر احمر کی آغوش میں اُن کو سپردِ آب کیا گیا۔

مآخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم، ص ۱۲۷-۱۳۰؛ فہرست کتب اکابر، کتب خانہ دارالعلوم دیوبند

حضرت مولانا شمس الحق فرید پوریؒ

مشرقی پاکستان کے مجاہد علماء میں سے تھے۔ اپنے اخلاص و للہیت، مجاہدانہ عزم و عمل اور بے لوث خدمات کے لیے جانے جاتے تھے اور تمام علمی و دینی حلقوں میں ہر دل عزیز شخصیت کے مالک تھے۔

ضلع فرید پور (موجودہ بنگلہ دیش) کے رہنے والے تھے۔ تقریباً ۱۳۲۸ھ / ۱۹۱۰ء میں پیدا ہوئے۔ مظاہر علوم سہارن پور میں تعلیم پائی۔ پھر دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا اور یہاں سے ۱۳۴۶ھ / ۱۹۲۷ء میں فراغت حاصل کی۔ مولانا فرید پوری نے اپنی علمی اور تبلیغی خدمات کے لیے ڈھا کہ میں جامعہ قرآنیہ کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا۔ مدرسہ کے لیے عالی شان عمارتیں بنوائیں اور مسجد تعمیر کرائی۔ یہ مدرسہ ڈھا کہ کے دینی مدارس میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ نے آپ کو اخلاص اور دینی لگن کی وجہ سے عوام و خواص میں غیر معمولی مقبولیت اور وجاہت عطا فرمائی تھی۔ وہ چاہتے تو اپنے لیے بہتر کوٹھی بنگلے بنا سکتے تھے، لیکن اپنے قیام کے لیے انھوں نے جامعہ قرآنیہ کا ایک تنگ و تاریک حجرہ منتخب کیا۔

اخلاص و سادگی کے ساتھ حق گوئی اور بے باکی ان کی خاص صفت تھی۔ مشرقی پاکستان کے حکام کے ساتھ ان کے گہرے تعلقات تھے، لیکن جب دین کا معاملہ آجاتا تو پوری بے باکی اور جرأت کے ساتھ اپنی بات کہنے سے نہیں چوکتے تھے۔ آخر عمر میں صحت خراب ہو گئی تھی، مگر دینی خدمات کے لیے ان کے عزم و حوصلہ میں کوئی کمی نہیں آئی۔

مولانا فرید پوری بنگلہ زبان کے بڑے اچھے مصنف تھے۔ انھوں نے بنگال کے مسلمانوں کو دینی تعلیم سے روشناس کرانے کے لیے بڑی خدمت انجام دی۔ بہشتی زیور کا بنگلہ زبان میں ترجمہ کیا، جو بنگال میں بہت مقبول ہوا۔ اس کے علاوہ انھوں نے حضرت تھانویؒ کی متعدد کتابوں کو بنگلہ زبان میں منتقل کیا۔

۲۷ ذوالقعدہ ۱۳۸۸ھ / ۲۱ جنوری ۱۹۶۹ء کو تقریباً ساٹھ سال کی عمر میں وفات پائی۔

مآخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم، ص ۱۶۰-۱۶۱؛ اکابر علمائے دیوبند، ص ۳۰۹-۳۱۳

حضرت مولانا محمد یوسف شاہ میر واعظ کشمیریؒ

کشمیر کے معروف میر واعظ، کشمیری مسلمانوں کے عظیم دینی و سیاسی رہنما اور بااثر عالم دین تھے۔

۲۲ شعبان ۱۳۱۳ھ / ۹ فروری ۱۸۹۶ء میں کشمیر میں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان کشمیر میں 'میر واعظ خاندان' کہلاتا ہے اور بڑی عظمت و عقیدت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ میر واعظ کا لقب اس خاندان میں کئی پشتوں سے چلا آ رہا ہے۔

مولانا یوسف نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد مولانا غلام رسول شہ ثانی اور مولانا حسین وفائی سے حاصل کی۔ پھر دارالعلوم دیوبند میں چند سال رہ کر ۱۳۲۰ھ / ۱۹۲۲ء میں فارغ التحصیل ہوئے۔

مولانا یوسف شاہ نے تعلیم سے فراغت کے بعد سری نگر میں ایک دینی درس گاہ اور نیشنل کالج کے نام سے قائم کی۔ اس کالج کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانان کشمیر جو اب تک حکومت کی بے توجہی سے جہالت کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے ان کی تعلیم کا انتظام کیا جائے اور اس درس گاہ کے ذریعہ سے معلم، مدرس، مبلغ اور مساجد کی امامت و خطابت کے لیے لائق افراد تیار کیے جائیں۔ مولانا یوسف شاہ خود بھی اس کالج میں درس دیتے تھے۔ اس درس گاہ نے دینی علوم کی خاصی خدمت انجام دی۔ اور نیشنل کالج میں پنجاب یونیورسٹی کے عربی کے امتحانات کی تعلیم بھی ہوتی تھی۔

مولانا موصوف دارالعلوم دیوبند کے زمانہ طالب علمی میں تحریک خلافت سے بہت متاثر تھے۔ انہوں نے کشمیر میں اور نیشنل کالج کے علاوہ عام لوگوں میں سیاسی شعور کو بیدار کرنے کے لیے ۱۹۲۵ء میں خلافت کمیٹی قائم کی۔ ان کی یہی سیاسی جدوجہد آگے چل کر 'مسلم مجلس' میں تبدیل ہو گئی۔ انہوں نے کشمیر کے پس ماندہ مسلمانوں کی آواز کو مؤثر بنانے کے لیے 'اسلام' نام سے ایک سہ روزہ پرچہ نکالا اور پھر دوسرا اخبار 'رہ نما' کے نام سے جاری کیا اور اخباروں کو چھاپنے کے لیے پریس لگایا۔

۱۹۲۶ء میں برصغیر کی تقسیم سے قبل مولانا یوسف صاحب کسی ضرورت سے پاکستان گئے ہوئے تھے کہ اسی دوران کچھ ایسے حالات پیش آئے کہ وہ پھر وطن واپس نہ آ سکے۔ کچھ عرصہ کے بعد ان کو پاکستان کے زیر اثر کشمیر کے حصے میں قائم شدہ حکومت کا صدر بنا دیا گیا۔

قیام پاکستان کے زمانے میں انہوں نے قرآن کریم کا کشمیری زبان میں ترجمہ کیا اور مختصر تفسیر لکھی۔ کشمیری زبان میں پورے قرآن مجید کا یہ پہلا ترجمہ اور تفسیر ہے۔

میر واعظ جہاں علمی حیثیت سے اپنے ہم عصر علماء میں ممتاز تھے وہیں عملی زندگی میں عبادت و ریاضت اور صدق مقال کے لحاظ سے ان کی زندگی اسلاف کرام کا عمدہ نمونہ تھی۔ اہل کشمیر کی دینی اور سیاسی بیداری میں ان کی مخلصانہ جدوجہد کا بڑا حصہ ہے۔

۱۶ رمضان ۱۳۸۹ھ / ۲۶ نومبر ۱۹۶۹ء کو روزے کی حالت میں عین افطار کے وقت راولپنڈی میں وفات پائی۔

حضرت مولانا عبدالحفیظ بلیاویؒ

دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے۔ ساری زندگی درس و تدریس میں گذری۔
ابوالفضل مولانا عبدالحفیظ بلیاوی ابن مولانا عبد الرحمن، رسد اذلیع بلیا کے رہنے والے تھے۔ ۱۳۳۲ھ/۱۹۲۳ء
میں دارالعلوم دیوبند سے فارغ التحصیل ہوئے۔ ادب عربی کی تعلیم خصوصی طور پر حضرت مولانا اعزاز علی امرہویؒ
سے حاصل کی۔

فراغت کے بعد مدرسہ مصباح العلوم بریلی اور دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں تدریسی خدمات انجام دیں۔
ندوۃ العلماء لکھنؤ میں ادب عربی اور حدیث کے استاذ تھے۔ ۱۳۶۷ھ/۱۹۴۸ء میں دارالعلوم دیوبند میں ماہنامہ
دارالعلوم کے ایڈیٹر مقرر ہوئے، لیکن چند ماہ کے بعد ہی مستعفی ہو گئے۔

عربی کی مشہور لغت 'مصباح اللغات' کے مصنف ہیں۔ ایک دوسری لغت 'اردو عربی ڈکشنری' کے نام سے
لکھی۔ حضرت مولانا ابوالحسن علی ندویؒ کی کتاب 'مختارات من ادب العربی' پر عربی میں ان کا حاشیہ ہے۔

۳ جمادی الثانیہ ۱۳۹۱ھ/۲۷ جولائی ۱۹۷۱ء کو اپنے وطن میں وفات پائی۔

مآخذ: کاروان رفتہ، ص ۱۵۸؛ حیات ابوالمآثر، ص ۶۷۶

حضرت مولانا اطہر علی سلہٹیؒ

بنگال اور بنگلہ دیش کے اکابر علماء میں ان کا شمار تھا۔

۱۳۰۹ھ/۱۸۹۱ء میں سلہٹ میں پیدا ہوئے۔ مشرقی بنگال کے ایک معزز اور دین دار گھرانے سے تعلق رکھتے

تھے۔ ۱۳۳۸ھ/۱۹۲۰ء میں دارالعلوم دیوبند سے فراغت پائی۔ فراغت کے بعد پہلے مدرسہ عالیہ جھگا باڑی میں اور

پھر مدرسہ قاسم العلوم ضلع کملا میں صدر مدرس مقرر ہوئے اور ایک عرصہ تک اعلیٰ تدریسی خدمات انجام دیں۔

حضرت تھانویؒ کے خلیفہ و مجاز تھے۔ ایک جامع علمی شخصیت ہونے کے ساتھ ملکی و سیاسی کاموں میں بھی عملی

حصہ لیتے تھے۔ تقسیم سے پہلے مشرقی پاکستان میں وسیع پیمانے پر علمی و تدریسی اور قومی خدمات انجام دیں۔ تقسیم کے

بعد مشرقی پاکستان میں جمعیتہ علمائے اسلام کے صدر اور پاکستان اسمبلی کے ممبر رہے۔ آخر میں نظام اسلام پارٹی کی

تشکیل کی۔ وزارتوں کے انقلاب اور بالخصوص تقسیم بنگلہ دیش میں قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کیں۔

بنگلہ دیش میں آپ کو خاص شہرت و امتیاز حاصل تھا۔ استقامت میں حق پرست علماء کا نمونہ تھے۔ زندگی بڑی

سادہ تھی، تکلف و تصنع اور مادی آرائش و زیبائش سے دور تھے۔ ان خوبیوں کے علاوہ مجاہد فی سبیل اللہ تھے اور اعلاء کلمتہ

الحق میں کبھی کوتاہی سے کام نہیں لیا۔ اس کی وجہ سے قید بھی کیے گئے اور اذیتیں بھی دی گئیں۔

کشور گنج میں انھوں نے جامعہ امدادیہ کے نام سے بڑے پیمانے پر ایک مدرسہ قائم کیا۔ یہ مدرسہ بنگال کا

دارالعلوم سمجھا جاتا تھا۔ مدرسہ میں خود بھی درس دیتے تھے۔ دارالعلوم دیوبند کی طرح کشور گنج کے اس مدرسہ میں بھی ذریعہ تعلیم اردو تھا۔

۱۰ اشوال ۱۳۹۶ھ / ۵ اکتوبر ۱۹۷۶ء کو انتقال ہوا اور جامعہ امدادیہ کشور گنج میں مدفون ہوئے۔

مآخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم، ص ۱۳۰؛ دارالعلوم دیوبند کی پچاس مثالی شخصیات، ص ۱۹۰؛

اکابر علمائے دیوبند، حافظ محمد اکبر شاہ بخاری، ص ۲۳۱-۲۳۶؛ شاہیر علمائے دیوبند، ص ۹۰

حضرت مولانا محمد یوسف بنوریؒ

محدث جلیل، بانی جامعہ علوم اسلامیہ کراچی، پاکستان کے جید علماء اور علامہ کشمیریؒ کے ارشد تلامذہ میں ان کا شمار ہے۔ حضرت شاہ صاحبؒ کے جانشین اور ان کے علوم و معارف کے امین تسلیم کیے گئے۔

صوبہ سرحد میں ضلع مردان کی ایک بستی مہابت آباد میں ۱۳۲۶ھ / ۱۹۰۸ء میں پیدا ہوئے۔ ایک اہل علم اور خاندان سادات کے فرد ہیں۔ ان کے والد ماجد مولانا محمد زکریا صاحب بلند پایہ عالم اور معروف شخصیت کے مالک تھے۔ آپ کے جد امجد حضرت سید آدم بنوریؒ، ریاست پٹیالہ میں سرہند کے قریب بنور نامی بستی کی طرف نسبت کی وجہ سے بنوری کہلاتے تھے۔ ان کا خاندان حضرت مجدد الف ثانیؒ کے وقت سے صوبہ سرحد کا واجب الاحترام سمجھا جاتا رہا ہے۔

۱۳۳۵ھ میں دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا اور تکمیل تعلیم سے پہلے ہی حضرت علامہ مولانا انور شاہ کشمیریؒ کے ساتھ جامعہ تعلیم الدین ڈابھیل منتقل ہو گئے۔ وہیں ۱۳۳۷ھ میں حضرت شاہ صاحب کشمیریؒ، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانیؒ، مفتی عزیز الرحمن عثمانیؒ وغیرہ سے حدیث کی تحصیل کی۔

فراغت کے بعد جامعہ اسلامیہ ڈابھیل اور پھر پاکستان میں مرکزی مدارس میں درس حدیث میں مشغول رہے۔ سندھ کے مشہور مدرسہ ٹنڈوالہ یار میں عرصہ تک شیخ الحدیث رہے۔ پھر کراچی میں نیو ٹاؤن کی مسجد میں ایک مدرسہ قائم کیا اور محض متوکلانہ انداز سے مسجد میں تعلیم کا آغاز کر دیا۔ حق تعالیٰ نے ان کا صدق و اخلاص قبول فرمایا اور آج وہ پاکستان کا ایک مرکزی دارالعلوم شمار کیا جاتا ہے۔ مصارف مدرسہ کے بارے میں انتہائی محتاط تھے۔ تصوف و سلوک میں حضرت تھانویؒ سے اجازت و خلافت حاصل تھی۔

ذہین، طباع، منکسر المزاج اور وسیع النظر عالم دین تھے۔ وجہ و تکیل شخصیت کے مالک تھے۔ اپنی غیر معمولی علمی صلاحیتوں کی بنا پر پاکستان کے علاوہ ممالک اسلامیہ کے علمی حلقوں میں بھی مقبول و متعارف تھے۔ مؤثر عالم اسلامی اور رابطہ عالم اسلامی سے بھی مربوط رہے۔ پاکستان میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیے جانے میں آپ کی خدمات کا بڑا حصہ رہا ہے۔ پاکستان میں مجلس دعوت و تحقیق اسلامی، مجلس ختم تحفظ نبوت اور وفاق المدارس جیسے اداروں کے قیام میں شریک رہے۔

مولانا بنوری صاحبِ قلم بھی تھے۔ اُن کی اردو شہسہ اور ادیبانہ ہوتی تھی۔ آپ نے مدرسہ کے لیے 'بینات' کے نام سے ایک رسالہ جاری کیا جس میں ممتاز اہل قلم کے محققانہ مضامین شائع ہوتے ہیں۔ ادبِ عربی میں نظم و نثر پر ان کو وہی قدرت حاصل تھی جو ایک اہل زبان کو ہو سکتی ہے۔ مصر اور عرب ممالک کے علماء ان کی قابلیت اور فضل و کمال کے معترف تھے۔ فارسی اور پشتو میں بھی مہارت حاصل تھی۔

آپ کا علمی شاہ کار سنن الترمذی کی شرح 'معارف السنن' ہے جس میں انھوں نے حضرت کشمیریؒ کے علوم کو پورے ثبوت اور اتقان کے ساتھ محفوظ کر دیا ہے۔ اس جامع و بلیغ شرح میں محدثانہ اور فقیہانہ انداز میں کلام کیا گیا ہے۔ اس کی عربیت اور طرزِ ادا معیاری ہے اور ذخیرہ معلومات بہت کافی ہے، اس سے تبحر اور ترقی دونوں نمایاں ہے۔ آپ کی دوسری تصنیفات یہ ہیں: (۲) بغیۃ الاریب فی مسائل القبلیۃ والحاریب (۳) تہیۃ البیان فی شی من علوم القرآن (۴) عوارف السنن مقدمہ معارف السنن، ایک جلد میں علیحدہ مطبوعہ ہے۔ (۵) نسیۃ العنبر فی حیاة امام العصر الشیخ محمد انور (۶) الاستاذ المودودی و شی من حیاة و افکارہ (۷) عقیدۃ نزول مسیح (۸) القصائد النبویہ (۹) المقدمات النبویہ (۱۰) بصائر و عبر (۱۱) تسخیر کائنات (۱۲) ختم نبوت۔

۱۷ اکتوبر ۱۹۷۷ء / ۳ رذوالقعدہ ۱۳۹۷ھ کو اسلام آباد میں انتقال ہوا اور کراچی اپنے مدرسہ کے قبرستان میں مدفون ہوئے۔

مآخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم ج ۱۶۴-۱۶۵؛ مقدمہ معارف السنن، جلد اول، ج ۳-۴؛ مشاہیر علمائے دیوبند، ج ۶۳۵-۶۳۸

حضرت مولانا شائق احمد عثمانی

دارالعلوم دیوبند کے ایک ممتاز فاضل، ادیب اور صحافی تھے۔

۲۵ ربیع الاول ۱۳۱۱ھ / ۶ اکتوبر ۱۸۹۳ء تاریخ پیدائش ہے۔ بہار میں پورنی ضلع بھاگل پور وطن تھا۔ ابتدائی تعلیم پورنی اور مونگیر میں ہوئی۔ پورنی میں جب مدرسہ نعمانیہ قائم ہوا تو اس میں داخل ہو گئے۔ اردو، فارسی اور انگریزی تعلیم کے بعد ۱۳۲۷ھ / ۱۹۰۹ء میں دارالعلوم میں داخل ہوئے اور ۱۳۲۸ھ / ۱۹۱۰ء میں دورہ حدیث میں شریک ہو کر امتیازی نمبرات سے کامیابی حاصل کی۔

۱۳۳۱ھ / ۱۹۱۳ء میں ایک سال کے لیے دارالعلوم میں تدریسی خدمات بھی انجام دیں۔ لیکن جب اسی سال حضرت مولانا عبید اللہ سندھیؒ نے دہلی میں مجلس نظارۃ المعارف قائم کی تو مولانا عثمانی نے وہاں رہ کر قرآن مجید کے علوم و معارف کے استفادے کے ساتھ مولانا سندھیؒ سے سیاسی تربیت بھی حاصل کی۔

مولانا عثمانی کچھ مدت تک خانقاہ مونگیر سے بھی وابستہ رہے۔ اس زمانے میں بہار کے بعض اضلاع میں قادیانیت کا فتنہ سرا بھار رہا تھا، حضرت مولانا سید محمد علی مونگیریؒ نے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے بڑا کام کیا۔ قادیانیت

کے رد میں خود بھی کئی کتابیں لکھیں اور دوسروں سے بھی لکھوائیں، اسی غرض سے خانقاہ رحمانی میں ایک پریس بھی لگایا گیا اور ایک ماہنامہ کا اجراء بھی عمل میں آیا جس کی ادارت مولانا عثمانی کے سپرد ہوئی۔

تحریک خلافت کے زمانے میں وہ کلکتہ چلے گئے اور وہاں بنگال خلافت کمیٹی کے شعبہ نشر و اشاعت کے انچارج مقرر ہوئے۔ اس زمانے میں انھوں نے تحریک خلافت میں سرگرمی سے حصہ لیا۔ ۱۹۲۲ء میں ایک سال قید بامشقت بھی کاٹی۔

۱۹۲۱ء میں انھوں نے کلکتہ سے ایک روزنامہ 'عصر جدید' کے نام سے جاری کیا۔ ابھی اس اخبار کو جاری کیے ہوئے ایک مہینہ ہی گزرا تھا کہ مولانا عثمانی کو دفعہ ۵۰۵ تعزیرات ہند کے تحت ایک سال قید بامشقت کی سزا ہو گئی۔ یہ وہی دفعہ تھی جس کے تحت کراچی کا مشہور تاریخی مقدمہ چلایا گیا تھا جس میں حضرت مولانا مدنی اور علی برادران وغیرہ شامل تھے۔

قید سے رہائی کے بعد بھی اخبار جاری رہا۔ فروری ۱۹۲۸ء میں آپ کلکتہ سے کراچی چلے گئے اور وہاں 'عصر جدید' جاری کیا، مگر وہاں یہ اخبار تین سال جاری رہ کر بند ہو گیا۔ 'عصر جدید' نے تحریک خلافت اور ملت اسلامیہ کی گراں قدر خدمات انجام دیں۔ یہ روزنامہ کم و بیش تیس سال تک پورے شمال مشرقی ہندوستان میں قرآنی سیاست کی تبلیغ کرتا رہا۔ حضرت شیخ الہند کے علمی فیوض کی اشاعت بھی 'عصر جدید' کا اہم کارنامہ تھا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی نے اس اخبار کے بارے میں فرمایا تھا کہ میں 'عصر جدید' کو ایک اخبار نہیں ایک تبلیغی ادارہ سمجھتا ہوں۔ 'عصر جدید' کی تیس سالہ فائلیں پاکستان ہسٹوریکل سوسائٹی کراچی کے کتب خانہ میں محفوظ ہیں۔

مولانا شائق احمد عثمانی کو قرآن مجید سے بہت شغف تھا، انھوں نے آخری دو پاروں کے علاوہ اور بھی کئی سورتوں کی تفسیریں لکھیں جو عام طور پر بہت مقبول ہوئیں۔ نوجوانوں کو بامقصد زندگی سے آشنا کرنے کے لیے انھوں نے کئی ناول بھی لکھے، ایک بڑا ناول 'طلیسی' شائع بھی ہو چکا ہے۔

۱۹۶۳ء میں بینائی سے محروم ہو گئے تھے، لیکن علمی مشغلہ جاری رہا۔ کراچی میں ۲۶ اگست ۱۹۷۸ء کو وفات ہوئی۔

مآخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم، ص ۱۰۸-۱۰۹؛ مشاہیر علمائے دیوبند، ص ۲۰۷-۲۰۸؛

وفیات ناموران پاکستان، ڈاکٹر محمد منیر احمد سلج، اردو سائنس بورڈ لاہور ۲۰۰۶ء، ص ۲۸۷

حضرت مولانا مفتی محمود سرحدی

پاکستان کے جلیل القدر اور عظیم علماء اور مفتیوں میں شمار ہوتے تھے۔ پاکستان کی سیاسیات میں انھیں نمایاں مقام حاصل تھا۔ صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ بھی ہوئے۔

۶ ربیع الثانی ۱۳۳۷ھ مطابق ۹ جون ۱۹۱۹ء کو پنیالہ ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم

اپنے والد مولانا خلیفہ محمد صدیق صاحب اور مولوی شیر محمد وغیرہ سے حاصل کی، چھ سال کی عمر میں مڈل سکول پنیالہ

میں داخل کئے گئے اور ۱۹۳۳ء میں ڈل کا امتحان اعلیٰ نمبروں سے پاس کیا۔ پھر عربی کی ابتدائی تعلیم حاصل کر کے ۱۹۳۶ء میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کیلئے دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے لیکن بعض وجوہات کی بنا پر یہاں سے مدرسہ شاہی مراد آباد چلے گئے اور چھ سال وہاں رہ کر تعلیم حاصل کی۔ آخر میں امر وہہ جا کر تعلیم مکمل کی اور حضرت مولانا عبدالرحمن امر وہویؒ سے سند حدیث حاصل کی۔

۱۹۴۲ء میں تعلیم سے فراغت کے بعد چند سال آپ نے مدرسہ معین الاسلام عیسیٰ خیل ضلع میانوالی میں تدریس کے فرائض انجام دیئے۔ اس کے بعد دو سال تک سید عبدالعزیز شاہ کے قائم کردہ مدرسہ میں پڑھاتے رہے۔ ۱۹۵۱ء میں مدرسہ قاسم العلوم ملتان تشریف لے گئے اور مسند تدریس و افتاء کو رونق بخشی، ۱۹۵۵ء میں آپ مدرسہ قاسم العلوم میں شیخ الحدیث کے منصب پر فائز ہوئے اور ۱۹۷۵ء میں آپ کو جامعہ کا مہتمم منتخب کیا گیا۔

مفتی صاحب کو حدیث اور فقہ میں اچھی بصیرت حاصل تھی۔ پاکستان میں ان کے فتاویٰ وقعت اور اعتماد کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ دینی علوم میں بصیرت کے ساتھ ساتھ عصری علوم پر بھی گہری نظر رکھتے تھے۔ آپ کے فتاویٰ اب مرتب ہو کر گیارہ جلدوں میں 'فتاویٰ مفتی محمود' کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔

جمعیتہ علمائے اسلام پاکستان کے ناظم تھے۔ پاکستان اسمبلی کے ممبر بھی رہے۔ ۱۹۷۲ء میں صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ اپنے دور حکومت میں بہت سے شرعی منکرات کو آپ نے مٹا دیا تھا۔ مصر کی موتمر عالم اسلامی میں پاکستان کی نمائندگی کے فرائض انجام دیئے۔ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے میں آپ کی مساعی اہمیت رکھتی ہیں۔ پاکستان کثیر الجماعت متحدہ محاذ کے صدر اور وفاق المدارس کے ناظم اعلیٰ بھی رہے ہیں۔

۱۴ اکتوبر ۱۹۸۰ء / ۳ ذوالحجہ ۱۴۰۰ھ کو وفات پائی۔

ماخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم، ص ۱۷۰؛ اکابر علمائے دیوبند، ص ۴۳۸-۴۳۹؛

مفتی محمود ایک قومی راہنما، مرتبہ محمد فاروق قریشی، مطبوعہ مفتی محمود اکیڈمی کراچی؛

مفتی محمود کی علمی، دینی اور سیاسی خدمات، ڈاکٹر عبدالکحیم اکبری، ص ۶۳ تا ۶۸

حضرت مولانا غلام غوث ہزارویؒ

دارالعلوم دیوبند کے ذی استعداد اور ممتاز فضلاء میں تھے۔ قادر الکلام خطیب، مبلغ، سیاست دان اور مجاہد آزادی رہے ہیں۔

جون ۱۸۹۶ء میں بفقہ پکھل ضلع ہزارہ (پاکستان) میں پیدا ہوئے۔ ۱۳۳۷ھ / ۱۹۱۹ء میں دارالعلوم دیوبند سے فارغ التحصیل ہوئے۔ ۱۹۲۰ء میں دارالعلوم دیوبند میں معین مدرس مقرر کیے گئے اور دو سال تک خدمات انجام دیں۔ ۱۹۲۲ء میں حیدرآباد دکن گئے اور وہاں چار سال تک بدعات کے خلاف بڑا کام کیا۔

مجلس احرار اسلام کے پلیٹ فارم سے قادیانیت کے خلاف سرگرمی میں قائدانہ کردار ادا کیا۔ ملک کی تحریک

آزادی میں شریک رہے اور قید و بند کی صعوبتوں سے گزرے۔ ملک کی تقسیم کے بعد جمعیت علمائے اسلام کے پہلے ناظم اور پھر صدر مقرر ہوئے۔ جمعیت کے ترجمان رسالہ ترجمان اسلام کے مدیر بھی رہے۔ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیے جانے کی تحریک میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔

پاکستان کے ممتاز علماء میں ان کا شمار تھا۔ ایثار و استقلال، جرأت و شجاعت، خودداری و قناعت اور ایمانی غیرت و حمیت میں بے مثال تھے۔ بڑے جانباز، سرفروش اور پختہ کردار کے انسان تھے۔ اپنی علمی شہرت کی بنا پر موتمر عالم اسلامی میں علمائے پاکستان کے نمائندے کی حیثیت سے شرکت کی۔ صوبہ سرحد کی اسمبلی کے ممبر بھی منتخب ہوئے اور صوبہ سرحد میں حضرت مفتی محمود صاحب کی حکومت میں وزیر بھی رہے۔

۴ فروری ۱۹۸۱ء کو وفات پائی۔

ماخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم، ص ۱۳۹-۱۴۰؛ ماہنامہ بینات، جمادی الاخریٰ ۱۴۳۶ھ، ص ۲۷-۳۱

حضرت مولانا محمد چراغ گجرانوالویؒ

۱۳۳۷ھ/۱۹۱۹ء میں دارالعلوم دیوبند سے فارغ التحصیل ہوئے۔ زمانہ طالب علمی میں اپنے جلیل القدر استاذ حضرت شاہ کشمیریؒ کی ترمذی شریف کی تقریر المعروف الہدی مرتب کی۔ حدیث کے علاوہ دیگر علوم پر بھی گہری نظر رکھتے تھے۔ پہلے مولانا عبدالعزیز گجرانوالہ کے مدرسہ میں صدر مدرس بنائے گئے، بعد ازاں اپنے وطن گجرانوالہ میں ہی اپنا مدرسہ قائم کیا۔

آزادی ہند کی تحریک میں سرگرمی سے شریک رہے اور بار بار قید و بند کے مرحلوں سے گزرے۔

ماخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم، ص ۱۳۶-۱۳۷

حضرت مولانا نسیم احمد فریدی امر وہویؒ

جید عالم دین اور مورخ و مصنف تھے۔

۶ ستمبر ۱۹۱۱ء/۱۲ رمضان ۱۳۲۹ھ کو امر وہہ کے علمی و دینی خاندان میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی و متوسط تعلیم امر وہہ میں حاصل کی اور ۱۳۵۵ھ/۱۹۳۶ء میں دارالعلوم دیوبند میں حضرت مدنیؒ سے دورہ حدیث کی تکمیل کی۔ فراغت کے بعد مدرسہ اشفاقہ بریلی میں تدریسی خدمات انجام دیں۔ ۱۹۴۲ء میں جامع مسجد امر وہہ میں مدرس مقرر ہوئے۔ تدریس کے علاوہ افتاء کے اہم ذمہ داری بھی آپ کے سپرد کی گئی۔ آپ بڑے سادہ مزاج، بے نفس، تارک الدنیا اور قانع و متوکل شخص تھے۔

آپ کی ساری زندگی درس و تدریس، افتاء اور مطالعہ و تصنیف میں گزری۔ تصوف اور بزرگوں کے مکتوبات کے مطالعہ اور جمع و ترتیب میں ان کو خاص دل چسپی تھی۔ حضرت مجدد الف ثانیؒ اور ان کے نامور اخلاف، حضرت

شاہ ولی اللہ دہلویؒ اور ان کے خاندان اور اکابر دیوبند ان کا اختصاصی موضوع تھا۔ آپ کی علمی یادگاروں میں تجلیات ربانی تلخیص و ترجمہ مکتوبات حضرت مجدد سرہندیؒ، مکتوبات خواجہ معصوم سرہندی، ترجمہ مکتوبات شاہ ولی اللہ دہلویؒ (دو جلدیں)، فوائد قاسمیہ (مکتوبات حضرت نانوتوی)، مکتوبات حضرت مولانا احمد حسن امرہویؒ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔

اکثر رسالوں میں ان کے مضامین شائع ہوتے تھے۔ خاص طور پر رسالہ الفرقان، لکھنؤ کے مضمون نگاروں میں شامل تھے۔ آپ کی وفات پر رسالہ الفرقان کا خصوصی نمبر بھی شائع ہوا۔

۵ ربیع الاول ۱۴۰۹ھ / ۱۸ اکتوبر ۱۹۸۸ء بروز منگل امر وہہ میں انتقال ہوا۔

ماخذ: ذکر فنکاں، ص ۱۸-۵۶؛ تفصیل کے لیے دیکھیں: فریدی نمبر الفرقان لکھنؤ، مئی تا اگست

۱۹۸۹ء؛ حیات فریدی، مولانا محبت الحق، ۲۰۱۶ء

حضرت مولانا عزیز گل پشاوریؒ

مشہور مجاہد آزادی، اسیر مالٹا اور اہل دل عالم دین تھے۔

۱۳۰۷ھ / ۱۸۸۹ء میں پیدا ہوئے۔ قصبہ زیارت کا صاحب ضلع پشاور کے باشندے ہیں۔ ۱۳۳۱ھ /

۱۹۱۳ء میں دارالعلوم سے فراغت حاصل کر کے حضرت شیخ الہندؒ کی تحریک آزادی کے ممبر بن گئے تھے۔ حضرت شیخ الہندؒ کے جاں نثار خادم تھے۔

حضرت شیخ الہندؒ کی جماعت کے بہت پُر جوش اور سرگرم کارکن تھے۔ تحریک کے بہت اہم اور عظیم الشان کام انھوں نے بڑی قابلیت سے انجام دیے۔ حاجی ترنگ زئی اور تحریک کے دوسرے اراکین تک خطوط اور پیغامات کا پہنچانا انہی کے ذمہ تھا۔ حضرت شیخ الہندؒ کے معتمد خاص ہونے کے ساتھ خزانچی بھی تھے۔ ۱۳۳۳ھ / ۱۹۱۵ء میں حضرت شیخ الہندؒ کے ساتھ جاز گئے اور جب حضرت کو گرفتار کر کے مالٹا میں نظر بند کیا گیا تو یہ بھی ان کے ساتھ مالٹا میں نظر بند رہے اور ساتھ ہی میں ہندوستان واپس آئے۔ جنوری بانیہ کی فہرست میں ان کا عہدہ کرنل بتایا گیا ہے۔

تحریک خلافت کے زمانے میں دیوبند کی خلافت کمیٹی کے صدر بنائے گئے۔ دوسری جنگ عظیم سے قبل رڑکی کے مدرسہ رحمانیہ میں صدر مدرس مقرر ہوئے۔ قیام رڑکی کے دوران سابقہ اہلیہ کے انتقال کے بعد ایک نو مسلم انگریز خاتون سے نکاح کر لیا تھا۔ یہ انگریزی خاتون مدت سے رڑکی میں رہائش پذیر تھیں، انگلستان کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں اور اسلام کا مطالعہ کر رہی تھیں۔ اس سلسلہ میں اپنے ذہنی اشکالات رفع کرنے کے لیے ان کی آمد و رفت مولانا کے پاس رہتی تھی۔ مشرف باسلام ہو کر تصوف کی جانب اُن کا میلان بڑھ گیا تھا اور انھیں محسوس ہوا کہ نکاح کے بغیر انھیں تصوف کی راہ میں مشکلات درپیش ہیں۔ انھوں نے اپنی اس پریشانی کا تذکرہ کرتے ہوئے مولانا سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا، جسے اُن کے اصرار پر مولانا نے منظور کر لیا۔

تقسیم ملک کے زمانے میں مولانا اپنی نو مسلم اہلیہ اور بچوں کو لے کر اپنے وطن پشاور چلے گئے۔ وہاں ایک مدت تک ملاکنڈ ایجنسی کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں گوشہ نشینی کی طویل زندگی گزاری اور ۱۶ نومبر ۱۹۸۹ء/۱۶ ربیع الثانی ۱۴۱۰ھ کو انتقال کیا۔

ماخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم، ص ۱۱۷-۱۱۸؛ مضمون مفتی احمد الرحمن مہتمم جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی، مطبوعہ ہفت روزہ القلم؛ شخصیات سرحد، مرتبہ محمد شفیع صاحب

حضرت مولانا قاضی سجاد حسین کرتپوریؒ

دارالعلوم کے فاضل، مدرسہ عالیہ فتح پوری کے صدر المدرسین اور فارسی کے جید عالم اور مترجم و شارح تھے۔ ۱۳۲۸ھ/۱۹۱۰ء میں پیدا ہوئے۔ کرت پور ضلع بجنور وطن تھا۔ ۱۳۴۷ھ/۱۹۲۸ء میں دارالعلوم دیوبند سے فراغت حاصل کی۔ الہ آباد بورڈ سے مولوی عالم اور فاضل ادب کے امتحانات اور پنجاب یونیورسٹی سے منشی فاضل اور مولوی فاضل کے امتحانات پاس کیے۔

پہلے مدرسہ عالیہ فتح پوری میں مدرس مقرر ہوئے، پھر ترقی کرتے ہوئے صدر المدرسین بنائے گئے۔ علم و فضل کے ساتھ خلیق، متواضع اور بلند اخلاق عالم تھے۔ ایک عرصہ تک جمعیتہ علمائے ہند کے رکن رہے۔ دینی تعلیمی بورڈ دہلی کے جنرل سکرٹری کے فرائض بھی انجام دیے اور ہمدرد دو خانہ دہلی (وقف) کے نائب متولی بھی رہے۔

شیخ سعدی کی گلستاں، بوستاں، کریمیا اور دیوان حافظ شیرازی، مالا بدمنہ، گلزار دبستاں، حمد باری اور پند نامہ وغیرہ فارسی کی درسی کتابوں پر آپ نے اردو میں مفید اور سہل حواشی لکھے اور ان کو نہایت صحت و اہتمام کے ساتھ طبع کرایا۔ مثنوی کے چھ دفاتر کا اردو ترجمہ بھی لکھا اور بمبئی آرٹ دہلی سے شائع کرایا۔ سب سے معلقہ کی ایک شرح بھی انھوں نے اردو میں توشیحات کے نام سے لکھی ہے۔ فقہ حنفی کے انسائیکلو پیڈیا فتاویٰ تاتارخانیہ جو اب تک منظر طبع کی شکل میں تھا، کی ابتدائی پانچ جلدوں کو ایڈٹ کیا جو دائرۃ المعارف العثمانیہ حیدرآباد سے شائع ہوا۔ الجمعیتہ وغیرہ میں ان کے مضامین شائع ہوتے رہے ہیں۔ اردو تحریروں پر دونوں پر انھیں اچھی قدرت حاصل تھی۔

حکومت ہند نے ان کی علمی خدمات کے اعتراف میں فارسی کا ایوارڈ دیا تھا۔

دہلی میں ۲۵ دسمبر ۱۹۹۰ء/ ۷ جمادی الاخریٰ ۱۴۱۱ھ کو وفات پائی۔

ماخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم، ص ۱۶۲-۱۶۳؛ کاروانِ رفتہ، مولانا اسیر اوروی، ص ۱۰۷

حضرت مولانا مسیح اللہ خان جلال آبادیؒ

شیخ وقت، جامعہ مفتاح العلوم جلال آباد کے بانی اور حضرت تھانویؒ کے ممتاز خلفاء میں تھے۔

آپ کا تعلق ضلع علی گڑھ کے مشہور شروانی خاندان سے ہے۔ ۱۳۳۰ھ/۱۹۱۲ء میں اپنے وطن سرانے برلہ ضلع علی گڑھ میں پیدا ہوئے۔ ابتداً سرکاری اسکول میں درجہ ششم تک پڑھا۔ بچپن سے ہی ذکر و نوافل، اوراد و وظائف اور دینی تعلیم حاصل کرنے کا شوق دامن گیر تھا؛ اس لیے سرکاری اسکول سے بدول ہو کر تعلیم چھوڑ دی۔ بالآخر مجبور ہو کر والد صاحب نے دینی تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دے دی۔ مشکوٰۃ المصابیح تک اپنے وطن میں پڑھا، ۱۳۴۸ھ/۱۹۲۹ء میں دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا اور ۱۳۴۹ھ/۱۹۳۰ء میں شیخ الاسلام حضرت مدنی کے دورِ صدارت میں دورہ حدیث کی تکمیل کی۔ اس کے بعد مزید دو سال تک دارالعلوم میں رہ کر معقولات کی کتابیں، امورِ عامہ، قاضی مبارک، تصریح، شرح چھمینی، سبع شداد وغیرہ پڑھیں۔

زمانہ تعلیم ہی میں حضرت تھانویؒ سے بیعت کا شرف حاصل کر لیا تھا۔ پھر جلد ہی ۱۳۵۱ھ/۱۹۳۲ء میں خلافت سے سرفراز ہو گئے تھے۔ حضرت تھانویؒ کے بہت معتمد اور مخصوص خلفاء میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔

۱۳۵۷ھ/۱۹۳۸ء میں حضرت تھانویؒ نے انھیں جلال آباد کے ایک مدرسہ میں مدرس بنا کر بھیجا۔ اس وقت یہ مدرسہ صرف ایک مکتب کی حیثیت میں قائم تھا، مگر چند ہی سالوں میں آپ کی مخلصانہ جدوجہد اور خونِ جگر کی آبیاری سے اس مدرسہ کا شمار جو اب مفتاح العلوم کے نام سے موسوم ہے، ہندوستان کے بڑے مدارس عربیہ میں ہوتا ہے۔ ملک و بیرون ملک کے بہت سے طلبہ نے اس مدرسہ سے استفادہ کیا۔

آپ کے مریدین کا حلقہ بہت وسیع تھا، آپ کا فیضان عام ہوا اور ہند سے گزر کر بیرون ہند تک پہنچا۔ پیچیدہ مسائل و مباحث کو آسان اسلوب میں مثالوں اور واقعات و حکایات کے ذریعہ سے سمجھانے میں آپ کو خاص ملکہ حاصل تھا۔ فن تصوف پر ان کی ایک کتاب 'شریعت و تصوف' ہے جو حضرت تھانویؒ کی تصوف سے متعلق کتابوں سے ماخوذ ہے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں تصوف کے مسائل و مضامین کو نہایت سہل اور آسان انداز میں اس طرح سمجھایا گیا ہے کہ ایک عام آدمی بھی ان مسائل کو بہ خوبی سمجھ سکتا ہے۔

جلال آباد ضلع مظفرنگر میں ۱۲ نومبر ۱۹۹۲ء/۱۶ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۳ھ کو انتقال ہوا۔

ماخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم، ص ۱۶۳-۱۶۴؛ اکابر علمائے دیوبند، ص ۳۰۶-۳۰۸

حضرت مولانا محمد طاہر کلکتویؒ

آپ ایک تبحر عالم، بگلہ زبان کے صاحب طرز ادیب اور مقبول عام مصنف تھے۔ ۱۵ مئی ۱۹۲۲ء کو کریم گنج آسام میں پیدا ہوئے۔ اولاً مدرسہ عالیہ سلہٹ میں تعلیم حاصل کی اور پھر ۱۹۴۴ء میں دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے اور دورہ حدیث کی تکمیل کی۔ بعد میں ۱۹۴۶ء میں دورہ حدیث دوبارہ پڑھا۔ پہلے آپ مدرسہ عالیہ کلکتہ میں حدیث کے استاذ رہے۔ اس کے بعد کلکتہ میں جامعہ مدنیہ کے نام سے ایک عظیم دارالعلوم کی بنیاد ڈالی۔ آپ کو علم حدیث سے خاص مناسبت تھی۔ جامعہ مدنیہ میں صحیحین کا درس تا عمر دیتے رہے۔

حضرت مولانا حسین احمد مدنی سے بیعت تھے اور ان کے ممتاز خلفاء میں تھے۔ ورع و تقویٰ کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ بنگال کا چپہ چپہ آپ کی دینی و ملی خدمات کا شاہد ہے۔ صاف گو اور حق پسند طبیعت کے مالک تھے۔ ۱۹۹۰ء میں بنگال کی کمیونسٹ حکومت نے نکاح رجسٹریشن بل اسمبلی میں پیش کیا تو آپ نے پورے بنگال میں جگہ جگہ احتجاجی جلسے منعقد کر کے اتنی بیداری پیدا کر دی کہ حکومت اس بل کو واپس لینے پر مجبور ہو گئی۔

آپ بنگلہ زبان کے صاحب طرز ادیب تھے۔ آپ کے لازوال کارناموں میں سرفہرست بنگلہ زبان میں تفسیر قرآن ہے جو چھ جلدوں میں شائع ہوئی ہے۔ اس کی زبان اتنی معیاری ہے کہ اسے ڈھا کہ یونیورسٹی میں داخل نصاب کر دیا گیا ہے اور بنگلہ کے جدید تعلیم یافتہ طبقہ میں بہت مقبول ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے تیس کے قریب اصلاحی رسائل بھی لکھے جو شائع ہو چکے ہیں۔

۲۴ نومبر ۱۹۹۴ء / ۱۹ جمادی الثانیہ ۱۴۱۵ھ کو کلکتہ میں انتقال ہوا۔

مآخذ: ذکر رفتگان ۱۷۲: مشاہیر علماء و مشائخ آسام، چہارم ۱۰۷-۱۱۶

حضرت مولانا مفتی ولی حسن ٹونکی

پاکستان کے مشاہیر علماء و محدثین میں سے تھے۔

مشہور ریاست ٹونک میں ۱۹۲۲ء میں پیدا ہوئے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ اور مظاہر علوم سہارن پور میں ابتدائی عربی اور متوسط تعلیم حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے ۱۳۶۲ھ / ۱۹۴۳ء میں دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا اور ۱۳۶۵ھ / ۱۹۴۶ء میں فارغ التحصیل ہوئے۔

فراغت کے بعد ٹونک کے مدرسہ میں مفتی اور مدرس مقرر ہوئے۔ تقسیم ہند کے بعد دارالعلوم کراچی میں دس سال تدریسی خدمات انجام دیں۔ پھر حضرت مولانا یوسف بنوریؒ کے اصرار پر جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن میں مفتی و استاذ مقرر ہوئے۔ علامہ بنوریؒ کے انتقال کے بعد جامعہ کے شیخ الحدیث کے منصب پر فائز ہوئے اور آخر تک جامعہ کے صدر المدرسین اور صدر مفتی رہے۔ فقہی مہارت کی وجہ سے مفتی اعظم پاکستان کہے جاتے تھے۔ تصوف و سلوک میں حضرت مولانا شیخ زکریا کاندھلویؒ سے تعلق تھا اور انہی سے خلافت حاصل کی۔ درس و تدریس اور فتویٰ نویسی کے ساتھ ساتھ آپ نے کئی علمی کتابیں بھی لکھیں جن میں تاریخ اصول فقہ، فتنہ انکار حدیث، ہیمہ زندگی شرعی حیثیت اور تذکرۃ الاولیاء قابل ذکر ہیں۔

۳ رمضان ۱۴۱۵ھ / ۳ فروری ۱۹۹۵ء کو انتقال ہوا۔

مآخذ: نقوش رفتگان، ص ۳۷۳؛ انار کے درخت تلے، ص ۱۸۲

حضرت مولانا اشرف علی کمر لائی

بنگال و بنگلہ دیش کے ممتاز عالم دین، سیاست داں اور مقرر مصنف تھے۔

ضلع کمرلا کے رہنے والے تھے جو اس وقت بنگلہ دیش میں واقع ہے۔ ۱۳۶۴ھ/۱۹۴۵ء میں دارالعلوم دیوبند سے فراغت حاصل کی۔

درس و تدریس کے علاوہ تقریر و خطابت، وعظ و تلقین، دینی و سماجی اصلاح اور تصنیف و تالیف کے ذریعے سے بنگال میں قابل قدر خدمات انجام دی۔ مدرسہ لاوڑی، دارالعلوم جسر لاکھ پور سینئر مدرسہ، اور ہیبت نگر کے مدرسہ عالیہ میں صدر مدرس کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ درس نظامی کی قریب قریب ساری ہی کتابیں پڑھانے کا ان کو اتفاق ہوا۔ بنگال میں سیکڑوں طلبہ نے ان سے دینی و علمی فیض حاصل کیا۔ اپنے علاقہ میں فتویٰ نویسی کا اہم کام بھی دیتے رہے اور میدان مناظرہ میں بھی اپنی صلاحیتوں کے غیر معمولی جوہر دکھا کر اہل علم سے داد و تحسین حاصل کیا۔

بنگلہ زبان کے فصیح اللسان اور پُر جوش مقرر ہونے کے ساتھ وہ ایک کامیاب مضمون نگار، مترجم اور مصنف بھی تھے۔ انھوں نے شامل ترمذی اور صحیح البخاری کے ترجمے بنگلہ زبان میں شروع کیے۔ بنگلہ دیش میں نظام اسلام پارٹی کے ناظم تھے اور اپنے ملک میں اسلامی نظام حکومت کے قیام کے سلسلہ میں کوشاں تھے۔

ماخذ: تاریخ دارالعلوم دیوبند، دوم، ص ۱۶۹-۱۷۰

حضرت مولانا قاضی محمد زاہد الاحمدیؒ

پاکستان کے جید عالم دین اور صاحبِ فیض بزرگ تھے۔
کیم فروری ۱۹۱۳ء کو شمس آباد ضلع انک میں پیدا ہوئے۔ اعلیٰ تعلیم مظاہر علوم سہارن پور میں حاصل کی اور دورہ حدیث کی تکمیل حضرت مدنیؒ سے دارالعلوم دیوبند میں کی۔

حضرت مدنیؒ سے خاص تعلق تھا۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوریؒ کے بھی خلیفہ تھے۔
سالہا سال آپ نے شہر انک کی جامع مسجد میں درس قرآن دیا جو ۲۸ جلدوں میں درس قرآن مجید کے نام سے شائع ہوا ہے۔ اسی طرح آپ کی کتاب انوار الحدیث ۲۸ جلدوں میں طبع ہوئی۔ آپ کی دیگر مشہور کتابوں میں حضرت مدنیؒ کی سوانح حیات چراغ محمدؐ اور تذکرہ دیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ ہیں۔
۶ محرم ۱۴۱۸ھ/۱۴ مئی ۱۹۹۷ء کو انتقال ہوا۔

ماخذ: انار کے درخت تلے، ص ۱۹۸-۱۹۹، ذکر رفتگان، ص ۲۹۶

حضرت مولانا محمد عمر پالن پوریؒ

معروف عالم دین، مبلغ اور تبلیغی جماعت کے مقبول ترین رہنما تھے۔

پالن پور گجرات کے گٹھامن کے رہنے والے تھے اور ۱۱ ربیع الثانی ۱۳۲۸ھ / ۱۵ ستمبر ۱۹۲۹ء کو پیدا ہوئے۔ بمبئی میں اسکولی تعلیم مکمل کی، پھر اپنے وطن کے مدرسہ میں ابتدائی عربی تعلیم مکمل کی۔ ۱۹۴۴ء میں دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا، لیکن امراض و عوارض کی وجہ سے ایک سال کے بعد تعلیمی سلسلہ موقوف ہو گیا۔ دوبارہ ۱۹۵۵ء میں دارالعلوم میں داخلہ لیا اور حضرت مدنی و دیگر اساتذہ سے دورہ حدیث کی تکمیل کی۔

طالب علمی کے زمانے سے ہی جماعت تبلیغ سے وابستہ ہو گئے تھے۔ فراغت کے بعد خود کو اس کام کے لیے وقف کر دیا۔ پالن پور و گجرات میں تبلیغ و دعوت کے کام کو جمانے اور پھیلانے میں آپ نے اہم کردار ادا کیا۔ جماعت تبلیغ کے ذمہ داران خصوصاً حضرت مولانا محمد یوسف کاندھلوی اور حضرت مولانا انعام الحسن کاندھلوی کے قریبی اور معتمد تھے۔ حضرت مولانا یوسف کاندھلوی کے انتقال کے بعد ۱۹۶۵ء میں مرکز تبلیغ نظام الدین دہلی میں مستقل قیام کیا۔ مرکز میں بانی تبلیغ حضرت مولانا محمد الیاس کاندھلوی اور حضرت مولانا محمد یوسف کاندھلوی کی جگہ متواتر تیس سال بعد فجر مفصل بیان آپ کا ہوتا رہا۔ پوری دنیا اور ہندوستان کے گوشہ گوشہ میں تبلیغ و دعوت کے سلسلہ میں گھومے پھرے۔ آپ کی پوری زندگی دعوت و تبلیغ کے لیے وقف تھی۔ آپ کے ذریعہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو دین کا پیغام پہنچا۔

۱۳ محرم ۱۴۱۸ھ / ۲۱ مئی ۱۹۹۷ء کو دہلی میں انتقال ہوا اور قبرستان شیخ پیران میں دفن کیے گئے۔

ماخذ: مومن قوم اپنی تاریخ کے آئینے میں، ص ۲۸۲-۳۳۲؛ ذکر رفنگاں، ص ۲۹۵

حضرت مولانا احمد علی آسامیؒ

شمال مشرقی ہند کے مشہور عالم ربانی اور بانی اور بانی فیض مرشد و شیخ اور ہمہ گیر خدمات کے حامل بزرگ تھے۔ ۱۹۱۹ء میں پیدا ہوئے۔ بدر پور ضلع کچھار (کریم گنج) آسام وطن تھا۔ ابتدائی تعلیم وطن اور سلہٹ میں حاصل کی۔ ۱۳۷۰ھ / ۱۹۵۰ء میں دارالعلوم دیوبند سے دورہ حدیث پڑھ کر فارغ ہوئے۔ اس سے اگلے سال دورہ تفسیر بھی پڑھا۔ ۱۹۵۵ء میں حضرت مدنی کے حکم پر دارالعلوم بانس کنڈی ضلع کچھار آسام تشریف لے گئے اور وہاں شیخ الحدیث بنائے گئے۔ جمعیت علمائے ہند صوبہ آسام کے صدر اور مشرقی ہند کے سات صوبوں کے امیر شریعت بھی رہے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی سے خصوصی تعلق اور لگاؤ تھا۔ حضرت کی رہ نمائی میں سلوک و طریقت کی منزلیں طے کیں اور اجازت و خلافت سے نوازے گئے۔

اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات سے پورے شمال مشرقی خطہ سے عظیم الشان کام لیا۔ ہزار ہا ہزار افراد نے آپ سے علم شریعت حاصل کیا جب کہ لاکھوں افراد نے احسان و سلوک کا درس لیا۔ شمال مشرقی ہند میں آپ کی ذات روشنی کے ایک مینار اور رشد و ہدایت کے چراغ عالم تاب کی تھی۔ اس علاقہ کے غیر مسلم امراء و عوام بھی آپ کے حد درجہ عقیدت مند تھے۔

۸ ربیع الاول ۱۳۲۱ھ / ۱۱ جون ۲۰۰۰ء بروز یکشنبہ بمبئی میں انتقال ہوا اور بانس کنڈی میں دفن کیے گئے۔
 ماخذ: علماء و مشائخ آسام، اول (شہباز قدس)، مرتبہ مولانا عبدالجلیل راغبی، ص ۴۳-۹۰؛
 ذکر رفتگاں، ص ۲۵۰-۲۵۱

حضرت مولانا عبدالشکور ترمذیؒ

پاکستان کے ممتاز عالم و مفتی اور مصنف تھے۔

۱۱ رجب ۱۳۴۱ھ / ۲۷ فروری ۱۹۲۳ء کو پٹیالہ پنجاب میں پیدا ہوئے۔ آپ حضرت مولانا مفتی عبدالکریم گمٹھلوی کے صاحب زادہ ہیں۔ ابتدائی تعلیم مدرسہ العلوم الشرعیہ مدینہ منورہ، پھر انبالہ پٹیالہ اور کرنال کے مدارس میں پڑھیں۔ عربی کی کچھ تعلیم مظاہر علوم سہارن میں بھی حاصل کی۔ ۱۳۶۵ھ / ۱۹۴۶ء میں دارالعلوم دیوبند سے فارغ التحصیل ہوئے۔ فراغت کے بعد مدرسہ عربیہ پٹیالہ اور مدرسہ حقانیہ شاہ آباد میں تدریسی خدمات انجام دیں۔ تقسیم ہند کے بعد ساہیوال ضلع سرگودھا میں ایک مدرسہ قاسمیہ قائم کیا جس کا نام بعد میں حقانیہ رکھ دیا گیا۔

آپ نے تعلیم و تدریس کے ساتھ تصنیف و تالیف کے ذریعہ بھی نمایاں خدمات انجام دیں۔ آپ کے قلم سے ساٹھ سے زائد کتب و رسائل منظر عام پر آئے جن میں ہدیۃ الحیران فی جواہر القرآن، عقائد علمائے دیوبند، السعی المشکور فی احکام العاشور، مودودی نظریات پر ایک نظر، اسلام میں ارتداد کی سزا، دعوت و تبلیغ کی شرعی حیثیت، تذکرۃ الظفر، فتاویٰ امداد السائل، تسہیل الارشاد، ارشاد العباد فی عید المیلاد، خلاصۃ الارشاد فی مسئلۃ الاستمدا، تحقیق الجمعۃ فی القریٰ وغیرہ ہیں۔ مستقل کتابوں کے علاوہ آپ کے علمی و تحقیقی مقالات پاکستان کے علمی و دینی مجلات میں بھی شائع ہوتے رہے ہیں۔

۵ شوال ۱۳۲۱ھ / یکم جنوری ۲۰۰۱ء کو انتقال فرمایا۔

ماخذ: مقالات حبیب، اول ۱۰۳-۱۰۴؛ اکابر علمائے دیوبند، ص ۵۰۲-۵۰۹؛ انارکے

درخت تلے، ص ۷۸-۸۸

حضرت مولانا مفتی رشید احمد لدھیانویؒ

پاکستان کے مشہور عالم دین اور محقق مفتی تھے۔

اشرف کوٹ ضلع خانیوال میں ۳ صفر ۱۳۴۱ھ / ۲۶ ستمبر ۱۹۲۲ء کو پیدا ہوئے۔ اپنے وطن اور پنجاب کے مختلف مدارس میں ابتدائی تعلیم حاصل کی، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے ۱۳۶۰ھ / ۱۹۴۱ء میں دارالعلوم میں داخل ہوئے اور ۱۳۶۱ھ / ۱۹۴۲ء میں فارغ التحصیل ہوئے۔

فراغت کے بعد مدرسہ مدینۃ العلوم بھینڈو میں مدرس مقرر ہوئے، دو سال کے بعد صدر مدرس بنائے گئے اور بخاری وغیرہ کتب حدیث کی تدریس شروع کی۔ ساتھ میں افتاء کی اہم ذمہ داری بھی سپرد کی گئی۔ ۱۳۷۰ھ / ۱۹۵۱ء

میں مدرسہ دارالہدیٰ بھینڈو میں شیخ الحدیث اور مفتی بنائے گئے۔ چھ سال بعد دارالعلوم کو رنگی کراچی تشریف لے گئے اور سات سال تک شیخ الحدیث اور صدر مفتی کے عہدہ پر فائز رہے۔ رمضان ۱۳۸۳ھ میں ناظم آباد کراچی میں اشرف المدارس کی بنیاد رکھی جو بعد میں دارالافتاء والارشاد کے نام سے مشہور ہوا۔

آپ کی تصنیفی خدمات قابل قدر ہیں۔ ڈیڑھ سو سے زائد کتابیں اور رسائل لکھے جن میں ارشاد القاری الی صحیح البخاری، افکار حدیث، منکرات محرم، تسہیل المیراث، اصلاح معاشرہ، فضائل جہاد، تربیت اولاد، رد البدعہ، قادیانی مذہب وغیرہ شامل ہیں۔ آپ کا عظیم الشان کارنامہ 'احسن الفتاویٰ' ہے جس کے علمی و تحقیقی فتاویٰ علماء ومفتیان کے لیے خضر راہ ہیں۔

۶ ذوالحجہ ۱۴۲۲ھ / ۱۹ فروری ۲۰۰۲ء بروز منگل وفات ہوئی۔

ماخذ: نقوش رنگاں، ص ۴۶۱-۴۶۷؛ اکابر علمائے دیوبند، ص ۴۹۱؛ انارکے درخت تلے، ص ۱۸۶-۱۸۷

حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمیؒ

مشہور و معروف عالم دین، قاضی و فقیہ اور جماعت علماء کے سرخیل تھے۔

۱۹۳۶ء میں اپنے وطن جالے ضلع در بھنگہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد حضرت شیخ الہند کے اولین شاگردوں میں تھے۔ ابتدائی تعلیم گھر پر اپنے والدین سے اور مدرسہ محمود العلوم دملہ ضلع مدھوبنی میں حاصل کی۔ پھر مدرسہ امدادیہ در بھنگہ اور دارالعلوم منو میں بھی زیر تعلیم رہے۔ ۱۹۵۱ء میں دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا اور ۱۹۵۵ء میں دورہ حدیث سے فارغ ہوئے۔ قاضی صاحب اپنی ذہانت و فطانت کی وجہ اپنے اساتذہ کے محبوب نظر رہے۔ فراغت کے بعد جامعہ رحمانی مولگیر میں مدرس مقرر ہوئے۔ یہیں حضرت مولانا منت اللہ رحمانی کی رفاقت ملی جس سے قاضی صاحب کی فکر کو نیا رخ ملا اور ان کے اندر دینی و ملی میدانوں میں خدمت کا مزاج پیدا ہوا۔ مولگیر ہی کے زمانہ قیام میں قضاء کے سلسلہ میں اہم خدمات انجام دیں۔ آپ پر فقہی رنگ غالب تھا اور آپ نے نمایاں خدمات اسی باب میں انجام دیں۔ فتویٰ نویسی کی خدمات کے ساتھ چالیس سال تک امارت شرعیہ کے چیف قاضی رہے۔ امارت شرعیہ کے پلیٹ فارم سے متعدد اہم علمی و فقہی خدمات انجام دیں۔

آپ کی زندگی کا اہم کارنامہ ۱۹۸۹ء میں اولاً مرکز البحث العلمی اور پھر اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا کا قیام ہے جو آج ہندوستان کی مایہ ناز علمی و فقہی اکیڈمی اور عظیم تحقیقی مرکز ہے۔ اسلامک فقہ اکیڈمی کے ذریعہ آپ نے ہندوستان کے اہل علم علماء و مفتیان کو دینی و فقہی مسائل پر بحث و تحقیق کے لیے ایک شاندار پلیٹ فارم مہیا کر دیا۔ ۱۹۹۸ء میں آپ نے پٹنہ میں المعہد العالی للتدریب فی القضاء والافتاء کے نام سے ایک ادارہ کی بنیاد ڈالی۔

حضرت مولانا ابوالحسن علی ندویؒ کے بعد آپ کو ۲۰۰۰ء میں ہندوستان کے موقر ترین ادارہ 'مسلم پرسنل لا بورڈ'

کا صدر منتخب کیا گیا جس پر وہ تاحیات فائز رہے۔

قاضی صاحب کی پوری زندگی جہد مسلسل سے عبارت تھی۔ قاضی صاحب نے سیکڑوں افراد کی تشکیل و تعمیر کے ساتھ متعدد اہم علمی و تصنیفی سرمایہ بھی چھوڑا جس میں آپ کی ادارت میں نکلنے والا سہ ماہی رسالہ 'بحث و نظر' قابل ذکر ہے جو خالص علمی و فقہی مسائل کی تحقیقات کے لیے شہرت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی دیگر اہم کتابوں میں اسلامی عدالت، مباحث فقہیہ، فقہ المشکلات اور مسلم پرسنل لا کا مسئلہ وغیرہ ہیں۔ آپ کے خطبات کے متعدد مجموعے بھی شائع ہوئے۔ اس کے علاوہ آپ نے قاضی عماد الدین اشفورقانی کی کتاب 'صنوان القضاء' کو تحقیق و تعلق کے ساتھ چار جلدوں میں شائع کیا۔

۲۰ محرم ۱۴۲۳ھ / ۴ اپریل ۲۰۰۲ء کو دہلی میں انتقال ہوا اور در بھنگہ میں مدفون ہوئے۔

ماخذ: فضلاء دیوبند کی فقہی خدمات ۳۱۴-۳۳۳

تفصیل کے لیے دیکھیں: حیات مجاہد، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، فریڈ بک ڈپو، ۲۰۰۴ء

حضرت مولانا قاضی مظہر حسین چکوالیؒ

پاکستان کے ممتاز فضلاء دیوبند اور معروف شخصیات میں تھے۔

۱۰ رذوالحجہ ۱۳۳۳ھ / ۱۹ اکتوبر ۱۹۱۴ء کو پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم پنجاب کے مختلف مدارس میں حاصل کی اور

۱۳۵۸ھ / ۱۹۳۹ء میں دارالعلوم دیوبند سے دورہ حدیث کی تکمیل کی۔

فراغت کے بعد وطن میں تعلیمی و تدریسی خدمات میں مصروف ہو گئے۔ پھر چکوال میں مدرسہ اظہار الاسلام

قائم کیا۔ آپ نے دفاع صحابہ (رضی اللہ عنہم اجمعین) کی خاطر ۱۹۶۹ء میں تحریک خدام اہل سنت کی داغ بیل ڈالی

اور اس کے امیر کی حیثیت سے باطل نظریات کے خلاف جہاد میں مصروف رہے۔ آپ قومی و ملی تحریکات میں بھی

شریک رہے اور اس پاداش میں بارہا قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں۔

حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے اجل خلفاء میں تھے۔ ماہنامہ حق چاریار کی ادارت کے علاوہ کئی کتابیں رد

فرق کے موضوع پر لکھیں۔

وفات ۳ رذوالحجہ ۱۴۲۳ھ / ۲۶ جنوری ۲۰۰۲ء کو انتقال ہوا۔

ماخذ: ذکر رفتگاں، ص ۵۴۱-۵۴۲؛ انار کے درخت تلے، مولانا منصور احمد، ص ۱۹۶-۱۹۷

حضرت مولانا سرفراز خان صفدرؒ

برصغیر کے مشہور و مقہر عالم اور متعدد اہم کتابوں کے مصنف تھے۔

آپ مانسہرہ (صوبہ سرحد) کے ایک گاؤں ڈھکی چیڑاں داخلی کڑمنگ میں ۱۹۱۲ء میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم متعدد مدارس میں حاصل کی۔ ۱۹۳۱ء میں اپنے چھوٹے بھائی مولانا صوفی عبدالحمید خان سواتی کے ساتھ دارالعلوم دیوبند کا رخ کیا اور دورہ حدیث سے فارغ ہوئے۔

تکمیل تعلیم کے بعد آپ نے مدرسہ انوارالعلوم جامع مسجد شیرانوالہ باغ (گجرانوالہ) میں تدریس کا آغاز کیا۔ ۱۹۵۵ء میں آپ نے اپنے بھائی کے قائم کردہ جامعہ نصرۃ العلوم گجرانوالہ میں مدرس ہوئے جہاں آپ نے شیخ الحدیث کے عہدہ تک ترقی کی اور ۲۰۰۱ء تک بخاری شریف پڑھاتے رہے۔

آپ کو امام اہل سنت کے لقب سے جانے جاتے تھے اور آپ کو ترجمان اہل حق کے طور پر جانا جاتا تھا۔ قرآن و حدیث، فقہ و تصوف اور جملہ علوم اسلامیہ میں آپ کو تبحر حاصل تھا۔ عقائد اہل سنت کی تشریح اور اہل حق کے مضبوط دفاع میں آپ اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ اس سلسلہ میں آپ نے رضا خانیت، غیر مقلدیت اور قادیانیت وغیرہ کے متعلق مسائل پر درجنوں کتابیں لکھیں۔ آپ کی دیگر کتابوں میں تفسیر قرآن (آٹھ جلدیں)، خزائن السنن (دو جلدیں) ہیں۔ آپ کے خطبات بھی تین جلدوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ مجموعی طور پر آپ کی کتابوں کی تعداد تقریباً پچاس ہے۔

۵ مئی ۲۰۰۹ء مطابق ۹ جمادی الاولیٰ ۱۴۳۰ھ کو انتقال ہوا۔

ماخذ: ماہنامہ دارالعلوم ستمبر و اکتوبر ۲۰۰۹ء

حضرت مولانا زین العابدین اعظمیؒ

مشاہیر اہل علم و قلم اور ممتاز محدثین میں ان کا شمار تھا۔

۲۹ جمادی الاخریٰ ۱۳۵۱ھ / ۳۰ اکتوبر ۱۹۳۲ء کو پورہ معروف ضلع اعظم گڑھ (اب مٹو) میں پیدا ہوئے۔ اپنے وطن اور مدرسہ احیاء العلوم مبارک پور میں ابتدائی اور متوسط تعلیم حاصل کی۔ ۱۳۶۸ھ / ۱۹۴۹ء میں دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا اور ۱۳۷۲ھ / ۱۹۵۳ء میں دورہ حدیث کی تکمیل کی۔

فراغت کے بعد بنگال، آسام، گجرات وغیرہ کے مختلف مدارس میں تدریسی خدمات انجام دیں جن میں خصوصیت کے ساتھ مدرسۃ الاصلاح سرانے میر اور جامعہ مظہر العلوم بنارس میں شیخ الحدیث کے عہدہ پر فائز رہے۔ ان مدارس میں تدریس کے ساتھ افتاء کی خدمات بھی انجام دیں۔ بالآخر ۱۹۹۵ء میں جامعہ مظاہر علوم سہارن پور میں شعبہ تخصص فی الحدیث کے نگران اعلیٰ بنائے گئے۔ مظاہر علوم کے شعبہ تخصص سے آپ نے علم حدیث میں ماہر نوجوان علماء کی ایک کھیپ تیار کی۔

مولانا علم حدیث کے مشہور اور وسیع المطالعہ عالم تھے۔ اس پر ان کی مختلف علوم و فنون کی کتابیں شاہد ہیں۔ علامہ طاہر پٹی کی کتاب المغنی فی ضبط الاسماء لرواة الانباء کی تحقیق و تعلیق، امام ذہبی کے اسمائے رجال پر مبنی

کتابوں پر من یعمد قولہ فی الجرح والتعديل، الاعلام المحدثین کے علاوہ دلائل امور السنۃ، نخب من اسماء الرجال الصحاح وغیرہ آپ کے اہم کارنامے ہیں۔ آپ کی نگرانی میں ہی جمع الفوائد من جامع الاصول و مجمع الزوائد کی تحقیق کا کام ہوا جس کی آٹھ جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔ امداد الباری (شیخ عبد الجبار اعظمی) کا مکملہ بھی آپ نے لکھا جو تین جلدوں میں طبع ہوا۔ شرح عقائد کی عربی شرح التعليقات السنیہ کے نام سے لکھی۔ مولوی رحمن علی کی فارسی کتاب تذکرہ علماء ہند کا اردو ترجمہ بھی کیا۔ اس کے علاوہ متعدد اہم کتب و رسائل یادگار چھوڑے۔

۱۶ جمادی الاخریٰ ۱۴۳۴ھ / ۲۸ اپریل ۲۰۱۳ء بروز اتوار اپنے وطن میں وفات پائی۔

مآخذ: ماہنامہ دارالعلوم دیوبند، نومبر ۲۰۱۳ء؛ اودھ میں افتاء کے مراکز، ص ۴۱۳-۴۱۵

تفصیل کے لیے دیکھیں: خصوصی اشاعت، سہ ماہی سراج الاسلام، منو محرم تاریخ الاول ۱۴۳۵ھ

حضرت مولانا سلیم اللہ خان کراچی

پاکستان کے بلند پایہ عالم دین، عظیم محدث، جامعہ فاروقیہ کراچی کے بانی اور وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے سربراہ تھے۔

آپ کا آبائی وطن حسن پور لوہاری ضلع مظفر نگر تھا۔ ۲۵ دسمبر ۱۹۲۶ء کو پیدا ہوئے۔ عربی کی ابتدائی تعلیم مدرسہ مفتاح العلوم جلال آباد ضلع مظفر نگر میں حضرت مولانا مسیح اللہ خاں صاحب کی نگرانی میں حاصل کی۔ ۱۳۶۱ھ / ۱۹۴۲ء میں دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے اور ۱۳۶۶ھ / ۱۹۴۷ء میں دورہ حدیث پڑھ کر فارغ التحصیل ہوئے۔

فراغت کے بعد مدرسہ مفتاح العلوم جلال آباد میں خدمت تدریس پر مامور ہوئے۔ جلال آباد میں آپ نے آٹھ سال تک تدریسی خدمات انجام دینے کے بعد ۱۹۵۵ء میں پاکستان تشریف لے گئے اور وہاں تین سال تک حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی کے قائم کردہ دارالعلوم الاسلامیہ اشرف آباد ٹنڈوالہ یار سندھ میں درس و تدریس میں مشغول رہے۔ پھر حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب کے قائم کردہ جامعہ دارالعلوم کراچی میں دس سال تک مختلف علوم و فنون کی کتابیں پڑھائیں۔ ایک سال حضرت مولانا یوسف بنوری کے جامعہ الاسلامیہ میں بھی رہے۔ ۱۹۶۷ء میں جامعہ فاروقیہ کراچی کی بنیاد رکھی، جو اس وقت پاکستان کے بڑے تعلیمی اداروں میں شمار ہوتا ہے اور ملک و بیرون ملک میں اپنی شناخت رکھتا ہے۔ آپ کی زندگی کا بڑا حصہ حدیث کی تدریس میں گزرا اور ہزار ہا ہزار طلبہ نے آپ سے استفادہ کیا۔

حضرت مولانا سلیم اللہ خاں صاحب نے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے پلیٹ فارم سے بھی قابل قدر خدمات انجام دیں۔ ۱۹۵۹ء میں قائم ہونے والا یہ وفاق پاکستان کے دینی مدارس کا سب سے بڑا تعلیمی بورڈ ہے جس سے تقریباً بیس ہزار دیوبندی مکتب فکر کے مدارس باقاعدہ مربوط ہیں۔ ۱۹۸۰ء میں آپ کے ناظم اعلیٰ بنائے گئے اور ۱۹۸۹ء میں اس کا منصب صدارت آپ کو تفویض کیا گیا جس پر تادم آخریں فائز رہے۔ آپ

کے دورِ صدارت میں وفاق المدارس نے بہت ترقی کی؛ ملحقہ مدارس کی تعداد میں قابلِ قدر اضافہ ہوا، وفاق کے تحت امتحانات کا سلسلہ قائم ہوا اور اس کی اسناد یونیورسٹیوں کی اعلیٰ سندوں کے مساوی قرار پائیں۔ نائن ایون کے بعد جب اربابِ مدارس پر مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تو تمام مکاتبِ فکر کے مدارس نے باہمی اتفاق سے 'اتحادِ تنظیمات مدارس' کے نام سے ایک بڑا پلیٹ فارم بنایا، حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب بالاتفاق اس کے صدر منتخب ہوئے۔

آپ کے بخاری شریف کی درسی تقریر بائیس جلدوں میں 'کشف الباری' کے نام سے شائع ہو چکی ہے اور اردو شروح بخاری میں خصوصی اہمیت کی حامل سمجھی جاتی ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی درسی تقریر بھی 'نجات المسیح' کے نام سے تین جلدوں میں چھپ چکی ہے۔

۱۵ جنوری ۲۰۱۷ء / ۱۶ ربیع الثانی ۱۴۳۸ھ کو کراچی میں انتقال ہوا اور وہیں دفن کیے گئے۔

حضرت مولانا ڈاکٹر محمد مصطفیٰ اعظمی

عالم اسلام کے مشہور محدث، بلند پایہ مصنف و محقق اور عالم دین ہیں۔

تقریباً ۱۹۳۰ء مطابق ۱۳۵۰ھ میں منو (ضلع اعظم گڑھ) میں پیدا ہوئے۔ دارالعلوم دیوبند سے ۱۳۷۲ھ / ۱۹۵۲ء میں فراغت حاصل کی۔ پھر ۱۹۵۵ء میں جامعہ ازہر مصر سے ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ ۱۹۶۶ء میں کیمبرج یونیورسٹی میں تدوین حدیث کے موضوع پر پی ایچ ڈی کی اور ڈاکٹریٹ کی ڈگری سے سرفراز ہوئے۔ تعلیم سے فراغت کے بعد ۱۹۶۸ء سے ۱۹۷۳ء تک جامعہ ام القرئی مکہ مکرمہ میں مساعدا پروفیسر کی حیثیت سے تدریسی خدمات انجام دیں۔ ۱۹۷۳ء سے ۱۹۹۱ء تک ملک سعودیہ یونیورسٹی میں 'مصطلحات الحدیث' کے پروفیسر کی حیثیت سے علم حدیث کی گراں قدر خدمات انجام دیں۔ آپ کی سرپرستی میں دنیا بھر کے بے شمار اسکالرس، طلبہ اور علماء نے حدیث کے مختلف پہلوؤں پر ریسرچ کیا۔ آپ سعودی عرب کے علاوہ امریکا، برطانیہ، ملیشیا وغیرہ کے اعلیٰ علمی و تحقیقی اداروں کے بھی رکن رہے۔

علم حدیث میں آپ کی خدمات بے مثال ہیں۔ احادیث کو سب سے پہلے کمپیوٹرائزڈ کرنے کا سہرا بھی آپ کے سر جاتا ہے۔ قرآن و حدیث کی تدوین پر مستشرقین کے اعتراضات کے تحقیقی جواب پر مشتمل آپ نے عربی اور انگریزی دونوں زبانوں میں متعدد اہم اور مستند کتابیں تصنیف کیں۔ حدیث شریف میں عظیم الشان خدمات کے پیش نظر ۱۹۸۰ء میں آپ کو شاہ فیصل عالمی ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا۔

آپ کی علمی خدمات حسب ذیل ہیں: (۱) دراسات فی الحدیث النبوی و تاریخ تدوینہ (۲) منج النقد عند المحدثین: نشأته و تاریخہ (۳) کتاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم (۴) المحدثون من الیمامۃ الی ۲۵۰ ہجری تقریباً (۵)

Studies in Hadith Methodology and (۷) Revelation to Compilation

On Schacht's Origins of Muhammadan Jurisprudence (۸) Literature

اس کے علاوہ متعدد اہم کتابوں کو آپ نے ایڈیٹ اور تحقیق کے بعد شائع کیا ہے جو یہ ہیں: (۱) مؤطا امام مالک، آٹھ جلدیں (۲) صحیح ابن خزمیہ، چار جلدیں (۳) العیال لعلی بن عبد اللہ المدینی (۴) سنن ابن ماجہ، چار جلدیں (۵) سنن کبریٰ للنسائی (۶) مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعروۃ بن زبیر بروایت ابی الأَسود (۷) کتاب التمییز للإمام مسلم (۸) صحیح بخاری کے مخطوطہ ۷۲۵ھ (استنبول) کی تحقیق۔

حکومت سعودیہ نے آپ کو سعودی عرب کی شہریت دی تھی۔ ریاض میں ۲۰ دسمبر ۲۰۱۷ء بروز بدھ بعد نماز فجر انتقال ہوا اور محلہ نسیم کے قبرستان میں تدفین عمل میں آئی۔

مآخذ: ماہنامہ دارالعلوم، فروری ۲۰۱۸ء؛ مئی ۲۰۱۳ء

سہ ماہی نوائے وقت، ڈاکٹر محمد مصطفیٰ الاعظمی خصوصی شمارہ، اپریل تا دسمبر ۲۰۱۸ء

نواں باب

شخصیات دارالعلوم ایک نظر میں

- اہم عہدہ داران دارالعلوم _____ ۷۴۵
- اراکین مجلس شوری دارالعلوم دیوبند _____ ۷۵۳
- سابقہ اساتذہ عربی دارالعلوم دیوبند _____ ۷۶۰
- دیگر اساتذہ و معلمین _____ ۷۷۲
- نظماً و عہدہ دارانِ دفاتر _____ ۷۸۱
- نقشہ تطبیق سن ہجری و عیسوی _____ ۷۹۴
- مآخذ و مراجع _____ ۸۰۱
- اکابر و علمائے دارالعلوم کا اشاریہ _____ ۸۰۷

اہم عہدہ داران دارالعلوم

حضرات اراکین تاسیسی

شمار	اسمائے گرامی	پیدائش/وفات
(۱)	حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی، سرپرست اول	۱۲۳۸-۱۲۹۷ھ/۱۸۳۲-۱۸۸۰ء
(۲)	حضرت حاجی سید عابد حسین دیوبندی، مہتمم اول	۱۲۵۰-۱۳۳۱ھ/۱۸۳۲-۱۹۱۳ء
(۳)	حضرت مولانا مہتاب علی صاحب دیوبندی	وفات: ۱۳۰۴ھ/۱۸۸۷ء
(۴)	حضرت مولانا ذوالفقار علی صاحب دیوبندی	۱۲۳۷-۱۳۲۲ھ/۱۸۲۲-۱۹۰۵ء
(۵)	حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دیوبندی	۱۲۴۷-۱۳۲۵ھ/۱۸۳۲-۱۹۰۷ء
(۶)	حضرت حاجی سید فضل حق صاحب دیوبندی، مہتمم ثالث	وفات: ۱۳۱۵ھ/۱۸۹۸ء
(۷)	حضرت شیخ نہال احمد صاحب دیوبندی	وفات: ۱۳۰۴ھ/۱۸۸۷ء

اشتہار مطبوعہ ۱۹/محررم ۱۲۸۳ھ، کیفیت مدرسہ عربیہ دیوبند، بابت ۱۲۸۳ھ

سرپرستان دارالعلوم دیوبند

شمار	اسمائے گرامی	پیدائش و وفات
(۱)	حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی	۱۲۳۸-۱۲۹۷ھ/۱۸۳۲-۱۸۸۰ء
(۲)	حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی	۱۲۳۲-۱۳۲۳ھ/۱۸۲۷-۱۹۰۵ء
(۳)	شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی	۱۲۶۸-۱۳۳۹ھ/۱۸۵۱-۱۹۴۰ء
(۴)	حضرت مولانا عبدالرحیم رائے پوری	۱۲۷۲-۱۳۳۷ھ/۱۸۵۵-۱۹۱۹ء
(۵)	حضرت مولانا اشرف علی تھانوی	۱۲۸۰-۱۳۶۴ھ/۱۸۶۳-۱۹۴۳ء

دارالعلوم دیوبند کی صد سالہ زندگی، ص ۹۹-۹۸

دارالعلوم کے مہتمم حضرات

شمار	اسمائے گرامی مع ولادت و وفات	مدت اہتمام
(۱)	حضرت حاجی عابد حسین صاحبؒ ۱۲۵۰-۱۳۳۱ھ/۱۸۳۲-۱۹۱۳ء	محرم ۱۲۸۳- رجب ۱۲۸۴ھ/۱۸۶۶-۱۸۶۷ء ۱۲۸۶-۱۲۸۸ھ/۱۸۶۹-۱۸۷۱ء ربیع الاول ۱۳۰۶- شعبان ۱۳۱۰ھ/۱۸۸۸-۱۸۹۳ء (تین بار) مدت اہتمام: ۱۰ سال تقریباً
(۲)	حضرت مولانا رفیع الدین صاحبؒ ۱۲۵۲-۱۳۰۸ھ/۱۸۳۶-۱۸۹۰ء	شعبان ۱۲۸۴-۱۲۸۵ھ/۱۸۶۷-۱۸۶۸ء ذوالقعدہ ۱۲۸۸-ربیع الاول ۱۳۰۶ھ/۱۸۷۲-۱۸۸۸ء (دو بار) مدت اہتمام: ۱۷ سال
(۳)	حضرت حاجی سید فضل حق صاحبؒ وفات: ۱۳۱۵ھ/۱۸۹۸ء	شعبان ۱۳۱۰- ذوالقعدہ ۱۳۱۱ھ/۱۸۹۳-۱۸۹۴ء
(۴)	حضرت مولانا محمد منیر نانوتویؒ ۱۲۴۷ھ-۱۳۲۱ھ/۱۸۳۱-۱۹۰۳ء	ذوالحجہ ۱۳۱۱-جمادی الاولیٰ ۱۳۱۳ھ/۱۸۹۴-۱۸۹۵ء
(۵)	حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحبؒ ۱۲۷۹-۱۳۴۷ھ/۱۸۶۲-۱۹۲۸ء	مہتمم: ۱۳۱۳-۱۳۴۴ھ/۱۸۹۵-۱۹۲۵ء صدر مہتمم: ۱۳۴۴-۱۳۴۷ھ/۱۹۲۵-۱۹۲۸ء
(۶)	حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانیؒ وفات: ۱۳۴۸ھ مطابق ۱۹۲۹ء	مہتمم بزمانہ صدر مہتمم ۱۳۴۴-۱۳۴۷ھ/۱۹۲۵-۱۹۲۸ء مستقل مہتمم: ۱۳۴۷-۱۳۴۸ھ/۱۹۲۸-۱۹۲۹ء
(۷)	حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحبؒ ۱۳۱۵-۱۳۰۳ھ/۱۸۹۷-۱۹۸۳ء	۱۳۴۸-۱۳۰۱ھ/۱۹۳۰-۱۹۸۱ء
(۸)	حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی (صدر مہتمم) ۱۳۰۵-۱۳۶۹ھ/۱۸۸۷-۱۹۴۹ء	۱۳۵۴ھ-۱۳۶۲ھ/۱۹۳۵-۱۹۴۴ء
(۹)	حضرت مولانا مرغوب الرحمن بجنوریؒ ۱۳۳۳-۱۳۳۲ھ/۱۹۱۴-۲۰۱۰ء	۱۴۰۲-۱۳۳۲ھ/۱۹۸۲-۲۰۱۰ء
(۱۰)	حضرت مولانا غلام رسول خاموشؒ (کار گزار مہتمم) ۱۳۵۹-۱۳۳۱ھ/۱۹۴۰-۲۰۱۰ء	۱۴۲۴-۱۳۳۱ھ/۲۰۰۴-۲۰۱۰ء

(۱۱)	حضرت مولانا غلام محمد وستانوی ولادت: ۱۳۷۰ھ/۱۹۵۰ء	صفر ۱۳۳۲-۱۳۳۳ھ/۲۰۱۱-۲۰۱۱ء
(۱۲)	حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی ولادت: ۱۳۶۶ھ/۱۹۴۷ء	شعبان ۱۳۳۲ھ/۲۰۱۱ء تا حال

دارالعلوم کے صدر المدرسین اور شیخ الحدیث حضرات

شمار	اسمائے گرامی (پیدائش و وفات)	عہدہ، کب سے کب تک	مدت
(۱)	حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی (۱۲۳۹-۱۳۰۲ھ/۱۸۳۳-۱۸۸۴ء)	صدر المدرسین و شیخ الحدیث ۱۲۸۳-۱۳۰۲ھ/۱۸۶۶-۱۸۸۴ء	۱۹ سال
(۲)	حضرت مولانا سید احمد صاحب دہلوی (م ۱۳۱۱ھ/۱۸۹۴ء)	صدر المدرسین و شیخ الحدیث ۱۳۰۲-۱۳۰۷ھ/۱۸۸۴-۱۸۹۰ء	۵ سال
(۳)	شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی (۱۲۶۸-۱۳۳۹ھ/۱۸۵۱-۱۹۲۰ء)	صدر المدرسین و شیخ الحدیث ۱۳۰۸-۱۳۳۳ھ/۱۸۹۰-۱۹۱۵ء	۲۴ سال
(۴)	حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری (۱۲۹۲-۱۳۵۲ھ/۱۸۷۵-۱۹۳۳ء)	صدر المدرسین و شیخ الحدیث ۱۳۳۳-۱۳۳۶ھ/۱۹۱۵-۱۹۲۷ء	۱۱ سال
(۵)	حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی (۱۲۹۶-۱۳۷۷ھ/۱۸۷۹-۱۹۵۷ء)	صدر المدرسین و شیخ الحدیث ۱۳۳۶-۱۳۷۷ھ/۱۹۲۷-۱۹۵۷ء	۳۲ سال
(۶)	حضرت علامہ محمد ابراہیم صاحب بلیاوی (۱۳۰۴-۱۳۸۷ھ/۱۸۸۷-۱۹۶۷ء)	صدر المدرسین ۱۳۷۷-۱۳۸۷ھ/۱۹۵۷-۱۹۶۷ء	۱۰ سال
(۷)	حضرت مولانا سید فخر الدین احمد مراد آبادی (۱۳۰۷-۱۳۹۲ھ/۱۸۸۹-۱۹۷۲ء)	شیخ الحدیث ۱۳۷۷-۱۳۸۷ھ/۱۹۵۷-۱۹۶۷ء	۱۰ سال
		صدر المدرسین و شیخ الحدیث ۱۳۸۷-۱۳۹۲ھ/۱۹۶۷-۱۹۷۲ء	۵ سال
(۸)	حضرت مولانا سید فخر الحسن مراد آبادی (۱۳۲۳-۱۴۰۱ھ/۱۹۰۵-۱۹۸۱ء)	صدر المدرسین ۱۳۹۲-۱۴۰۱ھ/۱۹۷۲-۱۹۸۱ء	۹ سال
(۹)	حضرت مولانا شریف الحسن دیوبندی (۱۳۳۸-۱۳۹۷ھ/۱۹۲۰-۱۹۷۷ء)	شیخ الحدیث ۱۳۹۲-۱۳۹۷ھ/۱۹۷۷-۱۹۷۷ء	۵ سال
		قائم مقام صدر مدرس: ۱۳۹۶-۱۳۹۷ھ	ایک سال

۱۱ سال	صدر المدرسین ۱۳۰۱-۱۳۱۲ھ/۱۹۸۱-۱۹۹۱ء	حضرت مولانا معراج الحق دیوبندیؒ (۱۳۲۸-۱۳۱۲ھ/۱۹۱۰-۱۹۹۱ء)	(۱۰)
۱۵ سال ۷ سال	شیخ الحدیث ۱۳۹۷-۱۳۱۲ھ/۱۹۷۷-۱۹۹۱ء صدر المدرسین و شیخ الحدیث ۱۳۱۲-۱۳۲۹ھ/۱۹۹۱-۲۰۰۸ء	حضرت مولانا نصیر احمد خان بلند شہریؒ (۱۳۳۷-۱۳۳۱ھ/۱۹۱۹-۲۰۱۰ء)	(۱۱)
۱۲ سال	صدر المدرسین و شیخ الحدیث ۱۳۲۹-۱۳۳۱ھ/۲۰۰۸-۲۰۲۰ء	حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالن پوری (۱۳۶۰-۱۳۳۱ھ/۱۹۳۱-۲۰۲۰ء)	(۱۲)
	صدر المدرسین از: ۱۳۳۲ھ/۲۰۲۰ء	حضرت مولانا سید ارشد مدنی	(۱۳)
	شیخ الحدیث از: ۱۳۳۲ھ/۲۰۲۰ء	حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی	(۱۴)

صدر مفتیان دارالافتاء

شمار	نام (پیدائش-وفات)	مدت
۱	حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن دیوبندیؒ ۱۲۷۵-۱۳۴۷ھ/۱۸۵۸-۱۹۲۸ء	۱۳۱۰-۱۳۲۶ھ/۱۸۹۲-۱۹۲۷ء
۳	حضرت مولانا اعزاز علی امر و ہویؒ ۱۳۰۰-۱۳۷۴ھ/۱۸۸۲-۱۹۵۵ء	پہلی بار: ۱۳۳۷-۱۳۳۸ھ/۱۹۲۸-۱۹۲۹ء دوسری بار: ۱۳۶۳-۱۳۶۶ھ/۱۹۴۵-۱۹۴۷ء
۵	حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندیؒ ۱۳۱۴-۱۳۹۶ھ/۱۸۹۶-۱۹۷۶ء	پہلی بار: ۱۳۵۰-۱۳۵۴ھ/۱۹۳۱-۱۹۳۵ء دوسری بار: ۱۳۵۹ھ-۱۳۶۲ھ/۱۹۴۰-۱۹۴۲ء
۶	حضرت مولانا محمد سہول بھاگل پوریؒ ۱۲۸۷-۱۳۶۷ھ/۱۸۷۰-۱۹۴۸ء	۱۳۵۵-۱۳۵۷ھ/۱۹۳۶-۱۹۳۸ء
۱۰	حضرت مفتی سید مہدی حسن شاہ جہانپوریؒ ۱۳۰۱-۱۳۹۶ھ/۱۸۸۳-۱۹۷۶ء	۱۳۶۷-۱۳۸۷ھ/۱۹۴۸-۱۹۶۷ء
۱۳	حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہیؒ ۱۳۲۵-۱۳۱۷ھ/۱۹۰۷-۱۹۹۶ء	۱۳۸۵-۱۴۰۱ھ/۱۹۶۵-۱۹۸۱ء ۱۴۰۲-۱۳۱۷ھ/۱۹۸۲-۱۹۹۶ء
۱۴	حضرت مولانا مفتی نظام الدین اعظمیؒ ۱۳۲۸-۱۳۲۰ھ/۱۹۱۰-۲۰۰۰ء	۱۳۸۵-۱۳۲۰ھ/۱۹۶۵-۲۰۰۰ء

نائب مہتمم حضرات

دارالعلوم میں ۱۳۰۷ھ/۱۸۹۰ء سے نائب مہتمم کا عہدہ بھی رہا ہے جس میں کبھی کبھی انقطاع بھی رہا ہے۔ اب تک درج ذیل حضرات نائب مہتمم کے عہدہ پر فائز ہوئے ہیں:

شمار	اسمائے گرامی	کب سے کب تک
(۱)	حضرت مولانا عبدالقدیر دیوبندیؒ	۱۳۰۷-ربیع الاول ۱۳۰۹ھ/۱۸۹۰-۱۸۹۲ء
(۲)	حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن دیوبندیؒ	(پہلی بار) ۱۳۰۹-۱۳۱۰ھ/۱۸۹۲-۱۸۹۳ء
		۱۲۷۵-۱۳۲۷ھ/۱۸۵۸-۱۹۲۸ء
☆	کوئی نہیں رہا	۱۳۱۰-۱۳۱۶ھ/۱۸۹۳-۱۸۹۸ء
(۲)	حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن دیوبندیؒ	(دو بارہ) ۱۳۱۷-۱۳۲۳ھ/۱۸۹۹-۱۹۰۵ء
☆	کوئی نہیں رہا	۱۳۲۳ھ/۱۹۰۶ء
(۳)	حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانی دیوبندیؒ	۱۳۲۵-۱۳۲۳ھ/۱۹۰۷-۱۹۲۵ء
	وفات: ۱۳۲۸ھ مطابق ۱۹۲۹ء	
(۴)	حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمیؒ	۱۳۲۴-۱۳۲۷ھ/۱۹۲۶-۱۹۲۸ء
☆	کوئی نہیں رہا	۱۳۲۸ھ/۱۹۲۹ء
(۵)	حضرت مولانا سید مبارک علی ٹکنویؒ	۱۳۵۰-۱۳۸۸ھ/۱۹۳۱-۱۹۶۸ء
	مجمادی الثانیہ ۱۳۸۸ھ/ستمبر ۱۹۶۸ء	
(۶)	حضرت مولانا محمد طاہر قاسمی دیوبندیؒ	۱۳۵۱-۱۳۵۲ھ/۱۹۳۲-۱۹۳۳ء
(۷)	حضرت مولانا بشیر احمد بلند شہریؒ	۱۳۸۴-۱۳۸۵ھ/۱۹۶۴-۱۹۶۵ء
	مجمادی الثانیہ ۱۳۸۶ھ/۲۳ دسمبر ۱۹۶۶ء	
(۸)	حضرت مولانا معراج الحق دیوبندیؒ	۱۳۸۶-۱۳۹۶ھ/۱۹۶۶-۱۹۷۶ء
	۱۳۲۸-۱۳۱۲ھ/۱۹۱۰-۱۹۹۱ء	
(۹)	حضرت مولانا نصیر احمد خان بلند شہریؒ	۱۳۹۱-۱۳۱۲ھ/۱۹۷۱-۱۹۹۲ء
	۱۳۳۷-۱۳۳۱ھ/۱۹۱۹-۲۰۱۰ء	
(۱۰)	حضرت مولانا محمد عثمان چیرمین دیوبندیؒ	۱۳۰۱-۱۴۰۵ھ/۱۹۸۱-۱۹۸۵ء
	وفات: ۲۲ اپریل ۱۹۸۵ء	

حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن خیر آبادی	۱۳۱۲-۱۳۱۸ھ/۱۹۹۲-۱۹۹۷ء
حضرت مولانا عبدالحق مدرسی	۱۳۱۸ھ/۱۹۹۷ء-تاحال
حضرت مولانا قاری محمد عثمان منصور پوری	۱۳۱۸-۱۳۲۹ھ/۱۹۹۷-۲۰۰۸ء
حضرت مولانا عبدالحق سنبھلی	۱۳۲۹ھ/۲۰۰۸ء-تاحال

معاون مہتمم حضرات

شمار	اسمائے گرامی	مدت
(۱)	حضرت مولانا مرغوب الرحمن بجنوریؒ	۱۳۰۱ھ/۱۹۸۱ء-۱۳۰۲ھ/۱۹۸۲ء
(۲)	حضرت مولانا وحید الزماں کیرانویؒ	۱۳۰۵ھ/۱۹۸۴ء-۱۳۰۷ھ/۱۹۸۶ء
(۳)	حضرت مولانا قاری محمد عثمان منصور پوری	از: ۱۳۴۲ھ/۲۰۲۰ء

نظمائے مجلس تعلیمی/نظمائے تعلیمات

شمار	ناظم مجلس تعلیمی/ناظم تعلیمات	از-تا	دور صدارت تدریس
(۱)	حضرت مولانا سید مرتضیٰ حسن چاند پوریؒ	۱۳۳۹-۱۳۵۱ھ	حضرت علامہ انور شاہ کشمیریؒ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنیؒ
(۲)	کوئی نہیں رہا	۱۳۵۲-۱۳۵۶ھ	حضرت مولانا سید حسین احمد مدنیؒ
(۳)	حضرت مولانا سید حسین احمد مدنیؒ نائب ناظم: حضرت مولانا اعجاز علی امرہویؒ دوبارہ نائب ناظم: حضرت مولانا بشیر احمد بلندی شہریؒ نائب ناظم: حضرت مولانا جلیل احمد کیرانویؒ	۱۳۵۷-۱۳۷۷ھ ۱۳۶۲-۱۳۷۷ھ ۱۳۷۷-۱۳۷۷ھ ۱۳۶۲-۱۳۶۲ھ ۱۳۷۷ھ	حضرت مولانا سید حسین احمد مدنیؒ
(۴)	حضرت مولانا علامہ محمد ابراہیم بلیاویؒ نائب ناظم: حضرت مولانا اختر حسین دیوبندیؒ	۱۳۷۷-۱۳۸۷ھ ۱۳۸۱ھ	حضرت علامہ محمد ابراہیم بلیاویؒ
(۵)	حضرت مولانا میاں اختر حسین دیوبندیؒ	۱۳۸۷-۱۳۹۷ھ	حضرت مولانا فخر الدین احمد مراد آبادیؒ حضرت مولانا فخر الحسن مراد آبادیؒ
(۶)	حضرت مولانا انظر شاہ کشمیریؒ نائب: حضرت مولانا خورشید عالم دیوبندیؒ	۱۳۹۸-۱۴۰۱ھ ۱۳۹۸ھ	حضرت مولانا فخر الحسن مراد آبادیؒ

حضرت مولانا معراج الحق دیوبندیؒ	۱۴۰۲-۱۴۰۵ھ	(۷) حضرت مولانا وحید الزماں کیرانویؒ نائب: حضرت مولانا ریاست علی بجنوریؒ
حضرت مولانا معراج الحق دیوبندیؒ	۱۴۰۵-۱۴۱۰ھ	(۸) حضرت مولانا ریاست علی بجنوریؒ نائب: حضرت مولانا سید ارشد مدنی
حضرت مولانا نصیر احمد خاں بلند شہریؒ	۱۴۱۰-۱۴۱۶ھ	(۹) حضرت مولانا قمر الدین گورکھپوری
حضرت مولانا نصیر احمد خاں بلند شہریؒ	۱۴۱۶-۱۴۲۹ھ	(۱۰) حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب
حضرت مولانا مفتی سعید احمد پان پوری	۱۴۲۹-۱۴۳۵ھ	(۱۱) حضرت مولانا مجیب اللہ گونڈوی
حضرت مولانا مفتی سعید احمد پان پوری	۱۴۳۵ تا ۱۴۳۸ھ	(۱۲) حضرت مولانا محمد احمد فیض آبادی نائب ناظم: حضرت مولانا محمد افضل کیموری
حضرت مولانا مفتی سعید احمد پان پوری	صفر تا ذیقعدہ ۱۴۳۸ھ تا ۱۴۴۰ھ	(۱۳) حضرت مولانا مفتی محمد یوسف تاؤلوی نائب ناظم: حضرت مولانا محمد افضل کیموری
حضرت مولانا مفتی سعید احمد پان پوری حضرت مولانا سید ارشد مدنی	۱۴۴۰ھ ۱۴۴۰ھ	(۱۴) حضرت مولانا خورشید انور گیاوی نائب ناظم: حضرت مولانا نسیم احمد بارہ بتکوی

اراکین مجلس شوری دارالعلوم دیوبند

دارالعلوم کا نظم و نسق شروع ہی سے شورائی اصول پر قائم ہے۔ اس کے لیے ایک بااختیار مجلس اعلیٰ ہے جس کی تشکیل قیام دارالعلوم کے ساتھ ہی عمل میں آگئی تھی۔ یہ جماعت مجلس شوری کے نام سے موسوم ہے۔ مجلس شوری کے ارکان کا انتخاب ملک کے ممتاز اور بااثر علماء میں سے کیا جاتا ہے۔ دستور کی رو سے مجلس شوری میں کم از کم گیارہ ارکان کا عالم دین ہونا ضروری ہے، بقیہ ایسے غیر عالم حضرات ہو سکتے ہیں جو انتظامی اور تعلیمی امور میں بصیرت و مہارت رکھتے ہوں۔ دارالعلوم کے مہتمم اور صدر مدرس اپنے منصب کے لحاظ سے مجلس شوری کے رکن رہتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے مجلس شوری کے اراکین کی فہرست حسب ذیل ہے:

شمار	اسمائے گرامی	کب سے کب تک
۱	حضرت حاجی عابد حسین صاحبؒ	۱۲۸۳-۱۳۱۰ھ/۱۸۶۶-۱۸۹۲ء
۲	حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتویؒ	۱۲۸۳-۱۲۹۷ھ/۱۸۶۶-۱۸۸۰ء
۳	حضرت مولانا مہتاب علی صاحبؒ، دیوبند	۱۲۸۳-۱۳۰۴ھ/۱۸۶۶-۱۸۸۷ء
۴	حضرت مولانا ذوالفقار علی صاحبؒ، دیوبند	۱۲۸۳-۱۳۲۱ھ/۱۸۶۶-۱۹۰۳ء
۵	حضرت مولانا فضل الرحمن صاحبؒ، دیوبند	۱۲۸۳-۱۳۲۵ھ/۱۸۶۶-۱۹۰۷ء
۶	حضرت حاجی سید فضل حق صاحبؒ، دیوبند	۱۲۸۳-۱۳۱۱ھ/۱۸۶۶-۱۸۹۳ء
۷	حضرت شیخ نہال احمد صاحبؒ، دیوبند	۱۲۸۳-۱۳۰۴ھ/۱۸۶۶-۱۸۸۷ء
۸	حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہیؒ	۱۲۹۸-۱۳۲۳ھ/۱۸۸۱-۱۹۰۵ء
۹	حضرت حکیم مشتاق احمد صاحبؒ، دیوبند	۱۲۹۸-۱۳۰۹ھ/۱۸۸۱-۱۸۹۱ء
۱۰	حضرت حکیم ضیاء الدین صاحبؒ، رام پور	۱۳۰۵-۱۳۱۲ھ/۱۸۸۸-۱۸۹۴ء
۱۱	حضرت مولانا محمد احسن نانوتویؒ	۱۳۱۱-۱۳۱۲ھ/۱۸۹۴-۱۸۹۵ء
۱۲	حضرت شیخ ظہور الدین صاحبؒ، دیوبند	۱۳۱۱-۱۳۲۳ھ/۱۸۹۴-۱۹۰۵ء
۱۳	حضرت مولانا احمد حسن صاحب امر وہوئیؒ، امر وہہ	۱۳۱۳-۱۳۲۹ھ/۱۸۹۵-۱۹۱۱ء
۱۴	حضرت مولانا قاضی محمد محی الدین مراد آبادیؒ	۱۳۱۳-۱۳۲۷ھ/۱۸۹۵-۱۹۲۸ء
۱۵	حضرت مولانا محمد عبدالحق صاحبؒ، پور قاضی	۱۳۱۳-۱۳۲۱ھ/۱۸۹۵-۱۹۲۳ء

۱۶	حضرت شاہ مظہر حسین صاحب، گنگوہ	۱۳۱۳-۱۳۲۸ھ / ۱۸۹۵-۱۹۲۰ء
۱۷	حضرت حکیم محمد اسماعیل صاحب، گنگوہ	۱۳۱۳-۱۳۲۱ھ / ۱۸۹۵-۱۹۲۳ء
۱۸	حضرت شاہ سعید احمد صاحب، انیسٹھ، سہارن پور	۱۳۱۳-۱۳۳۹ھ / ۱۸۹۵-۱۹۲۱ء
۱۹	حضرت مولانا شاہ عبدالرحیم صاحب راپوری	۱۳۲۱-۱۳۳۷ھ / ۱۹۰۳-۱۹۲۱ء
۲۰	حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی	۱۳۲۱-۱۳۵۴ھ / ۱۹۰۳-۱۹۳۵ء
۲۱	حضرت مولانا حافظ حکیم احمد صاحب، رام پور	۱۳۲۱-۱۳۲۱ھ / ۱۹۰۳-۱۹۲۳ء
۲۲	حضرت خلیفہ احمد حسن صاحب دیوبندی	۱۳۲۳-۱۳۲۸ھ / ۱۹۰۵-۱۹۱۰ء
۲۳	حضرت حافظ دادا الہی صاحب دیوبندی	۱۳۲۳-۱۳۲۴ھ / ۱۹۰۵-۱۹۰۶ء
۲۴	حضرت منشی مظہر حسن صاحب دیوبندی	۱۳۲۳-۱۳۵۰ھ / ۱۹۰۵-۱۹۳۱ء
۲۵	حضرت منشی فراغت علی صاحب دیوبندی	۱۳۲۳-۱۳۲۸ھ / ۱۹۰۵-۱۹۱۰ء
۲۶	حضرت شیخ محمد حسین صاحب دیوبندی	۱۳۲۳-۱۳۲۴ھ / ۱۹۰۵-۱۹۰۶ء
۲۷	حضرت مولانا حکیم مسعود احمد ابن حضرت گنگوہی	۱۳۲۴-۱۳۵۰ھ / ۱۹۰۶-۱۹۳۱ء
۲۸	حضرت مولانا سعید الدین راپوری، مدارالمہام ریاست بھوپال	۱۳۲۴-۱۳۲۷ھ / ۱۹۰۶-۱۹۲۸ء
۲۹	حضرت مولوی ظہور علی احمد صاحب پور قاضی، وکیل سرکار بھوپال	۱۳۲۴-۱۳۲۷ھ / ۱۹۰۶-۱۹۲۸ء
۳۰	حضرت شیخ حبیب الرحمان صاحب، دیوبند محلہ کوٹلہ	۱۳۲۴-۱۳۲۵ھ / ۱۹۰۶-۱۹۰۷ء
۳۱	حضرت مولانا قاضی محمد حسن مراد آبادی، قاضی القضاة بھوپال	۱۳۳۰-۱۳۶۵ھ / ۱۹۱۲-۱۹۴۶ء
۳۲	حضرت حاجی حافظ الدین صاحب میرٹھی	۱۳۲۴-۱۳۲۴ھ / ۱۹۲۵-۱۹۲۵ء
۳۳	حضرت مولانا حکیم جمیل الدین صاحب، گگینہ، بجنور	۱۳۲۴-۱۳۵۴ھ / ۱۹۲۵-۱۹۳۵ء
۳۴	حضرت مولانا حکیم محمد اسحاق صاحب، کٹھور، میرٹھ	۱۳۲۴-۱۳۷۳ھ / ۱۹۲۵-۱۹۵۴ء
۳۵	حضرت مولانا حکیم مشیت اللہ صاحب بجنوری	۱۳۲۴-۱۳۷۲ھ / ۱۹۲۵-۱۹۵۳ء
۳۶	حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب، سیوہارہ، بجنور	۱۳۲۴-۱۳۵۰ھ / ۱۹۲۵-۱۹۳۱ء
۳۷	حضرت مولانا حکیم محمد اشفاق صاحب راپوری خواہر زادہ حضرت مولانا شاہ عبدالقادر صاحب راپوری	۱۳۲۴-۱۳۶۷ھ / ۱۹۲۵-۱۹۴۸ء
۳۸	حضرت مولانا حکیم رضی الحسن صاحب کاندھلوی	۱۳۲۵-۱۳۲۹ھ / ۱۹۲۶-۱۹۳۰ء
۳۹	حضرت حاجی شیخ رشید احمد صاحب میرٹھی	۱۳۲۵-۱۳۷۱ھ / ۱۹۲۶-۱۹۵۴ء

۴۰	حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب، مہتمم دارالعلوم دیوبند	۱۳۲۸-۱۳۰۱ھ/۱۹۲۹-۱۹۸۱ء
۴۱	حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی، جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن	۱۳۵۰-۱۳۶۷ھ/۱۹۳۱-۱۹۲۸ء
۴۲	حضرت مولانا حکیم مقصود علی مقصود جنگ، ناظم الاطباء حیدرآباد دکن	۱۳۵۰-۱۳۸۱ھ/۱۹۳۱-۱۹۶۱ء
۴۳	حضرت مولانا محمد صادق کراچوی، بانی مدرسہ مظہر العلوم کھڈہ کراچی	۱۳۵۰-۱۳۶۷ھ/۱۹۳۱-۱۹۲۸ء
۴۴	حضرت مولانا حکیم سعید احمد گنگوہی (حکیم اجیری)	۱۳۵۰-۱۳۵۹ھ/۱۹۳۱-۱۹۲۰ء
۴۵	حضرت مولانا محمد سہول بھاگلپوری، پرنسپل مدرسہ شمس الہدیٰ پٹنہ	۱۳۵۰-۱۳۶۲ھ/۱۹۳۱-۱۹۲۳ء
۴۶	حضرت خواجہ فیروز الدین صاحب، جنرل اکاؤنٹنٹ ریاست کپورتھلہ	۱۳۵۰-۱۳۶۲ھ/۱۹۳۱-۱۹۲۳ء
۴۷	حضرت مولانا محمد فضل اللہ صاحب، وانمباڑی مدراس	۱۳۵۰-۱۳۵۲ھ/۱۹۳۱-۱۹۳۳ء
۴۸	حضرت مولانا عبدالرحمان خاں صاحب، خورجہ، بلند شہر	۱۳۵۰-۱۳۶۱ھ/۱۹۳۱-۱۹۲۰ء
۴۹	حضرت مولانا سعید احمد صاحب، صدر مدرس مدرسہ اسلامیہ ہاٹ ہزاری	۱۳۵۰-۱۳۶۷ھ/۱۹۳۱-۱۹۲۸ء
۵۰	حضرت مولانا شاہ رحمت علی صاحب، موضع بہر ضلع جالندھر	۱۳۵۰-۱۳۵۱ھ/۱۹۳۱-۱۹۳۲ء
۵۱	حضرت مولانا حافظ محمود صاحب راجپوری، مدارالمہام ریاست اندرگڑھ راجپوتانہ	۱۳۵۱-۱۳۵۹ھ/۱۹۳۲-۱۹۲۰ء
۵۲	حضرت مولانا محمد شفیع دیوبندی، صدر مدرس مدرسہ عبدالرب دہلی	۱۳۵۱-۱۳۵۲ھ/۱۹۳۲-۱۹۳۳ء
۵۳	حضرت مولانا محمد الیاس صاحب، بانی جماعت تبلیغ	۱۳۵۱-۱۳۵۳ھ/۱۹۳۲-۱۹۳۲ء
۵۴	حضرت مولانا نواب حبیب الرحمان ثروانی، صدر یار جنگ علی گڑھ	۱۳۵۲-۱۳۵۹ھ/۱۹۳۳-۱۹۲۰ء
۵۵	حضرت مولانا حافظ محمد یوسف صاحب، گنگوہ	۱۳۵۲-۱۳۶۳ھ/۱۹۳۳-۱۹۲۲ء
۵۶	حضرت مولانا سعید حسین احمد مدنی (بحیثیت عہدہ صدر المدرسین)	۱۳۵۳-۱۳۷۷ھ/۱۹۳۲-۱۹۵۷ء
۵۷	حضرت نواب عبدالباسط خان صاحب، حیدرآباد	۱۳۵۳-۱۳۶۶ھ/۱۹۳۲-۱۹۲۷ء
۵۸	حضرت خان بہادر شیخ ضیاء الحق صاحب، راجپور ضلع سہارنپور	۱۳۵۴-۱۳۷۳ھ/۱۹۳۵-۱۹۵۴ء
۵۹	حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی بحیثیت عہدہ صدر مہتمم	۱۳۵۴-۱۳۶۲ھ/۱۹۳۵-۱۹۲۳ء
۶۰	حضرت مولانا مفتی محمد کفایت اللہ صاحب، صدر جمعیۃ علماء ہند دہلی	۱۳۵۵-۱۳۷۳ھ/۱۹۳۶-۱۹۵۴ء
۶۱	حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب، راندر، سورت	۱۳۵۵-۱۳۶۷ھ/۱۹۳۶-۱۹۲۸ء
۶۲	حضرت مولانا حکیم محمد یحییٰ صاحب، نگینہ، بجنور	۱۳۶۰-۱۳۷۸ھ/۱۹۴۱-۱۹۵۸ء

۶۳	حضرت مولانا شاہ عبدالقادر صاحب رانپوری دوبارہ	۱۳۶۰ھ/۱۹۴۱ء (ایک سال) ۱۳۷۷-۱۳۸۱ھ/۱۹۵۷-۱۹۶۱ء
۶۴	حضرت مولانا ظہیر الحسن صاحب کاندھلوی	۱۳۶۰-۱۳۶۲ھ/۱۹۴۱-۱۹۴۳ء
۶۵	حضرت مولانا حکیم عبدالرشید محمود صاحب نبیرہ حضرت گنگوہی	۱۳۶۲-۱۳۶۷ھ/۱۹۴۳-۱۹۴۸ء
۶۶	حضرت مولانا حفیظ الرحمن سیوہاروی، ناظم اعلیٰ جمعیتہ علمائے ہند	۱۳۶۲-۱۳۸۲ھ/۱۹۴۳-۱۹۶۲ء
۶۷	حضرت مولانا محمد منظور صاحب نعمانی، لکھنؤ	۱۳۶۳-۱۳۷۱ھ/۱۹۴۴-۱۹۹۷ء
۶۸	حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندھری	۱۳۶۳-۱۳۶۷ھ/۱۹۴۴-۱۹۴۸ء
۶۹	حضرت مولانا شبیر علی صاحب، تھانہ بھون	۱۳۶۳-۱۳۶۷ھ/۱۹۴۴-۱۹۴۸ء
۷۰	حضرت مولانا بشیر احمد صاحب، کٹھور، میرٹھ	۱۳۶۳-۱۳۷۳ھ/۱۹۴۴-۱۹۵۴ء
۷۱	حضرت مولانا احمد سعید صاحب دہلوی، جمعیتہ علمائے ہند، دہلی	۱۳۶۳-۱۳۷۷ھ/۱۹۴۵-۱۹۵۷ء
۷۲	حضرت مولانا سید فخر الدین احمد صاحب، رکن شوری بہ حیثیت صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند	۱۳۶۸-۱۳۷۷ھ/۱۹۴۹-۱۹۵۷ء ۱۳۸۷-۱۳۹۲ھ/۱۹۶۷-۱۹۷۲ء
۷۳	حضرت مولانا محمد نبیہ صاحب، خان جہان پور، مظفرنگر	۱۳۶۸-۱۳۸۱ھ/۱۹۴۹-۱۹۶۱ء
۷۴	حضرت مفتی عتیق الرحمن صاحب عثمانی، ندوۃ المصنفین، دہلی	۱۳۶۸-۱۳۷۰ھ/۱۹۴۹-۱۹۸۴ء
۷۵	حضرت مولانا سید سلیمان صاحب ندوی، دارالمصنفین اعظم گڑھ	۱۳۶۹-۱۳۷۰ھ/۱۹۵۰-۱۹۵۱ء
۷۶	حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب، شیخ الحدیث مدرسہ امینیہ، دہلی	۱۳۷۰-۱۳۹۵ھ/۱۹۵۱-۱۹۶۵ء
۷۷	حضرت مولانا ڈاکٹر مصطفیٰ حسن صاحب علوی، لکھنؤ	۱۳۷۰ھ-۱۳۷۱ھ/۱۹۵۱-۱۹۸۱ء
۷۸	حضرت مولانا محمد زکریا صاحب، شیخ الحدیث مظاہر العلوم سہارنپور	۱۳۷۰-۱۳۸۲ھ/۱۹۵۱-۱۹۶۲ء
۷۹	حضرت مولانا مفتی محمود احمد صاحب نانوتوی، مفتی مالوہ، اجین	۱۳۷۳-۱۳۸۸ھ/۱۹۵۴-۱۹۶۸ء
۸۰	حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی، موصول اعظم گڑھ	۱۳۷۳-۱۳۷۴ھ/۱۹۵۴-۱۹۹۱ء
۸۱	حضرت مولانا عبدالصمد صاحب رحمانی، مانڈر ضلع موگیچر	۱۳۷۳-۱۳۹۴ھ/۱۹۵۴-۱۹۷۳ء
۸۲	حضرت مولانا محمد سعید بزرگ صاحب سملکی، سورت	۱۳۷۳-۱۳۷۴ھ/۱۹۵۴-۱۹۹۰ء
۸۳	حضرت مولانا سید منت اللہ صاحب رحمانی	۱۳۷۴-۱۳۷۴ھ/۱۹۵۵-۱۹۹۱ء
۸۴	حضرت مولانا حکیم محمد اسماعیل صاحب گینوی، دہلی	۱۳۷۴-۱۳۸۲ھ/۱۹۵۵-۱۹۶۲ء
۸۵	حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب بلیاوی، بحیثیت عہدہ صدر مدرس	۱۳۷۷-۱۳۸۷ھ/۱۹۵۷-۱۹۶۷ء

۸۶	حضرت مولانا ڈاکٹر سید عبدالعلی صاحب، ناظم ندوۃ العلماء لکھنؤ	۱۳۷۷-۱۳۸۰ھ/۱۹۵۷-۱۹۶۰ء
۸۷	حضرت مولانا ابوالحسن علی صاحب ندوی، ناظم ندوۃ العلماء لکھنؤ	۱۳۸۲-۱۳۲۰ھ/۱۹۶۲-۱۹۹۹ء
۸۸	حضرت مولانا عبدالقادر صاحب، مالگاول	۱۳۸۲-۱۳۱۳ھ/۱۹۶۲-۱۹۹۲ء
۸۹	حضرت مولانا قاضی زین العابدین صاحب سجاد، میرٹھ	۱۳۸۲-۱۳۱۲ھ/۱۹۶۲-۱۹۹۱ء
۹۰	حضرت مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی، صدر شعبہ دینیات مسلم یونیورسٹی علی گڑھ و ڈاکٹر شیخ الہند اکیڈمی دارالعلوم دیوبند	۱۳۸۲-۱۳۰۵ھ/۱۹۶۲-۱۹۸۵ء
۹۱	حضرت مولانا حامد الانصاری صاحب غازی	۱۳۸۲-۱۳۰۵ھ/۱۹۶۲-۱۹۸۵ء
۹۲	حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب بجنوری (رکن) بہ حیثیت عہدہ مہتمم	۱۳۸۲-۱۳۰۲ھ/۱۹۶۲-۱۹۸۲ء ۱۳۰۲-۱۳۳۲ھ/۱۹۸۲-۲۰۱۰ء
۹۳	حضرت مولانا سید فضل اللہ صاحب، حیدرآباد	۱۳۸۲-۱۳۹۹ھ/۱۹۶۲-۱۹۷۹ء
۹۴	حضرت مولانا حمید الدین فیض آبادی، شیخ الحدیث مدرسہ عالیہ کلکتہ	۱۳۸۲-۱۳۸۷ھ/۱۹۶۲-۱۹۶۷ء
۹۵	حضرت مولانا سید فخر الحسن صاحب، بہ حیثیت صدر المدرسین	۱۳۹۲-۱۳۰۱ھ/۱۹۷۲-۱۹۸۱ء
۹۶	حضرت مولانا عبدالخلیم جون پوری، مدرسہ ریاض العلوم گورینی جونپور	۱۳۹۲-۱۳۱۹ھ/۱۹۷۲-۱۹۹۸ء
۹۷	حضرت مولانا مفتی ابوالسعد صاحب، عربک کالج السبیل الرشاد، بنگلور	۱۳۹۲-۱۳۰۶ھ/۱۹۷۲-۱۹۸۶ء
۹۸	حضرت مولانا حکیم محمد زماں حسینی صاحب، کلکتہ	۱۳۹۲-۱۳۲۱ھ/۱۹۷۲-۲۰۰۰ء
۹۹	حضرت مولانا حکیم محمد افہام اللہ صاحب، علی گڑھ	۱۳۹۲-۱۳۱۸ھ/۱۹۷۲-۱۹۹۷ء
۱۰۰	حضرت مولانا معراج الحق دیوبندی، بہ حیثیت صدر المدرسین	۱۳۰۱-۱۳۱۲ھ/۱۹۸۱-۱۹۹۱ء
۱۰۱	حضرت مولانا محمد عثمان صاحب، نواب مہتمم دارالعلوم	۱۳۰۱-۱۳۰۵ھ/۱۹۸۱-۱۹۸۵ء
۱۰۲	حضرت مولانا قاری صدیق احمد باندوی، بانی جامعہ عربیہ تھورا، باندہ	۱۳۰۱-۱۳۰۵ھ/۱۹۸۱-۱۹۸۵ء
۱۰۳	حضرت حاجی علاء الدین صاحب، ممبئی	۱۳۰۱-۱۳۰۸ھ/۱۹۸۱-۱۹۸۸ء
۱۰۴	حضرت نواب عبید الرحمن خان شروانی، علی گڑھ	۱۳۰۱-۱۳۱۲ھ/۱۹۸۱-۱۹۹۱ء
۱۰۵	حضرت مولانا اسعد منی صاحب، صدر جمعیۃ علمائے ہند	۱۳۰۵-۱۳۲۷ھ/۱۹۸۵-۲۰۰۶ء
۱۰۶	حضرت مولانا مفتی منظور احمد صاحب، قاضی شہرکان پور	۱۳۰۵-۱۳۳۱ھ/۱۹۸۵-۲۰۱۹ء
۱۰۷	حضرت مولانا حکیم عبدالجلیل صدیقی، صدیقی دوآخانہ، دہلی	۱۳۰۶-۱۳۱۱ھ/۱۹۸۶-۱۹۹۰ء
۱۰۸	حضرت حافظ محمد صدیق صاحب (سابق ایم پی)، مرادآباد	۱۳۰۶-۱۳۳۳ھ/۱۹۸۶-۲۰۱۲ء

۱۰۹	حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب مدراسی	۱۴۰۶-۱۴۲۰ھ/۱۹۸۶-۲۰۱۹ء
۱۱۰	حضرت مولانا مفتی عبدالعزیز صاحب، رائے پور ضلع سہارن پور	۱۴۰۸-۱۴۱۲ھ/۱۹۸۸-۱۹۹۱ء
۱۱۱	حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب، صدر مجلس علمی، حیدرآباد	۱۴۰۸-۱۴۳۲ھ/۱۹۸۸-۲۰۱۱ء
۱۱۲	حضرت مولانا غلام رسول خاموش صاحب، مہتمم مدرسہ چھاپی گجرات و کارگزار مہتمم دارالعلوم دیوبند	۱۴۰۹-۱۴۳۱ھ/۱۹۸۹-۲۰۱۰ء
۱۱۳	حضرت مولانا اسماعیل موٹا صاحب، مہتمم جامعہ حسینہ راندیری، سورت	۱۴۱۱-۱۴۲۷ھ/۱۹۹۰-۲۰۰۶ء
۱۱۴	حضرت مولانا ناظر حسین صاحب، مہتمم مدرسہ خادم الاسلام ہاؤس	۱۴۱۱-۱۴۳۰ھ/۱۹۹۰-۲۰۰۹ء
۱۱۵	حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب بلند شہری، بہ حیثیت صدر المدرسین	۱۴۱۲-۱۴۲۹ھ/۱۹۹۱-۲۰۰۸ء
۱۱۶	حضرت مولانا اسماعیل صاحب کٹکی، کٹک، اڑیسہ	۱۴۱۳-۱۴۲۵ھ/۱۹۹۲-۲۰۰۶ء
۱۱۷	حضرت مولانا ازہر صاحب نعمانی، رانچی	۱۴۱۳-۱۴۳۸ھ/۱۹۹۲-۲۰۱۷ء
۱۱۸	حضرت مولانا نظام الدین صاحب، پٹنہ	۱۴۱۹-۱۴۳۷ھ/۱۹۹۸-۲۰۱۵ء
۱۱۹	حضرت مولانا سید خلیل حسین صاحب دیوبندی	۱۴۲۸-۱۴۳۲ھ/۲۰۰۷-۲۰۱۳ء
۱۲۰	حضرت الحاج جمیل الدین صاحب، کولکاتہ	۱۴۲۸-۱۴۳۹ھ/۲۰۰۷-۲۰۱۷ء
۱۲۱	حضرت مولانا محمد طلحہ صاحب کاندھلوی	۱۴۲۸-۱۴۴۰ھ/۲۰۰۷-۲۰۱۹ء
۱۲۲	حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالن پوری، بہ حیثیت صدر المدرسین	۱۴۲۹-۱۴۴۱ھ/۲۰۰۸-۲۰۲۰ء
۱۲۳	حضرت مولانا سرالہ حق صاحب قاسمی	۱۴۳۹-۱۴۴۰ھ/۲۰۱۷-۲۰۱۸ء

موجودہ اراکین مجلس شوری

شمار	اسمائے گرامی	ابتدا
۱	حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب، (رکن) مہتمم دارالعلوم دیوبند (بہ حیثیت عہدہ)	۱۴۱۳-۱۴۳۲ھ/۱۹۹۲-۲۰۱۱ء ۱۴۳۲ھ/۲۰۱۱ء
۲	حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب، صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند (بہ حیثیت عہدہ)	صفر: ۱۴۳۲ھ/۲۰۲۰ء
۳	حضرت مولانا بدر الدین اجمل صاحب، صدر جمعیتہ علمائے آسام و مرکز المعارف، ایم پی لوک سبھا	۱۴۱۳ھ/۱۹۹۲ء

۴	حضرت مولانا غلام محمد وستا نوی صاحب، مہتمم اشاعت العلوم اکل گوا، مہاراشٹر	۱۳۱۹ھ/۱۹۹۸ء
۵	حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب، صدر داراللمبقتین، لکھنؤ	۱۳۱۹ھ/۱۹۹۸ء
۶	حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی صاحب، ناظم ندوۃ العلماء لکھنؤ	۱۳۲۸ھ/۲۰۰۷ء
۷	حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب مالگاؤں، سابق ایم ایل اے، مہاراشٹر اسمبلی	۱۳۲۸ھ/۲۰۰۷ء
۸	حضرت مولانا محمد اشتیاق صاحب، مظفر پور، بہار	۱۳۲۸ھ/۲۰۰۷ء
۹	حضرت مولانا ملک محمد ابراہیم صاحب، میل و شارم، تمل ناڈو	۱۳۲۸ھ/۲۰۰۷ء
۱۰	حضرت مولانا حکیم کلیم اللہ صاحب، علی گڑھ	۱۳۳۳ھ/۲۰۱۲ء
۱۱	حضرت مولانا مفتی احمد خان پوری صاحب، جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین، ڈابھیل، گجرات	۱۳۳۳ھ/۲۰۱۲ء
۱۲	حضرت مولانا محمد رحمت اللہ کشمیری صاحب، مہتمم دارالعلوم رحیمیہ بانڈی پورہ، کشمیر	۱۳۳۳ھ/۲۰۱۲ء
۱۳	حضرت مولانا انوار الرحمن صاحب، قاضی پاڑہ، بجنور	۱۳۳۳ھ/۲۰۱۲ء
۱۴	حضرت مولانا محمود حسن راجستھانی، کھیروا، راجستھان	صفر ۱۳۳۹ھ/نومبر ۲۰۱۷ء
۱۵	حضرت مولانا عبدالصمد کالیکا پوری، مغربی بنگال	صفر ۱۳۳۹ھ/نومبر ۲۰۱۷ء
۱۶	حضرت مولانا نظام الدین خاموش، گجرات	صفر ۱۳۳۹ھ/نومبر ۲۰۱۷ء
۱۷	حضرت مولانا سید انظر حسین دیوبندی، دیوبند	صفر ۱۳۳۹ھ/نومبر ۲۰۱۷ء
۱۸	حضرت مولانا سید محمد عاقل صاحب، شیخ الحدیث و ناظم اعلیٰ مدرسہ مظاہر علوم سہارن پور	صفر ۱۳۴۱ھ/اکتوبر ۲۰۱۹ء
۱۹	حضرت مولانا سید حبیب احمد صاحب، ناظم جامعہ عربیہ تھورا، باندہ	صفر ۱۳۴۱ھ/اکتوبر ۲۰۱۹ء
۲۰	حضرت مولانا محمد شفیق احمد صاحب قاسمی، بنگلور	صفر ۱۳۴۱ھ/اکتوبر ۲۰۱۹ء
۲۱	حضرت مولانا محمد عاقل صاحب قاسمی، مہتمم مدرسہ بدرالعلوم گڑھی دولت ضلع شمالی	صفر ۱۳۴۲ھ/۲۰۲۰ء

اساتذہ عربی دارالعلوم دیوبند

شمار	اسمائے گرامی	ابتدا-انتہا
۱	مولانا ملا محمد محمود صاحب دیوبندیؒ	۱۲۸۳-۱۳۰۳ھ
۲	حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی	۱۲۸۳-۱۳۰۲ھ
۳	مولانا محمد فاضل صاحب پھلی	۱۲۸۳-۱۲۹۳ھ
۴	مولانا میر باز خان صاحبؒ	۱۲۸۳-۱۲۸۷ھ
۵	مولانا فتح محمد صاحبؒ	۱۲۸۳-۱۲۸۷ھ
۶	حضرت مولانا سید احمد صاحب دہلویؒ	۱۲۸۶-۱۳۰۷ھ
۷	مولانا صدیق احمد صاحب انیٹھویؒ	۱۲۹۰-۱۲۹۲ھ
۸	مولانا عبداللہ صاحب گوالیاریؒ	۱۲۹۰-۱۲۹۲ھ
	دوبارہ	۱۳۰۵-۱۳۰۶ھ
۹	مولانا عبدالحق صاحب بریلویؒ	۱۲۹۰-۱۲۹۵ھ
۱۰	مولانا محمد مراد صاحب پاک پٹنؒ	۱۲۹۰-۱۲۹۱ھ
۱۱	مولانا عبداللہ صاحب انیٹھویؒ	۱۲۹۱-۱۲۹۲ھ
۱۲	مولانا عبدالعزیز خاں صاحبؒ	۱۲۹۱-۱۲۹۲ھ
۱۳	مولانا منفعت علی صاحب	۱۲۹۱-۱۳۱۸ھ
۱۴	مولانا سراج الحق صاحب دیوبندیؒ	۱۲۹۲-۱۲۹۳ھ
۱۵	حضرت مولانا محمود حسن دیوبندیؒ (شیخ الہند)	۱۲۹۲-۱۳۳۳ھ
۱۶	مولانا عبدالعلی صاحب میرٹھیؒ	۱۲۹۲-۱۲۹۸ھ
	دوبارہ	۱۳۱۲-۱۳۱۷ھ
۱۷	مولانا احمد صاحبؒ	۱۲۹۲-۱۲۹۹ھ
۱۸	مولانا حافظ محمد اسحاق صاحبؒ	۱۲۹۲-۱۲۹۹ھ

۱۹	مولانا حامد حسن صاحبؒ	۱۲۹۵-۱۲۹۲ھ
۲۰	مولانا عبدالحق صاحبؒ	۱۲۹۵-۱۲۹۲ھ
۲۱	مولانا بشیر احمد صاحبؒ	۱۲۹۵-۱۲۹۲ھ
۲۲	مولانا رحیم بخش صاحبؒ	۱۲۹۵-۱۲۹۴ھ
۲۳	مولانا عبدالحکیم صاحبؒ	۱۲۹۶-۱۲۹۵ھ
۲۴	مولانا حاجی احمد علی صاحبؒ	۱۲۹۶-۱۲۹۵ھ
۲۵	مولانا احمد الدین صاحبؒ	۱۲۹۶-۱۲۹۴ھ
۲۶	حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحبؒ	۱۲۹۸-۱۳۰۹ھ
۲۷	مولانا ذوالفقار علی صاحبؒ	۱۲۹۸-۱۳۲۶ھ
۲۸	مولانا حافظ اشرف علی صاحبؒ	۱۳۰۰-۱۳۰۱ھ
۲۹	مولانا حکیم محمد حسن صاحبؒ طیب	۱۳۰۲-۱۳۲۵ھ
۳۰	مولانا عبدالمومن صاحبؒ	۱۳۰۲-۱۳۰۸ھ
۳۱	مولانا حافظ محمد احمد صاحبؒ نانوتوی	۱۳۰۳-۱۳۲۷ھ
۳۲	مولانا حبیب الرحمن صاحبؒ عثمانی	۱۳۰۳-۱۳۲۸ھ
۳۳	مولانا عبدالعزیز خاں صاحبؒ دیوبندی	۱۳۰۵-۱۳۰۶ھ
۳۴	مولانا مظہر حسن خاں صاحبؒ رامپوری	۱۳۰۵-۱۳۰۶ھ
۳۵	مولانا عطاء الحق صاحبؒ چاندپوری	۱۳۰۵-۱۳۰۶ھ
۳۶	مولانا حافظ نور محمد صاحبؒ فتحپوری	۱۳۰۵-۱۳۰۶ھ
۳۷	مولانا غلام رسول صاحبؒ ہزاروی	۱۳۰۷-۱۳۳۷ھ
۳۸	حضرت مولانا خلیل احمد صاحبؒ ایٹھوی	۱۳۰۸-۱۳۱۲ھ
۳۹	مولانا محمد یسین صاحبؒ شیرکوٹی	۱۳۱۱-۱۳۱۲ھ
	دوبارہ	۱۳۱۹-۱۳۲۳ھ
۴۰	مولانا محمد اسحاق صاحبؒ امرتسری	۱۳۱۲-۱۳۱۳ھ
۴۱	مولانا گل محمد خاں صاحبؒ	۱۳۱۶-۱۳۱۹ھ
	دوبارہ	۱۳۲۰-۱۳۳۹ھ

۱۳۲۲-۱۳۱۹ھ	مولانا سید مرتضیٰ حسن صاحب چاند پوریؒ	۴۲
۱۳۳۱-۱۳۲۷ھ	دو بارہ	
۱۳۵۰-۱۳۳۹ھ	سہ بارہ	
۱۳۲۸-۱۳۲۲ھ	مولانا عبدالصمد صاحب گینویؒ	۴۳
۱۳۲۸-۱۳۲۲ھ	مولانا محمد سہول صاحب بھاگلپوریؒ	۴۴
۱۳۴۵-۱۳۲۷ھ	حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کشمیریؒ	۴۵
۱۳۲۹-۱۳۲۷ھ	حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنیؒ	۴۶
۱۳۷۷-۱۳۲۶ھ	دو بارہ بہ حیثیت صدر مدرس	
۱۳۵۱-۱۳۲۷ھ	مولانا نانبیہ حسن صاحب دیوبندیؒ	۴۷
۱۳۲۳-۱۳۲۸ھ	مولانا شبیر احمد صاحب عثمانیؒ	۴۸
۱۳۲۹-۱۳۲۸ھ	حضرت مولانا سید فخر الدین احمد صاحبؒ	۴۹
۱۳۶۲-۱۳۶۳ھ	دو بارہ	
۱۳۹۲-۱۳۷۷ھ	سہ بارہ	
۱۳۶۶-۱۳۲۹ھ	مولانا عبدالسمیع صاحب دیوبندیؒ	۵۰
۱۳۳۹-۱۳۲۹ھ	مولانا احمد امین صاحب امرہویؒ	۵۱
۱۳۷۲-۱۳۳۰ھ	مولانا اعجاز علی صاحب امرہویؒ	۵۲
۱۳۶۲-۱۳۳۰ھ	مولانا سید اصغر حسین صاحب دیوبندیؒ	۵۳
۱۳۳۹-۱۳۳۱ھ	حضرت مولانا ابراہیم صاحب بلیاویؒ	۵۴
۱۳۶۲-۱۳۲۳ھ	دو بارہ	
۱۳۸۷-۱۳۶۶ھ	سہ بارہ	
۱۳۳۲-۱۳۳۱ھ	حضرت مولانا مظہر الدین صاحب شیرکوٹیؒ	۵۵
۱۳۳۲-۱۳۳۱ھ	مولانا سید حسن صاحب چاند پوریؒ	۵۶
۱۳۳۲-۱۳۳۱ھ	مولانا شائق صاحب عثمانیؒ	۵۷
۱۳۲۲-۱۳۲۲ھ	مولانا احمد شیر صاحب چلا سوئیؒ	۵۸
۱۳۸۴-۱۳۳۲ھ	مولانا قاضی مسعود احمد صاحب دیوبندیؒ نائب مفتی	۵۹

۱۳۳۲-۱۳۳۶ھ	مولانا محمد ادریس صاحب سکرو ڈوی	۶۰
۱۳۳۲-۱۳۳۳ھ	مولانا محمد اسماعیل صاحب	۶۱
۱۳۳۲-۱۳۳۴ھ	مولانا محمد صدیق صاحب نجیب آبادی	۶۲
۱۳۳۳-۱۳۵۳ھ	مولانا محمد رسول خان صاحب	۶۳
۱۳۳۶-۱۳۳۶ھ	مولانا سراج احمد صاحب	۶۴
۱۳۳۵-۱۳۳۶ھ	مولانا خلیل الرحمن صاحب	۶۵
۱۳۳۵-۱۳۳۹ھ	مولانا تفضل حسین صاحب بارہ بنکوی	۶۶
۱۳۳۷-۱۳۶۲ھ	مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی	۶۷
۱۳۳۷-۱۳۳۹ھ ۱۳۸۰ھ چند ماہ	مولانا حکیم سید محفوظ علی صاحب گنگوہی دوبارہ	۶۸
۱۳۳۷-۱۳۳۸ھ	مولانا محمد اسحاق صاحب کانپوری	۶۹
۱۳۳۸-۱۳۳۶ھ ۱۳۵۸-۱۳۶۸ھ	مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی دوبارہ	۷۰
۱۳۳۸-۱۳۳۹ھ	مولانا علی محمد صاحب سورتی	۷۱
۱۳۴۰-۱۴۰۶ھ	مولانا سعید احمد صاحب گنگوہی	۷۲
۱۳۴۰-۱۳۴۴ھ	مولانا افتخار علی صاحب شاہ جہان پوری	۷۳
۱۳۴۱-۱۳۴۴ھ	مولانا سید میرک شاہ صاحب کشمیری	۷۴
۱۳۴۲-۱۳۴۴ھ	مولانا غلام محمد صاحب سینا پوری	۷۵
۱۳۴۰ھ چند ماہ	مولانا ابورحمت صاحب	۷۶
۱۳۴۲ھ چند ماہ	منشی امتیاز علی صاحب	۷۷
۱۳۴۴-۱۳۴۶ھ	مولانا مفتی عتیق الرحمن صاحب دیوبندی	۷۸
۱۳۴۴ھ ۸۷ھ	مولانا حافظ الرحمن صاحب سیوہاروی	۷۹
۱۳۴۴ھ ۹۷ھ	مولانا محمد نقی صاحب دیوبندی	۸۰
۱۳۴۴-۱۳۴۶ھ	مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی	۸۱
۱۳۴۴ھ چند ماہ	مولانا محمد میاں صاحب دیوبندی	۸۲

۱۳۲۶-۱۳۲۶ھ	مولانا محمد یحییٰ صاحب کیرانوی	۸۳
۱۳۹۷-۱۳۲۶ھ	مولانا سید اختر حسین صاحب دیوبندی	۸۴
۱۳۲۷-۱۳۲۶ھ	مولانا محمد قاسم صاحب شاہجہاں پوری	۸۵
۱۳۲۷-۱۳۲۶ھ	مولانا سید وحید احمد صاحب مدنی	۸۶
۱۳۲۷-۱۳۲۶ھ	مولانا قاری محمد طاہر صاحب قاسمی دیوبندی	۸۷
۱۳۶۲-۱۳۲۷ھ	مولانا مفتی ریاض الدین صاحب	۸۸
۱۳۲۹-۱۳۲۸ھ	مولانا حکیم رمضان الحق صاحب لکھیم پوری	۸۹
۱۳۶۲-۱۳۲۹ھ	مولانا ظہور احمد صاحب دیوبندی	۹۰
۱۳۸۳-۱۳۶۷ھ	دو بارہ	
۱۳۵۰-۱۳۲۹ھ	مولانا محمد انور صاحب چاند پوری	۹۱
۱۳۵۰-۱۳۲۹ھ	مولانا محمد حمید حسن صاحب دیوبندی	۹۲
۱۳۵۰-۱۳۲۹ھ	مولانا خلیل احمد صاحب مراد آبادی	۹۳
۱۳۸۷-۱۳۵۰ھ	مولانا محمد جلیل صاحب کیرانوی	۹۴
۱۳۵۵-۱۳۵۰ھ	مولانا محمد مجتبیٰ صاحب رامپوری	۹۵
۱۳۶۶-۱۳۵۲ھ	مولانا عبدالحق صاحب عرف نافع گل پشاور	۹۶
۱۳۵۷-۱۳۵۲ھ	مولانا شمس الحق صاحب پشوری	۹۷
۱۴۰۱-۱۳۵۲ھ	مولانا محمد عثمان صاحب دیوبندی	۹۸
۱۳۵۵ھ چند ماہ	مولانا نور اللہ صاحب نواکھالی	۹۹
۱۳۸۴-۱۳۵۷ھ	مولانا قاری اصغر علی صاحب بجنوری ۱۳۳۷-۱۳۵۷ھ تک مدرس تجوید	۱۰۰
۱۳۵۸ھ چند ماہ	مولانا مشیت اللہ صاحب دیوبندی	۱۰۱
۱۴۰۰-۱۳۵۸ھ	مولانا عبدالاحد صاحب دیوبندی	۱۰۲
۱۳۶۲-۱۳۵۸ھ	مولانا محمد یحییٰ صاحب تھانوی	۱۰۳
۱۴۰۲-۱۳۶۲ھ	مولانا سید فخر الحسن صاحب مراد آبادی	۱۰۴
۱۳۶۲ھ چند ماہ	مولانا قاضی شمس الدین صاحب پنجابی	۱۰۵

۱۰۶	مولانا بشیر احمد خاں صاحب بلند شہریؒ	۱۳۶۲-۱۳۸۶ھ
۱۰۷	مولانا عبدالحق صاحب اکوڑویؒ	۱۳۶۲-۱۳۶۶ھ
۱۰۸	مولانا سیاح الدین صاحب پشاوری	۱۳۶۲ھ چند ماہ
۱۰۹	مولانا حبیب اللہ صاحب میرٹھیؒ	۱۳۶۲-۱۳۶۷ھ
۱۱۰	مولانا جمال الدین صاحب پشاوریؒ	۱۳۶۲ھ چند ماہ
۱۱۱	مولانا معراج الحق صاحب دیوبندیؒ	۱۳۶۳-۱۳۱۲ھ
۱۱۲	مولانا عبدالحق صاحب ملتانئیؒ	۱۳۶۳-۱۳۶۷ھ
۱۱۳	مولانا عبدالشکور صاحب دیوبندیؒ	۱۳۶۳-۱۳۶۷ھ
۱۱۴	مولانا محمد شریف صاحب کشمیریؒ	۱۳۶۳-۱۳۶۶ھ
۱۱۵	مولانا محمد کفیل صاحب بجنوریؒ	۱۳۶۳-۱۳۶۴ھ
۱۱۶	مولانا حشمت علی صاحب گلاؤٹھیؒ	۱۳۶۴ھ ایک سال
۱۱۷	مولانا محمد نور صاحب میانوائیؒ	۱۳۶۶-۱۳۶۷ھ
۱۱۸	مولانا نصیر احمد خاں صاحب بلند شہریؒ	۱۳۶۶-۱۳۲۹ھ
۱۱۹	مولانا محمد نعیم صاحب دیوبندیؒ	۱۳۶۶-۱۴۰۲ھ
۱۲۰	مولانا سید حسن صاحب دیوبندیؒ	۱۳۵۷-۱۳۶۷ھ تک مدرس فارسی
۱۲۱	مولانا محمد حسین صاحب بہاریؒ	۱۳۶۷-۱۳۱۲ھ
۱۲۲	مولانا محمد ہارون صاحب دیوبندیؒ	۱۳۶۷-۱۳۹۸ھ
۱۲۳	مولانا محمود علی صاحب شاہجہاں پوریؒ	۱۳۶۷-۱۳۶۸ھ
۱۲۴	مولانا ریاض احمد صاحب چمپارٹیؒ	۱۳۶۹-۱۳۷۰ھ
۱۲۵	مولانا محمد سالم صاحب قاسمیؒ	۱۳۷۰-۱۴۰۲ھ
۱۲۶	مولانا سید فیض علی شاہ صاحب ہزارویؒ	۱۳۷۰-۱۳۷۶ھ
۱۲۷	مولانا سید اسعد صاحب مدنیؒ	۱۳۷۰-۱۳۸۲ھ
۱۲۸	مولانا محمد اکرم صاحب بخاریؒ	۱۳۷۰-۱۳۷۱ھ
۱۲۹	مولانا سید انظر شاہ صاحب کشمیریؒ	۱۳۷۲-۱۴۰۲ھ

۱۳۰	مولانا اعجاز الاسلام عرف حامد میاں صاحب امرہ ہوی	۱۳۷۴ھ-۱۳۱۵ھ
۱۳۱	مولانا سید حمید الدین صاحب فیض آبادی	۱۳۷۴-۱۳۷۵ھ
۱۳۲	شیخ عبدالمنعم صاحب نر، مصری، مبعوث جامعہ ازہر، قاہرہ	۱۳۷۵-۱۳۷۷ھ (صف عربی)
۱۳۳	شیخ عبدالعال صاحب عقبادی مصری، مبعوث جامعہ ازہر، قاہرہ	۱۳۷۵-۱۳۷۷ھ (صف عربی)
۱۳۴	مولانا بہاء الحسن صاحب مراد آبادی	۱۳۷۸ھ چند ماہ
	دوبارہ	۱۳۸۲-۱۳۹۸ھ
۱۳۵	شیخ عبدالوہاب صاحب مصری۔ مبعوث جامعہ ازہر، قاہرہ	۱۳۷۹-۱۳۸۳ھ (صف عربی)
۱۳۶	مولانا اسلام الحق صاحب اعظمی	۱۳۸۰-۱۳۹۲ھ
۱۳۷	مولانا خورشید عالم صاحب دیوبندی	۱۳۸۳-۱۴۰۲ھ
۱۳۸	مولانا محمد شریف حسن صاحب دیوبندی	۱۳۸۳-۱۳۹۷ھ
۱۳۹	مولانا وحید الزماں صاحب کیرانوی	۱۳۸۳-۱۴۱۰ھ
۱۴۰	مولانا محمد حسن صاحب باندوی	۱۳۸۵-۱۴۰۱ھ
۱۴۱	مولانا زبیر احمد صاحب دیوبندی	۱۳۸۶-۱۴۱۸ھ
۱۴۲	مولانا عزیز احمد صاحب فیض آبادی، بی اے	۱۳۹۰-۱۴۰۹ھ (علوم عصریہ و عربی)
۱۴۳	مولانا ریاست علی صاحب بجنوری	۱۳۹۱-۱۴۳۸ھ
۱۴۴	مولانا فیض الحسن صاحب کشمیری	۱۳۹۱-۱۴۰۲ھ
۱۴۵	مولانا محمد ہاشم صاحب خٹھی مہاجر مدنی	۱۳۹۲-۱۴۰۶ھ
۱۴۶	مولانا مفتی شکیل احمد سیتاپوری	۱۳۹۲-۱۴۰۲ھ
۱۴۷	مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری	۱۳۹۳-۱۴۴۱ھ
۱۴۸	مولانا بدر الحسن صاحب درہنگوی	۱۳۹۷-۱۴۰۲ھ
۱۴۹	مولانا خالد حسن بلیاوی، مہاجر مکی	۱۳۹۷-۱۴۰۲ھ
۱۵۰	مولانا لقمان الحق صاحب بجنوری	۱۳۹۸-۱۴۰۸ھ
۱۵۱	مولانا شاہد حسن صاحب دیوبندی	۱۳۹۸-۱۴۱۸ھ
۱۵۲	مولانا جمیل احمد صاحب سکر و ڈوی	۱۳۹۹-۱۴۰۲ھ
	دوبارہ	۱۴۲۰-۱۴۴۰ھ

۱۵۳	مولانا عبدالرحیم صاحب بستوی	۱۲۰۲-۱۲۳۶ھ
۱۵۴	مولانا عبدالحق صاحب اعظمی	۱۲۰۲-۱۲۳۸ھ
۱۵۵	مولانا عبدالرحیم صاحب سنبھلی	۱۲۰۳ھ چند ماہ
۱۵۶	مولانا عبدالرؤف صاحب افغانی	۱۲۰۳-۱۲۱۲ھ
۱۵۷	مولانا احرارالحق صاحب فیض آبادی	۱۲۰۵-۱۲۱۲ھ
۱۵۸	مولانا شمیم احمد صاحب دیوبندی	۱۲۰۵-۱۲۲۱ھ
۱۵۹	مولانا جمال احمد صاحب میرٹھی	۱۲۰۶-۱۲۲۱ھ
۱۶۰	مولانا مفتی محمود حسن بلند شہری	۱۲۰۹-۱۲۳۳ھ
۱۶۱	مولانا شبیر احمد صاحب مظفرنگری	۱۲۱۰-۱۲۳۰ھ
۱۶۲	مولانا محمد احمد صاحب فیض آبادی	۱۲۱۱-۱۲۳۹ھ
۱۶۳	مولانا محمد عمر صاحب مظفرنگری	۱۲۱۱-۱۲۱۵ھ
۱۶۴	مولانا منزل علی صاحب آسامی	۱۲۱۳-۱۲۲۰ھ
۱۶۵	مولانا جنید عالم صاحب سیوانی	۱۲۱۲-۱۲۱۷ھ
۱۶۶	مولانا عبدالرشید صاحب بستوی	۱۲۱۸-۱۲۲۱ھ

موجودہ اساتذہ عربی

شمار	نام	سن تقرر	موجودہ درجہ	سن
۱	حضرت مولانا سید ارشد صاحب مدنی	۱۲۰۳ھ	صدر المدرسین	۱۲۲۲ھ
۲	حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعانی		شیخ الحدیث	۱۲۲۲ھ
۳	حضرت مولانا قمر الدین صاحب گورکھ پوری	۱۳۸۶ھ	مدرس درجہ علیا	۱۳۹۹ھ
۴	حضرت مولانا عبدالخالق صاحب مدراسی، نائب مہتمم	۱۳۹۳ھ	مدرس درجہ علیا	۱۴۰۷ھ
۵	حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب اعظمی	۱۲۰۲ھ	مدرس درجہ علیا	۱۴۰۳ھ
۶	حضرت مولانا قاری محمد عثمان صاحب منصور پوری معاون مہتمم	۱۲۰۲ھ	مدرس درجہ علیا	۱۲۱۲ھ
۷	حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی اعظمی	۱۲۰۲ھ	مدرس درجہ علیا	۱۲۱۴ھ
۸	حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی صاحب	۱۲۰۲ھ	مدرس درجہ علیا	۱۲۱۲ھ
۹	حضرت مولانا مفتی محمد امین صاحب پالن پوری	۱۲۰۲ھ	مدرس درجہ علیا	۱۲۱۲ھ

۱۰	حضرت مولانا مجیب اللہ صاحب گوئدوی	۱۲۰۲ھ	مدرس درجہ علیا	۱۲۲۸ھ
۱۱	حضرت مولانا مفتی یوسف صاحب مظفرنگری	۱۲۰۵ھ	مدرس درجہ علیا	۱۲۳۰ھ
۱۲	حضرت مولانا عبدالحق صاحب سنبھلی، نائب مہتمم	۱۲۰۳ھ	مدرس درجہ علیا	۱۲۳۳ھ
۱۳	حضرت مولانا خورشید احمد صاحب گیاوی	۱۲۰۹ھ	مدرس درجہ علیا	۱۲۴۰ھ
۱۴	حضرت مولانا نسیم احمد صاحب بارہ بنکوی	۱۲۰۳ھ	مدرس درجہ علیا	۱۲۴۰ھ
۱۵	حضرت مولانا شوکت علی صاحب بستوی	۱۲۱۲ھ	مدرس درجہ علیا	۱۲۴۰ھ
۱۶	حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب اعظمی	۱۲۱۲ھ	مدرس درجہ علیا	۱۲۴۰ھ
۱۷	حضرت مولانا محمد سلمان صاحب بجنوری	۱۲۱۲ھ	مدرس درجہ علیا	۱۲۴۰ھ
۱۸	حضرت مولانا عبد اللہ معروفی صاحب	۱۲۲۱ھ	مدرس درجہ علیا	۱۲۴۰ھ
۱۹	حضرت مولانا محمد افضل صاحب کیموری	۱۲۲۶ھ	مدرس درجہ علیا	۱۲۴۰ھ
۲۰	حضرت مولانا خضر محمد صاحب کشمیری	۱۲۱۷ھ	مدرس درجہ علیا	۱۲۴۱ھ
۲۱	حضرت مولانا حسین احمد صاحب ہردواری	۱۲۱۷ھ	مدرس درجہ علیا	۱۲۴۱ھ
۲۲	حضرت مولانا عارف جمیل صاحب اعظمی دوبارہ	۱۲۱۷-۱۸ ۱۲۳۱ھ	مدرس درجہ علیا	۱۲۴۱ھ
۲۳	حضرت مولانا منیر الدین صاحب گڈاوی	۱۲۲۱ھ	مدرس درجہ علیا	۱۲۴۱ھ
۲۴	حضرت مولانا محمد ساجد صاحب ہردوئی	۱۲۲۲ھ	مدرس درجہ علیا	۱۲۴۱ھ
۲۵	جناب مولانا عثمان غنی صاحب ہوڑوی	۱۲۲۲ھ	درجہ وسطی الف	۱۲۳۲ھ
۲۶	جناب مولانا محمد ایوب صاحب مظفرنگری	۱۲۲۲ھ	درجہ وسطی الف	۱۲۴۰ھ
۲۷	جناب مولانا منزل حسین صاحب مظفرنگری	۱۲۱۸ھ	درجہ وسطی الف	۱۲۴۰ھ
۲۸	جناب مولانا ریاست علی صاحب ہردواری	۱۲۱۹ھ	درجہ وسطی الف	۱۲۴۰ھ
۲۹	جناب مولانا محمد علی صاحب بجنوری	۱۲۲۰ھ	درجہ وسطی الف	۱۲۴۰ھ
۳۰	جناب مولانا بلال اصغر صاحب دیوبندی	۱۲۰۲ھ	درجہ وسطی ب	۱۲۳۴ھ
۳۱	جناب مولانا کلیم الدین صاحب کنگلی	۱۲۲۸ھ	درجہ وسطی ب	۱۲۴۰ھ
۳۲	جناب مولانا محمد افضل صاحب سدھارتھ نگری	۱۲۲۸ھ	درجہ وسطی ب	۱۲۴۰ھ
۳۳	جناب مولانا محمد معروف صاحب غازی آبادی	۱۲۲۸ھ	درجہ وسطی ب	۱۲۴۰ھ
۳۴	جناب مولانا توحید احمد صاحب بجنوری	۱۲۲۸ھ	درجہ وسطی ب	۱۲۴۰ھ

۳۵	جناب مولانا مصلح الدین صاحب سدھارتھ نگری	۱۳۳۲ھ	درجہ وسطیٰ ب	۱۳۴۰ھ
۳۶	جناب مولانا اشتیاق احمد صاحب در بھنگوی	۱۳۳۰ھ	درجہ وسطیٰ ب	۱۳۴۰ھ
۳۷	جناب مولانا محمد منزل صاحب بدایونی	۱۳۳۰ھ	درجہ وسطیٰ ب	۱۳۴۰ھ
۳۸	جناب مولانا محمد ارشد معروفی صاحب منوی	۱۳۳۰ھ	درجہ وسطیٰ ب	۱۳۴۰ھ
۳۹	جناب مولانا فہیم الدین صاحب بجنوری	۱۳۳۰ھ	درجہ وسطیٰ ب	۱۳۴۰ھ
۴۰	جناب مولانا کوب عالم صاحب میرٹھی	۱۳۳۲ھ	درجہ وسطیٰ ب	۱۳۴۰ھ
۴۱	جناب مولانا محمد عادل صاحب دیوریاوی	۱۳۳۲ھ	درجہ وسطیٰ ب	۱۳۴۰ھ
۴۲	جناب مولانا اشرف عباس صاحب در بھنگوی	۱۳۳۲ھ	درجہ وسطیٰ ب	۱۳۴۰ھ
۴۳	جناب مولانا ذاکر حسین صاحب، پرولیا، بنگال	۱۳۳۲ھ	درجہ وسطیٰ ب	۱۳۴۰ھ
۴۴	جناب مولانا عمران اللہ صاحب غازی آبادی	۱۳۳۲ھ	ابتدائی عربی	۱۳۳۲ھ
۴۵	جناب مولانا جرار احمد صاحب سہارن پوری	۱۳۳۲ھ	ابتدائی عربی	۱۳۳۲ھ
۴۶	جناب مولانا محمد ناظم صاحب بجنوری	۱۳۳۲ھ	ابتدائی عربی	۱۳۳۲ھ
۴۷	جناب مولانا محمد مصطفیٰ صاحب سہارن پوری	۱۳۴۰ھ	ابتدائی عربی	۱۳۴۰ھ
۴۸	جناب مولانا محمد صابر صاحب میواتی	۱۳۴۰ھ	ابتدائی عربی	۱۳۴۰ھ
۴۹	جناب مولانا محمد اشفاق حمید صاحب پرتاب گڑھی	۱۳۴۱ھ	درجہ وسطیٰ ب	۱۳۴۱ھ
۵۰	جناب مولانا عبدالرزاق صاحب امر وہوی	۱۳۴۱ھ	درجہ وسطیٰ ب	۱۳۴۱ھ

مفتیان دارالافتاء

شمار	نام (پیدائش-وفات)	عہدہ	مدت
۱	حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن دیوبندی ۱۲۷۵-۱۳۴۷ھ / ۱۸۵۸-۱۹۲۸ء	صدر مفتی	۱۳۱۰-۱۳۴۶ھ / ۱۸۹۲-۱۹۲۷ء
۲	مفتی قاضی مسعود احمد صاحب وفات: ۱۳۸۴ھ / ۱۹۶۴ء	نائب مفتی	۱۳۳۸-۱۳۸۴ھ / ۱۹۲۰-۱۹۶۴ء
۳	حضرت مولانا اعجاز علی امر وہوی ۱۳۰۰-۱۳۷۴ھ / ۱۸۸۲-۱۹۵۵ء	صدر مفتی	پہلی بار: ۱۳۴۷-۱۳۴۸ھ / ۱۹۲۸-۱۹۲۹ء دوسری بار: ۱۳۶۳-۱۳۶۶ھ / ۱۹۴۵-۱۹۴۷ء

۴	حضرت مفتی ریاض الدین بجنوریؒ وفات: ۱۳۶۲ھ/۱۹۴۳ء	مفتی	۱۳۳۷-۱۳۳۹ھ/۱۹۲۹-۱۹۳۱ھ
۵	حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندیؒ ۱۳۱۴-۱۳۹۶ھ/۱۸۹۶-۱۹۷۶ء	صدر مفتی	پہلی بار: ۱۳۵۰-۱۳۵۴ھ/۱۹۳۱-۱۹۳۵ء دوسری بار: ۱۳۵۹-۱۳۶۲ھ/۱۹۴۰-۱۹۴۲ء
۶	حضرت مولانا محمد سہول بھاگل پوریؒ ۱۲۸۷-۱۳۶۷ھ/۱۸۷۰-۱۹۴۸ء	صدر مفتی	۱۳۵۵-۱۳۵۷ھ/۱۹۳۶-۱۹۳۸ء
۷	حضرت مفتی کفایت اللہ گنگوہیؒ ثم میرٹھی	مفتی	۱۳۵۸ھ/۱۹۳۹ء
۸	حضرت مفتی احمد علی سعید صاحب گکینویؒ	معین مفتی نائب مفتی مفتی	۱۳۵۶-۱۳۷۶ھ ۱۳۸۴-۱۳۹۸ھ ۱۳۹۸-۱۴۰۲ھ
۹	حضرت مولانا مفتی محمد فاروق انیسٹھویؒ ۱۳۰۱-۱۳۹۵ھ/۱۸۸۴-۱۹۷۵ء	مفتی	۱۳۶۲-۱۳۶۳ھ/۱۹۴۳-۱۹۴۴ء
۱۰	حضرت مفتی سید مہدی حسن شاہ جہانپوریؒ ۱۳۰۱-۱۳۹۶ھ/۱۸۸۴-۱۹۷۶ء	صدر مفتی	۱۳۶۷-۱۳۸۷ھ/۱۹۴۸-۱۹۶۷ء
۱۱	مفتی جمیل الرحمن صاحب سیوہارویؒ	نائب مفتی	۱۳۷۵-۱۳۸۶ھ/۱۹۵۵-۱۹۶۶ء
۱۲	حضرت مفتی محمود احمد نانوتویؒ، رکن شوریؒ ۱۳۱۰ھ/۱۸۹۳ء-۱۳۸۸ھ/۱۹۶۹ء	اعزازی مفتی	۱۳۸۲-۱۳۸۸ھ/۱۹۶۲-۱۹۶۹ء
۱۳	حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہیؒ ۱۳۲۵-۱۳۱۷ھ/۱۹۰۷-۱۹۹۶ء	مفتی	۱۳۸۵-۱۴۰۱ھ/۱۹۶۵-۱۹۸۱ء ۱۴۰۲-۱۴۱۷ھ/۱۹۸۲-۱۹۹۶ء
۱۴	حضرت مولانا مفتی نظام الدین اعظمیؒ ۱۳۲۸-۱۴۲۰ھ/۱۹۱۰-۲۰۰۰ء	مفتی	۱۳۸۵-۱۴۲۰ھ/۱۹۶۵-۲۰۰۰ء
۱۵	مفتی کفیل الرحمن نشاط صاحب دیوبندیؒ ۱۹۳۹ء-۲۰۰۶ء	نائب مفتی	۱۳۹۷-۱۴۲۷ھ/۱۹۷۷-۲۰۰۶ء
۱۶	حضرت مفتی حبیب الرحمن صاحب خیرآبادی	مفتی	۱۴۰۲ھ تا حال

۱۷	حضرت مفتی ظفر الدین صاحب مفتاحی ۱۳۳۴-۱۳۳۲ھ/۱۹۲۶-۲۰۱۱ء	مفتی	۱۴۰۳-۱۴۲۹ھ/۱۹۸۳-۲۰۰۸ء
۱۸	مفتی محمد طاہر صاحب غازی آبادی	نائب مفتی	۱۴۱۴-۱۴۱۷ھ/۱۹۹۳-۱۹۹۶ء
۱۹	مفتی عبداللہ صاحب کشمیری	نائب مفتی	۱۴۱۸-۱۴۲۴ھ/۱۹۹۷-۲۰۰۳ء
۲۰	حضرت مفتی محمود حسن صاحب بلند شہری	مفتی	۱۴۰۹ھ تا ۱۴۳۳ھ (مع تدریس) ۱۴۳۳ھ تا حال
۲۱	حضرت مفتی زین الاسلام صاحب الہ آبادی	نائب مفتی مفتی	۱۴۲۶-۱۴۳۳ھ ۱۴۳۳ھ تا حال
۲۲	جناب مفتی فخر الاسلام صاحب کشی نگری	معین مفتی نائب مفتی	۱۴۲۶-۱۴۳۳ھ ۱۴۳۳ھ تا حال
۲۳	جناب مفتی وقار علی صاحب نالندوی	معین مفتی نائب مفتی	۱۴۲۶-۱۴۳۳ھ ۱۴۳۳ھ تا حال
۲۴	جناب مفتی رفیق احمد صاحب میواتی	معین مفتی	۱۴۲۶-۱۴۲۸ھ
۲۵	جناب مفتی محمد نعمان صاحب سیتاپوری	معین مفتی	۱۴۳۳ھ تا حال
۲۶	جناب مفتی محمد مصعب صاحب علی گڑھی	معین مفتی	۱۴۳۵ھ تا حال
۲۷	جناب مفتی اسد اللہ صاحب آسامی	معین مفتی	۱۴۳۵ھ تا حال

دیگر اساتذہ و معلمین

اساتذہ قراءہ و تجوید

شمار	مدرسین درجہ قراءہ و تجوید	ابتدائی سن	آخری سن
۱	حضرت قاری عبدالوحید خاں صاحب الہ آبادی، صدر القراء	۱۳۲۱ھ	۱۳۵۶ھ
۲	مولانا حافظ قاری محمد شفیع صاحب	۱۳۲۹ھ	۱۳۳۱ھ
۳	قاری محمد یامین صاحب منگلوری	۱۳۲۱ھ	۱۳۲۹ھ
۴	مولانا قاری اصغر علی صاحب بعده مدرس عربی	۱۳۲۷ھ	۱۳۵۷ھ
۵	حضرت مولانا قاری حفظ الرحمن پرتاب گڑھی، صدر ۱۳۵۶ھ	۱۳۵۰ھ	۱۳۸۸ھ
۶	حضرت مولانا قاری عتیق احمد دیوبندی، صدر ۱۳۸۸ھ	۱۳۵۰ھ	۱۳۹۷ھ
۷	مولانا قاری محمد اسحاق صاحب پتھر ایونی	۱۳۵۲ھ	۱۳۶۱ھ
۸	قاری عبدالباری صاحب	۱۳۵۳ھ	۱۳۵۶ھ
۹	مولانا قاری اعزاز احمد عرف احمد میاں امرہوی	۱۳۵۷ھ	۱۴۰۲ھ
۱۰	قاری جلیل الرحمن صاحب دیوبندی	۱۳۶۰ھ	۱۴۰۶ھ
۱۱	مولانا قاری محمد نعمان صاحب بلیاوی	۱۳۷۴ھ	۱۴۰۲ھ
۱۲	حضرت قاری عبداللہ سلیم صاحب دیوبندی، صدر ۱۳۹۷ھ	۱۳۸۸ھ	۱۴۰۲ھ
۱۳	قاری سعید عالم صاحب مظفرنگری	۱۳۹۸ھ	۱۴۰۲ھ
۱۴	قاری احمد اللہ صاحب بھاگل پوری	۱۴۰۲ھ	۱۴۰۳ھ
۱۵	قاری ابوالحسن صاحب اعظمی	۱۴۰۲ھ	۱۴۳۲ھ
۱۶	قاری عبدالجلیل صاحب منی پوری	۱۴۰۳ھ	۱۴۰۲ھ
۱۷	قاری عبدالحفیظ صاحب ماٹکوی	۱۴۰۳ھ	۱۴۳۳ھ

۱۸	قاری جمشید علی صاحب سہارن پوری	۱۲۰۴ھ	تاحال
۱۹	قاری عبدالرؤف صاحب بلند شہری	۱۲۰۵ھ	تاحال
۲۰	قاری شفیق الرحمن صاحب بلند شہری	۱۲۱۱ھ	تاحال
۲۱	قاری جہاں گیر ناصر امر و ہوی	۱۲۱۲ھ	۱۲۱۷ھ
۲۲	قاری عبداللہ صاحب راجستھانی	۱۲۱۷ھ	۱۲۳۱ھ
۲۳	قاری عبدالقیوم صاحب مظفر نگری	۱۲۱۸ھ	۱۲۲۳ھ
۲۴	قاری محمد یوسف صاحب سہارن پوری	۱۲۱۹ھ	تاحال
۲۵	قاری محمد آفتاب صاحب امر و ہوی	۱۲۲۳ھ	تاحال
۲۶	قاری محمد ارشاد صاحب غازی آبادی	۱۲۳۲ھ	تاحال
۲۷	قاری عبدالرب صاحب گوئڈوی	۱۲۳۲ھ	۱۲۳۶ھ
۲۸	قاری اقرار احمد صاحب بجنوری	۱۲۳۶ھ	تاحال

مدرسین درجہ فارسی

شمار	مدرسین درجہ فارسی	ابتدائی سن	آخری سن
۱	حافظ احمد حسن صاحب	۱۲۸۹ھ	۱۳۰۷ھ
۲	مولانا نہال احمد صاحب	۱۲۸۹ھ	۱۲۹۰ھ
۳	مولانا شہاب الدین صاحب	۱۲۹۰ھ	۱۲۹۱ھ
۴	مولانا حافظ محمد یاسین صاحب	۱۳۰۰ھ	۱۳۰۵ھ
۵	پیر جی محمد محسن صاحب دیوبندی	۱۳۰۲ھ	۱۳۰۷ھ
۶	مولانا محمد یاسین صاحب دیوبندی	۱۳۰۸ھ	۱۳۵۳ھ
۷	منشی محمد یوسف علی صاحب	۱۳۰۹ھ	۱۳۱۰ھ
۸	منشی منظور احمد صاحب دیوبندی	۱۳۱۰ھ	۱۳۵۰ھ
۹	منشی محمد عاقل صاحب دیوبندی	۱۳۳۹ھ	۱۳۶۲ھ
۱۰	منشی بشیر احمد صاحب	۱۳۵۰ھ	۱۳۵۰ھ

۱۱	مولانا نور الحسن صاحب دیوبندی	۱۳۵۰ھ	۱۳۵۶ھ
۱۲	مولانا مشتاق احمد صاحب چرتھاولی	۱۳۵۵ھ	۱۳۵۶ھ
۱۳	مولانا محمد فاروق صاحب گنگوہی	۱۳۵۵ھ	۱۳۵۶ھ
۱۴	مولانا ظہیر احمد صاحب گھنچھانوی	۱۳۵۷ھ	۱۳۸۹ھ
۱۵	جناب منشی احمد حسن صاحب عرف ماسٹر کلن دیوبندی	۱۳۵۷ھ	۱۳۶۷ھ
۱۶	مولانا سید حسن صاحب دیوبندی	۱۳۵۷ھ	۱۳۶۷ھ
۱۷	مولانا احمد حسن صاحب دیوبندی، مقتش	۱۳۵۹ھ	۱۳۶۲ھ
۱۸	حاجی شاہ عزیز حسین صاحب گنگوہی بعده نگرال دارالتر بیت	۱۳۶۰ھ	۱۳۷۷ھ
۱۹	مولانا اناج الحسینی صاحب گلاؤٹھی	۱۳۶۲ھ	۱۳۶۷ھ
۲۰	مولانا رحم الہی صاحب راجوپوری	۱۳۶۳ھ	۱۴۰۱ھ
۲۱	مولانا فیض محمد صاحب کوکب جوالاپوری	۱۳۶۷ھ	۱۳۶۸ھ
۲۲	مولانا مشفق حسین صاحب دیوبندی	۱۳۶۷ھ	۱۴۰۵ھ
۲۳	مولانا شمیم احمد صاحب دیوبندی	۱۳۶۹ھ	۱۴۰۵ھ
۲۴	مولانا فضیل الرحمن صاحب ہلال دیوبندی	۱۳۸۰ھ	۱۳۹۳ھ
۲۵	مولانا شاہد حسن صاحب دیوبندی	۱۳۹۳ھ	۱۳۹۷ھ
۲۶	مولانا سرور احمد صاحب دیوبندی	۱۳۹۵ھ	۱۴۲۱ھ
۲۷	مولانا اعزاز الحسین صاحب	۱۳۹۶ھ	۱۴۱۳ھ

مدرسین دینیات

شمار	مدرسین دینیات	ابتدائی سن	آخری سن
۱	ماسٹر ظفر احمد صاحب کالو دیوبندی	۱۳۷۲ھ	۱۳۹۳ھ
۲	مولانا نور الحسن صاحب مراد آبادی	۱۳۷۳ھ	۱۴۲۳ھ
۳	مولانا محمد خالد صاحب رامپوری	۱۳۷۳ھ	۱۴۱۸ھ
۴	مولانا کفیل احمد صاحب علوی	۱۳۷۸ھ	۱۴۱۷ھ

۵	مولانا شاہد حسن صاحب دیوبندی	۱۳۸۱ھ	۱۳۹۲ھ
۶	مولانا محمد عقیل صاحب دیوبندی	۱۳۹۳ھ	۱۴۲۱ھ

مدرسین دینیات اردو و فارسی

دارالعلوم میں پہلے فارسی اور اردو دینیات کے دو مختلف شعبے تھے، ۱۴۰۴ھ میں اردو دینیات اور شعبہ فارسی کا انضمام کر دیا گیا اور نئے نصاب کو منظوری دی گئی۔

شمار	مدرسین دینیات اردو و فارسی	ابتدائی سن	آخری سن
۱	مولانا سہیل عزیز صاحب دیوبندی	۱۳۹۹ھ	تاحال
۲	مولانا برہان الحق صاحب دیوبندی	۱۴۰۵ھ	تاحال
۳	مولانا اسجد الحسنی صاحب سہارن پوری	۱۴۱۶ھ	۱۴۲۰ھ
۴	مولانا قمر الاسلام دیوبندی	۱۴۲۷ھ	۱۴۳۷ھ
۵	ماسٹر انتظار علی صاحب سہارن پوری	۱۴۲۳ھ	۱۴۳۷ھ
۶	مولانا محمد قاسم صاحب میرٹھی	۱۴۳۷ھ	تاحال
۷	مولانا محمد عدنان صاحب ہریدواری	۱۴۳۷ھ	تاحال

مدرسین درجہ حفظ و ناظرہ

شمار	مدرسین حفظ	ابتدائی سن	آخری سن
۱	حافظ نام دار خاں صاحب	۱۴۸۷ھ	۱۳۳۹ھ
۲	حافظ محمد عظیم صاحب	۱۳۰۹ھ	۱۳۲۳ھ
۳	حافظ محمد ہاشم خاں صاحب	۱۳۲۲ھ	۱۳۴۷ھ
۴	حافظ نور محمد صاحب	۱۳۲۷ھ	۱۳۶۱ھ
۵	پیر جی شریف احمد صاحب گنگوہی	۱۳۳۹ھ	۱۳۹۳ھ
۶	حافظ کالے خاں صاحب	۱۳۴۰ھ	۱۳۵۴ھ
۷	قاری بشیر احمد صاحب	۱۳۴۲ھ	چند ماہ
۸	حافظ داؤد احمد صاحب	۱۳۴۴ھ	چند ماہ

۱۳۵۶ھ	۱۳۳۵ھ	حافظ شریف احمد صاحب دیوبندی	۹
۱۳۵۳ھ	۱۳۵۳ھ	قاری انعام الہی صاحب دیوبندی	۱۰
۱۳۱۲ھ	۱۳۵۶ھ	قاری حافظ محمد کامل صاحب دیوبندی	۱۱
۱۳۰۵ھ	۱۳۵۹ھ	مولانا حافظ عبدالرقيب صاحب دیوبندی	۱۲
۱۳۹۴ھ	۱۳۶۰ھ	حافظ بشیر الحق صاحب دیوبندی	۱۳
۱۳۹۹ھ	۱۳۷۴ھ	قاری محمود احمد صاحب دیوبندی	۱۴
۱۳۲۲ھ	۱۳۸۶ھ	قاری حافظ انور حسین صاحب	۱۵
۱۳۲۸ھ	۱۳۹۷ھ	قاری رفعت صاحب دیوبندی	۱۶
۱۳۱۹ھ	۱۳۹۹ھ	حافظ عبدالرب صاحب	۱۸
۱۳۲۸ھ	۱۳۹۹ھ	حافظ محمد عاصم صاحب دیوبندی	۱۹
تاحال	۱۳۳۱ھ	دوبارہ	
۱۳۱۹ھ	۱۳۰۴ھ	حافظ عبدالرشید صاحب	۲۰
تاحال	۱۳۱۲ھ	قاری عبداللہ کلیم صاحب سہارن پوری	۲۱
تاحال	۱۳۱۳ھ	قاری اسلام الدین صاحب مظفرنگری	۲۲
۱۳۲۲ھ	۱۳۱۵ھ	قاری محمد الیاس صاحب یمنانگری	۲۳
تاحال	۱۳۲۱ھ	قاری اسجد الحسنی صاحب سہارن پوری	۲۴
تاحال	۱۳۱۶ھ	قاری ریاست علی صاحب مظفرنگری	۲۵
۱۳۲۱ھ	۱۳۱۸ھ	حافظ محمد عقیل صاحب بجنوری	۲۶
۱۳۲۸ھ	۱۳۱۸ھ	حافظ خورشید عالم صاحب بجنوری	۲۷
۱۳۲۹ھ	۱۳۱۹ھ	قاری عبداللہ فرید صاحب	۲۸
تاحال	۱۳۱۹ھ	قاری محمد عرفان صاحب مظفرنگری	۲۹
تاحال	۱۳۱۹ھ	حافظ محمد ارشد صاحب بجنوری	۳۰
تاحال	۱۳۲۱ھ	قاری محمد فوزان صاحب دیوبندی	۳۱
تاحال	۱۳۲۱ھ	قاری محمد ارشاد صاحب مظفرنگری	۳۲

۳۳	قاری محمد عرفان صاحب ہریدواری	۱۳۲۱ھ	۱۳۲۵ھ
۳۴	قاری محمد اکرام صاحب رامپوری	۱۳۲۲ھ	تاحال
۳۵	قاری محمد ظہیر صاحب مظفرنگری	۱۳۲۳ھ	تاحال
۳۶	حافظ محبوب عالم صاحب دیوبندی	۱۳۲۳ھ	تاحال
۳۷	حافظ فیصل عزیز صاحب دیوبندی	۱۳۲۳ھ	۱۳۳۰ھ
۳۸	قاری صغیر احمد صاحب رامپوری	۱۳۲۴ھ	تاحال
۳۹	قاری بشیر احمد صاحب ہریدواری	۱۳۲۴ھ	۱۳۳۰ھ
۴۰	حافظ محمد اشرف صاحب سہارن پوری	۱۳۲۴ھ	۱۳۲۸ھ
۴۱	قاری عظمت علی صاحب بستوی	۱۳۲۶ھ	تاحال
۴۲	قاری منور اقبال صاحب سہارن پوری	۱۳۲۶ھ	تاحال
۴۳	حافظ محمد فاروق صاحب مظفرنگری	۱۳۲۷ھ	تاحال
۴۴	قاری محمد طارق صاحب لکھنؤ پوری	۱۳۲۸ھ	تاحال
۴۵	حافظ محمد طیب صاحب دیوبندی	۱۳۳۲ھ	تاحال

معلمین شعبہ خوش نویسی

شمار	نظام و مدبرین خوش نویسی	ابتدائی سن	آخری سن
۱	منشی محبوب علی صاحب، ناظم و معلم	۱۳۳۲ھ	۱۳۳۹ھ
۲	مولانا اشتیاق احمد صاحب، ناظم و معلم	۱۳۴۱ھ	۱۳۴۵ھ
۳	مولانا نور اللہ صاحب نواکھالی، ناظم و معلم	۱۳۵۲ھ	۱۳۵۶ھ
۴	مولانا اشتیاق احمد صاحب، ناظم شعبہ خوش نویسی	۱۳۶۴ھ	۱۳۹۵ھ
۵	مولوی محمد حیات صاحب دیوبندی، معلم	۱۳۶۴ھ	۱۳۸۹ھ
۶	منشی امتیاز علی صاحب دیوبندی، معلم	۱۳۶۴ھ	۱۴۰۲ھ
۷	منشی محبوب کریم صاحب دیوبندی، معلم	۱۳۶۴ھ	۱۳۸۰ھ
۸	مولانا گل رحیم اسامی، معلم خوش نویسی	۱۳۶۴ھ	۱۳۶۵ھ

۹	مولانا شکور احمد صاحب دیوبندی	۱۳۸۲ھ	۱۳۹۴ھ
۱۰	مولانا فضل الرحمن صاحب درہنگوی	۱۳۹۴ھ	۱۳۲۳ھ
۱۱	منشی عتیق احمد صاحب دیوبندی	۱۳۹۵ھ	۱۴۰۷ھ
۱۲	مولانا مقبول احمد صاحب بناری	۱۴۰۲ھ	۱۴۰۴ھ
۱۳	منشی محمد وجاہت صاحب عثمانی، صدر معلم	۱۴۰۴ھ	۱۳۲۳ھ
۱۴	مولانا نیاز الدین اصلاحی صاحب جون پوری	۱۴۰۶ھ	تاحال
۱۵	مولانا عبدالجبار صاحب گڈاوی، صدر معلم	۱۴۲۹ھ	تاحال
۱۶	منشی منصور احمد صاحب دیوبندی	۱۴۳۰ھ	تاحال

معلمین شعبہ دارالصنائع

شمار	نظماء و مدرسین	ابتدائی سن	آخری سن
۱	مولانا خلیق احمد صاحب، ناظم	۱۳۶۷ھ	
۲	مولانا محمد طاہر صاحب قاسمی، ناظم	۱۳۶۸ھ	۱۳۷۱ھ
۳	مولانا خالد سیف اللہ صاحب گنگوہی، ناظم	۱۳۷۲ھ	۱۳۷۸ھ
۴	مولانا احمد علی سعید صاحب گنگوہی، ناظم	۱۳۷۶ھ	۱۳۸۰ھ
۵	منشی مطلوب احمد صاحب دیوبندی، معلم جلد سازی	۱۳۶۵ھ	۱۳۸۶ھ
۶	منشی افضل احمد صاحب دیوبندی، معلم چرم دوزی	۱۳۶۸ھ	ایک سال
۷	منشی محمد کامل صاحب دیوبندی، معلم چرم دوزی	۱۳۶۸ھ	چند ماہ
۸	منشی شوکت حسین صاحب دیوبندی، معلم جلد سازی	۱۳۶۸ھ	۱۴۱۳ھ
۹	ماسٹر احمد حسن صاحب، معلم خیاطی	۱۳۷۰ھ	۱۳۷۱ھ
۱۰	ماسٹر رشید احمد صاحب دیوبندی، معلم خیاطی	۱۳۷۰ھ	۱۳۸۹ھ
۱۱	منشی احتشام غازی صاحب دیوبندی، معلم ٹائپ رائٹنگ	۱۳۷۱ھ	۱۳۷۳ھ
۱۲	ماسٹر محمد شفیق صاحب دیوبندی، معلم خیاطی	۱۳۷۲ھ	۱۴۰۲ھ
۱۳	مولوی معین الدین صاحب حیدرآبادی، معلم چرم دوزی	۱۳۷۴ھ	۱۴۰۲ھ

۱۴	جناب محمد داؤد خان صاحب، معلم گھڑی سازی	۱۳۷۳ھ	۱۳۷۴ھ
۱۵	منشی طالب حسین صاحب، معلم چرم دوزی	۱۳۹۸ھ	۱۴۰۲ھ
۱۶	ماسٹر محمد اختر صاحب دیوبندی، معلم خیاطی (تقرر: ۱۳۶۵ھ)	۱۴۰۲ھ	تاحال
۱۷	جناب محمد شاداب صاحب قدوسی، معلم تجلید	۱۴۱۶ھ	۱۴۱۹ھ
۱۸	قاری ممتاز احمد صاحب، نائب معلم خیاطی	۱۴۱۹ھ	تاحال
۱۹	جناب محمد انجم صاحب دیوبندی، معلم تجلید	۱۴۲۳ھ	۱۴۳۲ھ

معلمین شعبہ کمپیوٹر

شمار	مدرس کمپیوٹر	ابتدائی سن	آخری سن
۱	مولانا عبدالسلام صاحب قاسمی	۱۴۱۶ھ	تاحال
۲	مولانا عبدالہادی قاسمی، معاون استاذ	۱۴۲۰ھ	۱۴۲۴ھ

مدرسین انگریزی

شمار	مدرسین	ابتدائی سن	آخری سن
۱	مولانا عزیز احمد صاحب بی اے، معلم انگریزی	۱۳۸۰ھ	۱۳۹۰
۲	مولانا ڈاکٹر اعجاز الدین صاحب، لیکچرار	۱۳۸۵ھ	۱۴۰۲ھ
۳	مولوی مشتاق احمد صاحب، معلم انگریزی	۱۳۸۷ھ	۱۳۹۰ھ
۴	مولانا عبید اللہ صاحب سیوانی، استاذ شعبہ انگریزی	۱۴۲۲ھ	۱۴۳۲ھ
۵	مولانا محمد افضل صاحب سیتا مڑھی	۱۴۲۲ھ	۱۴۲۷ھ
۶	مولانا سعید انور صاحب پٹوی	۱۴۲۸ھ	۱۴۳۷ھ
۷	مولانا توقیر احمد صاحب کاندھلوی	۱۴۳۲ھ	تاحال
۸	مولانا عبدالملک صاحب بجنوری	۱۴۳۷ھ	تاحال
۹	مولانا عبدالحمید یوسف صاحب سدھارتھ نگری	۱۴۳۸ھ	تاحال

نظماء و معلمین شعبہ طب و جامعہ طیبہ

شمار	نظماء و معلمین شعبہ طب و طیبہ	ابتدائی سن	آخری سن
۱	حضرت مولانا حکیم محمد حسن صاحب دیوبندی، ناظم شعبہ طب و طیبہ	۱۳۰۱ھ	۱۳۲۵ھ
۲	مولانا حکیم سید مرتضیٰ حسن صاحب، طیبہ	۱۳۲۵ھ	۱۳۲۸ھ
۳	مولانا حکیم رمضان الحق صاحب لکھنؤ پوری ناظم شعبہ طب و طیبہ	۱۳۲۸ھ	۱۳۲۹ھ
۴	مولانا حکیم محمد عمر صاحب دیوبندی، طیبہ و پرنسپل جامعہ طیبہ	۱۳۵۰ھ	۱۴۰۶ھ
۵	مولانا حکیم انیس احمد صاحب دیوبندی نائب طیبہ و معلم طب	۱۳۷۲ھ	۱۴۰۶ھ
۶	حکیم عبدالکریم صاحب معلم طب	۱۳۸۰ھ	۱۳۸۳ھ
۷	مولانا حکیم سید محفوظ علی صاحب	۱۳۸۰ھ	صرف چند ماہ
۸	مولانا حکیم محمد وسیم صاحب قدوائی فیض آبادی معلم طب	۱۳۸۱ھ	۱۳۸۲ھ
۹	مولانا حکیم سید محمد ایوب صاحب فرخ آبادی //	۱۳۸۱ھ	۱۳۸۳ھ
	دوبارہ	۱۳۸۵ھ	۱۳۸۸ھ
۱۰	مولانا حکیم سید نفیس صاحب خانجہاں پوری //	۱۳۸۲ھ	۱۴۰۶ھ
۱۱	مولانا حکیم عزیز الرحمن صاحب اعظمی //	۱۳۸۲ھ	۱۴۰۶ھ
۱۲	حکیم شمیم احمد صاحب سعیدی میرٹھی //	۱۳۸۳ھ	۱۴۰۶ھ
۱۳	حکیم عطاء الرحمن خان صاحب دیوبندی //	۱۳۸۵ھ	چند ماہ
۱۴	حکیم عبدالقیوم خان صاحب مظفرنگری //	۱۳۸۸ھ	۱۳۹۰ھ
۱۵	مولانا حکیم عبدالحمید صاحب بستوی //	۱۳۹۲ھ	۱۴۰۶ھ

نظماء و عہدہ داران دفاتر

نظماء و ذمہ داران دفتر اہتمام

۱	مولانا بشیر حسین صاحب گینوی	۱۳۲۵ھ	۱۳۵۲ھ
۲	مولانا محمد یحییٰ صاحب (پیش کار صدر مہتمم)	۱۳۵۲ھ	۱۳۵۸ھ
۳	حاجی شاہ عزیز حسین صاحب گنگوہی	۱۳۵۷ھ	۱۳۶۰ھ
☆	۱۳۶۱ھ میں کوئی نہیں رہا		
۴	مولانا حامد الانصاری غازی صاحب	۱۳۶۲ھ	ایک سال
☆	۱۳۶۳-۱۳۷۰ھ کوئی نہیں رہا		
۵	مولانا عبدالحق صاحب غازی پوری	۱۳۷۱ھ	۱۴۰۰ھ
۶	مولانا عبدالرؤف صاحب عالی	۱۴۰۰ھ	۱۴۰۲ھ
۷	جناب بابوطاہر صاحب	۱۴۰۲ھ	۱۴۲۲ھ
۸	جناب محمد عدنان صاحب عثمانی (تقرر: ۱۴۰۲ھ)	۱۴۲۳ھ	تاحال

نظماء و ذمہ داران شعبہ محافظ خانہ

۱	منشی سید محمد شفیع صاحب حسن پوری (مراد آباد)	۱۳۵۶ھ	۱۳۶۰ھ
۲	منشی عظیم بخش صاحب دیوبندی مرحوم	۱۳۶۰ھ	۱۳۶۶ھ
۳	سید محبوب صاحب رضوی دیوبندی	۱۳۶۶ھ	۱۳۹۹ھ
۴	مولانا عبدالرؤف صاحب عالی	۱۳۹۹ھ	۱۴۰۰ھ
۵	مولانا عبدالحق صاحب غازی پوری	۱۴۰۰ھ	۱۴۰۲ھ
۶	منشی حافظ جواد صاحب دیوبندی	۱۴۰۲ھ	۱۴۱۱ھ
۷	منشی طالب حسین صاحب مظفرنگری	۱۴۱۲ھ	۱۴۳۹ھ

۸	مولانا عبدالسلام صاحب میرٹھی (اضافی چارج)	۱۳۳۹ھ	تاحال
---	---	-------	-------

نظماء و ذمہ داران دفتر محاسبی

۱	مولانا بشیر حسین صاحب ٹگینوی	۱۳۵۳ھ	۱۳۵۴ھ
۲	ماسٹر طفیل احمد صاحب بی، اے	۱۳۵۴ھ	۱۳۵۵ھ
۳	بابو سعید احمد صاحب عثمانی دیوبندی	۱۳۵۲ھ	۱۳۶۲ھ
۴	مولانا عبدالواحد صاحب دیوبندی	۱۳۶۲ھ	۱۳۹۱ھ
۵	منشی سید محمد شفیع صاحب دیوبندی	۱۳۹۱ھ	۱۳۹۲ھ
۶	منشی سید عرفان الحسن صاحب	۱۳۹۲ھ	۱۳۹۳ھ
۷	منشی شوکت صاحب سیکروی مظفرنگری	۱۳۹۳ھ	۱۳۹۷ھ
۸	منشی مسعود جاوید صاحب عثمانی	۱۳۹۸ھ	۱۴۰۸ھ
۹	جناب محمد عادل صاحب صدیقی	۱۴۰۹ھ	۱۴۳۴ھ
۱۰	جناب نیر عثمانی صاحب دیوبندی (تقرر: ۱۳۹۹ھ)	۱۴۳۵ھ	تاحال

نظماء و ذمہ داران شعبہ مطبخ

۱	منشی مظہر الحق صاحب دیوبندی	۱۳۵۲ھ	۱۳۹۸ھ
۲	منشی عرفان الحسن صاحب	۱۳۹۸ھ	۱۴۰۲ھ
۳	مولوی محمد اشرف صاحب دیوبندی	۱۴۰۷ھ	۱۴۰۹ھ
۴	منشی نواب حسین صاحب (چارج)	۱۴۱۰ھ	۱۴۱۴ھ
۵	مولانا محمد شمیم صاحب لکھنیم پوری (تقرر: ۱۴۰۳ھ)	۱۴۱۵ھ	۱۴۱۹ھ
۶	جناب محمد سرور صاحب دیوبندی (تقرر: ۱۴۰۲ھ)	۱۴۲۰ھ	تاحال

نظماء و ذمہ داران شعبہ اوقاف

۱	منشی سید مشتاق حسین صاحب خوجوی	۱۳۳۵ھ	۱۳۴۷ھ
☆	کوئی ناظم نہیں رہا۔	۱۳۴۸ھ	۱۳۴۸ھ

۲	مولانا نور الحسن صاحب دیوبندی	۱۳۳۹ھ	ایک سال
۳	مولانا رحمت علی صاحب پھچوندوی	۱۳۵۰ھ	۱۳۵۲ھ
۴	منشی مرتضیٰ حسن صاحب سیکروی	۱۳۵۲ھ	۱۳۵۳ھ
☆	کوئی ناظم نہیں رہا۔	۱۳۵۲ھ	۱۳۵۸ھ
۵	مولوی محمد احمد صاحب گگنوی	۱۳۵۹ھ	۱۳۶۰ھ
۶	سید شوکت حسین صاحب	۱۳۶۱ھ	۱۳۶۲ھ
۷	منشی حامد حسین صاحب	۱۳۶۳ھ	۱۳۶۴ھ
۸	پیر جی محمد عمر صاحب قدوسی گنگوہی	۱۳۶۵ھ	۱۳۷۲ھ
۹	مولوی عبدالواحد صاحب (اضافی چارج)	۱۳۷۳ھ	
۱۰	مولوی محمد ہاشم صاحب	۱۳۸۵ھ	۱۳۹۰ھ
۱۱	منشی سید زاہد حسن صاحب	۱۳۹۰ھ	۱۴۰۲ھ
۱۲	منشی مظاہر حسین صاحب	۱۴۰۲ھ	۱۴۲۲ھ
۱۳	مولانا محمد مرتضیٰ صاحب (تقرر: ۱۴۱۳ھ)	۱۴۳۰ھ	تاحال

نظماء و ذمہ داران شعبہ تعمیرات

۱	مولانا رحمت علی صاحب پھچوندوی	۱۳۳۲ھ	۱۳۴۰ھ
☆	کوئی ناظم نہیں رہا۔	۱۳۴۱ھ	۱۳۴۳ھ
۲	حافظ عزیز الرحمن صاحب سیکروی	۱۳۴۳ھ	۱۳۴۴ھ
۳	مولانا حافظ نور الحسن صاحب دیوبندی	۱۳۴۴ھ	۱۳۴۵ھ
۴	حاجی محمد قاسم صاحب دیوبندی	۱۳۴۵ھ	۱۳۶۲ھ
۵	منشی محمد مظہر صاحب فاروقی گنگوہی	۱۳۶۲ھ	۱۳۶۷ھ
۶	بابورفیق احمد صاحب دیوبندی	۱۳۶۸ھ	۱۳۷۶ھ
۷	بابو محبوب حسن صاحب دیوبندی	۱۳۷۷ھ	۱۳۸۵ھ
۸	بابو محمد یحییٰ صاحب	۱۳۸۷ھ	۱۳۸۸ھ
۹	بابو اعزاز احمد صاحب	۱۳۸۸ھ	۱۳۸۹ھ

۱۰	مولوی عبدالواحد صاحب	۱۳۹۱ھ	۱۳۹۲ھ
۱۱	منشی سید محمد شفیع صاحب دیوبندی	۱۳۹۲ھ	۱۳۹۵ھ
۱۲	منشی محمد خورشید صاحب، اوور سیر	۱۳۹۷ھ	۱۴۱۰ھ
۱۳	حضرت مولانا وحید الزماں صاحب کیرانوی	۱۴۰۵ھ	۱۴۰۷ھ
۱۴	حضرت مولانا عبدالحق صاحب مدراسی	۱۴۰۸ھ	تاحال
۱۵	جناب نظر الاسلام صاحب آسامی، انجینئر	۱۴۲۵ھ	تاحال

نظماء و ذمہ داران کتب خانہ

۱	مولانا عبدالحفیظ صاحب در بھنگوی	۱۳۳۲ھ	۱۳۳۵ھ
۲	مولانا رحمت علی صاحب پھونڈوی	۱۳۲۹ھ	۱۳۲۹ھ
۳	مولانا محمد طاہر صاحب قاسمی دیوبندی	۱۳۵۰ھ	۱۳۵۰ھ
	دو بارہ	۱۳۵۲ھ	۱۳۵۳ھ
۴	پیر جی محمد عمر صاحب قدوسی گنگوہی	۱۳۵۱ھ	۱۳۵۱ھ
۵	مولانا بشیر حسین صاحب گینگوی	۱۳۵۱ھ	۱۳۵۲ھ
۶	مولانا سلطان الحق صاحب بجنوری	۱۳۵۵ھ	۱۴۰۶ھ
۷	مفتی ظفر الدین صاحب مفتاحی، مدیر کتب خانہ	۱۳۸۲ھ	۱۴۰۳ھ
۸	مولانا حکیم عبدالحمید صاحب بستوی	۱۴۰۶ھ	۱۴۳۳ھ
۹	مولانا محمد شمیم صاحب لکھیم پوری، چارج	۱۴۳۳ھ	۱۴۳۳ھ
۱۰	ڈاکٹر محمد سجاد صاحب عثمانی، چارج	۱۴۳۵ھ	چند ماہ
۱۱	مولانا محمد امین صاحب فیض آبادی، چارج	۱۴۳۵ھ	۱۴۳۶ھ
۱۲	مولانا شفیق احمد صاحب سلطان پوری، چارج	۱۴۳۶ھ	تاحال

نظماء و ذمہ داران شعبہ تنظیم و ترقی

۱	مولانا عبدالوحید صاحب غازی پوری	۱۳۵۲ھ	۱۳۷۰ھ
۲	مولانا محمود احمد صاحب گل گینگوی	۱۳۷۱ھ	۱۴۰۳ھ

۳	قاری فخر الدین صاحب غازی آبادی	۱۳۰۵ھ	۱۳۳۸ھ
۴	جناب اشرف عثمانی صاحب دیوبندی، چارج (تقرر ۱۳۰۹ھ)	۱۳۳۸ھ	۱۳۳۰ھ
۵	مولانا محمد راشد صاحب مظفرنگری (تقرر: ۱۳۱۴ھ)	۱۳۳۰ھ	تاحال

مدیران اردو رسائل

۱	حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب عثمانی، مدیر رسالہ 'القاسم'	۱۳۲۸ھ	۱۳۳۹ھ
۲	حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب عثمانی، مدیر رسالہ 'الرشید'	۱۳۳۲ھ	۱۳۳۹ھ
۳	مولانا میاں اصغر حسین صاحب دیوبندی، معین مدیر		
۴	مولانا مناظر احسن صاحب گیلانی، معین مدیر	۱۳۳۲ھ	۱۳۳۷ھ
۵	مولانا سید سراج احمد صاحب، معتمد مدیر		
☆	دونوں رسالے بند رہے۔	۱۳۳۰ھ	۱۳۳۳ھ
۶	مولانا محمد طاہر قاسمی، نائب مدیر 'القاسم'	۱۳۳۲ھ	۱۳۳۷ھ
☆	۱۳۵۹ھ تک کوئی رسالہ نہیں نکلا۔		
۷	مولانا عبدالوحید صاحب غازی پوری ایڈیٹر رسالہ 'دارالعلوم'	۱۳۶۰ھ	۱۳۶۴ھ
۸	مولانا خلیق احمد صاحب سر دھنوی ایڈیٹر رسالہ 'دارالعلوم'	۱۳۶۵ھ	۱۳۶۸ھ
۹	مولانا عبدالحفیظ صاحب بلیاوی ایڈیٹر رسالہ 'دارالعلوم'	۱۳۶۷ھ	۱۳۶۸ھ
۱۰	جناب سید ازہر شاہ صاحب قیصر ایڈیٹر رسالہ 'دارالعلوم'	۱۳۶۸ھ	۱۴۰۲ھ
۱۱	مفتی ظفر الدین صاحب در بھنگوی، رکن ادارت رسالہ 'دارالعلوم'	۱۳۸۵ھ	۱۴۰۲ھ
۱۲	مولانا ریاست علی صاحب بجنوری، ایڈیٹر رسالہ 'دارالعلوم'	۱۴۰۲ھ	۱۴۰۵ھ
۱۳	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی اعظمی، رکن ادارت 'دارالعلوم'	۱۴۰۳ھ	۱۴۰۵ھ
	ایڈیٹر رسالہ 'دارالعلوم'	۱۴۰۵ھ	۱۳۳۸ھ
۱۴	مولانا کفیل احمد صاحب علوی، مدیر آئینہ دارالعلوم	۱۴۰۶ھ	۱۳۳۰ھ
۱۵	مولانا محمد سلمان صاحب بجنوری، ایڈیٹر رسالہ 'دارالعلوم'	۱۳۳۸ھ	تاحال

مدیران عربی رسائل

۱	مولانا وحید الزماں کیرانوی، مدیر سہ ماہی 'دعوة الحق' و 'الداعی'	۱۳۸۴ھ	۱۳۹۷ھ
۲	مولانا بدر الحسن در بھنگوی، مدیر پندرہ روزہ 'الداعی'	۱۳۹۷ھ	۱۴۰۱ھ
۳	مولانا نور عالم خلیل امینی، مدیر پندرہ روزہ 'الداعی'	۱۴۰۲ھ	۱۴۱۴ھ
	مولانا نور عالم خلیل امینی، مدیر ماہنامہ 'الداعی'	۱۴۱۴ھ	تاحال
۴	مولانا محمد عارف جمیل اعظمی، معین مدیر ماہنامہ 'الداعی'	۱۴۳۶ھ	تاحال
۵	حضرت مولانا سعید احمد اکبر آبادی، مدیر سہ ماہی 'الدراسات الإسلامية'	۱۴۰۴ھ	صرف دو شمارے
۶	مولانا محمد ساجد قاسمی ہردوئی، مدیر سہ ماہی 'النہضة الأدبية'	۱۴۴۱ھ	تاحال

نظمائے دارالاقامہ

۱	مولانا سید رحمت علی پھچھوندوی	۱۳۵۲ھ	۱۳۵۳ھ
۲	حاجی شاہ عزیز حسین صاحب گنگوہی	۱۳۵۳ھ	۱۳۵۶ھ
۳	مولانا سلطان الحق صاحب بجنوری	۱۳۵۷ھ	۱۳۵۹ھ
۴	منشی سید محمد شفیع صاحب حسن پوری	۱۳۶۰ھ	۱۳۶۳ھ
۵	مولانا حبیب اللہ صاحب میرٹھی	۱۳۶۴ھ	۱۳۶۶ھ
۶	مولانا محمد اعزاز علی صاحب امرہوی	۱۳۶۶ھ	۱۳۶۹ھ
۷	مولانا سید فخر الحسن صاحب مراد آبادی	۱۳۶۹ھ	۱۳۷۴ھ
۸	مولانا عبدالحق عرف نافع گل صاحب پشاور	۱۳۶۶ھ	۱۳۶۷ھ
۹	مولانا عبدالحق صاحب اکوڑوی	۱۳۶۶ھ	۱۳۶۷ھ
۱۰	مولانا عبدالحق صاحب ملتانی	۱۳۶۶ھ	۱۳۶۷ھ
۱۱	مولانا معراج الحق صاحب دیوبندی	۱۳۶۶ھ	۱۳۶۹ھ
۱۲	مولانا عبد الاحد صاحب دیوبندی	۱۳۶۷ھ	۱۳۶۹ھ
۱۳	مولانا محمد ابراہیم صاحب بلیاوی	۱۳۶۹ھ	۱۳۷۰ھ
۱۴	مولانا بشیر احمد خاں صاحب بلند شہری	۱۳۶۹ھ	۱۳۷۳ھ

۱۵	مولانا معراج الحق صاحب دیوبندی (دوبارہ)	۱۳۷۰ھ	۱۳۷۳ھ
۱۶	مولانا سید اختر حسین صاحب دیوبندی	۱۳۷۳ھ	۱۳۷۴ھ
۱۷	مولانا محمد حسین صاحب بہاری	۱۳۷۳ھ	۱۳۷۶ھ
۱۸	مولانا محمد نعیم صاحب دیوبندی	۱۳۷۳ھ	۱۳۷۴ھ
۱۹	مولانا عبدالاحد صاحب دیوبندی (دوبارہ)	۱۳۷۵ھ	۱۳۸۰ھ
۲۰	مولانا محمد حسین صاحب بہاری (دوبارہ)	۱۳۷۷ھ	۱۳۷۸ھ
۲۱	مولانا محمد نعیم صاحب دیوبندی (دوبارہ)	۱۳۷۷ھ	۱۳۷۷ھ
۲۲	مولانا محمد سالم صاحب قاسمی دیوبندی	۱۳۷۷ھ	۱۳۷۷ھ
۲۳	مولانا نصیر احمد خاں صاحب بلندشہری	۱۳۷۷ھ	۱۳۷۸ھ
۲۴	مولانا سید حسن صاحب دیوبندی	۱۳۷۷ھ	۱۳۷۷ھ
۲۵	مولانا بشیر احمد خاں صاحب بلندشہری (دوبارہ)	۱۳۷۸ھ	۱۳۷۹ھ
۲۶	مولانا محمد سالم صاحب قاسمی دیوبندی (دوبارہ)	۱۳۷۹ھ	۱۳۷۹ھ
۲۷	مولانا محمد حسین صاحب بہاری (سہ بارہ)	۱۳۸۰ھ	۱۳۸۱ھ
۲۸	مولانا عزیز احمد صاحب قاسمی بی، اے	۱۳۸۰ھ	۱۳۸۰ھ
۲۹	مولانا عبدالاحد صاحب دیوبندی (سہ بارہ)	۱۳۸۰ھ	۱۳۸۰ھ
۳۰	مولانا انظر شاہ صاحب کشمیری	۱۳۸۰ھ	۱۳۸۱ھ
۳۱	مولانا نصیر احمد خاں صاحب بلندشہری (دوبارہ)	۱۳۸۱ھ	۱۳۸۶ھ
۳۲	مولانا معراج الحق صاحب دیوبندی (سہ بارہ)	۱۳۸۱ھ	۱۳۸۵ھ
۳۳	مولانا محمد نعیم صاحب دیوبندی (دوبارہ)	۱۳۸۱ھ	۱۳۸۵ھ
۳۴	مولانا شریف حسن صاحب دیوبندی	۱۳۸۶ھ	۱۳۸۹ھ
۳۵	مولانا خورشید عالم صاحب دیوبندی	۱۳۸۶ھ	۱۳۸۹ھ
۳۶	مولانا محمد حسین صاحب بہاری (چوتھی بار)	۱۳۹۰ھ	۱۳۹۰ھ
۳۷	مولانا انظر شاہ صاحب کشمیری (دوبارہ)	۱۳۹۰ھ	۱۳۹۰ھ
۳۸	مولانا قمر الدین صاحب گورکھپوری	۱۳۹۰ھ	۱۳۹۰ھ

۱۳۹۶ھ	۱۳۹۱ھ	مولانا شریف حسن صاحب دیوبندی (دو بارہ)	۳۹
۱۳۹۴ھ	۱۳۹۱	مولانا خورشید عالم صاحب دیوبندی (دو بارہ)	۴۰
۱۳۹۳ھ	۱۳۹۱ھ	مولانا عزیز احمد صاحب قاسمی بی، اے (دو بارہ)	۴۱
۱۳۹۳ھ	۱۳۹۲ھ	مولانا محمد حسین صاحب بہاری (پانچویں بار)	۴۲
۱۴۰۱ھ	۱۳۹۴ھ	مولانا محمد نعیم صاحب دیوبندی (سہ بارہ)	۴۳
۱۴۰۱ھ	۱۳۹۴ھ	مولانا قمر الدین صاحب گورکھپوری (دو بارہ)	۴۴
۱۳۹۷ھ	۱۳۹۵ھ	مولانا محمد حسین صاحب بہاری (چھٹی بار)	۴۵
۱۴۰۱ھ	۱۳۹۷ھ	مولانا شکیل احمد صاحب سیتاپوری	۴۶
۱۴۰۱ھ	۱۳۹۸ھ	مولانا محمد خالد صاحب بلیاوی	۴۷

نظمائے اعلیٰ شعبہ دارالاقامہ

۱۴۰۴ھ	۱۴۰۲ھ	مولانا عزیز احمد صاحب بی اے	۱
۱۴۱۰ھ	۱۴۰۴ھ	مولانا قمر الدین صاحب گورکھپوری	۲
۱۴۱۵ھ	۱۴۱۱ھ	مولانا مفتی محمد یوسف صاحب تاڈلوی	۳
۱۴۱۸ھ	۱۴۱۵ھ	مولانا قاری محمد عثمان صاحب منصور پوری	۴
۱۴۲۳ھ	۱۴۱۸ھ	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی اعظمی	۵
۱۴۲۴ھ	۱۴۲۳ھ	مولانا خضر احمد صاحب کشمیری	۶
۱۴۲۸ھ	۱۴۲۴ھ	مولانا مفتی محمد یوسف صاحب تاڈلوی (دو بارہ)	۷
۱۴۳۲ھ	۱۴۲۸ھ	مولانا مشیر الدین صاحب گڈاوی	۸
۱۴۳۶ھ	۱۴۳۲ھ	مولانا محمد افضل صاحب کیموری	۹
تاحال	۱۴۳۶ھ	مولانا مشیر الدین صاحب گڈاوی (دو بارہ)	۱۰

نظمائے شعبہ تبلیغ و مبلغین

۱۳۳۲ھ	۱۳۲۹ھ	مولانا ہادی حسن صاحب، مبلغ	۱
۱۳۵۹ھ	۱۳۳۹ھ	مولانا سید معظم علی صاحب نجیب آبادی، مبلغ	۲

۱۳۲۰ھ	۱۳۲۲ھ	مولانا عطاء محمد صاحب، مبلغ	۳
۱۳۵۹ھ	۱۳۵۳ھ	مولانا محمد یونس صاحب بگھروی، مبلغ	۴
۱۳۶۳ھ	۱۳۵۳ھ	مولانا مفتیق الرحمن صاحب آروی، مبلغ	۵
۱۳۵۶ھ	۱۳۵۳ھ	مولانا شاہ علی صاحب بستوی، مبلغ	۶
۱۳۶۲ھ	۱۳۶۰ھ	مولانا ابوالوفا صاحب شاہجہاں پوری، ناظم	۷
۱۳۶۵ھ	۱۳۶۰ھ	مولانا عبدالجبار صاحب ابوہری، مبلغ	۸
۱۳۶۷ھ	۱۳۶۳ھ	مولانا حامد الانصاری صاحب غازی، ناظم	۹
۱۳۶۸ھ	۱۳۶۴ھ	مولانا خلیق احمد صاحب سردھنوی، مبلغ	۱۰
۱۹۸۲ء	۱۳۶۴ھ	مولانا عزیز احمد صاحب قاسمی، مبلغ	۱۱
۱۳۱۱ھ	۱۳۶۴ھ	مولانا سید سیف اللہ صاحب ہاشمی، مبلغ	۱۲
۱۳۶۸ھ	۱۳۶۵ھ	مولانا سلطان مسعود صاحب راجو پوری، مبلغ	۱۳
۱۴۰۹ھ	۱۳۶۶ھ	مولانا سید ارشاد احمد صاحب فیض آبادی، مبلغ	۱۴
۱۳۹۲ھ	۱۳۶۸ھ	مولانا انوار الحسن صاحب، مبلغ	۱۵
۱۳۷۹ھ	۱۳۷۵ھ	مولانا فرید الوحیدی صاحب فیض آبادی، مبلغ	۱۶
۱۴۰۲ھ	۱۳۸۰ھ	مولانا ابوالکلام صاحب دیوبندی، مبلغ	۱۷
۱۳۸۵ھ	۱۳۸۳ھ	مولانا عزیز احمد صاحب قاسمی فیض آبادی، ناظم	۱۸
۱۳۸۶ھ	۱۳۸۳ھ	مولانا بلال اصغر صاحب دیوبندی، مبلغ	۱۹
۱۴۰۲ھ	۱۳۹۷ھ	مولانا محمد واصف صاحب عثمانی، مبلغ	۲۰
۱۴۰۷ھ	۱۴۰۳ھ	مولانا عبدالسمیع صاحب گوٹھوی، مبلغ	۲۱
۱۴۰۵ھ	۱۴۰۳ھ	مولانا لیاقت علی صاحب اعظمی، مبلغ	۲۲
۱۴۰۸ھ	۱۴۰۵ھ	مولانا عرفان اللہ صاحب گوٹھوی، مبلغ	۲۳
تاحال	۱۴۰۹ھ	مولانا محمد یامین صاحب مظفرنگری، مبلغ	۲۴
تاحال	۱۴۱۲ھ	مولانا محمد عرفان صاحب بہرائچی، مبلغ	۲۵
۱۴۲۰ھ	۱۴۱۲ھ	مولانا محمد راشد صاحب مظفرنگری، مبلغ	۲۶

ذمہ داران دفتر تعلیمات

۱	منشی محمد عزیز صاحب دیوبندی، منصرم دفتر	۱۳۸۲ھ	۱۳۱۸ھ
۲	منشی سید اسعد حسین صاحب دیوبندی، منصرم	۱۳۱۹ھ	۱۳۳۵ھ
۳	مولوی عشرت علی صاحب دیوبندی، منصرم	۱۳۳۵ھ	۱۳۳۷ھ
۴	مولوی محمد فیضان صاحب پورنوی، چارج	۱۳۳۷ھ	۱۳۴۱ھ
۵	مولوی محمد زاہد صاحب منوی، چارج	۱۳۴۱ھ	تاحال

شیخ الہند اکیڈمی

۱	حضرت مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی، ڈائریکٹر	۱۳۰۳ھ	۱۳۰۵ھ
۲	حضرت مولانا ریاست علی صاحب بجنوری	۱۳۰۶ھ	۱۳۱۵ھ
۲	حضرت مولانا قاضی اطہر صاحب مبارک پوری، اعزازی ڈائریکٹر	۱۳۰۶ھ	۱۳۱۷ھ
۳	مولانا حکیم عزیز الرحمن صاحب اعظمی، محقق	۱۳۰۷ھ	۱۳۰۹ھ
۴	حضرت مولانا بدرالدین اجمل قاسمی، ڈائریکٹر	۱۳۱۵ھ	تاحال
۵	مولانا کفیل احمد علوی صاحب کیرانوی، ناظم شعبہ	۱۳۱۶ھ	۱۳۳۸ھ
۶	مولانا عبدالحفیظ صاحب رحمانی، محقق	۱۳۲۴ھ	۱۳۲۶ھ
۷	مولانا محمد سلمان صاحب بجنوری، نگران	۱۳۳۸ھ	۱۳۴۰ھ
۸	مولانا عمران اللہ صاحب غازی آبادی، نگران	۱۳۴۰ھ	تاحال
۹	مولانا محمد سلیمان صاحب خوشحال پوری، معلم	۱۳۴۰ھ	تاحال

شعبہ تحفظ ختم نبوت

۱	حضرت مولانا قاری محمد عثمان صاحب منصور پوری، ناظم	۱۳۰۷ھ	تاحال
۲	مولانا شاہ عالم صاحب گورکھ پوری، نائب ناظم	۱۳۱۷ھ	تاحال
۳	مولانا اشتیاق احمد صاحب مہراج گنجی، مبلغ	۱۳۲۷ھ	تاحال

شعبہ ردعیسانیت

۱	حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی، ناظم	۱۳۲۱ھ	۱۳۲۸ھ
۲	مولانا مشیر احمد صاحب دینانچ پوری، نائب ناظم	۱۳۲۲ھ	۱۳۲۸ھ
۳	مولانا صلاح الدین صاحب کٹیہاری، مترجم	۱۳۲۴ھ	۱۳۳۲ھ
۴	مولانا محمد صداقت قاسمی مظفرنگری، ناظم	۱۳۴۰ھ	تاحال

شعبہ تحفظ سنت

۱	مولانا مفتی محمد راشد صاحب اعظمی، ناظم	۱۳۲۸ھ	تاحال
---	--	-------	-------

رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ

۱	مولانا شوکت علی قاسمی بستوی، ناظم	۱۳۱۵ھ	تاحال
---	-----------------------------------	-------	-------

شعبہ ترتیب فتاویٰ

۱	مولانا احمد علی سعید صاحب گکینوی، مرتب فتاویٰ	۱۳۷۲ھ	۱۳۷۵ھ
۲	مولانا مفتی جمیل الرحمن سیوہاروی	۱۳۷۵ھ	۱۳۷۶ھ
۳	مولانا مفتی ظفر الدین صاحب درہنگوی	۱۳۷۶ھ	۱۴۰۲ھ
۴	مولانا مفتی محمد امین صاحب پالن پوری	۱۳۲۷ھ	تاحال
۵	مولانا عبدالسلام صاحب قاسمی، نگران کمپوزنگ	۱۳۲۷ھ	تاحال

معالجین عظمت ہسپتال

۱	مولانا حکیم محمد عمر صاحب دیوبندی	۱۳۰۶ھ	۱۳۱۵ھ
۲	حکیم انیس احمد صاحب دیوبندی	۱۳۰۶ھ	۱۳۱۵ھ
۳	حکیم شمیم احمد صاحب سعیدی میرٹھی	۱۳۰۶ھ	۱۳۱۱ھ
۴	مولانا حکیم نفیس احمد صاحب خانجماں پوری	۱۳۰۶ھ	۱۳۳۵ھ
۵	مولانا حکیم ظہیر احمد صاحب فیض آبادی، طبیب	۱۳۱۶ھ	۱۳۳۷ھ

۶	مولانا ڈاکٹر عبید الرحمن صاحب لکھیم پوری، طیب (تقرر: ۱۴۱۰ھ)	۱۴۳۵ھ	تاحال
۷	حضرت مولانا محمد احمد صاحب فیض آبادی، طیب (تقرر: ۱۴۱۱ھ)	۱۴۳۹ھ	تاحال

نگراں دفتر دارالافتاء

۱	مولانا معین الدین صاحب بھاگل پوری (تقرر: ۱۴۰۵ھ)	۱۴۳۸ھ	تاحال
---	---	-------	-------

شعبہ انٹرنیٹ و آن لائن فتویٰ

۱	مولانا محمد اللہ صاحب فیض آبادی (تقرر: ۱۴۲۵ھ)	کوآرڈینیٹر	۱۴۲۶ھ	تاحال
۲	مولانا عبد البہادی صاحب بستوی (تقرر: ۱۴۲۰ھ)	ٹیلنٹیشن	۱۴۳۲ھ	تاحال
۳	مولانا حسین احمد صاحب امبیڈ کرنگری (تقرر: ۱۴۲۹ھ)	ٹرانسلیٹر	۱۴۳۲ھ	تاحال
۴	مولانا صلاح الدین صاحب کٹیہاری (تقرر: ۱۴۲۳ھ)	ٹرانسلیٹر	۱۴۳۲ھ	تاحال

شعبہ کمپیوٹر برائے کتابت

۱	مولانا ظہیر الحسن صاحب اعظمی (تقرر: ۱۴۲۱ھ)	ٹیلنٹیشن	۱۴۳۳ھ	تاحال
---	--	----------	-------	-------

شعبہ برقیات

۱	پیر جی محمد عمر صاحب گنگوہی	۱۳۷۲ھ	۱۳۷۹ھ
۲	مولانا محمد اسلم صاحب قاسمی دیوبندی	۱۳۷۹ھ	۱۴۰۲ھ
۳	مولوی محمد ارشاد صاحب عثمانی دیوبندی	۱۴۰۳ھ	۱۴۱۸ھ
۴	مولوی عبدالولی صاحب مظفرنگری	۱۴۲۵ھ	۱۴۲۶ھ
۵	حافظ محمد اسلم صاحب دیوبندی (تقرر: ۱۴۲۶ھ)	۱۴۳۱ھ	تاحال

شعبہ مہمان خانہ

۱	قاری انعام الہی صاحب	۱۳۸۶ھ	۱۳۹۶ھ
۲	حافظ شمیم احمد صاحب	۱۳۹۷ھ	۱۴۰۳ھ

۳	منشی مسعود احمد صاحب	۱۴۰۷ھ	۱۴۰۷ھ
۴	مولانا معین الدین صاحب بھاگل پوری	۱۴۰۸ھ	۱۴۳۸ھ
۵	مولانا مقیم الدین صاحب بانکوی (تقرر: ۱۴۱۶ھ)	۱۴۳۸ھ	تاحال

شعبہ نشر و اشاعت / مکتبہ دارالعلوم

۱	مولانا محمد اسلم صاحب قاسمی دیوبندی، ناظم	نشر و اشاعت	۱۳۸۵ھ	۱۳۹۶ھ
۲	منشی محمد اظہر صاحب دیوبندی، مینیجر	دارالعلوم پریس	۱۳۹۵ھ	۱۴۰۲ھ
۳	مولانا شفیق الرحمن صاحب میرٹھی، ناظم	نشر و اشاعت	۱۴۰۵ھ	۱۴۰۷ھ
۴	منشی انیس احمد صاحب دیوبندی، ناظم	نشر و اشاعت	۱۴۰۷ھ	۱۴۱۴ھ
۵	منشی حافظ جواد صاحب دیوبندی، ناظم	نشر و اشاعت	۱۴۱۲ھ	۱۴۱۶ھ
۶	مولانا محمد اسحاق صاحب فیض آبادی (چارچ)	مکتبہ دارالعلوم	۱۴۰۷ھ	۱۴۱۶ھ
۷	منشی حافظ جواد صاحب دیوبندی، ناظم	مکتبہ دارالعلوم	۱۴۱۷ھ	۱۴۲۰ھ
۸	جناب محمد شاداب صاحب دیوبندی (چارچ)	مکتبہ دارالعلوم	۱۴۲۰ھ	۱۴۲۸ھ
۹	مولانا عثمان غنی صاحب دیوبندی (تقرر: ۱۴۱۶ھ)	مکتبہ دارالعلوم	۱۴۲۹ھ	تاحال

شعبہ خریداری و اشاک روم

۱	مولوی عبدالولی صاحب مظفر نگری، انچارج	خریداری	۱۴۱۹ھ	۱۴۲۴ھ
۲	منشی انیس احمد صاحب، منصرم	اشاک روم	۱۴۲۲ھ	۱۴۲۴ھ
۳	مولانا فضیل احمد صاحب بھاگل پوری، منصرم	خریداری	۱۴۳۳ھ	تاحال
۴	مولانا مسیح اللہ صاحب گونڈوی، چارج	اشاک روم	۱۴۳۳ھ	تاحال

شعبہ صفائی و چمن بندی

۱	منشی ضمیر احمد خان صاحب، انچارج	۱۴۲۳ھ	۱۴۳۱ھ
۲	منشی عمر فاروق صاحب، انچارج	۱۴۳۲ھ	۱۴۳۷ھ
۳	منشی محمد اشفاق صاحب، اضافی چارج	۱۴۳۹ھ	تاحال

نقشہ تطبیق سن ہجری و عیسوی

۱۲۸۳-۱۲۸۴ھ / ۱۸۶۶-۲۰۲۰ء

1	یکم محرم	۱۲۸۳ھ	=	۱۶ مئی	۱۸۶۶ء	چہار شنبہ
2	یکم محرم	۱۲۸۴ھ	=	۱۵ مئی	۱۸۶۷ء	یک شنبہ
3	یکم محرم	۱۲۸۵ھ	=	۲۳ اپریل	۱۸۶۸ء	جمعہ
4	یکم محرم	۱۲۸۶ھ	=	۱۳ اپریل	۱۸۶۹ء	سہ شنبہ
5	یکم محرم	۱۲۸۷ھ	=	۲ اپریل	۱۸۷۰ء	یک شنبہ
6	یکم محرم	۱۲۸۸ھ	=	۲۳ مارچ	۱۸۷۱ء	پنج شنبہ
7	یکم محرم	۱۲۸۹ھ	=	۱۱ مارچ	۱۸۷۲ء	دو شنبہ
8	یکم محرم	۱۲۹۰ھ	=	یکم مارچ	۱۸۷۳ء	شنبہ
9	یکم محرم	۱۲۹۱ھ	=	۱۸ فروری	۱۸۷۴ء	چہار شنبہ
10	یکم محرم	۱۲۹۲ھ	=	۷ فروری	۱۸۷۵ء	یک شنبہ
11	یکم محرم	۱۲۹۳ھ	=	۲۸ جنوری	۱۸۷۶ء	جمعہ
12	یکم محرم	۱۲۹۴ھ	=	۱۶ جنوری	۱۸۷۷ء	سہ شنبہ
13	یکم محرم	۱۲۹۵ھ	=	۵ جنوری	۱۸۷۸ء	شنبہ
14	یکم محرم	۱۲۹۶ھ	=	۲۶ دسمبر	۱۸۷۸ء	پنج شنبہ
15	یکم محرم	۱۲۹۷ھ	=	۱۵ دسمبر	۱۸۷۹ء	دو شنبہ
16	یکم محرم	۱۲۹۸ھ	=	۴ دسمبر	۱۸۸۰ء	شنبہ
17	یکم محرم	۱۲۹۹ھ	=	۲۳ نومبر	۱۸۸۱ء	چہار شنبہ
18	یکم محرم	۱۳۰۰ھ	=	۱۲ نومبر	۱۸۸۲ء	یک شنبہ
19	یکم محرم	۱۳۰۱ھ	=	۲ نومبر	۱۸۸۳ء	جمعہ

شنبه	۱۸۸۴ء	۲۱ اکتوبر	=	۱۳۰۲ھ	یکم محرم	20
یکشنبه	۱۸۸۵ء	۱۱ اکتوبر	=	۱۳۰۳ھ	یکم محرم	21
پنجشنبه	۱۸۸۶ء	۳۰ ستمبر	=	۱۳۰۴ھ	یکم محرم	22
دوشنبه	۱۸۸۷ء	۱۹ ستمبر	=	۱۳۰۵ھ	یکم محرم	23
شنبه	۱۸۸۸ء	۸ ستمبر	=	۱۳۰۶ھ	یکم محرم	24
چهارشنبه	۱۸۸۹ء	۲۸ اگست	=	۱۳۰۷ھ	یکم محرم	25
دوشنبه	۱۸۹۰ء	۱۶ اگست	=	۱۳۰۸ھ	یکم محرم	26
جمعہ	۱۸۹۱ء	۵ اگست	=	۱۳۰۹ھ	یکم محرم	27
شنبه	۱۸۹۲ء	۲۶ جولائی	=	۱۳۱۰ھ	یکم محرم	28
یکشنبه	۱۸۹۳ء	۱۶ جولائی	=	۱۳۱۱ھ	یکم محرم	29
پنجشنبه	۱۸۹۴ء	۵ جولائی	=	۱۳۱۲ھ	یکم محرم	30
دوشنبه	۱۸۹۵ء	۲۴ جون	=	۱۳۱۳ھ	یکم محرم	31
شنبه	۱۸۹۶ء	۱۳ جون	=	۱۳۱۴ھ	یکم محرم	32
چهارشنبه	۱۸۹۷ء	۲ جون	=	۱۳۱۵ھ	یکم محرم	33
دوشنبه	۱۸۹۸ء	۲۳ مئی	=	۱۳۱۶ھ	یکم محرم	34
جمعہ	۱۸۹۹ء	۱۲ مئی	=	۱۳۱۷ھ	یکم محرم	35
شنبه	۱۹۰۰ء	یکم مئی	=	۱۳۱۸ھ	یکم محرم	36
یکشنبه	۱۹۰۱ء	۲۱ اپریل	=	۱۳۱۹ھ	یکم محرم	37
پنجشنبه	۱۹۰۲ء	۱۰ اپریل	=	۱۳۲۰ھ	یکم محرم	38
دوشنبه	۱۹۰۳ء	۳۰ مارچ	=	۱۳۲۱ھ	یکم محرم	39
شنبه	۱۹۰۴ء	۱۹ مارچ	=	۱۳۲۲ھ	یکم محرم	40
چهارشنبه	۱۹۰۵ء	۸ مارچ	=	۱۳۲۳ھ	یکم محرم	41
یکشنبه	۱۹۰۶ء	۲۵ فروری	=	۱۳۲۴ھ	یکم محرم	42
جمعہ	۱۹۰۷ء	۱۵ فروری	=	۱۳۲۵ھ	یکم محرم	43
شنبه	۱۹۰۸ء	۴ فروری	=	۱۳۲۶ھ	یکم محرم	44

یکشنبہ	۱۹۰۹ء	۲۴ جنوری	=	۱۳۲۷ھ	یکم محرم	45
پنشنبہ	۱۹۱۰ء	۱۳ جنوری	=	۱۳۲۸ھ	یکم محرم	46
دوشنبہ	۱۹۱۱ء	۲ جنوری	=	۱۳۲۹ھ	یکم محرم	47
شنبہ	۱۹۱۱ء	۲۳ دسمبر	=	۱۳۳۰ھ	یکم محرم	48
چهارشنبہ	۱۹۱۲ء	۱۱ دسمبر	=	۱۳۳۱ھ	یکم محرم	49
یکشنبہ	۱۹۱۳ء	۳۰ نومبر	=	۱۳۳۲ھ	یکم محرم	50
جمعہ	۱۹۱۴ء	۲۰ نومبر	=	۱۳۳۳ھ	یکم محرم	51
سہ شنبہ	۱۹۱۵ء	۹ نومبر	=	۱۳۳۴ھ	یکم محرم	52
شنبہ	۱۹۱۶ء	۲۸ اکتوبر	=	۱۳۳۵ھ	یکم محرم	53
پنشنبہ	۱۹۱۷ء	۱۸ اکتوبر	=	۱۳۳۶ھ	یکم محرم	54
دوشنبہ	۱۹۱۸ء	۷ اکتوبر	=	۱۳۳۷ھ	یکم محرم	55
شنبہ	۱۹۱۹ء	۲۷ ستمبر	=	۱۳۳۸ھ	یکم محرم	56
چهارشنبہ	۱۹۲۰ء	۱۵ ستمبر	=	۱۳۳۹ھ	یکم محرم	57
یکشنبہ	۱۹۲۱ء	۴ ستمبر	=	۱۳۴۰ھ	یکم محرم	58
جمعہ	۱۹۲۲ء	۲۵ اگست	=	۱۳۴۱ھ	یکم محرم	59
سہ شنبہ	۱۹۲۳ء	۱۴ اگست	=	۱۳۴۲ھ	یکم محرم	60
شنبہ	۱۹۲۴ء	۲ اگست	=	۱۳۴۳ھ	یکم محرم	61
پنشنبہ	۱۹۲۵ء	۲۳ جولائی	=	۱۳۴۴ھ	یکم محرم	62
دوشنبہ	۱۹۲۶ء	۱۲ جولائی	=	۱۳۴۵ھ	یکم محرم	63
شنبہ	۱۹۲۷ء	۲ جولائی	=	۱۳۴۶ھ	یکم محرم	64
چهارشنبہ	۱۹۲۸ء	۲۰ جون	=	۱۳۴۷ھ	یکم محرم	65
یکشنبہ	۱۹۲۹ء	۹ جون	=	۱۳۴۸ھ	یکم محرم	66
جمعہ	۱۹۳۰ء	۳۰ مئی	=	۱۳۴۹ھ	یکم محرم	67
سہ شنبہ	۱۹۳۱ء	۱۹ مئی	=	۱۳۵۰ھ	یکم محرم	68
شنبہ	۱۹۳۲ء	۷ مئی	=	۱۳۵۱ھ	یکم محرم	69

پنجشنبه	۱۹۳۳ء	۲۷/اپریل	=	۱۳۵۲ھ	کیم محرم	70
دوشنبه	۱۹۳۴ء	۱۶/اپریل	=	۱۳۵۳ھ	کیم محرم	71
جمعہ	۱۹۳۵ء	۵/اپریل	=	۱۳۵۴ھ	کیم محرم	72
چهارشنبه	۱۹۳۶ء	۲۵/مارچ	=	۱۳۵۵ھ	کیم محرم	73
یکشنبه	۱۹۳۷ء	۱۴/مارچ	=	۱۳۵۶ھ	کیم محرم	74
جمعہ	۱۹۳۸ء	۴/مارچ	=	۱۳۵۷ھ	کیم محرم	75
سه شنبه	۱۹۳۹ء	۲۱/فروردی	=	۱۳۵۸ھ	کیم محرم	76
شنبه	۱۹۴۰ء	۱۰/فروردی	=	۱۳۵۹ھ	کیم محرم	77
پنجشنبه	۱۹۴۱ء	۳۰/جنوری	=	۱۳۶۹ھ	کیم محرم	78
دوشنبه	۱۹۴۲ء	۱۹/جنوری	=	۱۳۶۱ھ	کیم محرم	79
جمعہ	۱۹۴۳ء	۸/جنوری	=	۱۳۶۲ھ	کیم محرم	80
چهارشنبه	۱۹۴۳ء	۲۹/دسمبر	=	۱۳۶۳ھ	کیم محرم	81
یکشنبه	۱۹۴۴ء	۱۷/دسمبر	=	۱۳۶۴ھ	کیم محرم	82
پنجشنبه	۱۹۴۵ء	۶/دسمبر	=	۱۳۶۵ھ	کیم محرم	83
سه شنبه	۱۹۴۶ء	۲۶/نومبر	=	۱۳۶۶ھ	کیم محرم	84
شنبه	۱۹۴۷ء	۱۵/نومبر	=	۱۳۶۷ھ	کیم محرم	85
پنجشنبه	۱۹۴۸ء	۴/نومبر	=	۱۳۶۸ھ	کیم محرم	86
دوشنبه	۱۹۴۹ء	۲۴/اکتوبر	=	۱۳۶۹ھ	کیم محرم	87
جمعہ	۱۹۵۰ء	۱۳/اکتوبر	=	۱۳۷۰ھ	کیم محرم	88
چهارشنبه	۱۹۵۱ء	۳/اکتوبر	=	۱۳۷۱ھ	کیم محرم	89
یکشنبه	۱۹۵۲ء	۲۱/ستمبر	=	۱۳۷۲ھ	کیم محرم	90
پنجشنبه	۱۹۵۳ء	۱۰/ستمبر	=	۱۳۷۳ھ	کیم محرم	91
سه شنبه	۱۹۵۴ء	۳۱/اگست	=	۱۳۷۴ھ	کیم محرم	92
شنبه	۱۹۵۵ء	۲۰/اگست	=	۱۳۷۵ھ	کیم محرم	93
پنجشنبه	۱۹۵۶ء	۹/اگست	=	۱۳۷۶ھ	کیم محرم	94

دوشنبہ	۱۹۵۷ء	۲۹ جولائی	=	۱۳۷۷ھ	کیم محرم	95
جمعہ	۱۹۵۸ء	۱۸ جولائی	=	۱۳۷۸ھ	کیم محرم	96
چهار شنبہ	۱۹۵۹ء	۸ جولائی	=	۱۳۷۹ھ	کیم محرم	97
یکشنبہ	۱۹۶۰ء	۲۶ جون	=	۱۳۸۰ھ	کیم محرم	98
پنجشنبہ	۱۹۶۱ء	۱۵ جون	=	۱۳۸۱ھ	کیم محرم	99
سہ شنبہ	۱۹۶۲ء	۵ جون	=	۱۳۸۲ھ	کیم محرم	100
شنبہ	۱۹۶۳ء	۲۵ مئی	=	۱۳۸۳ھ	کیم محرم	101
چهار شنبہ	۱۹۶۴ء	۱۳ مئی	=	۱۳۸۴ھ	کیم محرم	102
دوشنبہ	۱۹۶۵ء	۳ مئی	=	۱۳۸۵ھ	کیم محرم	103
جمعہ	۱۹۶۶ء	۲۲ اپریل	=	۱۳۸۶ھ	کیم محرم	104
چهار شنبہ	۱۹۶۷ء	۱۲ اپریل	=	۱۳۸۷ھ	کیم محرم	105
یکشنبہ	۱۹۶۸ء	۳۱ مارچ	=	۱۳۸۸ھ	کیم محرم	106
پنجشنبہ	۱۹۶۹ء	۲۰ مارچ	=	۱۳۸۹ھ	کیم محرم	107
سہ شنبہ	۱۹۷۰ء	۱۰ مارچ	=	۱۳۹۰ھ	کیم محرم	108
شنبہ	۱۹۷۱ء	۲۷ فروری	=	۱۳۹۱ھ	کیم محرم	109
چهار شنبہ	۱۹۷۲ء	۱۶ فروری	=	۱۳۹۲ھ	کیم محرم	110
دوشنبہ	۱۹۷۳ء	۵ فروری	=	۱۳۹۳ھ	کیم محرم	111
جمعہ	۱۹۷۴ء	۲۵ جنوری	=	۱۳۹۴ھ	کیم محرم	112
سہ شنبہ	۱۹۷۵ء	۱۴ جنوری	=	۱۳۹۵ھ	کیم محرم	113
یکشنبہ	۱۹۷۶ء	۴ جنوری	=	۱۳۹۶ھ	کیم محرم	114
پنجشنبہ	۱۹۷۶ء	۲۳ دسمبر	=	۱۳۹۷ھ	کیم محرم	115
سہ شنبہ	۱۹۷۷ء	۱۳ دسمبر	=	۱۳۹۸ھ	کیم محرم	116
شنبہ	۱۹۷۸ء	۲ دسمبر	=	۱۳۹۹ھ	کیم محرم	117
چهار شنبہ	۱۹۷۹ء	۲۱ نومبر	=	۱۴۰۰ھ	کیم محرم	118
دوشنبہ	۱۹۸۰ء	۱۰ نومبر	=	۱۴۰۱ھ	کیم محرم	119

جمعه	۱۹۸۱ء	۳۰ اکتوبر	=	۱۴۰۲ھ	یکم محرم	120
شنبه	۱۹۸۲ء	۱۹ اکتوبر	=	۱۴۰۳ھ	یکم محرم	121
یکشنبه	۱۹۸۳ء	۹ اکتوبر	=	۱۴۰۴ھ	یکم محرم	122
پنجشنبه	۱۹۸۴ء	۲۷ ستمبر	=	۱۴۰۵ھ	یکم محرم	123
شنبه	۱۹۸۵ء	۱۷ ستمبر	=	۱۴۰۶ھ	یکم محرم	124
شنبه	۱۹۸۶ء	۶ ستمبر	=	۱۴۰۷ھ	یکم محرم	125
چهارشنبه	۱۹۸۷ء	۲۶ اگست	=	۱۴۰۸ھ	یکم محرم	126
دوشنبه	۱۹۸۸ء	۱۵ اگست	=	۱۴۰۹ھ	یکم محرم	127
جمعه	۱۹۸۹ء	۴ اگست	=	۱۴۱۰ھ	یکم محرم	128
شنبه	۱۹۹۰ء	۲۳ جولائی	=	۱۴۱۱ھ	یکم محرم	129
یکشنبه	۱۹۹۱ء	۱۴ جولائی	=	۱۴۱۲ھ	یکم محرم	130
پنجشنبه	۱۹۹۲ء	۲ جولائی	=	۱۴۱۳ھ	یکم محرم	131
دوشنبه	۱۹۹۳ء	۲۱ جون	=	۱۴۱۴ھ	یکم محرم	132
شنبه	۱۹۹۴ء	۱۱ جون	=	۱۴۱۵ھ	یکم محرم	133
چهارشنبه	۱۹۹۵ء	۳۱ مئی	=	۱۴۱۶ھ	یکم محرم	134
دوشنبه	۱۹۹۶ء	۲۰ مئی	=	۱۴۱۷ھ	یکم محرم	135
جمعه	۱۹۹۷ء	۹ مئی	=	۱۴۱۸ھ	یکم محرم	136
شنبه	۱۹۹۸ء	۲۸ اپریل	=	۱۴۱۹ھ	یکم محرم	137
یکشنبه	۱۹۹۹ء	۱۸ اپریل	=	۱۴۲۰ھ	یکم محرم	138
پنجشنبه	۲۰۰۰ء	۶ اپریل	=	۱۴۲۱ھ	یکم محرم	139
دوشنبه	۲۰۰۱ء	۲۶ مارچ	=	۱۴۲۲ھ	یکم محرم	140
شنبه	۲۰۰۲ء	۱۶ مارچ	=	۱۴۲۳ھ	یکم محرم	141
چهارشنبه	۲۰۰۳ء	۵ مارچ	=	۱۴۲۴ھ	یکم محرم	142
یکشنبه	۲۰۰۴ء	۲۲ فروری	=	۱۴۲۵ھ	یکم محرم	143
جمعه	۲۰۰۵ء	۱۱ فروری	=	۱۴۲۶ھ	یکم محرم	144

۱۴۵	کیم محرم	۱۴۲۷ھ	=	۳۱ جنوری	۲۰۰۶ء	سہ شنبہ
۱۴۶	کیم محرم	۱۴۲۸ھ	=	۲۱ جنوری	۲۰۰۷ء	یکشنبہ
۱۴۷	کیم محرم	۱۴۲۹ھ	=	۱۰ جنوری	۲۰۰۸ء	پنجشنبہ
۱۴۸	کیم محرم	۱۴۳۰ھ	=	۲۹ دسمبر	۲۰۰۸ء	دوشنبہ
۱۴۹	کیم محرم	۱۴۳۱ھ	=	۱۹ دسمبر	۲۰۰۹ء	شنبہ
۱۵۰	کیم محرم	۱۴۳۲ھ	=	۸ دسمبر	۲۰۱۰ء	چهارشنبہ
۱۵۱	کیم محرم	۱۴۳۳ھ	=	۲۷ نومبر	۲۰۱۱ء	یکشنبہ
۱۵۲	کیم محرم	۱۴۳۴ھ	=	۱۶ نومبر	۲۰۱۲ء	جمعہ
۱۵۳	کیم محرم	۱۴۳۵ھ	=	۶ نومبر	۲۰۱۳ء	چهارشنبہ
۱۵۴	کیم محرم	۱۴۳۶ھ	=	۲۶ اکتوبر	۲۰۱۴ء	یکشنبہ
۱۵۵	کیم محرم	۱۴۳۷ھ	=	۱۵ اکتوبر	۲۰۱۵ء	سہ شنبہ
۱۵۶	کیم محرم	۱۴۳۸ھ	=	۳ اکتوبر	۲۰۱۶ء	دوشنبہ
۱۵۷	کیم محرم	۱۴۳۹ھ	=	۲۲ ستمبر	۲۰۱۷ء	جمعہ
۱۵۸	کیم محرم	۱۴۴۰ھ	=	۱۲ ستمبر	۲۰۱۸ء	چهارشنبہ
۱۵۹	کیم محرم	۱۴۴۱ھ	=	کیم ستمبر	۲۰۱۹ء	یکشنبہ
۱۶۰	کیم محرم	۱۴۴۲ھ	=	۲۱ اگست	۲۰۲۰ء	جمعہ

ماخذ و مراجع

بنیادی ماخذ:

- ۱ اشتہار قیام مدرسہ و چندہ، مطبوعہ مع روداد ۱۲۸۳ھ ہجری
- ۲ اعلان مطبوعہ مطبع مجتہبی دہلی، مع روداد بابت ۱۳۰۶ھ
- ۳ اعمال نامہ ملازمین دارالعلوم دیوبند، محفوظ محفوظ خانہ، دارالعلوم دیوبند
- ۴ المہدیۃ السنیۃ فی ذکر المدرستہ الاسلامیۃ الدیوبندیۃ، حضرت مولانا ذوالفقار علی دیوبندی، مکتبہ محمودیہ لاہور، عکس اشاعت ۱۳۰۷ھ
- ۵ پندرہ روزہ آئینہ دارالعلوم کی فائلیں (۱۳۰۶ھ تا ۱۳۳۰ھ) شیخ الہند اکیڈمی، دارالعلوم دیوبند
- ۶ تاریخ دارالعلوم دیوبند، سید محبوب رضوی، ادارہ اہتمام دارالعلوم دیوبند، جلد اول ۱۹۹۲ء، جلد دوم ۱۹۹۳ء
- ۷ دارالعلوم دیوبند: شاندار ماضی، تابناک حال اور روشن مستقبل، شعبہ نشر و اشاعت، دارالعلوم دیوبند، ۱۳۱۵ھ
- ۸ دارالعلوم دیوبند: خدمات، حالات، منصوبے، مولانا محمد سلمان بجنوری، دفتر رابطہ مدارس عربیہ، ۱۳۱۹ھ
- ۹ دارالعلوم دیوبند: تعارف، خدمات، منصوبے، مولانا شوکت علی قاسمی بستوی، دفتر رابطہ مدارس عربیہ، ۱۳۲۵ھ
- ۱۰ دارالعلوم دیوبند: بنیادی اصول و مسلک، حضرت قاری محمد طیب، دفتر اجلاس صد سالہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۹۸۰ء
- ۱۱ دارالعلوم دیوبند کا قضیہ عوام کی عدالت میں، مولانا محمد منظور نعمانی، شائع کردہ دفتر اہتمام دارالعلوم دیوبند، ۱۹۸۲ء
- ۱۲ دارالعلوم دیوبند کی صد سالہ زندگی، حضرت قاری محمد طیب، دفتر اہتمام دارالعلوم دیوبند، جون ۱۹۶۵ء
- ۱۳ دارالعلوم دیوبند کے ۱۱۶ ارسال، دفتر اجلاس صد سالہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۹۸۰ء
- ۱۴ دارالعلوم دیوبند کے ۱۱ ارسال، دفتر اجلاس صد سالہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۹۸۰ء
- ۱۵ دارالعلوم میں طب کے سو سال اور جامعہ طبیہ دارالعلوم دیوبند کا اجمالی تعارف، شائع کردہ: دفتر جامعہ طبیہ دارالعلوم دیوبند، ۱۳۰۰ھ/۱۹۸۰ء
- ۱۶ دستور اساسی دارالعلوم دیوبند، دفتر اہتمام دارالعلوم دیوبند، جون ۱۹۷۳ء (مع ترمیمات مجلس شوری)
- ۱۷ رجسٹر کتب اکابر (غیر مطبوعہ)، کتب خانہ دارالعلوم دیوبند

- ۱۸ رجسٹر ہائے پروویڈنٹ و ویلفیئر فنڈ (غیر مطبوعہ) از ۱۳۹۹ھ تا ۱۴۲۰ھ، دفتر محاسبی، دارالعلوم دیوبند
- ۱۹ روداد سال بست و ہشتم مدرسہ اسلامی عربی دیوبند بابت ۱۳۱۰ھ
- ۲۰ روداد سالانہ مدرسہ اسلامیہ عربیہ دیوبند، بابت ۱۳۳۹ھ
- ۲۱ روداد سالانہ مدرسہ عربیہ دیوبند، بابت ۱۳۲۲ھ
- ۲۲ روداد مدرسہ عربی دیوبند بابت سال ۱۲۸۲ھ
- ۲۳ روداد ہائے دارالعلوم دیوبند از ۱۳۸۳ھ تا ۱۳۹۸ھ، شائع کردہ دارالعلوم دیوبند
- ۲۴ سوانح قاسمی (دو جلدیں)، حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی، شعبہ نشر و اشاعت دارالعلوم دیوبند، مطبوعہ ۱۹۵۴ء
- ۲۵ فہرست جملہ حضرات اساتذہ و کارکنان دارالعلوم دیوبند (غیر مطبوعہ)، محافظ خانہ دارالعلوم دیوبند، ۱۳۲۷ھ
- ۲۶ قواعد داخلہ، دفتر تعلیمات، دارالعلوم دیوبند، بابت ۳۷-۱۳۳۶ھ
- ۲۷ کارروائی رجسٹر اجلاسہائے مجلس شوری از ۱۴۰۲ھ تا حال (غیر مطبوعہ)، محفوظ محافظ خانہ، دارالعلوم دیوبند
- ۲۸ کارروائی رجسٹر اجلاسہائے مجلس عاملہ از ۱۴۰۲ھ تا حال (غیر مطبوعہ)، محفوظ محافظ خانہ، دارالعلوم دیوبند
- ۲۹ کیفیت جلسہ دستار بندی مدرسہ عربی اسلامی دیوبند، بابت ۱۳۰۱ھ
- ۳۰ کیفیت مدرسہ عربی دیوبند، بابت ۱۲۸۳ھ ہجری
- ۳۱ ماہنامہ الداعی (دارالعلوم دیوبند) کی فائلیں (از ۱۳۹۶ھ تا ۱۴۲۰ھ)
- ۳۲ ماہنامہ القاسم، دارالعلوم نمبر، دارالعلوم دیوبند، محرم ۱۳۳۷ھ
- ۳۳ ماہنامہ دارالعلوم (اردو) کی فائلیں (۱۳۹۴ھ تا ۱۴۲۰ھ)، دفتر ماہنامہ دارالعلوم
- ۳۴ مختصر روداد اجلاس صد سالہ، محمد اظہر صدیقی، دفتر اجلاس صد سالہ دارالعلوم دیوبند
- ۳۵ نظام الاوقات، اجلاس صد سالہ دارالعلوم دیوبند، شائع کردہ دفتر اجلاس صد سالہ، دارالعلوم دیوبند
- ۳۶ نقشہائے اسباق (غیر مطبوعہ)، دفتر تعلیمات، دارالعلوم دیوبند

کتاب متعلقہ دارالعلوم و دیگر:

- ۱ الثقافة الاسلامیة فی الہند، مولانا حکیم سید عبدالحمید لکھنوی، مجمع الملتی العربیة دمشق، ۱۹۸۳ء
- ۲ انار کے درخت تلے، مولانا محمد منصور احمد، مکتبہ الشہداء، کراچی، ۱۴۳۰ھ
- ۳ انڈیا انڈر کولونیل رول، ڈوگلس ایم پیٹرس ۱۷۰۰ء-۱۸۸۵ء، راؤنڈ ٹیبل برطانیہ ۲۰۰۶ء
- ۴ اودھ میں افتاء کے مراکز، ڈاکٹر اشتیاق احمد اعظمی، دارالعلوم منو ۲۰۰۹ء

- ۵ برصغیر میں علم فقہ، محمد اسحاق بھٹی، فضلی بک کراچی ۲۰۰۹ء
- ۶ برطانوی ہند میں مسلمانوں کا نظام تعلیم: ایک ناقدانہ جائزہ - دارالعلوم دیوبند، ڈاکٹر رشید احمد جان ندھری، مکتبۃ الاتحاد دیوبند
- ۷ بزم سجاد کا تعارف نامہ، ناشر: سجاد لاہوری، سن طباعت ۱۴۳۸ھ مطابق ۲۰۱۷ء
- ۸ پاجاسراغ زندگی، مولانا ابوالحسن علی ندوی، مجلس تحقیقات و نشریات اسلام لکھنؤ
- ۹ تاریخ دیوبند، سید محبوب رضوی، علمی مرکز دیوبند، ۱۹۷۲ء
- ۱۰ تحریک ریشمی رومال (ریشمی خطوط سازش کیس)، مولانا محمد میاں دیوبندی، مکتبہ جاوید دیوبند، ۲۰۰۲ء
- ۱۱ تذکرہ علمائے فرنگی محل، مولانا محمد عنایت اللہ فرنگی محلی، اشاعت العلوم برقی پریس فرنگی محل لکھنؤ
- ۱۲ تذکرہ مفسرین ہند، محمد عارف اعظمی عمری، دارالمصنفین اعظم گڑھ، ۲۰۰۶ء
- ۱۳ جہان دیدہ، حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی، ادارۃ المعارف کراچی، ۱۴۱۰ھ
- ۱۴ دارالعلوم دیوبند: احیائے اسلام کی عظیم تحریک، مولانا نظام الدین اسیر ادروی، دارالمؤلفین دیوبند، ۲۰۰۸ء
- ۱۵ دارالعلوم دیوبند کا صحافتی منظر نامہ، نایاب حسن قاسمی، ادارہ تحقیق اسلامی دیوبند، ۲۰۱۳ء
- ۱۶ دارالعلوم دیوبند کی تعلیمی خصوصیات، سید محبوب رضوی، ادارہ تاریخ دیوبند، ۱۳۷۳ھ
- ۱۷ دارالعلوم دیوبند کے ابتدائی نقوش (ترجمہ الہدیۃ السنیۃ) از مولانا محمد ساجد قاسمی، مکتبہ دارالعلوم دیوبند
- ۱۸ سلاسل طیبہ، حضرت مولانا حسین احمد مدنی، ادارہ اسلامیات، لاہور
- ۱۹ علماء دیوبند و خدامتہم فی علم الحدیث، الدکتور عبدالرحمن البرنی، شیخ الہند اکیڈمی دارالعلوم دیوبند، ۱۹۹۸ء
- ۲۰ علمائے دیوبند دینی رخ اور مسلکی مزاج، حضرت قاری محمد طیب، ادارہ اسلامیات، لاہور، ۱۹۸۸ء
- ۲۱ علمائے ہند کا شاندار ماضی، حضرت مولانا محمد میاں دیوبندی، جمعیتہ پبلیکیشنز لاہور، ۲۰۱۰ء
- ۲۲ فرنگیوں کا جال، امداد صابری، دہلی، ۱۹۷۹ء
- ۲۳ فضلاء دیوبند کی فقہی خدمات، آفتاب غازی قاسمی و عبدالحسین قاسمی، کتب خانہ نعیمیہ دیوبند، ۲۰۱۱ء
- ۲۴ مبشرات دارالعلوم، انوار الحسن ہاشمی، بحوالہ خطبہ صدارت مولانا محمد طیب صاحب جلسہ انعام ۱۳۶۶ھ
- ۲۵ مثنوی فروغ، مولانا عبدالکریم فروغ دیوبندی، ادارہ اہتمام دارالعلوم دیوبند، ۱۹۷۸ء
- ۲۶ مسلمانوں کا روشن مستقبل، سید طفیل احمد منگلوری علیگ، عزیزیدہ دہلی، ۱۹۴۵ء
- ۲۷ مقالات حبیب (تین جلدیں)، مولانا حبیب الرحمن قاسمی اعظمی، شیخ الہند اکیڈمی، دارالعلوم دیوبند، ۲۰۰۹ء
- ۲۸ موج کوثر، شیخ محمد اکرام، فرید بک ڈپو دہلی، ۲۰۰۳ء
- ۲۹ مومن قوم اپنی تاریخ کے آئینے میں، مفتی محمد پالن پوری ڈینڈولوی، مطبوعہ ۱۹۹۸ء

- ۳۰ نقش حیات، حضرت مولانا حسین احمد مدنی، دارالاشاعت کراچی
- ۳۱ ہندوستان کی قدیم اسلامی درس گاہیں، ابوالحسنات ندوی، وکیل بک ڈپو امرتسر ۱۳۳۱ھ
- ۳۲ ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں کے عہد کے تمدنی کارنامے، دارالمصنفین اعظم گڑھ، ۱۹۹۵ء
- ۳۳ ہندوستانی مسلمان، مولانا سید ابوالحسن علی ندوی، مجلس تحقیقات و نشریات اسلام لکھنؤ ۱۹۹۲ء
- ۳۴ ہندوستانی مفسرین اور ان کی تفسیریں، ڈاکٹر محمد سالم قدوائی، ادارہ معارف اسلامی لاہور ۱۹۹۳ء

سوانحی کتب:

- ۱ اکابر علمائے دیوبند، حافظ محمد اکبر شاہ بخاری، ادارہ اسلامیات لاہور، ۱۹۹۹ء
- ۲ تذکرہ فدائے ملت، (مجموعہ مقالات)، مرتب: مفتی محمد سلمان منصور پوری، جمعیتہ علمائے ہند ۲۰۱۲ء
- ۳ تذکرہ مولانا حکیم ڈاکٹر سید عبدالعلی، مولانا ابوالحسن علی ندوی، مطبوعہ سید احمد شہید اکیڈمی
- ۴ تذکرہ علمائے اعظم گڑھ، مولانا حبیب الرحمن قاسمی اعظمی، مرکز دعوت و تحقیق دیوبند، ۲۰۱۲ء
- ۵ تذکرہ العابدین، نذیر احمد دیوبندی، مطبوعہ دہلی ۱۳۳۳ھ
- ۶ حضرت شیخ الہند: حیات اور کارنامے، مولانا اسیر ادروی، شیخ الہند اکیڈمی، دارالعلوم دیوبند، ۱۹۹۸ء
- ۷ حیات ابوالہماثر، ڈاکٹر مسعود احمد اعظمی، مرکز تحقیقات و خدمات علمیہ منو ۲۰۱۱ء
- ۸ حیات سعید، مولانا مفتی محمد امین پالن پوری، مکتبہ حجاز دیوبند ۲۰۲۰ء
- ۹ حیات فریدی، مولانا محبت الحق، مرکز علم و ادب مدھوبنی ۲۰۱۶ء
- ۱۰ حیات مجاہد، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، فرید بک ڈپو، ۲۰۰۲ء
- ۱۱ حیات ظفر، مرتب: پروفیسر محمد سعید عالم قاسمی، ایف اے پبلیکیشنز، دہلی ۲۰۱۱ء
- ۱۲ دارالعلوم اور دیوبند کی تاریخی شخصیات، مولانا خورشید حسن قاسمی، مکتبہ تفسیر القرآن دیوبند
- ۱۳ دارالعلوم کی پچاس مثالی شخصیات، حکیم الاسلام قاری محمد طیب، جمع و ترتیب: حافظ محمد اکبر شاہ بخاری، دارالکتاب دیوبند، ۱۹۹۸ء
- ۱۴ ذکر رفتگان، مولانا مفتی محمد سلمان منصور پوری، مراد آباد، ۲۰۰۵ء
- ۱۵ سوانح مفکر اسلام، بلال عبدالحی حسنی، سید احمد شہید اکیڈمی، ۱۳۳۵ھ
- ۱۶ سیرت یعقوب و مملوک، مولانا محمد انوار الحسن شیرکوٹی، دارالعلوم کراچی ۱۹۷۳ء، ص ۱۵ تا ۹۵
- ۱۷ علماء و مشائخ آسام، اول (شہباز قدس)، مولانا عبد الجلیل رانجی، نوری اسلامی فاؤنڈیشن نوگاؤں آسام، ۲۰۰۷ء

- ۱۸ علمائے مظاہر علوم سہارن پور اور ان کی علمی و تصنیفی خدمات (چار جلدیں)، مولانا سید محمد شاہد سہارن پوری، مکتبہ یادگار شیخ سہارن پور ۲۰۰۵ء
- ۱۹ قاسم العلوم حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ، احوال و آثار، و باقیات و متعلقات، مولانا نور الحسن راشد کاندھلوی، مکتبہ نور کاندھلہ، ۲۰۰۰ء
- ۲۰ کاروانِ رفتہ، اسیر ادروی، دارالمؤلفین دیوبند ۱۹۹۴ء
- ۲۱ مختصر سوانح حضرت نانوتویؒ، حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی، ص ۳۹ مطبوعہ مع سوانح قاسمی
- ۲۲ مشاہدات و تاثرات سوانح حضرت مولانا حمید الدین فیض آبادی، مرتبہ مفتی محمد سلمان منصور پوری، مکتبہ ندائے شاہی مراد آباد ۱۹۹۸ء
- ۲۳ مشاہیر علماء و مشائخ آسام، جلد چہارم، مولانا عبدالجلیل رائی، نوری اسلامی فاؤنڈیشن نوگاؤں آسام، ۲۰۱۴ء
- ۲۴ مشاہیر علمائے دارالعلوم دیوبند، مولانا مفتی محمد ظفر الدین مفتاحی، دفتر اجلاس صد سالہ، دارالعلوم دیوبند ۱۹۸۰ء
- ۲۵ مشاہیر علمائے دیوبند، قاری فیوض الرحمن، مکتبہ عزیز ییلہ ہور، ۱۹۷۶ء
- ۲۶ مفتی محمود ایک قومی راہنما، مرتبہ محمد فاروق قریشی، مطبوعہ مفتی محمود اکیڈمی کراچی
- ۲۷ مفتی محمود کی علمی، دینی اور سیاسی خدمات، ڈاکٹر عبدالکیم اکبری، مکتبہ الحمید ڈیرہ اسماعیل خاں ۲۰۱۰ء
- ۲۸ مولانا رشید احمد گنگوہیؒ: حیات اور کارنامے، مولانا اسیر ادروی، شیخ الہند اکیڈمی، دارالعلوم دیوبند، ۱۹۹۷ء
- ۲۹ مولانا محمد قاسم نانوتویؒ: حیات اور کارنامے، مولانا اسیر ادروی، شیخ الہند اکیڈمی، دارالعلوم دیوبند، ۱۹۹۷ء
- ۳۰ نزہۃ الخواطر، مولانا حکیم سید عبداللہی، دارالمن حزم بیروت، ج ۸
- ۳۱ نقوش حیات: سوانح حضرت مولانا نصیر احمد خان، خلیل الرحمن برنی قاسمی
- ۳۲ نقوش رفتگان، مولانا مفتی تقی عثمانی، فرید بک ڈپو، ۱۴۱۴ھ
- ۳۳ وفیات ناموران پاکستان، ڈاکٹر محمد منیر احمد سلیم، اردو سائنس بورڈ لاہور ۲۰۰۶ء
- ۳۴ وہ کوہ کن کی بات، مولانا نور عالم خلیل امینی، ادارہ علم و ادب، دیوبند، ۲۰۰۰ء
- ۳۵ یاد رفتگان، علامہ سید سلیمان ندویؒ، مجلس نشریات اسلام، کراچی

رسائل و جرائد اور خصوصی شمارے:

- ۱ دارالعلوم دیوبند: ایک اجمالی تعارف، ماہنامہ دارالعلوم، نومبر و دسمبر ۱۹۹۴ء
- ۲ روزنامہ الجمعیتہ دہلی، دارالعلوم دیوبند نمبر مارچ ۱۹۸۰ء
- ۳ سہ ماہی المدارس الاسلامیہ، دارالعلوم دیوبند، رمضان تا ذوالقعدہ ۱۴۰۴ھ

- ۴ سہ ماہی سراج الاسلام مئو، مولانا زین العابدین اعظمی خصوصی اشاعت، نومبر تا جنوری ۲۰۱۴ء
- ۵ سہ ماہی نوائے وقت مئو، ڈاکٹر محمد مصطفیٰ الاعظمی خصوصی شمارہ، اپریل تا دسمبر ۲۰۱۸ء
- ۶ ماہنامہ الرشید لاہور، دارالعلوم نمبر، جامعہ رشیدیہ ساہیوال پاکستان، فروری مارچ ۱۹۷۶ء
- ۷ ماہنامہ الفرقان لکھنؤ، فریدی نمبر، مئی تا اگست ۱۹۸۹ء
- ۸ ماہنامہ الفرقان، مولانا محمد منظور نعمانی، رمضان و شوال ۱۳۶۱ھ
- ۹ ماہنامہ پیغام محمود دیوبند، خدمات دارالعلوم دیوبند نمبر، اپریل مئی ۱۹۹۸ء
- ۱۰ ماہنامہ پیغام، پورہ معروف مئو، مولانا زین العابدین اعظمی نمبر، جنوری تا مارچ ۲۰۱۴ء
- ۱۱ ہفت روزہ الجمعیتہ نئی دہلی، امیر الہند نمبر، مارچ ۲۰۱۱ء
- ۱۲ ہفت روزہ الجمعیتہ نئی دہلی، جمعیتہ علماء نمبر، شائع شدہ بہ موقع ۲۵ رواں اجلاس عام ممبئی ۱۹۹۵ء
- ۱۳ ہفت روزہ الجمعیتہ نئی دہلی، فدائے ملت نمبر، اپریل ۲۰۰۷ء
- ۱۴ ہفت روزہ الجمعیتہ نئی دہلی، مولانا ریاست علی ظفر بجنوری نمبر، اکتوبر ۲۰۱۷ء
- ۱۵ ہفت روزہ الجمعیتہ نئی دہلی، یادگار مجلہ، فروری ۲۰۰۶ء

اکابر و علمائے دارالعلوم کا اشاریہ

آٹھویں باب میں دارالعلوم دیوبند کے جن اکابر و علماء کے حالات ذکر کیے گئے ہیں، تلاش میں سہولت و آسانی کے لیے حروف تہجی کے اعتبار سے ان کا اشاریہ پیش خدمت ہے:

صفحہ	وفات	ولادت	اسمائے گرامی	حضرت مولانا
۶۱۹	۱۹۹۹ء/۱۳۲۰ھ	۱۹۱۳ء/۱۳۳۳ھ	ابوالحسن علی ندوی	حضرت مولانا
۶۶۲	با حیات	۱۹۳۷ء/۱۳۶۶ھ	ابوالقاسم نعمانی	حضرت مولانا مفتی
۷۱۳	۱۹۵۱ء/۱۳۷۱ھ	۱۸۹۲ء/۱۳۱۱ھ	احسان اللہ خان تاجور	حضرت مولانا
۷۱۲	۱۹۵۱ء/۱۳۷۱ھ	۱۸۸۰ء/۱۲۹۸ھ	احمد بزرگ سورتی	حضرت مولانا
۵۶۳	۱۹۱۲ء/۱۳۳۰ھ	۱۸۵۱ء/۱۲۶۷ھ	احمد حسن امر وہوی	حضرت مولانا
۶۷۴	با حیات	۱۹۳۶ء/۱۳۶۵ھ	احمد خان پوری	حضرت مولانا مفتی
۶۰۹	۱۹۵۹ء/۱۳۷۹ھ	۱۸۸۸ء/۱۳۰۵ھ	احمد سعید دہلوی	حضرت مولانا
۷۳۶	۲۰۰۰ء/۱۳۲۱ھ	۱۹۱۹ء/۱۳۳۷ھ	احمد علی آسامی	حضرت مولانا
۶۲۶	۱۹۷۷ء/۱۳۹۷ھ	۱۸۹۸ء/۱۳۱۶ھ	اختر حسین دیوبندی	حضرت مولانا سید
۶۶۳	با حیات	۱۹۳۱ء/۱۳۶۰ھ	ارشاد مدنی	حضرت مولانا
۶۶۸	۲۰۱۷ء/۱۴۳۸ھ	۱۹۲۳ء/۱۳۴۲ھ	ازہر نعمانی	حضرت مولانا
۶۷۶	۲۰۱۸ء/۱۴۴۰ھ	۱۹۳۲ء/۱۳۶۱ھ	اسرار الحق قاسمی	حضرت مولانا
۶۶۶	۲۰۰۶ء/۱۳۲۷ھ	۱۹۲۸ء/۱۳۴۶ھ	اسعد مدنی	حضرت مولانا
۶۳۶	۱۹۷۲ء/۱۳۹۲ھ	۱۹۰۴ء/۱۳۲۲ھ	اسلام الحق اعظمی	حضرت مولانا
۷۱۷	۱۹۵۹ء/۱۳۷۹ھ	۱۸۹۸ء/۱۳۱۶ھ	اسماعیل بسم اللہ سورتی	حضرت مولانا مفتی
۵۳۵	۱۹۴۳ء/۱۳۶۲ھ	۱۸۶۳ء/۱۲۸۰ھ	اشرف علی تھانوی	حضرت مولانا
۷۳۴	نامعلوم	نامعلوم	اشرف علی کمر لائی	حضرت مولانا
۵۷۲	۱۹۴۴ء/۱۳۶۳ھ	۱۸۷۷ء/۱۲۹۴ھ	اصغر حسین دیوبندی	حضرت مولانا
۷۲۵	۱۹۷۶ء/۱۳۹۶ھ	۱۸۹۱ء/۱۳۰۹ھ	اطہر علی سلہٹی	حضرت مولانا

۶۹۰	۱۳۱۷ھ/۱۹۹۶ء	۱۳۳۳ھ/۱۹۱۶ء	اطہر مبارکپوری	حضرت مولانا قاضی
۵۵۸	۱۳۷۴ھ/۱۹۵۵ء	۱۳۰۰ھ/۱۸۸۲ء	اعزاز علی امر وہوی	حضرت مولانا
۶۹۷	۱۳۳۸ھ/۱۹۲۰ء	۱۲۸۳ھ/۱۸۶۶ء	امین الدین دہلوی	حضرت مولانا
۶۷۸	باجیات	۱۳۶۵ھ/۱۹۴۶ء	انظر حسین دیوبندی	حضرت مولانا
۶۷۵	باجیات	۱۳۷۶ھ/۱۹۵۷ء	انوار الرحمن بجنوری	حضرت مولانا
۵۴۰	۱۳۵۲ھ/۱۹۳۳ء	۱۲۹۲ھ/۱۸۷۵ء	انور شاہ کشمیری	حضرت علامہ
۶۶۹	باجیات	۱۳۷۴ھ/۱۹۵۵ء	بدر الدین اجمل	حضرت مولانا
۵۷۷	۱۳۸۵ھ/۱۹۶۵ء	۱۳۱۶ھ/۱۸۹۸ء	بدر عالم میرٹھی	حضرت مولانا
۶۳۱	۱۳۸۶ھ/۱۹۶۶ء	نامعلوم	بشیر احمد خاں باند شہری	حضرت مولانا
۷۱۱	۱۳۶۷ھ/۱۹۴۸ء	۱۲۸۲ھ/۱۸۶۵ء	ثناء اللہ امرتسری	حضرت مولانا
۶۹۱	۱۳۴۰ھ/۲۰۱۹ء	۱۳۶۹ھ/۱۹۵۰ء	جمیل احمد سکروڈوی	حضرت مولانا
۵۶۶	۱۳۵۵ھ/۱۹۳۶ء	نامعلوم	جمیل الدین گکینوی	حضرت مولانا حکیم
۶۴۰	۱۳۱۳ھ/۱۹۹۲ء	۱۳۲۷ھ/۱۹۰۹ء	حامد الانصاری قازی	حضرت مولانا
۶۸۸	باجیات	۱۳۵۲ھ/۱۹۳۳ء	حبیب الرحمن خیر آبادی	حضرت مولانا مفتی
۵۳۲	۱۳۳۸ھ/۱۹۲۹ء	نامعلوم	حبیب الرحمن عثمانی	حضرت مولانا
۶۸۶	باجیات	۱۳۶۲ھ/۱۹۴۲ء	حبیب الرحمن قاسمی اعظمی	حضرت مولانا
۷۱۶	۱۳۷۶ھ/۱۹۵۶ء	۱۳۱۰ھ/۱۸۹۲ء	حبیب الرحمن لدھیانوی	حضرت مولانا
۶۱۵	۱۳۱۲ھ/۱۹۹۲ء	۱۳۱۹ھ/۱۹۰۱ء	حبیب الرحمن محدث اعظمی	حضرت مولانا
۵۴۴	۱۳۷۷ھ/۱۹۵۷ء	۱۲۹۶ھ/۱۸۷۹ء	حسین احمد منی	حضرت مولانا
۶۰۴	۱۳۸۲ھ/۱۹۶۲ء	۱۳۱۸ھ/۱۹۰۰ء	حفظ الرحمن سیوہاروی	حضرت مولانا
۶۲۱	۱۳۸۸ھ/۱۹۶۸ء	۱۳۲۸ھ/۱۹۱۰ء	حمید الدین فیض آبادی	حضرت مولانا
۵۴۴	۱۳۳۶ھ/۱۹۲۷ء	۱۲۶۹ھ/۱۸۵۲ء	خلیل احمد سہارن پور	حضرت مولانا
۶۷۱	۱۳۳۳ھ/۲۰۱۳ء	۱۳۴۷ھ/۱۹۲۹ء	خلیل حسین دیوبندی	حضرت مولانا
۷۱۹	۱۳۸۴ھ/۱۹۶۵ء	نامعلوم	خواجہ عبدالحی فاروقی	حضرت مولانا
۶۳۷	۱۳۳۳ھ/۲۰۱۲ء	۱۳۵۳ھ/۱۹۳۵ء	خورشید عالم دیوبندی	حضرت مولانا
۶۰۶	۱۳۹۰ھ/۱۹۷۰ء	۱۳۱۳ھ/۱۸۹۵ء	خیر محمد جالندھری	حضرت مولانا

۵۱۷	ء۱۹۰۵/ھ۱۳۲۲	ء۱۸۲۲/ھ۱۲۳۷	ذوالفقار علی دیوبندی	حضرت مولانا
۷۰۰	ء۱۹۲۹/ھ۱۳۳۷	نامعلوم	رحیم اللہ بجنوری	حضرت مولانا حکیم
۵۷۴	ء۱۹۷۱/ھ۱۳۹۱	ء۱۸۷۱/ھ۱۲۸۸	رسول خان ہزاروی	حضرت مولانا
۴۸۷	ء۱۹۰۵/ھ۱۳۲۳	ء۱۸۲۹/ھ۱۲۴۴	رشید احمد گنگوہی	حضرت مولانا
۷۳۷	ء۲۰۰۲/ھ۱۳۲۲	ء۱۹۲۲/ھ۱۳۳۱	رشید احمد لدھیانوی	حضرت مولانا مفتی
۴۹۸	ء۱۸۹۰/ھ۱۳۰۸	ء۱۸۳۶/ھ۱۲۵۲	رفیع الدین دیوبندی	حضرت مولانا
۶۸۳	ء۲۰۱۷/ھ۱۳۳۸	ء۱۹۴۰/۱۳۵۹	ریاست علی بجنوری	حضرت مولانا
۶۲۷	ء۱۹۴۳/ھ۱۳۶۲	نامعلوم	ریاض الدین بجنوری	حضرت مولانا مفتی
۶۸۲	ء۱۹۹۸/ھ۱۴۱۸	ء۱۹۳۵/ھ۱۳۵۴	زبیر احمد دیوبندی	حضرت مولانا
۷۴۰	ء۲۰۱۳/ھ۱۴۳۴	ء۱۹۳۲/ھ۱۳۵۱	زین العابدین اعظمی	حضرت مولانا
۶۲۲	ء۱۹۹۱/ھ۱۴۱۱	ء۱۹۱۰/ھ۱۳۲۸	زین العابدین سجاد میرٹھی	حضرت مولانا قاضی
۷۳۲	ء۱۹۹۰/ھ۱۴۱۱	ء۱۹۱۰/ھ۱۳۲۸	سجاد حسین کراچی	حضرت مولانا قاضی
۷۳۹	ء۲۰۰۹/ھ۱۴۳۰	ء۱۹۱۴/ھ۱۳۳۳	سرفراز خان صفدر	حضرت مولانا
۶۲۳	ء۱۹۸۵/ھ۱۴۰۵	ء۱۹۰۸/ھ۱۳۲۵	سعید احمد اکبر آبادی	حضرت مولانا
۶۵۹	ء۲۰۲۰/ھ۱۴۴۱	ء۱۹۴۰/ھ۱۳۶۰	سعید احمد پالن پوری	حضرت مولانا مفتی
۷۴۱	ء۲۰۱۷/ھ۱۴۳۸	ء۱۹۲۶/ھ۱۳۴۵	سلیم اللہ خان کراچی	حضرت مولانا
۶۱۱	ء۱۹۵۳/ھ۱۳۷۳	ء۱۸۸۴/ھ۱۳۰۲	سلیمان ندوی	حضرت مولانا
۵۰۵	ء۱۸۹۴/ھ۱۳۱۱	نامعلوم	سید احمد دہلوی	حضرت مولانا
۷۰۲	ء۱۹۳۹/ھ۱۳۵۸	ء۱۸۷۶/ھ۱۲۹۳	سید احمد فیض آبادی مدنی	حضرت مولانا
۶۳۵	ء۲۰۰۸/ھ۱۴۲۹	ء۱۹۲۹/ھ۱۳۴۷	سید انظر شاہ کشمیری	حضرت مولانا
۶۳۰	ء۱۹۶۱/ھ۱۳۸۱	ء۱۹۱۶/ھ۱۳۳۴	سید حسن دیوبندی	حضرت مولانا
۵۹۰	ء۱۹۷۲/ھ۱۳۹۲	ء۱۸۸۹/ھ۱۳۰۷	سید فخر الدین احمد	حضرت مولانا
۷۱۲	ء۱۹۵۰/ھ۱۳۶۹	ء۱۸۶۰/ھ۱۲۷۶	سیف الرحمن کابلی	حضرت مولانا
۷۲۷	ء۱۹۷۸/ھ۱۳۹۸	ء۱۸۹۳/ھ۱۳۱۱	شائق احمد عثمانی	حضرت مولانا
۵۵۰	ء۱۹۴۹/ھ۱۳۶۹	ء۱۸۸۷/ھ۱۳۰۵	شبیر احمد عثمانی	حضرت مولانا
۶۰۷	ء۱۹۶۸/ھ۱۳۸۸	ء۱۸۹۴/ھ۱۳۱۲	شبیر علی تھانوی	حضرت مولانا

۵۹۸	۱۹۷۷ھ/۱۳۹۷	۱۹۲۰ھ/۱۳۳۸	شریف حسن دیوبندی	حضرت مولانا
۶۲۹	۱۹۸۳ھ/۱۴۰۳	۱۹۰۰ھ/۱۳۱۸	شمس الحق پشاوری	حضرت مولانا
۷۲۳	۱۹۶۹ھ/۱۳۸۸	۱۹۱۰ھ/۱۳۲۸	شمس الحق فرید پوری	حضرت مولانا
۵۲۲	۱۹۲۵ھ/۱۳۴۴	نامعلوم	صدیق احمد انیسٹھوی	حضرت مولانا
۶۶۵	۱۹۹۷ھ/۱۴۱۸	۱۹۲۳ھ/۱۳۴۱	صدیق احمد باندوی	حضرت مولانا قاری
۶۷۹	۲۰۱۱ھ/۱۴۳۲	۱۹۲۶ھ/۱۳۴۴	ظفیر الدین مفتاحی	حضرت مولانا مفتی
۶۷۷	۱۹۶۳ھ/۱۳۸۳	۱۹۰۰ھ/۱۳۱۸	ظہور احمد دیوبندی	حضرت مولانا
۷۷۹	۱۹۱۳ھ/۱۳۳۱	۱۸۳۳ھ/۱۲۵۰	عابد حسین دیوبندی	حضرت حاجی
۷۲۵	۱۹۷۱ھ/۱۳۹۱	نامعلوم	عبدالحفیظ بلیاوی	حضرت مولانا
۶۸۴	۲۰۱۶ھ/۱۴۳۸	۱۹۲۸ھ/۱۳۴۶	عبدالحق اعظمی	حضرت مولانا
۶۳۲	۱۹۸۸ھ/۱۴۰۹	۱۹۰۹ھ/۱۳۲۷	عبدالحق اکوڑوی	حضرت مولانا
۶۲۴	۱۹۹۹ھ/۱۴۲۰	۱۹۰۷ھ/۱۳۲۵	عبدالحلیم جون پوری	حضرت مولانا
۶۸۹	با حیات	۱۹۵۰ھ/۱۳۶۹	عبدالحق سنہلی	حضرت مولانا
۶۸۴	با حیات	۱۹۵۰ھ/۱۳۶۹	عبدالحق مدرسی	حضرت مولانا
۷۱۰	۱۹۴۷ھ/۱۳۶۷	۱۸۶۰ھ/۱۲۷۷	عبدالرحمن امر وہوی	حضرت مولانا
۷۴۰	۱۹۶۵ھ/۱۳۸۵	۱۸۷۲ھ/۱۲۸۹	عبدالرحمن کیمبل پوری	حضرت مولانا
۵۱۳	۱۹۱۹ھ/۱۳۳۷	۱۸۵۵ھ/۱۲۷۲	عبدالرحیم رائے پوری	حضرت مولانا
۷۱۵	نامعلوم	نامعلوم	عبدالرزاق پشاوری	حضرت مولانا
۷۳۷	۲۰۰۱ھ/۱۴۲۱	۱۹۲۳ھ/۱۳۴۱	عبدالشکور ترمذی	حضرت مولانا
۶۳۴	۱۹۶۳ھ/۱۳۸۳	نامعلوم	عبدالشکور دیوبندی	حضرت مولانا
۶۷۷	با حیات	۱۹۵۲ھ/۱۳۷۲	عبدالصمد کالیکا پوری	حضرت مولانا
۷۰۳	۱۹۴۰ھ/۱۳۵۹	۱۸۸۴ھ/۱۳۰۱	عبدالعزیز سہالوی گوجرانوالوی	حضرت مولانا
۵۲۳	۱۹۲۸ھ/۱۳۴۷	نامعلوم	عبدالعلی میرٹھی	حضرت مولانا
۶۷۰	با حیات	۱۹۴۸ھ/۱۳۶۷	عبدالعظیم فاروقی	حضرت مولانا
۵۲۵	۱۹۲۸ھ/۱۳۴۷	نامعلوم	عبدالقدیر دیوبندی	حضرت مولانا
۶۹۹	۱۹۲۵ھ/۱۳۴۴	نامعلوم	عبداللہ انصاری انیسٹھوی	حضرت مولانا

۷۱۴	نامعلوم	نامعلوم	عبدالمجید سنبللی	حضرت مولانا
۶۹۹	۱۹۲۸ھ/۱۳۴۷ء	نامعلوم	عبدالמוمن دیوبندی	حضرت مولانا
۷۰۴	۱۹۴۱ھ/۱۳۶۰ء	۱۸۶۷ھ/۱۲۸۴ء	عبدالوہاب غازی پوری	حضرت مولانا حکیم
۶۳۱	۱۹۷۹ھ/۱۳۹۹ء	۱۹۱۱ھ/۱۳۲۹ء	عبدالاحد دیوبندی	حضرت مولانا
۶۲۸	۱۹۷۴ھ/۱۳۹۳ء	۱۸۹۵ھ/۱۳۱۳ء	عبدالحق عرف نافع گل پشاوری	حضرت مولانا
۵۷۲	۱۹۴۷ھ/۱۳۶۶ء	۱۸۷۸ھ/۱۲۹۵ء	عبدالسبع دیوبندی	حضرت مولانا
۶۱۹	۱۹۶۱ھ/۱۳۸۰ء	۱۸۹۳ھ/۱۳۱۱ء	عبدالعلی لکھنوی	حضرت مولانا ڈاکٹر
۶۰۴	۱۹۶۲ھ/۱۳۸۲ء	۱۸۷۸ھ/۱۲۹۵ء	عبدالقادر رائے پوری	حضرت مولانا شاہ
۷۰۷	۱۹۴۴ھ/۱۳۶۳ء	۱۸۷۹ھ/۱۲۹۶ء	عبداللہ سندھی	حضرت مولانا
۶۱۰	۱۹۸۴ھ/۱۴۰۴ء	۱۹۰۱ھ/۱۳۱۹ء	عتیق الرحمن عثمانی	حضرت مولانا مفتی
۷۳۱	۱۹۸۹ھ/۱۴۱۰ء	۱۸۸۹ھ/۱۳۰۷ء	عزیر گل پشاوری	حضرت مولانا
۵۵۴	۱۹۲۸ھ/۱۳۴۷ء	۱۸۵۸ھ/۱۲۷۵ء	عزیز الرحمن دیوبندی	حضرت مولانا
۶۵۷	۲۰۱۰ھ/۱۴۳۱ء	۱۹۴۰ھ/۱۳۵۹ء	غلام رسول خاموش	حضرت مولانا
۵۶۸	۱۹۱۸ھ/۱۳۳۷ء	۱۸۵۴ھ/۱۲۷۰ء	غلام رسول ہزاروی	حضرت مولانا
۷۲۹	۱۹۸۱ھ/۱۴۰۱ء	۱۸۹۶ھ/۱۳۱۴ء	غلام غوث ہزاروی	حضرت مولانا
۶۶۱	با حیات	۱۹۵۰ھ/۱۳۷۰ء	غلام محمد وستانوی	حضرت مولانا
۵۲۲	۱۹۰۴ھ/۱۳۲۲ء	نامعلوم	فتح محمد تھانوی	حضرت مولانا
۶۹۶	۱۸۹۷ھ/۱۳۱۵ء	نامعلوم	فخر الحسن گنگوہی	حضرت مولانا
۵۹۷	۱۹۸۱ھ/۱۴۰۱ء	۱۹۰۵ھ/۱۳۲۳ء	فخر الحسن مراد آبادی	حضرت مولانا
۵۱۸	۱۹۰۷ھ/۱۳۲۵ء	۱۸۳۲ھ/۱۲۴۷ء	فضل الرحمن دیوبندی	حضرت مولانا
۵۰۱	۱۸۹۸ھ/۱۳۱۵ء	نامعلوم	فضل حق دیوبندی	حضرت حاجی
۷۲۱	نامعلوم	نامعلوم	فضل ربی پشاوری	حضرت مولانا
۶۸۲	با حیات	۱۹۳۸ھ/۱۳۵۶ء	قمر الدین گورکھ پوری	حضرت مولانا
۷۰۵	۱۹۴۲ھ/۱۳۶۱ء	نامعلوم	کریم بخش سنبللی	حضرت مولانا
۶۰۲	۱۹۵۲ھ/۱۳۷۲ء	۱۸۷۵ھ/۱۲۹۲ء	کفایت اللہ دہلوی	حضرت مولانا مفتی
۶۳۰	نامعلوم	نامعلوم	کفایت اللہ گنگوہی	حضرت مولانا مفتی

۶۷۴	با حیات	۱۳۶۳ھ/۱۹۴۴ء	کلیم اللہ علی گڑھی	حضرت حکیم
۷۰۱		۱۳۵۳ھ/۱۹۳۵ء	نامعلوم	حضرت مولانا
۷۰۶		۱۳۶۱ھ/۱۹۴۲ء	۱۸۷۸ھ/۱۹۵۹ء	حضرت مولانا
۷۳۸		۱۳۲۳ھ/۲۰۰۲ء	۱۳۵۵ھ/۱۹۳۶ء	حضرت مولانا قاضی
۷۸۷	با حیات	۱۳۷۱ھ/۱۹۵۲ء	مجیب اللہ گونڈوی	حضرت مولانا
۷۳۷		۱۳۹۹ھ/۱۹۷۹ء	۱۳۲۹ھ/۱۹۱۱ء	حضرت سید
۵۸۷		۱۳۸۷ھ/۱۹۶۷ء	۱۳۰۲ھ/۱۸۸۷ء	حضرت مولانا علامہ
۶۹۰	با حیات	۱۳۵۱ھ/۱۹۳۲ء	محمد احمد فیض آبادی	حضرت مولانا
۵۲۸		۱۳۳۷ھ/۱۹۲۸ء	۱۲۷۹ھ/۱۸۶۲ء	حضرت مولانا حافظ
۵۷۴		۱۳۹۴ھ/۱۹۷۴ء	۱۳۱۸ھ/۱۹۰۰ء	حضرت مولانا
۵۶۷		۱۳۷۴ھ/۱۹۵۴ء	۱۲۸۱ھ/۱۸۶۴ء	حضرت مولانا حکیم
۶۷۲	با حیات	۱۳۸۲ھ/۱۹۶۲ء	محمد اسماعیل مالیکانوی	حضرت مولانا
۶۷۳	با حیات	۱۳۶۰ھ/۱۹۴۱ء	محمد اشتیاق مظفر پوری	حضرت مولانا
۶۰۱		۱۳۶۳ھ/۱۹۴۴ء	۱۳۰۳ھ/۱۸۸۵ء	حضرت مولانا
۶۸۸	با حیات	۱۳۷۱ھ/۱۹۵۲ء	محمد امین پالن پوری	حضرت مولانا مفتی
۷۱۸		۱۳۸۲ھ/۱۹۶۳ء	۱۳۲۲ھ/۱۹۰۴ء	حضرت مولانا
۶۲۸		۱۳۸۸ھ/۱۹۶۸ء	۱۳۱۸ھ/۱۹۰۰ء	حضرت مولانا
۷۳۰	نامعلوم	نامعلوم	محمد چراغ گجرانوالوی	حضرت مولانا
۷۱۷		۱۳۸۰ھ/۱۹۶۱ء	۱۲۹۵ھ/۱۸۷۸ء	حضرت مولانا مفتی
۵۶۸		۱۳۳۵ھ/۱۹۲۶ء	نامعلوم	حضرت مولانا حکیم
۶۷۹		۱۳۱۲ھ/۱۹۹۲ء	۱۳۲۱ھ/۱۹۰۳ء	حضرت مولانا
۶۷۲	با حیات	۱۳۴۸ھ/۱۹۲۹ء	محمد رابع حسنی	حضرت مولانا
۶۷۵	با حیات	۱۳۷۶ھ/۱۹۵۷ء	محمد رحمت اللہ کشمیری	حضرت مولانا
۷۳۵		۱۳۱۸ھ/۱۹۹۷ء	۱۳۳۱ھ/۱۹۱۳ء	حضرت مولانا قاضی
۶۱۴		۱۳۰۲ھ/۱۹۸۲ء	۱۳۱۵ھ/۱۸۹۸ء	حضرت مولانا
۶۳۵		۱۳۳۹ھ/۲۰۱۸ء	۱۳۴۴ھ/۱۹۲۶ء	حضرت مولانا

۵۷۰	۱۹۴۸ھ/۱۳۶۷ء	۱۸۷۰ھ/۱۲۸۷ء	محمد سہول بھاگلپوری	حضرت مولانا
۵۷۱	۱۹۷۶ھ/۱۳۹۶ء	۱۸۹۶ھ/۱۳۱۴ء	محمد شفیع دیوبندی	حضرت مولانا مفتی
۵۹۹	۱۹۵۳ھ/۱۳۷۲ء	۱۸۷۴ھ/۱۲۹۱ء	محمد صادق کراچی	حضرت مولانا
۷۳۳	۱۹۹۴ھ/۱۴۱۵ء	۱۹۲۲ھ/۱۳۴۰ء	محمد طاہر کلکتوی	حضرت مولانا
۶۷۱	۲۰۱۹ھ/۱۴۴۰ء	۱۹۴۱ھ/۱۳۶۰ء	محمد طلحہ کاندھلوی	حضرت مولانا
۵۸۲	۱۹۸۳ھ/۱۴۰۳ء	۱۸۹۷ھ/۱۳۱۵ء	محمد طیب قاسمی	حضرت مولانا قاری
۵۶۵	۱۹۴۳ھ/۱۳۶۲ء	۱۸۴۲ھ/۱۲۵۸ء	محمد عبدالحق پور قاضوی	حضرت مولانا
۶۶۵	۱۹۸۵ھ/۱۴۰۵ء	نامعلوم	محمد عثمان دیوبندی نواسہ شیخ الہند	حضرت مولانا
۶۸۶	با حیات	۱۹۴۴ھ/۱۳۶۳ء	محمد عثمان منصور پوری	حضرت مولانا قاری
۶۳۲	۱۹۷۵ھ/۱۳۹۵ء	۱۸۸۴ھ/۱۳۰۱ء	محمد فاروق امپٹھوی	حضرت مولانا مفتی
۴۶۷	۱۸۸۰ھ/۱۲۹۷ء	۱۸۳۲ھ/۱۲۴۸ء	محمد قاسم نانوتوی	حضرت مولانا
۵۲۱	۱۸۸۶ھ/۱۳۰۴ء	نامعلوم	محمد محمود دیوبندی	حضرت ملا
۵۶۶	۱۹۲۹ھ/۱۳۴۷ء	نامعلوم	محمد محی الدین مراد آبادی	حضرت مولانا قاضی
۶۹۶	۱۹۱۴ھ/۱۳۳۲ء	۱۸۴۵ھ/۱۲۶۲ء	محمد مراد فاروقی مظفرنگری	حضرت مولانا
۷۴۲	۲۰۱۷ھ/۱۴۳۹ء	۱۳۵۰ھ/۱۹۳۰ء	محمد مصطفیٰ الاعظمی	حضرت مولانا ڈاکٹر
۶۰۸	۱۹۹۷ھ/۱۴۱۷ء	۱۹۰۵ھ/۱۳۲۳ء	محمد منظور نعمانی	حضرت مولانا
۵۰۳	۱۹۰۳ھ/۱۳۲۱ء	۱۸۳۱ھ/۱۲۴۷ء	محمد منیر نانوتوی	حضرت مولانا
۶۱۲	۱۹۷۵ھ/۱۳۹۵ء	۱۹۰۳ھ/۱۳۲۱ء	محمد میاں دیوبندی	حضرت مولانا
۷۰۹	۱۹۴۶ھ/۱۳۶۵ء	نامعلوم	محمد میاں منصور انصاری	حضرت مولانا
۶۳۳	۲۰۰۷ھ/۱۴۲۸ء	۱۹۱۹ھ/۱۳۳۷ء	محمد نعیم دیوبندی	حضرت مولانا
۷۱۵	نامعلوم	نامعلوم	محمد یحییٰ سہرامی	حضرت مولانا
۶۶۸	۲۰۱۹ھ/۱۴۴۰ء	۱۹۳۴ھ/۱۳۵۳ء	محمد یعقوب مدراسی	حضرت مولانا
۴۹۲	۱۸۸۴ھ/۱۳۰۲ء	۱۸۳۳ھ/۱۲۴۹ء	محمد یعقوب نانوتوی	حضرت مولانا
۷۴۶	۱۹۷۷ھ/۱۳۹۷ء	۱۹۰۸ھ/۱۳۲۶ء	محمد یوسف بنوری	حضرت مولانا
۶۸۹	با حیات	۱۹۵۶ھ/۱۳۷۵ء	محمد یوسف تاؤلوی	حضرت مولانا مفتی
۷۲۳	۱۹۶۹ھ/۱۳۸۹ء	۱۸۹۶ھ/۱۳۱۳ء	محمد یوسف شاہ میر واعظ کشمیری	حضرت مولانا

۷۰۷	۱۹۴۴ھ/۱۳۶۳ء	نامعلوم	محمد یونس سرہندی ثم بریلوی	حضرت مولانا
۷۳۵	۱۹۹۷ھ/۱۴۱۸ء	۱۹۲۹ھ/۱۳۴۸ء	محمد عمر پالن پوری	حضرت مولانا
۷۱۶	۱۹۹۱ھ/۱۳۸۸ء	۱۸۹۳ھ/۱۳۱۰ء	محمود احمد نانوتوی	حضرت مولانا مفتی
۵۰۷	۱۹۴۰ھ/۱۳۳۹ء	۱۸۵۱ھ/۱۴۶۸ء	محمود حسن دیوبندی	شیخ الہند حضرت مولانا
۶۷۶	باجیات	۱۹۶۳ھ/۱۳۸۲ء	محمود حسن راجستھانی	حضرت مولانا
۶۵۲	۱۹۹۶ھ/۱۴۱۷ء	۱۹۰۷ھ/۱۳۲۵ء	محمود حسن گنگوہی	حضرت مولانا مفتی
۷۲۸	۱۹۸۰ھ/۱۴۰۰ء	۱۹۱۹ھ/۱۳۳۷ء	محمود سرحدی	حضرت مولانا مفتی
۵۶۹	۱۹۳۱ھ/۱۳۵۰ء	۱۸۶۸ھ/۱۲۸۵ء	مرتضیٰ حسن چاند پوری	حضرت مولانا
۶۴۲	۲۰۱۰ھ/۱۴۳۲ء	۱۹۱۳ھ/۱۳۳۳ء	مرغوب الرحمن بجنوری	حضرت مولانا
۶۲۶	۱۹۶۴ھ/۱۳۸۴ء	نامعلوم	مسعود احمد دیوبندی	حضرت مولانا قاضی
۷۳۲	۱۹۹۲ھ/۱۴۱۳ء	۱۹۱۲ھ/۱۳۳۰ء	مسیح اللہ خان جلال آبادی	حضرت مولانا
۶۱۳	۱۹۸۰ھ/۱۴۰۱ء	۱۸۹۷ھ/۱۳۱۵ء	مصطفیٰ حسن علوی	حضرت مولانا ڈاکٹر
۷۰۳	۱۹۳۸ھ/۱۳۵۸ء	نامعلوم	مظہر الدین شیرکوٹی	حضرت مولانا
۷۳۹	۲۰۰۴ھ/۱۴۲۴ء	۱۹۱۳ھ/۱۳۳۳ء	مظہر حسین چکوالی	حضرت مولانا قاضی
۶۴۷	۱۹۹۱ھ/۱۴۱۲ء	۱۹۱۰ھ/۱۳۲۸ء	معراج الحق دیوبندی	حضرت مولانا
۶۷۳	باجیات	۱۹۶۹ھ/۱۳۸۸ء	ملک محمد ابراہیم	حضرت مولانا
۶۰۰	۱۹۵۶ھ/۱۳۷۵ء	۱۸۹۴ھ/۱۳۱۰ء	مناظر حسن گیلانی	حضرت مولانا
۶۱۷	۱۹۹۱ھ/۱۴۱۱ء	۱۹۱۴ھ/۱۳۳۲ء	منت اللہ رحمانی	حضرت مولانا
۶۹۷	۱۹۱۸ھ/۱۳۳۷ء	نامعلوم	منصور علی خاں مراد آبادی	حضرت مولانا
۶۶۷	۲۰۱۹ھ/۱۴۴۱ء	۱۹۳۱ھ/۱۳۵۰ء	منظور احمد مظاہری	حضرت مولانا مفتی
۵۱۶	۱۸۸۷ھ/۱۳۰۴ء	نامعلوم	مہتاب علی دیوبندی	حضرت مولانا
۵۹۴	۱۹۷۶ھ/۱۳۹۶ء	۱۸۸۴ھ/۱۳۰۱ء	مہدی حسن شاہ جہانپوری	حضرت مولانا مفتی
۵۲۱	۱۹۰۷ھ/۱۳۲۵ء	۱۸۴۲ھ/۱۲۵۸ء	میر باز خان تھانوی	حضرت مولانا
۵۷۶	۱۹۷۳ھ/۱۳۹۳ء	۱۸۸۸ھ/۱۳۰۶ء	میرک شاہ کشمیری	حضرت مولانا
۶۹۸	۱۹۲۳ھ/۱۳۴۱ء	نامعلوم	ناظر حسن دیوبندی	حضرت مولانا
۵۷۱	۱۹۳۳ھ/۱۳۵۱ء	۱۸۷۹ھ/۱۴۹۶ء	نبیہ حسن دیوبندی	حضرت مولانا

۷۱۴	۱۳۷۱ھ/۱۹۵۲ء	نامعلوم	نجم الدین چہلمی	حضرت مولانا
۷۳۰	۱۴۰۹ھ/۱۹۸۸ء	۱۳۲۹ھ/۱۹۱۱ء	نسیم احمد فریدی امر وہوی	حضرت مولانا
۶۴۹	۱۴۳۱ھ/۲۰۱۰ء	۱۳۳۷ھ/۱۹۱۹ء	نصیر احمد خان بلند شہری	حضرت مولانا
۶۵۵	۱۴۲۰ھ/۲۰۰۰ء	۱۳۲۸ھ/۱۹۱۰ء	نظام الدین اعظمی	حضرت مولانا مفتی
۶۷۰	۱۴۳۷ھ/۲۰۱۵ء	۱۳۳۵ھ/۱۹۲۷ء	نظام الدین پٹنوی	حضرت مولانا
۶۷۷	با حیات	۱۳۸۷ھ/۱۹۶۷ء	نظام الدین خاموش	حضرت مولانا
۶۸۵	با حیات	۱۳۵۶ھ/۱۹۳۷ء	نعمت اللہ اعظمی	حضرت مولانا
۶۸۷	با حیات	۱۳۷۲ھ/۱۹۵۲ء	نور عالم خلیل امینی	حضرت مولانا
۵۱۹	۱۳۰۴ھ/۱۸۸۷ء	نامعلوم	نہال احمد دیوبندی	حضرت شیخ
۷۰۲	۱۳۵۵ھ/۱۹۳۶ء	نامعلوم	وارث حسن کوڑہ جہان آبادی	حضرت مولانا شاہ
۶۸۱	۱۳۱۵ھ/۱۹۹۵ء	۱۳۳۸ھ/۱۹۳۰ء	وحید الزماں کیرانوی	حضرت مولانا
۷۲۱	۱۳۸۷ھ/۱۹۶۷ء	۱۳۱۰ھ/۱۸۹۲ء	وصی اللہ فتح پوری ثم الہ آبادی	حضرت مولانا شاہ
۷۳۴	۱۳۱۵ھ/۱۹۹۵ء	۱۳۴۲ھ/۱۹۲۴ء	ولی حسن ٹونکی	حضرت مولانا مفتی

